

**Deutsch-arabisches
Handwörterbuch**



Deutsch-arabisches Handwörterbuch



Von

Dr. Ernst Harder



Heidelberg

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung

1903

**Alle Rechte, besonders das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen,
werden vorbehalten.**

Vorrede.

Während es mehrere brauchbare französisch-arabische Wörterbücher gibt, sind in dem einzigen deutsch-arabischen von **Wahrmund** zahlreiche Ausdrücke unsrer Muttersprache unberücksichtigt geblieben, auch trifft die arabische Übersetzung oft nicht völlig zu. Dabei ist bei den immer wachsenden Beziehungen zwischen Deutschland und dem Orient, wobei die arabische Schriftsprache die bedeutendste Vermittlerrolle spielt, ein derartiges Werk immer notwendiger geworden, da die Orientalen überall den lebhaften Wunsch hegen, unsre Sprache kennen zu lernen, ebenso wie wir uns oft genötigt sehen, im Verkehr mit den gebildeten Muslims, selbst anderen Stammes, das Arabische als die Sprache ihrer Religion zu verwenden.

Das vorliegende Wörterbuch, das vorwiegend praktischen Zwecken dienen soll, enthält fast dreimal soviel Stichwörter wie **Wahrmund**. Bei jedem Stichwort sind die gebräuchlichen Redensarten, in denen es verwendet wird, angegeben. Um den Umfang des Buches nicht zu sehr anschwellen zu lassen, sind die Erklärungen der verschiedenen Bedeutungen so kurz wie möglich, meist durch ein einziges Wort gefaßt. Diese werden auch dem Araber einen Fingerzeig geben, sobald er sich einen kleinen deutschen Wortschatz angeeignet hat. Der Kürze halber konnten auch die Wörter nicht sämtlich untereinander gesetzt, sondern mußten mit gleichen Vorsilben zusammengefaßt werden; wenn dabei auch die Übersichtlichkeit und leichte Auffindbarkeit etwas leidet, so war doch der Wunsch vorherrschend, das Buch durch keinen übermäßigen Preis auch minder wohlhabenden Kreisen zugänglich zu machen.

Zu Grunde gelegt ist die neuere arabische Schriftsprache, wie ich sie in meiner Grammatik*) als Sprache der Presse und der schriftlichen Äußerung der Gebildeten definiert habe, vulgäre Ausdrücke oder solche, welche als Fremd-

*) Arabische Konversations-Grammatik mit besonderer Berücksichtigung der Schriftsprache von Ernst Harder, Dr. phil. Mit einer Einführung von Professor Martin Hartmann, Lehrer des Arabischen am Orientalischen Seminar zu Berlin. Heidelberg. Julius Groos' Verlag. 1898.

wörter andern Sprachen entnommen sind, habe ich durch einen Stern * kenntlich gemacht. Bei jedem Wort sind die Vokalzeichen hinzugefügt außer bei den gewöhnlichsten Präpositionen und dem Artikel, ebenso ist das taschdid bei den sogenannten Sonnenbuchstaben fortgelassen.

Für den deutschen Wortschatz habe ich das große „deutsche Wörterbuch“ von Moriz Heyne in drei Bänden zu Grunde gelegt, auch eine große Anzahl Fremdwörter aufgenommen, die dem keiner europäischen Sprache kundigen Araber stets besondere Schwierigkeiten verursachen. — Für das Arabische benützte ich vor allem das vorzügliche Dictionnaire français-arabe von Belot in 2 Teilen, das wesentlich von praktischen Gesichtspunkten ausgeht, viele Übersetzungen sind auch aus Boethor und manche aus Gasselin entnommen, wenn ich auch dessen maghrebische Ausdrücke nicht berücksichtigen konnte. Ich selbst habe vielerlei bei der Lektüre von Zeitungen u. a. gesammelt, manche Redensarten teilte mir Professor Dr. Martin Hartmann mit, und sehr vieles habe ich den Lektoren am Orientalischen Seminar, Herren Hassan Taufik, Muhammad Nassar, Abderrahman Zaghul und Hamed Waly zu verdanken, gebildeten Ägyptern, die ihre Ausbildung in der Azhar-Moschee und im Dar El-Ulum genossen haben. Freilich ließen mich alle diese Hülfquellen nicht selten im Stich, besonders bei Übersetzung der Tier- und Pflanzennamen mußte ich mich oft damit begnügen, die arabischen Wörter, welche ich vorfand, einfach nebeneinander zu setzen, ohne ermitteln zu können, ob sie auch wirklich zutreffend waren. Ferner deckten sich vielfach die deutschen und arabischen Begriffe so wenig, daß mir ihre Umschreibung nur unvollkommen möglich war. Ich bin mir daher der zahlreichen Mängel des vorliegenden Werkes im einzelnen wohl bewußt, aber ich hoffe nur, daß im ganzen darin ein Fortschritt gegen das früher Vorhandene zu finden sein, der Gebrauch den Lernenden beider Völker zum Nutzen dienen, und dadurch die Beziehungen zwischen den beiden großen Kulturvölkern gefördert werden mögen!



Verzeichnis der Abkürzungen.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. = Adjektiv. acc. = Akkusativ. adv. = Adverb. äg. = ägyptisch. allg. = allgemein. anat. = Anatomie. ar. = arabisch. arch. = Architektur. arithm. = Arithmetik. astr. = Astronomie. aux., v. aux. = Hilfsverb. bld. = bildlich. bot. = Botanik. c. = cum (mit). cath. = katholisch. chem. = Chemie. christl. = christlich. coll. = Kollektivum. comm. = kommerziell. conj. = Konjunktion. daß. = dasselbe. dat. = Dativ. dem. = demonstrativ. dtsch. = deutsch. engl. = englisch. etc. = etcaetera. etw. = etwas (acc. der Sache). f. = Femininum. fam. = familiär. frz. = französisch. Gegtl. = Gegenteil. gen. = Genitiv. geogr. = Geographie. gr. = Grammatik. gr. = groß. imp. = impersonale.</p> | <p>impf. = Imperfektum. instr. = Instrument. interjet. = Interjektion. iron. = ironisch. jnt. = jemandem (dat. der Person). jn. = jemanden (acc. d. Pers.). jß. = jemandes (gen. d. Pers.). jur. = juristisch. kath. = katholisch. kl. = klein. lat. = lateinisch. log. = Logik. m. = Maskulinum. math. = Mathematik. med. = Medizin. metr. = Metrik. mil. = Militär. min. = Mineralogie. mor. = Moral. mus. = Musik. musl. = muslimisch. n. = Neutrum. naut. = Nautik. n. pr. = Nomen proprium. num. = Numerale. od. = oder. part. = Partikel. pers. = personale. phil. = Philosophie. phys. = Physik. pl. = Plural. poet. = poetisch. pop. = populär. poss. = possessivum. pr. = Pronomen.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

praep. = Präposition.
 rel. = relativ.
 relig. = Religion.
 f. = siehe.
 s. = Substantiv.
 stud. = studentisch.
 syr. = syrisch.
 theol. = Theologie.
 trennb. = trennbar.

türk. = türkisch.
 u. = und.
 untrennb. = untrennbar.
 v. = Verb.
 va. = Verbum activum.
 ver. = veraltet.
 vn. = Verbum neutrum.
 vulg. = vulgär.
 zool. = Zoologie.

Die mit einem Stern bezeichneten Wörter sind vulgär-arabisch.

Die Buchstaben (a, i, u) hinter den arabischen Verben bezeichnen den Vokal, mit welchem der zweite Radikal im Imperfektum ausgesprochen wird, z. B. u أَخَذَ bedeutet, daß das Imperfektum يَأْخُذُ lautet, etc.



a الحَرْفُ الْأَوَّلُ مِنْ حُرُوفِ الْوُجُودِ |
 das ʾl und das ʾl |
 الْأَبْتِدَاءِ وَالْأَنْتِهَاءِ.

ʾlal s. m. | سَمَكِ الْحَيَاتِ | جِرِّي |
 صَيْدِ الْجِرِّيِّ | -fang s. m. | أَنْقَلِيسِ |
 أَمَلَسَ | -glatt a. | مَحَلَّ صَيْدِ الْجِرِّيِّ |
 نَاعِمِ | كَالْجِرِّيِّ |

ʾlar s. m. poet. | نَسْرُ | pl. |
 Alder. | عُقَابِ | نُسُورِ |

ʾlas s. n. | جِيْفَةٌ | pl. | جِيْفِ | u. |
 أَجْيَافِ | -fliege s. f. | رِمَمِ | pl. |
 مَيْتَةٍ | ذُبَابَةٌ - eine | coll. |
 ذُبَابِ أَرْزَقِ | pl. | مَرْبَلَةٌ s. f. |
 أَذْبَةِ | u. | ذِبَابِ |
 -geier | مَسَالِحِ | pl. | مَسْلُحِ |
 مَرَابِلِ | عِقْبَانِ | u. |
 أَعْقَبِ | pl. | عُقَابِ | s. m. |
 خُنْفَسَاءِ | -läufer s. m. | جِيْفِيٍّ | a. |
 -ig | جُعْلَانِ | pl. | جُعَلِ |
 خُنَافِسِ | pl. |

ab adv. | مُقَرَّقًا (يَدُلُّ عَلَى التَّفْرِيقِ) |
 هذا - dieser Knopf ist |
 مَنزُوعًا | - Berlin |
 الزَّرَّ مَنزُوعٌ عَنِ الْمَلَابِسِ |

اِقْلَعِ الْبُرْتِيظَةَ! - Hut |
 مِنْ بَرْلِينِ |
 اِنْصَرَفَ (فِي الرِّوَايَاتِ) (- geht) -
 - und zu gehen |
 - أَحْيَانًا |
 -ändern, etw. va. |
 تَفَسَّحَ |
 تَرَدَّدَ |
 -änderung s. f. |
 غَيَّرَ ه |
 اتَّعَبَ نَفْسَهُ |
 -ängstigen, sich v. |
 اتَّعَبَ |
 -arbeiten, sich v. |
 بِالْخَوْفِ |
 نَفْسَهُ بِالشُّغْلِ |
 -ärgern, sich v. |
 اتَّعَبَ نَفْسَهُ بِالزَّعْلِ |
 -art s. f. |
 أَنْوَاعِ |
 -balgen (Tier) v. a. |
 pl. |
 أَنْوَعِ |
 -bau s. m. (eines
 a |
 حَيَوَانًا |
 Bergwerks) |
 -bauen |
 مَعْدِنٍ |
 (Bergwerk) va. |
 مَعْدِنًا |
 -befehlen, etw. va. |
 الْأَمْرِ |
 -beißten, etw. va. |
 ه |
 -bekommen |
 قَطَعَ |
 ه |
 بِالْأَسْنَانِ |
 -berufen jm. |
 ه |
 u. |
 -berufung s. f. |
 عَزَلِ |
 -bestellen, etw. va. |
 الْأَمْرِ |
 -bestellung s. f. |
 الْأَمْرِ |
 -beten, etw. va. |
 كَفَّرَ عَنِ |
 -bitteln |
 عَنِ |
 -berufen jm. etw. va. |
 مِنْهُ |
 حَصَلَ |

- bezahlen (Schuld) va. | بِالسُّوَالِ
 -biegen, etw. va. | وَفَى | بِالذَّيْنِ
 حاد i عن - | أَحَادَه | أَبْعَدَه
 صُورَة s. n. | ابْتَعَدَ | الطَّرِيقِ
 -bilden, jn. u. etw. | صُورَ | pl.
 مُصَوِّرٍ s. m. | صَوَّرَه وَه
 تَصَاوِيرٍ pl. | تَصَوَّيرٍ s. f. -bildung
 حَلَّ | ه | فَكَّ | ه u. -binden, etw. va.
 طَلَبَ العَفْوِ | اسْتَغْفَرَ s. f. -bitte
 -blasen | اسْتَغْفَرَ | jn. bitten
 - die Jagd va. | أَزَالَ النِّفْحَ | vn.
 أَبَوَقَ عِلَامَةً لِانْتِهَاءِ الصَّيْدِ | -blaffen
 | جَرَدَ * u. | ذَهَبَ | ا لَوْنُهُ | vn.
 -blitzen | تَفَرَّقَ كَالوَرَقِ | vn. blättern
 -blühen vn. | رَدَّ خَائِبًا | vn.
 -borgen, etw. va. | اسْلَفَ | ه | الزُّهْرَ
 فَكَّ | ه u. -brechen, etw. va.
 قَطَفَ | ه | بِالْكَسْرِ | -Blumen
 | هَدَمَ | i دارًا | زَهْرًا | -Haus
 | انْقَطَعَ | عَنِ الكَلَامِ | vn. -sprach
 | ازال | a, u. | انكسر | -brennen, etw.
 | أَحْرَقَ | ه | va. -Gewehr
 | احترق | vn. | البندقيَّة
 مُقْلِسٍ | -braunt
 Abbreuiatur s. f. | اِخْتِصَارٍ | Abfürzung.
 | صَرَفَ | ه | i عن | -ab-bringen jn. von
 | رَافِقَ | ه | اِلَى الدَّارِ | -jn. | أَبْعَدَه | عن
- bröckeln, etw. va. | ه | u | حَلَّ |
 -bruch s. m. | تَقَشَّرَ | | انْحَلَّ | vn.
 | خَرَبَ | | هَدَمَ | - (Schaden) ضَرَرَ
 | ضَرَّ | | ه | u | -brühen, thun jn.
 | سَمَطَ | | ه | u | -gebrüht etw. va.
 | مَنْ | لا | يُؤَثِّرُ فِيهِ شَيْءٌ | -bürsten, etw. va.
 | مَسَحَ | وَنَطَفَ | ه | بِالْفُرْشَةِ | -büßen, etw. va.
 كَفَّرَ | عَنِ |
 | أَلِفَ | بَاءِ | -schütze s. m. | Abc s. n.
 | تَلَامِيذَهُ | pl. | تَلْمِيذِ الكِتَابِ *
 | جَعَلَ | ه | a | -ab-dachen, etw. va.
 | مُنْحَدِرًا | -dachung s. f. | حُدُورِ
 | وَمُنْحَدِرٍ | -dämmen, Wasser va.
 | رَدَّ | u | المَاءِ | بِسَدِّ | | سَدِّ | u | المَاءِ
 | صَارَ | i بُخَارًا | -dampfen vn. (ab-
 | سَافَرَ | فِي الوَابُورِ * | -dämpfen, reifen)
 | حَوَّلَ | ه | اِلَى بُخَارٍ | -danken, etw. va.
 | عَزَلَ | | ه | i | - | vn. | اسْتَعْفَى | jn. va.
 | تَنَازَلَ | عَنِ | -danfung s. f. | عَزَلَ |
 | تَنَازَلَ | عَنِ | | اسْتِعْفَاءِ | -decken, etw.
 | كَشَفَ | i العِطَاءِ | عَنِ | -decker
 | سَلَاخٍ | s. m. | -deckerei s. f. | مَسَلِخٍ
 | مَسَالِخٍ | pl. | -dingen, jn. etw. va.
 | أَخَذَ | ه | مِنْهُ | بِالْتَعَالِي | -dorren vn.
 | جَفَّ | | ه | | ا | يَبِسَ * | | جَفَّ | i | vn.
 | جَفَّ | ه | -dürren, etw. va.
 | زَبَّ | ه | | زَبَّ | ه | -feigen, Rosinen

-drehen, etw. va. | عَقَفَ i ه |
 -dringen, jmt. etw. مِنْهُ u ه | أَخَذَ
 -druck (Abdrucken) s. m. | بِالْإِطْحَاحِ
 - (Abgedrucktes) - | طَبَعَ pl. | أَثَرُ
 (Exemplar) - | رُسُومِ pl. | رَسَمَ | اِثَارِ
 (Probebogen) - | نُسُخِ pl. | نُسْخَةَ
 -drucken, etw. va. | مُسَوِّدَةَ الطَّبَعِ
 رَسَمَ | كَثَّرَ طَبَعَهُ | أَثَرَ فِي | طَبَعَ a ه
 -drücken (Gewehr, Pfeil) | ه u
 (Spur) - | رَمَى i ه | أَطْلَقَ ه va.
 das drückt | رَسَمَ u ه | أَثَرَ فِي
 mir das Herz ab | هَذَا يُفَتِّتُ قَلْبِي
 -dudeln, etw. va. | أَنْشَدَهُ بِالتَّنْعَمِ
 -dünsten, | صَارَ i بُخَارًا | -dünsten, vn.
 -eilen | حَوَّلَ ه إِلَى بُخَارٍ | etw. va.
 vn. | انْصَرَفَ مُسْرِعًا | vn.

Abend s. m. | عَشِيَّةٌ | عِشَاءٌ | مَسَاءٌ
 | غَرْبٌ (Westen) - | رَوَاحٌ | عَشَايَا pl.
 - | مَسَاءٌ - | شَيْخُوخَةٌ | - des Lebens
 am - | zu - | أَمْسَى | - sein
 | هَذَا الْمَسَاءُ - | هُنْتَهَى | heute
 - | alle | مَسَاءُ أَمْسٍ - | gestern
 | guten -! | كَلَّ يَوْمَ مَسَاءً
 | jm. | مَسَاءُ الْخَيْرِ * | الله بِالْخَيْرِ
 | -sagen od. wünschen | مَسَى
 | -däm- | عِشَاءٌ | -brot s. n. | بِالْخَيْرِ
 | -essen s. n. | شَفَقَ | -essen s. n.

pl. | عِشَاءٌ | das - ein-
 nehmen | تَعَشَى | -gebet s. n.
 (musl.) | صَلَاةُ الْمَغْرِبِ | (christl.)
 | صلاة الغروب | -gesellschaft s. f.
 | غَرْبٌ | -land s. n. | لَيْلِيَّةٌ | سَهْرَةٌ
 | مَغْرِبٌ | -länder s. m. | غَرْبِي
 | إِفْرَنْجِي | -ländisch a. | غَرْبِي | إِفْرَنْجِي
 | -lich a. | مَسَائِي | عَشَوِي | -lied
 s. n. | غِنَاءُ الْمَسَاءِ | -luft s. f.
 | هَوَاءُ الْمَسَاءِ | -mahl s. n. (heiliges)
 | الْقُرْبَانَ الْمُقَدَّسَ | العشاء السري
 | تَقَرَّبَ | zum - gehen, das - nehmen
 | تَقَرَّبَ | das - | تَنَاوَلَ الْقُرْبَانَ | -reichen
 | قَرَّبَ | نَاوَلَ الْقُرْبَانَ | -mahlsbrod m.
 | خُبْزَ الذَّبِيحَةِ | -mahls-gänger, -sgast
 | بُرْشَانَ | s. m. | مُتَقَرَّبٌ | -mahlsw ein s. m.
 | خَمْرَ الذَّبِيحَةِ | -mahlzeit s. f. | عِشَاءٌ pl. | عَشِيَّةٌ
 | -messe, -mette s. f. | صَلَاةُ الْعَصْرِ
 | -rot s. n., -röte s. f. | صَلَاةُ السِّتَارِ
 | الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
 | -fegen s. m. | صَلَاةُ الْغُرُوبِ | -seite
 s. f. | جِهَةُ الْغَرْبِ | -sonne s. f.
 | -stern s. m. | الشَّمْسِ عِنْدَ الْغُرُوبِ
 | -unterhaltung s. f. | زُهْرَةَ (Venus)
 | نَحْوَ الْغَرْبِ | -wärts adv. | سَهْرَةٌ

- wind s. m. هَوَاءُ الْعِشَاءِ | -zeit
s. f. وَقْتُتِ الْعِشَاءِ.
- Abenteuer s. n. حَادِثَةٌ غَرِيبَةٌ |
Mخاطرة | ein - bestehen, auf -
ausgehen اَرْكَبُ a الْأَخْطَارِ وَالْأَهْوَالِ
-lich a. غَرِيبٌ | خَطِرٌ | -n
v. n. اَرْكَبُ a الْأَخْطَارِ وَالْأَهْوَالِ |
ضَرَبَ i فِي آفَاقٍ (umherstreichen)
Abenteurer s. m. (Der auf
Abenteuer ausgeht) مُخَاطِرٌ بِنَفْسِهِ |
آفَاقٍ | آفَاقِيٌّ (heimatloser Mensch)
Abenteurerin s. f. اِمْرَأَةٌ دَوَّارَةٌ.
- aber conj. اَمَّا | وَلَكِنْ | لَكِنْ
mals) كَمَا | اَيْضًا | ثَانِيًا
- Aberracht s. f. اِجْلَاءٌ مُكْرَرٌ | نَفْيٌ مُكْرَرٌ
f. Acht.
- aberben jm. etw. va. وَرِثَ i ه مِنْهُ.
- Aberrglaube s. m. اِخْرَاقَةٌ | اِعْتِنَادٌ بَاطِلٌ
-gläubisch a. دُوُّ اِعْتِنَادٍ بَاطِلٍ |
نَاشِئٌ عَنِ اِعْتِنَادٍ بَاطِلٍ.
- aberkennen jm. etw. va. حَكَمَ u عَلَيْهِ
حَرَمَ i ه | بِحَقِّي.
- aberrmalig a. -mals | مُجَدِّدٌ | مُكْرَرٌ
adv. تَكَرَّرًا | ثَانِيًا.
- abernten, etw. va. حَصَدَ u ه.
- Aberrwitz s. m. اِبْرَاقٌ | -witzig a.
مَجْنُونٌ.
- abessen v. n. خَلَصَ الْاَكْلَ.
- Abessinien n. pr. اِبِلَادُ الْحَبَشِ
- Abessinier n. pr. اِحْبَشِيٌّ | abessi-
nisch a. حَبَشِيٌّ.
- ab-fahren, etw. v. a. نَقَلَ u ه
- vn. | سَافَرَ | اِبِلَالْعَجَنَةِ | - lassen
سَفَرَ s. f. | رَدَّ u رَدًّا | خَائِبًا
-fall s. m. (Des
Laubes zc.) سَقُوطٌ (الوَرَقُ مَثَلًا)
- (Des Berges) مُنْحَدَرُ الْجَبَلِ |
- (Empörung) - | عِصْيَانٌ (Unter-
schied) | فَرَقٌ (von einer Partei)
- (von Religion) اِرْتِدَادٌ عَنِ اِتْرَاقِ الدِّينِ
| اِرْتِدَادٌ عَنِ اِتْرَاقِ الدِّينِ
pl. Abfälle (Abgänge) | الدِّينِ
| رُدُومٌ pl. رُدْمٌ | قِصَاصَةٌ | قِطَاعَةٌ
| سَقَطَ u وَقَعَ a -fallen vn. | سَقَطَ *
- (sich empören) | اِنْحَدَرَ (Berg)
- (Abnahme erleiden) | عَصَى i
| صَارَ i نَحِيْفًا | نَزَلَ i | نَقَصَ u
- (sich unterscheiden) | تَمَيَّزَ (von
jm.) | اِتْرَاقِ u اِتْرَاقِ حِزْبِهِ
Religion) اِرْتِدَادٌ عَنِ اِتْرَاقِ دِينِهِ
- (feinen Beifall finden) | الدِّينِ
| تَخَيَّبَ | خَابَ i
| هُوَ لَا يَنْتَفِعُ اِبِلَالْاِبِلِ
-fallen s. n. | لَا يَطْلَعُ لَهُ شَيْءٌ *

مُنْكَرٌ | -fällig a. (Urteil) | سُقُوط
 قَبْضٌ | -fangen, jm. va. i (رَأَى)
 | أَمْسَكَ | مَسَكَ | عَلَيْهِ
 | صَرَفَ | الْمَاءَ مِنْ أُنْتِفَاعِ (Wasser) -
 | الْغَيْرِ إِلَى أُنْتِفَاعِ الذَّاتِ
 | -färben auf vn. | أَثَرَ فِيهِ بِلَوْنٍ
 | -fassen jm. f. abfangen | - Bücher
 | صَنَّفَ | هـ | أَلَّفَ كُتُبًا
 | -fassung s. f. | تَأَلَّفَ
 | -faulen vn. | سَقَطَ | بِالْفَسَادِ
 | -fegen, etw. va. | كَنَسَ | هـ | كَنَسَ
 | -feilen, etw. va. | بَرَدَ | هـ
 | -feilschen, jm. etw. va. | نَقَعَ | هـ
 | -fertigen, | أَخَذَ | هـ | مِنْهُ بِالْتَّعَالُجِ
 | (schicken) va. | أَرْسَلَ | هـ
 | - jm. (abfinden) | أَرْضَى | هـ | رَدَّ
 | -fertigung s. f. | أَرْسَالَ | خَائِبًا
 | -feuern, Gewehr va. | أَطْلَقَ | أَرْضَاءَ
 | - Kanone | ضَرَبَ | الْمِدْفَعَ
 | - البارودة | ضَرَبَ | أِطْلَاقًا
 | -feuern s. n. | ضَرَبَ | أَرْضَى | هـ | صَالِحًا
 | - sich | أَرْضَى | هـ | أَرْضَى | هـ | صَالِحًا
 | - mit jm. | تَصَالَحَ | هـ | مَصَالِحًا
 | -fischen den Teich va. | فَرَّغَ
 | الْبِرْكَةَ مِنَ السَّمَكِ بِالصَّيْدِ
 | - den Rahm, das Beste | تَزَبَّدَ
 | -flachen, etw. va. | سَطَّحَ | هـ
 | -fliegen vn. | طَارَ | هـ | وَسَّخَ

-fließen vn. | جَرَى | هـ | سَالَ | هـ
 | -fluß s. m. | جَرِيَانًا | جَرَى | هـ
 | -fordern jm. etw. va. | سَيَّلَانَ
 | طالب | هـ | ب | طالب | هـ | مِنْهُ
 | -formen etw. va. | أَخَذَ | هـ | مِنْهُ
 | -fragen, jm. ein Geheimnis
 | قَالَبًا | - einen
 | سَأَلَ | هـ | عَنْ سَيِّرِ
 | Schüler a | لَتَلْمِيذٍ | سَأَلَ | هـ
 | -freffen etw. va. | تَلْمِيذًا عَنْ دَرْسِهِ
 | es frißt | قَرَضَ | هـ | أَكَلَ | هـ
 | mir das Herz ab | هَذَا يُفْتِتْ قَلْبِي
 | -frieren vn. | سَقَطَ | هـ | بِالْبُرْدِ
 | -fuhr s. f. | أَنْكَسَارًا | نَقَلَ | هـ
 | - stud. | نَقَلَ | هـ | بِالْعَجَلَةِ
 | -führen, etw. va. | فِي الْمُبَارَزَةِ
 | - jm. in's Gefängnis | نَقَلَ | هـ
 | | سَجَنَ | هـ | رَدَّ
 | - Schuld | وَفَى | هـ | بِالذَّيْنِ
 | - (Medizin) | أَحَادَ عَنْ الطَّرِيقِ
 | -führend a. | مُسْهِلًا | أَسْهَلَ | هـ | (دَوَاءً)
 | -führmittel s. n. | دَوَاءَ مُسْهِلٍ
 | -führung s. f. | نَقَلَ | هـ | (med.)
 | -füttern jm. va. | عَلَفَ | هـ | عَلَيْهِ
 | - (scherzweise) | أَطْعَمَ | هـ | (سُخْرًا)
 | - (scherzweise) | تَعْلِيْفًا | هـ | (سُخْرًا)
 | -gabe s. f. (Steuer) | عَزُومَةٌ *
 | | مَكْسًا | هـ | (SOLL-) | أَمِيرِي | هـ | رُسُومًا
 | - (Abgeben) | تَأَدَّى | هـ | (سُخْرًا)

-gang s. m. | سَفَرٌ | انْصِرَافٌ | ذَهَابٌ
 | طَرُوحٌ | der Leibesfrucht | خُرُوجٌ
 (Warenabsatz) | اسْتِقْطَاةُ الْجَنِينِ
 | guten - haben u راج | راج
 - | انْقَصَ | خَسَفَ (Tara)
 | سَقَطَ * | قِصَاصَةٌ | قِطَاعَةٌ (fall)
 -gaunern jm. etw. va. | أَخَذَ مِنْهُ
 | آغَطَى هـ | geben etw. va. | بِالْمَكْرِ
 | آغَطَى الرَّأْيَ | Meinung | سَلَّمَ هـ
 - einen Arzt zc. | بَوَظِيفَةً u قام
 | عَامَلَ هـ | mit jem. | سِاحَ | الطَّبِيبِ الخ
 | اسْتَنْغَلَ بِ | mit etw. | سِاحَ
 -gebrannt a. | مَغْلِسٌ | f. abbrennen
 -gebrüht a. | مَنْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ شَيْءٌ
 f. abbrühen | -gedankt a. | مَعْرُورٌ
 f. abdanken | -gedroschen a. | عَامِيٌّ
 | سَقُوطٌ | -gedroschenheit s. f. | ساقط
 -er | -er | الْكَلَامِ وَالْإِنْشَاءِ
 -gegriffen a. | خَبِيثٌ قُبْحٌ | Schurke
 | ذَهَبَ | -gehen vn. a. | رَوْنَقُهُ
 - vom Wege | سَافِرٌ | انْصَرَفَ
 | حَادٍ | von einer | عَنِ الطَّرِيقِ
 -forderung | رَجَعَ | عَنِ طَلَبِ
 - | تَرَكَ | u هـ | (Waren)
 | انْحَلَّ | (farbe) | راج u
 - | مات | - (fehlen) | مَاتَ u
 - | قَصَرَ | (geschehen, gemacht

werden) u | حَصَلَ | die Frucht ist
 ihr abgegangen | طَرَحَتْ | -lassen
 jm. u. etw. | أَرْسَلَ هـ و هـ | auf u. -
 | تَمَشَّى | va. einen Acker -
 | قَامَسَ | u i, | أَرْضًا بِالْمَشْيِ
 -gelebt a. | عَاجَزَ | f. ableben | -gelebt-
 heit s. f. | هَرَمَ | هَرَمَ | -gelegen a.
 | بَعِيدٌ | f. abliegen | -gelegenheit
 s. f. | بُعِدَ | -gemacht a. | مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
 | رَضِينَا ! - | لا آخْتِلَافَ فِيهِ
 f. abmachen | -geneigt a. c. dat.
 | كَرِهَ هـ | sein | كَرِهَ | مُعْرِضٌ عَنِ
 -geneigtheit s. f. | كَرِهَ | كَرَاهَةٌ
 -geordnete s. m. | نَائِبٌ
 | مَبْعُوثُونَ pl. | نَوَابٌ pl. | مَبْعُوثٌ
 -nhaus | مَجْلِسُ النُّوَابِ | -gesagt
 a. | عَدُوٌّ أَلَدٌ | -er feind | عَدُوٌّ
 -gesandte s. m. | رُسُلٌ pl. | رَسُولٌ
 f. absenden | -geschieden a. | مُنْفَرِدٌ
 f. abscheiden | -geschiedenheit s. f.
 -geschliffen a. | اِعْتَزَلَ | اِنْفِرَادٌ
 | مُتَّادِبٌ | (bld.) | مَصْقُولٌ
 f. abschleifen | -geschliffenheit s. f.
 | اِنْفِرَادٌ | -geschlossenheit s. f. | آدَبٌ
 | مُحَالٌ | -geschmackt a. | مُحَالٌ
 -geschmacktheit s. f. | اسْتِحَالَةٌ
 | بَطْلَانٌ | -gesehen davon daß

-ge- | absehen | مع أَن | عن أَن
 -gesinnt a. | كاره | -gespannt a. | تَعْبَان
 | -abspannen | -gespanntheit s. f.
 | -gestanden a. | فاسِد | ab-
 stehen | -gestumpft a. | مَحْدُوف
 لا يُوَوِّر | ضَعِيف (bld.) - | الرأس
 | -gestumpfen | فيه شَيْءٌ
 -gestumpftheit s. f. | ضَعْف | -gethan a.
 ein -er Mann | لا يُعَدُّ بِهِ
 die Sache ist | - | تَمَّ الْأَمْرُ
 - | سابق | ماضٍ (vergangen)
 -gewinnen etw. va. | ه | كَسَبَ
 | jm. den | حَصَلَ | u | عَلَيْهِ
 Vorsprung - s | u, i | سَبَقَ | -ge-
 wöhnen, jm. etw. va. | s | عَنِ
 | sich etw. - | أَبْطَلَ عَادَتَهُ
 | -gezehrt a. | نَحِيف | -gezehrt
 | -gezehrtheit s. f. | نَحَافَةٌ | -gießen
 etw. va. | فرَغَ ه | مِنْ
 | -glanz s. m. | مَرَجَّع | صَبَّ
 | - | عَكْسَ الضِّيَاءِ | لَمَعَةٌ
 مَرَجَّعَةٌ | -glätten etw. va. | ه | جَلَا
 | -gleiten vn. | زَلَجَ | i
 | -gott s. m. | صَنَم | pl. أَصْنَام
 | -götterei s. f. | مَنْ أَوْلَعَ
 | -göttlich a. | عِبَادَةُ
 | -graben | مَغْرَمَ | مَوْلَعَ
 | - | الأَصْنَامَ

va. jm. das Wasser | المَاءُ عِنْدَهُ | صَرَفَ
 | -grämen, sich v. | اغْتَمَّ | بِحَنْدَقٍ
 | -grafen, Wiese va. u. | رَمَّ | -grenzen
 etw. va. | ه | فَصَلَ | بِالْحُدُودِ
 | -grund s. m. | هُوَّةٌ | pl. هَوَاتٍ
 | -des Meeres | بُجَّةٌ | pl. بُجَجٍ | -gucken,
 etw. va. | تَطَّلَعَ فِي | jm. etw. -
 | sich nach | عَرَفَ | i | ه | مِنْهُ
 | -gunst | نظَرَ | u | إِلَيْهِ
 | - | كَثِيرًا - | s. f. | حَسَدٌ | -günstig a.
 | -gürten va. | فَكَّ | u | الْمِنْطَقَةَ
 | او | الحِزَامَ | -guß s. m. | سَبَكَ | -
 | -hacken, etw. | ه | قَطَعَ | بِالْفَأْسِ
 | -hafen, etw. | ه | مِنْ | فَكَّ | u
 | -halten, jm. von va. | عَنِ | s | a | مَنَعَ
 | - | أَبْعَدَ | ه | عَنِ | صَرَفَ | i | ه | عَنِ
 | Schule - | دَرَسَ | - | سِجُونِغْ | -
 | - | لَجَّ | - | مَجْلِسًا | vn. vom Lande
 | -haltung s. f. | مَنَعَ | | فِي | البَحْرِ
 | -handeln, jm. etw. va. | مَوَانِعَ | pl. مَانِعٍ
 | - | أَخَذَ | u | ه | مِنْهُ
 | - | بالتَّعَالُجِ فِي الثَّمَنِ | vn. | بَاحَثَ | -handlung s. f.
 | -handen kommen | رَسَائِلَ | pl.
 | -hang s. m. | حَادَرَ | الجَبَلَ | | ضَاعَ | i
 | -hängen (sich neigen) vn. | انْحَنَى | -hängen vn.
 | -hängen (abhängen) | تَعَلَّقَ | (abhängen)
 | -hängig a. | تَعَلَّقَ | (مَجَازًا)

-hängigkeit s. f. تَعَلَّقَ | -härmen,
sich v. اغْتَمَّ | -härten, jn. صَلَّبَ ه
sich | شَدَّدَ ه | قَوَّى ه | خَشَّنَ ه
| تَحَشَّنَ | تَصَلَّبَ | تَمَرَّنَ عَلَى
-härtung gegen عَلَى |
-haspeln, Garn va. حَلَّ u الغَزْلُ |
bld. نَطَقَ سَرِيْعًا | -hauen, etw.
va. a قطع ه | -häuten, ein Tier
va. a سَلَخَ ه | (Schlange) بَدَّلَ
| -heben, die Spei- | جَلَدَهُ (حَيَّةٌ)
sen 2c. va. ا رَفَعَ a الطَّعَامَ مِثْلًا
sich - | تَمَيَّنَ - | -helfen, dem Uebel
v. تَدَارَكَ الشَّرَّ | -herzen jn. va.
ه | لَطَفَ ه كَثِيْرًا | بَوَسَّ ه
va. اَنْعَبَ ه كَثِيْرًا | -hilfe eines
Uebels s. f. تَدَارَكَ الشَّرِّ | -hobeln
etw. va. سَوَّى ه بِالْفَارَةِ | bld. jn.
ه | كَارِهَ ا | هَدَّبَ ه | آدَبَ ه
-holen jn. u. etw. va. ا ذَهَبَ
-lassen | راح جاب * | طَالِبًا
-holzen, Wald | اَرْسَلَ طَالِبًا وِرَاءَ
va. ا قَطَعَ a اَشْجَارَ الْغَابَةِ
etw. va. ا عَرَفَ i ه بِالْاَنْصَاتِ
-hören jn. u. etw. va. اِسْتَنْطَقَ ه
بَقِيَّةَ ه | -hub s. m. اَنْصَتَ ه
-hülfsen etw. | اَلْمَاكُوْلَاتِ فِي السُّفْرَةِ
va. ا قَشَرَ i, u ه | -irren vom Wege

vn. u, i ضَلَّ | تَاهَ u, i عَنِ الطَّرِيقِ |
-irrung s. f. ضَلَالٌ | تَيَّهَ | -jagen
Wild va. اَنْتَعَبَ الصَّيْدَ | sich -
| اَنْتَعَبَ نَفْسَهُ | jn. etw. -
| جَعَلَ a ه اَنْ يَكْفَ عَنْ مَسِيْهِ
-kanzeln jn. wegen va. وَبَّغَ ه عَلَى
-farten etw. va. اِتَّفَقَ | اَوْبٍ
-kaufen s. m. شَرَاءٌ | -kaufen
jn. etw. مِنْهُ ه | اِسْتَرَى ه
s. f. اِعْرَاضَ عَنْ | -von der Sünde
| كَنَسَ ه | -kehren va. etw. | تَوْبَةً
| اَبْعَدَ ه مِنْ | اَحَادَ ه عَنْ |
die Augen - von اَلْبَصَرَ عَنْ |
sich - | حَادَ i عَنْ - | -klären etw.
-Platsch s. m. | رَوَّقَ ه | اَصْفَى ه
صُوْرَةٌ مَّاخُوْدَةٌ بِمَادَّةٍ تُشَخِّصُ الْهَيْئَةَ
-Platschen | تَقْلِيْدٌ - | aَصْلِيَّةٌ
etw. | اَخَذَ u صُوْرَتَهُ | -flopsen etw.
-knappen, | نَقَضَ ه | نَفَضَ u ه
-knapsen jn. etw. von seinem
| قَطَعَ a شَيْئًا مِنْ اُجْرَتِهِ | -Lohn va.
-knicken, Zweig va. ا كَسَرَ i غُصْنًا
-kochen etw. va. ا طَبَخَ u ه جَيِّدًا
-kommandieren jn. va. ا اَنْتَوَى بِالطَّبِيْعِ (Soldaten) -
| اَمَرَ u ه بِالْاَنْصِرَافِ |
-komme s. m. وَوَلَدَ pl. | اَوْلَادَ
| اَعْقَابَ pl. | اَنْجَالَ pl. | نَجَلٌ

-kommen ذَرِيَّةٌ pl. | ذَرَارِيٌّ | نَسْلٌ
 pl. | أنسال | -kommen vn. vom
 Wege u, i | ضَلَّ u, i عن الطَّرِيقِ |
 von einer Sache - | تَرَكَ u هـ |
 - (Gewohnheit) | أَبْطَلْتَ العَادَةَ |
 - | أُلْغَيْتِ العَادَةُ | -kommen s. n.
 einer Gewohnheit, eines Gesetzes
 (Ueberein- | الإِغَاءُ عَادَةٌ أَوْ شَرِيْعَةٌ
 kommen) | مُصَالِحَةٌ | اتَّفَقَ |
 treffen | اتَّفَقَ | -kommenschaft s. f.
 | أنسال pl. | نَسْلٌ | ذَرَارِيٌّ pl. | ذَرِيَّةٌ
 -kömmlich a. | فَاضٍ | غَيْرٌ مَشْغُولٌ |
 -kömmlichkeit s. f. | عَدَمُ الشُّغْلِ |
 -kömmling s. | Abkomme | -Konten-
 feien jm. va. | صَوَّرَ | -Koppeln etw.
 va. | حَلَّ u الرِّبْطَ بَيْنَ أَشْيَاءٍ مُقْتَرِنَةٍ |
 | بَبَعْضِهَا (كِلَابٌ وَآلَاتٌ وَعَرَبَاتٌ)
 -fragen etw. | هـ | بِالذَّعْكَ أَوْ
 | نَالَ a هـ | -frieren etw. | بِالْحِكِّ
 -fühlen etw. va. | بَرَّدَ هـ | (von
 Hitze) | u | تَبَرَّدَ - | أَحْمَدَ هـ
 (von Hitze) | خَمَدَ | -Führung s. f.
 (von Hitze) | تَبَرَّدَ | تَبْرِيدٌ | بَرْدٌ
 | نَسَبٌ | أَصْلٌ | -kunst s. f. | خَمْدٌ
 edle - | نَسَبٌ | شَرَفٌ | -fürzen
 etw. va. | قَصَرَ هـ | -Rede
 | إِخْتَصَرَ | -fürzung s. f. | إِخْتِصَارٌ |

| بَوَّسَ هـ | -füßen jm. | تَقْصِيرٌ
 - | نَشَفَ الدَّمُوعَ | Thränen
 | أَنْزَلَ | -laden etw. va. |
 | بِالتَّقْيِيلِ | -laden, -ladung s.
 | الحِمْلِ | -laden, -ladung s.
 | أَنْزَلَ | -lader s. m. | الحِمْلِ
 | رَسَبَ | -lagern sich u | الحِمْلِ
 | رُسُوبٌ | -lagern s. f. |
 | غُفْرَانَ الخَطَايَا | -laß der
 | مُعَافَاةٌ يُسَامِحُ بِهَا البَابَا |
 | عَفُوٌ | -laßhandel, -laßfram cath. s. m.
 | نِجَارَةَ أَوْ رَاقِ العَفْوِ | -laßfrämer s. m.
 | تَاجِرِ العَفْوِ | -laßzettel s. m. cath.
 | وَرَقَةَ العَفْوِ | -lassen jm. etw. va.
 | بَاعَ i لَهُ | سَلَّمَ هـ |
 | نَزَعَ i المَاءَ مِنْ بِرْكَةٍ بِجَدْوَلٍ أَوْ
 | رَخَّصَ - | etw. vom Preis |
 | بَقْنَاةٌ |
 | أَرْسَلَ كِتَابًا - | einen Brief | الثَّمَنَ
 | رَجَعَ i عن | تَرَكَ u هـ | - von
 | -lauern va. | eine Gelegenheit
 | رَبَصَ u | فُرْصَةً | -lauf s. m. (von
 | جَرِيَانٌ | سَيْلَانٌ | جَرِيٌّ |
 | سَيْلٌ | - (von Zeit)
 | صَبَبَ |
 | مُضَى | - (eines Wechsels)
 | اسْتَحْقَاقٌ | -laufen va. |
 | أَنْعَبَ - | sich |
 | أَنْعَبَ |
 | نَفَسَهُ بِالمَشْيِ | jm. den Rang -
 | غَلَبَ i هـ | - (Wasser) |

i | فرغ (Uhr) a | جَرَى | i | سال |
 - (Wechsel, Frist) | مَضَى | i | اسْتَحَقَّ |
 - lassen | نَجَحَ - a | gut | انْقَرَضَ |
 Brief کتابًا | - lassen Schiff |
 - | انزَلَ | المَرْكَبَ إِلَى | البحرِ |
 - | رَدَّ | u | خَائِبًا | lassen
 etw. va. | سَمِعَ | a | ه | بالإنصات |
 - | فَلَئِى | ه | فَلَئِى | i | ه |
 - | نَحْوِيلَ | - | laut s. m. gr. | نَقَى | ه |
 وَقَعَ | a | فِيهِ | gr. | - | حَرَكِي |
 دَقَّ | u | التَّحْوِيلَ | - | الحَرَكِي |
 | الجرسِ عِنْدَ | الذهبِ (الوابور مثلاً) |
 - | وَفَاة | - | leben s. n. |
 حَطَّ | u | - | Fast va. | - | لِحَس | a |
 | خَلَعَ | a | الثِّيَابِ - | Kleider | الحِمْلَ |
 تَرَكَ | u | - | Gewohnheit | قَلَعَ | a | ه |
 | حَاسِبَ | - | - | Rechnung jm. | العَادَةَ |
 | حَلَفَ | - | Eid | - | شَهِدَ | a | Zeugnis |
 - | اَقْرَأَ | - | Gelübde |
 | أَدَى | الامْتِحَانَ - | Prüfung | نَذَرَ | u |
 | صَرَفَ | i | الفَعْلَةَ - | Arbeiter |
 | لَغُوعَ | (der Kleider) | - | شَتْلُ | * | s. m. |
 | خَلَعَ | (der Rechnung) | - | s. f. |
 | - | lehnen etw. va. | مَحَاسِبَةَ |
 | رَفَضَ | u | ه | | أَبِي | a | ه |
 | رَفَضَ | | إِبَاءَ | - | lehnen s. f. |
 | رَفَضَ | | إِبَاءَ | - | lehnen s. f. |
 | أَنشَدَ | ه | بِصَوْتٍ | عَلَى | نَمِطٍ | etw. va. |

واحد | - | leiten va. etw. von |
 | اسْتَقَى | ه | من | - | vom Wege |
 | أَحَادَ | ه | عَنِ | الطَّرِيقِ | - | leiter s. m. |
 | مُجِيدَ | عَنِ | الطَّرِيقِ | z. B. Blitz- |
 | مَانِعَةَ | الصَّوَاعِقِ | - | leitung s. f. |
 | اسْتَقَى | - | lenken jm. vom Wege |
 | أَحَادَ | ه | عَنِ | الطَّرِيقِ | va. |
 | إِبْتَعَدَ | | حَادَ | | i | - | lernen etw. |
 | تَعَلَّمَ | ه | - | lesen va. etw. |
 | لَمَّ | u | ه | | جَمَعَ | a | ه | (sammeln) |
 | نَقَى | الأشجارِ مِنَ | الدودِ | - | Raupen |
 | قَطَفَ | عِنَبًا | - | Weintrauben |
 | تَلَا | u | ه | | قَرَأَ | a | مَكْتُوبًا | - | geschrieben |
 | أَنْكَرَ | ه | - | leugnen etw. va. |
 | أَنْكَرَ | - | liefern va. |
 | - | liefern va. |
 | سَلَّمَ | ه | إِلَيْهِ | - | jm. etw. |
 | تَسَلَّمَ | - | liegen vn. u |
 | بَعَدَ | s. f. |
 | أَخَذَ | u | ه | مِنْهُ | - | jm. etw. |
 | بِحِيلَةٍ | - | locken va. jm. etw. |
 | أَخَذَ | u | ه | مِنْهُ | بِالتَّمَلُّقِ | أَوْ | الإقْنَاعِ |
 | - | lohnen va. Arbeiter |
 | بَدَفَعَ | أَجْرَتِهِمْ | - | löschen va. etw. |
 | مَحَا | u | مَا | كَتَبَ | عَلَى | لَوْحٍ | أَوْ | وَرَقَةٍ |
 | حَلَّ | u | ه | - | lösen va. etw. |
 | أَنْفَكَ | | أَنْفَكَ | - | Wachen |
 | بَدَّلَ | الحُرَاسِ | - | Rente |
 | مَبْلَغٍ | وَاحِدٍ | - |

-löslich a. مُمِكن الحِلِّ | -lösung
 s. f. تَبْدِيل العَسْكَرِ | حلّ | -luchsen
 va. jn. etw. بِمَكْرٍ | أخذ u ه منه |
 -machen va. etw. أتمَّ الأمر | -etw.
 mit jn. اتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى | -etw.
 von ه u فَكَّ | حلّ u ه |
 gemacht f. شَيْئًا مِنْ |
 -machung s. f. عَهْدٌ | اتِّفَاقٌ |
 -magern vn. a. نَحَلَ | -mähen
 etw. va. ه u جَزَّ | -mahnen va.
 jn. von قَصْدِهِ | صرف i ه عن قَصْدِهِ |
 -malen va. jn. صَوَّرَ | bld.
 s i وَصَفَ | -markten va. etw.
 -marsch | أخذ u ه منه بالتَّعَالُجِ
 s. m. انِّصْرَافٍ (عن العَسَاكِرِ خَاصَّةً) |
 -marschieren vn. a. ذَهَبَ |
 -martern va. عَذَّبَ | انِّصْرَفَ |
 -matten | اتَّعَبَ نَفْسَهُ كَثِيرًا | -sich
 va. jn. اتَّعَبَ ه | -meißeln etw.
 va. صَنَعَ ا ه بِالْمِنْقَشِ | -melden
 jn. va. أَخْبَرَ بِانِّصْرَافِهِ | -mergeln
 jn. va. أَنْحَلَ ه | -gemergelt
 -merken va. jn. etw. نَحِيلَ |
 -messen | تَعَلَّمَ ه مِنْهُ بِالْمُشَاهَدَةِ
 va. etw. ه i, u قَاسَ | -mieten va.
 jn. etw. ه | اسْتَأْجَرَ ه | -modelln
 va. etw. أَخَذَ u قَالِبًا مِنْهُ | -müden

va. jn. اتَّعَبَ ه | sich -
 | جَدَّ | -mühen sich v. i نَفْسَهُ
 -nagen | بَدَلَ وُسْعَهُ | اجْتَهَدَ
 etw. va. ه i قَرَضَ | -nahme s. f.
 (Abnehmen) | أَخَذَ | انِّزَالَ (Ver-
 minderung) | نَقَصَ | نَقْصَانٌ | -des
 Beins | قَطَعَ السَّاقَ | -des Huts
 | خَلَعَ البُرْنِيطَةَ | -von Waren
 | أَنْزَلَ ه | -nehmen va. etw. رَوَاجٌ
 | رَفَعَ a السُّفْرَةَ -Speisen | أَخَذَ ه u
 | قَطَعَ a السَّاقَ | Bein | مثلاً
 | خَلَعَ a البُرْنِيطَةَ | Hut -
 | اشْتَرَى مِنْهُ البَضَائِعَ | -Waren
 | نَزَلَ | نَقَصَ | قَلَّ | انْحَطَّ | -vn.
 | حَلَفَ ه | jn. einen Eid | ضَعُفَ u
 -nehmer s. m. مُشْتَرٍ | -neigung
 s. f. كَرَاهَةٌ | -nötigen jn. etw. va.
 | اضْطَرَّ ه ب | أَجْبَرَ ه عَلَى
 | أَخَذَ ه u مِنْهُ بِالْإِكْرَاهِ | ه او ب
 | أَنْفَلَ ه | أَبْلَى ه | -nützen va. etw.

Abonnement | اشْتَرَاكَ | Abonment
 | مُشْتَرِكٌ | abonmieren auf vn.
 | اشْتَرَكَ فِي

ab-ordnen va. jn. وَكَّلَ ه | فَوَّضَ ه
 | تَفْوِيزٌ | -ordnung s. f. وَقَدَّ ه
 | أَوْفَادٌ u. وَفُودٌ | pl. وَفْدٌ | تَوَكَّيْلٌ
 | مُسْتَرَاحٌ | -Abtritt) | s. m. Abort

| طَرَحَ (Fehlgeburt) | بَيَّتَ الأَدَبَ
 | أَسْقَطَ | طَرَحَ | -ieren vn. a | إِسْقَاطُ
 ab-packen va. | نَزَلَ الحِمْلُ | -passen
 va. etw. ه i, u | قاس | die Ge-
 legenheit - | اغْتَنَمَ الفُرْصَةَ |
 -patrouillieren v. | تَجَوَّلَ عَسَسًا |
 -pfänden va. jm. etw. ه مِنْهُ | أَخَذَ
 | قَطَفَ | -pflücken va. etw. ه i ه | رَهْنًا
 | أَنْعَبَ | -placken sich v. | اقْتَطَفَ ه
 | أَنْعَبَ | -plagen sich v. | نَفَسَهُ
 | سَطَعَ | -platten va. etw. ه | نَفَسَهُ
 | انْفَقَعَ * | -plagen vn. (Knopf 2c.)
 | -prägen | (زَرَّ عَنِ المَلَابِسِ مَثَلًا)
 va. etw. | أَخَذَ u طَبَعًا مِنْ |
 s. m. | الرَّدَّ بالقُوَّةِ | -prallen vn.
 | رَدَّ | -pressen va. jm. etw.
 | -putzen | أَخَذَ u ه مِنْهُ بالغَضَبِ
 va. etw. ه | نَطَّفَ | ein Haus -
 | أَنْعَبَ | -quälen sich v. | بَيَّضَ دارًا
 | أَهْدَكَ | -rackern sich v. | نَفَسَهُ
 | -rahmen va. (Milch) | نَفَسَهُ
 | نَزَبَدَ | قَشَا u | -raten v. jm. von
 | رَدَّ u ه عن | صَرَفَ i ه عن قَصْدِهِ
 | أَفْرَغَ | -räumen va. etw. ه | قَصْدَهُ
 | رَفَعَ a السُّفْرَةَ - | den Tisch
 va. etwas von ه مِنْ | طَرَحَ a ه
 | حَاسَبَ ه | vn. mit jm. | حَصَمَ * i

| -rechnung s. f. | طَرَحَ | حَصَمَ *
 | -rede s. f. | اتَّفَقَ | مُحَاسَبَةٌ
 | -nehmen, treffen عَلَى | اتَّفَقَ | etw.
 | -stellen ه | أَنْكَرَ | -reden v.
 | (verabreden) عَلَى | اتَّفَقَ | jm. von
 etw. - | رَدَّ u ه عن قَصْدِهِ | -regnen
 vn. | زال a, u | المَطَرُ | -reiben va.
 | حَكَ u ه | مَسَحَ a ه | دَعَكَ a ه
 | كَبَّسَ ه في الحَمَّامِ - | jm. im Bade
 | سَفَرَ | انْصَرَفَ | ذَهَابٌ | -reise s. f.
 | انْصَرَفَ | ذَهَبَ | -reisen vn. a
 | نَزَعَ i ه | -reißen va. etw. ه | سَافَرَ
 | هَدَمَ i دارًا - | ein Haus | قَلَعَ a ه
 | vn. | أَبْلَى الثِّيَابَ - | die Kleider
 | عَيْلَ | die Geduld reißt ab | انْقَطَعَ
 | -reiten va. | فَرِغَ a الصَّبْرُ | الصَّبْرُ
 | أَنْعَبَ | حصانًا بِالرُّكُوبِ | Pferd
 | قاس i, u الأَرْضَ رَاكِبًا - | eine Strecke
 | vn. | انْصَرَفَ رَاكِبًا | -richten jm.
 | رَوَّضَ ه | راض u ه | دَرَّبَ ه
 | تَدْرِيْبٌ s. f. | -richtung | مَرَّنَ ه
 | أَغْلَقَ ه بِالْمِئْتَرَسِ | -riegeln etw. va.
 | أَغْلَقَ ه | بالدِرْبُزِ | -ringen va.
 | أَخَذَ u ه مِنْهُ بِالْبِرَازِ | jm. etw.
 | أَخَذَ u ه مِنْهُ بِالْمُخَاصَمَةِ | -riß
 | مُخْتَصِرٌ | رُسُومٌ pl. | رَسَمَ s. m.
 | -rollen va. etw. ه | بالعَجَلَةِ

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| nehmen s وَدَعَ - (Entlassung) | -[schließen va. Thür الباب أَغْلَقَ |
| jm. den - geben إِسْتَعْفَاء عَزَلَ | - (beendigen) ه أَحْتَمَ ه |
| s i عَزَلَ s i صَرَفَ seinen - | einen Vertrag - ه عَقَدَ abge- |
| nehmen إِسْتَعْفَى - [besuch s. m. | [schluß مُعْتَزِل مُنْفَرِد |
| سَلَام - [gruß s. m. زِبَارَةَ الْوَدَاعِ | s. m. (Beendigung) إِتْمَام |
| الوَدَاعِ - [fuß s. m. قُبْلَةَ الْوَدَاعِ | - (eines Vertrags) عَقْد |
| - [stunde s. f. سَاعَةَ الْوَدَاعِ - [strumpf | zum - bringen ه أَنَمَ ه |
| s. m. شَرِبَ الْوَدَاعِ - [schießen va. | zum - kommen ا نَجَزَ ا |
| etw. رَمَى السُّهُمِ فَرَّغَ الْبُنْدُقِيَّةَ | - [schmaßen va. jm. vulg. ه بَوَّسَ |
| قَتَلَ u بِالرِّصَاصِ - [schildern va. | f. abfüßen - [schmeicheln va. jm. |
| etw. ه وَصَفَ - [schinden va. | etw. ا نَالَ ه مِنْهُ بِالْتَمَلُّقِ |
| etw. ا سَلَخَ - [sich أَهْلَكَ نَفْسَهُ | - [schmieren va. Brief مَكْتُوبًا نَسَخَ |
| - [schirren va. Pferde حَمَّاز حَلَّ | انتَحَلَ كتاب - بُوْح بِالسَّرْعَةِ |
| ذَبَحَ a s - [schlachten jm. va. | u حَلَّ - [schnallen va. etw. الْغَيْرِ |
| - [schlag s. m. إِبَاء رَفَضَ auf - | - [schnappen vn. (feder) ا إِبْنِيْمَهُ |
| bezahlen دَفَعَ a قِسْمًا مِنَ الدَّيْنِ | (bld.) ا فَقَسَ ا انْفَقَسَ ا اِرْتَخَى |
| - [schlagen va. Baum شَجَرَةً قَطَعَ | - [schneiden va. ا انْقَطَعَ عَنِ الْعَمَلِ |
| jm. den Kopf - ضَرَبَ ا عُنُقَهُ | etw. ه ا قَطَعَ ه ا قَصَّ u ه |
| die Feinde - رَدَّ u الْأَعْدَاءِ | va. Pfeil رَمَى ا السُّهُمِ vn. رَمَى |
| Wasser - أَرَأَقَ الْمَاءِ jm. etw. - | - [schnitt s. m. قِطْعَةً pl. قِطَع |
| a. أَبِي ا رَفَضَ u - [schlägig, - [schläg- | pl. فَصُول - [schnittel s. n. |
| lich ا رَافِضَ etw. abschläg- | - [schnitteln ا بُرَايَةَ ا نُجَارَةَ ا نُشَارَةَ |
| lich دَفَعَ a قِسْمًا مِنَ الدَّيْنِ | va. etw. ه قَطَعَ - [schöpfen va. |
| - [schleifen va. etw. ه ا سَنَّ | etw. ه ا غَرَفَ ا ه ا زَفَرَ ا ه |
| أَزَالَ صَدَأَهُ - ا هَدَّبَ s (bld.) - jm. | - [schrauben va. etw. ا بَرَاغِيَّةَ u حَلَّ |
| s ا آدَبَ - [schlendern etw. va. | - [schrecken va. jm. ه ا خَوَّفَ |
| رَمَى ا ه ا أَسْقَطَ ه بِالْقُوَّةِ | - [schreckend a. مُخِيفَ - [schreiben |

va. Schriftstück | نَقَلَ u الكِتَابَةَ
 a ه | نَسَخَ | etw. in's Reine -
 | أَبْلَى قَلَمًا | federn - | يَيْفُ ه
 etw. in der Rechnung - | طَرَحَ a ه
 | في الحِسَابِ | vn. jm. - (schriftlich
 abbestellen) | أَبْطَلَ أَمْرَهُ نَحْرِيْرًا
 - | كَاتِبٍ | نَاسِخٍ | pl. s. m. -
 | كُتَّابٍ | - | schreiten va. eine Ent-
 fernung | قَاسٍ u, i مَسَافَةً بِأَلْمَشِيِّ
 - | نُسْخَةٌ | صُورٍ | pl. صُورَةٍ s. f. -
 | بالِصُّورَةِ | - | schrittlich adv. | نُسَخٍ | pl.
 | أَرْسَلَ نُسْخَتَهُ | - | mitteilen -
 | قَشَّرَ فُلُوسٍ | - | schuppen va. fisch
 | تَقَشَّرَ | - | schürzen | السَّمَكِ |
 va. Kleid | أَرْخَى اِثْتَابُ الْمَشْمَرِ
 | وَغَرَّ | ذُو مُنْجَدِرٍ صَعْبٍ | - | schüßig a.
 | نَزَعَ | ه | بِالْمَهْرِ | - | schütteln va. etw.
 | خَلَعَ | ه | a | خَلَعَ | das Joch js. abschütteln
 | عَصَى | ه | i | خَلَعَ | a | نِيرَ الطَّاعَةِ
 | أَضْعَفَ | ه | - | schwächen etw. va.
 | إِضْعَافٍ | s. f. - | schwächung
 | نَالَ | ه | a | ه | - | schwagen jm. etw. va.
 | مِنْهُ بِالْكَلامِ | (بِالْتَمَلُّقِ أَوْ إِاقْنَاعِ)
 | حَادٍ | ه | i | عَنِ الطَّرِيقِ | - | schweifen vn.
 | اسْتَطْرَدَ عَنِ | - | Thema bld. vom
 | اسْتِطْرَادٍ | s. f. - | schweifung
 | الصَّدَدِ | - | schwenken va. den Schmutz von

| - | schwindeln | أَزَالَ الْوَسْخَ مِنْهُ بِأَلْمَاءِ
 | نَالَ | ه | a | مِنْهُ بِالْكَذْبِ | - | va. jm. etw.
 | - | schwören va. etw. | حَالِفًا ه
 | اِرْتَدَّ عَنِ | - | Irrtum, Glauben
 | - | schwörung s. f. | اِرْتِدَادٍ |
 | أَقْلَعَ | - | segeln vn. (Schiff) | مَرْكَبٍ |
 | اِسَافَرَ فِي الْبَحْرِ | - | (im Schiff fahren)
 | - | sehen | عَلَى مَدِّ الْبَصَرِ | a. sehbar
 | نَظَرَ | u | إِلَى | | رَأَى | a | ه | - | va. etw.
 | عَرَفَ | ه | i | مِنْهُ بِالْبَصَرِ | - | jm. etw.
 | - | auf | ه | i | قَصَدَ | - | von etw. es
 | - | sehen s. n. | قَطَعَ | a | النَظَرَ عَنِ
 | - | seifen va. etw. | غَسَلَ | ه | i | بِالصَّابُونِ
 | - | seihen va. etw. | قَطَرَ | ه | | صَوَّبَنَ | ه *
 | - | seits adv. | عَلَى الْاِنْفِرَادِ | - | seits
 | - | senden va. jm. u. etw. | عَلَى حِدَةٍ |
 | - | a | ه | و | ه | | أَرْسَلَ | ه | و | ه
 | - | sender s. m. | الْمُرْسِلِ | - | sendung
 | - | sengen va. | وَفَدَ | | اِرْسَالَ | s. f.
 | - | federn sc. | أَحْرَقَ الرِّيشَ مِثْلًا |
 | - | setzbar a. (Beamter) | عَزَلَهُ |
 | - | setzen | رَاحِجٍ | (Ware) - | (مَأْمُورِ)
 | - | Waren | أَنْزَلَ حِمْلًا | - | Last
 | - | Beamten | بَاعَ | i | الْبَضَائِعِ
 | - | bei jm. | عَزَلَ | i | الْمَأْمُورِ | etw.
 | - | im Thun a | قَطَعَ | ه | | أَوْدَعَ | ه | ه
 | - | v. imp. es setzt Schläge ab | عَمَلًا

va. Schriftstück الكِتَابَة u نَقَلَ |
 a ه | etw. in's Reine نَسَخَ | ه
 | آبَى قَلَمًا - federn | يَبِيضُ ه
 etw. in der Rechnung - طَرَحَ ا ه
 | vn. jm. - (schriftlich
 abbestellen) | فِي الْحِسَابِ
 | أَبْطَلَ أَمْرَهُ نَحْرِيْرًا |
 -schreiber s. m. | فَاسِخُ pl. كَاتِبِ |
 -schreiten va. eine Ent-
 fernung | قَاسَ u, i مَسَافَةً بِالْمَشْيِ
 -schrift s. f. | صُورَةَ pl. نُسْخَةٍ
 | بِالصُّورَةِ - | نُسَخَ pl. |
 etw. - | نُسْخَتَهُ |
 -schuppen va. | قَشَرَ قُلُوسَ |
 -schürzen | تَقَشَّرَ - | السَّمَكِ
 va. Kleid الثَّوْبِ الْمُشَمَّرِ |
 -schüffig a. | وَعِرًا ذُو مُنْحَدَرٍ صَعْبٍ |
 -schütteln va. etw. | نَزَعَ i ه بِالْكَفْرِ
 | خَلَعَ ا ه | das Joch jē. abschütteln
 | عَصَى i ه | خَلَعَ ا نَيْرَ الطَّاعَةِ
 -schwächen etw. va. | أَضْعَفَ ه
 -schwächung s. f. | إِضْعَافٍ |
 -schwächen jm. etw. va. | نَالَ ا ه
 | مِنْهُ بِالْكَلَامِ (بِالتَّمَلُّقِ أَوْ إِاقْنَاعِ)
 -schweifen vn. | حَادَ i عَنِ الطَّرِيقِ
 bld. vom Thema | اسْتَنْطَرَدَ عَنِ
 | اسْتَنْطَرَادٍ - | الصَّدَدِ
 -schwemmen va. den Schmutz von

-schwindeln | أَزَالَ الْوَسْخَ مِنْهُ بِالْمَاءِ
 | نَالَ ا ه مِنْهُ بِالْكَذْبِ
 -schwören va. etw. | انْكَرَ ه حَالِفًا
 | Irrtum, Glauben - | ارْتَدَّ عَنِ
 -schwörung s. f. | ارْتِدَادٍ |
 -segeln vn. (Schiff) | أَقْلَعَ (مَرْكَبٌ)
 | (im Schiff fahren) | سَافَرَ فِي الْبَحْرِ
 -sehbar a. | عَلَى مَدِّ الْبَصَرِ
 va. etw. | نَظَرَ u إِلَى | رَأَى ا ه
 | عَرَفَ i ه مِنْهُ بِالْبَصَرِ - |
 es - | قَصَدَ i ه - | auf
 | قَصْدٍ - | ا النَّظَرَ عَنِ
 -seifen va. etw. | غَسَلَ i ه بِالصَّابُونِ
 | قَطَّرَ ه | -seihen va. etw. | صَوَّبَنَ ه *
 | عَلَى الْإِنْفِرَادِ - | بِمِصْفَاةٍ
 -senden va. jm. u. etw. | عَلَى حِدَةٍ
 | بَعَثَ ا ه و ه | أَرْسَلَ ه و ه
 -sender s. m. | الْمُرْسِلِ |
 -sendung s. f. | الْإِرْسَالِ |
 -sengen va. | وَفَدَ |
 | أَحْرَقَ الرِّيشَ مِثْلًا 2c. |
 -setzbar a. (Beamter) | عَزَلَهُ
 | رَائِحِ (Ware) - | (مَأْمُورِ)
 -Waren | أَنْزَلَ جَمَلًا |
 -Beamten | بَاعَ i الْبَضَائِعِ
 | عَزَلَ i الْمَأْمُورِ |
 - im Thun a | قَطَعَ ا ه
 | vn. - | أَوْدَعَ ا ه
 | v. imp. es setzt Schläge ab | عَمَلًا

Strümpfe zc. خَلَعَ a الكُفُوفَ أو zc. |
 - | vn. vom Wege - | الشراب الخ
 - | streiten va. | حاد i عن الطريق
 - | strich | جَحَد a ه له | jm. etw.
 (an einer Rechnung) s. m. طَرَح
 - | stufen va. | خَصَم | (في حساب)
 etw. | جَعَلَ a ه | شَكَلَ ه بالتدريج
 - | stufung s. f. | تَدَرَّج | دَرَجَةٌ دَرَجَةٌ
 - | stumpfen etw. va. | أَكَلَ ه | دَرَجَةٌ
 - | sturz s. m. | سَقُوط | أَضَعَفَ ه
 - | stürzen vn. u | سَقَطَ | وَقَعَ a
 | stutzen va. etw. | انْحَدَرَ مُنْقَطِعًا
 - | suchen va. einen Ort | قَصَرَ ه
 - | suchung s. f. | فَتَشَ | فَتَشَ i مَحَلًّا
 | sud s. m. | تَفْتِيش | تَفْتِيش
 - | sudeln va. etw. | abschmieren.
 absurd a | مُسْتَجِيل | مُحَال
 s. f. | ما يُضَادُّ العَقْلَ والصَّواب
 s. f. | رؤساء pl. | رُبَّاء
 ab-tafeln va. | أَدْوَات | أَدْوَات Schiff
 | tauen vn. | التَّلْمُ | المَرْكَبُ
 Abtei s. f. | أَدْبِيَّة pl. | دَيْر
 u. | دُبُورَة
 Ab-teil s. m. | قِسْم العَرَبَة في السِّكَّة
 - | teilen va. | أَقْسَام pl. | الحَدِيدِيَّة
 | فصل i ه | فَرَّقَ ه | قَسَمَ i ه
 | teilung s. f. | قِسْم pl. | أَقْسَام

أجزاء pl. | جُزء | فُصول pl. | فصل
 - | thun va. | jn. (schlachten, töten)
 s a | ذَبَحَ | قَتَلَ u ه | etw. (ab-
 schaffen) | أَبْطَلَ ه | - Kleider
 | خَلَعَ a | الثِّيَاب | abgethan f.
 dasselbe.
 Abtissin s. f. | رَّبِّيْسَة دَيْر
 ab-töten va. | الجَسَد | قَمَعَ a
 - | traben vn. | انْصَرَفَ خَابًا | -trag
 s. m. | دَفَعَ | الدَّيْن | einer Schuld
 | tragen va. | ضَرَّ u ه | - thun
 | Gebäude | هَدَمَ i | بناء
 | vom Tisch - | رَفَعَ a | الطَّعام | من
 | Schuld - | الدَّيْن | دَفَعَ a | السُّفْرَة
 | Kleider - | وَفَى i | بالدَّيْن
 | أَبْلَى | خَلَقَ | بال | الثِّيَاب
 | دَفَعَ | دَيْن | هَدَمَ | بناء | -tragung
 s. f. | أَحْسَرَ | -treiben va. | دَيْر
 zc. | أَحْسَرَ | -treiben va. | دَيْر
 | أَتَعَبَ | ه | الخَيْل | الخ
 | vn. (Schiff) | حَاد | i | حَاد
 | عن الطريق | (المَرْكَبُ) | abgetrieben
 | -trennen va. | مَتَّعَبَ | (Tier)
 | treten va. | Absatz, | فصل i ه
 | Stufe | نَعَلًا | أو | دَرَجَة | من | سَلَّمَ
 | - | تَرَكَ u ه | له | - | jm. etw.
 | (zurücktreten) | اسْتَعْفَى | vn.
 | (weggehen) | اِنْصَرَفَ | a. | ذَهَبَ | -

- a. مُمَكِّن مَنَعُهُ | -wendbarkeit
s. f. اِمْكَن مَنَعِهِ | -wenden va.
Uebel الشَّرِّ a مَنَع | jn. - von
صَدَّ u ه عَنْ | اَبْعَد ه عَنْ | اَحَاد ه عَنْ
sich - von مَن u دار | ا عَنْ | صَفَّر ا عَنْ
-wendig machen jn. صَدَّ i عَنْ
einem اَبْعَد ه عَنْ | -werfen va.
etw. ه i رَمَى | - jn. (Pferd)
سَقَط ه | وَقَعَ ه
Boden, Arbeit اَغْلَّ | اَثْمَرَ
-wesend a. غَاب i غَاب | - sein
-wesenheit s. f. غِيَاب | -wickeln
va. Garn الغَزْل u حَلَّ | Ge-
schäfte - اَقْتَمَّ ه | اَقْضَى i الاَشْغَال -
-wiegeln va. die Gemüter سَكَّن
اَهْدَأَهَا | الخَوَاطِر بَعْد اَضْطِرَابِهَا
-wiegen va. etw. ه i وَزَن | -winden
va. Garn الغَزْل u حَلَّ | -winken
vn. اَبَى بِالْاِشَارَةِ | -wirtschaften
va. Boden, Gut اَهْلَكَ اَرْضًا اَوْ
اَسَاءَ vn. ضَيَعَةً بِسُوءِ التَّدْبِيرِ
-wischen va. Staub
اَهْلَكَ اَرْضًا اَوْ اَسَاءَ vn. ضَيَعَةً بِسُوءِ التَّدْبِيرِ
-würgen va. مَسَّ ا الغُبَار مَثَلًا
jn. ه u خَنَقَ | -zahlen va. etw.
اَعَدَّ u ه | اَدْفَع ا ه
-zapfen va. Wein
اَحْرَجَ النَّبِيذَ مِنَ الْبِرْمِيلِ |
- Blut - i فَصَدَ | -zäumen va.
Pferd لِحَامِ فَرَسٍ u فَكَّ | -zäumen
va. etw. ه | سَيَّجَ | -zehren va. jn.
ا ا نَهَكَ ه | اَنْحَلَّ ه | -zehrung s. f.
اِرْزُوحَ | ضُعْفَ | نُحُولَ | نَوَاكَاةَ
| شَعَارَ | عَلَامَةَ | -zeichnen s. n.
| رَسَمَ u ه | -zeichnen va. etw. ه
| خَلَعَ va. Kleider, Hut ا
| الثِّيَابِ اَوِ الْبُرْنِيظَةِ (sub-
| اَحَدَفَ i ه | اَطْرَحَ ه (ab-
Wein, Bier - اَخْرَجَ النَّبِيذَ اَوْ
| اَلْبِيْرَةَ مِنَ الْبِرْمِيْلِ jn. die
| سَلَّمَ ا ه | - von jn. die
| تَرَكَ u ه | - Hand - jn. von etw. -
| شَغَلَ ه عَنْ vn. (wegziehen)
| اِنْصَرَفَ | اَذْهَبَ a
| قَصَدَ i ه | اَصَوَّبَ ه
| قَاسَ i ه بِالْبِرْكَارِ | -zug (bei
der Rechnung) s. m. فِي
| اَحَدَفَ | اَخْصَمَ | اَلْحِسَابِ (Weg-
| اِنْصَرَفَ | اَذْهَابِ | -zucken
va. jn. etw. مِنْهُ u ه
| اَخَذَ u ه مِنْهُ | -zwecken etw.
va. ه i ه | اَقْصَدَ | -zweigen sich v.
| تَفَرَّعَ | -zwingen va. jn. etw.
نال. ا ه مِنْهُ بِالْغَضَبِ
- Accent s. m. تَأْكِيْدٌ فِي الصَّوْتِ

- ächten va. in. حَجَزَ ه عن جَمِيع |
 سَلَبَ ه عنها | الحُقُوق
- acht-ens num. adv. ثَامِنًا | -fach,
 بِثَمَانِيَّةٍ أَضْعَافٍ -fältig
- achtlos a. مَغْفَلٌ | غَافِلٌ | سَاهٍ -ig.
 إِهْمَالٌ | غَفْلَةٌ | سَهْوٌ -feit s. f.
- achtmal num. ثَمَانِي مَرَّاتٍ
- achtsam a. مُعْطِي البَالِ | مُبَالٍ |
 مُبَالَاةٌ | إِنْتِبَاهٌ -feit | مُنْتَبِهٌ
- Achtung s. f. (die man genießt)
 (die man für - | إِعْتِبَارٌ | إِحْتِرَامٌ
 in. hat) | إِكْرَامٌ | -svoll a.
 (in Briefen) | مُكْرِمٌ | مُحْتَرَمٌ
 أَهْلٌ | -swert a. | الدَاعِي لَكُمْ
 مُخَالِفٌ | -swidrig a. | لِلْإِعْتِبَارِ
 الْإِحْتِرَامِ
- achtzehn num. ثَمَانِيَّةٌ عَشْرٌ | achtzig
 num. ثَمَانُونَ
- ächzen vn. i أَنْ | u نَاحٌ |
 عَوِيلٌ | نِيَاحٌ | أَنْيِنٌ -Achzen s. n.
- Acker s. m. حَقُولٌ | حَقُولٌ pl.
 -bau | مَزَارِعٌ pl. | مَزْرَعَةٌ | أَرَاضٍ pl.
 -bauer, | زِرَاعَةٌ | فَلَاحَةٌ s. m.
 -bürger, -mann, -smann s. m.
- | حَرَثٌ | -n v. u. | فَلَاحُونَ pl. | فَلَاحٌ
 a. فَلَاحٌ
- Acquisition s. f. اِكْتِسَابٌ | كَسْبٌ |
 اِتْحَاصِيلٌ | Erwerbung.
- Adam n. pr. آدَمَ
- addieren va. جَمَعَ الأَعْدَادَ | Zahlen
 | Addition s. f. | جَمْعُ الأَعْدَادِ
- Ade! (interjct.) اِسْتَوْدِعْكَ اللهُ
 بِحِفْظِ اللهِ
- Adel s. m. مَشْرَفُ النَسَبِ | - (die
 Adligen) | الأَعْيَانُ | الأَشْرَافُ -ig
 a. شَرِيفُ النَسَبِ | -n va. in.
 قَلَدٌ ه اللِّقْبُ الدَّالُّ عَلَى شَرَفٍ
 -sbrief s. m. | شَرَفٌ ه | النَسَبِ
 التَّكَبُّرُ | -stolz s. m. | بَرَاءَةُ الشَّرَفِ
 بِشَرَفِ النَسَبِ
- Aden n. pr. عَدَنَ
- Ader s. f. (Vene) عُرُوقٌ pl. عِرْقٌ
 (Pulsader) | عِرَاقٌ | - | عِرَاقٌ u. | عِرَاقٌ
 | شَرِيَانٌ pl. | in. zur -
 lassen ه | بَلَّسَ ه | bld. ه | فَصَدَ ه
 zur - lassen | انْفَصَدَ | -laß s. m.
 بَلَّسَ | bld. | فَصَادَ | فَصَدَ
- A Dieu! interjct. اِسْتَوْدِعْكَ اللهُ
 | وَدَاعٌ | Adieu s. n. | بِحِفْظِ اللهِ
 in. - | وَدَّعَ ه | وَدَّعَ ه
- Adjectiv s. n. gr. اِسْمُ صِفَةٍ
- Adjunkt, Adjutant s. m. مُعَاوِنٌ

Adler s. m. نَسْر pl. نُسُور u. اَنْسُر |

(feldzeichen) عِقَاب pl. عِقْبَان |

pl. سَنَجَق * | رايات pl. رَايَة

-auge s. n., -blick s. m. | سَنَاجِق

اَنْف قَان | -nase s. f. | حَدَّ البَصْر

adlig f. adelig.

Administration s. f. اِدَارَة | Verwaltung | Administrator s. m.

مُدِير | Verwalter.

Admiral s. m. اَمِير | قائد بَحْرِي

-ität s. f. | رَثِيس عَمَارَة | البَحْر

أَمَارَة البَحْر.

adoptieren va. jn. اِتَّخَذَ | تَبَنَّى هـ

an | اِتَّخَذَ هـ | bld. - etw. | آبْنَا

Kindesstatt annehmen | Adoption

s. f. | تَبَنَّى = adoptiv | تَبَنَّى s. f.

Adressat s. m. المرسل إِلَيْهِ |

Empfänger | Adressbuch s. n.

قَائِمَة سُكَّان البَدَد وَمَنَازِلِهِم

Adresse s. f. eines Briefes | عنوان

(Wohnungsangabe) | عنوان

تَعْرِيف المَنْزِل | بَيَان البَيْت

unter der - j. | بِأَسْمِهِ | adressieren

va. Brief | عَنُون الخطاب

Advent s. m. christl. زَمَان قَبْل

عيد الميلاد.

Adverb s. n. gr. ظَرْف.

adverbial a. gr. ظَرْفِي.

Advokat s. m. مُحَامِي فِي المَحْكَمَة |

ف. أَقْوَاكُتُو * | وَكِيل الدَعَاوِي

Rechtsanwalt | -enfneiff s. m.

-ur | حِيَل pl. حِيَلَة الأَقْوَاكُتُو *

s. f. وَظِيْفَة الأَقْوَاكُتُو *

Aeronaut s. m. مُسَافِر فِي مِئطَادِ

Luftschiffer.

Affaire s. f. اَمْر pl. اُمُور |

pl. مَصَالِح | Angelegenheit.

Affe s. m. zool. اَقْرَاد u. قُرُود pl. قِرْد

| مُقَلِّد النَاس | bld. | نَسْنَاس *

-nartig a. adv. | بِنُوع القِرْد

-nliebe s. f. | مَحَبَّة عَمِيَاء

Affekt s. m. اِضْطِرَاب | تَأْثِير

Gemütsbewegung | -ation s. f.

-iert | تَكَفَّف | تَصَنَّع

a. | مُتَصَنِّع | geziert.

affen va. jn. اَسْحَرَ مِنْهُ a | ضَحِكَ

Afferei, | اِسْتَوْغَزَ بِهِ | مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ

Afferei s. f. | سَخْرِيَّة | نَضَحَكَ

بنوع القرد. | affisch a. | اِسْتَوْغَزَاء

affizieren va. das Herz zc. اَثَّرَ فِي

عَمِلَ فِيهِ | القَلْب مِثْلًا

Afrika n. pr. اَفْرِيْقِيَّة | -ner s. m.

اَفْرِيْقِي | اِنْسَان اَفْرِيْقِي

After s. m. اَسْتَات pl. اَسْتَات

- المِيْتَةُ s. f. | باب البَدَن -miete s. f. | اِبْجَار
- المِيْتَرُ s. m. | مُسْتَأْجِر -mieter s. m. | مُسْتَأْجِر
- المِيْتَنُ v. | مِنْ مُسْتَأْجِر -mieten va. etw. |
- الرِدَاةُ s. f. | اسْتَأْجَرَهُ مِنْ مُسْتَأْجِر -rede s. f. |
- الرِدَاةُ v. | نَمَّ -reden vn. i, u | نَمَّ
- آغاوات pl. آغا (türk.) Aga
- عَامِلٌ | وَكَلَاءٌ pl. | وَكَيْلٌ s. m. | Agent s. m.
- مُتْرَفِعٌ | وَكَالَةٌ pl. | وَكَالَةٌ s. f. | Vertreter | -ur s. f.
- مُتْرَفِعَةٌ | وَكَالَاتٌ pl. | وَكَالَةٌ s. f. | Vertretung.
- رِجْعُ الصَّرَافِ s. n. | رِجْعُ الصَّرَافِ s. n. | Algio s. n.
- تِجَارَةٌ فِي أَوْرَاقٍ s. f. | تِجَارَةٌ فِي أَوْرَاقٍ s. f. | Algotage s. f.
- البُورْصَةُ | البُورْصَةُ |
- اِنْتِزَاعٌ | اِنْتِزَاعٌ s. f. | Algonie s. f.
- اَبَازِيمٌ | اَبَازِيمٌ pl. | اَبَازِيمٌ s. f. | Agraffe s. f.
- سِطْرَةٌ | سِطْرَةٌ | Spange.
- مِصْرٌ | مِصْرٌ pr. | مِصْرٌ n. | Ägypten
- الْوَجْهُ الْقِبْلِيُّ | الْوَجْهُ الْقِبْلِيُّ | بلاد الصَّعِيدِ | بلاد الصَّعِيدِ
- مِصْرِيٌّ | مِصْرِيٌّ s. m. | مِصْرِيٌّ s. m. | Ägypter s. m.
- مِصْرِيٌّ | مِصْرِيٌّ a. | مِصْرِيٌّ a. | ägyptisch
- وَاهٍ | وَاهٍ | Wah! Wah! interjct.
- مِخَارِزٌ | مِخَارِزٌ pl. | مِخَارِزٌ s. f. | Ahle s. f.
- أَجْدَادٌ | أَجْدَادٌ pl. | أَجْدَادٌ s. m. | Ahn s. m.
- أَسْلَافٌ | أَسْلَافٌ | أَسْلَافٌ | Ahnen
- عَاقَبَهُ | عَاقَبَهُ | عَاقَبَهُ | ahnden va. etw. (bestrafen)
- عَدَبٌ | عَدَبٌ | عَدَبٌ | ahnden va. etw. (eine Beleidigung rächen)
- أَخَذَ | أَخَذَ u | اِنْتَقَمَ مِنَ الْمُهَيِّبِينَ | اِنْتَقَمَ مِنَ الْمُهَيِّبِينَ
- النُّارُ مِنَ الْمُهَيِّبِينَ | النُّارُ مِنَ الْمُهَيِّبِينَ | Ahndung s. f.
- مُعَاقِبَةٌ | مُعَاقِبَةٌ |
- جَدَّاتٌ | جَدَّاتٌ pl. | جَدَّةٌ s. f. | Ahne s. f.
- سِنَاتٌ | سِنَاتٌ pl. |
- أَشْبَهَهُ | أَشْبَهَهُ | أَشْبَهَهُ | ahneln v. jm.
- حَسَرَ قَلْبُهُ بِ | حَسَرَ قَلْبُهُ بِ | ahnen va. etw.
- أَحْسَبُ | أَحْسَبُ | أَحْسَبُ | ich ahne, es ahnt mir daß
- يُحَدِّثُنِي قَلْبِي بِأَنَّ | يُحَدِّثُنِي قَلْبِي بِأَنَّ |
- صُورَ الْأَجْدَادِ | صُورَ الْأَجْدَادِ s. pl. | Ahn-enbilder s. pl.
- فَحْصٌ عَنِ شَرَفٍ | فَحْصٌ عَنِ شَرَفٍ s. f. | -enprobe s. f.
- تَكَبَّرَ بِشَرَفٍ | تَكَبَّرَ بِشَرَفٍ s. m. | -enstolz s. m.
- جَدَّةٌ | جَدَّةٌ s. f. | -frau s. f.
- النَّسَبِ | النَّسَبِ | -herr s. m.
- جَدٌّ | جَدٌّ s. m.
- مُشَابِهٌ | مُشَابِهٌ | مُشَابِهٌ | ähnlich a.
- مُشَابِهَةٌ | مُشَابِهَةٌ | مُشَابِهَةٌ | -heit s. f.
- حِسٌّ أَوْ شُعُورُ الْقَلْبِ | حِسٌّ أَوْ شُعُورُ الْقَلْبِ s. f. | Ahnung s. f.
- بِمَا سَيَأْتِي | بِمَا سَيَأْتِي |
- دُؤْبٌ | دُؤْبٌ coll. | دُؤْبٌ s. m. bot. | Ahorn s. m.
- سُنْبُلٌ | سُنْبُلٌ pl. | سُنْبُلَةٌ s. f. | Ahre s. f.
- أَلْفَاةٌ * | أَلْفَاةٌ s. f. | -nlese s. f. | سنابل
- لَاقِطٌ | لَاقِطٌ s. m. | -nleser s. m.
- مُجْتَمَعُ الْعُلَمَاءِ | مُجْتَمَعُ الْعُلَمَاءِ s. f. | Akademie s. f.
- دِيْوَانُ الْأَدْبَاءِ | دِيْوَانُ الْأَدْبَاءِ | Akademiker s. m.
- أَعْضَاءُ دِيْوَانِ الْأَدْبَاءِ | أَعْضَاءُ دِيْوَانِ الْأَدْبَاءِ |
- مُخْتَصٌّ بِدِيْوَانِ | مُخْتَصٌّ بِدِيْوَانِ a. | akademisch a.
- الْأَدْبَاءِ | الْأَدْبَاءِ |
- طَلْمٌ | طَلْمٌ s. f. | Alfazie s. f.

Alfa n. pr. عَا.

Alft s. m. (Handlung) | عمل (Teil
des Dramas) | فصل الرواية pl.
أوراق المحكمة | Alften s. pl. | فصول
مضابط * | دفاتر | سجل
aften-mäßig a. | موافق للأوراق | staub
s. m. | غبار الأوراق | -stücke f. Alften |
-wurm s. m. | من لا يفارق مطالعة
علامة s. n. | -zeichen | الأوراق
الدفتري.

Alftie s. f. حصّة pl. حصص | سهُم
pl. أسهُم | -ngesellschaft s. f.
Alftionär s. m. | شريكة مساهمة *
مُساهِم * | صاحب سهُم أو أسهُم
Alftion s. f. عمل pl. أعمال | فِعْل
pl. أفعال.

Alftiv s. n. gr. صيغة المعلوم | aktiv
a. عامل | فاعل | Alftiva
s. pl. comm. موجودات من مال
الناجر.

Alftuar, Alftuarius s. m. كاتب
المحكمة.

Alftustif s. f. علم السماع والأصوات |
akustisch a. | سمعي | مُستعدّ
لرّد صوت الناطق بالوضوح.

Alabaster s. m. حجر | رخام أبيض
الشطوط.

Alant s. m. راسن.

Alarm s. m. الصارخة * | الصارخة
دعا | u | دعر * | a | -ieren va. jn.
أقلق * | للقتال.

Alaun s. m. min. شَب | شَب.

Albanien n. pr. بلاد الأرئوط | Albanese,
Albanier s. m. أرئوط pl. أرئوط.

Albatros s. m. zool. طير بحريّ
عظيم الجناحين.

albern a. (Person) | أكَمَق | بليد
ما يضادّ العقل (Sache) | سفية
| سفه u | حمق u | - | والصواب
| - | سفاهة | بلادة | حمق s. f.
| - | ما يضادّ العقل والصواب.

Album s. n. (Photographie-) | مجموع
مجموع أشعار (Poësie-) | تصاویر

Alchimie s. f. كيمياء | Alchimist s. m.
من يتعاطى الكيمياء.

Alleppiner s. m. حلبی | Aleppo
n. pr. حلب.

Alexander n. pr. إسكندر | - der
Große | إسكندر ذو القرنين
Alexandrette n. pr. إسكندرونة |
Alexandrien n. pr. إسكندرية.

Alfanzeri s. f. قول لا طائل فيه.

Algebra s. f. علم الجبر | علم الحساب.

- allgütig a. كَلِيٌّ | قادر على كل شيء
كَلِيَّةٌ | -heit s. f. اللطف
- Allianz s. f. اِتِّحَادٌ | معاهدة | عَوْدٌ
alliiert | مُتَّحِدٌ | اتَّحَدَ | sich
all-jährlich a. سَنَوِيٌّ | adv. سَنَوِيًّا
-macht s. f. قُدْرَةٌ على كل شيء
-mächtig a. قَادِرٌ | قُدْرَةٌ مُطْلَقَةٌ
-mäßig | ضَابِطُ الكُلِّ | على كل شيء
adv. شَيْئًا فَشَيْئًا | تَدْرِيجًا
-nächtl. | شَوِيَّةٌ شَوِيَّةٌ * | قَلِيلًا قَلِيلًا
lich a. مِّنْ كُلِّ لَيْلَةٍ | -feitig a.
| نَهَارِ عَمَلٍ | -tag s. m. | كل طرف
| يَوْمِيٌّ | -täglich a. | نهار شغل *
-täglichkeit s. f. | اِغْتِيَادِيٌّ | عامي
-vater s. m. | اِبْتِدَائِيَّةٌ | عامية
-wissend a. | الأب العام (الله)
-wissenheit s. f. | كَلِيَّةُ العِلْمِ
-zu, -zusehr, -zuviel | كَلِيَّةُ العِلْمِ
adv. بِالزِّيَادَةِ | جِدًّا | زَائِدًا | كَثِيرًا
Allm s. f. مَرْجٌ فِي جِبَالِ الألب
pl. مَرْوَجٌ.
- Allmanach s. m. رُوزنَامَةٌ |
نتيجة.
- Allmosen s. n. صَدَقَاتٌ pl. صَدَقَةٌ
| حَسَنَاتٌ pl. حَسَنَةٌ
| jm. - geben,
| أَحْسَنَ إِلَيْهِ | تَصَدَّقَ عَلَيْهِ | spenden
Aloe s. f. bot. عُودُ النَّدَى | عُودٌ
- Allp s. m., Allpdruck s. m., Allp-
drücken s. n. كَابُوسٌ.
- Allpen s. pl. n. pr. جِبَالِ الألب |
إِحْمِرَارٌ s. n. | جِبَالِ عَالِيَّةٍ
-horn, Allp- | الجبال عند الغروب
horn s. n. | بُوقٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي جِبَالِ
-rose s. f. bot. | نَبَاتٌ مِنَ الألب
فَصِيكَةُ الدِفْلِيِّ.
- Allpner s. m. سَاكِنٌ جِبَالِ الألب.
- Allphabet s. n. حُرُوفٌ | الألف بَاء
مُرْتَبٌ على حُرُوفٍ | -ijch a. | الحِجَاءِ
الحِجَاءِ.
- Allraut s. m. bot. يَبْرُوحٌ | تَفَّاحُ الجَنِّ.
als conjct. | لَمَّا | - (nach einem Com-
parativ) | مِّنْ (بَعْدَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ)
| أَحْسَنَ مِنْهُ | 3. B. besser als er
| الألب (بَعْدَ النَفْيِ) | - (nach Verneinung)
- (zum | مِثْلُ | كَ | (vergleichend)
Beispiel) | - ob, - wenn
| فِي الحَالِ | حَالًا | bald adv. | كَأَنَّ
| ثُمَّ | حِينَئِذٍ | dann adv. | قَرِيبًا
بَعْدَهُ.
- also conjct. | إِذَا | إِذَا | لِيَذِلكَ | (so)
| bald, | يَعْني (das heißt) | كَذِلكَ
| حَالًا | -gleich adv.
- alt a. (Gegtl. jung) كَبِيرٌ | مُسِنٌ
| طَاعِنٌ فِي السِّنِّ | السِّنِّ | fein

(Gegtl. - | طَعَنَ a في السِّنِّ | أَسَنَّ
 neu) | عَتِيق | wie - bist
 ابن كم سَنَّة | كم سَنَّة عُمُرُك du?
 | شُيُوخ pl. الشُّيُخ der Alte | أُنْت
 | عَجَائِز pl. العَجُوز die Alte
 | الأَقْدَمُون | الأولون Alten.

Alt s. m. mus. الدَّرَجَة الواطئة من
 الصَّوْتِ النِّسائِي.

Altan s. m. شُرْف pl. شُرْفَة.

Altar s. m. هَيْكَل pl. هَيْكَل.

alt-baden a. (Brot) باثت (خُبْز)

أَلْمَانِي a. -deutsch - | قَدِيم bld.

قَدِيم.

Altenteil s. m. الحِصَّة الباقية لِصاحِب
 الأَرْضِ بِحَسَبِ الاتِّفَاقِ عِنْد
 التَّنَازُلِ عِنها لِابْنِهِ.

Alter s. n. | عُمُر (Lebens-) | سِنِّ

| كِبَر | شَيْخُوخَة (-Greisen) -

| زَمَن | عُمُود pl. عَهْد (-Zeit) -

| أَسَنَّ -n vn. | أَيَّام | أَرْمَنَة pl.

| طَعَنَ a في السِّنِّ | -sgenosse s. m.

| أَقْران pl. قِرْن | أَثْراب pl. تَرَب

| ضَعيف لِكِبَرِ السِّنِّ a. -schwach

| ضَعْف لِكِبَرِ السِّنِّ s. f. -schwäche

| القُرُون الماضِيَة s. n. -tum

| الأَثار -tümer pl. | الأَقْدَمُون

| عَتِيق a. -tümlich | العَتِيقَة

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

alt-fränkiش a. | قَدِيم | مُخَالِف

- Ameise s. f. نَمَل coll. pl. | Ampfer s. m. bot. حُمَاض.
- eine - نَمَلَةٌ | Amphibium s. n. حَيَوَان عَائِشٍ
-nhaufen s. m. | بالبَرِّ وبالْبَحْرِ.
- قرْبَةِ النَمَلِ.
- Amen آمين | sagen آمَن - | Amphitheater s. n. مَرَسَعٌ بِهَيْئَةٍ
- sagen آمَن - | دائِرَةُ ذُو دَرَجَاتٍ.
- رضى a ب 3u.
- Amendement s. n. تَغْيِيرٌ فِي قَانُونٍ | Amputation s. f. med. جَذْمُ عَضْوٍ
يُقْتَرَعُ فِيهِ | amputieren va. Glied med.
- Amerika n. pr. بِلَادٌ آمِيرِيكَا | -ner | قطع a ه | جَذْمٌ i عَضْوًا لِلْعِلَاجِ.
- s. m. | انسان آمِيرِيكَانِي | Amstel s. f. zool. شُحْرُورٌ pl. شُحَارِبِرٌ.
- a. آمِيرِيكَانِي.
- Amethyst s. m. min. جَمَسْتٌ | Amt s. n. مَنَصِبٌ pl. مَنَاصِبٌ |
جَمَسْتٌ | وَظِيْفَةٌ * | خِدْمَةٌ pl. خِدْمٌ |
(Bureau) - | مَأْمُورِيَّةٌ | وظائف
- Amme s. f. | مُرْضِعَةٌ * | eine | (Verwaltung) - | مَكَاتِبٌ pl. مَكْتَبٌ |
- nehmen für ل | إِسْتَرْضَعُ s ل | ein - | تَنَصَّبَ | ein - | bekleiden - | قضاء
- ein Kind durch eine - | säugen | in. in ein - | einsetzen |
lassen s | رَاضِعٌ s | -nmärchen s. n. | -ieren vn. | وَظَّفٌ s * | نَصَّبَ s |
خُرَافَاتٌ pl. خُرَافَةٌ.
- Ammoniak s. m. chem. نُشَادِرٌ * | -lich a. | تَوَظَّفٌ * |
Amnestie s. f. | عَفْوٌ عَامٌّ | -ren in. | -mann s. m., pl. -leute | رَسْمِيٌّ |
عَفَا u عَنهُ.
- Amortisation s. f. einer Schuld | حُكَّامٌ pl. حَاكِمٌ | قَضَاةٌ pl. قَاضٍ |
Tilgung | إِسْتِهْلَاكٌ | فَكٌّ دَيْنٍ | جَرِيْدَةٌ رَسْمِيَّةٌ | -sblatt s. n. |
amortisieren va. Schuld u فَكٌّ | جاوِيشِ * | قَوَاسٌ * | -sdiener s. m. |
tilgen | إِسْتِهْلَاكٌ ه | فَكٌّ دَيْنٍ | مَحْكَمَةٌ آئِنْدَائِيَّةٌ | -sgericht s. n. |
Amortisierung s. f. | Amortisation. | قَاضٍ فِي مَحْكَمَةٍ | -srichter s. m. |
Ampele s. f. قَنَادِيلٌ pl. قَنَادِيلٌ | قَاضٍ فِي مَحْكَمَةٍ | آئِنْدَائِيَّةٌ | -sricht s. f. | لِبْسٌ |
كَمْبَةٌ * | رَسْمِيٌّ.
- Amulet s. n. | عُوْدَةٌ pl. عُوْدٌ | حَمِيْمَةٌ | عُوْدٌ |
حجَابٌ | تَمَائِمٌ pl.

-bellen va. jn. | نَبَحَ a عَلَيْهِ |
 -bequemen sich v. | لَاءَمَ | نَابَحَ ه
 -beraumen va. Termin | عَيَّنَ
 -beten va. jn. u | سَجَدَ | مِيعَادًا
 -betenswert, anbetenswürdig a. | أَحَبَّ ه جِدًّا | عَبَدَ u
 مُسْتَحِقِّ | السُّجُودِ | -beter s. m. | عَابِدَ pl.
 -betracht, in | سَاجِدَ | عِبَادَ
 -betreffen | بِنَاءٍ عَلَى | نَظَرًا إِلَى
 va. etw. | ب | حَصَّ u | اِخْتَصَرَ
 -betteln va. jn. | طَلَبَ u الصَّدَقَةَ
 -betung s. f. | عِبَادَةَ | سُجُودَ | مِنْهُ
 -bieten va. jn. etw. | ه | لَه
 -binden va. jn. u. | عَرَضَ i | ه | لَه
 | شَدَّ u | ه | وَه | رَبَطَ u | ه | وَه
 | اسْتَدَانَ | تَدَيْنَ | einen Bären -
 | شَاجِرَهُ | حَاصِمَهُ | - vn. mit jn.
 | خَانِقَهُ * | نَازَعَهُ | kurz ange-
 -blasen va. | غَيْرَ مُبَالٍ | bunden
 | نَفَخَ u | أَحْيَا - das Feuer
 | مَنظَرَ | -blick s. m. | بالنَّفْخِ
 | نَظَرَ u | إِلَيْهِ | -blicken jn. va.
 | أَوْمَأَ | -blinzen, -blinzeln va. jn.
 | صَعَقَ a | إِلَيْهِ | -blitzen va. jn.
 | ثَقَبَ u | فَاسَّ | -bohren va. | بالنَّظَرِ
 | بَرْمِيلًا | -borgen va. jn. um
 | اسْتَعَارَهُ | -brechen va. etw. | مِنْهُ

vn. - | فَتَحَ a | ه | بَدَأَ a | ه | أَوْبِ
 | ظَهَرَ a | طَلَعَ u | (النَّهَارُ) (der Tag)
 | أَظْلَمَ | (اللَّيْلُ) (die Nacht) -
 -brennen va. (Licht) | أَقْبَلَ | خَيْمَ
 | أَوْقَدَ هَا | وَلَعَ الشَّمْعَةَ | vn. - (von
 Speisen) | شَاطِ i | (الطَّعَامِ) | etw. --
 | شَيَّطَ ه | -bringen va. etw. | لَافَّ
 | وَضَعَ a | ه | جَاءَ i | ب | أَتَى i | ب
 | زَوْجَ البَنَاتِ - Töchter -
 | صَرَفَ البَصَائِعَ | Waren -
 | مَنَاسِبَ | -bruch s. m. des Tages
 | طُلُوعَ النَّهَارِ | - der Nacht | اِقْبَالَ
 | أَنَبَّ ه | -brummen va. jn. | اللَّيْلِ
 | وَبَّغَ ه | -brüten va. Eier | اِبْتَدَأَ
 | فِي حِضَانِ البَيْضِ

Anchovis s. m. | سَمُورَةَ

(große | نَسِكَ | تَقَوَّى | An-dacht s. f.
 | اِعْتِنَاءَ | Aufmerksamkeit) | صَلَّى | -dächtig a.
 | مُعْتَنِينَ | (sehr aufmerksam) -
 | دَامَ | -dauern vn. u | دَاوَمَ |
 | تَذَكَّرَ | -denken s. n. | تَذَكَّرَ

ander a. | أُخْرَى | f. | آخَرَ | pl. | أُخْرَ |
 | غَيْرُهُ | ein -er als | غَيْرَ | ein -er als
 | فَوَاحِدَ -n | einer nach dem
 | غَيَّرَ ه | -ändern va. etw. | بَدَّلَ
 | تَغَيَّرَ | sich -

Angeld s. n. رُعْبُون * | عُرْبُون.

angelegen, sich etw. - sein lassen
 | اِهْتَمَّ بِ | اِغْتَنَى بِ |
 -heit s. f. مَصْلَحَةٌ | اُمُور pl. أمر |
 pl. الأُمُور | auswärtige -en | مَصَالِح pl.
 | الخَارِجِيَّة | -lich a. مُهِم | adv.
 بِالْحَاجِ.

Angelhafen s. m. كَلَابِ الصِّنَارَةِ |
 angetn vn. صَادَ i سَمَكًا بِالصِّنَارَةِ.

angeloben va. jm. etw. a عَهْدَ
 | وَعَدَ s بِ | إِلَيْهِ فِي.

Angelpunkt s. m. قُطُوب pl. قُطُب
 u. اَقْطَاب | angelweit adv.
 - offen (Thür, Mund) مَفْتُوح
 | كَثِيرًا (الباب أو القم).

angemessen a. مُوَافِق | مُنَاسِب |
 jm. - sein s نَاسَبَ | f. anmessen |
 -heit s. f. مُوَافَقَةٌ | مُنَاسَبَةٌ.

angenehm a. مَقْبُول | لَطِيف.

Anger s. m. مَرَاعِ pl. مَرَعَى.

an-gehen a. مُعْتَبَر | f. ansehen |
 -gesehen a. مُسْتَوِطِن | سَاكِن |
 -gesicht s. n. وَجْه pl. وَجُوْه |
 im -- in | انْجَسَتْ, im --
 | اِزْتَنَى | -gestammt a. قَدَامَهُ |
 | مَوْظَف * | -gestellte s. m. مَوْرُوث |
 | -getrunken a. اَنْتَمَّ | f. anstellen | مَأمُور

انترينكن | -ge-
 wöhnen va. jm. etw. عَوَّدَ s ه
 | اِغْتَاد | تَعَوَّدَ ه -
 | sich etw. -
 gewohnheit s. f. عَادَةٌ pl. عَادَات
 u. عَوَائِد | -girren jm. va. اِنْتَفَت
 | حَقِيقَةً (wirkl. u. bld. مُعَرِّدًا
 | (وَمَجَازًا).

Angler s. m. صَيَّادِ سَمَكٍ بِالصِّنَارَةِ.

an-glimmen vn. اِنْتَشَعَلَ شَيْئًا فَشَيْئًا |
 -gloßen va. jm. كَالْأَبْلَه |
 -greifen va. (anfassen) etw.
 | هَجَمَ u عَلَيْهِ - | مَسَكَ i ه بِالْيَدِ
 | - | تَعَدَّى عَلَيْهِ | عَارَضَ s
 | أَضْعَفَ s | أَتْعَبَ s (Krankheit)
 | sich - | عَمِلَ a (machen) -
 | -greifer s. m. اَلْهَاجِم | بَدَلَ وَسَعَهُ
 -grenzen vn. اِنْتَصَلَ بِ |
 | مُجَاوِر | مُتَّصِل بِ | - | جَاوَرَ ه
 -griff s. m. هُجُوم | -grinsen va.
 | نَظَرَ u إِلَيْهِ ضَاحِكًا ضِحْك |
 | اَلْمُسْتَهْزِئِي.

Angst s. f. رَوْع | فَرْع | خَوْف |
 | اِضْطِرَاب | in tausend Ängsten
 | فِي غَايَةِ الضِّيق | - um ihn
 | اَخَافُ عَلَيْهِ | jm. - machen
 | خَوْفَ s | es wird mir - u. bange
 | اَخَافُ كَثِيرًا.

ängstigen va. jn. | أَفْلَقَ هـ | sich um
jn. - خَافَ ا عَلَيْهِ .
ängstlich a. | خَائِفٌ | -feit s. f. | خَوْفٌ |
فَلَقٌ .
an-gucken va. jn. u. etw. | نَظَرَ u إِلَى |
-haben va. etw. | تَفَرَّجَ عَلَى *
| ضَرَّ هـ u | -jm. etw. -- | كَانِ u لَابِسًا
-haften vn. jn. | تَعَلَّقَ بِهِ |
-hafen va. etw. * | عَلَّقَ هـ فِي كُلابٍ *
-halt s. m. | سَنَدٌ | -halten va.
etw. | أَوْقَفَ هـ | وَقَفَ هـ | أَمْسَكَ هـ
jn. zu etw. - | عَوَّدَ هـ |
vn. -- (dauern) u دام | -- (still-
stehen) i | تَوَقَّفَ | وَقَفَ |
um etw. - | دَائِمٌ a. | -haltend | طَدَّبَ هـ u
| مُلْحَقٌ | ذُيُولٌ pl. | ذَيْلٌ s. m. -hang
-hängen vn. | حِزْبٌ (Partei) -
| اتَّخَذَ | لَازِمٌ | لَاصِقٌ | التَّصَقَ |
-hängen va. | حَازِبٌ هـ | تَبِعَ هـ a
etw. | عَلَّقَ هـ | einem Briefe etw. -
| أَضَافَ هـ إِلَى الخِطَابِ (hinzufügen)
-hänger s. m. | ذَيْلُ الخِطَابِ بِ
| مُتَحَرِّبٌ | مُحَازِبٌ | تَبَعَةٌ pl. | نَابِعٌ
-hängig a., einen Prozeß gegen
jn. -- machen | أَقَامَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ
-hänglich a. jn. | ادَّعَى عَلَيْهِ
-hänglichkeit | مُحِبٌّ | مُتَعَلِّقٌ بِهِ

s. f. | تَعَلَّقَ | مَحَبَّةٌ | -hängsel s. n.
-hauchen va. etw. | ذُيُولٌ pl. | ذَيْلٌ
-häufen va. etw. | نَفَعَهُ u عَلَى
| إِذْخَرَ هـ | جَمَعَ هـ a | لَمَّ هـ u
| تَرَكَمُ | اجْتَمَعَ | التَّمَّ -- |
-heben vn. | ابْتَدَأَ | ابْتَدَأَ
-heften va. etw. | قَالَ u | الكَلَامِ
| تَعَلَّقَ -- vn. | لَصَقَ هـ | عَلَّقَ هـ
| تَلَصَّقَ | -heilen va. | رَدَّ u |
| عُضْوًا مَقْطُوعًا إِلَى مَحَلِّهِ | بالتَّطْيِيبِ
vn. | رَدَّ إِلَى مَحَلِّهِ |
etw. -- geben, stellen | سَلَّمَ أَمْرًا إِلَى
| أَصَابَ هـ | -fallen | فَوَّضَ هـ إِلَى
| ذَكَرَ هـ | -heimeln va. jn. | نَصِيبًا
| -heischig a., sich -- machen
zu | أَلَزَمَ نَفْسَهُ بِ
| إِلَى الآن (bisher) -- | إِلَى هُنَا
-herrschen va. jn. | نَحَشَنَّ عَلَيْهِ
-höhe s. f. | تَلَّ pl. | ثُلُولٌ u.
-holen va. | رَبَّى pl. | رَبْوَةٌ
-hören va. jn. | سَكَبَ هـ a | جَرَّ u حَبْلًا
| أَصَغَى إِلَيْهِ | أَنْصَتَ إِلَيْهِ |
jn. etw. -- | عَرَفَ i هـ مِنْهُ بِصَوْتِهِ --
animalisch a. | حَيَوَانِيٌّ | tierisch.
Anis s. m. | أَنْيْسُونٌ *
an-jeht adv. | الآن | -kämpfen vn. gegen
| شَرَاءٌ s. m. | -kauf | قَاوَمَ هـ etw.

-lockung s. f. جَادِبِيَّة | جَدْب |
 -löten etw. va. | إِغْرَاء | اجْتِنَاب
 كَذَب | لُجْم u ه | -lügen va. ju. i
 | اِتَّكَم ه ب | jm. etw. - عَلَيْهِ
 -machen va. etw. | نَسَب i ه | اِيَّهِ بِالْكَذْب
 | اَلصَّق ه | شَدَّ u ه | va. etw.
 | وَلَع النار - | رَبَط u i ه | Feuer
 | شَعَلَ a ها | اَوْقَدَهَا | Speisen
 | اَضَاف ه | beim Kochen mit etw. -
 | -malen etw. | اَلطَّبْع |
 | تَقَرَّب s. m. | صَوَّر | va.
 | -marschieren vn. | (العَسْكَرُ) |
 | -maßen sich etw. | (العَسْكَرُ)
 | مُدَعَّى بِ | angemäßt | اِدَعَى بِ
 | مُتَكَبِّر a. | -maßend, -maßlich
 | تَكَبَّر | -maßen s. f.
 | رَبَّى | -melden etw. va. | سَمَّن
 | اَحْبَرَ ه ب | -meldung va. ju. etw.
 | اِخْبَار s. f. | -mengen va. etw. mit
 | خَلَط i ه ب | -merken va. etw.
 | وَضَعَ a | علامَة عَلَى | قَيَّد ه
 | شَعَرَ u ه | -merkung | فِيهِ ب -
 | اَحَسَّ فِيهِ ب | -merkung
 | تَنْبِيهَات pl. | تَنْبِيهِه s. f. (auf
 | اَعْلَمَةُ | تَعْلِيْقَةُ | dem Rande)
 | اَلثِيَاب | قَاس i | -messen va. Kleider
 | مُوَافِق | مُنَاسِب | angemessen

-mut s. f. ظَرَاْفَة | -muten ju. va.
 | اَعْجَب ه | -mutig a. | اَثَّر فِيهِ
 | نَسَب ه | -nageln va. etw. | ظَرِيْف
 | سَمَّر ه | -nagen etw. | بِالْمِسْمَار
 | قَرَض i ه | -nähen va. Knöpfe
 | خَيَّط ه | خَاط i ه | | رَكَّب الزَّر
 | قَرَّب ه | -näheren va. etw. |
 | اِقْتَرَبَ اِلَى | قَرَّب u مِيْن | - an sich
 | اَقْبَلَ اِلَى | دَنَا u مِيْن | -näherung
 | اِقْتَرَابَ اِلَى | an | -nahme s. f.
 | اِقْبُول (Einwilligung) | - s. f.
 | اَنْ كِيْنَدِيسْتَات | فَرَض (math.) -
 | اَنْخَبَار الَاْيَام | تَوَارِيْع s. pl. Anmalen
 | مَقْبُول a. | -nehmen an-nehmbar
 | قَبِل a ه | - (einwilligen) va. etw.
 | رَضِيَ a ب | - (voraussetzen)
 | فَرَض i ه | einen Diener -
 | اِسْتَحْدَم ه | eine Gewohnheit -
 | تَبَنَّى ه | an Kindesstatt - | تَعَوَّد
 | مَعْلُومًا - | ظَنَّ u ه | etw. für bekannt
 | اِهْتَمَّ ب | - sich einer Sache (gen.)
 | اِعْتَنَى ب | -nehmlich a. | مَقْبُول
 | لَدَات pl. | لَدَّة s. f. -nehmlichkeit
 | شَيْء مُعْجَب .
 | اِلَى u ه | ضمّieren etw. va.
 | اَخَذَ u ه | | اَنْخَبَار s. f. Annexion
 | اِلَى نَفْسِهِ | ضَمَّ اِلَى نَفْسِهِ

annoch (veraltet) إِلَى | لِلآن | بَعْدُ
 تِلْكَ السَّاعَةَ.
 Annonce | إِعْلَان فِي جَرِيدَةٍ | an-
 noncieren va. etw. فِي هِ
 جَرِيدَةٍ.
 annullieren va. etw. هِ | أَبْطَلَ هِ.
 Anomalie s. f. | شُدُوز | خِلَافِ الْقِيَاسِ.
 anonym a. | مَجْهُولِ الْأَسْمِ | adv.
 هِيَ بِنُ بَيِّ - us s. m. | بِلا ذِكْرِ الْأَسْمِ.
 an-ordnen va. etw. ب | أَمَرَ
 قَدَّر (Gott) | نَظَمَ i هِ | رَتَّبَ هِ
 تَرْتِيبِ s. f. | قَضَى i
 تَقْدِيرِ (göttl.) - | أَوَامِرِ pl. أَمْرٍ
 مَسَكَ i, u هِ | -packen va. etw.
 قَبَضَ i, u عَلَى | -passen va. jm.
 رَكَّبَ هِ فِيهِ | أَحْكَمَ هِ فِيهِ. etw.
 - jm. ein Kleid | طَبَّقَ عَلَى *
 لَبَّقَ لَهُ الثَّوْبَ | -passung s. f.
 تَطْبِيقِ | -peitschen va.
 عَجَّلَ الْفَرَسَ بِالسَّوْطِ (Pferd) |
 غَرَسَ i هِ | -pflanzen etw. va.
 زَرَعَ | غَرَسَ | -pflanzung s. f.
 مَزَارِعِ pl. مَزْرَعَةٍ | -pinseln va.
 دَهَنَ u هِ | -pochen vn. an
 دَقَّ الْبَابَ | طَرَقَ الْبَابَ | die Thür
 مُصَادِمَةً | صَدَّمَ | -prall s. m.
 -prallen vn. an od. gegen

لَطَمَ i هِ * | صَادَمَ هِ | صَدَّمَ u هِ
 مَدَحَ a هِ | -preisen va. etw.
 عَصَرَ i هِ | شَدَّ u هِ | -pressen va. etw.
 -proben, -probieren etw. va.
 لَبَّقَ - jm. ein Kleid | جَرَّبَ هِ
 -pumpen va. jm. um
 اسْتَدَانَ هِ | اسْتَلَفَ هِ | etw.
 لَبَسَ هِ لِبْسٍ | زَيَّنَ هِ | -pußen jm.
 تَعَلَّقَ سِجِّ | -ranken sich
 تَعَلَّقَ كَالْعَرِيْشَةِ * | كَالْعَرَانِيْسِ
 تَحَشَّنَ عَلَيْهِ | -ranzen jm. va.
 وَصَلَ بِالضَّجَّةِ | -raffeln vn. | وَبَّغَ هِ
 أَشَارَ عَلَيْهِ بِ | -raten va. jm. etw.
 حَسَبَ u هِ | -rechnen va. etw.
 نَسَبَ i هِ إِلَيْهِ (bld.) | -rechnung s. f.
 حِسَابِ | in -
 bringen f. anrechnen | -recht s. n.
 حِطَابِ s. f. | حُقُوقِ pl. حَقِّ | -rede
 خَاطَبَ هِ | -reden va. jm.
 دَكَرَ u هِ | -regen etw. jm. zu etw. -
 حَتُّْ s. f. | حَرَّضَ هِ عَلَى | -regung
 - geben zu f. anregen | تَحْرِيطِ
 نَظَمَ i هِ | -reihen va. Perlen
 - sich | أَضَافَ هِ إِلَى | - etw. an
 تَعَاقَبَ | -reihung s. f.
 تَعَاقَبَ | -reißen va. etw. a
 قَطَعَ | -reißer
 مِنْهُ الْقِطْعَةَ الْأُولَى | angeriffen

-reißer s. m. | سَكْرَانٌ قَلِيلًا
 -reiten vn. | تَقَرَّبَ | تَاجِرٌ خَدَّاعٌ
 -reiz | رَاكِبًا عَلَى ظَهْرِ الْفَرَسِ
 s. m. | حَثٌّ | تَحْرِيكٌ
 -reizen va. | حَرَّضَ ه عَلَى | حَثَّ ه عَلَى
 in. zu | حَرَّكَ ه إِلَى | حَمَلَ ه عَلَى
 -reizung s. f. | Anreiz | -richten
 va. | عَمِلَ ه | جَهَّزَ الطَّعَامَ
 Speisen | مَفْضُوحٌ | -rüchig a. | سَوَى ه *
 -rücken vn. | تَقَرَّبَ | مَشْبُوهٌ *
 | نِدَاءٌ | -ruf s. m. | (الْجُنُودُ خُصُوصًا)
 -rufen va. | نَادَى ه | دَعَا ه
 in. u | إِسْتَعَاثَ - um Hilfe | نَدَى ه *
 -rufen s. f. | نِدَاءٌ | دُعَاءٌ
 etw. va. | لَمَسَ ه | مَسَّ ه
 a | تَبَّلَ الطَّعَامَ بِ | mit
 Speisen - | -sagen va. | إِخْبَارٌ | -sage s. f.
 etw. | آذَنَ ه بِ | أَحْبَرَ ه بِ
 | جَمَعَ ه | لَمَّ ه | -sammeln va.
 | اجْتَمَعَ - sich | -sammlung s. f.
 | -fähig a. | اجْتِمَاعٌ | كَوْمٌ pl. | كَوْمَةٌ
 | -satz | مُسْتَوِطِنٌ | حَضْرِيٌّ | مُقِيمٌ
 s. m. | بَدَأَ - (einer Rechnung)
 | حَسَبَ | in - bringen | الْمُحْسُوبُ
 | تَعَلَّقَ بِهِ مَاصًا | -fangen v. sich an
 | نَفَعَ عَلَيْهِ نَفْحًا | -fäufeln va. | in.
 | سَكْرَانٌ قَلِيلًا | angefäufelt | خَفِيفًا

| اقْتَرَبَ بِسُرْعَةِ الرِّيحِ | -faufen vn.
 | أَنَالَ ه | -schaffen va. | in. etw. ه
 | اسْتَرَى ه | sich etw. - | جَهَّزَ ه لَهُ
 | تَجَهَّزَ | -schaffung s. f. | تَجَهَّزَ بِ
 | نَظَرَ ه إِلَى | -schauen | in. u. etw.
 | واضحٌ | -schaulich a. | تَفَرَّجَ عَلَى
 | -schaulichkeit s. f. | ظاهرٌ | بائِنٌ
 | -schauung s. f. | بَيَانٌ | وَضُوحٌ
 | أَفْكَارٌ pl. | فِكْرٌ | نَظَرَ عَقْلِيَّ | تَصَوَّرَ
 | -schein s. m. | الظاهر | den - haben
 | -scheinend, | ظَهَرَ ه | أَنْ
 | -scheinlich a. | ظاهرٌ | -schicken v.
 | هَمَّ بِ | اسْتَعَدَّ لِ | sich zu
 | نَظَرَ ه إِلَى | -schielen va. | in. | نَظَرَ
 | جَرَحَ ه | -schießen va. | in. | الأَحْوَالُ
 | تَقَرَّبَ رَاكِبًا | vn. | بِإِطْلَاقِ الرِّصَاصِ
 | عاشقٌ | سَكْرَانٌ قَلِيلًا | angeschossen
 | -schirren va. | Pferd | جَهَّزَ الْفَرَسَ
 | -schlag s. m. (Anschlagen | طَقَمَ ه *
 der Wellen) | إِنْدِفَاعُ الْأَمْوَاجِ
 | إِعْلَانٌ مُلَصَّقٌ | (Befanntmachung) -
 | صَدَدٌ | (Plan) - | عَلَى الْحَيْطَانِ
 | - (Verschwörung) | قُصُودٌ pl. | قَصْدٌ
 | دَسَائِسٌ pl. | دَسِيسَةٌ | تَأْمُرُ | مُوَأْمَرَةٌ
 | رَسْمٌ بِنَاءٌ | مع | مِيزَانِيَّةٌ | (-Kosten) -
 | تَقْدِيرٌ | تَقْوِيمُ النِّفَقَاتِ | اللَازِمَةُ
 | -schlagen | الكُلْفَةُ | قَبْلَ الْعَمَلِ

| صَدْمٌ s. m. | ابْتَدَأَ الْغِنَاءَ | stoß s. m.
 | Stein des | دَفَعٌ | لَطَمٌ * | مُصَادِمَةٌ |
 | ohne | مَوْقِعَ زَلَّةٍ | حَجَرَ عَثْرَةَ -es
 | -- lesen | قَرَأَ | بِلا تَوَقَّفٍ --
 | geben, erregen, verursachen
 | u | سَاءٌ | an etw. -- nehmen
 | دَفَعٌ a | استَاءَ بِ | -stoßen va. jn.
 | لَطَمٌ i * | صَادَمٌ | صَدَمٌ u |
 | تجاوزَ - | صَدَمٌ | an einander
 | دَقٌّ u الأَقْداح (beim Trinken) -
 | mit dem fuße - an | لِسْرُورٍ |
 | تَوَقَّفَ - | عَثْرَ | i, u |
 | مُجَاوِرٌ a. | -stoßend | في الكلام
 | سَيِّئٌ | مُعَثِّرٌ a. | -stößig
 | شَيْءٌ | -stößigkeit s. f. | مُشَدِّكٌ *
 | أَشَّعَّ | مُعَثِّرٌ | -strahlen va. jn.
 | قَصَدَ i | ه | -streben va. etw.
 | مَسَحَ a | ه | بالدِّهَانِ | -streichen etw.
 | طَلَى i | ه | بِلَوْنٍ غَلِيظٍ | دَهْنٍ u |
 | طَارِشٌ * | طَالٍ | -streicher s. m.
 | أَتْعَبَ | ه | -strengen va. jn.
 | أَقَامَ | -gegen jn. | Prozeß, Klage
 | بَدَّلَ | -u, i | الدَّعْوَى عَلَيْهِ |
 | بَدَّلَ | وَسَعَهُ | في | جَهْدَهُ | في
 | سَعَى | ل | اجْتَهَدَ | في
 | مَسَاعٍ pl. | مَسَعَى | جِدَّ | جَوْدٌ s. f.
 | سَعَى | ل | -strich | -en machen zu

s. m. | دِهَانٍ | ein - von Gelehrsamkeit
 | تَظَاهَرَ بِالْعِلْمِ | -stricken va. etw.
 | أَضَافَ ه | زَارِدًا | -stürmen vn. gegen
 | هَجَمَ u | عَلَى | -suchen bei jn. um
 | التَّمَسَّ | ه | مِنْهُ | -suchen s. n.
 | التَّمَّسَ | | -tasten va. jn. u. etw.
 | مَسَّ a | ه | و | لَمَسَ u | i, u | ه |
 | مَسَّ a | ه | آذَى | ه | - die Ehre jz.
 | حِصَّةٌ pl. | بالشَّرَفِ | -teil s. m.
 | قِسْمٌ pl. | قِسْمَةٌ | حِصَصَ | an etw.
 | تَشَارَكَ فِي | | -haben --
 | اِهْتَمَّ بِ | اِعْتَنَى | ب | -nehmen --

Anthologie s. f. مُنْتَخَبَاتٌ.

Anthropologie s. f. عِلْمُ الْإِنْسَانِ.

| لَبَسَ a | ثِيَابَهُ | Kleider anthum va.
 | سَكَّرَ a | ه | فَعَلَ | ه | له | - jm. etw.
 | فَتَنَ | ه | einem Mädchen Gewalt -
 | فَضَحَ a | الآبْنَةَ | sich ein Leid -
 | قَتَلَ u | نَفْسَهُ | .

antichambrieren vn. اِنْتَضَرَ وَقْتًا.

وَقَفَ i عَلَى الْبَابِ | للدُّخُولِ.

Antichrist s. m. الْمَسِيحُ الدَّجَالُ.

antik a. عَتِيقٌ | قَدِيمٌ.

Antilibanus n. pr. الْجَبَلُ الشَّرْقِيُّ.

Antilope s. f. آرَامٌ pl. رِثْمٌ.

Antimon s. n. كُحْلٌ.

Antiochia n. pr. أَنْطَاكِيَّةٌ.

Antipathie s. f. كَرَاهِيَّة | كَرَاهَةٌ | كَرِهَ
 f. Abneigung.
 Antipode s. m. مُتَقَابِل بِالْأَرْجُل |
 مُتَقَاطِرُونَ pl. f. Gegen-
 füssler.
 Antiquar s. m. تَاجِرِ الْأَثَارِ الْقَدِيمَةِ |
 تَاجِرِ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ | Antiqui-
 täten s. pl. آثَارِ قَدِيمَةٍ f. Alter-
 tümer | Antiquitätenhändler s. m.
 تَاجِرِ الْأَثَارِ الْقَدِيمَةِ.
 Antlitz s. n. وَجْه pl. وُجُوهُ.
 an-traben vn. تَقَرَّبَ خَابًا | -trag
 einen | إنهاء | تَقْدِيم | عَرَض s. m.
 -- stellen i عَرَض | أَنْهَى | einem
 Mädchen einen -- machen u طَلَب
 -tragen va. jm. etw. | آبْنَةٌ لِلزَّوْاجِ
 | عَرَض i ه | auf etw. - | عَرَض i ه له
 -trauen va. jm. ju. | أَنْهَى ه
 -treffen va. | كَلَّل ه بِهِ* | زَوْج ه ه
 | لَاقَى ه | لَقِيَ ا ه | قَابَلَ ه ju.
 | صادف ه - | وَجَدَ i ه
 - | ساق ه u | -treiben va. ju. ه
 | حَرَّكَ ه إِلَى | حَمَلَ i ه على
 | حَرَّضَ ه على | (im Wasser) --
 | طَفَا u | -treten va. etw. u
 | بَدَأَ ه أَوْبِ | (die Regierung) -
 | تَمَلَّكَ - | تَبَوَّأَ ه

اصْطَفَى (Soldaten) -- | على vn.
 | تَحْرِيكَ | -trieb s. m. (العساكر)
 -- | تَحْرِيض | حَتَّ
 | دَوَاعِ pl. | دَاعِ | بَوَاعِث pl. | باءث
 | ان- | اِبْتَدَأَ بِالشَّرْبِ | -trinken vn.
 | سَكَّرَانَ قَلِيلًا | -tritt
 | اِبْتِدَاءَ تَمَلِّ | s. m. - der Re-
 | جُلُوسِ | -regierung
 | أَجْوِبَةٌ pl. | جَوَابِ s. f. |
 | -en v. jm. auf ه | مُجَابَوَةٌ
 | جَوَابًا عَلَى | جَوَابَ ه | عن | عن
 | جَرَّبَ | an-versuchen va. Kleider
 | لَبَّقَ هَا | الثِّيَابِ | -vertrauen va.
 | أَوْدَعَ ه ه | أَوْ عِنْدَهُ | jm. etw.
 | أَوْصَى ه بِ | فَوَّضَ ه إِلَى | sich
 | -- od. jm. ein Geheimnis --
 | أَسَرَّ ه إِلَيْهِ | anvertrautes Gut
 | وَدَائِعِ pl. | وَدِيعَةٍ | أَمَانَةٍ | -ver-
 | أَقْرَبَاءِ pl. | قَرِيبِ | -wachs
 | مَزِيدِ | زِيَادَةٍ | s. m. | -wachsen vn.
 | كَثُرَ u | كَبُرَ u | اِزْدَادِ | زاد i
 | مُحَامِ | نَائِبِ | -walt s. m.
 | وَكَلَاءِ pl. | وَكَيْلِ | نَوَابِ |
 | اِعْتَرَى ه | (مرض) | -wandlung
 | اِعْتَرَاءِ | نَوْبَةٍ | s. f. (von Krankheit)
 | دَفَأَ ه | سَخَّنَ | -wärmen va. etw. ه

-wärter s. m. (auf ein Amt) |
 -wart- | صاحب حَقِّ للتَوَطَّفِ
 schaft s. f. auf ein Amt حَقِّ
 هَبَّ | wehen va. ju. | للتَوَطَّفِ
 | weisen va. ju. & u امر | نَحْوَهُ
 | آرشد & إلى zu -- ju. | أشار إِلَيْهِ
 | عَيْن ه لَه -- | jm. etw. | علم ه ه
 | أمر | weisung s. f. | قَدَّر ه لَه
 -- auf | -- | تَعْلِيمِ zu -- | إِرْشَادِ
 pl. | سَفْتَجَةٌ | حَوَالَةٌ (comm.)
 | علم ه ه | geben in | سَفَاتِحِ
 | weissen va. etw. | بَيَّضَ ه ه
 | طَرَشَ ه * | كَلَّسَ ه (Mauer) --
 | مُمْكِنَ اسْتِعْمَالُهُ | wendbar a.
 | قابلِ الاسْتِعْمَالِ | wendbarkeit
 s. f. | اسْتِعْمَالِ | wenden va. ju.
 | اسْتَعْمَلَ ه | اسْتَحْدَمَ ه | Geld,
 | بَدَلَ u, i اِمَالٍ أَوْ الأَوْقَاتِ zu -- | Zeit
 | angewandt | صَرَفَ i ه * | لِ أَوْ فِي
 | عمَلِي (praktisch) | wendung s. f.
 | اسْتِعْمَالِ | etw. in -- | bringen
 | اسْتَعْمَلَ ه | zur -- | kommen
 | اسْتُعْمِلَ | werben va. ju. | für
 | قَيْدَ ه فِي الجُنْدِيَّةِ | das Heer
 | حَزَبَ ه -- | für eine Partei
 | تَجَبَّشَ | angeworben werden
 | تَجْنِيدِ | werbung s. f. | تَحزَّبَ

-wesen s. n. | تَقْيِيدِ فِي الجُنْدِيَّةِ
 -- sein | حَاضِرِ a. -wesend | عَقَارِ
 | حُضُورِ s. f. -wesenheit | حَضَرَ u
 | أقْرَفَ & | widern ju. va. | حَضْرَةَ
 | سَكَنَ u. -wohnen vn. | قَرَفَ &
 | ساكِنِ s. m. -wohner | بالقُرْبِ
 | جِيرَانِ pl. | جارِ | سَكَّانِ pl. | بالقُرْبِ
 | مَزِيدِ | زيادةً | زِيَادَةَ s. m. -wuchs
 | دَعَا u لَه | jm. etw. -wünschen va.
 | تَأَصَّلَ vn. -wurzeln | أَوْ عَلَيْهِ بِ
 | عَدَدِ s. f. -zahl | أَثَّلَ | i, u
 | دَفَعَ a. etw. va. -zahlen | أَعْدَادِ
 | جُزْءٍ مِنَ الدَّيْنِ | zahlung s. f. -
 | دَفَعَ جُزْءٍ مِنَ الدَّيْنِ | zapfen va.
 | بَلَدِ ju. - | فَتَحَ a | البِرْمِيلِ فَافٍ
 | فَتْحِ s. f. -zapfung | تَحَرَّشَ بِهِ
 | تَحَرَّشَ | zaubern va. | البِرْمِيلِ
 | أَعْطَى ه ه | بالسِّحْرِ | jm. etw.
 | كُنْتُ | ich war wie angezaubert
 | سَكَّرَ | zechen sich v. a. | كَمَسُحُورٍ
 | سَكَّرَانَ | angezech | سَكَّرَانَ s. n.
 | -- | (Vorzeichen) | إِشَارَةً | عِلَامَةً
 | أَفْوَلِ u. فُوَلِ pl. | أَفْوَلِ | فَوَلِ
 | قَيْدَ ه | رَسَمَ u ه | va. etw.
 | -zeige s. f. (Benachrichtigung)
 | تَبْلِيغِ | إِيخْبَارِ | إِعْلَامِ - (von etwas
 | تَبْشِيرِ (öffentl. | - (öffentl.)

- liche) | إعلان | jm. - erstatten von
 | أَخْبَرَ هـ | -zeigen va. jm. etw.
 | بَلَّغَ هـ | أَخْبَرَ هـ | أَعْلَمَ هـ
 jm. etw. frohes - | بَشَّرَ هـ |
 öffentlich etw. - | أَعْلَنَ هـ | -zeiger
 s. m. | مُخْبِرٌ | مُعَلِّمٌ | مُعَلِّنٌ
 | (اسْمٌ بَعْضُ الْجَرَائِدِ) | -zetteln va.
 | تَأَمَّرَ | (Verschwörung, Aufstand)
 | -ziehen | دَسَّ | دَبَّرَ هـ | بِحِيلَةٍ
 va. jm. u. etw. (an sich ziehen)
 | اجْتَذَبَ هـ | جَذَبَ | i هـ و هـ
 | اسْتَمَالَ هـ | الى | جَلَبَ | i, u هـ
 jm. -, jm. Kleider - | كَسَا | u هـ -
 | Kleider -, sich - | الألبس هـ | الثياب
 | ein Seil - | كَسَى | a هـ | لبس | a هـ
 | Schriftsteller - | شَدَّ | u هـ | حَبَلًا
 | أَوْرَدَهُمْ | ذكر | المولفين (zitieren)
 | تقرب (الجيش) (Heer) - | vn. -
 | زاد | سعر | (Waren im Preise) -
 | جاذب | -ziehend a. | البضائع
 | جذب | -ziehung s. f. | فتان
 | -ziehungskraft s. f. | اجتناب
 | -zug s. m. (An- | القوة الجاذبية
 | - (Kleider) | اكساء | الباس (kleiden)
 | كسوة | البسة | لباس | لبس
 | بدلة * | طقوم | طقم | كسى | pl.
 (des Heeres, des Unwetters)
- im - | تقرب الجيش أو الزوبعة
 | قَرَبَ | (زوبعة أو جيش) u
 -züglich a. | مُلِّحٌ | مُهَيِّنٌ | -züg-
 lichkeit s. f. | إِهَانَةٌ | تَلْمِيحٌ
 va. (Feuer) النار | أَضْرَمَ هـ |
 | مُوقِدٌ | -zünder s. m. | شَعَلَ | a هـ
 -zwingen va. Kleid a | لَبَسَ
 | -zwinfern va. jm. | ثَوْبًا | بالتعب
 | نظره | إليه مغمضًا العيون
 Morist s. m. gr. مضارع.
 Apnanage s. f. إقطاع pl. إقطاعات
 apart a. | الجانِبِ | adv. | خصوصي
 Apathie s. f. | جمود | الفؤاد
 | جامد | apathisch a. | عدم | الأنتباه
 | عديم | الأنتباه | الفؤاد
 Apfel s. m. | تفاح | coll. | ein -
 | تفاحات | in den sauren -
 | -baum s. m. | بدع | المرر
 | -schimmel s. m. | شجرة التفاح
 | -fine s. f. | فرس | زرزورى
 | -wein | برتقانة - | eine
 | شراب التفاح | نبيذ التفاح
 Apokalypse s. f. christl. | رؤيا القديس
 | يوحنا
 apokryphisch a. | منكر | مبهم
 Apoplexie s. f. | مرض | الفالج
 | النقطة *

Alpostel s. m. christl. حَوَارِيّ pl.
 | رُسُل pl. | رَسُول | حَوَارِيّون
 -geschichte s. f. christl. أَعْمَال
 | رَسُولِيّ | apostolisch a. christl.
 | صادر من كُرْسِي رُومَة - römisch
 | مَنسُوب لَهُ.

Alpostroph s. m. gr. (') عَلامَة حَذْف (').

Alpothefe s. f. صَيْدِيَّة * | أَجْزَائِيَّة *
 | أَجْزَائِيّ * | صَيْدِيّ - r s. m.

Alpothefose s. f. تَعْظِيم | تَأْلِيه.

Apparat s. m. جِهاز | عُدَّة.

Appellation s. f. اسْتِثْنَاء | appel-
 lieren vn. اسْتِثْنَاء | an die Güte
 | التَّجَاءُ إِلَيْهِ - is.

Appendix s. m. ذَيْل | تَدْيِيل.

Appetit s. m. اِسْتِهَاء الأكل | نَفْس
 | مُشَّة a. -lich | للأكل *

applaudieren vn. صَفَّق عَلامَة
 | Applaus s. m. | للاِسْتِحْسان
 | اسْتِحْسان.

Apposition s. f. gr. نَعْت | بَدَل.

appretieren s. f. (Stoff) u صَقَل
 | Appretur s. f. | نَشَى ه * | القماش
 | صِقَال | صَقَل.

Aprifose s. f. مِشْمَش | -baum s. m.
 | سَجْرَة المِشْمَش.

April s. m. | نِيسان | أَبريل | in. in

den - schicken ه | أَوَّل يَوْم
 -| نِيسان | نِيسان | تَضاحِكًا | وتَلَاعِبًا
 | خِداع | أَوَّل يَوْم نِيسان | s. m.
 -wetter s. n. هَوَاء مُتَغَيِّر.

Aquator s. m. خَطّ الأَسْتِواء.

Aquavit s. m. | أَعْراق pl. | عَرَق *
 | عَرَقِيّ *.

Aquinostium | اِعْتِدال اللَّيْل والنَّهار

Ar s. m. | أَرْض قَدْرُها ١٠٠ مِتر مُرَبَّع.

Araber s. m. | اِبْن عَرَب | pl. die -
 | أَعراب pl. | عَرَب | اولاد العَرَب

nomadisierende - عَرَب البَدُو -
 ein - | أَعرابيّ | بَدَوِيّ -
 | عَجَمِيّ | Arabeske s. f.

النَّقش أو الوَشْي بِشَكْلِ النَباتات
 | Arabien n. pr. | والأوراق المُشْتَبِكَة
 | جَزِيرَة العَرَب | بلاد العَرَب
 | arabisch a. | عَرَبِيّ (Sprache)

gut - | اللُّغَة العَرَبِيَّة | schreiben
 u. | أَعرَب * | -er Meer-
 | بَحْر القَلْزَم | busen n. pr.
 | الأَحْمَر.

Aras s. m. | عَرَقِيّ * | عَرَق *.

Arbeit s. f. (Thätigkeit) عَمَل pl.
 | أَشْغال pl. | شُغْل * | أَعْمَال
 | أَتْعاب pl. | تَعَب (Mühe) -
 | أَشْغال اللُّومان | öffent-
 | Swangs-

- liche -en | الأشغال العُومِيَّة | Arbeit
 jm. - geben, jm. in - setzen
 s a شغل | -geber s. m. شاغل
 -en vn. | صاحب المَعْمَل | الفَعَلَة
 (Maschine) | عمل a | اشتغل
 | صنع a ه | مشى i | تحرك
 | ضبط ه | اتقن ه - gut
 | عامل | فَعَلَة pl. | فاعل s. m. -er
 | -nehmer s. m. | عمال u. | عملة pl.
 | -fam a. | محبب الشغل | Arbeiter f.
 | -famkeit s. f. | اجتهاد | مجتهد
 | -sichen a. | كسول | كسول -sichen
 | -sfähig a. | قادر على العمل | كسل s. f.
 | -sfähigkeit s. f. | كافي على العمل
 | -shaus | كفاية | قدرة على العمل
 | -slohn s. m. | بيت التاديب s. n.
 | -slos a. | معطل | أجره العمل
 | -slosigkeit s. f. | ما له عمل
 | -smann s. m. pl. | تعطل | العمل
 | -sleute f. | Arbeiter | -szeit s. f.
 | آلات s. n. | -szeug | وقت العمل
 | عُدَّة العمل | العمل
- Archäolog s. m. | عالم بالآثار القديمة
 -ie s. f. | علم الآثار القديمة
 Arche s. f. | سفينة نوح Noahs
 فُلك نوح
 Archipel s. m. | مجموع جزائر
- Architekt s. m. | مُؤنِّدس | pl. بَنَاء
 f. | بناؤون | -ur s. f.
 | هُنْدَسَة | علم البناء | Baukunst.
 Archiv s. n. | مَجْمُوع الأوراق الرَسْمِيَّة
 -ar s. m. | حافظ الأوراق الرَسْمِيَّة
 Areal s. n. | مَسَاحَة
 arg a. | شَرِير | خَبِيث | رَدِيء
 | زائد - zu
 Arg s. n. | شَرّ | ohne - بلا شَرّ
 Ärger s. m. | غَيْظ | غَضَب | jm. zum -
 -lich a. (Person) | رَغْمًا عَنْهُ
 | مُعْتَبِر | مُغَمّ (Sache) - | مُغْتَظ
 | - sein über | حَنِقَ a | -
 -n va. | über | sich | أَغَظَ ه
 -nis s. n. | اغتاظ | حَنِقَ a | من
 فضائح pl. | فضيحة | عَثْرَة
 Arglist s. f. | حِيَلَة pl. | مَكْر | مَكْر
 -ig a. | مُحْتال
 arglos a. | سَلِيم النِيَّة | -igfeit s. f.
 سَلَامَة النِيَّة
 Argument s. n. | بُرْهان pl. | بَرَاهِين
 | حُجَّة pl. | حُجَّة
 Argwohn s. m. | تَهْمَة pl. | تَهْم
 | -schöpfen u فيه | gegen jm. -
 | -en, argwöhnen va. | متبهما
 | argwöhnisch | اتهم ه | von jm.
 | ذُو آتِهَام a. | صاحب ظنّ

Arie s. f. غِنَاء pl. | أغانٍ pl. | لَحْن pl.
 f. نَعَمَات pl. | نَعْمَةٌ | أَلْحَان
 Lied.

Aristokrat s. m. مُتَحَرِّبٌ لِحُكْمٍ
 -ie s. f. | الأشراف أو الأعيان
 -isch a. | الأشراف | حُكْم الأشراف
 مُخْتَصٌّ بالأشراف.

Arithmetik s. f. عِلْمٌ | عِلْمُ الجبر | الحساب
 حسابي arithmetisch a. | الحساب
 arm a. مِسْكِين | فقراء pl. | فقير
 pl. | مَسَاكِين | - | مُحْتَاج | fein od.
 werden u | فَتَقَرَّ | in. -
 machen * | أَفْقَر | e Ritter عَجِين
 مَقْلِي.

Arm s. m. يَدٌ* | أذْرُع pl. | ذراع
 | بُوغاز des Meeres - | أَيَادٍ u. | أَيْدٍ
 - | فُرُوع pl. | قُرُوع النهر des flusses
 - | شُعَب pl. | شُعَب des Lehnstuhls
 | der weltliche - | يَد الكُرْسِيِّ
 | in. mit offenen
 -en empfangen بِهِ | رَحَب | in.
 in die -e schließen * u | غَمَر
 | in. unter die -e greifen * | أعان
 -band s. n. | أساور pl. | سوار
 -bruch s. m. | انقطاع الذراع
 جنس s. f. | -bruft | انكسار اليد*
 u. | قِيسِي pl. | من القوس (للرمي)

brustschütze s. m. | أقواس
 حَامِل
 pl. | قَوْس
 حَمَلَةٌ.

Armee | جِيُوش pl. | جيش
 pl. | عَسَاكِر | f. | Heer.

Ärmel | كم pl. | أكمام
 an etw. - | انsetzen ه | أكَم.

Armenhaus s. n. | بَيْتٌ لِإِسَاعِدَةِ
 الفقراء.

Armenien n. pr. | بلاد الأرمن
 Armenier s. m. | الأرمني pl. | أرامنة
 armenisch a. | أرمني.

Armenpflege s. f. | مُدَارَاةُ الفقراء
 -r s. m. | مُدَارِي الفقراء.

armieren etw. va. | سَلَح ه.

Armleuchter s. m. | شَمْعَدَان
 كَبِيرٌ مُشَعَّبٌ.

ärmlich a. | فقري.

armelig a. | حَقِير | دَلِيل
 شَيْءٌ حَقِير | فَقْر | مَذَلَّة s. f. -

Armsessel s. m. | كُرْسِيٌّ ذُو يَدَيْنِ
 pl. | كُرَاسِي | Armspange s. f. | سَوَار
 pl. | أساور.

Armut s. f. | فَقْر | افْتِقَار.

Aroma s. n. | عَطْر pl. | عَطُور
 pl. | أطياب.

aromatisch a. | عَطْرِي | طيب
 ذُورائِحَةٌ | طيب عَطْرِي.

- Arton s. n. bot. (Fieberwurzel, Magen-
wurzel) | أذُن الفَيْل | قُلْقَاس
- Artraf * | عَرَقِي * | عَرَق *
- Arrest s. m. | تَوْقِيف | حَبْس
- Arrestant s. m. | ارريرين | مَحْبُوس
- jn. | أَلْقَى القَبْضَ عَلَيْهِ | وَقَف *
- Arsch s. m. | أَسْتَاه | مَوَّخَر | pl. |
| فَعْدَةٌ * | مَقْعَدَةٌ | أَدْبَار | pl. |
| أَلِيَّة s. f. | بافء | pl. | طِينز *
| paufer s. m. | طِينز * | أَلِيَات | pl.
| مَمْسَكَةُ الطِينز | wifch s. m. | سَوَاط
- Arsenal s. n. | تَرَسَخَانَةٌ | دار الأَسْلِحَةِ
- Arsenik s. n. | سَمَّ الفَأر * | زِرْنِيخ *
| سَلِيمَانِي
- Art s. f. | نَوْع | pl. | أَنْوَاع |
| pl. | أَشْكَال | pl. | شَكْل | أَجْنَاس | pl.
| pl. | طَرِيقَةٌ | أَصْنَاف | pl. | صِنْف
| -en vn. | نَمُوط | pl. | نَمَط | طَرَائِق
| nach jm. | شَابَه * | جَانَس *
| so u. so geartet كَذَا | طَبِيعَتُهُ كَذَا
| أَخْلَاقُهُ كَذَا
- Arterie s. f. | شَرِيَان | pl. | شَرَايِين
- artig a. | ظَرِيف | لَطِيف | مُوَدَّب
| (in Zusammensetzungen في بَعْض
| 3. B. glas- | مُشَابَه (التَّرْكِيبَات
| آدَب s. f. | فِيت | مُشَابَه الزُّجَاج
| لَطَافَةٌ | ظَرَاْفَةٌ
- Artifel s. m. | مَادَّة | pl. | مَوَاد | pl.
| شَرْط | مَوَاضِيِع | pl. | مَوْضُوع | بَنُود
| pl. | شَرْوُط | - gr. | التَّعْرِيف
- Artillerie s. f. | المَدَافِع * | طُوبَجِيَّة *
| Artillerist s. m. | طُوبَجِي * | pl.
| طُوبَجِيَّة
- Artischocke s. f. | حَرَشَف | أَرْض
| الشُّوكَّة *
- Arznei s. f. | دَوَاء | pl. | أَذْوِيَّة | jm. -
| geben * | داوَى * | nehmen
| - | عَالَج * | | - | تداوَى
| - | verordnen, verschreiben
| عِلْم s. f. | وَصَف | دَوَاء
| -mittel f. | عِلْم الطِّب | الأَدْوِيَّة
| Arznei.
- Arzt s. m. | طَبِيب | pl. | أَطِبَاء *
| pl. | حُكْمَاء | Ärztin s. f. | طَبِيبَةٌ
| ärztlich a. | طِبِي
- Ascet s. m. | زَاهِد | pl. | زُهَاد | u. | زُهْد
| -isch a. | زُهْدِي
- Afch-becher s. m. | مَنَافِض | pl. | مَنَفَضَةٌ
| -e s. f. | رَمَاد | heiße - | etw.
| in - | legen | رَمَد ه | -enbrödel s. n.
| -ermitt- | جَارِيَّة مُقِيمَةٌ في القَدَر
| woch s. m. | chrifl. | الرَّمَاد
| -fahl, -farben, -grau | رَمَادِي
| اللَوْن
- Afien n. pr. | أَسِيَا | Arfiat s. m.

اَمْجَمُوع رُسُومِ الْبُلْدَانِ | اَطْلَس
 نَسِيَج حَرِيْر (Art Seidenzeug) -
 اَطْلَس اَوْ اَمْلَس.

Atlas s. m. n. pr. (Gebirge) جَبَل
 الدَّرَن.

atmen s. n. تَنَفَّس | Atmen s. n.,

Atmung s. f. تَنَفُّس | Atmungs-

beschwerde s. f. ضَيْقِ النَّفْسِ.

Atmosphäre s. f. هَوَاء | جَوَّ

atmosphärisch a. هَوَائِيَّ | جَوِّيَّ.

Atom s. n. ذَرَّة | جُزْءٌ.

Attachee s. m. مُلَازِم.

Attaque s. f. هُجُوم | Angriff.

Attentat s. n. جَنَايَا pl. تَعَدِّيَّ.

Attest s. n. شَهَادَاة | Zeugnis |

-ieren va. jn. etw. شَهِدَ لَهُ ب

f. bezeugen.

Attraktion s. f. جَاذِبِيَّة | Anziehung.

Attribut s. n. خَوَاص pl. خَاصَّة

| Eigenschaft | صِفَات pl. صِفَة

- gr. نَعْت | صِفَة.

ätzen, ätzen va. jn. اَطْعَمَ ه

| نَقَشَ u ه بِمَاءِ الْفِضَّةِ.

- med. اَكْوَى i ه | Ätzmittel s. n.

Ätzung | قَارِض | اَكَّال | كَاو | مُحْرِق

s. f. قَرَض | اَكَّل | اَطْعَام s. f.

اُف | اَهَا | اَهَا | اَه | اُف | interj. au!

اَكْمَان * | كَذَلِك | اَيْضَا | auch conjct.

- | حَتَّى | - | wenn, wenn -

مَعَ اَنْ | وَاوَا | وَاِنْ.

Audienz s. f. مُقَابَلَة | اِسْتِقْبَال |

jm. - | قَابَلَ ه | jn. um

eine - | اِسْتَاذَنَ ه | bitten في

اَلْمُقَابَلَة.

Auditorium s. n. مَسْمَع pl. مَسَامِع

f. HÖRSAAL | - (Zuhörer) السَامِعُونَ.

Aue s. f. مَرْج pl. مَرْوَج.

auf praep. c. dat. u. acc. اَعْلَى |

في جَزِيرَة | - | einer Insel اَعْلَى

على | بِنَفَقَتِهِ | - | seine Kosten

اَعْلَى | - | diese Art u. Weise اَعْلَى

بِهَذِهِ الطَّرِيْقَة | - | arabisch

اَعْلَى | - | c. acc. (Thür,

fenster) اَعْلَى | ziehen - jn.

اَعْلَى | سَحَبَ a بُولِصَة اَعْلَى | wirken -

اَعْلَى | اَثَرِ فِيهِ | bis - c. acc. اَعْلَى

- | حَتَّى | اَلْاَجَلِ | لِكَيَّ | - | adv.

اَعْلَى | - | u. davon gehen اَعْلَى

اَقُومُوا بِنَا | قُمْ بِنَا | - | interj. اَعْلَى

اَعْلَى | اَصْلَحَ ه | - | arbeiten va. etw.

اَعْلَى | تَنَفَّس | - | atmen vn.

اَعْلَى | ه | اَعْلَى | - | bahren va. jn.

اَعْلَى | بِنَاء s. m. - | bauen

اَعْلَى | بَنَى i ه | - | bäumen sich

v. (Pferd) u شَبَّ | u شَبَا | *تَقَنُّطِرُ |
 bld. i عَصَى | -bauschen vn. اِنْتَفَحَ |
 - va. bld. ه | بِالْعِ ه | -begehren vn.
 اِغْتَاظَ | -behalten va. den Hut zc.
 اِحْفَظَ | a لَابِسًا الْبُرْنِيَّةَ مَثَلًا |
 -beißen va. etw. ه بِالْأَسْنَانِ |
 -bersten vn. تَفَزَّرَ | تَفَلَّقَ | -be-
 wahren va. etw. ه اِحْفَظَ |
 -bieten va. jm. zum Kriegsdienst
 اِدْعَا | u دَعَا | alle Kräfte -
 اِحْتَمَدَ كَثِيرًا | اِبْدَلَ كُلَّ وَسْعِهِ |
 alles Mögliche - اِسْتَعْمَلَ كُلَّ -
 اِعْلَنَ زَوَاجَهُ - | Derlobte | الوَسَائِطِ |
 اِعْلَانِ | اِدْعَاءِ لِلسِّلَاحِ | -
 -bietung اِعْلَانِ | اِدْعَاءِ لِلسِّلَاحِ |
 اِفْكًا | -binden va. Knoten u | الزَّوْجِ |
 اِرْفَعَ | a حَلَّ | - | Haar u ه | العَقْدِ |
 اِحْمَرَّ | jm. etw. -, jm. | الشَّعْرِ |
 اِحْمَرَّ ه | einen Bären - اَوَّهَمَ ه بَ -
 اِحْمَرَّ | -blähen va. etw. | مَوَّهَ ه عَلَى |
 اِحْتَفَحَ | - | نَفَخَ | نَفَخَ | نَفَخَ |
 -blasen va. etw. f. aufblähen |
 اِحْتَفَحَ | -bleiben vn. | مُتَكَبِّرًا |
 اِحْتَفَحَ | a سَهَرًا | a سَهَرًا |
 -bleiben | اِحْتَفَحَ | اِحْتَفَحَ |
 اِحْتَفَحَ | -blicken vn. | سَهَرًا |
 اِحْتَفَحَ | u بَغْتَةً | -blitzen vn. | فَوْقَ |
 اِحْتَفَحَ | -blühen vn. (Blumen) | اِحْتَفَحَ |

-braten va. etw. | اِنْفَتَحَ (الزَّهْرُ) |
 -brauchen va. etw. | اِحْتَفَحَ |
 -brausen vn. u | اِحْتَفَحَ |
 -brausen s. n. | اِحْتَفَحَ |
 -brausend | اِحْتَفَحَ |
 -brechen va. Thür, | اِحْتَفَحَ |
 Brief | اِحْتَفَحَ |
 - (weg- | اِحْتَفَحَ |
 gehen) | اِحْتَفَحَ |
 -brechen s. n. | اِحْتَفَحَ |
 -brennen va. jm. | اِحْتَفَحَ |
 eins -, jm. eine Kugel - | اِحْتَفَحَ |
 -bringen va. jm. | اِحْتَفَحَ |
 -Truppen - | اِحْتَفَحَ |
 -eine Summe - | اِحْتَفَحَ |
 -feindliche Schiffe - | اِحْتَفَحَ |
 -Gewohnheit, Mode - | اِحْتَفَحَ |
 -aufgebracht | اِحْتَفَحَ |
 -bügeln va. | اِحْتَفَحَ |
 -bürden va. jm. | اِحْتَفَحَ |
 - | اِحْتَفَحَ |
 -dämmern va. (Tag) | اِحْتَفَحَ |
 -decken va. etw. | اِحْتَفَحَ |
 - | اِحْتَفَحَ |
 - | اِحْتَفَحَ |
 - | اِحْتَفَحَ |
 -gedonnert | اِحْتَفَحَ |

-drängen sich jm. v. عَرَضَ i نَفْسَهُ
 -drehen va. etw. | أَمَلَّ هـ | بِالْإِلْحَاحِ
 -dringen | فَتَحَ a هـ | بِفِكَ الْبُرْغِيِّ
 va. jm. etw. | عَرَضَ i هـ | لَهُ بِالْإِلْحَاحِ
 -dringlich a. | مُثَقِّل * |
 -drucken | ثِقْلَةٌ * | تَعَنَّتْ
 va. etw. | طَبَعَ a هـ | عَلَى
 va. | فَتَحَ a | الْبَابَ رَافِعًا
 | ثَقَّلَ عَلَى الْقَلَمِ | السُّقَّاطَةَ
 -eisen va. einen Teich 2c. | شَدَّ u هـ
 -enthalt | كَسَرَ i | نَلَجَ بِرُكَّةٍ مَثَلًا
 s. m. | مَكَثَ | تَوَقَّفَ | إِقَامَةً
 -- nehmen in | أَقَامَ ب |
 -enthaltskarte | تَأَخَّرَ (Verzögerung)
 s. f. | رُخْصَةٌ | إِقَامَةً
 s. m. | مَحَلَّ | إِقَامَةً
 -erlegen va. jm. etw. | مَنَازِلَ pl. | مَسَاكِنَ
 | أَلَزَمَ هـ |
 -erstehen vn. u. قام | أَجْبَرَ هـ | عَلَى
 -erstehung | بُعِثَ | مِنَ الْأَمْوَاتِ
 s. f. | بَعُثَ | قِيَامَةَ
 tag s. m. | يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 -erwecken va. jn. von den Toten | بَعَثَ a هـ |
 -erweckung | أَحْيَا هـ | مِنَ الْمَوْتِ
 -erziehen jn. va. | بَعَثَ | إِحْيَاءَ
 -essen | رَبَّبَ هـ | | رَبَّ u هـ | رَبِّي هـ
 va. etw. | أَكَلَ u هـ | كَلَّهُ

va. das Geschütz 2c. a وَضَعَ
 | قَامَ u | vn. | المَدَافِعَ مَثَلًا
 | صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ - Himmel
 | أَفَاقَ مُضْطَرِّبًا - aus dem Schläfe
 | هَاجَ i - im Jorn | مِنَ النَّوْمِ
 | أَنْفَتَحَ (Thüren, Fenster) - | فَارَ u
 | بَغْتَةً | auf etw. - (Schiff, Wagen)
 | صَدَمَ i هـ (مَرْكَبٌ أَوْ عَجَلَةٌ)
 -fahrt s. f. | هَاجَ | فَائِثٌ a.
 | رَاكِبًا فِي الْعَجَلَةِ
 -- der Gesandten | الْمَسِيحِ
 -- (Ort) | السُّفْرَاءِ فِي الْعَجَلَاتِ
 -fallen vn. | مَدَّخَلَ لِلْعَجَلَاتِ
 | سَبَبَ - jm. | سَقَطَ u | وَقَعَ a
 | غَرِيبٌ a. -fallend, -fällig | تَعَجَّبَهُ
 | إِسْتَغْرَابٌ s. f. -fälligkeit | عَجِيبٌ
 -fangen va. etw. | مَسَكَ i, u هـ
 | قَبَضَ i عَلَى | أَمَسَكَ هـ
 | جَمَعَ a | die Worte | الْمَاءِ
 -färben va. etw. | أَنْتَبَهَ إِلَى كَلَامِهِ
 | صَبَغَ u, a هـ | خَضَبَ i هـ | ثَانِيًا
 | أَدْرَكَ هـ | -fassen va. etw. | ثَانِيًا
 | إِدْرَاكٌ s. f. -fassung | فَهِمَ a هـ
 | فِطْنَةٌ | -fassungskraft s. f.,
 -fassungvermögen s. n. | قُوَّةٌ
 -finden va. jn. u. etw. | إِدْرَاكٌ
 | وَجَدَ i هـ | و هـ

أَخَذَ u ه | bld. | اصْطَادَ ه | السَّمَك
 -flackern . vn. | اِرْتَفَعَ (flamme)
 | التَّهَبَ -flammen vn. | (اللييب)
 -flattern vn. i | طار | -flechten va.
 | حَلَّ u | ضَفِيرَةَ الشَّعْرِ Haar
 -fliegen vn. i | طار | - (Thür)
 | - | اِنْفَتَحَ بِالسُّرْعَةِ (باب)
 -fordern | طَبَّران | -flug s. m. | اَبْطَل
 | طَلَبَ u مِنْهُ ه | zu | jn. va.
 | عَزَمَ i ه | اِلَى * | دَعَا u ه | اِلَى
 | دَعْوَةَ | دُعَاءَ | طَلَبَ | -forderung s. f.
 | بَدَعَ a ه | كَلَّه | -fressen va. etw.
 | اَصْلَحَ ه | جَدَّدَ ه | -frischen etw.
 | اِصْلَاحَ | تَجَدِيدَ | -frischung s. f.
 | مُمَكِّنَ (Theaterstück) | -führbar a.
 | تَشْخِصُهُ فِي التِّيَاتِرِ (رِوَايَةَ)
 | بَنَى i | دَارًا Haus | -führen va.
 | شَخَّصَ رِوَايَةَ فِي | - Theaterstück
 | ذَكَرَ u ه | (erwähnen) etw. | - | التِّيَاتِرِ
 | سَلَكَ u | - | -führung s. f.
 | تَعْمِيرَ | بِنَاءَ (eines Hauses)
 | تَشْخِصَ (Er- | - (eines Stückes)
 | ذِكْرَ (Betragen) | - | (Erwähnung)
 | مَلَأَ a ه | - | füllten va. etw. | سَلُوكَ
 | رَبَّى | - | fütterten va. Vieh | عَبَى ه *
 | - | gabe s. f. (Schul-) | المِوَالِشِي
 | دُرْسَ pl. | مَوَاضِيَعَ pl. | مَوْضُوعَ

Preis- | أمثلة | مثالة | دروس
 gabe) | ترك | - - eines Briefes
 | تسليم المكتوب في البوسطة
 | أخذ u ه | بالشوكة. | -gabeln va. etw.
 | طلوع | -gang s. m. | أخذ u ه | bld.
 | -geben | بزوغ | شروق | -der Sonne
 | ترك u ه | (preisgeben) | va. etw.
 | - | jn. etw. | - | أعرض عن | خلى ه
 | سلم | - | einen Brief | كلف ه ب
 | das Ge- | الكتاب في البوسطة
 | einen | سلم العفش | - | pad
 | يئس a | من المريض | - | Kranken
 | مسلم | -geber s. m. eines Briefes
 | منتفخ | -geblasen a. | الكتاب
 | -geblasenheit | - | blasen | متكبّر
 | gebot s. n. | كبرياء | تكبر | s. f.
 | -ge- | إعلان الزواج | دعاء للسلاح
 | f. | مغتاز | غضبان | a. | bracht
 | منتفخ | -gedunsen a. | -bringen
 | انتفخ | -gedunsenheit s. f. | وارم
 | -gehen vn. | Sonne u | شرق
 | - | (Thür, Herz, Augen) | انفتح
 | - | (Knoten, Eis) | انحل | u | ذاب
 | -ge- | أسرف المال | - | lassen Geld
 | flärt a. | متنور * | -geflärtheit s. f.
 | -geld s. n. | الصراف | تنور
 | -gelegt a. | sein zu | ربح الصراف

|leggen| -gelegtheit s. f. |لَهُ مَيْلٌ إِلَى
 |geräumt a. |مَبْسُوطٌ | إِلَى
 |räumen| -geräumttheit |مَسْرُورٌ |
 |getrieben a. |إِنْبِساطٌ | سُرُورٌ s. f.
 |getriebenheit |مَنْفُوعٌ |
 |geweckt a. |إِنْتِفَاحٌ | نَفْحَةٌ s. f.
 |wecken| -ge- |نَشِيطٌ | نَبِيهٌ
 |wecktheit s. f. |نَشَاطٌ | نَبَاهَةٌ
 |gießen va. Wasser auf u |صَبَّ
 |graben va. Erde i |حَفَرَ
 |etw. -- |أَخْرَجَ هـ | مِنَ الْأَرْضِ
 |greifen jn. u. etw. va. |قَبَضَ
 |gürten sich v. |حَلَّ | مِنَ الْمَنْطَقَةِ
 |Kleider -- |شَمَّرَهَا | رَفَعَ
 |a الثِّيَابَ -- |
 |guß s. m. |صَبَّ | نَقَعَ
 |Nacktheit -- |
 |haben va. Kopfbedeckung u |كَانَ
 |der Schüler |لَا بَسًا
 |LBS der Schüler |لَبَسَ
 |hat etw. auf |عَلَى
 |den Mund -- |الْفَمِ
 |die |فَتَحَ
 |Sache hat viel auf sich |الْأَمْرَ
 |مِثْلَهُمْ |
 |a هـ |فَتَحَ
 |haben va. etw. |كَثِيرًا
 |Kleid u |فَكَ
 |haken va. |بِالْمِحْفَرِ
 |halsen va. jn. eine |عَرَى
 |الثَّوبِ |
 |jm. etw. -- |حَمَلَ
 |a هـ |حَمَلًا
 |halten |أَجْبَرَ
 |a هـ |عَلَى
 |وَقَفَ |و هـ
 |va. jn. u. etw. |
 |(offenhalten) etw. |أَخَّرَ
 |و هـ

|أَقَامَ |ب -- |سِاحًا |
 |u هـ |سِاحًا |
 |u مَكَثَ |
 |hängen va. etw. an |اسْتَنْزَأَ
 |سَنَقَ |س * |
 |u هـ |عَلَّقَ
 |jm. etw. -- |ب
 |u هـ |أَوْهَمَ
 |u هـ |س
 |hängen va. etw. |فِي
 |hängen va. etw. |يَعِيهِ
 |u هـ |جَمَعَ
 |u هـ |ا
 |hängung s. f. |تَكَوَّبِمِ
 |u هـ |رَفَعَ
 |u هـ |أَعْلَى
 |u هـ |أَعْلَى
 |u هـ |أَقَامَ
 |u هـ |أَنْهَضَ
 |u هـ |حَفِظَ
 |u هـ |حَلَّ
 |u هـ |الْمُشْكِلِ
 |u هـ |أَبْطَلَ
 |u هـ |الْأَمْرَ
 |u هـ |أَلْفَى
 |u هـ |قَبَضَ
 |u هـ |عَلَى
 |u هـ |المَجْلِسِ
 |u هـ |عَنْ
 |u هـ |السَّارِقِينَ
 |u هـ |الطَّعَامِ
 |u هـ |أَعْظَمَ
 |u هـ |رَفَعَ
 |u هـ |أَنْجَلَلَ
 |u هـ |إِبْطَالَ
 |u هـ |شَمَّرَهَا
 |u هـ |رَفَعَ
 |u هـ |أَوْهَمَ
 |u هـ |ب
 |u هـ |أَفْرَحَ
 |u هـ |بَسَطَ
 |u هـ |سِاحًا
 |u هـ |إِنْبَسَطَ
 |u هـ |بَسَطَ
 |u هـ |كَشَفَ
 |u هـ |أَنْهَضَ
 |u هـ |إِبْهَاجِ
 |u هـ |نَوَّرَ
 |u هـ |سَاعَدَ

pl. | أميري | -lassen va. | رُسوم
 (offen lassen) | أبقي ه مفتوحًا
 (ein Grundstück) - jur. | تنازل عن
 | تخليّة | تنازل | -lassungs s. f. | خلى ه
 -lauern jm. v. | كمن له u
 | ازديحام الناس | -leben
 s. m. (von Menschen) | عجة منقوخة (Speise) - | تحشد
 -laufen vn. | ازداد | انتفع
 auf eine Sandbank - (Schiff)
 | صدم | الرمل (مركب)
 vn. | حيي ثانية | تجدد
 lassen | جدد ه
 va. etw. | لخص كله
 etw. auf | وضع ا ه على
 etw. - | أجبره على | ألزم ه ه
 ein Buch - | طبع ا الكتاب
 - auf | اتكأ على | aufgelegt sein zu
 | رسم | وضع | له ميل إلى
 | أسند ه | -lehnen va. etw. | فرض
 | اتكأ على | استند إلى | sich
 sich - gegen oder wider jm.
 | تمرّد عليه | عصى i ه وعليه
 -lehnung s. f. | عصيان
 | لقط ه u | -lesen va. etw. | تمرّد
 -liegen vn. auf | استند إلى | sich
 - | جلف جلده (Kranker im Bett)
 | (المريض في الفراش) | -lockern

va. (Erde, Bett) u هزّ | حرك
 - | (التراب أو الفراش) | lodern vn.
 | ارتفع (اللييب) | تاجج
 -lösbar a. | قابل الحل
 | التذويب | -lösbarkeit s. f. | إمكان
 -lösen va. | إمكان تذويبه | حله
 etw. ه u | فك ه | حل ه u ه
 -- einen Vertrag | ذوب ه | أزال ه
 -- sich | فسح ا ه | أقال العقد
 -löslich a. | ذاب u | انقض | انحل
 s. f. auflösbar | -löslichkeit s. f. | Auflösung
 | حل | -lösung s. f. | حل
 -- eines | إقالة | تذويب | انجلال
 Menschen | وفاة | -machen va. etw.
 (öffnen) a -- etw. (lösen)
 u | قام -- | حل u
 davon machen a | ذهب | انصرف
 sich früh -- | بكر | بكر
 (der Soldaten) | اصطفاف الجنود
 -marschieren vn. (Soldaten)
 | اصطف (الجنود) | -merken vn. auf
 | انتبه على أو ل | أعطى باله ل
 -merklich a. | مبال | منتبه
 s. f. aufmerken | jm. -- machen auf
 | نبه ه على أو إلى | -merklichkeit
 s. f. | مبالاة | انتباه
 | jm. -en erweisen ه | مراعاة

-messen va., jm. Prügel mit dem
Stoche -- بِالْعَصَا | ضَرَبَ i
-muntern va. jn. | أَيقظُه u |
| شَجَّعُه (ermutigen) | jn. - | أَبْجَحَ
jn. zu etw. - | حَتَّ u | عَلَى
| تَشْجِيعٍ s. f. -munterung | عَلَى
-mußen va. jm. etw. | تَحْرِيفُ | حَتَّ
-nageln va. | أَبَانَ مَا فِيهِ مِنْ أَل ...
va. etw. auf c. acc. | سَمَرَ i, u
-nähen va. etw. auf c. acc. | عَلَى
| خَيَّطَ ه عَلَى | خَاطَ i ه عَلَى
-nahme s. f. | قَبُولٍ -- (von Geld)
(einer Gegend) | - | إِسْتَفْرَاضَ
أَجْرَى ه | etw. in -- bringen
جَرَى i | in -- kommen | يَبِينُ النَّاسِ
-nehmen va. Kleid | يَبِينُ النَّاسِ
قَبْلَ a | Gast -- | رَفَعَ a الثَّوْبَ
إِسْتَفْرَضَ | Geld -- | تَلَقَّى ه | الضَّيْفَ
| etw. | رَسَمَ u (Gegend) -- | المال
-- | etw. wohl | ظَنَّ u | كَذَا --
إِسْتَقْبَحَ ه -- | etw. übel | اسْتَحْسَنَ ه
| ساوَى ه | فى الجِدَالِ | es - mit jm.
-nötigen va. jm. etw. | بَارَى ه
-opfern va. jn. | أَلَزَمَ ه | قُبُولَهُ
| ضَحَّى بِ | ذَبَحَ a ه و ه | od. etw.
| قَرَّبَ ه و ه | (bld. z. B. Ruhe)
| عَدَلَ i | عن | حَرَمَ i | نَفْسَهُ ه

jm. etw. --, etw. für jn. --
بَدَّلَ u | sich für jn. -- | فَدَى ه ب
-opferung | نَفْسَهُ دُونَهُ أَوْ عَنْهُ
-packen va. | فِدَاءَ | قُرْبَانَ s. f.
-passen va. | حَمَلَ ه | jm. etw.
| vn. auf | أَحْكَمَ ه عَلَى | etw. auf
| أَعْطَى البَالِ لِ | - | etw.
| jm. - | احْتَرَسَ | عَلَى أَوَّلِ
-passer s. m. | جَاسُوسٍ | رَقِيبٍ
-pflanzen va. Fahne | الرَايَةَ | نَصَبَ
-picken va. etw. (Vogel) | رَفَعَ a هَا
-platzen vn. | لَقَطَ u ه | بِالْمِنْقَارِ (طَائِرٍ)
-prägen va. einer | تَفَرَّرَ | vn.
Münze etw. | عَلَى السِّكَّةِ | ضَرَبَ i ه
-prasseln vn. | طَبَعَ a ه عَلَى
| اِرْتَفَعَ (الْكَهَيْبُ) | (flamme)
-probieren va. jm. einen Hut zc. |
-putz s. m. | لَبَّقَ لَهُ البُرْنِيظَةَ مِثْلًا
-quellen vn. | زَيَّنَ ه | -putzen va.
-raffen vn. | اِنْتَفَخَ | نَبَعَ a, i, u
va. etw. | رَفَعَ a ه | لَقَطَ u ه | sich -
| اِرْتَفَعَ | رَاقَ u | قام | نَهَضَ a
| -ranken sich v. (Pflanze) | نَافَ u
-rappeln va. | عَرَّشَ | عَرَّشَ u (نبات)
- | أَنهَضَ ه | أَقَامَ ه | jn. va.
- | رَاقَ u | قام | نَهَضَ a | فَتِحَ
- | rauchen va. den Tabak | بالضَّجَّةِ

اِرْتَفَعَ | vn. | شَرِبَ a | الدُّخَانُ كُلَّهُ
 -räumen va. | دُخَانًا | Zimmer 2c.
 سَوَّى هَا* | رَتَّبَ الْحُجْرَةَ مِثْلًا
 mit Waren - | باعَ i | البَضَائِعَ كُلِّهَا -
 mit etw. - (bld.) | فَتَكَ i, u |
 aufgeräumt | مَسْرُورٌ | مَبْسُوطٌ
 -rauschen vn. | اِرْتَفَعَ بِالضَّجَّةِ
 -rechnen va. etw. gegen | عَدَلَ ه
 | نَحَّاسَبَ - mit einander | أَعْدَلَ ه
 | نَسَبَ i ه | إِلَى - jm. etw. -
 -rechnung s. f. | مُحَاسَبَةٌ | تَعْدِيلٌ
 -recht a. | مُسْتَقِيمٌ | قَوْمٌ pl. قائم
 -- stehen u | اِنْتَصَبَ | وَقَفَ i | قام
 etw. -- erhalten | اَثْبَثَ ه | أَيَّدَ ه
 | رَفَعَ ه a | -rechnen etw. va. | حَفِظَ ه a
 | نَصَبَ i ه | -reden va. jm. etw.
 | اِقْنَعَ ه | in. gegen | بِشِرَاءِ شَيْءٍ
 | اَغْرَى ه | عَلَى | حَرَضَ ه | عَلَى --
 -regen va. etw. | حَرَكَ ه | هَيَّجَ ه
 | حَرَضَ ه | عَلَى | حَرَكَ ه | -
 -- | اِضْطَرَبَ | هَاجَ i
 | اِضْطِرَابٌ | هَيْجَانٌ | -geregtheit,
 -regung s. f.
 | سَلَخَ ه a, u | -reiben va. etw.
 | أَفْنَى ه | أَهْلَكَ ه | -
 bld. jm. -
 | نَظَّمَ i | -reihen va. Perlen auf
 | نَظَّمَ هَا | اللُّوْلُو فِي
 | قَلَعَ ه a | فَتَحَ ه | بِالْقُوَّةِ
 etw.

die | قَدَعَ a | البَلَاطُ - das Pflaster
 | كَشَفَ i | عَنِ الصَّدْرِ - Brust
 | اِنْحَلَّ | فُتِحَ | - | نَهَضَ a | - sich
 | اِضْطَفَّ رَاكِبًا | -reiten vn.
 | حَمَلَ i ه | حَتَّ ه | عَلَى | zu jm. va.
 | اَغْرَى ه | ب | حَرَكَ ه | إِلَى | عَلَى
 | تَحْرِيفٌ | حَتَّ | -reizung s. f.
 | اِغْرَاءٌ | -rennen vn. auf eine Sand-
 | صَدَمَ i | الرَّمْلَ (مَرَكَبٌ) | -banke (Schiff)
 | نَصَبَ i ه | -richten va. etw.
 | اَقَامَ ه | رَفَعَ ه a | - (Gebäude)
 | اَنْشَأَ ه | بَنَى i ه | - bld. jm.
 | تَسَلَّى | قام | u | سَلَّى ه | - sich
 | مُخْلِصٌ | (Person) | -richtig a.
 | حَقِيقِيٌّ | (Sache) -- | سَلِيمَ الْقَلْبِ
 | صَدَقَ u | -richtig | - sein
 | خَالِصٌ | -richtig-
 | خُلُوصَ النِّيَّةِ | صدق | s. f. fei-
 | سَلَامَةَ الْقَلْبِ | -richtung s. f.
 | بِنَاءِ | eines Gebäudes | bld.
 | اِحْتَسَبَ | -riegeln va. Thür u | حَلَّ
 | اِرْتَفَعَ | -riß s. m. eines
 | رُسُومَ | البناءِ | pl. | Gebäudes
 | اِحْتَسَبَ | -rißen va. | الجُدَّ | Haut
 | اِحْتَسَبَ | -rollen va. etw. | خَدَشَ i ه
 | اِحْتَسَبَ | -rücken vn. | نَشَرَ ه | بَسَطَ ه u
 | اِحْتَسَبَ | -rufen s. m. | نَدَاءٌ | -ruf
 | اِحْتَسَبَ | -ruhr s. m. | نَادَى ه | in. va.

-rühren | عَصِيَان | فِتْنَن pl. فِتْنَةٌ
 etw. ه | حَرَّكَ -- das Volk
 -rührer s. m. | الشَّعْبُ لِلْعَصِيَان
 | مُحَرِّكَ الْفِتْنَةِ | عَصَاة pl. عَصِي
 -rührerisch, -rührisch a. عَاصِي |
 -rührstifter s. m. مُحَرِّكَ الْفِتْنَةِ
 -rütteln va. jn. | أَيَقْظُ ه بِالْهَزِّ
 -sage s. f. des Dienstes | إِخْبَار
 -sagen va. jn. den | إِبْتَرَكَ الْخِدْمَةَ
 Dienst zc. أَخْبَرَ ه بِتَرْكِ الْخِدْمَةِ
 نَلا u الدَّرْسُ -- die Lektion | مَثَلًا
 | عَنِ ظَهْرِ الْقَلْبِ -- jn. ein Gedicht
 -sammeln va. | أَنْشَدَ ه قَصِيدَةً
 etw. ه | جَمَعَ ه | لَمَّ u ه
 -sässig, | -sässig, | مُعَانِدْ a.
 -sässig a. | -sässig s. m. | عِنَادْ
 -- einer Säule | ما يُوَضَعُ فَوْقَ
 | تَاجِ عَمُودٍ | رَأْسِ عَمُودٍ
 | مَقَالَةٍ | رَسَائِلِ pl. رِسَالَةٍ
 | -sässig, | -sässig s. f. | -sässig |
 -saugen va. etw. ه | مَصَّ u ه
 | شَرِبَ a ه | -säugen va. ein Kind
 | رَبَّى ه | بِالْأَرْضِ | -scharren va.
 | خَدَشَ التُّرَابَ | -schauen
 | - (achtgeben) -- | رَفَعَ a الْعُيُونُ
 | -scheuchen va. jn. | أَعْطَى الْبَالَ
 | حَاشَ u ه | جَفَلَ ه

etw. ه | نَضَدَ i ه | -schieben va. etw.
 | أَجَلَ ه | أَخَّرَ ه | den Riegel -
 | فَتَحَ a | الدِّرْبَاز | -schießen vn.
 (Menschen, Pflanze, Flamme)
 | كَبُرَ u (الْإِنْسَانُ وَالنَّبَاتُ وَالنَّهْيَبُ)
 | -schlag s. m. des Auges | نَتَجَ *
 | - des Preises | رَفَعَ الْعَيْنُ
 | - am | غَلَاءُ | إِزْدِيَادِ السِّعْرِ | السِّعْرُ
 | حَاشِيَةِ أَكْمَامِ الثُّوبِ | Kleide
 | يَاقَةَ الثُّوبِ * | قَبَةَ الثُّوبِ *
 | -schlagen va. Augen | رَفَعَ a الْعُيُونُ
 | - | كَسَرَ الْبَابَ | Thür - | ساß
 | نَصَبَ u | سَلْتْ | - | خَرَقَ الْبِرْمِيلَ
 | فَرَشَ السَّرِيرَ | - | الخِيْمَةَ | Bett
 | شَمَّرَ ه | رَفَعَ a الثُّوبِ | - | Kleid
 | نَزَلَ i ب | أَقَامَ ب | - | Wohnung
 | - | كَرَّكَ | قَتَّقَهُ | - | Buch
 | فَتَحَ a | كِتَابًا | - | einem Pferd Huf-
 | نَعَلَ الْفَرَسَ | - | eisen
 | زَبَدَ ه | أَرْفَعَ السِّعْرَ | - | im Preise
 | وَقَعَ a بِالْقُوَّةِ | - | auf etw. | أَعْلَى ه
 | فَتَحَ a ه | - | schließen va. etw. | على
 | قَصَّ u ه طَوَّلًا | - | schlitzen va. etw.
 | فَتَحَ s. m. | فَصَلَ ه طَوَّلًا | - | schluß
 | - | بِلْد. | إِيْضَاحُ | - | jn. über etw.
 | أَوْقَفَ ه على | يَبْنَ ه له | - | geben
 | زَبَّنَ ه | - | schmücken va. jn.

-schmallen va. etw. فَكَّ u إِبْرِيْمَهُ |
 شدَّ u ه بِالْإِبْرِيْمِ | حَلَّ u إِبْرِيْمَهُ |
 سمَّط ه | علق ه بِالْإِبْرِيْمِ |
 -schnappen va. etw. ه u زَقَفَ |
 أخذ u ه (fam.) - | تَلَقَّفَ ه |
 -schneiden - | سَمِعَ a ه | وَجَدَ i ه |
 va. etw. ه a فَتَحَ ه بِالْقَطْعِ | قَطَعَ a ه |
 bld. vn. * u فَشَرَ - | - | فَشَارَ * |
 -schneiderei s. f. فَشَارَ - | فَشَارَ * |
 -schneiderisch a. مُتَحَدِّقٍ |
 -schnellen vn. u دَلَقَ | نَزَا u |
 -schnitt s. m. الشَّيْءِ الْمَقْطُوعِ | قَطَعَ |
 أشكال مُخْتَلِفَةً مِنَ اللَّحْمِ - falter |
 حلَّ u ه - | schnüren va. etw. u حلَّ | البارد
 شدَّ u ه - auf ه | رِبَاطُهُ |
 sich - | سمَّط ه | بالرباط على
 -schöfiling s. m. - | أَنْحَلَ الرِّبَاطَ |
 -schrauben - | شابَّ bld. | شَتَلَةٌ |
 va. etw. ه u فَكَّ ه بِالْبِرَاغِيِّ |
 ضَبَطَ i ه بِالْبِرَاغِيِّ | فَتَمَّ a ه بِالْبِرَاغِيِّ |
 -schrecken va. - | تَبَّتْ ه بِالْبِرَاغِيِّ |
 jn. - a | فَزَعُ ه | حَاشَ u ه | جَفَّلَ ه |
 -schrei s. m. صِرْحَةٌ | صِيَاحٌ |
 -schreiben va. etw. - | صِيحَةٌ |
 قَيَّدَ ه | رَقَمَ u ه | كَتَبَ u ه |
 -schreien va. jn. aus | بِالكِتَابَةِ |
 dem Schlafe أَيَقِظُ ه مِنَ النَّوْمِ |

-schrift | صَرَخَ | vn. u بِالصَّرْحَةِ |
 s. f. - | إِسْمٌ | عُنْوَانٌ |
 -schürzen - | أَجَلَ | تَأَخَّرَ | تَأَخِيرٌ |
 va. Kleider ا رَفَعَ a الثِّيَابَ |
 -schütteln va. etw. ه | هَزَّ ه | jn.
 aus dem Schlafe - | أَيَقِظُ ه مِنَ - |
 -schütten va. Erde, | النُّوْمِ بِالْهَزِّ |
 Getreide zc. u الرَّابِ أَوْ رَكْمٌ |
 -schwätzen va. jn. etw. | القَمْعِ النِّحْ |
 -schweben vn. - | أَقْنَعَ ه بِبِشْرَائِهِ |
 -schwellen - | اِرْتَفَعَ فِي السَّمَاءِ طَائِرًا |
 va. etw. ه u نَفَخَ ه | وَرَمَ ه | زاد i ه |
 -schwemmen va. etw. ه u نَفَخَ ه | اِرْتَفَعَ |
 -schwimmen va. etw. ه u نَفَخَ ه | اِرْتَفَعَ |
 sich v. اِرْتَفَعَ | أَخَذَ u فِي الطَّيْرَانِ |
 -schwung s. m. اِرْتِفَاعٌ |
 -nehmen - - | einen - - | إِلَى الْمَعَالِي |
 -sehen vn. a رَفَعَ | تَقَدَّمَ | اِرْتَفَى |
 -sehen s. n. | نَظَرَ u إِلَى فَوْقِ | الْعِيُونِ |
 bei | قَرَقَعَةٌ * | ضَجَّةٌ | وَقَعَ |
 | كان u له وَقَعَ | أَثَرَ فِي |
 -seher s. m. | نَظَّارٌ pl. | ناظرٌ |
 -setzen va. etw. ه فَوْقَ |
 Hut - | لَبَسَ a الْبُرِّيْطَةَ - |
 (ein Schriftstück) - | أَلْفَ ه - |
 Kopf - | أَصَرَ بِرَأْيِهِ | jn. Hörner - |
 sich im Bett - | اسْتَعْرَضَ ه | قَرَنَ ه |

تَقَشَّب (Hände, Lippe) | تَفَزَّر -- |
 -|spritzen vn. | (اليد أو الشفة)
 -|sprossen | u | فار | تَبَجَّسَ إِلَى فَوْق
 vn. | -|sprießen | -|sprudeln vn.
 -|spüren va. Wild | تَبَجَّسَ | u | فار |
 -|stacheln va. | تَتَبَعَ | اِنْرُ الصَّيْدُ
 | حَمَلَ | i | s | عَلَى | حَتَّ | u | s | عَلَى | jn.
 | حَرَكَ | s | إِلَى | | حَرَضَ | s | عَلَى
 | حَتَّ | -|stachelung s. f. | أَغْرَى | s | ب
 | رَمَعَ | -|stampfen vn. | a | تَحْرِيطُ
 | رَكَلَ | -|stand s. m. (Aufstehen)
 | ثَوْرَةٌ | -|Empörung) | -- | قِيَامُ
 | einen -- er- | عَصِيَانُ | | فِتْنُ | pl.
 | -|ständig a. | حَرَكَ | الفِتْنَةَ | regen
 | مارِدُونَ | pl. | مارِدُ | | عَصَاةُ | pl. | عَاصِي
 | نَضَدَ | u. | -|stapeln va. | etw. | مَرْدَةٌ | u.
 | -|stauen va. | كَوَّمُ | ه | رَكَمُ | u | ه
 | ماءً | a | مَنَعَ | الماءَ | عَن | جَرَبَانِهِ | Wasser
 | -|stehen va. | نَضَدَهَا | | البَضَائِعِ
 | -|stecken va. | فَتَعَ | a | ه | طَاعِنًا | etw.
 | -|Flagge -- | وَضَعَ | a | ه | عَلَى | etw.
 | -|Kleid-- | رَفَعَ | a | الثَّوْبَ | | الرَّابِيَةَ
 | -|ein Licht-- | jn. | شَمَّرَ | ه |
 | -| (unterlassen) | ه | u | تَرَكَ | -- | etw.
 | -|stehen vn. | اِنْتَصَبَ | | قام | u. | -|
 | -| (sich spalten) | -- | (البابُ)

u | قَعَدَ | -|sicht s. f. | فِي | الفِرَاشِ
 -- | die -- | كَشَفَ | | نِظَارَةَ | | تَفْتِيْشِ
 -|sichts- | فَتَّشَى | عَن | فُتْشَى |
 | behörde s. f. | التَّفْتِيْشِ |
 -|sieden va. | etw. | ه | i | عَلَى |
 | -|sitzen | vn. | im | Bett | فِي | الفِرَاشِ | u | قَعَدَ
 | رَكِبَ | a | عَلَى | ظَهْرٍ | -- | (zu | Pferde)
 -|sitzen | | سَوَّهَرَ | a | (wachen) | -- | | الفَرَسِ
 | -|spannen va. | رُكُوبُ | | سَوَّهَرَ | s. | n.
 | den | نَشَرَ | u | ه | | بَسَطَ | u | ه | etw.
 | | فَتَحَ | a | الشَّمْسِيَّةَ | -- | | Schirm
 | -|sparen va. | etw. | * | وَقَّرَ | ه |
 | -- | die | Sache | für | später | | حَفِظَ | ه
 | -|speichern va. | etw. | | أَخَّرَ | الأَمْرَ
 | -|sperren | va. | etw. | ه | | إِدْخَرَ | ه | | إِدْخَرَ
 | die | فَتَحَ | a | ه | كَثِيرًا |
 | -|spielen va. | ein | حَمَلَقَ | -- | | Augen
 | -- | zum | Tanz | | آتَى | i | بِأَغْنِيَّةٍ | Lied
 | | دَقَّ | u | آلَةَ | الطَّرْبِ | عِنْدَ | الرِّقْصِ
 | -|spießen | | تَظَاهَرَ | | -- | als | -|sich
 | -|spinnen va. | | طَعَنَ | a | s | jn. | va. | etw.
 | -|sprengen | | غَزَلَ | i | ه | كَلَّهُ | etw.
 | | خَرَقَ | i | u | ه | | كَسَرَ | البابَ | Thür | va.
 | -|sprießen vn. | | جَصَّصَ | | u |
 | -|springen vn. | | أَنْبَتَ | | نَبَتَ | u
 | | أَنْفَعَجَ | (Thür) | -- | | قام | u | قَافِرًا
 | | انْشَقَّ | (sich | spalten) | -- | (البابُ)

| بَكَرَ u -- | früh | عَصَى i ه | أو عَلَيْهِ
 | كَانَ u مَفْتُوحًا (offen sein) -- | بَكَرَ
 | -steigen vn. auf | ه | أو ب | علا u ه
 | اِرْتَفَعَ | صَعِدَ a في | طَلَعَ u ه
 | aufs Pferd - | رَكِبَ a | -stellen
 | va. etw. ه | ا | وَضَعَ a ه | نَصَبَ i ه
 | اِتْرَتِيْب | وَضَعَ s. f. | اَقَامَ ه | -stellung
 | اَسْنَدَ ه | -stemmen va. etw. | نظام
 | اِسْتَنَدَ اِلى | -stempeln
 | sich - auf | طَبَعَ a ه | -stieben vn.
 | -stieg | تَطَايَرَ (الشَّرُّ) (Funken)
 | عَقَبَةَ | صُعُودَ | طُلُوعَ s. m.
 | -stöbern va. Wild | اَغْرَى الكَلْبَ
 | حَاشَ u الصَّيْدَ | على الصَّيْدِ
 | -stöhnen | وَجَدَ i ه | بِالْجِدِّ - -
 | -stören va. | نَاحَ u | تَنَهَّدَ
 | in. aus dem Schlafe | مِّنَ
 | اَحْرَكَ النار - | اَزْعَجَ ه | النُّومَ
 | -stoßen va. | فَتَحَ a الباب | Thür
 | اَصَدَمَ i ه - | vn. auf etw. | بالقُوَّةِ
 | اَطْرَأَ a له - | لَطَمَ i ه * | صَادَمَ ه
 | - (von Speisen) | خَطَرَ u له
 | -stoßen s. n. | سَبَبَ جُشَاءً
 | -streben | تَدَسَّرَ * | تَجَشَّؤُا | جُشَاءً
 | -streich | قَصَدَ i المَعَالِي | اِرْتَفَعَ vn.
 | s. m. | مَرَادَ - | -streichen va. z. B.
 | Butter aufs Brod | مَدَّ u الزُّبْدَةَ

| -streifen | بَسَطَ u ه | على الخُبْزِ مثلاً
 | va. | رَفَعَ a | الأَكْمَامَ مثلاً | Ärmel
 | -streuen va. etw. auf | ه | حَثَا u ه
 | دَرَّ u ه | رَثَّ u ه | على | حَثَى i ه
 | -stülpen va. | مَزَادَ s. m. | -stich
 | etw. ه | ا | رَفَعَ a ه | شَمَّرَ ه | den Hut -
 | aufgestülpte | لَبَسَ a | البرُّنِيْطَةَ
 | Nase | خَنَسَ | -stürzen va. den
 | Hut | لَبَسَ a | البرُّنِيْطَةَ بالعَجَلِ
 | -stutzen va. etw. mit | ه | ب | زَيَّنَ
 | -stützen va. etw. | اَسْنَدَ ه | sich -
 | auf | اِرْتَفَعَ اِلى | اِسْتَنَدَ اِلى | auf
 | -suchen va. etw. | على | فَتَّشَ عَنَ
 | ein Wort im Wörterbuch - | رَاجَعَ
 | زار u ه - | in. | القَامُوسَ عَنَ كَلِمَةٍ
 | -summen sich v. (Geld) | تَرَكَمَ
 | -takeln va. Schiff | جَهَّزَ (المال)
 | -tauchen | تَطَوَّسَ - | sich | المَرْكَبَ
 | bld. | اَخْرَجَ u | من قَاعِ المَاءِ vn.
 | نَشَأَ a (الشَّكُّ) (Zweifel, Frage)
 | -tauen va. Eis | اَوَّ | المَسْأَلَةَ
 | اَذَابَ u (الثَّلْجُ) | vn. | اَذَابَ الثَّلْجَ
 | bld. (von Personen) | اِسْتَأْنَسَ
 | -taumeln vn. | مَتَمَايَلًا u | قَامَ
 | -thun va. | اِقْسَمَ i ه | كَلَّهُ
 | etw. | فَتَحَ a ه | den Mund - | تَكَلَّمَ
 | -tischen va. Speisen | اِنْفَتَحَ - | sich

festlichkeit) | مَوْكِب | اِحْتِفَال |
 -- der Wache | حُضُور الحَرَس الجَدِيد |
 -- zwingen va. Thür a | فَتَح الباب |
 -- zwingen va. jm. etw. | بِالْقُوَّة |
 | أَجْبَرَ ه | عَلَى

Augapfel s. m. | حَدَقَةُ العَيْن |
 Auge s. n. | عَيْون u. | عَيْن pl. |
 -- | نَظَر (Blick) | - | بَصَرَ (Sehkraft) |
 böses | - | عَيْن شَرِيرَة - |
 | مَحَلَّ خَالٍ | ثُقُوب pl. | ثُقُب |
 ein - auf etw. haben, werfen |
 | حَمَلَق | große -n machen | رَغِبَ فِي |
 die -n niederschlagen | أَطْرَق | jm. |
 mit den -n verzehren | نَظَرَ u. | إِلَيْهِ |
 | نَظَرَ u. | بِرَغْبَةٍ | ganz - sein |
 | بِرَغْبَةٍ | |
 jm. in die -n fallen & | أَعْجَبَ |
 | غَرَبَ | in die -n springen |
 | تَبَيَّنَ .

äugeln vn. mit jm. | غَمَزَ إِلَيْهِ بِالْعَيْن |
 | لَحْظَةً | | غَمَزَةً | | Äugeln s. n. | | لَحْظَةً & |
 äugen va. der Hund das Wild |
 | نَظَرَ u. | الكَلْبُ إِلَى الصَّيْدِ |

Augen-arzt s. m. | طَبِيب العُيُون |
 pl. | أَطِبَّاء * | | كَحَّال | -blick s. m. |
 | مَلْحَةً بَصَرَ | لَحْظَةً | (kleiner Seitteil) |
 -- | | وَقْت | | حِين | (Zeitpunkt) | -- |
 | حِينِي | -blicklich a. | | بِالْحَال | | حَالًا |

-braue, | فِي الْحَال | | حَالًا | | adv. | | وَقْتِي |
 -braune s. f. | حَاجِب العَيْن | pl. |
 | حَوَاجِب | -butter s. f. | عَمَش |
 -diener s. m. | المُرَاض | | -dienerei |
 s. f. | مُرَاض | | -dienerisch a. |
 | مُرَاض | | -entzündung | | العَيْن |
 | دَاء العَيْن | | رَمَد | -- | ägyptische |
 -fällig a. | واضح | | -glas s. n. | | نَظَارَة |
 -höhle s. f. | وَقْب | | مَحْجَر |
 | مَرِيض العَيْن | | -krank a. | | العَيْن |
 -krankheit s. f. | مَرَض العَيْن |
 | بَصَرَ | -licht s. n. | | دَاء العَيْن |
 u. | جِفَان | pl. | جَفَن | -lid s. n. |
 | -luft s. f. | | أَجْفَن | u. | جُفُون |
 | قياس s. n. | | -maß s. n. | | شَهْوَة البَصَر |
 | انْتِبَاه | s. n. | -merk s. n. | | التَّخْمِين |
 | أَدَار | -richten auf | - | غَرَض |
 | سَفُوف | s. n. | -pulver s. n. | | بِالْه إِلَى |
 | مُضِرَّ العَيْن | | bld. | | العَيْن |
 | -punkt | | (بِسَبَب صِغَر الحُرُوف) |
 | نَصَب العَيْنِيْن | s. m. | -schein |
 | مُعَايِنَة | s. m. | | etw. in -- nehmen |
 | واضح | a. | -scheinlich a. | | عَايَن | ه |
 | -scheinlichkeit s. f. | | | وَضُوح | - |
 | مِرَاة | s. m. | -spiegel s. m. | | كُحْل | s. f. |
 | العَيْن | (آلَة الطَّبِيب لِكَشْف العَيْن) |
 | -stern | | عِشَاوَة العَيْن | s. m. |

s. m. بُؤْبُو الْعَيْنِ | انسان العَيْنِ
 -trost (bot.) | طِيْطَانِ | كُرَاتِ جَبَلِيّ
 bld. قُرَّةُ الْعَيْنِ | weide s. f. قُرَّةُ الْعَيْنِ
 -wimper s. f. هُدْبُ الْعَيْنِ
 -winif s. m. | أَهْدَابِ pl. الْعَيْنِ
 ناب s. m. | غَمَزَةُ الْعَيْنِ
 شاهد s. m. | أَشْيَابِ pl.
 zeugnis s. n. | شُهُودِ pl. عِيَانِيّ
 شَهَادَةُ عِيَانِيَّةٍ.

Augur s. m. عَرَّافٍ.

August s. m. | أَغُسْطُسِ | آبِ.

Auktion s. f. | دَلَالَةٌ | مزاد * f. Ver-
 steigerung | -ator s. m. دَلَّالٍ.

Aurifel s. f. bot. | آذَانِ الدُّبِّ
 سَكَّرِ الحُوتِ | البُوصِيرِ.

aus praep. c. dat. | مِنْ - Berlin
 | مِنْ بَرْلِينِ - Holz gemacht
 | مِنْ مَصْنُوعِ مِنْ خَشْبِ - einem
 Glas trinken | شَرِبَ a فِي قَدَحٍ
 | بِهَذَا السَّبَبِ - diesem Grunde
 - adv. - sein | انْتَهَى | die Sache
 ist - | انْتَهَى الأَمْرُ - das Feuer
 ist - | انْطَفَأَتِ النَّارُ - Jahr - Jahr
 ein | كُلِّ سَنَةٍ | بِنَوَالِي السِّنِينَ
 -antworten va. jm. etw. jur.
 | سَأَلَ هِ الْبَيْهِ (إِصْطِلَاحُ المَحَاكِمِ)
 | أَحْكَمَ هِ | أَنْجَزَ هِ -arbeiten va. etw.

| إِحْكَامِ s. f. | -arbeitsung s. f. | أَلْفِ هِ
 | تَغْيِيرِ عَنْ أَصْلِهِ | -arten vn. | تَأْلِيْفِ
 | -artung s. f. | انْحَطَّ | ا
 | فَسَدِ u | انْحِطَاطِ | فَسَادِ | تَغْيِيرِ عَنْ أَصْلِهِ
 | تَنْنَفَسِ | -atmen vn. | va. einen
 | تَنْسَمَ بِالرَّائِحَةِ -- | seinen
 | letzten Seufzer --, seine Seele --
 | قَضَى i نَحْبَهُ | -backen va. etw.
 | خَبَزَ i هِ جَيِّدًا | -baden va. etw.
 | تَحَمَّلَ عَوَاقِبِ الأَمْرِ | a دَفَعَ
 | -baggern va. etw. | مَصَارِيْفَهُ | أَخْرَجَ
 | -bau s. m. | الرَّمْلِ مِنْ | ائْتَمَامِ
 | -bauchen va. هِ | بَعَجِ a | البِنَاءِ
 | -bauchung s. f. | بَعَجِ | غِلْظِ
 | -bauen va. etw. | بِنَاءِ | ائْتَمَّ
 | -be- | دِنْغِنِ va. | سِجْهِ | ائْتَمَّ | sich etw. bei jm.
 | -beißen va. | ائْتَمَرَطَ هِ | ائْتَمَرَطَ هِ | عَلَيْهِ
 | einen | كَسَرَ i سِنًا | سِنًا | -
 | -beizen va. etw. | قَوَى | قُوَى | هِ قُوَّةً | bld.
 | -bessern | أَزَالَ هِ | بَشْيْءِ | أَكَّالِ
 | أَصْلَحِ الدَّارِ | مَثَلًا | Haus zc. | va.
 | - | رَفَعَ الثِّيَابِ | مَثَلًا | -- Kleider
 | -besserung s. f. | إِصْلَاحِ | تَرْقِيْعِ
 | -beten vn. | الصَّلَاةِ | ائْتَمَّ | -bengen
 | - | تَجَنَّبَ هِ | eine Sache dat. | va.
 | -beute | حَادِ i | عَنِ | مالِ i | عَنِ
 | نَفْعِ | نَفْعَةٍ | ائْتَمَّ | pl. | رِيْحِ | s. f.

| جَرِيَان s. m. -fluß s. m. | تَنْزَهُ | تَفْسَح
 | مِيْرَاب pl. | صُدُوْر | سَيْلَان
 | مَصَب (Mündung) -- | مِيَاْزِيْب
 | مَصَاب pl. | -fordern va. in. zum
 | طَلَب u s | دَعَا u s | لِقْتَال Kampf
 | دَعْوَةُ لِلْبِرَاْز s. f. | -forderung s. f. | لِلْبِرَاْز
 | طَلَب لِلْبِرَاْز | -forschen va. in.
 | تَبَطَّن رَأْيَهُ | اسْتَعْلَم s h | über etw.
 | فَحْص | بَحْث s. f. | -forschung s. f.
 | اسْتَعْلَم | -fragen va. in. über
 | اسْتَخْبَرَ s h | سَأَلَ s h | عَنْ
 | اسْتَفْهَم s h | اسْتَعْلَم s h |
 | -frager s. m. | سَأَلَ | -fragen vn.
 | تَفَسَّح | تَفَتَّق | vn.
 | أَكَلَ u h | -fressen va. etw. | هَرَى a
 | الفِجَارَات s. f. | -fuhr- | كَلَّة
 | تِجَارَةُ الصَادِرَات s. m. | -fuhr-
 | ما يُكَافَأُ بِهِ عَلَى | -fuhrprämie s. f.
 | إِيْخْرَاج البَضَائِع | -fuhrzoll s. m.
 | رُسُوم pl. | رَسَمَ عَلَى الصَادِرَات
 | مُمَكِّن | مُمَكِّن | إِجْرَاؤُهُ | -führbar a.
 | إِمْكَان | إِجْرَائِهِ | -führbarkeit s. f.
 | إِفْعَلِهِ | -führen va. | إِمْكَان | أَوْ
 | أَفْعَدَهُ | أَجْرَى ه | أَنْجَزَهُ | etw.
 | صَنَعَ a h | - (Arbeit) | قَضَى i h
 | أَخْرَج - | بَنَى i | (Waren -
 | أَوْصَلَ s | إِلَى خَارِج -- | in. | البَضَائِع

| -führlich | فَصَّل ه -- | etw. weiter --
 | -führlichkeit s. f. | مُفَصَّل a.
 | -führung s. f. | إِتْجَاْز | تَفْصِيْل
 | - eines Baues -- | قَضَاء | إِجْرَاء
 | -füllen | تَفْصِيْل -- | weitere | بِنَاء
 | تَمَّ ه | مَلَأَ a h | va. etw.
 | إِسْمَن الحَيَوَانَات | -füttern va. Tiere
 | بَطَّن الثَّوْب -- | -gabe s. f. | كَلِيْد
 | أَخْرَاج pl. | خَرَج | نَفَقَات pl. | نَفَقَةٌ
 | مَصَارِيْف pl. | مَصْرُوف * |
 | - eines Buches | كِتَاب | طَبْع pl.
 | - der Briefe auf der Post | طِبَاع --
 | -gang s. m. | تَوَزِيْع | الخِطَابَات
 | - (eines Hauses) -- | صُدُوْر | خُرُوج
 | - einer Sache | مَخْرَاج pl. | مَخْرَج
 | -gähren vn. | آخِر | عَاقِبَةُ الأَمْرِ
 | -geben va. Geld | آتَمَ | التَّخْمَر
 | - Briefe -- | صَرَفَ i h * | أَنْفَقَ | المال
 | وَزَع | الخِطَابَات | auf der Post
 | قَالَ u | أَنَّهُ كَذَا -- | für etw. --
 | -geber | أَتَمَّر (ergiebig sein) --
 | وَكِيْل | النَفَقَةُ | s. m. | خَاْزِن
 | خَاْزِنَةٌ | -geberin s. f. | -gebot s. n.
 | صَنِيعَةٌ | -geburt s. f. | عَرَضَ | للْبَيْعِ
 | مُمْتَدِّ | -gedehnt a. | صَنَائِع pl.
 | -gedient a. | وَاسِع | -dehnen |
 | -dienen | مُتَلَف | بِالِ | مُتَقَاعِد

-gedinge s. n. ما يُشْرَطُ لِصَاحِبِ |
 |أَرْضٍ عِنْدَ التَّنَازُلِ عَنْهَا لِأَبْنِهِ مَثَلًا
 -gehen vn. u | صَدَرَ | i | خَرَجَ |
 --(Befehl) | صَدَرَ | i | (أَمْرٌ) |
 سَقَطَ u | (Haare) | -- | انْطَفَأَتِ النَّارُ
 | قَلَّ | i | (Geld, Waren) | -- | الشَّعْرُ
 | قَلَّ | i | (Kräfte) | -- | نَفِدَ a
 | -- | (Geduld) | -- | انْقَطَعَ (النَّفْسِ)
 | ذَبَلَ u | (farben) | -- | عَدِمَ a الصَّبْرُ
 | -- | (enden) | -- | جَرَدَ * a
 | -- | lassen (Befehl) | -- | أَصْدَرَ
 | -- | auf etw. | -- | ه | i | قَصَدَ |
 | جَهْلَانِ * | مَسْرُورٍ جِدًّا | فاسقٍ a.
 | -- | (von -lassen) | -- | مَحْدُوفٍ |
 | -- | lassenheit s. f. | دَعَرَ | زَائِدٍ |
 | -- | genommen adv. | عَدَا | جَهْلٍ *
 | -- | nehmen | غَيْرَ | إِلَّا | سِوَى | مَا عَدَا
 | -- | gezeichnet a | عَظِيمٍ | مُمْتَازٍ |
 | -- | zeichnen | -- | giebig a. | جَزِيلٍ |
 | -- | giebigkeit s. f. | مَغْلٍ | مُثْمِرٍ | وَافِرٍ |
 | -- | gießen va. etw. | ه | u | صَبَّ |
 | -- | Feuer | -- | ه | u | سَكَبَ |
 | -- | gießung | -- | أَحْمَدَ الْحَرِيقِ بِالْمَاءِ |
 | -- | glätten va. | سَكَبَ | صَبَّ | s. f.
 | -- | etw. | ه | u | جَلَا |
 | -- | gleich s. m. | مَلَّسَ | ه

ساوَى | -gleichen va. etw. | يَبْنَ |
 | -- | einen Streit | -- | يَبْنَ |
 | -- | gleichung s. f. | -- | أَصْلَحَ بَيْنَ |
 | -- | gleiten | -- | يَبْنَ | تَسْوِيَةَ |
 | -- | glühen va. | -- | زَلَّ | a |
 | -- | graben | -- | حَمَى الْحَدِيدِ |
 | -- | va. etw. | -- | ه | مِنَ الْأَرْضِ |
 | -- | (einen Toten) | -- | ه | u | نَبَشَ |
 | -- | grabung s. f. | -- | حَفَرَ | اسْتَكْشَفَ |
 | -- | greifen vn. | -- | الْمَسِيرِ | أَسْرَعَ |
 | -- | grübeln va. etw. | -- | ه | بِكَثِيرٍ | وَجَدَ |
 | -- | grünen vn. | -- | مِنَ الْبَحْتِ عَنْهُ |
 | -- | (Bäume) | -- | الشَّجَرِ | أَحْضَرَ |
 | -- | guck s. m. | -- | مَرَّصَدٍ | الْأَخْضِرَارِ |
 | -- | gucken vn. nach jm. od. | -- | مَرَّقَبٍ |
 | -- | guß s. m. | -- | نَظَرَ | u | إِلَى |
 | -- | بَلْوَعَةَ فِي الْمَطْبَعِ | -- | صَبَّ | سَكَبَ |
 | -- | hacken va. etw. | -- | ه | بِالْمُحْفَرِ |
 | -- | (mit dem Schnabel) | -- | etw. |
 | -- | halten vn. | -- | نَزَعَ | ه | بِالْمِنْقَارِ |
 | -- | halten va. etw. | -- | رَنَّ | i | فِي الْبُعْدِ |
 | -- | صَبَرَ | i | | أَحْتَمَلَ عَلَى | تَحَمَّلَ عَلَى |
 | -- | دام | -- | ه | | أَطَاقَ | ه | قَاسَى | ه | عَلَى |
 | -- | händigen va. | -- | بَقِيَ | a | اسْتَمَرَّ |
 | -- | jm. etw. | -- | ه | آتَى | ه | إِلَيْهِ |
 | -- | händigung s. f. | -- | ه | إِلَيْهِ | تَسْلِيمٍ |
 | -- | hang s. m. | -- | نَشَرَ | إِعْلَانَ مُعَلَّقٍ |

-hängen va. etw. ه | عَتَّقَ u | بَسَطَ
 | عَرَضَ i ها | البَضَائِعِ لِلْبَيْعِ
 | نَشَرَ u ها | -hängeschild s. n.
 | عِلَامَةٌ تَاجِرٍ أَوْ صَاحِبِ صَنُوعَةٍ
 | اسْتَمَرَ عَلَى | -harren vn. bei
 | إِخْرَاجَ | -hauch s. m. | صَبَرَ i على
 | -hauchen vn. | النَفْسِ مِنَ الرِّثَّةِ
 | va. | أَخْرَجَ النَّفْسَ مِنَ الرِّثَّةِ
 | einen Geruch - | تَنَسَّمَ بِالرَّائِحَةِ
 | ضَرَبَ i ه | كَثِيرًا | -hauen va. jn.
 | نَقَشَ u صُورَتَهُ -- | jn. in Marmor
 | قطع a -- | einen Wald | فى الرُّحَامِ
 | عَدَدًا مِنَ الْأَشْجَارِ فى الغَابَةِ
 | نَقَشَ | قطع | ضَرَبَ | -hauen s. n.
 | -heben va. Thür aus den Angeln
 | ein | رَفَعَ a الباب من الرِّزَازِ
 | أَخَذَ u الطُّيُورِ فى العُشِّ -- | Nest
 | قَبِضَ i عَلَيْهِ | مَسَكَ u ه | bld.
 | جَيْشٍ ه -- | Refruten
 | تَقْيِيدَ | -hebung s. f. | فى العَسْكَرِيَّةِ
 | -heften va. etw. | تَجْنِيدَ | العَسْكَرِ
 | ابْتَدَعَ ه | bld. | حَضَنَ u ه
 | -heilen va. eine Wunde | اخْتَرَعَ
 | تَمَّ i شِفَاءً | vn. | أَتَمَّ شِفَاءَ الْجَرْحِ
 | -helfen v. jm. mit etw. | الجَرْحِ
 | سَاعَدَ ه | بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
 | مُسَاعَدَةً عِنْدَ الْحَاجَةِ | -hilfe s. f.

-höhlen va. etw. ه | جَوَّفَ |
 | -höhlung s. f. جَوَّفَ pl. | أَجْوَافَ |
 | -holen va. jn. ه | تَبَطَّنَ ه |
 | vn. zum Schlage -- | a | رَفَعَ اليَدَ
 | bld. weit -- | im Er- | للضَّرْبِ الخ
 | | ابْتَدَأَ الحِكَايَةَ مِنْ بَعِيدٍ | zählen
 | -horden va. jn. ه | تَبَطَّنَ ه |
 | -hülfen va. etw. | قَشَّرَ ه | -hungern
 | va. jn. ه | جَوَّعَ ه | eine Stadt --
 | قطع a | مَدِينَةً عَنِ المَوْتَةِ | -ge-
 | جَوَّعَانِ | جَائِعٍ | hungert
 | شَتَمَ u ه | سَبَّ u ه | va. jn.
 | -husten | أَهَانَ ه | طَعَنَ a فيه
 | اسْتَفْرَغَ ه | بالسُّعَالِ | va. etw.
 | طَرَدَ u ه | أَخْرَجَ ه | -jagen va. etw.
 | أَزَالَ حُزْنَهُ بِالْأَيْدِي | -jammern vn.
 | أَنْعَبَ نَفْسَهُ بِالْأَيْدِي -- | sich
 | قَلَعَ a الحَشِيشِ | Unkraut | -jäten va.
 | نَقَى الحَقْلَ مِنَ الحَشِيشِ | -fäm-
 | قَلَعَ a الشَّعْرَ | Haare | -fammen va.
 | -fämpfen vn. | أَزَالَ | بالتمْشِيطِ
 | -faufen va. jn. | اسْتَرَى | القتال
 | -fehlen va. | مِنْهُ كُلَّ البَضَائِعِ
 | خَطَطَ العَوَامِيدَ | Säulen | -fehren
 | va. etw. ه | كَنَسَ ه * | قَنَسَ u ه
 | -fehricht s. m. | كُنَاسَةً | -fennen
 | عَرَفَ i ه | بالتَّدْقِيقِ | va. sich in etw.

s. m. أَجَانِب pl. | غُرَبَاء pl. غَرِيب s. m.
 -länderei s. f. المَيْل إلى ما لَيْسَ
 | أَجْنَبِيّ a. | لَانْدِيْش - | بَوَطْنِيّ
 -landsucht s. f. | -länderei
 -langen vn. mit اِكْتَفَى ب
 -lassen va. etw. ه | اِتْرَكَ ه
 Butter -- | وَسَّع الثَّوْب -- Kleid
 -- | ذَوْب الزُّبْدَة -- Freude, Jörn
 an jm. اَظْهَرَ لَهُ السُّرُورَ أَوْ الغَضَبَ
 -- | اَخْرَجَ ه (herauslassen) --
 sich gegen jm. über etw. --
 مَسْرُور - | تَكَلَّمَ مَعَهُ فِي
 اِتْرَكَ | حَذْف s. f. | لَانْجُونْج - | اِظْهَار
 | جَرَى i (ausfließen) -- | صَدَرَ i
 | ذَهَبَ a المَرْكَبُ (Schiff) -- | سَالَ i
 -- | اِنْتَهَى (endigen) --
 اَتَّعَبَ نَفْسَهُ -- | اَفْضَى إِلَى
 | مُنْتَهَى | آخِر s. m. | رَاكِبًا
 - | صَبَى سَاعِ (Junge) --
 va. etw. | غَسَلَ i ه بماء القَلَى
 -laut s. m. gr. | صَوْتٌ آخِرٌ مِنْ
 -- | سِخْ | مَات | لَبَن vn. u
 | كَلِمَة
 | لَعَن va. etw. | تَمَتَّعَ بِالحَيَاةِ
 -leeren va. etw. | اَفْرَغَ ه
 | خَلَى ه | اَفْضَى ه | اَفْرَغَ ه
 | اِفْرَاغ s. f. | اَخْلَى ه

des Leibes | بَرُوز | تَحْلِيَة
 -legen va. | فَرَشَ u البَضَائِعِ
 | دَفَعَ -- | عَرَضَ i ه
 | شَرَحَ ه a | -- etw. (erklären) ه
 | عَبَّرَ ه (Traum) -- | فَسَّرَ ه
 | رَضَعَ ه | بالذَّهَب -- mit Gold
 | مُعَبِّر | مُفَسِّر | شَارِح s. m. -leger
 | تَفْسِير s. f. | شَرَح | -legung
 | زَالَ a, u | آلمَه | -leiden vn. | تَعَبِير
 | اَسْلَفَ ه | -leihen va. etw. | مَات u
 -lernen va. | اَعَارَ ه | اَقْرَضَ ه
 | اِنْتِخَاب s. f. | اَتَمَّ تَعَلَّمَهُ
 | (مِن النَّبِيذِ مِثْلًا) | الأَحْسَن | خَيْرَة
 | اِنْتِخَبَ ه | -lesen va. etw.
 | نَقَى ه | -- ein Buch (zu Ende
 | اَتَمَّ قِرَاءَةَ كِتَابِ (lesen)
 | سَلَّمَ ه | إِلَيْهِ | -liefern
 va. jm. etw. | رَدَّ u ه إِلَيْهِ | ه إِلَيْهِ
 -lieferung s. f. | تَسْلِيم
 -- eines Verbrechers
 | تَسْلِيمٌ مُذْنِبٍ لِحَاكِمِهِ الشَّرْعِيِّ
 | وَضِعَتِ (Waren) | -liegen vn.
 -löschen va. | البَضَائِعِ | للْعَرَضِ
 | اَطْفَأَ النار | اَخْمَدَ ه
 | مَحَا u ه | (Geschriebenes)
 -lösen etw. | اَخْمَدَ u | طَفِيءَ a
 | اِقْتَرَعَ عَلَى | اَسْلَمَ ه | اَقْرَعَ ه
 | فَكَّ u الرِّهْنِ | -lösen va. ein Pfand

| اِسْتَحْلَصَ ه | دَفَعَ a دُيُونَهُ -- in. -- | اِسْتَحْلَصَ ه
 | فِدَى i ه | فَكَّ s u -- einen Sklaven --
 | فِدَى | فِدَاء | -lüften -lösung s. f.
 | جَدَّدَ السَّهْوَاءَ فِي الْحُجْرَةِ | جَدَّدَ السَّهْوَاءَ فِي الْحُجْرَةِ |
 | عَرَضَ i ه | عَرَضَ (Rock) -- | هَوَى ه *
 | أَزَالَ ه | أَزَالَ ه | -machen va. etw. ه
 | أَطْفَأَ النَّارَ | أَطْفَأَ النَّارَ | -- Feuer --
 | أَزَالَ الْخِصَامَ -- | أَزَالَ الْخِصَامَ -- | einen Streit --
 | رَكَّبَ ه | رَكَّبَ ه | a جمع ه | (ergeben)
 | كان | etw. mit einander -- -- u
 | اتَّفَقَ فِي | اتَّفَقَ فِي | etw. mit jn. --zumachen
 | يَبْنِيهِ وَيَبْنِي فُلَانٍ مُخَاصِمَةً | يَبْنِيهِ وَيَبْنِي فُلَانٍ مُخَاصِمَةً | haben
 | وَمُشَاجِرَةً | وَمُشَاجِرَةً | eine -gemachte Sache
 | شَىءٌ أَكِيدُ | شَىءٌ أَكِيدُ | -malen va. etw.
 | تَخَيَّلَ ه -- | تَخَيَّلَ ه -- | sich etw. -- | أَزَالَ تَصْوِيرَهُ
 | ذَهَابَ الْعَسْكَرِ | ذَهَابَ الْعَسْكَرِ | -marsch s. m.
 | ذَهَبَ a (الْعَسَاكِرُ) | ذَهَبَ a (الْعَسَاكِرُ) | -marschieren vn.
 | أَضْعَفَ s | أَضْعَفَ s | in. -- | -mergeln va.
 | أَضْنَى s | أَضْنَى s | u -- | -merzen in.
 | طَرَدَ | طَرَدَ | -merzung s. f. | طَرَدَ s u
 | قَاسَ i ه | قَاسَ i ه | (Stoffe) | -messen va. etw.
 | كَالِ i ه | كَالِ i ه | (Getreide) -- -- | -messung
 | قِيَاسِ | قِيَاسِ | s. f. | -mieten etw.
 | أَجَرَهُ | أَجَرَهُ | | va. | كَارَى ه | أَجَرَهُ | أَجَرَهُ |
 | أَكْرَى ه | أَكْرَى ه | -- in. -- | طَرَدَ s u | أَكْرَى ه
 | أَجْرَةَ الْبَيْتِ | أَجْرَةَ الْبَيْتِ | | -misten va. Stall
 | أَلْصَقَ | أَلْصَقَ | | | -الزُّبُلِ | أَلْصَقَ | |
 | أَلْصَقَ | أَلْصَقَ | | | -الزُّبُلِ | أَلْصَقَ | |

| اِسْتَكْشَفَ ه | اِسْتَكْشَفَ ه | -mitteln va. etw. ه
 | اَثَّ | اَثَّ | -möblieren va. Zimmer
 | فَرَشَ u هَا | فَرَشَ u هَا | | -münden
 | اِنْصَبَّ | اِنْصَبَّ | | -münzen va. Geld
 | ضَرَبَ i السِّكِّ | ضَرَبَ i السِّكِّ | | -mustern va.
 | الْعَسَاكِرِ الْغَيْرِ | الْعَسَاKِرِ الْغَيْرِ | u رَدَّ | Soldaten
 | اِنْصَبَّ | اِنْصَبَّ | | -Anstößiges aus einem
 | اِنْصَبَّ | اِنْصَبَّ | | -Buch -- --
 | اِسْتِثْنَاءِ | اِسْتِثْنَاءِ | | -nahme s. f. الكتاب
 | شَاذَ | شَاذَ | | -nahms-
 | اِسْتِثْنَاءً | اِسْتِثْنَاءً | | -weise adv. nehmen
 | اَخْرَجَ ه | اَخْرَجَ ه | (herausnehmen) va. etw.
 | اَخْرَجَ الْمَصَارِيْنَ -- | اَخْرَجَ الْمَصَارِيْنَ -- | -- Tiere --
 | اِسْتَنْتَى s | اِسْتَنْتَى s | -- | -von
 | اِلاَّ | اِلاَّ | | -genommen
 | نَادِرًا | نَادِرًا | | -nehmend
 | غَرِيبًا | غَرِيبًا | | a. | -adv. |
 | اِنْتَفَعَ بِهِ | اِنْتَفَعَ بِهِ | | -nutzen, -nützen etw. |
 | كَلَّ | كَلَّ | | -packen va. Ballen
 | حَلَّ u هَا | حَلَّ u هَا | | -packen
 | حَلَّ الْبَضَائِعِ | حَلَّ الْبَضَائِعِ | | s. n., -packung s. f.
 | جَدَّدَ i ه | جَدَّدَ i ه | in. -- | -peitschen va.
 | سَاطًا | سَاطًا | | -pfänden va. in. |
 | حَجَزَ الْمَالَ عَلَيْهِ وَفَاءً لِدَيْنِ | حَجَزَ الْمَالَ عَلَيْهِ وَفَاءً لِدَيْنِ | |
 | حَجَزَ الْمَالَ | حَجَزَ الْمَالَ | | s. f. -pfändung
 | اَسْتَقْبَحًا | اَسْتَقْبَحًا | | in. -- | -pfeifen va.
 | زَقَّتْ لَهُ | زَقَّتْ لَهُ | | -pichen va. faß
 | اِسْتَقْبَحًا | اِسْتَقْبَحًا | | | -pichen va. faß

Auspicien s. pl. قَال | bld. حِمَايَة |
نَظَر | عِنَايَة .

aus-plaudern va. etw. باح u ب |
-plündern va. etw. | أَفْشَى ه |
-plün- | نَهَب ا ه | سَدَب i ه |
derung s. f. سَلَب | نَهَب |
-polstern va. etw. حشا u ه |
-posaunen va. | نَجَّد ه | أَلْبَد ه |
etw. | أَشْطَر ه | بِصَوْتِ البُوق .
-prägen va. Münzen i ضَرَب |
-preißen va. | طَبَعَ ا ه | السِّبْكَ
etw. | إِسْتَخْرَج ه | عَصَرَ i ه |
-pumpen va. etw. ه ا ه |
-رَفَع |
-putz s. m. | زِينَة |
-putzen va. |
jn. u. etw. ه | زَبَّن ه وه |
- -- jn. (-janfen) fam. ه | عَاتَب -- |
-quartieren va. jn. ه u مِّن |
-quetschen va. | أَخْرَج ه | مَنَزَلِهِ
etw. | عَصَرَ i ه |
-radieren va. |
etw. ه u ه | مَحَا |
-rangieren va. etw. ه |
-rasten vn. | أَلْفَى ه | عَزَل i ه |
-rauben va. jn. | إِزْتَاَح | إِسْتَرَاَح |
-räuchern va. | نَهَب ا ه | سَدَب i ه |
- -- jn. ه u ه | عَطَّر ه |
-raufen va. Haar | بِالْدُخَانِ

-räumen | نَزَعَ i ه | قَلَعَ a الشَّعْرُ
va. Möbel u نَقَلَ | الأَثَاثُ
Haus-- | أَعَدَم الدَّارَ الأَثَاثُ | Brun-
nen -- | نَظَّف البَيْتَ -- |
-rechnen va. |
etw. ه u ه | حَسَب |
-rechnung s. f. حساب |
-rechnen va. etw. ه u مَدَّ | sich -- |
-rede s. f. عُدْر pl. | أَعْذَار |
| تَخَلَّص | حُجَّج pl. | حُجَّة |
-reden vn. (zu Ende --) |
| أَتَمَّ الكَلَامَ -- |
va. jn. etw. -- |
| صَرَف i ه |
| عَن -- |
| اغْتَذَرَ ب |
| sich -- |
| قَصْدِهِ |
-regnen vn. | المطرُ a, u | زال |
-reiben va. Schmutz aus dem
Kleid | نَزَعَ i |
| الوَسَخ مِّن الثَّوْبِ |
-reichen va. mit ب |
| اِكْتَفَى |
-reichend a. | كَف |
-reifen vn. |
| إِسْتَوَى بِالتَّمَامِ * |
| يَبِيع a |
| بِالتَّمَامِ |
-reise s. f. | إِبْتِدَاءَ السَّفَرِ |
-reisen vn. | إِبْتَدَأَ بِالسَّفَرِ |
-reißen va. jn. etw. |
| نَزَعَ i ه |
| مِئِنَهُ |
- (sich) |
| قَلَعَ a |
| مِئِنَهُ |
u | هَرَب |
| أَذْبَرَ |
| فَرَّ i |
| هَرَب u |
| هَارِب (مِن العَسْكَرِيَّةِ خُصُوصًا) |
-reiten vn. | رَاكِبًا u |
| خَرَج |
-renken va. (sich einen Arm) |
| (ذِرَاعُهُ) |
| خَلَعَ |
| (ذِرَاعُهُ) u |
| فَكَّش |
| (ذِرَاعُهُ) |
| فَكَّ u |
| (ذِرَاعُهُ) |

-reuten va. etw. ه | جَذَرَ i ه
 -richten va. etw. ه | اسْتَأْصَلَ ه
 -rücken va. etw. ه | أَجْرَى ه | أَنْجَزَ ه
 ein Gastmahl - - | أَنْمَ ه | عمِلَ ه
 -- jm. einen Gruß -- | أَوْلَمَ --
 | بَلَّغَ ه السَّلَامَ | قرَأَ a عَلَيْهِ السَّلَامَ
 -ringen va. Wäsche | عَصَرَ i الغَسِيلَ
 -- vn. (ausstämpfen) | أَتَمَّ القِتَالَ
 | -roden va. f. ausreuten | ماتَ u
 -rotten va. etw. ه | اسْتَأْصَلَ ه
 -rottung s. f. | اسْتَيْصَلَ | -rücken
 (Heer) | خَرَجَ u (العَسْكَرُ)
 -- vulg. i | هَرَبَ | -ruf s. m. نِدَاءَ
 | نادَى ه | -rufen va. صِيَاحَ
 | بايَعَ ه -- | jm. als König | صاحَ i
 | مُوَدِّينَ | Gebets- | مُنَادٍ s. m. -rufer
 | -rufungszeichen s. n. gr. | عِلَامَةَ
 | -ruhen vn., sich | - | ارْتاحَ | النِّدَاءَ
 | -rupfen va. federn | اسْتَرَاحَ
 | -rüsten va. jm. | نَتَفَ i الرِّيشَ
 | -rüstung s. f. | أَعَدَّ ه | جَهَّزَ ه
 | -rutschen vn. i | زَلَّ | -faat s. f. | زَلِقَ a
 | بَدَرَ u ه | -fäen va. | بِذَارَ
 | -fage s. f. | إِفَادَةٌ s. f. | زَرَعَ a ه
 | -sagen va. etw. | أقْوَالَ pl. | قَوْلَ
 | -sag s. m. | قالَ u ه | أفَادَ ه

| den -- bekommen a | بَرَصَ |
 | -fähig a. | أَبْرَصَ f. | بَرُصَاءَ pl. | بَرُصَ |
 | -saufen va. etw. ه | كَلَّهَ a | شَرِبَ
 | -saugen va. etw. ه | مَصَّ u | (حَيَوَانٌ)
 | -schälen va. etw. | مَشَّ u ه | bld.
 | -schalten va. etw. | قَشَّرَ ه | أَخْرَجَ
 | -schank | قِسْمَ آلَةٍ بِفِكَ تَرْكِيِبِيهَا
 | s. m. | بَيْعَ المَشْرُوبَاتِ فِي التَّفْرِيقِ
 | -scharren va. etw. ه | مَنَ | أَخْرَجَ
 | -schauen vn. nach | الأَرْضَ بِالْحَفْرِ
 | -schäumen va. etw. ه | رَعَا u ه | بَحَثَ a عَنْهُ بِالْبَصَرِ jm.
 | أَرَعَى ه | رَعَى u ه | -scheiden va. etw. ه | أَرْبَدَ ه
 | -scheiden s. n. | مُفَارَقَةٌ | -scheidung
 | -scheiden s. n. | مُفَارَقَةٌ | -scheidung
 | s. f. des Körpers | رَشَعَ | بُرُوزَ
 | -schellen va. etw. ه | بَوَاسِطَةَ | -schellen
 | -schelten va. jm. | دَقَّ الجَرَسَ |
 | سَبَّ u ه | سَتَمَ u ه | | سَبَّ u ه
 | -schenken va. Getränke | عَاتَبَ ه | طَعَنَ a فِيهِ
 | -schicken va. jm. ه | أَرْسَلَ ه | - | بالتَّفْرِيقِ
 | -schieben va. Brot | بَعَثَ a ه
 | -Tisch -- | أَخْرَجَ الحُبْزَ مِنَ الفُرْنِ
 | -schießen va. jm. | أطالَ المَائِدَةَ
 | قَلَعَ a عَيْنَهُ بِالرِّصَاصِ ein Auge

eine flinte -- أَبْلَى البُنْدُقِيَّةَ |
 بِاسْتِعْمَالِهَا | بِاسْتِعْمَالِهَا
 Waren -- رَفَضَ u هَا | رَدَّ u البَضَائِعَ --
 -[s]chiffen | وَضَعَ a هَا عَلَى الجَانِبِ
 va. jn. u. etw. مِنْ هُوَ | أَنْزَلَ
 | ذَهَبَ a فِي البَحْرِ | vn. المَرْكَبِ
 -[s]chimpfen va. | سَافَرَ فِي البَحْرِ
 jn. هُوَ | وَبَّخَ هُوَ | شَتَمَ هُوَ | سَبَّ هُوَ
 -[s]chlafen va. den Raufsch u طَرَدَ
 | أَتَمَّ النَوْمَ | vn. السُّكْرَ بِالنَوْمِ
 -[s]chlag (Krankheit) بَثَّرَ -- |
 geben in den -- | الحَاصِلِ (Ergebnis)
 -[s]chlagen va. etw. هُوَ a | قَطَعَ a الأَمْرَ
 -- mit etw. -- | قَلَعَ a هُوَ
 (abschlagen) | فَرَشَ u هُوَ b
 -- | vn. رَفَضَ u هُوَ | أَبِي a هُوَ
 -- (Pferd) | بَثَّرَ a (Körperteil)
 -- (Pflanzen) | لَبَطَ u | رَفَسَ u
 -- (Angelegenheit) | اِنْخَضَرَ | طَلَعَ u | جَصَّصَ
 -[s]chließen | اِنْتَهَى (Angelegenheit)
 jn. va. | مَنَعَ a | jn. von
 | مَنَعَ a عَنْ وَمِنْ | حَرَّمَ s i هُوَ |
 | لا غَيْرَهُ | دُونَ غَيْرِهِ -[s]chließlich adv.
 | رَدَّ -[s]chließung s. f., -[s]chluß s. m.
 | اِسْتِثْنَاءَ | رَفُضَ | مَنَعَ | طَرَدَ
 -[s]chlüpfen vn. aus dem Ei i | فَقَسَ
 -[s]chlürfen va. etw. | تَجَرَّعَ -[s]chluß

s. m. f. -[s]chließung | -[s]chmälern
 va. jn. هُوَ | وَبَّخَ -[s]chmelzen va.
 etw. هُوَ | أَذَابَ هُوَ | ذَوَّبَ هُوَ -[s]chmücken
 va. etw. هُوَ | زَيَّنَ -[s]chmückung
 s. f. | زِينَهُ | تَزَيَّنَ -[s]chmauben,
 -[s]chnäuzen, | تَنَفَّسَ -[s]chnaufen vn.
 | تَمَخَّطَ * | مَخَطَ | sich v. u.
 va. etw. هُوَ a | قَطَعَ -[s]chneiden
 | قَصَّ u هُوَ | قَطَعَ a هُوَ
 -geschnittenes Kleid كَتِفَ | ثَوْبَ
 | العُنُقِ -[s]chnitt s. m. | قَطَعَ
 -- eines Kreises الدَائِرَةَ | قِطْعَةَ
 -[s]chöpfen va. etw. هُوَ i, u | غَرَفَ
 -[s]chreiben va. etw. | أَنْزَلَ هُوَ
 -- ein Wort -- | أَعْلَنَ هُوَ شَرْعِيًّا
 | كَتَبَ u الكَلِمَةَ بِأَحْرُفِهَا كَلِمًا
 | أَتَمَّ كِتَابَةَ الخِطَابِ -- einen Brief
 | نَقَلَ u هُوَ -- etw. aus einem Buch
 (Plagiat) | نَسَخَ a هُوَ | مِنْ كِتَابِ
 | تَمَحَّلَ -[s]chreiben s. n. | اِعْلَانِ
 | مَنَشُورًا | ein -- ergehen
 | أَصْدَرَ مَنَشُورًا -[s]chreiben lassen
 va. etw. هُوَ | نَادَى a | زَعَقَ u
 | صَرَخَ u | نَادَى a هُوَ
 | اِتَّعَبَ نَفْسَهُ بِالصُّرَاخِ -- sich
 | جَدَّ فِي المَسِيرِ -[s]chreiten vn.
 | خَطَا u | خَطَى طَوِيلَةً -[s]chluß
 s. m. (Komitee) * | بُجُنَّةَ -- (-ware)
 | أَسْقَطَ pl. | سَقَطَ -[s]chütteln va.

etw. نَقَضَ | ein Kleid هَزَزَ ه
 | صَبَّ u ه | -schütten va. etw. | تَوَبَّ
 | sein | كَبَّ u ه * | سَكَبَ u ه
 | أباح إِلَيْهِ بِأَسْرَارٍ -- | Herz jm.
 | اسْتَلْقَى -- | sich vor Sachen | قَلْبِهِ
 | das Kind | على قَفَاهِ مِنَ الضَّحْكَ
 | mit dem Bade -- | رَمَى i الحَسَنَ --
 | -schwaben va. etw. | مَعَ القَبِيحِ
 | -schweifen | أَفْشَى ه | باح ب
 | va. etw. | قَطَعَ a ه | على شَكْلِ
 | انْهَمَكَ | أَفْرَطَ -- | vn. | نِصْفِ دائِرَةٍ
 | فَسَقَ u i, | فَجَرَ u | في السَّمَوَاتِ
 | -schweifend a. | مُفْرِطَ | -
 | -schweifung s. f. | إِفْرَاطَ | -
 | -schweigen sich v. | على | اسْتَمَرَ
 | -schwenken va. etw. | السُّكُوتِ
 | -schwitzen | خَضَّ ه | غَسَلَ i ه
 | va. (vergeffen) etw. | نَسِيَ a ه
 | vn. | نَضَحَ a | تَرَشَّعَ | رَشَّعَ a
 | -sehen vn. nach jm. | نَظَرَ u إِلَيْهِ
 | sich die | بَحَثَ a | عَنْهُ بِالْبَصَرِ
 | Augen nach jm. -- | اتَّعَبَ العُيُونِ --
 | -- (eine Gestalt haben) | بالنَّظَرِ إِلَيْهِ
 | a | ظَهَرَ | er sieht so u. so aus
 | gut, schlecht -- | شَوَفْتُهُ كَذَا
 | wie sieht | ظَاهِرُهُ جَمِيلٌ أَوْ قَبِيحٌ
 | es mit Ihnen aus? | كَيْفَ حَالُكَ |

| -sehen s. n. | هَيْئَةً | مَنظَرَ | ظاهر
 | -sehend a. gut -- | جَمِيلَ المَنظَرِ --
 | weit -- | بَعِيدَ | -sein vn. (ab-
 | wesend sein) | غَابَ | -- (leer sein)
 | | اِنْتَهَى | -- (beendet sein) | فَرِغَ a
 | -- (ausgelöscht sein) | طَفِيَ a
 | auf etw. -- | قَصَدَ i ه -- | -senden
 | va. jm. | أَرْسَلَ ه | | بَعَثَ a ه
 | -setzen va. etw. der Sonne zc. |
 | شَمَسَ ه | عَرَضَ i ه | لِلشَّمْسِ النِّجْ
 | -- jm. | تَرَكَ ه u | ein Kind --
 | -- jm. aus dem Schiff | أَهْمَلَ ه
 | etw. -- | أَنْزَلَ ه | مِنَ المَرْكَبِ
 | (unterbrechen) | قَطَعَ a ه | --
 | (tadeln) | لام u ه | eine Summe
 | für die Armen -- | (bestimmen)
 | عَرَضَ i -- | عَيَّنَ مَبْلَغًا لِلْفُقَرَاءِ
 | | عَرَضَ i -- | in. einer Gefahr -- | نَفْسَهُ
 | -- | sich der Gefahr -- | على الخَطَرِ
 | -setzung s. f. | انْقَحَمَ فِي الخَطَرِ
 | مَنظَرَ | تَعَيَّنَ | قَطَعَ | عَرَضَ
 | pl. | مَنَاطِرَ | auf etw. -- | haben,
 | etw. in -- | haben | لَهُ أَمَلٌ فِي الحُصُولِ
 | -sieden va. etw. | أَخْرَجَ ه | على
 | -singen va. ein Lied | بالغَلِيَانِ
 | -- | أَتَمَّ الغِنَاءَ | -- Stimme
 | -finnen va. etw. | تَخَيَّلَ ه | الصَّوْتِ |

vn. هَكَكَ i في | آدَامُ فِي الشِّتَاءِ
 | -wirken va. jm. etw. الشِّتَاءِ
 | -wischen | أَفَازَهُبْ | أَنَالُ ه ه و لَهُ
 va. Staub الغُبَارِ | أزال die
 Augen -- نَشَفَ عِيُونَهُ | etw. auf
 der Tafel -- مَحَا ه عَلَى اللُّوحِ --
 jm. eins -- | لَطَمَ i ه --
 | -wittern va. Wild اِسْتَشَمَّ الصَّيْدَ
 (des Getreides) ظُهُورَ جُرْتُومِ
 (des) -- | الحُبُوبِ بَعْدَ اِسْتِوَائِهَا
 | كِنزِيرَةٌ * | عُدَدُ pl. غُدَّةُ
 (Körpers) | -wühlen va. etw. مُبَالِغَةً
 | -wurf | أَخْرَجَ ه مِنْ الأَرْضِ بِالْحَفْرِ
 | بَصَاقِ (Speichel) -- | رَمَى s. m.
 | -der Menschheit | تَفَّ * | تُفَلُّ
 | -würfeln va. etw. | أَسَافِلُ القَوْمِ
 | -wüten vn. | تَلَاعَبَ بِالِكِعَابِ عَلَى
 | -zacken va. etw. | زَالَ a, u غَضْبُهُ
 | جَعَلَ a ه عَلَى شِكْلِ الأَسْنَانِ
 | -zahlen va. jm. etw. ه a دَفَعَ
 | قَبَضَ ه ه | آدَى ه إِلَيْهِ | إِلَيْهِ
 | أَوْفَى بِهِ | وَفَى بِالذَّيْنِ i Schuld --
 | -zählen va. etw. ه u عَدَّ
 | -zahlung | أَحْصَى ه | حَسَبَ u ه
 | -zanken va. jm. ه u شَتَمَ
 s. f. | دَفَعَ | -zapfen va. Wein, Bier
 | وَبَنَى ه | أَخْرَجَ الخَمْرَ أَوْ البِيرَةَ مِنَ البِرْمِيلِ

| نَهَكَ a ه | -zehren va. jm. ه
 | أَتَعَبَ ه | أَضْعَفَ ه | -zehrung
 s. f. | هُدَالُ | -zeichnen va.
 | مِمَّنَزَ - | فَضَّلَ ه | مَيَّزَ ه | in.
 | مُمَّنَزَ | -gezeichnet | فاق u
 | -zeichnung s. f. | اِمْتِيَازَ | -ziehen
 va. etw. ه | أَخْرَجَ ه | نَزَعَ i ه
 | - (sondern) etw. | قَلَعَ a ه
 | اِسْتَخْرَجَ ه | اِسْتَخْلَصَ ه | Wurzel --
 | جَدَّرَ | etw. aus einem
 Buch | - | اِخْتَارَ ه -- | نَقَلَ u ه
 | عَرَى ه | جَرَدَ ه -- | in.
 | تَعَرَى | خَلَعَ a ثِيَابَهُ -- | sich | مَالَهُ
 | اِنْتَقَلَ | اِرْتَحَلَ | خرج u | vn.
 | -zieren va. etw. ه | زَبَنَ ه | -zieren
 va. jm. | صَفَّرَ اِسْتِقْبَاحًا لَهُ | zug
 s. m. | اِرْتِحَالَ | اِنْتِقَالَ | خُرُوجَ
 | - (aus einem Buch) | مُخْتَصَرَ --
 | نَحَبَ pl. نَحْبَةٌ | نَبَذَ pl. نُبْدَةٌ
 | -zupfen va. Haar, federn a قَلَعَ
 . نَتَفَ i ه | نَزَعَ i ه | الشَّعْرَ أَوْ الرِّيشَ
 | بَرًّا * | - von | خَارِجًا
 | إِلَى الخَارِجِ - | nach | فِي الخَارِجِ
 | -stand, | الخَارِجِ | الظَّاهِرِ s. f.
 pl. | -stände | مِنَ البَاقِيِ
 | -welt s. f. | الكَائِنَاتِ | الدَّيْنِ
 | كَلَّ مَا عَدَا أَنْفُسِنَا

- außer praep. | ما عدا | غير | إلا |
 - | خارج (außerhalb) | سوى
 - | sich sein u | خرج | مَبْهُور | بَيِير
 - | طار | عَقْلُهُ | من عَقْلِهِ
 adv. | ما عدا هذا | مع هذا.
- äußere a. | äußere s. n. | ظاهر | خارج
 | الأمور الخارجيّة | الظاهر | الخارج
 | نظارة -n | das Ministerium des
 | الخارجيّة.
- außerehelich a., -es Kind | ابن حرام
 | بُنْدُوق * | نَعِيل | ابن زناء
 | außergewöhnlich a. | غير
 | غَرِيب | غير أَعْتِيَادِي | مَأْلُوف
 | außershalb praep. | خارج | نادر
- äußerlich a. | äußerlich s. f. | ظاهر | خارج
 | شَيْء ظَاهِر.
- äußern va. (sagen) etw. | قال u ه
 | (zeigen) | - | صَرَّح بِمَا فِي نَفْسِهِ
 | sich | أَظْهَرَ ه | أبان ه
 | (zeigen) a. | ظَهَرَ.
- außerordentlich a. | غير | غير مَأْلُوف
 | جِدًّا | لِلْغَايَةِ | - | أَعْتِيَادِي
- äußerst adv. | äußerste s. n. | لِلْغَايَةِ
 | النّهاية | الآخر | الغاية
- Äußerung s. f. | أقوال pl. | قول
 | إِظْهَار | تَصْرِيح | إِفَادَةٌ
- Authenticität s. f. | حَقِيقَةٌ | صِحَّة
 | authentisch a. | صَحِيح.
- Autograph s. m. | ما كَتَبَهُ بِيَدِهِ.
- Autokrat s. m. | حاكم غير مُقَيَّد pl.
 | حُكْم غير مُقَيَّد | -ie s. f.
 | حُكْم | -isch a. | مُخْتَصَّ بِحُكْم غير مُقَيَّد.
- autonom a. | مُسْتَقِلَّ | -ie s. f.
 | اسْتِقْلَال.
- Autopsie s. f. | كَشْف | مُعَايَنَةٌ
 | كَشْف تَشْرِيحِي.
- Autor s. m. | مُصَنِّف | مُؤَلِّف
 | -isieren | - | أَجَاز ه | in. zu etw. - -
 | سيادة s. f. | -ität | أَذِن | لَهُ فِي
 | über | اِعْتِبَار (Ansehen) | سُلْطَةٌ
 | auf | ساد | عَلَيْهِ | haben - in.
 | die - | اسْتِنَادًا | إِلَيْهِ | hin - is.
- Avancement s. n. | اِرْتِقَاء | تَرَقِّي
 | avancieren vn. | اِرْتَقَى | تَرَقَّى.
- avertieren va. | in. | von | أَخْبَرَ ه ب.
- Avicenna n. pr. | ابن سينا.
- Avis s. m. | اِتِّبَاه | اِخْبَار | خَبَر
 | -ieren in. | von | أَخْبَرَ ه ب.
- Aviso s. m. | مَرْكَب حَرْبِي مُسْرِع
 | لِنَقْلِ الْاِخْبَار.
- Axe s. f. | مَحْوَر | Achse.
- Axiom s. n. | مَبْدَأ | قَوَاعِد pl. | قَاعِدَةٌ
 | مَبَادِيء pl.

Art s. f. قَدُوم pl. قَدَائِم u. قُدْم |
أَفُوس u. فُووس pl. فَأْس | قَدُوم

Azimut s. m. السَّمْت.

Azur s. m. اللُّون اللازورِي |
أَزْرَق | لازورِي en a. - | أَزْرَق
أَمَقَه | سَمَاوِي

B

b الحُرْفُ الثَّانِي مِنْ حُرُوفِ الِهْجَاءِ b

Baalbeck n. pr. بَعْلَبَك.

Babel, Babylon n. pr. بَابِل.

Bacchanal s. n. ضَوْضَاء | ضَوْضَى.

Bach s. m. سَاقِيَّة | مَاء | مَجْرَى مَاء |
جَدُول | سَاقِيَات u. سَوَاقِي pl.
جَدَاوِل pl.

Bache s. f. خِنْزِيرَة.

Bachforelle s. f. جِنْسٍ مِنْ سَمَك |
Bachstelze | نَهْرِيّ وَهُوَ مَنْقُوش
جِنْسٍ مِنَ الْعَصَافِيرِ وَهُوَ s. f.
يَهْرُ الذَّنْب.

Bachbord s. m. يَسَارِ الْمَرْكَبِ لِلنَّظَرِ |
مِنْ مَوْخِرَة.

Bacfe s. f. وَجْنَة | خُدُود pl. خَدّ |
وَجَنَات pl.

backen va. Brot ه | خَبَز i ه | Eier 2c.
حَمَّص ه (dörren) - | قَلَى i البَيْض

Backen-bart s. m. الْحَيّ pl. لِحْيَة |

-knochen s. m. عَيْر | حُرّ الوَجْه

-streich s. m. ضَرْبَة | الوَجْنَة

لَطْسَة | لَطْمَة | صَفْعَة | بِالْكَفّ

-jahr s. m. أَضْرَاس pl. ضِرْس

Bäcker s. m. خَبَّاز pl. خَبَّازُون |
دُكَّانِ الخَبَّازِ | خِبَازَة ei s. f.

Bach-obst s. n. فَوَاكِهِ | نُشُوفَات *

-ofen s. m. فُرْن pl. مُنَشَّفَة

-pfanne s. f. مِقْلَاة pl. أَفْرَان

مِقْلَايَة * | مَقَالٍ

Bachfisch s. m. بَحْشِيش | Trinf-
geld.

Bach-stein s. m. آجْرَة pl. آجْر |

-trog | طُوب * | قَرَامِيد pl. قَرْمِيد

s. m. مِعْجَن pl. مِعَاجِن | -wurf

s. n. حَلَاوَى مَقْلِيَّة

Bad s. n. حَمَّام pl. حَمَّامَات | ein
- nehmen اسْتَحَمَّ

Bade-anstalt s. f. حَمَّام | -anzug

s. m. لِبْسِ الْمُسْتَحَمِّ | -arzt s. m.

خَادِم | طَبِيبِ الحَمَّام -diener s. m.

خَادِمَة | مُكَيِّسِ | الحَمَّام -frau s. f.

زَائِرِ الحَمَّام | الحَمَّام -gast s. m.

-haus | أَجْرَة الحَمَّام s. n. -geld

س. n. حَمَّام | -hose s. f. فُوطَة

المُدَاوَاة | -fur s. f. الْمُسْتَحَمِّ

صاحب s. m. -meister | بِالْحَمَّامَاتِ |
 الْحَمَّامِ.
 baden va. jm. غَطَسَ | vn. -, sich -
 اغْتَسَلَ | اسْتَحَمَّ.
 Badeort s. m. بَدَد فِيهِ حَمَّامَاتِ.
 Bader s. m. حَلَّاقٍ | مُزَيِّنٍ.
 Badereise s. f. سَفَرٌ إِلَى حَمَّامٍ |
 Badewanne s. f. مَغْسَلٌ pl.
 مَغَاطِسُ pl. مَغْطَسٌ | مَغَاسِلُ.
 Bagage s. f. عَفْشٌ * (Gepäck) |
 (Lumpenpack) - | أَمْتِعَةٌ | لَبَشٌ *
 أَسَافِلُ النَّاسِ.
 Bagatelle s. f. تَرَهَاتٍ pl. تَرَهَةٌ |
 Kleinigkeit. | لَفَاءٌ | قَلَامَةٌ.
 Bagdad n. pr. بَغْدَادٌ.
 Bagger s. m. آلَةٌ لِإِخْرَاجِ الرَّمْلِ |
 أَخْرَجَ الرَّمْلَ vn. -n | مِنَ الْمَاءِ
 مِنَ الْمَاءِ.
 bähnen va. etw. كَمَدَ هـ.
 Bahn s. f. طَرِيقٌ | سَبِيلٌ pl. سَبِيلٌ |
 طَرِيقٌ pl. طَرِيقَاتٌ | طَرِيقٌ |
 صِرَاطٌ | سَبِيلٌ pl. سَبِيلٌ |
 طَرِيقٌ لَهُ brechen | jm. -
 فَتَحَ | sich - brechen a
 (Stück Zeug) - | لِنَفْسِهِ الطَّرِيقَ
 سَبِيلَ حَدِيدِيَّةٍ (Eisenbahn) - | لِقِ
 -beamter s. m. مَوْظَفُ السَّبِيلِ

فَاتِحٌ | brecher s. m. | الْحَدِيدِيَّةِ
 -dienst s. m. | مُمَهِّدٌ | الطَّرِيقِ
 -en | خِدْمَةُ السَّبِيلِ الْحَدِيدِيَّةِ
 | طَرَّقَ لَهُ einen Weg va. jm.
 | فَتَحَ | sich einen Weg - a
 | مَحَطَّةٌ | -hof s. m. | لِنَفْسِهِ الطَّرِيقِ
 -wärter s. m. | حَارِسُ السَّبِيلِ
 الْحَدِيدِيَّةِ.
 Bahre s. f. مَحَامِلٌ pl. مَحْمُولٌ |
 نَعَشٌ | ناووس pl. تَوَابِييتٌ |
 تَابُوتٌ pl. | نَوَاوِيِسُ | Bahrtuch s. n.
 كَفَنٌ | أَكْفَانٌ pl.
 Bai s. f. خُلْجَانٌ | خُلْجٌ pl. خَلِيْجٌ |
 جُونٌ *
 Bajonett s. n. حِرَابٌ pl. حَرَبَةٌ |
 سِنْجَةٌ ag.
 Bafe s. f. عِلَامَةٌ فِي الْبَحْرِ.
 Balance s. f. مُعَادَلَةٌ | إِعْتِدَالٌ |
 ba- | Gleichgewicht | اِسْتِوَاءٌ
 lancieren va. هـ | عَادَلٌ | sich -
 تَوَازَنَ.
 bald adv. | بَعْدَ قَلِيلٍ | عَنِ قَرِيبٍ
 - (beinahe), er wäre - gefallen
 | كَادَ يَسْقُطُ | so - als möglich
 bald . . . bald | بِأَقْرَبِ وَقْتٍ
 | تَارَةً . . . وَطَوْرًا | تَارَةً . . . وَتَارَةً
 تَارَةً . . . وَأَحْيَانًا.

Baldachin s. m. مِظَلَّة pl. مِظَال.

Bälde s. f., in - عَن قَرِيب | baldig

a. سَرِيع المَحْدُوث.

Baldrian s. m. حَشِيشَةُ الهِرِّ | فَو

والرِّبَانَا*

Balg s. m. (fell) جِلْد pl. جُلُود |

مِنْفَع (fl.) (Blasbalg) - | مِسْلَاخ

pl. مَنَافِخ | (gr.) كَبِير pl. أَكْيَار.

balgen vn. سِخَ mit jm. تَضَارَبَ

تَضَارُب s. f. | (الاولاد)

Balken s. m. جِسْر* | خَشَبَةٌ كَبِيرَةٌ

pl. جُسُور - | der Wage قَبْ

-werk s. n. eines Ge-

bändes خَشَبَات البِنَاء.

Balkon s. m. شُرْفَةٌ pl. شُرُف |

بَدَكُون*

Ball s. m. (Spiel-) كُرَّة pl. كُرَات |

spielen - | طَابَةٌ* | كَلَل pl. كُنَّة*

a. (Tanzvergnügen) - | لَعِب بالكُرَّة.

زَفَن | رَقَص.

Ballade s. f. قَصِيدَةٌ نَارِيحِيَّة pl.

قَصَائِد.

Ballanzug s. m. لِبْس الرَقَص.

Ballast s. m. ثِقَل فِي قَعْرِ السَّفِينَةِ |

صَابُورَةٌ.

Ballen s. m. حُرْمَةٌ pl. حُرَم | طَرْد*

| بَالَةٌ* | فَرْد pl. فَرْدَةٌ* | طُرُودَةٌ pl.

- (der Hand u. des Fußes) عَقَب

pl. أَعْقَاب.

ballen va. die Fäuste الكَف a جَمَع.

Ballet s. n. رَقَص فِي المَرْسَع.

Ball-fest s. n. عِيد الرَقَص | -fleid

s. n. ثَوْب الرَقَص.

Ballon s. m. مُنطاد.

Ballotage s. f. اِقْتِرَاع | ballottieren

vn. اِقْتَرَع.

Ballsaal s. m. قَاعَةُ الرَقَص.

Ballspiel s. n. لَعِب الكُرَّة | لَعِب

الطَابَةٌ.

Balsam s. m. بَلْسَم | دُهْن | مَرَهَم |

-baum, -strauch s. m. شَجَرَةٌ

بَلْسَمِيّ a. | -isch | البَلْسَم

Balustrade s. f. دَرَابِزُون pl. دَرَبِزِين.

Balz s. f. تَعَشَّر بَعْض الطُّيُور | -en

vn. تَعَشَّر (بَعْض الطُّيُور).

Bambus s. m., Bambusrohr s. n.

خَبَايِر pl. خَبَايِرَان.

bammeln vn. تَدَلَّى | تَدَلَّى.

banal a. اِبْتِدَالِيّ | زُقَاقِيّ | ität s. f.

اِبْتِدَالِيَّة | زُقَاقِيَّة.

Banane s. f. مَوْز coll. | eine - مَوْزَةٌ.

Band s. m. جُزء الكِتَاب pl. أَجْزَاء |

رِبَاط s. n. - | مُجَلَّدَات pl. مُجَلَّد

شَرِيْط | أَحْبَال pl. حَبَل | رُبْط pl.

- pl. شُرْط | - (Hosen-) نَكَّة pl. |
 دِكْكَ pl. دِكَّة * | تِكْكَ |
 Bande s. f. جَمَاعَة (الحَرَامِيَّة مَثَلًا) |
 أَرْبَطَة s. pl. | طَوَائِف pl. طَائِفَة |
 قَيِّد & | جِن. in - | قِيُود |
 Bandelier s. n. حِمَائِل pl. | حِمَالَة |
 وَشَاح |
 bändigen va. رَاض u الحَيَوَان | رَاض |
 رَوَض & | جِن. bld. (unterwerfen) |
 قَهْر a & | أَحْضَع & |
 Bandit s. m. لَص pl. | قَطَّاع الطَّرِيق |
 حَرَامِيَّة pl. | حَرَامِي * | لُصُوص |
 Bandweber, Bandwirker s. m. صَانِع |
 الدُّودَة s. m. | الشُّرْط |
 الوَحِيدَة أَوْ المَتَوَحِّدَة |
 bang, bange a. خَائِف | جِن. -
 خَوْف & | جِن. angst u. -
 فَرَع | بَازِغ v. es bangt
 أَنَا خَائِف | Bängen s. n.
 اِسْتِيَاق | خَوْف |
 خَوْف |
 Banf s. f. مَصْطَب pl. | مَصْطَبَة |
 بَنُوك pl. | بَنُوك * | سُدَد pl. | سُدَّة * |
 أَكْثَبَة pl. | كَثِيب (im Meer) - |
 كُوم pl. | كُومَة | (Wechsel-) |
 بَنُوك | مَوْضِع الصِّرَافَة | صَيْرِفِيَّة |
 بِلا فَرَق | جَمِيعًا - | durch die |
 عَتْر ه |
 auf die lange - | أَخَّر ه |
 bruch s. m. | اِنْكَسَار | اِفْلَاس |
 -brüchig a. | مُفْلِس - - |
 اِنْكَسَر | اِفْلَس |
 Bänfelsänger s. m. مُغَنِّ فِي السُّوق |
 banferott a. | مُفْلِس | Banferott
 اِنْكَسَار | اِفْلَاس | - |
 اِفْلَس |
 Banfett s. n. | عَزُومَة |
 وِلِيمَة pl. |
 وِلَام | Gastmahl | -ieren vn.
 أَكْثَر المَحْضُور فِي الوِلَام |
 Banfier s. m. | صَرَاف * |
 Banfnote s. f. | وَرَقَة المَعَامَلَة |
 بانن s. m. (Verbannung) نَفَى |
 دَن - | اِنْجِلَاء | مِّن البِلَاد |
 رَجَع i مِّن مَّنْفَاهُ بِدُونِ اِنِّ |
 - (Kirchenbann) kath. | حُرْم pl.
 اِحْرَام u. | جِن. in den - |
 حَرَم i & | جِن. mit dem - |
 اِحْرَام * | (Gerichtsbarkeit) - |
 قَهْر (Swang) - | bulle s. f. kath.
 بُولَة الحَرَم * | بَرَاءَة الحَرَم مِّن البَابَا |
 bannen va. جِن. (in den Bann thun)
 kath. & i | حَرَم & |
 اِحْرَام |
 عَزَم العَزَائِم | عَزَم العَزَائِم |
 قَسَم عَلَى * | (verbannen) etw.
 نَفَى i ه |

Banner s. n. عَلام pl. | رَايَة pl. |
 سَنَجَق * | يَبَارِق pl. | يَبْرِق * | رَايَات
 pl. | سَنَاجِق * | بَنَدِيرَة * | سَنَاجِق pl.

Bann-fluch s. m. kath. حَرْم البَابَا
 pl. | حُرُوم u. | أَحْرَام -meile s. f.
 einer Stadt | جِوَار مَدِينَة | رَبَض
 -strahl s. m. f. | مَدِينَة | Bannfluch.

bar a. (entblößt) | عَار | عُرْبَان |
 مُعَرَّى | - adv. | نَقْدِي (Geld) - |
 مُجَرَّد | نَقْدًا .

Bär s. m. | دُب pl. | آدُبَاب | der
 große - | الدُب الأَكْبَر - | بَنَات
 | نَعَش الكُبْرَى | der kleine - | الدُب
 | نَعَش الصُّغْرَى | الأصغر | بَنَات

Baracke s. f. | خَص pl. | خِصَاص u.
 | كُوخ pl. | أَكُوخ | خُصُوص

Barbar s. m. | بَرَابِرَة pl. | بَرَبْرِي
 | رَجُل مُتَوَحِّش | Barbarei s. f.
 | تَوَحِّش | بَرَبْرِيَة |
 مُتَوَحِّش .

Barbe s. f. zool. | سَمَك نَهْرِي
 | بَوَارِي pl. | بَوْرِي .

bärbeißig a. | شَرِيس - | شَرِيس a
 -feit s. f. | شَرَاَسَة .

Barbier s. m. | مَزْيِين | حَلَّاق -en
 | حَلَّق | - messer s. n. | حَلَّق s i
 va. jn.

-stube s. f. | مَوَاسِي pl. | مَوْسَى
 دُكَّان مَزْيِين .

Barchent s. m. | قُطْن من قُطْن
 وَكْتَان .

Barde s. m. | قَوَال عِنْد
 شُعُوب الشَّمَال | الأَقْدَمِين .

Bären-führer s. m. | قَائِد دُب فِي
 | جِلْد الدُب s. f. | الأَسْوَاق -haut
 | تَكَاَسَل | كَيْسَل - auf der -- liegen a
 | كَيْسَل | كَيْسَلان pl. | -häuter s. m.
 كَسَالِي .

Baret s. n. | قَلَنْسُوءَة مُقَرَّنَة pl.
 | قَلَانِيَس u. | قَلَانِيَس .

barfuß a. | حَافِي pl. | حَفَاة | Barfüßer,
 | رَاهِب حَافِي s. m. | رُهْبَان pl.

Bargeld s. n. | نَقُود pl. | نَقْد .

barhaupt, barhäuptig a. | مَكْشُوف
 | فَصْعَان | الرَأْس .

Barfe s. f. | فُلُوكَة * | فُلُك * pl. | فَلَائِك
 | سَخَائِيَر pl. | شَخْتُورَة * | شَخْتُور * u.
 | قَوَارِب pl. | قَارِب - fl. | زَوَارِق
 | طَرَاد | زَوَارِق .

Bärme s. f. | دُرْدِي | عَدَر .

barmherzig a. | حَنُون | شَفُوق
 | رَحِيم - (von Gott) | رَحْمَان -feit s. f.
 | مَرْحَمَة | رَحْمَة | شَفَقَة .

Bärmutter s. f. رَحِم | Gebärmutter.

Barometer s. n. ميزان | ميزان الجو
الهواء.

Baron s. m., f. Baronin od. Baronesse
رَجُلٌ أَوْ أَمْرَأَةٌ شَرِيفِ النَّسَبِ
(لَقَب).

Barre s. f. (von Metall) سَبِيكَةٌ
pl. دَرَابِيِزُ | دَرَبَازُ | سَبَائِكُ
pl. قَضَبَانُ | - (vor Ge-
richt) حَاجِزٌ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَالْمُطَهَّرِ
- (eines flusses) رَمَلٌ أَمَامَ فَمِ
النَّهْرِ.

Barrifade s. f. مِتْرَاسِ pl. مِتْرَاسِ
barrifadieren va. سَدَّ
الطَّرِيقَ | الأَزِقَّةَ بِالْمِتْرَاسِ

Bars, Barsch, Börs s. m. zool.
نُوعٌ مِنَ السَّمَكِ النَّهْرِيِّ

barsch a. حَادٌّ | حَامِضٌ | خَشِنٌ

Barschaft s. f. نَقُودٌ

Barschheit s. f. خُشُونَةٌ

Bart s. m. لِحْيَةٌ pl. لِحْيٌ | - (Schmurr-)
in | شَنْبٌ * | شَوَارِبُ pl. شَارِبِ
den - brummen u. كَنْ | زُمْرَمٌ |
سِنِ الدَّخَانِ | - | بَرَبْرٌ *
المِفْتَاحِ

Barte s. f. رِبِيشُ الحُوتِ

bärtig a. دُو لِحْيَةٍ

bartlos a. مُرْدٌ pl. مُرْدٌ | - - fein
a. مُرْدٌ

Basalt s. m. min. حَجَرٌ أَسْوَدٌ بُرْكَانِيٌّ

Bäse s. f. ابْنَةُ العَمِّ | ابْنَةُ العَمِّ
قَرِيبَةٌ

Basilisf s. m. zool. نُوْعٌ مِنَ الحِرْدُونِ

Basis s. f. (einer Säule) قَاعِدَةٌ pl.
| أَسَاسٌ (Grundlage) - | قَوَاعِدُ
pl. أُصُولٌ

baß ver. adv. كَثِيرًا | جَدًّا

Baß s. m. instr. كَمَنُجَةٌ كَبِيرَةٌ |
الدَّرَجَةُ الوَاطِئَةُ مِنَ (Stimme) -
صَوْتِ الرِّجَالِ

Bassin s. n. بَرَكَةٌ | حَوْضٌ pl. -
mit Springbrunnen. فِسْقِيَّةٌ

Bassora n. pr. البَصْرَةُ

Bast s. m. لِيْفٌ pl. أَلْيَافٌ

Bastard s. m. ابْنُ زِنَاءٍ | ابْنُ حَرَامٍ
بَنَادِيْقِ pl. بُنْدُوقٌ | نَعِيْلٌ

Bastei s. f. مِتْرَاسٌ

basteln vn. اشْتَعَلَ مُرَقَّعًا

Bastion s. f. | Bastei.

Bataillon s. n. طَوَائِيْرٌ pl. طَابُورٌ *

Batist s. n. قَضَبِيٌّ pl. قَضَبٌ |
قُمَاشٌ رَفِيْعٌ جَدًّا

Batterie s. f. بَطَّارِيَّةٌ * |
مِنِ المَدَافِعِ

Baßen s. m. نَوْعٌ مِنَ النُّقُودِ الْقَدِيمَةِ.

Bau s. m. بُنْيَانٌ | أْبْنِيَّةٌ pl. بِنَاءٌ

(des Feldes) - | عِمَارَةٌ | بِنَايَةٌ

-des Satzes | فِلَاحَةٌ | زِرَاعَةٌ | حِرَاثَةٌ

| تَأْلِيْفُ الْجُمْلَةِ | تَرْكِيْبُ الْجُمْلَةِ

-des Fuchses 2c. | جُحْرُ الثَّعْلَبِ النِّحْ

-amt s. n. | دَائِرَةُ تَدْبِيرِ الْأَبْنِيَّةِ

-anschlag s. m. | تَسْعِيرُ الْبِنَاءِ

-art s. f. | نَوْعُ الْبِنَاءِ -behörde

s. f. f. Bauamt.

Bauch s. m. | جَوْفٌ | بَطُونٌ pl. بَطْنٌ

pl. | كِرْشٌ (der Tiere) - | أَجْوَافٌ

pl. | كُرُوشٌ | vor jm. auf dem -

liegen | تَذَلَّلَ لَهُ | seinem - dienen

a | شَرِهَةٌ | -fell s. n. | صِفَاقٌ -fell-

entzündung s. f. | الْتِيْهَابُ الصِّفَاقِ

-fluß s. m. | إِسْهَالٌ -grimmen

s. n., -schmerz s. m., -weh s. n.,

مَغْصٌ | -ig a. | بَطْنٌ -redner s. m.

| مُخْرِجُ الْكَلَامِ بِلَا تَحْرِيْكِ الْفَمِ

-wassersucht s. f. | اسْتِسْقَاءُ بَطْنِيٍّ.

bauen va. | بَنَى | الدار | Haus

u | عَمْرٌ ه | (feld) ه | زَرَعٌ ا

ه | حَرَثٌ u | فَلَءٌ ا ه | auf

اِعْتَنَى - auf Sand | اِعْتَمَدَ عَلَى

بِعَمَلٍ لَا يَدُوْمُ.

Bauer s. m. | فَلَاحُونَ pl. فَلَاحٌ

اِرْجُلٌ عَدِيْمٌ الْأَدَبِ (Schimpfwort) -

- (im Schachspiel) | يَبْدُقُ | بِيَادَةٌ

pl. | بِيَادِقٌ.

Bauer s. n. | أَقْفَاصٌ pl. قَفَصٌ

Bäuerin s. f. | فَلَاحَةٌ | bäuerlich a.

فَلَاحِيٌّ.

Bauern-bursche s. m. | فَلَاحٌ شَابٌّ

-fänger s. m. | مُحْتَالٌ | غَشَّاشٌ

-hof s. m., -gut s. n. | ضَيْعَةٌ

جِفْتِكَ | أَرْضُ فَلَاحٍ.

bau-fällig a. | مُشْرِفٌ عَلَى الْاِتِّهَادِ

-fälligkeit s. f. | اِتِّلٌ إِلَى الْاِتِّهَادِ

-gerüst s. n. | اِشْرَافٌ عَلَى الْاِتِّهَادِ

-handwerker pl. | صِقَالَاتٌ

s. m. | بِنَاءٌ -herr s. m. | صَاحِبٌ

اِحْتِشَابٌ لِلْبِنَاءِ -holz s. n. | اِحْتِشَابٌ

-kosten s. pl. | اِنْفَقَةُ الْبِنَاءِ

s. f. | اِعْلَمُ الْعِمَارَةَ | اِعْلَمُ الْبِنَاءِ

| اِمْتِحَاصٌ بِالْبِنَاءِ -lich a. | اِمْتِحَاصَةٌ

-lichkeit s. f. f. Gebäude.

Baum s. m. | اَشْجَارٌ coll. pl. شَجَرٌ

ein - | شَجْرَةٌ -blüte s. f. | زَهْرٌ

زَمَانٌ اِزْهَارِهَا | اِزْهَارِهَا | الشَّجْرَةَ

Baumeister s. m. | مُعْمَارِيٌّ | مُهَنْدِسٌ

pl. | مُعْمَارِيَّةٌ.

baumeln vn. | تَدَلَّى | تَدَلَّى.

- bäumen sich v. (Pferd) u شبا | تفليد أو صوت الساقط! bauz!
 *تقنطر.
- Baum-gang s. m. مَحْرِفَةٌ pl. مَحَارِفُ | بازار s. m. سُوق pl. أسواق *
 -garten s. m. بُسْتَان pl. بَسَاتِين | beabsichtigen va. etw. ه i قصد.
 -hoch, -lang | حَادِثِق pl. حَدِيقَةٌ | beachten va. in. u. etw. ه و ه |
 a. عَدِيم | طَوِيل كَالشَّجَرِ a. | لَاحِظ ه | نَظَر u إِلَى | بَالِي بِ
 -schlag | زَيْت s. n. | الأَشْجَار | مُسْتَحِقَّ النَّظَرِ a. | اِعْتَبَرَ ه | أَعْطَى البَالِ لِ
 s. m. تَشْخِيسَ وَرَقِ الشَّجَرِ فِي | Beachtung s. f. | مُعْتَبَرٍ | إِلَيْهِ
 pl. مَعْرِسِ | -schule s. f. | صُورَةٌ | اِعْتِبَارًا | مُرَاعَاةً
 | مَشَائِلِ pl. مَشْتَل * | مَعَارِسِ | beackern va. etw. ه u حَرَثَ ه
 -wolle | قَوِي كَالشَّجَرِ a. | -starf a. | زَرَعَ ه a
 s. f. قُطْن pl. أَقْطَان | -wollen a. | Beamte s. m. صَاحِبِ مَنَصِبٍ |
 | -wollenbaums s. m., -wollen- | مُتَوَطِّف * | مُسْتَحْدَمٍ | مَأْمُورٍ |
 staude s. f. شَجَرَةُ القُطْنِ . | -ntum | اِمْتَوَظَّفُونَ * | -nschaft s. f. |
 Bau-ordnung s. f. نِظَامِ الحُكُومَةِ | s. n. هَيْئَةُ المَأْمُورِينَ .
 مَحَلِّ | -platz s. m. | لِأَجْلِ البِنَاءِ | beängstigen va. in. ه ا أَقْلَقَ ه
 مُفْتِشِ البِنَاءِ | -rat s. m. | البِنَاءِ | ضَيْقٍ | Beängstigung s. f. | فِكْرَةٌ
 . | النَّفْسِ .
 bäuriح a. فَلَاحِي . | beanspruchen va. etw. ه u طَلَبَ ه
 Bauriح s. m. رَسْمِ البِنَاءِ pl. رُسُومِ | اِدَّعَى بِ .
 Bausack s. m., bausäckig a. | beanstanden va. etw. عَلَى | اِعْتَرَضَ عَلَى .
 | Bausacken | دُو خَدَّيْنِ سَمِينِيْنِ | beantragen va. etw. ه i عَرَضَ ه
 s. pl. خَدَّانِ سَمِينَانِ . | اَنْهَى ه * .
 Bausch s. m. شَيْءٌ مَنفُوعٌ | تَنفِخِ | in - u. Bogen بِالْجُمْلَةِ | beantworten va. Brief جَوَابًا u رَدَّ
 | جُزْأًا | بِالْجُمْلَةِ | عَلَى خِطَابٍ | Beantwortung s. f. |
 -ig a. مُتَنفِخِ . | جَوَابِ .
 bauverständig a. خَبِيرٌ بِالْبِنَاءِ | bearbeiten va. feld الحَقْلِ u حَرَثَ ه
 Bauwesen s. n. هِنْدَسَةٌ | عِلْمِ البِنَاءِ .

- a | فَلَح | - Stein الحَجَر i, u | نَحَت |
 - Thema اَبْحَث a عن المَوْضوع |
 a | فَحَص | Bearbeiter s. m. |
 | باِحِث | | ناِحِث | | حاِرِث |
 | فَحَص | عن | حاِرِث |
 Bearbeitung s. f. |
 | اَتَّهَمَ | ب | wegen |
 | اَتَّهَمَ | ب |
 | اَدَّارَ | jn. u. etw. |
 | حَرَسَ | u | | نَظَرَ | u | اِلَى | | البال | عَلَى |
 | حِرَاسَةَ | | نَظَرَ |
 | اَمَرَ | u | | وَصَى | ب |
 | عَايَنَ | h |
 | جَهَّزَ | الثَّوْبَ |
 | اَتَّهَمَ | ب |
 | حَرَثَ | u | الحَقْلَ |
 | فَلَحَ | a | | زَرَعَ | a | h |
 | بَنَى | i | الأَبْنِيَّةَ | فِي | مَحَلِّ |
 | عَامِرَ | (ضِدَّ خَرَابٍ) |
 | اِهْتَرَزَ | |
 | تَزَلَّزَلَ | | اِهْتَرَزَ |
 | اِرْتَعَدَتْ | فَرَائِضُهُ | خَوْفًا |
 | اِرْتَجَافَ | | اِهْتِرَازَ |
 | زَلَّزَلَ | الأَرْضَ | | زَلَّزَلَةَ | الأَرْضَ | (-) |
 | اَبُو | نَظَّارَةَ | | ذُو | نَظَّارَةَ |
 | اَقْدَحَ | pl. | قَدَحَ |
 | كَوَّسَ | a | كَثِيرًا |
 | كَوَّسَ | pl. |
 | جُرْنُ | pl. |
 | دَسْتُ | | أَجْرَانُ |
 | طُسُوتُ | pl. | طُسْتُ * |
 | قَصَعَاتُ | pl. |
 | أَلْكَانُ | pl. | لَكْنُ * |
 | صُنُوجُ | pl. | صَنْجُ * |
 | الجَوْفُ | الأَسْفَلَ |
 | سَقَّفَ | h |
 | سُقُوفُ | pl. |
 | سَقَّفَ | u. |
 | تَأَمَّلَ | |
 | اِهْتَمَّ | ب |
 | مُحْتَرِزٌ |
 | اِحْتِرَازَ | s. f. |
 | شَكَرَ | s u |
 | اَبَى | h |
 | حَاجَاتُ | pl. |
 | اِحْتِيَاجَ | |
 | مُسْتَحِقُّ | التَّاسَفِ | لَهُ |
 | مُسْتَحِقُّ | التَّلْهِيفِ | لَهُ |
 | تَوَجَّعَ | لِ | تَأَسَّفَ | لِ |
 | نَدِمَ | a | عَلَى | (-) |
 | تَأَسَّفَ | |
 | تَأَسَّفَ | a. f. |

bedecken va. jn. u. etw. mit غَطَّى ه وهب |
 تَغَطَّى ب | sich - mit غَشَى ه
 sich mit Ruhm - تَوَشَّعَ بِالْمَجْدِ
 sich mit Schande - أَوْ الْجَلال
 sich - (Hut auf- Tَسْرَبَلَ بِالْعَارِ
 setzen) a لَبَسَ | sich -
 (Himmel) تَغَيَّمَ | bedeckt a.
 (Himmel) مُغَيِّم | Bedeckung s. f.
 (Esforte) - | أَغْطِيَّة pl. غطاء
 مُحَافِظُونَ | حَرَسَ.

bedenken va. etw. في | تَفَكَّرَ في |
 تَأَمَّلَ في | in. - mit ه ب | تَرَوَى في
 | تَأَمَّلَ - | أُنال ه ه
 denken vn. تَأَمَّلَ | - tragen zu
 | اِرْتَابَ في | bedenklich a. (Sache)
 | وَعُرَ | صَعْبَ | خَطِرَ
 | مُتَفَكِّرَ | Bedenklichkeit
 | اِرْتِيَابَ | تَحْيِيرَ | اِرْتِيَابَ s. f.
 | مُدَّةً لِلتَّأَمَّلِ | Bedenkzeit s. f.
 - | خِيَارَ (beim Kauf).

bedeuten va. etw. ه | عَبَّرَ عن |
 | دَلَّ u على | in. - (zurechtweisen)
 | أَشَارَ إِلَيْهِ ب - | اِرْتَشَدَ ه
 - | أَعْلَمَ ه ه | das hat viel zu
 | هَذَا مُهِمَّ جِدًّا | es hat nichts
 | لا طَائِلَ فِيهِ - | Bedeuten s. n.
 | مُهِمَّ | bedeutend a. | اِشَارَةً | اِعْلَامَ

مُبِين | بَلِيغ | bedeutsam a. عَظِيم
 | مُهِمَّ | Bedeutsamkeit s. f. | المَعْنَى
 | أَهْمِيَّة | Bedeutung s. f. مَعْنَى
 | - | (Wichtigkeit) | عِبَارَةً | مَعَانٍ pl.
 | أَهْمِيَّة | bedeutungslos a. عَادِم
 | الأَهْمِيَّة | | قَلِيلَ القِيَمَةِ | be-
 deutungsschwer, bedeutungsvoll
 | مُهِمَّ | بَلِيغ a.

bedienen va. jn. u | خَدَمَ | sich -
 | تَنَاوَلَ مِنَ الطَّعَامِ (bei Tisch)
 | اِسْتَعْمَلَ ه | sich-einer Sache (gen.)
 | اِسْتَفْعَلَ ب | Bedienstete s. m.
 | مُسْتَخْدَمَ | خَدَمَ u. خُدَّامَ pl. خَادِمِ
 | مُوَطَّفَ * | Bediente s. m. خَادِمِ pl.
 | خَدَمَ u. خُدَّامَ | Bedientenpaar s. n.,
 | جَمَاعَةَ الخَدَمِ | Bedientenvolk s. n.
 | خِدْمَةً pl. | Bedienung s. f. خَدَمَ |
 | الخُدَّامَ | (die Bedienten) الخُدَّامَ.

Beding s. m. شَرْطَ | Bedingung |
 -en va. etw. عَلَى | اِسْتَرْطَ عَلَى a.
 | مُتَوَقَّفَ عَلَى * | شَرْطَ s. f. -nis
 | -ung s. f. شَرْطَ pl. Bedingung
 | -en stellen u شَرْطَ | in. شُرُوطَ
 | اِسْتَرْطَ عَلَيْهِ | unter der -
 | بِشَرْطِ أَنْ | -ungsatz s. m. daß
 | جُمْلَةً شَرْطِيَّةَ | -ungsweise adv.
 | شَرْطِيًّا.

- bedrängen va. jn. ۛ | أَتْعَبُ ۛ | ضَيْقٌ ۛ | bedrängen va. jn. ۛ | نَوَّحٌ ۛ.
- Bedrängnis s. f. | تَقَلُّ عَلَيْهِ | Beefsteak s. n. * | يِبْفَتَكْ | قِطْعَةٌ |
- bedräuen va. jn. f. bedrohen. | ضَيْقٌ. | لحمٌ بَقَرٌ مَشْوِيَّةٌ.
- bedrohen va. jn. ۛ | هَدَّدَ ۛ | توَعَّدَ ۛ | تَشَرَّفَ - sich. | كَرَّمَ ۛ | شَرَّفَ ۛ |
- bedrohlich a. | مُتَوَعِّدٌ | مُهَدِّدٌ. | حَلَفَ ۛ | beeiden, beeidigen jn. ۛ | اسْتَحْلَفَ ۛ |
- bedrucken va. ein Papier a في | طَبَعَ a في | الورق. | تَسَارَعَ | بادَرَ إِلَى |
- bedrücken va. jn. ۛ i | ظَلَمَ | u | جارٍ | اجْتَهَدَ فِي | اسْتَعْجَلَ فِي | إِلَى |
- Bedrücker s. m. | ظالِمٌ | Bedrückung | تَعَدَّى عَلَيْهِ | جَفَا u ۛ | عَلَيْهِ |
- s. f. | جَفَاءٌ | جَوْرٌ | ظُلْمٌ. | اسْتَعْجَلَ فِي | beeilen v. sich zu |
- Beduine s. m. | بَدَوِيٌّ pl. | بدَوِيَّوْنَ | عمِلَ a فيه. | beeinflussen va. jn. |
- أَعْرَابِيٌّ pl. | أَعْرَابِيَّوْنَ -n pl. | beeinträchtigen va. jn. ۛ u | ضَرَّ ۛ |
- عَرَبٌ البَدُو. | beenden, beendigen va. etw. ه | أَتَمَّ ه |
- bedünken va. jn. od. jn. | ظَهَرَ لَهُ a لَهُ. | فَرِغَ مِنْ | أَنْجَزَ ه | كَمَلَ ه |
- bedürfen jn. od. j. | إِحْتِاجٌ إِلَى | Beendigung s. f. | انْتِهَاءٌ |
- gen. | es bedarf einer | فراغٌ. |
- Sache gen. | كَفَى i شَيْءٌ | Be- | ضَائِقٌ ۛ | ضَيْقٌ عَلَيْهِ |
- dürfnis s. n. | حَاجَةٌ pl. | حاجاتٌ | حَصَرَ u, i |
- u. | إِحْتِيَاجٌ | حَوَائِجٌ | beerben va. jn. ۛ i | وَرِثَ ۛ |
- ein - verrichten | حَاجَةٌ | خَلَفَ u ۛ | فِي الإِرْثِ |
- Bedürfnisanstalt | قَضَى i الحَاجَةُ | beerdigen va. jn. ۛ i | دَفَنَ ۛ |
- s. f. | بَيْتُ الرَّاحَةِ | bedürftig a. | Beerdigung s. f. | دَفْنٌ |
- Bedürftigkeit s. f. | مُحْتِاجٌ إِلَى | جَنَائِزٌ pl. | جَنَازَةٌ |
- اِفْتِقَارٌ | ضَيْقٌ | إِحْتِيَاجٌ إِلَى | Beere s. f. | حَبٌّ pl. | حُبُوبٌ | eine -
- حَبَّةٌ.

Beet s. n. مَغْرَسٍ pl. مَغَارِسِ.

befähigen va. jn. zu أَهَّلَ هـ | أَهْلٌ هـ

| أَقْدَرَهُ عَلَى | قَدَّرَهُ عَلَى | طَوَّقَهُ هـ

befähigt a. قَادِرٌ عَلَى | أَهْلٌ لِي

Befähigung s. f. قُدْرَةٌ | طَاقَةٌ

وَسُوعٌ.

befahrbar a. (Weg, Meer) قَابِلٌ

befahren va. Weg | لِلرُّكُوبِ فِيهِ

طَرَقَ u هـ | سَلَكَ هـ

befallen va. jn. سَقَطَ u عَلَيْهِ

| اِغْتَرَى هـ | أَصَابَ هـ | حَصَلَ u لَهُ

أَلَمَّ بـ

befangen a. (verlegen) حَيْرَانٌ

- in einem | خَجَلَانٌ | مُتَحَيِّرٌ

Irrtum zc. غَرِيقٌ فِي خَطَأٍ النح

خَجَلٌ | تَحَيَّرَ | حَيْرَةٌ هـ -heit s. f.

befassen v. sich mit اِسْتَعْلَمَ بِـ

befehlen va. jn. حَارَبَ هـ

Befehl s. m. حُكْمٌ | أَوَامِرٌ pl. أَمْرٌ

pl. أَحْكَامٌ | auf - des Königs

| تَحَتَّ الأَمْرُ -! zu | بِأَمْرِ المَلِكِ

-en va. jn. etw. | سَمِعًا وَطَاعَةً

(ver- | أَوْصَى هـ | أَمْرٌ u هـ بـ

langen) | طَلَبَ u هـ | sich Gott -

Gott befohlen! | تَوَكَّلَ عَلَى الله

befehligen va. Heer | بِحِفْظِ الله

Befehlsform s. f. | قاد u الجَيْشِ

-haber | صِيغَةُ الأَمْرِ مِنَ الفِعْلِ

s. m. قَائِدٌ | حُكَّامٌ pl. حَاكِمٌ

| مُسْتَبِدٌّ a. -haberisch | قَوَاد

حَتْمِيٌّ.

befeinden va. jn. أَظْهَرَ لَهُ العَدَاوَةَ

بِشَدِّ u هـ | أَثْبَتَ هـ

| حَصَّنَ هـ (mil.) - | أَلْصَقَ هـ

Befestigung s. f. | اِثْبَاتٌ (mil.)

حُصُونٌ pl. حِصْنٌ | تَحْصِينٌ

befeuchten va. etw. | رَطَّبَ هـ | بَلَّ u هـ

رَشَّ المَاءَ عَلَى

befeuern va. jn. وَلَعَّ هـ

Beffchen s. pl. رَبْطَةٌ رَقَبَةٌ بَيْضَاءٌ

يَلْبِسُهَا الوَاعِظُ.

befiedern va. Pfeil رَيَّسَ السَهْمَ

etw. | وَجَدَ i هـ | etw.

- sich | اِسْتَحْسَنَ هـ - für gut

| كان u في (Person) Ort an einem

- sich | حَضَرَ u المكان

Ort (Sache) | وَجَدَ فِي | كان في

أَصْبَحَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ - sich wohl

كَيْفَ? Sie sich? - wie | العَافِيَةَ

| حال | Befinden s. n. | حَالُكَ

| عَافِيَةَ | صِحَّةٌ - gutes | خَاطِرٌ

befindlich a. | مَوْجُودٌ | كَائِنٌ

beflecken va. etw. | وَسَخَ هـ | دَنَسَ هـ

نَجَسَ هـ

begabt a. ذُو قَرِيحَةٍ | Begabung
 s. f. مَلَكَةٌ | قَرِيحَةٌ | اسْتِعْدَادٌ
 begaffen va. jn. od. etw. u نظر
 إِلَيْهِ مَبْهُولًا.
 begatten va. jn. (Menschen) جَامِعٌ |
 - (Tiere) عَشْرَةٌ | sich - تَجَامَعُ -
 تَعَشَّرُ | Begattung (Menschen)
 (Tiere) - نِكَاحٌ | حِمَامٌ | مُجَامَعَةٌ
 تَعَشِيرٌ.
 begaunern va. jn. اِحْتَالَ عَلَيْهِ.
 begeben va. Wechsel سَلَّمَ البَوْلِصَّةَ |
 - sich | عاملٌ ها | صَرَفَ i ها
 | حَصَلَ u | حَدَثَ u (geschehen)
 | nach - sich | وَقَعَ a | جَرَى i
 - sich in Gefahr | تَوَجَّهَ إِلَى
 | sich einer Sache
 gen. | تَنَزَّلَ عن | Begebung s. f.
 (eines Wechsels) - | تَنَزَّلَ عن
 مُعَامَلَةٌ البَوْلِصَّةِ.
 Begebenheit s. f. حَوَادِثُ pl. حَادِثَةٌ |
 وَقَائِعُ pl. واقعة.
 begegnen v. jm. ا لَاقَى | لَاقَى a |
 عاملٌ ا أَحْسَنَ - jm. gut | قَابَلَ ا
 | einem Übel - a مَنَعَ | المُعَامَلَةُ
 (geschehen) - | تَدَارَكَ الشَّرَّ | الشَّرُّ
 | حَصَلَ u | حَدَثَ u | جَرَى i

Begegnis s. n., Begegnung s. f.
 مُعَامَلَةٌ | لِقَاءٌ | مُلَاقَاةٌ | مُقَابَلَةٌ
 begehen va. Strafe ا طَرَقَ u السِّكَّةَ |
 | أقام العِيدَ بِاِحْتِفَالٍ fest -
 ا ارتَكَبَ Verbrechen - ا عَظَّمَ ه
 الجُرْمَ.
 Begehr s. m. s. n. ا رَغِبَةٌ | ا طَلَبٌ |
 -en va. etw. ا رَغِبَ a في | ا طَمَعَ a في
 -ens | ا اشْتَهَى ه | ا طَلَبَ u ه
 wert a., -enswürdig a. ا مَرغُوبٌ |
 -lichkeit | ا طَمَّاعٌ -lich a. | مَطْلُوبٌ
 s. f. ا اشْتِهَاءٌ | ا طَمَعٌ.
 Begehung s. f. eines festes ا قَامَةٌ
 | - eines Verbrechens
 ا ارتَكَبَ الجُرْمَ.
 begeistern va. jn. ا أسَّالَ لِعَابَهُ عَلَيْهِ |
 bld. سَوَّدَ وَجْهَهُ.
 begeistern va. jn. ا هَيَّيْمَ ا | ا وَلَّعَ ا
 | begeistert | ا مَوَّلَعٌ | ا هَامَ i - sich
 | حَمِيَّةٌ | ا تَوَّلَعَ | Begeisterung s. f.
 Begier s. f., Begierde s. f. ا طَمَعٌ |
 begierig a. | ا شَهَوَاتٌ pl. شَهْوَةٌ
 | ا رَاغِبٌ في | ا طَمَّاعٌ في | ا طَامِعٌ في
 - sein nach | ا في طَمَعٍ.
 begießen va. jn. mit ا رَشَّ u ه عَلَيْهِ |
 | صَبَّ u ه عَلَيْهِ | ا سَقَى i ا
 Beginn s. m. ا بَدَأَةٌ | ا بَدَأَ

- (eines Satzes) صَدْر | -en va.
 etw. ه a بَدَأَ | اِبْتَدَأَ | - (thun)
 ا أَخَذَ | يَفْعَلُ zu thun | عَمِلَ |
 مَشْرُوع | -en s. n. | جَعَلَ | يَفْعَلُ
 عَمَل.

beglaubigen va. etw. عَلَى | صادق عَلَى |
 Beglaubigung s. f. | ثَبَّتَ |
 تَصْدِيق * | مُصَادَقَةٌ.

begleichen va. Rechnung الْحِسَابِ | آدَى.

begleiten va. in. ه | رَافِقٌ ه | صَاحِبٌ ه
 etw. - mit ه إِلَى | أَضَافَ ه إِلَى | Begleiter
 s. m. | رَفِيقٌ pl. | رُفَقَاءُ | Begleitung
 s. f. | مُصَاحَبَةٌ | مُرَافَقَةٌ (mus.)
 دَقَّ آلَةٌ مُوسِيقِيَّةٌ مُصَاحَبَةٌ لِلغَيْرِ.

beglücken va. in. ه | أَسْعَدَ ه | in. -
 mit ه بِ | غَمَّرَ ه u |
 beglückt سَعِيدٌ.

beglückwünschen va. in. zu ه بِ | هَنَأَ ه بِ |

begnadigen va. in. ه عَنْهُ | عَفَا ه
 ه | سَامَحَ ه | بِذَنْبِهِ | غَفَرَ لَهُ
 gnadigung s. f. | عَفْوٌ | Begna-
 digungsrecht s. n. | حَقُّ العَفْوِ.

begnügen sich mit ه بِ | قَنِعَ ه بِ |
 اِكْتَفَى ه بِ |

begraben va. in. ه | دَفَنَ ه | Be-
 gräbnis s. n. | دَفْنٌ | رَمْسٌ | جَنَازَةٌ
 pl. | جَنَائِزٌ | - (Grab) pl. | قَبْرٌ

مَدْفِنٌ | Begräbnisplatz s. m. | قُبُورٌ
 pl. | مَدَافِنٌ | مَزَارٌ pl. | مَزَارَاتٌ |
 مَقَابِرَةٌ pl. | مَقَابِرٌ.

begreifen va. etw. (betasten) ه a مَسَّ |
 ه u | مَسَّ | - etw. (mit Verstand)
 ه | فِيهِمْ ه | ا | دَرَى | ا | أَدْرَكَ ه
 etw. in sich | - (enthalten) | اِسْتَمَلَ
 ا | تَضَمَّنَ ه | اِحْتَوَى ه | و عَلَى | عَلَى
 ه a | وَسِعَ ه | begriffen sein in der
 Arbeit 2c. | ا | كَانِ مُسْتَعْلَاً |
 begreiflich ه a. | سَهْلٌ المَأْخُذُ |
 مَفْهُومٌ.

begrenzen va. etw. ه | حَدَّدَ ه | Be-
 grenzung s. f. | تَحْدِيدٌ.

Begriff s. m. | مَعْنَى | sich einen -
 von etw. machen ه | تَصَوَّرَ ه | in
 - sein od. stehen zu thun اَوْشَكَ
 ا | مَعْنَوِيٌّ | ا | كَادَ يَفْعَلُ | اَنْ
 -sbestimmung s. f. | تَعْرِيفٌ |
 -sverwirrung s. f. | اِحْتِلَاطٌ | تَحْدِيدٌ
 الأفكار.

begründen va. etw. ه | اَسَّسَ ه |
 etw. - auf ه إِلَى | اَسْنَدَ ه | ا |
 ا | مَوْسِسٌ | ا | عَلَى | Begründer s. m.
 Begründung s. f. | تَأْسِيسٌ.

begrüßen va. in. ه | سَلَّمَ عَلَيْهِ |

بِالسَّلَام | Begrüßung s. f. سَلَام |
 تَحَايَا u. تَحِيَّات pl. تَحِيَّة | تَسْلِيم
 begucken va. jn. u. etw. تَفَرَّجَ عَلَى
 begünstigen va. jn. أَفْضَلَ عَلَيْهِ |
 سَاعَدَ هـ
 begutachten va. etw. أَعْطَى الرَّأْيَ فِي
 أَفْتَى فِي
 begütert a. مَتَمَمَّوْل | مُكْتَبِر | ذُو ثَرْوَةٍ
 begütigen va. jn. طَيَّبَ خَاطِرَهُ |
 أَسَكَّنَ غَضَبَهُ
 behaart a. أَزْبَّ | شَعْرَاءَ f. أَشْعَرَ
 شَعِرًا | زَبَاءَ f. | sich behaaren a
 زَبَّ ا
 behaben v. sich u سَلَكَ | Behaben
 سُلُوكَ s. n.
 behäbig a. ذُو رَفَاهِيَّة | -heit s. f.
 رَفَاهِيَّة
 behacken a. etw. قَلَّبَ هـ بِالْمِجْرَفَةِ |
 حَفَرَ i حَوْلَهُ
 behaftet a. mit Krankheit ز. مَصَاب |
 مُبْتَلَى بِالْمَرَضِ النِّح
 behagen vn. jn. هـ | أَرْضَى هـ | أَعْجَبَ هـ
 Behagen s. n. سُرُور | انْبِسَاط
 عَلَى كَيْفِهِ - nach | كَيْفَ * | فَرِحَ
 | سُرِّبَ | انْبَسَطَ مِنْ - finden an
 مُرَضٍ a. behaglich | فَرِحَ a ب
 Behag. | رَعْدَ | مَقْبُولَ | طَيَّبَ

lichkeit s. f. رَفَاهِيَّة | رَاحَةَ
 كَيْفَ * | رَغَادَةَ
 behalten va. etw. هـ | أَمْسَكَ هـ
 (Worte) - | حَفِظَ هـ عِنْدَهُ | عِنْدَهُ
 | دَكَرَ u هـ | حَفِظَ a هـ فِي الذِّهْنِ
 etw. im Auge - | رَاقَبَ هـ -
 recht - | حَقَّ هـ | die Oberhand -
 | فَاقَ u هـ | er kam nichts bei
 sich - bld. لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكْتُمَ السِّرَّ
 سالم - wohl
 Behälter s. m., Behältnis s. n.
 pl. وِعَاءَ | أَوَانٍ u. آنِيَّة pl. إِنَاءَ
 pl. حَوْضَ (Wasser-) - | أَوْعِيَّة
 u. أَحْوَاضَ حِيَاضَ
 behandeln va. jn. هـ | عَامَلَ هـ | u سَلَكَ
 عَالَجَ - einen Kranken | مَعَهُ
 eine Sache - | دَاوَى هـ | الْمَرِيضَ
 Behand- | بَحَثَ a عَنْ | دَبَّرَ هـ
 lung s. f. مُعَامَلَةٌ | مُعَالَجَةٌ |
 تَدْبِيرٌ | مُدَاوَاةٌ
 behändigen va. jn. etw. هـ | آدَى هـ إِلَيْهِ
 قَبَضَ هـ - jm. Geld | سَلَّمَ هـ إِلَيْهِ
 | تَأْدِيَّة s. f. | الْمُحَال | Behändigung
 تَسْلِيمَ
 behandschuht a. لَا بَسَ الكُفُوفَ
 Behang s. m., Behänge s. n. شَيْءٌ
 | آذَانَ كَلْبِ الصَّيْدِ | مُعَلَّقٌ

- behangen va., behängen va. die behängen va. in **أَوَى** i s **إِلَى** |
 Wand mit **عَلَّقَ** ه في الحائط | **أَسْكَنَ** ه في | **أَضَافَ** ه في | **أَوَى** ه **إِلَى**.
زَبَّنَ الحائط ب.
- beharren vn. bei od. auf **اسْتَمَرَّ** عَلَى |
 beharrlich a. **مُسْتَمِرٌّ** عَلَى | ثابت
 Beharrlichkeit s. f. **ثَبَاتٌ**.
- behanen va. etw. ه **نَحَّتْ** u ه | **قَطَعَ** a ه
 behaupten va. etw. ه **أَثَبْتُ** |
 seinen **قال** u ب | **إِدَّعَى** ب
 Platz -, sich auf seinem Platz -
حَفِظَ a **مَنْصِبَهُ** | Behauptung
 s. f. **زَعْمَةٌ** | قول | **إِدِّعَاءٌ** |
حِفْظٌ | **زَعَمَاتٌ**.
- Behausung s. f. **دِيَارٌ** u **دُورٌ** pl. دار |
مَسْكِنٌ pl. **بُيُوتٌ** | **كَيْتٌ** pl.
مَنَازِلٌ pl. **مَنْزِلٌ** | **مَسَاكِينٌ**.
- Behelf s. m. **حُجَّةٌ** | **اِكْتِفَاءٌ** pl.
اِكْتَفَى ب | behelfen v. sich mit **حُجَجٌ**
سَكَّ في *.
- behelligen va. in. mit **زَعَجَ** a s ب |
نَقَلَ عَلَيْهِ ب | **أَمَلَّ** ه ب
 Behelligung s. f. **ثِقْلَةٌ** | **زَعَجٌ**.
- behelmt a. **لاِبِسَ** الخوذة.
- behend a. **سَرِيعٌ** | **خَفِيفٌ** * | sein
 u **سَرَعٌ** | **نَشِطٌ** a | **ثِقَلَةٌ** s. f.
خِفَّةٌ * | **سُرْعَةٌ**.
- beherbergen va. in. in **أَوَى** i s **إِلَى** |
أَسْكَنَ ه في | **أَضَافَ** ه في | **أَوَى** ه **إِلَى**.
 beherrschen va. in. u. etw. u **سَادَ**
مَلَكَ i على | eine Wissen-
اِقْتَدَرَ في العِلْمِ - | eine
أَطَّلَ عَلَى | **أَشْرَفَ** عَلَى - | Gegend
اِقْتِدَارٌ | **مُلْكٌ** s. f. Beherrschung.
- beherzigen va. etw. **عَنِى** ب.
 beherzt a. **شُجَاعَانٌ** pl. **شُجَاعٌ**.
 behergen va. in. s **اِسْكَرَ** | **فَتَنَ** i s.
 behilflich a. sein jm. zu **سَاعَدَ** ه في
أَنَالَ ه ه.
- behindern va. in. an od. in **مَنَعَ**
عَنِ a.
- behorchen va. in. **أَنْصَتَ** إِلَيْهِ |
 Behörde s. f. **الْمَأْمُورُونَ** | **الحُكُومَةُ** |
أَصْحَابُ الأَمْرِ والنَهْيِ.
- Behuf s. m., zum -e von od. gen.,
لِأَجْلِ praep. c. gen. behufs.
- behüten va. in. vor **وَقَى** i s **مِنَ** |
صَانَ u ه | **حَفِظَ** a ه **مِنَ** |
كَلَّا | behüte! **مَعَاذَ الله** | behüte!
مُحْتَرِسٌ | Behutsam-
اِحْتِرَاسٌ s. f. feit.
- bei praep. c. dat. **لَدُنْ** | **عِنْدَ** |
لَدَى - | **بِالقُرْبِ** **مِنَ** | **مَعَ** | **لَدَى**
وَوَ z. B. bei Gott

va. jm. etw. | نَسَبَ u هِ إِلَيْهِ
jm. Glauben -- | صَدَّقَ هِ
va. f. beimengen.

Beil s. n. قَدَائِمُ pl. قَدُومٌ u. قَدُومٌ
u. بَلُطَةٌ * | فُؤُوسٌ pl. قَاسٌ | قُدَمٌ u.

Bei-lage s. f. | إِضَافَةٌ | زِيَادَةٌ |
شِكْلٌ لَحْمٌ (zum Gemüse) --

-lager s. n. | مُضَافٌ إِلَى الخُضَارِ
| أَعْرَاسٌ pl. عُرْسٌ عِنْدَ المُلُوكِ

das -- halten | أَعْرَسَ --

-läufer s. m. | صِبْيَانٌ pl. صَبِيٍّ سَاعٍ

-läufig adv. | عَرَضًا | -legen va.

jm. etw. | أَضَافَ هِ إِلَى

jm. etw. -- | أَحَقَّ هِ بِ | إِلَى

| نَسَبَ u هِ إِلَيْهِ (zuschreiben)

jm. einen Namen -- | سَمَى هِ

eine Sache, einen Streit -- | أَصْلَحَ

أَسْرَعَ -- vn. | الأَمْرُ أَوْ الخِصَامُ

(Schiff) naut. -- | فِي المَسِيرِ

-legung | بَطَّأَ عَلَى المَرْكَبِ بِالقُلُوعِ

s. f. | إِضَافَةٌ | إِصْلَاحٌ | -leibe adv.

-- nicht! | لا مُطْلَقًا | -leid

s. n. | تَعَزِيَةٌ | jm. sein -- be-

zeugen | عَزَى هِ | -liegen vn. u. كان

-liegend adv. | كان لَقَا | فِي طَيْبِهِ

-mengen va. etw. | لَقَا | طَيْبُهُ

einer Sache dat. | هِ بِ | خَلَطَ

-messen | مَزَجَ u هِ بِ | خَلَطَ هِ

va. jm. etw. | نَسَبَ u هِ إِلَيْهِ

jm. Glauben -- | صَدَّقَ هِ

va. f. beimengen.

Bein s. n. des Menschen سَاقٌ pl.

| أَرْجُلٌ pl. رِجْلٌ | سَيْقَانٌ u. سَوْقٌ

| قَوَائِمٌ pl. قَائِمَةٌ - des Tieres

| رِجْلٌ - Hinter- | يَدٌ - Vorder-

- eines Stuhles | رِجْلٌ - (Knochen)

| أَعْظَمُ u. عِظَامٌ pl. عَظْمٌ

-en | وَقِفَ | jm. ein -

stellen | شَفَعَزَبَ هِ | Stein u. -

schwören | كَتَرَ الحَلِيفَ | es geht

ihm durch Mark u. - | يُوَثِّرُ فِيهِ -

مُفَرِّطًا.

bei-nahe adv. | تَقْرِيْبًا | es wäre --

لَقَبٌ s. m. | كَلَا | a يَكُونُ

pl. كُنَى pl. كُنْيَةٌ | أَلْقَابٌ pl.

pl. أَنْبَازٌ pl. نَبَزٌ (Schimpfname) --

Bein-bruch s. m. | انْكِسَارُ الرِّجْلِ

| سِرَاوِيلٌ pl. سِرْوَالٌ s. n. -leid

* | شِرْوَالٌ * | بَنَطْلُونٌ *

bei-ordnen va. jm. jm. | فِي | أَشْرَكَ هِ

| مُعَاوِنٌ | مُسَاعِدٌ s. m. | Beigeordnetes

| نَوَابٌ pl. نَائِبٌ -pflichten vn.

| وافق هِ رَأْيًا أَوْ ظَنًّا | jm. -rat

| مُسْتَشَارٌ s. m. | -rechnen va. jm.

etw. | أَضَافَ هِ إِلَيْهِ فِي الحِسَابِ

beirren va. jn. حَيَّرَ s.

Beirut n. pr. بَيْرُوت.

bei-sammen adv. مَعًا | جَمِيعًا |

ساكن s. m. ساكنة | سَوِيَّةَ* | جُمْلَةً

بلدة لَيْسَتْ لَهُ حُقُوقُ الْأَهَالِي

شَيْءٍ مُضَافٍ | إِضَافَةٌ s. m. -|

أَدَّى حِصَّتَهُ zu | -|

schlaf -| | دَفَعَ a ه | فِي أَوْ مِنْ

den -- | جَمَاعٍ | مُجَامَعَةٌ s. m.

جامع vollziehen mit einer Frau

متسّر s. m. متسّر | امرأة

سراري pl. سرارية s. f. -|

أضَافَ ه إِلَى | -|

أَلْحَقَ ه ب | ضَمَّ u ه إِلَى

schmack f. Beigeschmack | -|

جَانِبًا | -| حُضُور s. n.

عَلَى خَلْوَةٍ | خَلْوَةٌ | عَلَى جَانِبِ

(bei sich) -- | عَلَى أَنْفِرَادٍ | مُنْفَرِدًا

إِخْتَلَى | -| -| فِي نَفْسِهِ

أَبْقَى ه | -| -| أَنْفَرَدَ

إِخْتَلَى | -| -| إِذْخَرَ ه

إِنْفَرَدَ بِهِ | -| مَعَهُ

أَضَافَ | -| -| أَهْمَلَ ه

-- | جِن. | أَلْحَقَ ه ب | ه إِلَى

إِضَافَةٌ s. f. -| -| دَفَنَ i ه

سِيفِ s. m. (bei Gericht zc.) | دَفَنَ

مَلَازِمٍ عِنْدَ الْمَحَاكِمِ وَغَيْرِهَا | -|

s. n. مِثَالٍ | pl. أمثال | مِثْلٍ

war- | قُدْوَةٌ (Vorbild) -- | أمثلة

zum -- | عِبْرَةٌ pl. -- | -|

ك | مِثْلًا (3. B.) | -|

نَحْوِ | نَحْوِ | -| -|

an -- | ein | -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

an | -| -| -|

Bei-trag s. m. حِصَّةٌ فِي عَمَلٍ |

-tragen | مَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِي عَمَلٍ

va. etw. zu | أَتَى حِصَّتَهُ فِي أَوْ مِنْ

-treiben | اِسْتَرْكَ فِي | دَفَعَ a هـ

va. Steuern zu. | جَبَا u, i الخراج

-treibung s. f. | قَبَضَ i الإِثَاوَة

-treten vn. einer Meinung | قَبَضَ

dat. | وافق الرَّأْيِ einem Ver-

trag -- | رَضِيَ a بِهِ | قَبِلَ a العَقْدَ --

einem Verein -- | دَخَلَ u الجُمُعِيَّةَ --

| رَضِيَ s. m. | قَبِلَ فِيهَا

| عَجَلَة ثَانِيَة s. m. | قَبُولَ -wagen

| شَيْءٍ تَابِعٍ | مُلْحَقٍ s. n. -wurf

-wohnen vn. einer Sache dat. |

|| حَضَرَ u هـ أَوْ بَ | -- einer Frau

عَاشَ i مَعَا (الرَّجُلُ | جَامِعَ امْرَأَةً

-wohnung s. f. | (مَعَ الامْرَأَةِ

-wort | نِكَاحٍ | جِمَاعٍ | مُجَامَعَة

نَعْتٍ | صِفَاتٍ pl. صِفَة s. n. gr.

pl. | نُعُوتٍ -zählen va. in. einer

Anzahl | نَسَبَ هـ إِلَى | عَدَّ u هـ يَبِينُ

Beize s. f. (Vogel-) صَيْدُ البَاشِقِ |

(Beizmittel) | سَائِرُ الطُّيُورِ -

شَيْءٍ أَكَّالٍ | شَيْءٍ كَاوٍ | شَيْءٍ مُحْرِقٍ

beizeiten adv. | بَاكِرًا.

beizen va. etw. | هـ | كَوَى i هـ

| (ضِدَّ النَّفْيِ) | أَوْجَبَ s. etw. va.

jm. etw. - | أَجَابَ s | bejahend

a. | اِجَابِيٌّ | Bejahung s. f. | اِجَابَ s. f.

bejaht a. | طَاعِنٍ فِي السِّنِّ | مُسِنِّ |

- | عَمَرَ i, a. | كَبِيرِ العُمُرِ

bejammern va. etw. | تَأَسَّفَ عَلَى |

- | حَزَنَ a عَلَى | بَكَى i عَلَى

a., - | مُحْزِنٍ | مُبْكٍ |

يُرْتَى لَهُ.

bejauhen va., bejubeln va. etw.

| زَجَلَ a عَلَى.

bekämpfen va. in. s. | قَاتَلَ s |

BARZAH | قَاتَلَ s | قَاوَمَ الشَّرَّ - ein Übel

bekannt a. | مَعْرُوفٍ | مَعْلُومٍ (be-

rühmt) | شَهِيْرٍ | مَشْهُورٍ - werden

تَعَارَفَ | - sein mit jm. | اِسْتَشْهَرَ

| - sein mit etw. | عَاشَرَ | مَعَهُ

in. - | عَرَفَ i هـ | - machen mit

etw. - | عَرَفَ هـ | أَشْهَرَ هـ

-e s. m. | اَعْلَنَ هـ | أَحَدَ المَعَارِفِ

pl. | مَعَارِفٍ -ermäßen adv. | كَمَا

pl. | مَعَارِفٍ -heit s. f. | يُعْرِفُ

| كَمَا لَا يَخْفَى | اِسْتِشْهَرَ | شُهْرَة | جَهْرٌ

adv. f. | اِسْتِشْهَرَ | شُهْرَة | جَهْرٌ

adv. f. | اِسْتِشْهَرَ | شُهْرَة | جَهْرٌ

s. f. | اِسْتِشْهَرَ | شُهْرَة | جَهْرٌ

adv. f. | اِسْتِشْهَرَ | شُهْرَة | جَهْرٌ

adv. f. | اِسْتِشْهَرَ | شُهْرَة | جَهْرٌ

أَحَدَ (ein Bekannter) -- | عَاشَرَ ه
المَعَارِفِ.

befehren va. jm. هَدَى i ه إِلَى الإِيمَانِ
رَجَعَ ه إِلَى | رَجَعَ ه | الصَّحِيحِ
أَهْتَدَى - | حُسْنِ الآدَابِ
إِلَى الإِيمَانِ الصَّحِيحِ أَوْ إِلَى حُسْنِ
Befehrerung | تَاب u | الآدَابِ
s. f. | اهْتِدَاءِ.

أَقْرَبَ | اعْتَرَفَ ب. |
| Bekenner s. m.
شَهِيد (Märtyrer) - | الْمُعْتَرِفِ
Bekennnis s. n. | شَهِدَاءِ pl.
- | إِقْرَارِ | اعْتِرَافِ
أَقْرَبَ.

بَعَلَّغَ va. etw. نَأَسَفَ عَلَى |
| حَزِنَ a عَلَى | بَكَى i عَلَى
| شَكَا u ه إِلَى |
| اشْتَكَى عِنْدَهُ عَلَى |
-s. | المُدَّعَى عَلَيْهِ |
مُحْزِنِ | مُبِكِ a.

بَعَلَّغَ va. Schauspieler اسْتَحْسَنَ
المُشَخِّصِ بالتَّصْفِيحِ.

befleben va. die Wand mit Papier
أَلْصَقَ الوَرَقَ عَلَى الحَائِطِ بِالغِرَاءِ.

beflecken va. etw. وَسَخَ ه بَبَقَعَ.

befleiden va. jm. mit ه | أَلْبَسَ ه
| زَيْنَ ه ب | etw. - | كَسَا u ه ب

ein Amt - | تَوَطَّفَ * |
- | لَبَسَ a ه |
- mit

beflecken va. jm. das Herz حَصَرَ
| ضَاقَ قَلْبُهُ | u, i |
Beflecken s. f. des Herzens
| ضَيقَ القَلْبِ |
- | ضَيقَ الصَّدْرِ |
Beflecken a. | ضَيقَ القَلْبِ |
Befleckenheit s. f. |
Beflecken.

beflecken va. (erhalten) etw. أَخَذَ
وَصَلَ i | بَلَغَ u ه | الشَّيْءُ u ه
- | وَرَدَ i | إِلَيْهِ الشَّيْءُ
| حَصَلَ u عَلَى المُكَافَاةِ
| تَوَطَّفَ * | نَالَ a ه
- | أَبْصَرَ ه |
bekam einen Mann | تَزَوَّجْتُ
| هَنِئَ a - |
| أَثَرَ فِيهِ طَيِّبًا | نَفَعَ a بِهِ
| العَافِيَةَ |
| وَجَّهَ u |
| هَنِئًا |
| مُوَافِقِ الصِّحَّةِ.

beflecken va. jm. | أَعْطَى ه |
Beflecken | قَات u ه |
s. f. | قَوْتِ |
| أَطْعَمَ ه |
| أَطْعَمَ |

beflecken va. etw. | أَكَّدَ ه |
Beflecken s. f. | تَأَكَّدَ |

befrängen va. etw. زَبَّنَ هـ بِالْإِكْمِيلِ

befreuzen, befreuzigen v. sich u رَسَمَ

| عَمِلَ a هـ | إِشَارَةَ الصَّلِيبِ
صَلَّبَ *

befriegen va. jn. حَارَبَ هـ

befritteln va. etw. ذَمَّ هـ | اِنْتَقَدَ هـ

لام u هـ

befrißeln va. etw. خَرَّبَنِي هـ *

befröhen va. etw. mit تَوَجَّهَ هـ بِ

كَلَّ هـ بِ

befümmern va. jn. حَزَنَ هـ | عَمَّ هـ u هـ

أَحْزَنَ هـ | sich - um (befümmert

sein) أَسِيفَ | حَزِنَ a عَلَى أَوْ لِ

(Teil nehmen) عَمَّ | sich - um

(an) اِهْتَمَّ بِ | شَغَلَ a بِالْهـ بِ

Befümmernis s. f. غُمُومٌ pl. غَمٌّ

befunden va. etw. (zeigen) أَظْهَرَ هـ

| قَالَ هـ u هـ | أَفَادَ هـ (ausfagen) -

Befundung s. f. إِفَادَةٌ | إِظْهَارٌ

belächeln va. etw. تَبَسَّمَ بِ

belachen va. etw. ضَحِكَ a عَلَى

beladen va. jn. حَمَلَ هـ | حَمَلٌ هـ

شَكَنَ u - Schiff | ثَقَّلَ هـ عَلَيْهِ

المَرْكَبِ بِ

Belagerer s. m. مُحَاصِرٌ | belagern

va. Stadt حَاصَرَ الْمَدِينَةَ | bld.

jn. - ثَقَّلَ عَلَيْهِ | أَحَاطَ بِهِ -

Belagerung s. f. مُحَاصِرَةٌ | حِصَارٌ

die - aufheben عَدَلَ i عَنِ الْحِصَارِ

Belagerungszustand s. m. كَوْنٌ

الْبَدَدِ تَحْتَ الْحُكْمِ الْعَسْكَرِيِّ

Belang s. m. أَهْمِيَّةٌ | -en va. jn.

إِخْتَصَرَ | خَصَّ u بِهِ (anbelangen)

| حَاكَمَ هـ شَرْعًا - jn. gerichtlich | بِهِ

طَالَبَ هـ شَرْعًا | رَافَعَ هـ

belassen va. etw. أَبْقَى هـ

belasten va. jn. حَمَلَ هـ | حَمَلٌ هـ

jn. - mit (comm.) قَيَّدَ هـ عَلَيْهِ

belästigen va. jn. أَزْجَعَ هـ | نَقَلَ

ثِقْلًا | Belästigung s. f. ثِقْلَةٌ

belauben sich v. i أَوْرَقَ | وَرَقَ

belaubt a. مَوْرَقٌ | وَارِقٌ

belauern va. jn. رَصَدَ هـ | رَصَدٌ هـ u هـ

راقب هـ

Belauf s. m. مَبْلَغٌ | مِقْدَارٌ -en

va. (begatten, Tiere) عَشَّرَ

| sich - auf (بَعْضَ الْحَيَوَانَاتِ)

بَلَّغَ u مَبْلَغَ كَذَا (betragen)

belauschen va. jn. أَنْصَتَ هـ

beleben va. etw. جَدَّدَ هـ | أَحْيَا هـ

Belebung s. f. إِحْيَاءٌ | نَجْدِيدٌ

belecken va. etw. لِحَسَ هـ a هـ

Beleg s. m. حُجَّةٌ pl. حُجَجٌ | دَلِيلٌ

| أَسْنَادٌ pl. سَنَدٌ * | أَدَلَّةٌ pl.

- en va. etw. mit غَطَى ه ب | beleuchten va. etw. أَضَاءَ ه |
 (begatten, Tiere) عَشَرَ (بَعْضُ) | etw. näher - bdl. a فَحَصَ
 وَضَعَ a ه | in. - mit (الحيوانات) | Beleuchtung s. f. تَنْوِيرَ
 وَضَعَ a ه | in. mit Steuer - ا عَلَيْهِ | نور
 ا عَلَيْهِ | in. mit Strafe - ا عَلَيْهِ | belfern vn. نَبَحَ i, a
 (be- | etw. - (be- | عَيَّطَ على *
 weisen) | بَرَهَنَ ه ا و عَلَى ا و عن (be- | Belgien n. pr. بَلْجِيَا.
 -en a. | أثبت ه | belieben va. etw. (wünschen) أَرَادَ ه |
 واقع في | كاتن في محلل كذا | | im. (ge-
 belehnen va. in. mit لَه ه | أَقَطَعَ ه لَه | | fallen) | تَفَضَّلَ
 ولى ه ه | | Sie! | أَعْجَبَ ه
 belehren va. in. | علم ه | belehrend | was beliebt Ihnen? was belieben
 | تعلیم s. f. | Belehrung s. f. | مُفِيدَ | Sie? | ما ذا تُرِيدُ
 | إفادة | | nach -
 beleibt a. | جسيم | fein | | على الخاطر | beliebig
 | تسمن | -heit s. f. | | على الغرض | |
 | سمنة | | | |
 beleidigen va. in. | أهان ه | | | |
 | تعدى عليه | Beleidiger s. m. | | |
 | متعدي | Beleidigung s. f. | | |
 | شتيمه | إهانات pl. | إهانه
 | شتائم | | in. eine - zu-
 | أهان ه | | fügen ه
 beleihen va. etw. | رهنا ه | قبل ا ه |
 | عن مبلغ | | |
 belejen a. | من قرأ كثيراً من الكتب | |
 | مطالعة واسعة | -heit s. f. | | خبير

اسْعَى لِ - um | كَلَّفَ * | عَلَيْهِ

(an-) | sich - | اجْتَهَدَ فِي | جَدَّ

(Um-) | sich - | تَعِبَ | (Um-

stände machen) | كَلَّفَ نَفْسَهُ *

Bemühung s. f. | مَسْعَى | تَعِبَ

(Umstände) | - | جَهْدَ | مَسَاعٍ pl.

تَكْلِيفٍ.

bemüht, sich - sehen, sich - finden

رَأَى a نَفْسَهُ مُضْطَرًّا

benachbart a. | مُجَاوِرَ | einer Sache

dat. - sein | جَاوَرَ ه | einander -

sein | تَجَاوَرَ.

benachrichtigen va. jn. von | أَخْبَرَ بِ

Benachrichtigung s. f. | أَفَادَ ه

إِخْبَارٍ.

benachteiligen va. jn. | ضَرَّ ه u

أَسَاءَ إِلَيْهِ.

benagen va. etw. | قَرَضَ i ه.

benamen va. jn. u. etw. | سَمَّى ه و ه.

benebeln va. etw. | صَبَّرَ ه مُغَيِّمًا

benebelt | عَمَّى ه - jn.

نَشْوَانَ | سَكْرَانَ.

benedeien va. jn. | بَارَكَ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ

صَلَّى عَلَيْهِ.

benehmen va. jn. etw. | حَرَمَ ه i ه

sich - | مَنَعَ ه عن | أَعَدَمَ ه ه

benommen | مُصَابَ بِدُورٍ | سَدَكَ ه u

Benahmen | داخ | - | sein u

s. n. | سَلُوكٍ.

beneiden va. jn. um | حَسَدَ ه i, u

einander - | تَحَاسَدَ | أَوْ عَلَى

benennen va. jn. mit einem Namen

Benennung s. f. | سَمَّى ه بِأَسْمٍ

تَسْمِيَةٍ.

benetzen va. etw. mit | رَشَّ ه u

أَسْقَى ه ب | سَقَى i ه ب

Bengel (Stoß) s. m. | دَبُوسٍ pl.

كِبَابِيَّتٍ pl. | نَبَّوت * | دَبَابِيْسِي

pl. | شَابَّ غَيْرَ أَدِيبٍ (Person) -

غَيْرَ أَدِيبٍ a. | شَبَّانَ -haft

benommen a. | مُصَابَ بِدُورٍ

Benommenheit | -heit | داخ | -

seiner | دَوَّارٍ * | دَوَّارٍ s. f.

benötigen va. etw. | اِحْتَجَّ إِلَى

استغنى عن - | عاز ه u

benutzen, benützen va. etw. | اِنْتَفَعَ بِ

Benutzung, Be- | اِسْتَعْمَلَ ه

nützung s. f. | اِسْتِنْفَاعَ بِ

Benzoë s. f. | عَسَلَ اللَّبْنِيِّ.

beobachten va. jn. u. etw. | رَاقَبَ ه و ه

Pflicht u | رَصَدَ ه u ه و ه

Regel | حَفِظَ ا الْقَاعِدَةَ - | بالواجب

Beobachter s. m. | رَاعَى هَا

Beob. | رُصَادٍ pl. | مُرَاقِبٍ

berechtigen va. jn. zu أَجَازَ هُ لَهُ |
 فَوَّضَ هُ إِلَيْهِ | أَذِنَ ا لَهُ فِي
 Berechtigung s. f. إِذْنٌ | إِجَازَةٌ .
 bereden va. etw. فِي | تَقَاوَلَ فِي
 etw. mit jn. - فِي | قَاوَلَ هُ
 حَمَلَ هُ | jn. zu etw. - هُ فِي
 beredsam a. أَقْنَعُ هُ بِ * | عَلَى
 Beredsamkeit s. f. بَلَاغَةٌ | بَلِيغٌ
 beredt a. بَلِيغٌ | - | بَلُغٌ u
 beregnen va. etw. بِالمَطَرِ .
 Bereich s. m., s. n. إِحَاطَةٌ | دَائِرَةٌ
 bereichern va. jn. هُ | أَعْنَى -
 إِغْنَى | Bereicherung s. f. إِغْنَى
 bereifen va. etw. بِالصَّقِيْعِ .
 أَوْ بِالجَلِيدِ .
 bereinigen va. eine Sache فِي | وَفَى
 أَدَّى الحِسَابَ - | بِالأَمْرِ
 bereisen va. فِي | الجَالِ u فِي | البِلَادِ
 طَافَ هُ فِيهَا | سَاحَ فِيهَا
 bereit a. zu حَاضِرٍ | مُسْتَعِدِّ
 - | sein, stehen تَجَهَّزَ | etw. - | stellen
 - | sich - | مَعَدَّ هُ | جَهَّزَ هُ
 -en va. etw. تَجَهَّزَ | إِسْتَعَدَّ
 إِسْتَعَدَّ - | sich | جَهَّزَ هُ | أَعَدَّ هُ
 | رَكَّبَ الدَّوَاءَ - | تَجَهَّزَ
 - | etw. | طَبَعَ u الطَّعَامَ
 | - | اَرْضِ u الفَرَسِ - | زَارَ هُ رَاكِبًا

-er s. m. رَائِضُ الفَرَسِ | مُجَهَّزٌ
 قَبْلًا | سَابِقًا | قَدْ -s | النَحْ
 | تَجَهُّيزٌ s. f. | - | الآنَ (jetzt) -
 in - - | sein, stehen تَجَهَّزَ | etw. in
 - - | setzen هُ | جَهَّزَ هُ
 -ung s. f. تَجَهُّيزٌ | - (von Arzneien)
 | - (von Speisen) | تَرْكِيْبُ الأَدْوِيَّةِ
 | حَاضِرٍ | willig a. zu | طَبَعَ الطَّعَامِ
 | willigkeit s. f. | مُسْتَعِدِّ | مُجَهَّزٍ
 | هِمَّةٌ | إِسْتِعْدَادٌ s. f.

berennen va. Stadt عَلَى | هَجَمَ
 مَدِينَةَ .

bereuen va. fehler نَدِمَ ا عَلَى | الذُّنُوبِ
 تَنَدَّمَ عَلَيْهَا .

Berg s. m. جَبَلٌ pl. جِبَالٌ | über
 alle -e | sein | ابْتَعَدَ -e | mit seiner
 Meinung hinter dem -e halten
 | أَخْفَى رَأْيَهُ | die Haare stehen
 ihm vor Entsetzen zu -e | أَقْشَعَرَ
 noch nicht über den - sein ا بَقِيَ
 -ab adv. | لَهُ كَثِيرٌ مِنَ الصُّعُوبَاتِ
 -akademie s. f. | نَازِلًا | هَابِطًا
 -amt s. n. | مَدْرَسَةُ المَعَارِنِ
 | طَالِعًا -an adv. | دَائِرَةُ المَعَارِنِ
 | شُغْلٌ فِي | -arbeit s. f. | صَاعِدًا
 | مُعَدِّنٌ s. m. | -arbeiter s. m. | المَعَارِنِ
 | -auf | فَعَلَةٌ pl. | فَاعِلٌ فِي المَعَارِنِ

- adv. طَالِعًا | صَاعِدًا | -bau s. m.
 مَوْظَف | -beamter s. m. تَعْدِين
 ساكن | -bewohner s. m. المَعَادِن
 pl. سَكَّان | جَبَلِيَّ * | pl. الجِبَال
 جَبَلِيَّون.
- bergen va. etw. (verbergen) ه | أَخْفَى ه
 - (erretten) ه | أَنْقَذ ه نَجَّى ه.
- Berg-geist s. m. جِنِّي الجِبَال |
 -gipfel s. m. قِمَّة الجِبَل pl. قِمَم
 -halde s. f. مُنْحَدَر الجِبَل | -icht,
 -ig a. كَثِير الجِبَال | -fette s. f.
 -knappe s. m. سِلْسِلَة الجِبَال
 -kry stall | فَعَلَة pl. فاعِل المَعَادِن
 s. m. بَلَّور | بَلَّور | -foppe, -fuppe
 s. f. قِمَّة الجِبَل pl. قِمَم | -lehne
 s. f. مُنْحَدَر الجِبَل | -mann s. m.
 فاعِل المَعَادِن | مُعَدِّن -leute pl.
 مَعَدِنِيَّ | -männisch a. فَعَلَة pl.
 -ordnung s. f. نِظَام المَعَادِن | -rat
 s. m. مُسْتَشَار المَعَادِن | -recht
 s. n. نِظَام المَعَادِن | -rücken s. m.
 قَصْر عَلَى | -schloß s. n. ظَهْر الجِبَل
 قِمَّة الجِبَل s. f. -spitze | جَبَلِيَّ
 pl. شَعْب جَبَلِيَّ | -volk s. n. قِمَم
 -werf s. n. مَعَادِن pl. مَعَدِّن.
- Bericht s. m. إِخْبَار | أَخْبَار pl. خَبَر
 | تَقْرِير | jn. - abstaten, | بَيَان
- erstatten von أَخْبَرَ ه | كَتَب
 | أَخْبَرَ ه | -en va. jn. etw. | البَيَان
 -erstatter s. m. مُخْبِر | مَكَاتِب
 | إِخْبَار s. f. -erstattung | الجَرِيدَة
 | -igen va. | خَبِير a. -et | مَكَاتِبَة
 | نَقَّح ه | أَصْلَح ه | صَحَّح ه
 | -Rechnung | أَدَّى الحِسَاب | -igung
 | تَنْقِيح | إِصْلَاح | تَضْحِيح s. f.
 | تَأْدِيَة الحِسَاب | - einer Rechnung
 beriechen va. etw. ه u, a شَمَّ ه
 | اسْتَشَمَّ ه | اسْتَشَمَّ ه
 beriefeln va. etw. ه u | رَشَّى ه | سَقَى ه
 | أَسَقَى ه.
- beritten a. رَاكِب.
- Berlin n. pr. بَرْلِين.
- Berustein s. m. كَهْرَبَاء * | كَهْرَمَان
 | قِم سِيجَارَة من | -spitze s. f.
 كَهْرَمَان *.
- bersten s. n. تَفَلَّق | تَفَدَّر vor
 | اسْتَلَقَى عَلَى القفا من - Sachen
 الضِّحْك.
- berüchtigt a., übel - مَفْضُوح.
- berücken va. jn. ه | غَرَّ ه | غَرَّ ه
 | اغْتَشَّ | اغْتَشَّ | - lassen | غَتَّرَّ ه
 sich - lassen | اغْتَرَّ ه | - lassen
- berücksichtigen va. jn. ه | رَاعَى ه
 | مُرَاعَاة s. f. -Berücksichtigung
- Beruf s. m. حِرْفَة | شَأْن pl. حِرَف
 | jn. - abstaten, | بَيَان

beschaffen va. etw. (besorgen) | دَبَّرَ ه

قام u ب

beschaffen a. | دُو صِفَات كَذَا | gut -

عَادِم - | schlecht | كَامِل الصِّفَات

حَال - | die Sache ist so | الصِّفَات

صِفَة | كَيْفِيَّة s. f. | -heit | الأَمْر كَذَا

| خَوَاصٍ pl. | خَاصَّة | صِفَات pl.

حَالَة | خَاصِيَّة

beschäftigen va. jn. s a | شَغَلَ

سِخ - | شَغَلَ البَال | den Geist

Beschäftigung | اِسْتَشَغَلَ ب | mit

اِسْتِغَال pl. | شُغْل | s. f. | اِسْتِغَال

شَغَلَ s a | - geben | jn.

beschälen va. (Hengst die Stute)

(Baum) | - | عَشَّر (الفَحْلُ الفَرَس)

فَحْل s. m. | Beshäler | قَشَّر ه

أَحْصِنَة pl. | حِصَان | فُحُول pl.

حُصْن u.

beschämen va. jn. s | أَحْجَلَ s | حَيَّرَ ه

حَيْجَلان | خَجَل | sein | a.

Beschämung | اِسْتَحَى | حَجَل a

حَجَل s. f.

beschauen va. jn. u. etw. | نَظَرَ u إِلَى

اِطَّلَعَ عَلَى | تَطَّلَعَ فِي | عَايَنَ ه و ه

اِتَّبَصَّرَ فِي (geistig) | - | تَفَرَّجَ عَلَى *

(beaufsichtigen) | - | تَأَمَّلَ فِي

Be. | كَشَفَ i ه | فَتَشَ ه و عن

schauen s. n. f. | Beshauung |

Beshauer s. m. | مُفْتَشٍ | ناظِر |

مُعْتَزِل | beschaulich a. | مُتَأَمِّل |

Beshaulichkeit s. f. | تَأَمُّل | اِغْتِزَال |

Beshauung s. f. | نَظَر | تَفْتِيْش |

تَأَمِّل | كَشَف.

Bescheid s. m. | أَحْكَام pl. | حُكْم

mit etw. - | جَوَاب (Antwort) -

wissen | عَرَفَ i ه | جَيِّدًا | jn. einen

- geben, erteilen | أَجَابَ s | jn.

- thun beim Trinken | أَحَابَ ه فِي

en va. | شَرِبَ النَّبِيذَ أَوْ البِيْرَةَ

قَدَّرَ ه عَلَيْهِ (الله) | jn. etw. (Gott)

أَمَرَ ه - | رَزَقَ ه | jn. an einen Ort

اِسْتَحْضَرَ ه إِلَى | بِالْحُضُورِ فِي مَحَلِّ

jn. - (antworten) | أَجَابَ s | jn.

abschlägig - | بِالْإِبَاءِ - | أَجَابَ ه

اِرْتَضَى ب | لَافِن - | سِخ -

مُتَوَاضِع (Person) | - | اِكْتَفَى ب |

مُعْتَدِل | مُتَوَسِّط (Sache) -

- | تَوَاضِع s. f. | تَوَاضِع s. f. -

تَوَسَّط | اِعْتَدَال.

bescheinen va. jn. s | أَضَاءَ ه | نَوَّرَ ه

حَقَّقَ ه | bescheinigen va. etw. | حَقَّقَ ه

den Empfang einer | بِالْإِمْضَاءِ

Summe - | أَقَرَّ بِقَبْضِ المَبْلَغِ -

Bescheinigung s. f. | شَهَادَة | تَذَكِرَة

beschwatzen va. jn. zu s i حَمَلَ
أَغْرَى s ب | بالكلام عَلَى

Beschwer s. f. أَتْعَاب pl. تَعَب

-de s. f. (Beschwerlichkeit)

pl. مَشَقَّة | أَتْعَاب pl. تَعَب

شَكْوَى (Klage) - | عَنَا | مَشَاقِق

gegen jn. - führen | شِكَايَة

en va. etw. عَلَى u | شَكَا s

jn. - mit | أَصْعَب ه | أَثْقَلَ ه

سِح | تَقَلَّ عَلَيْهِ ب | كَلَّف ه ب

lich | شَكَا u s إِلَى | - bei

lich | صَعَب | مُزِعَج | مُتْعِب a.

pl. تَعَب s. f. مَشَقَّة | أَتْعَاب

pl. مَشَاقِق | عَنَا | صُعُوبَة

pl. تَعَب s. f. أَتْعَاب

beschwichtigen va. jn. s طَيَّب | سَكَّن ه
خَاطِرُهُ

beschwindeln va. jn. um u ه أَخَذَ
مِنْهُ بِالْكَذِبِ

beschwingen va. etw. ه | أَسْرَعَ ه
إِسْتَعْجَلَ ه

beschwören va. jn. أَقْسَمَ عَلَيْهِ

عَزَمَ الْجِنَّ | اسْتَدْعَى الْجِنَّ - Geister

حَلَفَ i ب | - etw. | قَرَأَ a العَزَائِمَ

تَلَاقَى الشَّرَّ - ein Uebel | و عَلَى

Beschwörer | دَارَكَ الشَّرَّ | نَذَرَ a بِهِ

va. مَعَزَمَ | عَزَّام | Beschwörung s. f.
تَقْسِيم * | تَعَزِيم

beseelen va. jn. أَحْيَا ه | Beseelung
s. f. أَحْيَاء

besehen va. jn. u. etw. إِلَى u نَظَرَ

إِطَّلَعَ عَلَى | تَطَّلَعَ فِي | عَابَن ه و ه

تَفَرَّجَ عَلَى * | لَاحَظَ ه و ه | تَفَرَّسَ فِي

beseitigen etw. ه | رَفَعَ a ه | شَالَ u ب
أَزَالَ ه

befeligen va. jn. s | أَسْعَدَ ه

Besen s. m. مِكْنَسَة pl. مَكَائِس

عامل - binder s. m. مِفْشَة *

مِقْبَض s. m. -stiel | المَكَائِس

المِكْنَسَة

befessen a. مَجَانِين pl. مَجُونُون

besitzen | -heit s. f. مَسْكُون *

مَجُونُون

besezen va. den Tisch mit Speisen

- einen | وَضَعَ a الطَّعَامَ عَلَى السُّفْرَة

mit زَبْنِ البُرْنِيَّةِ ب

etw. mit Edelsteinen - رَضَعَ ه

إِسْتَوَى عَلَى - ein Land | بالجواهر

فَلَدَ ه | ein Amt - mit jn. | البلاد

شَغَلَ a (beschäftigen) - | الوظيفَة

Besetzung s. f. | وَضَعَ

تَقْلِيد | تَرْيِين

beseufzen va. etw. عَلَى | تَلَهَّفَ ه

befichtigen va. etw. ه | رَصَد u ه
 | فَتَّش ه و عَن | عَايَن ه | تَرَصَّد ه
 | كَشَف i ه | Befichtiger s. m.
 | تَفْتِيش | Befichtigung s. f. | مُقَتِّش
 | كَشَف | مُعَايَنَة .

befiedeln va. ein Land mit jm.
 | اِسْتَعْمَرَ ه فِي الْبِلَادِ .

befiegeln va. etw. ه و عَلَى | خَتَم i ه
 | اَنْتَبَت ه - | bld. | وَضَعَ a | الْخَتْمَ عَلَى
 | وَطَّد ه | مَكَّن ه | مَتَّن ه .

befiegen va. jn. ه و عَلَيْهِ | غَلَب i ه
 | قَهَرَ a - | سِخِ | اِنْتَصَرَ عَلَيْهِ
 | حَكَم u | نَفَسَهُ | نَفْسَهُ .

befingen va. jn. u. etw. ه و ه | مَدَح a ه و ه
 | غَنَى بِ .

befinnen, v. sich - (überlegen)
 | تَفَكَّرَ فِي | sich - auf | تَأَمَّلَ فِي
 | اِذْكُرْ ه | ذَكَرْ u ه | (sich erinnern)
 | خَطَرَ u | بِبَالِهِ الشَّيْءُ | sich eines
 | رَجَعَ i - | sich anders - , | andern -
 | اِهْتَدَى | besonnen | رَزِين | sich eines bessern -
 | رُشِد | بَصِيرَة | Besinnung s. f.
 | صَوَاب * | die - verlieren | هِدَايَة
 | غَاب i | عَنِ الصَّوَابِ | غُشِيَ عَلَيْهِ
 | اِسْتَفَاق | اَفَاق | zur - kommen

befinnungslos a. مَغْشَى عَلَيْهِ |
 | غَشِيَان s. f. | Besinnungslosigkeit s. f.
 | حِيَازَة | حَوْز | Besitz s. m. (Besitzen)
 | مُلْك (beseffene Sache) - | مُلْك
 | اَمْتَعَة pl. | مَتَاع | اَمْلَاك pl. im
 | مَلِك i ه | - einer Sache sein
 | etw. in - nehmen, von etw. -
 | ergreifen, sich in - setzen von
 | تَسَلَّمَ ه | تَمَلَّكَ عَلَى | حَاز u ه
 | تَمَلَّكَ ه | مَلِك i ه | -en va. etw.
 | حَظِيَ a | حَاز ه | (genießen) -
 | تَمَتَّع بِ | ب | besessen | فاز u ب
 | صَاحِب (الدار -er s. m. | مَجْنُون
 | اَرْبَاب pl. | رَبِّ | اَصْحَاب pl. | مثلاً)
 | -ergreifung s. f. | ذات f. | نُو
 | تَمَلَّكَ | تَسَلَّمَ | -nahme s. f. | -ung
 | اَمْلَاك pl. | مُلْك s. f.

befoffen a. vulg. سَكْرَان | -heit s. f.
 | سُر . vulg.

befohlen va. Stiefel جَدَّد نَعْل
 | الْجَزْمَة .

befolden va. jn. ه | رَتَّب لَهُ
 | جَرَايَة | Besoldung s. f.
 | رَاتِب pl. | مُرْتَّب | رَوَاتِب | أَجْرَة

besonder a. مَخْتَصَّ | مَخْصُوص | خَاصَّ
 | مُنْفَرِد (einzeln) - | خُصُوصِي
 | غَرِيب (seltsam) - | -heit s. f.

- adv. دائِمًا | على الدوام - feit s. f.
 إِسْتِمْرَار | ثَبَات | بَقَاء | دَوَام
 مُدَاوِمَةٌ.
- Bestandteil s. m. أَقْسَام pl. قِسْم
 bestärken va. jn. أَثْبَتَ | قَوَّى |
 تَقْوِيَةٌ s. f. Bestärkung | أَكَّدَ |
 bestätigen va. etw. أَثْبَتَ هـ |
 أَكَّدَ هـ | Bestätigung s. f. |
 تَصَدِيقٌ * | تَأْكِيدٌ.
- bestatten va. jn. دَفَنَ | i |
 Bestattung s. f. دَفْنٌ.
- bestaubt, bestäubt a. غَابِرٌ |
 مُغْبَرٌ - غَبِرَ u sein.
- bestaunen va. jn. u. etw. تَعَجَّبَ مِنْ
 beste a. الخَاطِر - der erste |
 الأَحْسَن | mein Bester! يا عَزِيزِي |
 das Beste خَيْر |
 das allgemeine Beste | الخَيْرِ
 zum -u geben | الجُودِ |
 zum -u haben | آدَبٌ |
 بِهٍ | إِسْتَهْلَزَ بِهِ.
- bestechen va. jn. رَشَا |
 بِرُطَلٍ | رَشَا u |
 إِرْتَشَى | تَبَرُّطَلٍ |
 lassen sich - |
 مُرْتَشِيٌّ | مُبَرُّطَلٌ |
 bestechlich a. |
 Bestechlichkeit s. f. |
 إِرْتِشَاءٌ | Be-
 stechung s. f. |
 بِرُطِيلٍ pl. |
 رِشْيٍ pl. |
 رِشْوَةٌ
- Besteck s. n. (zum Essen) أَدَاةٌ
- pl. غِلْف (Etui) - | السُّفْرَةَ
 pl. قُرْب | قِرَاب | يُيُوت pl. كَيْت
 جَهَّزَ هـ بِهٍ mit etw. va. -en
- bestehen va. Abenteuer a رَكِبَ
 | آتَى الامْتِحَانِ Prüfung - |
 الأَخْطَارِ |
 (dauern) u دام | بقى a -
 (vor) | كان u |
 (existieren) - |
 وَجِدَ (vor dem Richter) -
 تَطَهَّرَ | تَبَرَّأَ |
 aus - |
 تَأَلَّفَ مِنْ | تَرَكَبَ مِنْ
 auf etw. | صَمَّمَ عَلَى |
 إِسْتَمَرَّ عَلَى |
 auf seinem Kopfe - |
 أَصَرَ بِرَأْيِهِ |
 in - |
 كان كِنَايَةً عَنْ | كان u
 عِبَارَةً عَنْ
- bestehlen va. jn. سَرَقَ i مَالَهُ
- besteigen va. etw. طَلَعَ u عَلَى |
 den Thron - |
 صَعِدَ عَلَى |
 علا u هـ |
 - | جَلَسَ i عَلَى كُرْسِيِّ الْمَلِكِ
 Pferd, |
 رَكِبَ a الفَرَسِ أَوْ الْمَرْكَبِ
 Schiff
- bestellen va. feld الحَقْلُ a
 زَرَعَ |
 أَمَرَ u |
 أَوْصَى بِالْبَضَائِعِ
 Waren - |
 sein | سَلَّمَ الخِطَابَ
 Brief - |
 بِهَا |
 - | رَتَّبَ أُمُورَ بَيْتِهِ
 Haus - |
 Gruf - |
 بَلَغَ السَّلَامَ |
 jn. an einen Ort - |
 إِسْتَحْضَرَ |
 أَمَرَ u |
 بِالْحُضُورِ فِي |
 jn. zu einem Amte - |
 عَيَّنَ |
 | وَطَّفَ |
 * | قَلَّدَ |
 هـ |
 Bestellung s. f. |
 مَوَّقٍ |
 أَمِرٍ s. m. |
 طلب (von Waren) - |
 وَصِيَّةٌ

- ZEREA (des Ackers) - | البضائع
 TBILIG (des Gruges) - | الأَرْض
 im. eine - geben | السَّلَام
 أَوْصَى ه ب
 bestens adv. جِدًّا | جِدًّا
 غَايَةَ الْخَيْرِ
 WÄZC a RSMÄ ALIHE | jm.
 ضَرَبَ i هَا | رَسَمَ i عَلَيْهِ الْجَبَايَةَ
 أَقْطَع هَا عَلَيْهِ | عَلَيْهِ
 WACHSHI | BEHIMI a. bestialisch
 تَوَحَّشَ | BEHIMIYÄ s. f. Bestialität
 BEHÄIM pl. | BEHÄIMÄ s. f. Bestie
 إِنْسَانٌ مُتَوَحَّشٌ
 MÄQDÜR (Sache) a. | bestimmbar
 MÖTÜR FIEH (Mensch) - | التَّعْيِين
 EYIN H | bestimmen va. etw.
 QÄDR (الله) (Gott) - | حَدَّدَ ه
 EYIN H | خَصَّصَ ه لَهُ - jm. etw.
 حَدَّدَ ه | (einen Begriff) - | لَهُ
 WÄQT i ه | (Zeit) - | عَرَفَ ه
 MÜEYIN a. | bestimmt | وَقَّتَ ه
 BEHÄIM | BEHÄIMÄ | bestimt. | مُؤَكَّدَ | مُؤَكَّد
 VÄRÄCHÄ | THÄT | تَأْكِيد s. f. Bestimmtheit
 TÄHVIYÄ | TÄHVIYÄ s. f. Bestimmung
 (von Gott) - | تَحْدِيد | تَعْرِيف
 MÄQDÜR | TÄQDIR | أَقْدَار pl. | قَدَر
 أَحْكَام pl. | حُكْم - gesetzliche
- EÄB H | عَاقَبَ H | bestrafen va. jm.
 EÜQÜBÄ s. f. | Bestrafung | قَاصَّ ه
 JZÄÄ | ÄÄZBÄ pl. | عَذَاب
 ÄZÄÄ H | بِالْأَشْعَةِ. | bestrahlen va. etw.
 bestreben v., sich - zu, bestrebt sein
 IJÄTÄHD FIE | SÄYÄ a | zu
 Bestreben s. n., Bestrebung s. f.
 JÄHD | MÄSÄÄ pl. | مَسْعَى
 BÄSÄT va. etw. mit H u | bestreichen
 MÄÄ H | EÜÄ | etw. mit Öl,
 KÄHÄN H - fett
 HÄT u | EÜÄ | bestreifen va. etw.
 MÄHÄT | MÄHÄT | bestreift | HÄT H
 ÄÄTÄRÄZ FIE | bestreiten va. etw.
 KÄFÄ a | الْمَصَارِيف - Kosten | أَنكَرَ ه
 RÄSH u | bestreuen va. etw. mit Zucker
 SÄÄÄ | SÄÄÄ | etw. mit Sand -
 RÄMÄL H | den Weg mit Blumen -
 ZÄYIN ALÄRÄYÄQ BÄZÄHÄR
 FÄTÄN H | FÄTÄN i H | bestriechen va. jm.
 SÄBYÄ i H
 HÄJÄM u | EÜÄ | bestürmen va. Stadt
 ÄÄÄ - | jm. mit Bitten | الْمَدِينَةَ
 TÄÄL | EÜÄ | ثَقُلَ عَلَيْهِ
 MÄNÄHÄL | MÄHÄWÄSH | bestürzt a.
 TÄHÄYÄR | ÄNÄHÄSH | werden | حَيْرَان
 TÄHÄYÄR | ÄNÄHÄSH | Bestürzung s. f.

- Besuch s. m. زِبَارَةٌ | - (bei einem Kranken) عِيَادَةٌ | عَوْد (Besucher) زَوَّار u. زَوَّر u. زَائِرُون pl. زَائِر | jm. einen - (eines Ortes) تَرَدَّد | - machen, abstatten s u زار | -en va. jn. s u زار | - (Kranken) تَرَدَّدَ إِلَى | - einen Ort عاد s u | -er زَائِرُون pl. زَائِر | مُتَرَدِّد (eines Ortes) | زَوَّار
- besudeln va. etw. mit هِبِ وَسَخ | دَسَّس هِبِ
- betagt a. كَبِيرِ الْعُمُرِ | مُسِنِّ
- betasten va. etw. هَمَسَّ | لَمَسَ u هَمَسَّ | Betasten s. n., Betastung s. f. لَمَسٌ
- betäuben va. jn. سَبَّبَ | دَوَّخَ * | داخ u * | betäubt sein | لَهُ دُوَارًا | دَوَّخَةٌ * | دُوَارٌ
- Betbruder s. m. مُفْرِطٌ فِي التَّعَبُّدِ | مُنَافِقٌ | مُرَاوُونَ pl. مُرَاءٍ
- beteiligen va. jn. an | أَشْرَكَ * فِي | سَاهَمَ * فِي - an Gewinn | سِجِّحٌ - an, beteiligt sein | بَدَلٌ | دَخَلَ u فِي | إِشْتَرَكَ فِي | Beteiligungs s. f. انْهَتَمَ بِ | إِشْتَرَكَ فِي
- Betel s. n. bot. تَنْبُلٌ | تَانِبُولٌ | قَات
- beten vn. صَلَّى | - für ل u دعا | Beten s. n. صَلَاةٌ (صَلْوَةٌ) pl. أَدْعِيَةٌ | دُعَاءٌ pl. صَلَوَاتٌ
- betuern va. etw. أَثْبَتَ هِ | أَكَدَ هِ | Betueerung s. f. أَقَرَّ بِهِ جَهَارًا | تَأَكِيدُ
- Bethanien n. pr. الْعَلَارِيَّةُ
- bethätigen va. etw. بَرَهَنَ هِ بِالْعَمَلِ | أَظْهَرَ هِ بِالْعَمَلِ
- Bethlehem n. pr. بَيْتُ لَحْمٍ
- bethören va. jn. s u | غَرَّ s | عَشَّسَ u | sich - lassen | فَتَّنَ s | فَتَّنَ s | إِغْتَشَّسَ | إِغْتَرَّ
- Bethseda n. pr. بَيْتُ صَيْدَاءَ
- bethulich a. بَشُوشٌ | -feit s. f. بَشَاشَةٌ
- betiteln va. etw. هَمَسَّ هِ | عَنَوَنَ هِ | سَمَّى هِ بِ | لَقَّبَ s | - | تَلَقَّبَ بِ
- betölpeln va. jn. s u | غَرَّ s | إِغْتَرَّ | سِجِّحٌ - lassen عَلَيْهِ
- betonen va. etw. جَعَلَ a النِّبْرَةَ فِي | نَبْرَةٌ
- Betonung s. f. نَبْرَةٌ
- Betracht s. m. in - c. gen. نَظْرًا | etw. in - ziehen | إِكْرَامًا | إِلَى

اِعْتَبَرَ هـ | اِحْتَسَبَ هـ | احْسَبَ اِ هـ
 اُعْتَبِرَ | in - kommen | راعى هـ
 -en va. jn. | سئِلَ عَنْهُ | ذِكْر
 u. etw. | عَايَنَ هـ و هـ | نَظَرَ u اِلَى
 | لَاحِظًا و هـ | اِطَّلَعَ عَلَى | تَطَّلَعَ فِي
 - etw. | تَفَرَّجَ عَلَى * | تَفَرَّسَ فِي
 | تَأَمَّلَ فِي | تَبَصَّرَ فِي (geistig)
 | ظَنَّ u هـ كَذَا - als jn.
 اَجْزَبِلَ | عَظِيمٍ | مُهِمٍّ | beträchtlich a.
 -heit s. f. أَهْمِيَّةً.
 اِطَّلَاعٍ | مُعَايِنَةٌ | Betrachtung s. f.
 | تَأَمَّلَ فِي (geistig) | على
 مِقْدَارٍ | مَبْلَغٍ (Geld) | Betrag s. m.
 -en va. eine Geldsumme u بَلَّغَ
 -en | سَلَكَ - u | سِجِّ | مَبْلَغَ كَذَا
 | آدَابٍ | سُلُوكٍ s. n.
 اَمْرًا u هـ ب | mit va. jn. betrauen
 | وَصَّى هـ عَلَى
 حَزَنًا a عَلَيْهِ | betrauern va. jn.
 | رَشَّ اِ | المَاءِ عَلَى | بَلَّلَ u هـ بِمَاءٍ
 | قَطَّرَ المَاءِ عَلَى
 بِخُصُوصٍ | in - c. gen. Betreff s. m.
 -en va. jn. (Krankheit) | بِشَأْنٍ
 | اَصَابَ هـ | اِعْتَرَى هـ (مَرَضٌ)
 | فَاجَأَ هـ فِي السَّرْقَةِ - bei Diebstahl
 | حَصَّ u هـ | (anlangen) - jn.

بِخُصُوصٍ | was betrifft | اِحْتَصَّ بِهِ
 betroffen | أَمَّا ... ف | مِنْ جِهَةِ
 مُتَّحِيِرٍ.
 اِجْتَهَدَ فِي | betreiben va. etw.
 | سَعَى a | - Handel zc. نَعَاطَى
 التِّجَارَةَ.
 اِدْخَلَ u هـ أَوْ فِي | betreten va. etw.
 | طَرَقَ u هـ (Weg) | betreten a.
 مُتَّحِيِرٍ über.
 تَعَاطٍ | -sam a. Betrieb s. m.
 -samkeit s. f. صِنَاعَةً.
 سَكِرَ | betrunken v. sich a.
 سَكْرَانٍ.
 مُتَّحِيِرٍ | . betreffen. | betroffen a.
 تَحْيِيِرٍ -heit s. f.
 اَحْزَنَ هـ u غَمٍّ | betrüben va. jn.
 | صَعِبَ u عَلَيْهِ | اَغَمَّ هـ
 | اِعْتَمَّ | حَزِنَ | betrübt a
 | مَغْمُومٍ | حَزِينٍ | betrübt sein f.
 | sich betrüben | Betrübniß s. f.
 | اَحْزَانٍ pl. | حَزْنٍ | حُزْنٍ
 | غَمٍّ pl. | غُمُومٍ pl.
 مَكْرًا | خَدِيْعَةً | خِدَاعٍ | Betrug s. m.
 | غَشَّ u هـ | خَدَعَ | betrügen va. jn.
 | اِعْتَشَّ - lassen | غَرَّ u هـ
 | اِعْتَرَّ | اِنْخَدَعَ | Betrüger s. m.
 | مَكَّارًا | خِدَاعٍ | غَشَّاشٍ | Betrügerei

s. f. f. Betrug | betrügerisch a.,
 betrüglich a. خَدَاع | غَشَّاش | غَاشَّ.
 betrunken a. سَكْرَان f. سَكْرَى |
 - sein a سَكِر | in. - machen
 اَسْكِر s. f. betrinken | -heit s. f.
 نَشْوَةٌ | سُكْر.
 Bettschwester s. f. مُفْرِطَةٌ فِي التَّعَبِّدِ |
 مُنَافِقَةٌ.
 Bett s. n. فِرَاش pl. فُرُش | (Bett-
 gestell) سُرُر u. أُسْرَةٌ pl. سَرِير
 - eines flusses مَجْرَى نَهْرٍ pl.
 مَجَارٍ | أَوْدِيَةٌ pl. وَادٍ | مَجَارٍ
 - machen اَرْتَبِ الْفِرَاشِ | zu - liegen,
 das - hüten اَلزَّمِ الْفِرَاشِ | sich
 zu - e legen, zu - e gehen اَنَامَ |
 u اَنَامَ s. f. bringen zu - e | رَقَدَ u
 اَرَقَدَ s.
 Betttag s. m. يَوْمُ الصَّلَاةِ.
 Bettdecke s. f. دِثَار pl. دُثْر * |
 لِحَاف * pl. لُحْف.
 Bettel s. m. سُؤَالِ الصَّدَقَةِ |
 رُدَالَةٌ | حُنَالَةٌ (armselige Sache) -
 -arm a. فَقِيرٌ جِدًّا | -brief s. m.
 -ei s. f. اِخْتَابِ طَلَبِ صَدَقَةٍ
 اِصْعُلُوِيَّ a. -haft a. شِحَادَةٌ * | تَسْوَلُ
 رَاهِبٍ | -mönch s. m. مِسْكِينٍ
 -n | رُهْبَانٍ pl. سَائِلِ الصَّدَقَةِ

vn. تَسْوَلُ | اَطْلَبُ u الصَّدَقَةَ |
 a طَلَّبَ ه | um etw. - شَحَذَ |
 جَمَاعَةٌ s. m. -orden s. m. تَطَلَّبَ ه
 | مِنَ الرَّهْبَانِ السَّائِلِينَ الصَّدَقَةَ
 -paß s. n. الصَّعَالِيكَ |
 -stab s. m. عَصَا الصُّعْلُوكِ | an
 den - - kommen اِفْتَقَرَ.
 betten va. in. اَعْطَى ه الْفِرَاشِ |
 - sich اَرْتَبِ فِرَاشَهُ | جَهَّزَ فِرَاشَهُ
 نَجَّهَّزَ الْفِرَاشِ.
 Bett-genosß s. m., -genosßin s. f.
 تَحْتِ | زَوْجَةٌ | زوج
 pl. تَحْوَت | -himmel s. m. قُبَّة
 | -lade s. f. -gestell | السَّرِيرِ
 -lägerig a. اَطْرَبِ الْفِرَاشِ |
 اَلزَّمِ ا الْفِرَاشِ - - - |
 -lafen s. n. اَشْرَاشِفِ pl. شَرُشَف * |
 äg. مِلَايَةٌ *
 Bettler s. m. سَائِلُونَ pl. سَائِلِ
 u. صُعْلُوكِ | مُتَسَوِّلٍ | سُؤَلِ
 شَحَادَةٌ * | صَعَالِيكَ.
 Bett-pisser s. m. شَحَّاحٌ فِي الْفِرَاشِ |
 -schirm s. m. حَوَاجِزِ pl. حَوَاجِزِ
 -stelle s. f. حُجْبِ pl. حِجَابِ
 -tuch s. n. f. تَحْوَتِ pl. تَحْتِ
 Bettlafen | -ung s. f. طَبَقَةٌ
 اَسَاسِ.

beugen va. etw. **ثَنَى** | **حَنَى** | **ه** | **ه**
 das Knie - **ا** **رَكَعَ** | **ه** **عَطَفَ**
 bld. jn. - **أَخْضَعَ** | **س** | **سِ** | **سِ**
تَذَلَّلَ | **لَهُ** | **سِ** | **سِ** | **سِ**
ثَنَى | **ه** | **ه** | **ه**
بَقْبُوقَةٌ | **بَقْبُوقَةٌ** * | **وَرَمَ**
شَغَلَ | **ا** **فَكَّرَهُ** | **سِ** | **سِ**
اضْطَرَبَ | **بِأَلِهِ** | **سِ** | **سِ**
ضَاقَ | **إِ** **صَدْرُهُ** | **ا** **قَلِقَ** | **ا** **فَكَّرَهُ**
قَلِقَ | **إِنْزِعَاجَ**
بَلَابِلَ | **بَلَابِلَةُ** | **بِالِ** | **اضْطِرَابَ**
أَقْرَبَ | **بِهِ** | **تَحْرِيرًا**
أَذِنَ | **أَلَهُ** | **بِالذَّهَابِ**
اسْتَأْذَنَ | **بِالذَّهَابِ** | **سِ** | **سِ**
وَدَّعَ | **س**
حَكَمَ | **فِي** | **سِ**
إِنْتَقَدَ | **ه** * | **إِنْتِقَادَ** | **سِ**
فَرِيَسَةً | **غَنَائِمَ** | **سِ** | **سِ**
غَنِمَ | **ا** | **سِ** | **سِ**
طَمَعَ | **فِي** | **الغَنِيمَةِ** | **سِ** | **سِ**
طَمَاعَ | **فِي** | **الغَنِيمَةِ** | **سِ** | **سِ**
أَكْبِيَّاسَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
صُرَّرَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
كَيْسَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
غُرْبَالَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
مَنَاخِلَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**

den - ziehen **ا** **دَفَعَ** | **ن** | **ن**
 (Mehl) **ه** | **ه** | **ه**
 -[schneider **س** | **مُحْتَالَ**
طَمَاعَ | **فِي** | **الغَنِيمَةِ** | **ا**
غَزَاةَ | **غَزَوَاتَ** | **سِ** | **سِ**
عَامِلَ | **الْأَكْبِيَّاسَ** | **سِ**
عَمَرَ | **الْبِلَادَ** | **سِ** | **سِ**
تَكَثَّرَ | **عُمَرَ** | **أَهْلَ** | **سِ** | **سِ**
عَامِرَ | **أَهْلَ** | **سِ** | **سِ**
أَهْلَ | **الْبَدَدَ** | **سِ** | **سِ**
سُكَّانَ | **الْبَدَدَ**
رَخَّصَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
فَوَّضَ | **سِ** | **إِلَى** | **سِ** | **سِ**
مُرَخَّصَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
مُرَخَّصَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
تَرْخِيصَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
قَبَلَ | **مَا** | **قَبَلَ** | **أَنْ** | **سِ**
تَدَاخَلَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
تَدَاخَلَ | **فِي** | **أُمُورِهِ** | **سِ** | **سِ**
أَعْطَى | **سِ** | **أَمْتِيَّازًا** | **سِ** | **سِ**
سِ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
أَشْرَفَ | **عَلَى** | **الشَّيْءِ** | **سِ** | **سِ**
قَرِيبَ | **الْحُدُوثِ** | **سِ** | **سِ**
تَفْضِيلَ
حَرَسَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
حَرَسَةَ | **سِ** | **سِ** | **سِ**
حِفْظَ

bewachsen vn. etw. نَبَتَ عَلَى |

bewachsen a. مُعْشِبٌ.

bewaffnen va. jn. mit سَلَّحَ هـ أَوْ بِ |

تَسَلَّحَ - sich | قَلَّدَ هـ بِالسِّلَاحِ

sich mit Geduld -

تَقَلَّدَ بِالسِّلَاحِ | Bewaffnung s. f.

تَسَلَّحَ | تَسْلِيحٌ.

bewahren va. jn. vor حَفِظَ هـ مِنْ |

حَامَى | حَمَى هـ | وَقَى هـ مِنْ

Gott bewahre! | صَانَ هـ | عَنْهُ

Be- | كَلَّا | bewahre! | مَعَاذَ اللّٰهِ

wahrung s. f. حِفْظٌ.

bewähren va. etw. أَحَقَّقَ هـ | أَثْبَتَ هـ |

تَحَقَّقَ - sich | جَرَّبَ هـ | صَحَّحَ هـ

bewährt | صَحَّحَ هـ | i | نَأَكَّدَ

Bewährung s. f. | مُثَبِّتٌ | إثباتٌ

تَحْقِيقٌ.

bewahrheiten va. etw. أَحَقَّقَ هـ |

تَحَقَّقَ - sich.

Bewährtheit s. f. تَجَرُّبٌ.

bewalden va. (Gegend) غَطَّى هـ

بِالغَابَةِ.

bewältigen va. jn. u. etw. قَهَرَ هـ وَ هـ |

أَسْتَوَى عَلَى | أَخْضَعَ هـ وَ هـ

bewandert a. خَبِيرٌ.

bewandt a., so - sein الأَمْرُ كَذَا

| كَيْفِيَّةٌ | -nis s. f. |

حَالَةٌ.

bewässern va. etw. سَقَى هـ | رَشَّ هـ وَ هـ |

Bewässerung s. f. سِقَايَةٌ |

Bewässerungskanal s. m. سَاقِيَةٌ |

Bewässerungsrade pl. ثُرَعٌ |

س. n. نَاعُورَةٌ.

bewegen va. etw. هَزَّ هـ وَ هـ | حَرَّكَ هـ |

أَدَارَ هـ (Maschine) - | هَزَزَ هـ

إِهْتَزَّ | تَحَرَّكَ - sich | مَشَى هـ

jn. - bld. هَيَّجَ هـ | فَتَنَ هـ |

jn. - | شَفَّقَ هـ (von Mitleid) -

zu | حَمَلَ هـ | عَلَى هـ | bewegt werden

Beweg- | إِضْطَرَبَ | هَاجَ هـ | تَحَرَّكَ

grund s. m. | بَاعَثَ pl. | بَوَاعِثُ

| نَوَاعٍ pl. | دَاعٍ | عِلَلٌ pl. | عِلَّةٌ

beweglich a. | أسبابٌ pl. | سَبَبٌ

Beweg- | قَابِلِ التَّحْرِيكِ | مُتَحَرِّكٌ

lichkeit s. f. | سُرْعَةٌ | إِمْكَانِ تَحْرِيكِهِ

Bewegtheit s. f., Be- | الحَرَكَةُ

wegung s. f. | حَرَكَاتٌ pl. | حَرَكَةٌ

إِضْطِرَابٌ | هَيَّجَانٌ bld. | تَحَرَّكَ

etw. in - setzen | حَرَّكَ هـ.

bewehren va. jn. سَلَّحَ هـ.

beweiben v. sich تَزَوَّجَ.

beweiden va. رَعَى هـ فِي لَانْدٍ.

عَجِبَ | Bewunderung s. f. | عَجِيبٌ |
تَعَجَّبَ.

bewußt a. (gewußt) مَعْرُوفٌ |
ذاكِرٌ | عَارِفٌ (wissend) - | مَعْرُودٌ |
ich bin mir einer Sache -, mir
ist die Sache - | أَنَا عَارِفٌ بِشَيْءٍ -
seiner selbst nicht - sein غَشِيٌّ
-los | غَابَ i عَنِ الصَّوَابِ | عَلَيْهِ
a. - - werden | مَغْشِيٌّ عَلَيْهِ
| غَابَ i عَنِ الصَّوَابِ | غَشِيٌّ عَلَيْهِ
-losigkeit s. f. | غَشِيَانٌ | -sein s. n.
غَشِيٌّ | das - - verlieren | تَيْقِظُ
| أَفَاقٌ - - kommen | عَلَيْهِ
| اِسْتَفَاقَ.

Bey s. m. (türk.) pl. يَبِيكَاتٌ |
bezahlen va. jm. etw. | دَفَعَ a هِ إِلَيْهِ
| - Schuld | قَبَضَ هِ | أَدَى هِ إِلَيْهِ
| der | أَوْفَى بِهِ | وَفَى i بِالذَّيْنِ
| Natur die Schuld - u | مَاتَ |
die Sache - | دَفَعَ a الْمَصَارِيفَ |
| sich bezahlt machen | حَقَّهُ | اِسْتَوْفَى
| in. in gleicher Münze - | عَامِلٌ هِ |
| er soll es mir - | بِمُعَامَلَتِهِ
| Bezahlung s. f. | سَأَلْتُقِمَ مِنْهُ
| دَفَعَ | تَأْدِيَةٌ.

bezhähnen va. Tier | اِرَاضُ u الْحَيَوَانَ
| قَمَعَ a | رَوْضٌ هِ

قَهَرَ a نَفْسَهُ أَوْ - | أَمِيَالَهُ
| حَكَمَ u نَفْسَهُ | أَمِيَالَهُ.

bezaubern va. jm. | سَكَّرَ a هِ أَوْ عَلَيْهِ
| bdl. | هِ i فَتَّنَ | هِ | فَتَّنَ
| سِحْرٌ | Bezauberung s. f. | قَلْبَهُ

bezechen va. jm. | سَكَّرَ هِ | سِكرٌ -
| سَكَّرَانَ | سِكرٌ a

bezeichnen va. etw. | رَسَمَ a عَلَى
| دَلَّ u عَلَى | أَشَارَ إِلَى | أَعْلَمَ هِ
| عَلَّمَ هِ | عَرَّفَ هِ بِ | - mit
| بَيَانٌ | عِلَامَةٌ s. f. | بَيَانٌ
| وَسْمٌ | اِسْمٌ | تَسْمِيَةٌ

bezeigen va. jm. etw. | أَرَى هِ هِ
| بَيَّنَّ هِ | أَظْهَرَ هِ

bezeugen va. etw. | شَهِدَ a بِ
| أَظْهَرَ هِ (bezeigen) - etw.

bezihtigen va. jm. | أَتَّهَمَ هِ بِ
| شَكْوَى | اِتِّهَامٌ s. f. | اِتِّهَامٌ

beziehen va. Waren | اِسْتَجْلَبَ
| اِحْتَلَّ u, i بِ | اِلْبَضَائِعِ | - Wohnung
| قَبَضَ i | - Gehalt | نَزَلَ i فِي
| اِعْطَى هِ بِ | - mit | اِلْمَاهِيَّةِ
| نَسَبَ هِ | - auf | جَعَلَهُ هِ بِ
| سِخْرٌ | - (Himmel) | هِ i, u | سِخْرٌ
| نَاسَبَ هِ | - auf | تَغَيَّمَ | غَامٌ i
| تَعَلَّقَ بِ | beziehend a. -es für
| اِسْمٌ مَوْصُولٌ | beziehentlich

- Biene s. f. نَحْلَة - coll. eine | نَحْل coll. eine -
 -nfleiß s. m. اجْتِهَاد كاجْتِهَاد |
 -nfönigin s. f. مَلِيك | النَحْل
 | يعاسيب pl. يعسوب | النحل
 -nforb s. m. كُوَارَة pl. كواثر |
 -nchwarm s. m. خَشْرَم pl. خشارمة.
- Bier s. n. بِيْرَة * | -brauer s. m.
 | عامل البيرة | -brauerei s. f.
 | -bruder | معامِل pl. معمَل البيرة
 s. m. شراب البيرة | -verleger
 s. m. بياع البيرة.
- Biest s. n. بَهِيْمَة pl. بهائم |
 | انسان وحشى.
- bieten va. jm. etw. ه | ناول ه
 | jm. | عرض i ه له | قدم ه له
 | die Hand - | مدد u اليه يده -
 | jm. guten Morgen - | صباح ه بالخير -
 | jm. die Spitze -, jm. Troß -
 | (bei Ver- | عاند ه | عارض ه
 | steigerung) | ذفع ا | زايد (بالمزاد)
 | Bieter s. m. مزايِد.
- Bigamie s. f. زَوَاج بامْرَأَتَيْن.
- bigott a. مُنَافِق | مُفْرِط في التّعبد
 | -erie s. f. اِفْرَاط في التّعبد
 | مُنَافِقَة.
- Bilanz s. f. مُوَازَنَة | اِتْعَدِيل الحِساب |
- die - ziehen عَدَل | عَدَل الحِساب
 | يَبْنِي ما لَهُ وَيَبْنِي ما عَلَيْهِ.
- Bild s. n. صُورَة pl. صُور |
 | رُسُوم pl. رَسْم | تصاوير pl.
 | - (Ähnlichkeit) | مثل pl.
 | - (Vorstellung) | أمثال
 | - (Metapher) | استعارة |
 | -en va. etw. ه | صور ه
 | (Bild- | ركب ه | (Wort zc.)
 | werf) | وضع a ه | صنع a ه
 | jm. - (erziehen) | هدب ه |
 | | تأدب | تركب | تصور - sich
 | ورقة | -erbogen s. m. تهدب
 | كتاب | -erbuch s. n. تصاوير
 | رواق | -ergallerie s. f. تصاوير
 | -fläche s. f., auf der - -
 | erscheinen u | -gießer s. m.
 | -gießerei s. f. | سبائك التماثيل
 | -hauer s. m. | مسابك pl. مسبك
 | -hauerei | نقار | نحات | نقاش
 | s. f., Bildhauerkunst s. f. نقاشة
 | مجازي | -lich a. نقارة | نحاتة
 | نقاش s. m. -ner | استعاري
 | صورة s. n. -nis | مبد | مشكل
 | سهل الثنى | -sam a. صور pl.
 | سهل التأديب | كين الأخلاق | سهل التأديب
 | تماثيل pl. تمثال s. f. -säule

- {schneider s. m. نَقَّاشُ الخَشَبِ | binnelt vn. نُقِّىَ u الجَرَسِ بِنَوَاتِرٍ.
- {schön a. جَمِيلٌ جِدًّا | -ung s. f. Bimsstein s. m. حَجَرٌ اسْفَنْجِيٌّ |
- | تَأْدِيبٌ | تَرْجِيبٌ | تَشْكِيلٌ | كَدَانٌ.
- اَعْمَلُ النَّقَّاشِ -werk s. n. | تَهْدِيبٌ | Binde s. f. عَصَبَةٌ pl. عَصَبَاتٌ |
- تَمَثَالٌ. | شَمْلَةٌ* | لَفَائِفٌ pl. لِفَافَةٌ |
- Billard s. n. لَعِبُ بَكْرَاتٍ | بِلْيَارٌ* | eine - vor den Augen |
- | مَحَلُّ اللَّعِبِ بَكْرَاتٍ عَاجٍ | رَابِطَةٌ s. n. | تَعَمَّى haben |
- | كُرَاتٍ pl. كُرَّةٌ عَاجٍ | -fugel s. f. | -mittel s. n. | رِبَاطٌ pl. | وِثَاقٌ |
- | -stock s. m. | طَابَاتٌ pl. طَابَةٌ* | -n va. etw. | رَبَطَ u ه |
- | قَضِيبٌ تُضْرَبُ بِهِ كُرَاتٍ عَاجٍ | عَقَدَ i ه | شَدَّ u ه |
- | قُضْبَانٌ. | - Buch | جَدَّدَ الكِتَابَ | jm. die |
- Billet s. n. (fl. Brief) رُقْعَةٌ pl. | HÄNDE - bld. | مَنَعَ a ه |
- | رِقَاعٌ | بَطَائِقٌ pl. | بَطَاقَةٌ | رِقَاعٌ | in. - zu etw. | ه |
- | تَذَاكِرٌ pl. تَذْكِرَةٌ (Eintrittskarte) | | jm. durch einen Eid - |
- | وَرَقَةٌ دُخُولٌ. | gebundene Schreibweise | حَلَفَ ه |
- billig a. (wohlfeil) رَخِيسٌ | - ver- | خَطَّ العَطْفِ s. m. gr. | نَظْمٌ |
- | هَاوِدٌ* | رَخَصَ فِي البَيْعِ | faufen | حَرْفُ العَطْفِ s. n. gr. | -wort s. n. |
- | صَوَابِيٌّ | مُوَافِقُ العَدْلِ (gerecht) | - | دُبَارَةٌ* | خَيْطٌ قُتْبٌ |
- | -en | هُوَ حَقٌّ | هُوَ عَدْلٌ - es ist | خَيْطٌ مَصِيصٌ.
- | va. etw. ه | اسْتَصَابَ ه | اسْتَحْسَنَ ه | binnen praep. | فِي أَثْنَاءِ - |
- | -feit s. f. | رَضِيَ بِ | اسْتَصَوَّبَ ه | Jahr u. |
- | مُهَآوَدَةٌ* | رُخَصَ (Wohlfeilheit) | | Tag | فِي مُدَّةِ سَنَةٍ |
- | عَدَالَةٌ | عَدْلٌ (Gerechtigkeit) | - | تجارة | تِجَارَةٌ |
- | اسْتِحْسَانٌ s. f. | -ung s. f. | | land s. n. | | داخلية |
- | رِضَاءٌ | اسْتِصَوَابٌ. | | -meer s. n., -see s. m. | | بحيرة |
- Billion s. f. | بِلْيُونٌ* | | ألف ألف ألف | | | |
- Bilsenfraut s. n. bot. | سَيْكِرَانٌ | | بِنُجٌ | | Binse s. f. | خِيَارٌ pl. | خِيَارٌ |

- ndecke s. f., -nmatte s. f. حَصِيرَةٌ
pl. حَصَائِرُ.
- Biograph s. m. | مترجم -ie s. f. | سيرة | تراجم pl. | ترجمة الحال
pl. | سيرة. | مختص بالترجمة a. | -ifch | سيرة pl.
- Birke s. f. bot. سندر.
- Birkhahn s. m., Birkhubn s. n.
pl. دراريج.
- Birnbaum s. m. شجرة الاجاص أو
kmmrny | Birne s. f. | الكمنرى
coll. | انجاص * | coll. | اجاص
| كمنراة | اجاصة | كمنراة.
- Birfch s. f. poet. صيد | -en vn. poet.
i اصطاد | صاد.
- bis praep. | حتى | الى | الحدا | حتى | (in
sammensetzungen التركيبات |
- an, - auf, - in, - nach, - über,
- zu | - conjct., - daß حتى |
الى أن.
- Bisam s. m. مسك | nach - riechen
فأر s. f. | تطيب بالمسك
pl. | فئران.
- Bischof s. m. kath. أسقف pl.
| مطارنة pl. | مطران | أساقفة
bischoflich a. | أسقفى | Bischofshut
s. m., Bischofsmütze s. f. برطل
- Bischofsstab
s. m. عصا أسقف.
- bisher adv. | لحد الآن | -ig a. الكائن
| لحد الآن.
- Bisfuit s. n. | غريبة * | بسكويت *.
- bislang adv. | لحد الآن.
- Biß s. m. | عَض | عَض | - (des
Pferdes) كدشة.
- bißchen s. n. ein - | قليل | شئىء
| هنيئة | شوية * | شوى *.
- Bissen s. m. | لقم pl. | لقمه
| die | لقمه | لقمه
guten - lieben الأطعممة.
- bisfig a. | عض | عض | عض | عض
| طاعن في الغير | مؤذ | اللسان
-feit s. f. | ميل إلى العَض
| إلى الطعن بالقول على الغير.
- Bistum s. n. أسقفية.
- bisweilen adv. | أحياناً | قد | مراراً | أحياناً.
- Bitte s. f. | طلب | التماس | سؤال
| تفضل | bitte! | ترح | أسئلة pl.
| bitten va. | من فضلك | um
| سأل ه | طلب u ه منه
| in. | ترحى ه * | التماس ه منه
| um Verzeihung - | استغفر ه
| in. - (einladen) zum
Essen 2c. | دعا u ه | إلى الأكل
| شفع a له - | für in. | عزم i ه ل *

تَأَخَّرَ فِي قَضَاءِ - lassen sich
المَطْلُوبِ.

bitter a. مَرٌّ | - sein oder werden
u مَرٌّ | etw. - machen مَرَّرَ ه
| صَعْبٌ | مؤلِمٌ (Schmerz) - | أَمْرٌ ه
- böſe a. | مؤذٍ | مُهَيِّنٌ (Wort) -
بارِدٌ a. | فَالْتٌ - | غَضْبَانٌ لِلْغَايَةِ
مرارات pl. | مَرَارَةٌ s. f. | فَالْتٌ - | لِلْغَايَةِ
- | مَرٌّ قَلِيلًا a. | لِيحٌ - | مَرَاثِرٌ u.
| بَكَى i | بُكَاءٌ مَرًّا | weinen
ماء s. n. | مِلْحٌ مَرٌّ s. n. -
مَعْدِنِيٌّ مَرٌّ.

تَطَاوُفٌ | دَوْرَانٌ s. m. Bittgang
| زِيَّاحَاتٌ pl. | زِيَّاحٌ | أَحْتِفَالِيٌّ
- | gesuch s. n., - | schreiben s. n.,
- | عَرْضُ الْحَالِ | عَرْضُضْحَالٌ s. f. -
مُسْتَدْعٍ s. m. | اسْتِدْعَاءٌ - |

مَبِيَّتٌ s. n. Bivouac, Bivak
| نام a في | بات i | bivakieren vn.
الحلأ.

غَرِيبٌ | مُخَالِفٌ الْعَادَةِ a. bizarr

السَّهْلُ مِنَ الْبِلَادِ s. n. Blachfeld

سَبَّبٌ med. | نَفَخٌ u ه | blähen va.

Blähung s. f. med. | رِيَّاحًا غَلِيظَةً

رِيَّاحٌ pl. رِيحٌ.

سَوَّدَ بِالسِّنَجِ vn. blasen

تَسْوِيدُ الْوَجْهِ s. f. Blamage

blamieren va. | سَوَّدَ وَجْهَهُ |
sich - تَسَوَّدَ وَجْهَهُ.

fein | لَامِعٌ (مِنَ الْمَعْدِنِ) a. blank
a لَمَعٌ.

نُفَّاحَةٌ | فُقَاقِيْعٌ pl. f. Blase

مِبْوَلَةٌ (-Harn-) | بُتُورٌ pl. | بُثْرٌ

مَنَافِيْعٌ pl. | مَنَفَاحٌ s. m. -balg

نَفَخَ u | أَكْبَارٌ pl. | -n vn.

هَبَّ | (لِلْإِنْسَانِ وَالرِّيْحِ) - Glas

سَكَلُ الرُّجَاجِ بِالنَّفَخِ - Trompete

مِيتِجْم. | بَوَّقَ | نَفَرَ u | فِي الْبَوِّقِ

مِيتِجْم. | اتَّفَقَ مَعَهُ - ein Horn

اَنْغْرِيسٌ s. n., -nstein | ضَحِكَ a عَلَيْهِ

اَنْزِيْحَةٌ s. m. | حَصَاةٌ فِي الْمِبْوَلَةِ -

حَرَاقٌ a.

مِبْوِقٌ s. m. Bläser

اَنْبُوبٌ يُطَيَّرُ بِهَا s. m. Blaserohr

بَلَسِيْحٌ | الْوَلَدُ مِسْمَارًا ذَا رِيْشٍ

بَلَسِيْغٌ a. | دُو فُقَاقِيْعٌ | Blas-

اَلَّةٌ مُوسِيْقِيَّةٌ s. n. instrument

تُشغَلُ بِالنَّفَخِ.

قَذْفٌ | تَجْدِيْفٌ s. f. Blasphemie

صَفْرَاءٌ f. | أَصْفَرُ الْوَجْهِ a. blaß

اِصْفَارًا | اِصْفَرَّ - | مُصْفَرٌّ

ضَعِيْفٌ (mattfarbig) - | تَكَدَّرَ

اِصْفِرَارُ الْوَجْهِ s. f. Blässe | الْكُوْنُ

اِغْرَرٌ pl. | غُرَّةٌ (-des Pferdes) -

فرس (-) (Pferd od. Kuh mit -) -
أو بقرة ذات غرة.

Blatt s. n. (des Baumes) ورق
| ورقة - ein | أوراق pl. الشجرة
- (Papier) ورق | قرطاس pl.
u. صحف pl. صحيفة | قراطيس
pl. جريدة (Zeitung) - | صحائف
(od. Blättchen Gold
od. Silber) من الذهب
| صفائح pl. أو الفضة
| تغير الحال | fein
- vor den Mund nehmen
تكلم بالجسارة.

Blätter s. f. يثر pl. بثور
| جذري pl. Blättern
| دمايل
u. جذر u. جذر - haben
die -

blättern vn. in einem Buch
تصفح | اطلع على الكتاب
| الكتاب

Blätter-narbe s. f. اثر الجدرى
| ذو آثار الجدرى - narbig a.
| لقم الجدرى s. f. -nimpfung
| تطعيم الجدرى

Blätterteig s. m. تصفيح العجين

Blattgold s. n. ذهب في صفائح

Blattlaus s. f. حشرة صغيرة
| مضرة تتعلق بورق الشجر

blau a. زرق pl. زرقاء f. أزرق

- sein od. werden a. ازرق | ازرق
| كذب | -en Dunst vormachen
| انكف | -en Montag machen
| تكاسل | عن العمل يوم الاثنين
Blau s. n., Bläue s. f. زرق
| زرقة | das Blaue vom Himmel
| كثر الكذب | -holz
s. n. | بقم | -jade s. f. بحري
pl. بحرية u. بحريون.

bläulich a. مائل إلى الزرقة.

Blau-säure s. f. حامض مركب من
| اذروجين وأزوت وكربون وهو سم
f. أشهل - | قاتل
-strumpf s. m. | شهل pl. شهلاء
| امرأة عالمة (كلمة مستعملة
| استهزاء)

Blech s. n. لوح رفيع حديد أو غيره
| صفائح pl. صفيحة | من المعدين
-arbeiter | شىء باطل bld. - | تنك
s. m. | تنكجى * | تنكى
-ern | دفع a. الدراهم
Geld vulg. | معمل s. f. | من تنك a.
-musif s. f. | معامل pl. التنك
- | موسيقى آلات التنك
s. m. | -arbeiter | -ware s. f.
| بضائع pl. بضاعة التنك

Blei s. m. نوع من السمك.

Blei s. n. رَصَاصٌ.

bleiben vn. a | اِسْتَمَرَّ | دام | u | بَقِيَ | etw. - lassen
u | فَضَلَ | u | مَكَثَ | übrig - a | بَقِيَ |
auf dem Platze - u | ماتَ | stecken -,
stehen - i | وَقَفَ | hängen - an
إِمْتَنَعَ عَنِ | weg - | تَعَلَّقَ بِ
إِغَابَ | bld. | عَنِ الصَّوَابِ |
hinten -, zurück - | تَأَخَّرَ | a.
| باقي | دائم.

bleich a. | صَفْرَاءٌ | f. | أَصْفَرَ |
الْوَجْهَ | - werden | مُصْفَرٌ |
-en | مَغَاسِلٌ | pl. | مَغْسَلٌ |
va. etw. | بَيَّضَ | vn. - |
-er s. m., -erin s. f. | غَسَّالٌ |
f. | فَقَّرَ | f. | غَسَّالَةٌ |
- | فُحِّتٌ | (عِنْدَ النِّسَاءِ خُصُوصًا)
a. med. | فَقِيرَ | (إِبْنَةُ) |

Blei-Dach s. n. | سَطْحُ | الرِّصَاصِ | -ern
a. | مَعْدِنٌ | s. n. | -erz |
a. | مَخْلُوطٌ | بِتُرَابِ | وِرْصَاصِ |
s. f. | لَوْنٌ | الرِّصَاصِ |
-farbig a. | رِصَاصِي | اللُّونِ |
s. f. | أَقْلَامٌ | pl. | قَلَمٌ |
s. f. | رِصَاصَةٌ | pl. | رِصَاصَاتٌ |
pl. | بُنْدُقٌ | u. | بُنْدُقٌ |
pl. | بِنَادِقٌ | -lot s. n.
| ثَقِيلٌ | a. | فَوَادِنٌ | pl. |

خَاتَمٌ | s. n. | -Siegel | كالرصاص
قَلَمٌ | s. m. | -stift | رصاص
| اسْبِيْدَجٌ | s. n. | -weiß |
| أَقْلَامٌ | pl. | اسْفِيْدَجٌ.

blenden va. | jn. | سَمَلَ | u. | - jn.
| أَعْمَى | (الشمس) |
| غَرَّ | u. | | أَعْمَى | قلبه |
- | عَمِيَ | a. | - lassen |
| غَرَّ | بِنَفْسِهِ | |
s. f. | مِصْبَاحٌ | يَرَى |
| وَلا يَرَاهُ | غَيْرُهُ |
| سَمَلٌ | s. f. |
| غُرُورٌ | s. n.

bleuen va. | jn. | ضَرَبَ | i. |

Blick s. m. | نَظْرَةٌ | | نَظَرَ |
- | لَمَحَ | - heimlicher |
| لَحَظَ | böser - |
| عَيْنٌ | den Blick lenken,
| شَرِبْرَةٌ |
| التَّفَّتَ | إِلَى |
| سَرِيْعٌ | - haben |
| فِي | أَوَّلِ | - auf den ersten |
| بَصَرَ | u. | نَظَرَ | إِلَى |
| تَطَلَّعَ | إِلَى |
| أَبْصَرَ | هُ | هُ |
| أَدَارَ | بَصْرَةَ | حَوْلَهُ | -
| أَحْضَرَ | u. | أَظْهَرَ | نَفْسَهُ |
- | مَنَارَةٌ | ضَوْوُهَا | يَنْبَيِّنُ |
- | مِّنْ | وَقْتٍ | إِلَى | آخِرٍ.

blind a. عَمِيَان pl. عَمِيَاء f. أَعْمَى
 u. أَضْرَار u. أَضْرَاء pl. ضَرِير | عُمَى u.
 bld. غَيْر مُنْتَبِه | غَيْر مُتَبَصِّر
 - auf einem Auge عَوْرَاء f. أَعْوَر
 pl. عَوْر | - (trübe) مُكْدَر - | عَوْر
 e Kuh | إِرْجَاف كَذِب كَأْرْم
 | عَمِيضَة (نوع من اللّعب) (Spiel)
 -er Reisender رَاكِب لَمْ يَدْفَع ثَمَن
 - | عَمَى a | عَمَى | - | السَّفَر
 أَطْلَق | - | تَعَامَى | stellen
 -heit s. f. | الرِّصَاص في السَّوَاء
 | بَعَمَى | - | عَمَايَة | عَمَى
 | - | بِلَا تَبَصَّر | بَعْبَاوَة
 zool. حَيِيَّة غَيْر مُؤَيَّة.

blinzen vn. a | بَرَق | u | بَهَا | u | لَمَع
 u | لاح.

blinzeln vn., blinzen vn. (mit den
 Augen) غَمَّض العَيُون.

Bliß s. m. | بَرَق pl. بُرُوق | - (ein-
 | صَوَاعِق pl. صَاعِقَة (schlagender)
 -e | أَبْرَق | - | ableiter s. m.
 | أَزْرَق a. | - | مانِعَة الصَوَاعِق
 | بَرَق u. | - | en vn. | زُرْقَاء f. كالْبَرَق
 | بَرَقَتِ السَّمَاء | bld. | es blißt
 a | لَمَع.

Bloß s. m. | قُرْم pl. قُرْمَة *
 | قَطَعَة | قَطَع pl. عَظِيمَة

Bloßade s. f. | حِصَار | مُحَاصِرَة.

Bloßhaus s. n. | حَشَب | دار من
 | غَيْر مَقْطُوع | أَلْوَا حَا.

bloßieren va. (Hafen, Festung)
 | حَاصَرَه | حَاصَر i, u | القَلْعَة
 Bloßierung s. f. | Bloßade.

blöde a. (Nuge) | قَصِير البَصَر (ein-
 | صَغِير النَفْس | رَكِيك (fältig)
 | قَلِيل العَقْل | - | (schüchtern)
 | مُسْتَح | خَائِف | Blödigkeit s. f.
 | - | قِصَر البَصَر (Des Auges)
 | صَغَار النَفْس (Ein- | falt)
 | حَيَاء | خَوْف (Schüchternheit)
 | جُنُون s. m. | عَدَم
 | هَذِيَان | الصَوَاب | blödsinnig a.
 | بِلَا صَوَاب | رَكِيك | مَجْنُون.

blöfen vn. (Schafe) | الشَّاة | مَأْمَاء
 | جَار a | البَقْر (Rinder)
 | مَأْمَاء (الشَّاة) | جَوَار s. n. | البَقْر.

blond a. | أَشْقَر (الشَّعر) | شَقْرَاء f.
 | شَقْر pl. | - | e s. f., | فُحْلَة -
 | - | ine s. f. | مِنَ البَيْرَة | بَيْرَلِين
 | - | كَوف s. m., | امْرَأَة | شَقْرَاء الشَّعر
 | - | أَشْقَر الشَّعر | a. | loßig.

bloß a. (naß) | عُرِيَان | عَار | مَعْرَى
 | - | es | سِيف مَسْلُوق | مَجْرَد
 | مَكْشُوف الرَّأس | - | mit Kopf

mit -en Füßen حافٍ | mit -em
 Auge بلا نظارة | bloß adv. (nur)
 Blöße s. f. لا غير | ليس إلا | فقط
 sich eine - عريّة | عرى | عورة
 geben اكتشف | bloßstellen va.
 etw. عرض | - in. ه | أظهر ه
 سؤد وجهه | للضحك
 blühen vn. نور | ازهر | أزهر (ge-
 deihen) u عمر | -d a. مزهر | bld.
 عامر pl. عمر u. عوامر | -d sein
 u عمر.
 Blume s. f. أزهر u. أزهار pl. زهر
 | خيار | زبدة | زهر (das feinste) -
 | رائحة الخمر (des Weines) -
 | زينة الكلام (der Rede) -nbeet
 s. n. مزرعة الأزهار -nfeld s. m.
 pl. قنوب | قنوب pl. قنب الزهر
 | قنبيط * | قنبيط s. m. -nfohl | أكمام
 -nleje | أكليل الزهر s. m. -nfranz
 s. f. نخب | نخب s. m. -nstaub
 باقة s. m. -nstrauß | لقاح | لقم
 | قبضة | حزمة | باقات pl.
 صحبة الزهر * | yr. | تشكيلة *
 -nbeet | -nstück s. n. | äg.
 -ntopf s. m., -nwase s. f.
 إناء فيه زهر | قصرية زهر
 تربية s. f. -nucht | مزهرية *

مزهر | blumicht, blumig a. الزهر
 مزين | زاهر.
 Bluse s. f. دراريع pl. دراعة
 Blut s. n. دم pl. دماء | - (Herzblut)
 موحجة pl. موحج | geronnenes -
 نسل | ein (Abkunft) - | علق
 | صغير السن - | schwitzen
 | جري عرقه دما | das - | Pocht ihm
 in den Adern | دم u | -ader
 | عروق pl. عرق s. f. -arm a.
 | فقير الدم | قليل الدم
 | فقير جدا (sehr arm) -armut s. f.
 | فقر الدم | قلة الدم -bad s. n.
 | قتل | ذبح -bann s. m. على
 | تصرف على حياته | حياة المجرم
 | سئل إلى سفك الدماء s. m. -durst
 | سفك | سفاح الدماء a. -dürstig
 | الدماء.
 أزهار pl. زهر الشجرة s. f. Blüte
 | أزهار (Blühen) - | أنوار pl. نور
 | ريق العمر (des Alters) - | تنوير
 | عز * | شرح العمر - der Jugend
 | ريعان الشباب | عنفوان الشباب
 | شرح الشباب
 Blutegel s. m. علق pl. علقة u.
 | (الدم) | bluten vn. | علقات
 | دمى a | نرف | جري i
 ضرا u

Blütenlese s. f. | نَحْب | Blüten-
staub s. m. | لَفْح.

Blut-fluß s. m. | نَزْف الدَّم | monat-
licher - | حَيْض - | -gefäß s. n. | عِرْق
pl. | شَرَابِين pl. | شَرِبَان | عُرُوق pl.
-geld s. n. | دِيَاة pl. | -zahlen
| عَقْل i | القَتِيل | وَدَى i | القَتِيل
-gericht s. n. | الحُنَايَات العَالِيَّة
-gerüst | مَحْكَمَة الحُنَايَات العَالِيَّة
s. n. | مَشَانِق pl. | مَشْنَقَة *
s. n. | -gierig a. | طَمَع فِي الدَّم s. f.
ضِرْو s. m. | -hund s. m. | طَمَاع فِي الدَّم
pl. | ضِرَاء | bld. | سَفَاك | إِنْسَان
| نَفْث الدَّم s. m. | -husten s. m. | الدِّمَاء
| مَلْحَمَة Schlacht --e | مُدْمَى a. -ig
| مَوْت أَرْزَق أَوْ أَحْمَر | -er Tod --
| -igel s. m. | أَحْمَر كالدَّم --rot
Blutegel | -jung a. | صَغِير السِّنِّ
| رَاخَة s. f. | شَاب فِي أَوَّل شَبَابِهِ
| اِنْتِقَام | أَخَذ النَّارَ مِنْ الْقَاتِلِ
-reich a. | كَثِير الدَّم | -reinigend
| أَحْمَر كالدَّم a. | -rot a. | مُرَوِّق
-fauer a. | صَعْب جِدًّا | -fanger
s. m. | مَانَسَ مَالِ الْقَوْمِ | -schande
s. f. | زِنَا ذَوِي الْقَرَابَةِ s. f.
| مُسَافِح a. | -schänderisch | -الْقَرَابَةِ
-schuld s. f. | خَوْفٌ مِنَ الدَّم | -fheu

s. f. | دَنْبٌ قَتْلُ إِنْسَان -sfreund
s. m. | قَرِيب العَصَب -sfreund-
schaft s. f. | قَرَابَة العَصَب -speien
s. n. | نَفْث الدَّم | تَفَّ * | -spur
s. f. | أَثَر الدَّم | -stein s. m. | حَجَر
قَاطِع سَيْلَان a. | -stillend | الدَّم
-stropfen | مَوْقِف سَيْلَان الدَّم | الدَّم
s. m. | قَطْرَة الدَّم | -sturz s. m.
| نَزْف الدَّم | سَيْلَان الدَّم | دَمَى
-sverwandt a. | قَرِيب العَصَب
-sverwandtschaft s. f. | قَرَابَة
| اِفْتِدَاء | فِدَاء s. f. | العَصَب
-that s. f. | قَتْل | -umlauf s. m.
| جَرِيَان الدَّم وَدَوْرَانُهُ | -urteil s. n.
| حُكْم بِالْإِعْدَام | -vergießen s. n.
| سَفْك الدِّمَاء | قَتْل | ذَبْم
a. | قَلِيل جِدًّا | -wurf s. f. | فَصِيد
| نَفَانِق * | مَقَانِق * | -zeuge s. m.
شُهَدَاء pl. | شَهِيد

Bö s. f. | رِيح | هَبْجَان الرِّيْح pl. | رِيح

Bock s. m. | تَيْس (-Siegen) pl.
| صِقَالَة (Gestell) - | تَيْوَس pl.
| صِقَائِل (-Kutschbock) | مَحَلَّ
| السَائِق فِي العَجَلَة (-früheres
Marterwerkzeug) | مَرْكَبَة حَدِيدِيَّة
نَوْع قَوِي (Bockbier) | - | اللْتَنِيكِل
| غَلَطَ مِنَ البِيرَة | einen - | schießen

- beinig a. مُعَانِد | غَلَطًا فَاحِشًا
 -hier s. n. نَوْعٌ قَوِيٌّ مِنَ الْبَيْرَةِ
 -shorn s. n., ju. ins -- jagen,
 treiben s. حَوَّفَ | فَرَّعَ s.
- Boden s. m. (Erde) | تُرَابٌ | أَرْضٌ
 Grund u. - | أَرْضٌ - | des Zimmers
 ما هُوَ | أَرْضُ الْحُجْرَةِ - | des Hauses
 | مِنَ الْبَيْتِ تَحْتَ السَّقْفِ
 | قَاعٌ | قَعْرٌ (unterster Theil) -
 | طَرَحَ a u - werfen | ju. zu -
 | الضَّرْبُ | ju. zu - | schlagen, drücken
 | أَرَزَمَ أَنْفَهُ | غَمَّ u s | أَيْسَ s
 | غِلَالٌ pl. غَلَّةُ الْأَرْضِ s. m. -ertrag
 | مَحْضُولُ الْأَرْضِ * | geschloß s. n.
 | طَبَقَةُ الْبَيْتِ تَحْتَ السَّقْفِ
 | حُجْرَةٌ تَحْتَ سَقْفِ * | fammer s. f.
 | عَدِيمُ الْقَعْرِ a. -los | الْبَيْتِ
 | رُسُوبٌ s. m. | -faß s. m. | هَوَّةٌ تِيْفَةٌ -
 | نُقْلٌ | عَكَرٌ | رَاسِبٌ
- Bogen s. m. قَوْسٌ pl. قِيسَى u.
 قَوْسٌ (eines Kreises) - | أَقْوَاسُ
 | حَطَّ مُنْحَنٍ | (من الدائِرة)
 | طَرُحِيَّةٌ * | طَلْحِيَّةٌ * (Papier) -
 | حَنِيَّةٌ (eines Gewölbes) - | وَرَقَةٌ
 | طَاقَاتٌ pl. طَاقٌ * | حَنَايَا pl.
 | -gang s. m. | مَتَقَوِّسٌ a. -förmig
 | طَاقَاتٌ pl. طَاقٌ * | أَرْوَقَةٌ pl. رِوَاقٌ
- u. قَنَاطِرٌ pl. قَنْطَرَةٌ | طَيْقَانٌ u.
 -linie s. f. | حَطَّ مُنْحَنٍ -
 s. m. قَوَاسَةٌ pl. قَوَاسٌ -sehne
 s. f. | وَأَوْتَارٌ pl. وَتَرُ الْقَوْسِ -weise
 adv. فِي طَلَاحِيٍّ
- Bohle s. f. لَوْحٌ سَمِيكٌ pl. | أَلْوَاحٌ
 | كَرِيْشَةٌ * | لَاطٌ * | كَرِيْشَةٌ *
 Bohne s. f. (Sau-) | فُولٌ coll. | باقِلَاءٌ
 | فُولَةٌ - | eine - | coll.
 | لَوْبِيَاءُ (-Schneide-) | فَصُولِيَّةٌ äq.
 bohnen va. | الخَشَبُ Holz | مَسَحَ
 | بِالشَّمْعِ
- Bohnenstroh s. n. | قَنْسِرُ الْفُولِ | grob
 | غَلِيظٌ لِلْغَايَةِ - - | wie
- Bohrer s. m. | مَاسِحُ الخَشَبِ | رَجُلٌ
 | بِالشَّمْعِ
- bohren va. etw. | نُقِبَ u ه | نُقِبَ u ه
 | خَرَتَ u ه | in den Grund -
 | غَرَّقَ (المَرْكَبُ) (Schiff) | Bohrer
 s. m. | مِثْقَابٌ | بَرِيْمَةٌ s. m.
 | مِثْقَابٌ pl. مِثْقَابٌ | مِشْعَبٌ
 | نُقُبٌ pl. نُقْبٌ | نُقْبٌ pl. نُقْبَةٌ
 | نُقْبٌ s. f. | أَثْقَابٌ u.
- Boje s. f. | بَحْرِيَّةٌ | عِلَامَةٌ
- Bolle s. f. | بَصَلٌ
- Böller s. m. | مِدْفَعٌ صَغِيرٌ pl. | مَدَافِعُ
- Bollwerk s. n. | تَحْصِيْنٌ | مِتْرَاسٌ

- Bolz, Bolzen s. m. أسْهُام pl. سَهُم |
 Bombardement s. n. ضَرْبُ بِالْقَنَابِلِ |
 bombardieren va. etw. رَمَى i ه |
 بالقنابل.
 Bombast s. m. كَلَامٌ مُبْهَمٌ وَمُنْفَخَمٌ |
 Bombe s. f. قَنْبَلَةٌ pl. قَنَابِلُ |
 قَنْبَرَةٌ pl. قَنْبَرَةٌ *
 Bon s. m. وَرَقَةٌ الدَّفْعِ |
 Bonbon s. m. حَلَاوَى pl. حَلَاوَى |
 مُلَبَّسٌ * | سَكَّرِي
 Boot s. n. قَوَارِبُ pl. قَوَارِبُ |
 قَلَانِك pl. فُلُوكَةٌ | فُلُكٌ | زَوَارِقِ pl.
 نَائِبٌ رَئِيسٌ مَرْكَبٍ -smann s. m.
 مَرَاكِبِي * | بَحْرِي | نَوَابٍ pl.
 Borax s. m. مِلْحُ الصَّاعَةِ | بُورَقِ |
 Bord s. m. (Rand) حَرْفٌ pl. حَرْفٌ |
 (Schiff) - | طَرْفُ الْمَرْكَبِ (Schiffs-) -
 an - steigen, | سَفِينَةٌ | مَرْكَبِ
 gehen طَلَعَ عَلَى الْمَرْكَبِ |
 Bordell s. n. بَيْتُ الْفَحْشِ pl. |
 كَرْخَانَةٌ * | يُيُوتِ
 Borg s. m., etw. auf - geben,
 verkaufen بِالذَّيْنِ | باع i ه | etw.
 auf - nehmen, kaufen اشْتَرَى ه
 بِالذَّيْنِ | -en va. etw. von jm.
 اسْتَعَارَ ه مِنْهُ | تَسَلَّفَ ه مِنْهُ
 اشْتَرَى ه مِنْهُ | اقْتَرَضَ ه مِنْهُ
- أَسْلَفَ ه | jm. etw. - |
 -en s. n. | دان i ه | أَعَارَ ه |
 -er s. m. | اسْتَقْرَضَ | اسْتِعَارَةٌ
 مُسْتَعِيرٌ |
 Borfe s. f. قَشْرُ الشَّجَرَةِ pl. قُشُورٌ |
 Born s. m. عَيْنٌ pl. أُعْيُنٌ u. عَيْونٌ |
 يَنَابِيعِ pl. يَنْبُوعٍ | مَنَبَعِ |
 Börse s. f. كَيْسٌ pl. أَكْيَاسٌ |
 - (Versammlungsort der Kauf-
 leute) | مَجْمَعُ التُّجَّارِ | بُورْصَةٌ *
 -njobber s. m., | مُلْتَقَى التُّجَّارِ
 -spieler s. m. | مَنٌ لَا يَتَعَاطَى إِلَّا
 Börjaner f. | أَشْغَالُ الْبُورْصَةِ
 Börsenjobber.
 Borste s. f. شَعْرُ الْخِنْزِيرِ | هُلْبٌ |
 -nwieh s. n. | حَيَّوَانٌ ذُو هُلْبٍ
 borstig a. | خَشِينٌ - | ذُو هُلْبٍ |
 مُتَغَلِّظٌ |
 Borte s. f. des Kleides كُفَّةٌ pl. |
 أَهْدَابٌ pl. هُدْبٌ | كِفَافٌ u. كُفَفٌ |
 كَشَكْسٌ * | شَرَايِطُ pl. شَرِيْطَةٌ *
 böartig a. Sache مُضِرٌّ | (Person)
 | خَبِيْثٌ | رَدَاةٌ s. f. -feit | رَدِيٌّ
 خَبَاثَةٌ |
 Böschung s. f. مُنْحَدَرٌ |
 böfe a. (Person) | شَرِيْرٌ | خَبِيْثٌ |
 | عَاطِلٌ * | مُضِرٌّ (Sache) - | رَدِيٌّ

- * | بَطَّال | - (zornig) | غَضَبان | r
 Hund | كَدْب خراش | der - Feind
 | انْغَضِب | jn. - machen &
 | الشَّيْطَان
 - werden über od. auf a حَنِق
 . غَضِب a عَلَى | تَذَمَّر على | مِنْ
 Böse s. m. der - الشَّيْطَان | s. n.
 das - الشَّر | السُّوء - s thun
 . أَسَاءَ
 Bösewicht s. m. فَسَقَة pl. فاسِق
 u. . أَشْقِيَاء pl. شَقِي * | فُسَّاق
 boshaft a. | رَذِيل | خَبِيث | Bosheit
 s. f. | خُبْث | سُوء الخُلُق | خَبَاثَة | خُبْث
 bösmillig a. | سَيِّئ النِّيَّة | -feit s. f.
 . سُوء النِّيَّة
 Botanik s. f. | عِلْم النِّبَات | -er s. m.
 | نَبَاتِي | botanisch | عالم النِّبَات
 a. | نَبَاتِي | botanisieren vn. a جَمَع
 النِّبَات
 Bote s. m. | رُسُل pl. رَسُول
 pl. | سَاع pl. سَعَاة | -n/frau
 s. f. | امْرَأَة مَرْسَلَة
 Botmäßigkeit s. f. | اسْتِيْلَاء | تَسَلُّط
 . مُلْك | تَمَلَّك
 Botschaft s. f. | رَسَائِل pl. رِسَالَة
 | تَبْلِيغ | أَخْبَار pl. خَبَر -
 | بُشْرَى | jn. eine frohe -
 | بُشْر | Bringer anfündigen ب
- | بُشْرَاء pl. بَشِير - einer frohen
 | مَبَشِّر | - (Gesandtschaft) | سِفَارَة
 | دار السِّفَارَة (Gesandtschaftshotel) -
 -er s. m. | سَفِير pl.
 . الجِيَّة pl. الجِي *
 Böttcher s. m. | صَانِع البَرَامِيْل |
 . بَرَامِيْلِي
 Bottich s. m. | خَابِثَة pl. |
 . دِنَان pl. دَن
 Bouillon s. f. | مَرَق | مَرَقَة
 Bouquet s. n. | باقَة pl. باقات |
 | تَشْكِيْلَة * | قَبْضَة | حَزْمَة
 | صَحْبَة الزَّهْر | - des Weines |
 . طَعْم الخَمْر | رائِحَة الخَمْر
 Bouteille s. f. | قَنَائِي pl. قَنِيْنَة
 Bovist s. m. | فِقْعَة pl. فِقْع
 Bowle s. f. | شَرَاب فِيْهِ خَمْر
 bozen vn. mit jn., sich - mit jn.
 | ملايِم s. m. | ملايِم | لاكَم &
 | غامِر | بايِر (أَرْض) | مُهْمَل |
 | بُور s. f., | Brachfeld s. n. |
 | مَوَات | jur. | أرض بايِرَة
 Brache s. f. | خِرَاء pl. ضِرْو | brachig
 | ماء مالِح | Brachwasser s. n. | مالِح a.
 Brahmine s. m. | بَرَهْمِي pl. بَرَاهِمَة
 Bramarbas s. m. | فَشَار *

Branché s. f. فَرْعٌ مِنَ التِّجَارَةِ pl.
فُنُونٌ pl. فَنٌّ | فُرُوعٌ

Brand s. m. حَرِيقٌ * | حَرِيقَةٌ *
| أَحْرَقَ ه | etw. in - stecken | اشتعل
in - geraten | حُرِقَ | احترق
- (Gangraena) | آكَلَةٌ (des Ge-
treides) | سُوسٌ | أَرْضَةٌ (Feuer-
brand) | شُعْلَةٌ pl. شُعْلٌ
| مَقْبَسٌ pl. مَقْبِسٌ | ضَرْمٌ pl.
-brief s. m. خِطَابٌ يُهَدَّدُ فِيهِ
خطاب (scherzhaft) -- | بِأَحْرَاقِ الدَّارِ
انكسر (Wellen) -en vn. | تَهْدِيدٌ
-er | (الأمواج على شاطئ البحر)
s. m. | حَرَّاقَاتٌ pl. حَرَّاقَةٌ s. m.
s. f. | شُعْلٌ pl. شُعْلَةٌ s. f.
-flecken s. m. | كَى | حَرَقَ
-fuchs s. m. | أَشْقَرٌ أَوْ أَصْهَبٌ
-ig a. | مُسَوِّسٌ | قَرِحِيٌّ
| وَسُومٌ pl. وَسْمٌ | عِلَامَةٌ الحَرَقِ
-marken | مَعَابٍ | سِمَاتٌ pl. سِمَةٌ
va. jn. | وَسَمٌ i s | وَسَمٌ i s
s. n. | ضَحَايَا pl. ضَحِيَّةٌ s. n.
va. | أَخَذَ (العَدُوُّ) مَالَ عَدُوِّهِ
| -stätte s. f., -stelle
s. f. | مَحَلُّ الحَرِيقِ
| مُضْرِمٌ | مُشْعِلٌ | مُسَبِّبُ الحَرِيقِ
| تَسْبِيبُ الحَرِيقِ s. f.

انكسار s. f. | إضرام | إشعال
الأمواج على شاطئ البحر.

Branntwein s. m. عَرَقٌ pl. أَعْرَاقٌ |
-brenner s. m. | مُقَطِّرُ العَرَقِ
-brennerei s. f. | مَعْمَلُ العَرَقِ

Brafilienholz s. m. بَقَمٌ.
braten va. etw. | شَوَى i ه |
-etw. (backen) | حَمَّصَ ه (rösten)
Braten s. m. | قَلَا u ه | قَلَى i ه
- ein Stück | شِوَاءٌ | لَحْمٌ مَشْوِيٌّ
- den - riechen | شِوَايَةٌ | شِوَاةٌ
- roß s. m. | أَدْرَكَ المَقْصِدَ الخَفِيِّ
Brat- | رَدْنُجُوتٌ * | بَدَلَةُ الفَخْرِ
pfanne s. f., Bratrost | مِشْوَاةٌ pl.
مُصَبَّعَاتٌ pl. مُصَبَّعٌ * | مِشَاوٌ
Bratsche s. f. كَمَنُجَةٌ كَبِيرَةٌ.
Bratspieß s. m. سَفَاوِدٌ pl. سَفَاوِدٌ
| شِيشٌ * | أَسْيَاخٌ pl. سِيخٌ *
wurst s. f. مَحْشُوءٌ لَحْمًا مُقَطَّعًا
pl. مَقَانِقٌ * | مَصَارِبِنٌ
Bräu s. n. | مَعْمَلُ البِيرَةِ
أنواع pl. البيرة
Brauch s. m. | عَادَاتٌ pl. عَادَاتٌ u.
zu | مُفِيدٌ | نَافِعٌ a. -bar | عَوَائِدُ
etw. - - sein | عَلَى u جَدَا
-barkeit | نَفْعٌ a لِ | نَفْعًا عَلَى
s. f. | نَفْعٌ -en va. etw. (nötig

haben) | أَحْتَاِجُ إِلَىٰ | اِز u ه |
 - - etw. u. jn. (gebrauchen)
 | اِسْتَحْدَمُ ه و ه | اِسْتَعْمَلُ ه و ه
 (impers.) es braucht | يَلْزِمُ | Zeit
 الوقت.

bräuchlich a. | مُسْتَعْمَلٌ عَادَةً |
 اِعْتِيَادِي.

Braue s. f., Brauen s. f. | حَاِجِبٌ
 حَوَاِجِبٌ pl. العَيْنِ.

brauen va. Bier | اِعْمَلُ a البِيْرَةُ
 صَاِنِعٌ s. m. | صَاِنِعٌ a هَا
 مَعْمَلٌ s. f. | Brauerei | البِيْرَةُ
 Brauereigerechtigkeit s. f. | البِيْرَةُ
 Brauhaus s. n. | حَقَّقَ عَمَلُ البِيْرَةِ
 Braufessel s. m. | مَعْمَلُ البِيْرَةِ
 Brau- | خِلْقِيْنَ لِعَمَلِ البِيْرَةِ
 meister s. m. | رَئِيْسُ مَعْمَلِ البِيْرَةِ.

braun a. (Hautfarbe) | اَسْمَرٌ f. سَمْرَاءُ
 | اَحْلَسُ (Pferd) - | سَمْرٌ pl.
 | بُنِيٌّ (لَوْنٌ) (-kaffee) - | كُمِيْتٌ
 - | اِسْمَرٌ | اِسْمَرٌ | سَمْرٌ a
 سَمْرَةٌ.

Bräune s. f. (Farbe) | سَمْرَةٌ (-Hals-
 krankheit) | حُنَاِقٌ.

bräunen va. etw. | اَوْ صَيَّرَهُ | جَعَلَ a
 | سَفَعٌ a ه (-Sonne) | اَسْمَرٌ

gebräunt werden | تَسَفَعٌ | bräun-
 lich a. | مَائِلٌ إِلَى السَّمْرَةِ | ضَارِبٌ
 اَسْمَرَانِي | إِلَى السَّمْرَةِ.

Braus s. m., in Saus u. - leben
 عَاشَ i عَيْشَةً | عَاشَ i | بالتَلَذُّذِ
 رَغَضًا.

Brause s. f. | مِرْشَّةٌ | -kopf s. m.
 -en | رَجُلٌ طَائِشٌ | رَجُلٌ جَهُولٌ
 | اِخْرَ i u, | اِخْرَ i | عَجٌّ u (Meer) vn.
 - s. n. | خَرِيْدِرٌ | دَوِيٌّ s. n. -
 رَجُلٌ | سَفُوْفٌ فَائِرٌ | -wind s. m.
 رَجُلٌ طَائِشٌ | جَهُولٌ.

Braut s. f. (Verlobte) | خَطِيْبَةٌ *
 | عَرَائِيسٌ pl. | عَرُوْسٌ (junge Frau) -
 فِرَاشُ الدُّخُوْلِ | -bett s. n. | عَرُوْسَةٌ *
 شَبِيْنٌ | -führer s. m. | اَعْلَى العَرُوْسِ
 | -gemach s. n. | اِشْبِيْنٌ | العَرُوْسِ
 حُجْرَةُ الدُّخُوْلِ | اَعْلَى العَرُوْسِ.

Bräutigam s. m. (Verlobter) | خَاِطِبٌ
 | خَطِيْبٌ | خُطْبَاءٌ pl. (junger
 Ehemann) | عَرُوْسٌ pl. | عَرُوْسٌ (رَجُلٌ)
 عَرِيْسٌ *.

Brautjungfer s. f. | جَلِيْسَةُ العَرُوْسِ
 Brautkammer | شَبِيْنَةُ العَرُوْسِ
 s. f. | Brautgemach.

bräutlich a. | مُخْتَصٌّ بِالْعَرُوْسِ.

Braut-nacht s. f. | لَيْلَةُ الدُّخُوْلِ

فَرَسٌ | u, i ه | نَشْرٌ | u ه | مَدٌّ | u ه
 -schultrig a. | وَسَعٌ | ه | بَسَطٌ | u ه
 الطَّرْفِ s. f. | عَرِيضُ الْمُنْكَبَيْنِ
 العَرِيضُ مِنَ الْمُرْكَبِ وَضَرْبُ الْمَدَافِعِ
 -n abgeben | مِنْ هَذَا الطَّرْفِ
 ضَرْبٌ | i بِالْمَدَافِعِ مِنْ هَذَا الطَّرْفِ
 Bremse s. f. (Pferde-, Ochsen-)
 - (für die Nase der Pferde) | قَمْعَةٌ | ذُبَابُ الْخَيْلِ وَالْبَقَرِ
 pl. | كَلَابَةٌ | آلةٌ | eines Wagens - | كَلَابَاتٌ
 | تُثَقَّلُ بِهَا سُرْعَةُ سَيْرِ الْعَجَلَةِ
 قَلَّلَ سُرْعَةَ سَيْرِ عَجَلَةٍ بِالْأَلَةِ -n vn.
 brennbar a. | سَهْلٌ | قَابِلُ الْأَشْتِعَالِ
 قَابِلِيَّةٌ s. f. | - | الْاَشْتِعَالِ
 | سُيُولَةُ الْأَشْتِعَالِ | الْاَشْتِعَالِ
 Brenneisen s. n. | حَدِيدَةٌ لِلْوَسْمِ
 حَدِيدَةٌ لِقَتْلِ (Brennschere) -
 الشَّعْرِ.
 brennen va. etw. | كَوَى | i ه | أَحْرَقَ | ه
 - | وَسَمَ | i الْخَيْلِ النَحْ | Pferde zc.
 Kaffee - | حَمَّصُ الْبُنِّ | Brannt-
 wein - | قَطَّرَ الْعَرَقَ | sengen u. -
 - | خَرَّبَ الْبِلَادَ فِي الْحَرْبِ | sich weiß -
 | اسْتَعَلَّ | تَشَعَّلَ - | vn. | تَبَرَّأَ
 | vor Begierde - nach | اضْطَرَمَّ
 | تَوَلَّعَ | غَرَضٌ | a إِلَى | طَمِعَ | a فِي
 Brenner s. m. (Branntwein-)

عُدَّةُ لَامْپَةٍ - | مَقْطَرِ الْعَرَقِ
 | اللامبَة * | Brennerei s. f. (Brannt-
 wein-) | مَعْمَلُ الْعَرَقِ | Brennglas
 s. n. | زُجَاجَةٌ جَامِعَةٌ أَشْعَةٌ
 | الشَّمْسِ | Brennholz s. n. | حَطَبٌ
 | - | أَلْحَطَابِ | sammeln i
 Brennmaterial s. n. | وَقَادٌ | Brenn-
 neffel s. f. | قَرَّاصٌ * | قَرَّيْصٌ
 | زَيْتٌ لِلتَّنْوِيرِ | Brennöl s. n. | النَّارِ
 | مَرْكَزٌ | Brennpunkt s. m. | غَازٌ
 | مُحْتَرِقٌ | الْاَهْلِيْلَجِ | الْأَشْعَةُ
 | مَقْصٌ | Brennschere s. f. | مَرْكَزٌ
 | لِقَتْلِ الشَّعْرِ | Brennstoff s. m.
 | وَقَادٌ | Brennweite s. f. | مَجْمَعٌ
 | الْأَشْعَةُ مِنْ مَرْكَزِ الزُّجَاجَةِ الْجَامِعَةِ
 | دُو الشَّيْبَاتِ | brenzlich, brenzlich a.
 Brensche s. f. | أَنْقَابٌ | pl. | نَقَبٌ
 | in eine Mauer - | خَلَّ | نِقَابٌ
 | ضَرْبٌ | الْحَائِطِ بِالْقَنَائِلِ | [schießen
 Brett s. n. | لَوْحٌ | خَشَبٌ | pl.
 | نَرْدٌ (Spiel) - | دُفُوفٌ | pl. | دَفٌّ
 | bei jm. einen Stein im -e haben
 | تَمَتَّعَ | بِالنِّعْمَةِ عِنْدَهُ
 | دَفَعَ | الْكُلَّ دَفْعًا | bezahlen
 | لَوْحٌ | أَسْوَدٌ - | وَاحِدًا | das [schwarze
 | pl. | لِلْإِعْلَانَاتِ فِي دَارِ الْغُنُونِ
 | -ern a. | الْمَرْسَحِ | (Bühne) -er

- erverschlag s. m. | ألواح الخشب
 بَرَزَخ | فاصِل | حَوَاجِر pl. حاجِر
 نَرْد | -spiel s. n. | بَرَايخ pl.
- Breve s. n. kath. | بَرَاءة البابا |
 مَنَشُور بَابَوِيّ.
- Brevier s. n. kath. | كِتَاب الفَرَض
 الكِنَائِسِيّ.
- Brezel s. f. | رِقَاق pl. | رِقَاق
 قَرَقُوشة * | رِقَاق pl. | رِقَاق
 قَرَايش pl.
- Brief s. m. | كُتُب pl. | كِتَاب
 تَحَارِير pl. | تَحْرِير | مَكَاتِيب pl.
 أَلُوكة | خِطَابَات pl. | خِطَاب
 جَوَابَات pl. | جَوَاب *
 بَرَاءَات pl. | بَرَاءة (Patent) -
 الشَّرَف بِبَرَاءة المَلِك | -adel s. m.
 عُنُوان | عُنُوان s. f. | -aufschrift
 وَرَقة يُكْتَب فِيهَا | -bogen s. m.
 ظَرْف pl. | -couvert s. n. | الخِطَاب
 غُلْف pl. | غُلْف | ظَرْوف
 -um- | -fasten s. m. | عُلْبَة
 تَحْرِيرِيّ | -lich a. | الخِطَابَات
 وَسْم البَرِيد s. f. | -marke
 وَرَق | -papier s. n. | وَسْم البُوسُطَة *
 أَجْرَة | -porto s. n. | لِمَكَاتِيب
 أَجْرَة البُوسُطَة * | -post
 بَرِيد | بَرِيد لِمَكَاتِيب s. f.
 جُمْلَة | -schaften s. pl. | لِمَكَاتِيب
- كَاتِب | -schreiber s. m. | المَكَاتِيب
 كِتَاب الإِنشَاء s. m. | -steller
 وَسْم البُوسُطَة فِي | -stempel s. m.
 مِحْفَظَة s. f. | -tasche
 الخِطَاب | -taube s. f. | جِرْدَان *
 مَحَافِظ | -träger s. m. | حَمَام
 الزَّجَال | سَاع pl. | سَاع
 حَامِل البَرِيد | ظَرْوف pl. | ظَرْوف
 -umschlag s. m. | -wechsel s. m.
 عُلْف pl. | غِلَاف
 مَكَاتِبَة | مُرَاسَلَة.
- Brigade s. f. | فَرَقَة عَسْكَرِيَّة pl.
 -general s. m., Brigadier
 فَرَق | قَائِد فَرَقَة عَسْكَرِيَّة | فَرِيق s. m.
- Brigantine s. f., Brigg s. f. | مَرَكَب
 صَغِير دُو قَلُوع.
- Brillant s. m. | مَاز * | مَاس
 بَهِيّ a.
- Brille s. f. | نَظَّارَات | نَظَّارَة
 غِلَاف النَظَّارَة | -n-futteral s. n.
 زُجَاجَة | -nglas s. n. | يَيْت النَظَّارَة
 نَوْع مِن | -nischlange s. f. | النَظَّارَة
 الحَيَّات.
- bringen va. jm. etw. | آتَى i ه ب
 (trans- | جَاب i ه * | جَاء i ه ب
 portieren) | نُقِل u ه | Frucht -
 آمَات | سَبَب المَوْت - | آتَمَر
 | خَسَرَ ه - | ju. um etw.

schnell etw. - zu jm. a. عَجَلَ |
 sich um's Leben - بِهٖ اِلَيْهِهٖ |
 in. unter die قَتَلَ u نَفْسَهُ |
 Erde - اَمَاتَ s | etw. vor sich -
 اِكْتَسَبَ | etw. zu Stande, zu
 Wege - اَنْجَزَ هـ | jm. Glück oder
 Unglück - سَبَبَ لَهُ الْخَيْرَ اَوْ الشَّرَّ -
 jm. zu etw. - حَمَلَ i هـ عَلٰى |
 es mit sich - هـ u طَلَبَ .
 Brise s. f. نِسَامِ pl. نِسِيمِ .
 bröckelicht, bröckelig a. سَهْلٌ
 bröckeln vn. تَفَتَّتَ | التَّفَتَّتَ
 Brocken s. m. قِطْعَةٌ (خُبْزٍ) pl. قِطَعٌ |
 زَلَّةٌ | قَشِيْشٌ | قُشَاشٌ | شَقْفَةٌ *
 brocken va. Brod خُبْزٍ .
 brodeln vn. i غَلَى | u فار .
 Brodem s. m. بُخَارٌ .
 Brofat s. m. دَبَابِيحِ pl. دِبَابِجِ *
 قُمَاشٍ مُّقَصَّبٍ * | سُنْدُسٍ *
 زَرَكَشِي * .
 Brombeere s. f. ثَوْتٌ | ثَوْتٌ pl. فِرْصَادٌ |
 شَمَامِيْلٍ pl. شَمُوْلٍ * | فَرَاصِيْدٍ
 Brombeerstrauch | كُبُوْشٍ pl. كَبُوشٍ
 s. m. عَدِيْقٌ .
 Bronn s. m., Bronnen s. m. poet.
 يَنْبُوْعٌ | عَيْنٌ .
 Bronze s. f. نَحَاسِ اَحْمَرٍ | صَادِ اَحْمَرٍ

مِنْ | مِنْ نَحَاسِ اَحْمَرٍ - ا | قُلْزٌ
 لَوْنٌ هـ | قُلْزٌ | bronzieren va. etw.
 بِلَوْنِ الْقُلْزِ .
 Brosame s. f. دُقَاقِ الْخُبْزِ | فُنَاتٌ |
 فَضَلَاتِ الْاَكْلِ | فُنَائِثٌ pl. فَنِيْتَةٌ .
 Bröschen s. n. لَوْزَةٌ الْعِجْلِ .
 broschieren va. Buch الْكِتَابِ u صَبَرَ |
 Broschüre | شَدَّ u اَوْرَاقِ الْكِتَابِ
 s. f. رَسَائِلِ pl. رِسَالَةٍ | كُرَاسَةٍ .
 Brot s. n. خُبْزٍ | عَيْشِي * äg. | ein
 رَغِيْفٌ (- Laib) - | خُبْزَةٌ -
 pl. رُغْفَانٌ u. رُغْفٌ u. اَرْغَفَةٌ .
 dünnes, flaches - رِقَاقٍ pl. رِقَاقٍ |
 trockenes - (Unterhalt) - خُبْزٌ بِلاَ اَدَمٍ -
 مَعِيْشَةٌ | مَعَاشٌ | عَيْشِي (halt)
 | الْكُفْفِ - das tägliche | قُوْتٌ
 | الْكُفَافِ | sein - verdienen, sein -
 كَسَبَ i مَعَاشَهُ | haben, finden
 | كَسَبِ الْمَعَاشِ s. m. -erwerb
 | -frucht s. f. قَمْعٌ | -herr s. m.
 اِنَاءٌ s. m. -forb | شَاغِلِ الْفَعْلَةِ
 - - | قَفَّةٌ لِلْخُبْزِ | خُبْزٍ
 | قَلَّلَ مَعَاشَهُ | höher hängen
 | الْبُوبِ pl. لُبِّ الْخُبْزِ s. f. -frume
 | -los a. عَدِيْمٍ | شَوَابِيَةٍ s. f. -fruste
 | -neid s. m. غِيْرَةٌ مِنْ | الْمَعَاشِ
 | -rinde s. f. | -fruste | خَيْرِ الْقَرِيْبِ

-schnitt s. f. | قِطْعَةُ الخُبْزِ | -studium
s. n., -wissenschaft s. f. | مَدَارِسَةٌ
لِأَجْلِ كَسْبِ المَعِاشِ.

Bruch s. m. | انْقِطَاعٌ | انْكِسَارٌ | كَسْرٌ
- (im | انْقِطَاعٌ | انْفِطَاتٌ | انْشِقَاقٌ
Leibe) | قُرْقٌ * | فَتَقٌ | أُدْرَةٌ | أُدْرَةٌ (Ader)
- (Nabel-) | بَجَجَرٌ | einen - haben
a | أُدِرٌ | a | بَجَجَرٌ - (einer Zahl)
| in die | كُسُورٌ pl. | كَسْرٌ (العَدَد)
Brüche gehen i ضَاع.

Bruch s. m. u. s. n. | مُسْتَنْقَعٌ (Moor)
غَيْضَةٌ.

Bruchband s. n. | لِفَافَةٌ | ضِمَادٌ لِلأَدْرَةِ
brüchig a. | سَهْلٌ | سَهْلٌ | الِانْكِسَارِ
Bruchrechnung s. f. | التَّفْتِيتُ
Bruchstück s. n. | الحِسَابُ | بِالكُسُورِ
| قِطْعَةٌ pl. | كِسْرٌ pl. | كِسْرَةٌ
| أَجْزَاءٌ pl. | جُزْءٌ.

Brücke s. f. | قَنَاطِرٌ pl. | قَنْطَرَةٌ
| مَعَابِرٌ pl. | مِعْبَرٌ | جُسُورٌ pl.
- bauen, | قَنْطَرَةٌ i بَنَى |
jm. eine goldene - bauen | سَهْلٌ
-nbau | لَهُ الرُّجُوعُ عَنِ الأَمْرِ
s. m. | بِنَاءُ القَنَاطِرِ | -ngeld s. n.
| أُجْرَةُ العُبُورِ بِقَنْطَرَةٍ | -njoch s. n.
| صُفُوفٌ pl. | صَفٌّ | أَوْتَادُ القَنْطَرَةِ
-nkopf s. m. | رَأْسُ القَنْطَرَةِ

رُكْنٌ s. m. | -npfeiler s. m. | عِنْدَ قَنْطَرَةٍ
-nschanze s. f. | أَرْكَانٌ pl. | القَنْطَرَةِ
f. | -nkopf | -njoch f. | -ngeld.

Bruder s. m. | إِخْوَانٌ u. | إِخْوَةٌ pl. | أَخٌ
- (von derselben Mutter) | شَفِيقٌ
| أَخَاهُ - | إِس. - | أَشْقَاءٌ pl.
- (Kamerad) | رُفَقَاءٌ pl. | رَفِيقٌ
-, frommer - (Mönch) | رَاهِبٌ pl.
| Brüdergemeinde s. f. | رُهْبَانٌ
| christl. | الجَمَاعَاتُ الدِّينِيَّةُ
Bruderkrieg s. m. | حَرْبٌ بَيْنَ
brüderlich a. | تَبَعَةٌ | شَعْبٌ | وَاحِدٌ
| أَخُوَّةٌ s. f. | Brüderlichkeit
| أَخَوِيٌّ
Brudermord s. m. | إِخَاوَةٌ | إِخَاءٌ
Brudermörder s. m. | قَتْلُ الأَخِ
Bruderschaft s. f. | قَاتِلُ الأَخِ
Brüderschaft s. f. | جَمْعِيَّةٌ | أَخَوِيَّةٌ
| mit jm. - machen | تَأَخَى |
jm. - trinken | شَرِبَ مَعَهُ | عَلامَةً
للأخُوَّةِ.

Brühe s. f. | مَرَقَةٌ | مَرَقٌ | سَلْسَا *
brühen va. etw. | سَمَطٌ u. | ه
warm a. | حَارٌّ | كَالسَّمِيطِ
brüllen vn. (Löwe) | زَارٌ | (Stier)
| جَارٌ | bld. - (Mensch) | صاح
- (Sturm, Meer) | عَجٌّ | u. i
s. n. | زَيْبِرٌ (des Löwen) | - (des

- Stiers) | جَوَّار (des Meeres, Sturms) هَدِير.
- Brumm-bär s. m. رَجُلٌ كَثِيرٌ | كَمَنَجةٌ كَبِيرَةٌ - baß s. m. | التَّائِبُ -eln vn. | دَمَدَمَ | تَذَمَّرَ | مَرَمَرَ -en | (Insekt) | هَمَمَ (Tier) vn. | مَرَمَرَ | تَذَمَّرَ | دَمَدَمَ - bld. | طَنَّ -ig a. | كَثِيرٌ التَّائِبُ | خَذَارِيفٌ pl. | خَذُرُوفٌ s. m. | يَرَامِعٌ pl. | يَرْمَعُ | دَوَامَةٌ | خَرَارَةٌ
- brünett a. سَمْرَاءٌ f. | أَسْمَرُ الوَجْهِ pl. سُمُرٌ.
- Brunft s. f. طَلَبُ التَّعْشِيرِ (عِنْدَ) | طَلَبُ (بَعْضُ الحَيَوَانَاتِ) | حَائِلٌ | طَالِبٌ -ig a. | التَّعْشِيرِ
- Brunnen s. m. | آبَارٌ pl. | بِئْرٌ | öffentlicher - | سَبِيلٌ (Zisterne) | Presse s. f. | صِهْرِيَجٌ | جِبَابٌ pl. | قُرَّةٌ | قُرَّةٌ | جِرْجِيرٌ | حُرْفُ المَاءِ العَيْنِ.
- Brunst s. f. (Der Tiere) طَلَبُ التَّعْشِيرِ | طَالِبٌ - | in der (حَيَوَانَاتِ) | هَوَى (sinnliche Liebe) - | حَائِلٌ | brünstig a. | حَرِيقٌ (Feuers-) - | مَوْلَعٌ bld. | حَائِلٌ | طَالِبٌ (Tier) | بالهَوَى.
- brüsst a. | حَدَا | خَشِنٌ.
- Brust s. f. | صُدُورٌ pl. | صَدْرٌ - bld. - | قَلْبٌ | ضَمِيرٌ | صَدْرٌ | بَزَائِبِلٌ pl. | بَزْوَلَةٌ* | أَتْدَاءٌ pl. | ثُدَى | أَرَضَعَ | einem Kinde die - | گَبَنَ | تَكَبَّرَ | طِفْلًا | sich in die - | werfen | jm. den Dolch in die - | stoßen | -bein | سَبَبٌ لَهُ حُزْنًا شَدِيدًا | -beflemmung | قَصَصٌ | قَصٌّ s. n. | -bild s. n. | ضَيْقُ الصَّدْرِ s. f. | رَسْمٌ نِصْفُ الإِنْسَانِ الفُوقَانِيّ.
- brüsten v. | افْتَخَرَ | افْتَخَرَ | sich
- Brust-harnisch s. m. | صُدْرَةٌ الدِرْعِ | جَوْفٌ s. f. | صُدْرِيَّةُ الدِرْعِ | -höhle s. f. | جَوْفٌ | -fasten s. m. | صَدْرٌ.
- Brüstung s. f. | حَوَاجِزٌ pl. | حَاجِزٌ | شَوَارٌ*.
- Brust-warze s. f. | حَلْمَةٌ الثُدَى | -wassersucht | أَبْرَازٌ u. | بَزَازٌ pl. | بَزٌّ* | إِسْتِسْقَاءُ الصَّدْرِ s. f. med. | -wehr s. f. | Brüstung.
- Brut s. f. (Brüten) | حِضَانٌ - | (die Küchlein) | صَيِّصَانٌ* | فِرَاحٌ | أَفْرَاحٌ (Fisch-) | سُمَيْكَاتٌ لِلتَّنَاسُلِ - | دُرِّيَّةٌ (إِحْتِفَارًا) (verächtlich) - bld. - | وَحْشِيٌّ | بَهِيمِيٌّ | وَحْشِيٌّ s. f. | تَوَحَّشٌ | بَهِيمِيَّةٌ s. f. | وَحْشِيٌّ.

brüten vn. حَضَنَ u البَيْضَ | bld.
 über etw. - أَضْمَرَ هُ فِي نَفْسِهِ -
 Bruthenne s. f. رُنُقَاوَاتِ pl. رُنُقَاءِ |
 قُرُقَةٌ *
 Bruttogewicht s. n. وَزْنُ البِضَاعَةِ |
 مَعَ غِلَافِهَا
 Bube s. m. وَكِدٌ | الذَّكَرُ مِنَ الأَوْلَادِ |
 غُلَامٌ | صِبْيَانٌ pl. صِبْيٍ | أَوْلَادٌ pl.
 رَجُلٌ (Schurke) - | غِلْمَانٌ pl.
 خَبِيثٌ pl. خَبِيثَاءِ - (im Karten-
 spiel) | مُفْرَشِشٌ * | أَعْرَجٌ (spiel)
 -nhaft a. | خَبِيثٌ s. m., Büberei
 s. f. | عَمَلُ السُّوءِ | خُبْتُ s. f.
 bübisch a. | امْرَأَةٌ خَبِيثَةٌ s. f.
 خَبِيثٌ
 Buch s. n. كِتَابٌ pl. كُتُبٌ |
 تَأْلِيفٌ | تَصَانِيفٌ pl. تَصْنِيفٌ |
 pl. جُزْءٌ (Teil eines Werkes) -
 pl. قِسْمٌ | فُصُولٌ pl. فُصُلٌ | أَجْزَاءٌ
 دَفْتَرٌ (des Kaufmanns) - | أَقْسَامٌ
 يُذَكَّرُ فِيهِ البَيْعُ وَالشِّرَى يَوْمِيًّا
 رِزْمَةٌ أَوْرَاقٌ (Papier) - | فُنْدَاقٌ
 آلفٌ - schreiben ein | رِزْمٌ pl.
 قرأاً - verschlingen ein | كِتَابًا
 wie ein - sprechen | الكِتَابِ بِرَغْبَةٍ
 -binder s. m. | تَكَلَّمَ بِفِصَاحَةٍ
 -drucker s. m. | مُجَدِّدُ الكُتُبِ

-druckerei s. f. | طَبَاعٌ | مَطْبَعِيٌّ
 -druckerei- | مَطَابِعٌ pl. مَطْبَعَةٌ
 besitzer s. m. | صَاحِبُ مَطْبَعَةٍ
 -druckerkunst s. f. | طِبَاعَةٌ |
 الطَّبْعُ
 Buche s. f. | شَجَرُ زَيْنٌ | شَجَرُ زَانٌ
 Buchecker | شَجَرُ عَيْشِ السِّيَاحِ
 s. m. | ثَمْرَةٌ شَجَرَةِ السِّيَاحِ
 a. | مِِنَ شَجَرِ زَانٍ
 buchen va. etw. فِي دَفْتَرٍ هُ
 التَّاجِرِ
 Buchenholz s. n. | خَشَبُ زَانٍ
 Bücher-brett s. n., -gestell s. n.,
 -regal s. n. | رُفُوفٌ pl. رَفٌّ لِّلْكَتُبِ
 -schrank pl. خِزَانَةٌ لِّلْكَتُبِ
 -wurm s. m. | خَزَائِنٌ | دُودَةٌ لِّلْكَتُبِ
 bld. | رَجُلٌ مُشْتَغِلٌ دَائِمًا بِمُطَالَعَةِ
 الكُتُبِ
 Buchfink s. m. zool. | بَرَقِشٌ pl.
 بُجٌّ * | شِرَاشِيرٌ pl. شَرَشُورٌ | بَرَاقِشٌ
 Buch-führer s. m., -halter s. m.
 -händler | دَفْتَرَجِيٌّ * | دَفْتَرْدَارٌ *
 s. m. | بِيَّاعُ كُتُبٍ | كُتَيْبِيٌّ s. m.
 -handlung s. f., -laden s. m.
 -macher | مَخْزِنٌ pl. مَخَازِنٌ | كُتُبٌ
 s. m. | رَجُلٌ مُقَيَّدٌ امْرَأَهَاتِ فِي
 سِبَاقِ الخَيْلِ

Buch s. m., Buchsbaum s. m.

شِمُشَار* | بَقُوس

Buchschuld s. f. دَيْنٌ مُقَيَّدٌ فِي دَقْتَرِ

التاجر.

Büchse s. f. حُقَّةٌ | عُلْبَةٌ pl.

نَوْعٌ مِنَ (Art Flinte) - | حُقَقٌ pl.

قرابينه* | البنادق

-ngemüse | لَحْمٌ مَكْبُوسٌ فِي عُلْبٍ

s. n. خُضَارٌ مَكْبُوسٌ فِي عُلْبٍ s. n.

Buchstabe, Buchstaben s. m. حَرْفٌ

buchstabieren | أَحْرَفٌ u. حُرُوفٌ pl.

هَجَا u حُرُوفِ الْكَلِمَةِ ein Wort

buchstäblich a. حَرْفِيٌّ | هَجَى هـ

بِحَسَبِ الْمَعْنَى | بِحَسَبِ النَّصِّ

بتدقيق | اللَّفْظِيَّ

Bucht s. f. خَلِيجٌ pl. خُلُجٌ u. خُلُجَانٌ

Buchtitel s. m. اسْمُ الْكِتَابِ pl.

عُنْوَانٌ | صَدْرُ الْكِتَابِ | أَسْمَاءُ

الكتاب.

Buchweizen s. m. حِنْطَةٌ سَوْدَاءُ

Buckel s. m. حَدْبَةٌ | - (des Kamels)

ظَهْرٌ (Rücken) - | أَسْنِمَةٌ pl. سَنَامٌ

ein - voll Schläge ضَرَبَاتٌ مُتَوَاتِرَةٌ

يَعْمَلُ حَتَّى يُجِدَّ - der

buckelicht, buck-

licht, buckelig, bucklig a. أَحْدَبٌ

f. حَدْبَاءٌ pl. أَحْدَبٌ | - - fein

a. حَدِيبٌ.

bücheln v. sich انْحَنَى | تَطَاطَأَ u انْحَنَى*

Büchling s. m. (Verbeugung)

einen - machen | انْحَنَى

a. انْحَنَى | خَضَعَ a.

Büchling s. m. (Fisch) * أَرْدَكَةٌ مُدَحَّخَةٌ

(نَوْعٌ مِنَ سَمَكِ الْبَحْرِ) أَرْدَكَاتٌ pl.

Bude s. f. دُكَّانٌ صَغِيرٌ pl. دُكَّائِينَ

حُجْرَةٌ - stud. | أَكْوَاخٌ pl. كُوخٌ

تَلْمِيذٌ فِي دَارِ الْفُنُونِ

Budget s. n. مِيزَانِيَّةٌ

Budifer s. m. حَانُوتِيٌّ

Büffel s. m. جَوَامِيسٌ pl. جَامُوسٌ

-leder s. n. جِلْدُ الْجَامُوسِ

أَتْعَبَ نَفْسَهُ بِالشُّغْلِ vn. stud.

Büffet s. n. إِخْرَانَةٌ لِأَدَوَاتِ الطَّعَامِ

خَرَسْتَانَاتٌ pl. خَرَسْتَانٌ * | بَيْفَةٌ *

Bug s. m. آبَاضٌ pl. أَبْضٌ | - des

Pferdes الصَّفْعُ مِنَ كَيْفِ الْفَرَسِ

- des Schiffes صَدْرُ الْمُرْكَبِ

مُقَدَّمُ الْمُرْكَبِ

Bügel s. m. أَدْنُ الْآلَةِ pl. آذَانٌ

رِكَابٌ (Steig-) | حِنَايَةُ الْقَوْمِ

pl. رُكْبٌ u. رِكَابَاتٌ | -brett s. n.

مِكْوَاةٌ * | لَوْحٌ الْحَيَّاطِ -eisen s. n.

- pl. مَكَاو | -los a. بلا رِكاب | -n va. Bulldogge s. f. zool. كَلْبٌ قَصِيرٌ
 etw. * كَوَى i ه *
 القامة كَبِيرُ الْفَكِّيْنِ
- bugfieren va. Schiff المَرْكَبِ u جَرَّ | Bulle s. m. ثَوْرٌ pl. ثَيْرَانٌ.
 سَحَبَ a ه
 بَرَاءَةُ الْبَابَا | بُوْلَةٌ *
 Bullenbeißer s. m. f. Bulldogge.
- Bugsprriet s. n. صَدْرُ المَرْكَبِ | مُقَدَّمُ
 المَرْكَبِ.
 Bulletin s. n. الْأَخْبَارُ الْيَوْمِيَّةُ
 بِأَحْوَالِ الْمُلُوكِ مِثْلًا.
- Buhl-dirne s. f. عَاهِرَةٌ pl. عَوَاهِرٌ |
 عَائِشِقٌ -e s. m. | فاجِرَاتٌ pl. فاجِرَةٌ
 - s. f. | عَشَّاقٌ u. عَائِشِقُونَ pl.
 -en vn. mit عَوَائِشِقٌ pl. عَائِشِقَةٌ
 um js. Gunst - زَنَى i مَعَهَا jm.
 -er s. m. | طَلَبَ u عِنَايَتَهُ
 | زِنَى | زِنَاءٌ s. f. -erei pl. زِنَاةٌ
 -erisch | زَوَانٍ pl. زَانِيَّةٌ s. f. -erin
 | عَشَّقَ | زِنَاءٌ s. f. -schaft | زِنَوَى a.
 -schwester s. f. f. -dirne.
- Bühne s. f. (Gerüst) تَحْتٌ pl. تَحْتُونَ |
 (Des صِقَائِلُ pl. صِقَالَةٌ *
 Theater) مَلْعَبٌ pl. مَلَاعِبٌ |
 (Redner-) مَرَايِحُ pl. مَرُوسِحٌ *
 -ndichter s. m. | مَنَابِرٌ pl. مَنَابِرٌ
 -ngerecht | مَوَلَّفَ رِوَايَاتِ التِّيْبَاتِرُو
 | مَوَافِقِ المَرُوسِحِ a. رِوَايَةٌ s. n. -spiel
 | المَرُوسِحِ s. n. -weisen | أحوال
 التِّيْبَاتِرُو | المَرُوسِحِ.
- Bulgarien n. pr. بِلَادُ الْبُلْغَارِ.
- Bund s. m. (Band) رِبَاطٌ pl. رِبُطٌ |
 (an Hosen) رِبُطَاتٌ pl. رِبْطَةٌ *
 (an Frauenröcken) تِكَّةٌ pl. تِكَّةٌ
 - | مِشَدٌ | (zusammengebundene
 Sache) حُزْمَةٌ pl. حُزَمٌ | (Bünd-
 nis) مُعَاهَدَةٌ | عُهُودٌ pl. عُهُودٌ
 | مُعَاهَدٌ | einen - | مُحَالَفَةٌ
 -brüchig a. نَاقِضُ العُهُودِ.
- Bündel s. n. حُزْمَةٌ pl. حُزَمٌ.
- Bundesbruch s. m. نَقْضُ العُهُودِ |
 حُلَفَاءٌ pl. حَلِيفٌ s. m. -genosse
 | مُعَاهِدٌ | -genossenschaft
 | مُعَاهَدَةٌ s. f. -lade | مُحَالَفَةٌ
 | مَجْلِسُ شُورَى الْمُحَالَفَةِ -rat s. m.
 | دَوْلَةٌ اتِّحَادِيَّةٌ pl. دَوْلٌ -staat s. m.

- stud. pl. تَلْمِيذٌ فِي دَارِ الْفُنُونِ
 عَيْشَةٌ -nleben s. n. stud. | تَلَامِيذَةٌ
 -nschaft | التَلْمِيذُ فِي دَارِ الْفُنُونِ
 s. f. stud. مَخْصُوصٌ مِنْ
 الْجَمْعِيَّاتِ يَبْنِي التَلَامِيذَةَ فِي دَارِ
 بِنُوعِ | burschifos a. stud. الْفُنُونِ
 التَلَامِيذَةَ فِي دَارِ الْفُنُونِ
 Bürste s. f. فُرْشَةٌ * | فُرْشَةٌ
 | فُرْشَةُ الشَّعْرِ -Haar | بَرَانِشِم
 Kleider- | فُرْشَةُ الشَّنْبِ -Bart
 فُرْشَةُ -Sahn | فُرْشَةُ الْمَلَابِسِ
 مَسَحَ -n va. etw. a | الْأَسْنَانَ
 -nbinder s. m. | وَنَظَّفَ هُ بِالْفُرْشَةِ
 صَانِعِ الْفُرْشَاتِ
 Bürzel s. m. (der Vögel) زِمِكٌ
 | زِمِكِي (الطُّيُورِ)
 Wurzelbaum s. m. اِنْقِلَابٌ | قَلْبَةٌ
 | einen - schlagen, schießen
 كَبَّةً | اِنْكَبَ | اِنْكَبَ
 Busch s. m. (Gebüsch) دَغَلٌ pl.
 جِبَابٌ pl. جُبٌّ * | اَدْغَالٌ u. دِغَالٌ
 (Büschel Pflanzen zc.) | اَجْبَابٌ u.
 | طاقات pl. باقة | باقات pl. باقة
 | حُصَلَةٌ pl. حَصَلَةٌ (Haare) -
 شَوْشَةٌ * | كُشَشٌ pl. كُشَّةٌ | قَلِيلٌ
 Büschel s. n. حَصَلَةٌ | باقة | باقة
 buschicht, buschig a. كَثِيرِ الدَّغَلِ |

Busch- | مُلْتَفٌّ | جَنِيْلٌ | كَثِيْفٌ
 flepper s. m. قاطِع طَرِيقٍ pl.
 حَرَامِيٌّ * | لُصُوصٌ pl. لَصٌّ | قُطَاعٌ
 Buschmann s. m. | حَرَامِيَّةٌ pl.
 Buschwerk | ساكِنٌ فِي الْأَدْغَالِ
 s. n. دَغَلٌ.

Busen s. m. (Brust) | تَدْيٌ | صَدْرٌ
 - | خَلِجٌ pl. خَلِيْجٌ (Meer-) -
 -freund s. m. | جُونٌ * | خُلْجَانٌ
 | خِلَانٌ u. أَخْلَاءٌ pl. خَلِيْلٌ
 -streif s. m. مَقْدَمٌ فِي
 الْقَمِيصِ.

Busfard s. m. zool. نَوْعٌ مِنَ الْبَازِ.

Büste s. f. صُورَةٌ رَأْسِ الْمَرْءِ وَصَدْرِهِ.

Buße s. f. تَوْبَةٌ | - thun u تاب |
 جزاء | دِيَابٌ pl. دِيَةٌ (-Geld) -
 büßen va. die Begierde, | نَقْدِيٌّ
 | اَرْضَى الْحَوَى | اَزْوَى الْحَوَى
 | تاب u - | اشبع الغليل
 | كَفَّرَ عَنْ - | für etw.
 | دَفَعٌ a مَصَارِيْفُهُ | الأمر
 | bußfertig a. | رَجُلٌ تَائِبٌ s. m.
 | تَائِبٌ | Bußfertigkeit s. f. تَوْبَةٌ
 Bußtag s. m. يَوْمُ التَّوْبَةِ.

Butife s. f. دُكَّانٌ pl. دَكَكِيْنٌ |
 حَوَانِيْتٌ pl.

Butt s. m., Butte s. f. نُوْعٍ مِنْ سَمَكِ الْبَحْرِ.

Bütte s. f. خَابِئَةٌ pl. | خَوَابٍ pl. دَسْتٌ لِلغَسِيلِ | دِنَانٍ pl. دُسُوتٌ.

Büttel s. m. حُجَّابٍ pl. | حاجِبٍ pl. ضَبَّاطٍ pl. ضَابِطٌ * | رَسُولِ الْمَحْكَمَةِ.

Butter s. f. زُبْدَةٌ (frische) | زَبْدٍ | زَغِيدٍ | سَمْنٍ (zerlassene) -
-bemme s. f. | Butterbrot | -blume
s. f. bot. هِنْدِبَاءٌ بَرِّيَّةٌ | سِنٌّ | هِنْدِبَاءٌ بَرِّيَّةٌ
قِطْعَةٌ رَفِيْعَةٌ -brot s. n. | الأَسَدُ
-faß s. n. | من الخُبْزِ عَلَيْهَا زُبْدَةٌ
| مَمْحَضَةٌ | مَمْحَضٍ | مَرَابِدٍ pl. مَرَبِدٍ
-händler s. m. | سَمَّانٍ | -milch s. f.
-n va. Milch | نَجِيْرَةٌ | صَحِيْرَةٌ
-stulle s. f. | مَمْحُضٌ a اللَبَنُ
Butterbrot | -weich a. مُرْتَجٍ
كالزُبْدَةِ.

ج

(Siehe auch unter K und Q)

الحَرْفُ الثَّلَاثُ مِنْ حُرُوفِ الْحِجَاءِ c

Cafe s. n. قَهْوَةٌ pl. قَهْوٍ.

Campagne s. f. غَزَاةٌ pl. | غَزَوَاتٍ pl. مَغَازٍ pl. مَغْزَى | غَزَاوَةٌ | غَزُوٌ.

Canaille s. f. أَسَافِلُ الْقَوْمِ | أَوْبَاشٍ | الْقَوْمِ.

Caprice s. f. مُرَادٌ دُونَ دَاعٍ | هَوَى | أَهْوَاءٍ pl.

Carcer s. n. سِجْنٌ فِي الْمَدَارِسِ.

Carriere s. f. حِرْفَةٌ | صِنَاعَةٌ | شُغْلٌ | تَقَدَّمَ وَظَيْفَةً - machen.

Cäsar n. pr. قَيْصَرٌ pl. قِيَاصِرَةٌ.

Cäfareia n. pr. قَيْصَرِيَّةٌ.

Castagnette s. f. صَنْجٌ * pl. | صُنُوجٌ | شُقَيْفَةٌ * | مِسْفَقَةٌ *.

Casus s. m. gr. إِعْرَابُ الْأَسْمَاءِ.

Cäsur s. f. metr. وَقْفٌ فِي يَتِّ | تَقْطِيعُ الشِّعْرِ | شِعْرٌ.

Ceder s. f. bot. أَرُزٌ coll. | eine -
من خَشَبٍ a. -n | أَرَزَاتٍ pl. | أَرُزَةٌ
الأَرُزُ.

cedieren va. etw. عن تَنَازَلٍ | تَرَكَ u ه.

Cement s. m. مِلاطٌ | لاقُوْنَةٌ * | أَفْرَنْجِيَّةٌ *.

cenfieren va. etw. اِنْتَقَدَ | Cenfor
s. m. رَقِيْبٌ | مُوَدِّبٌ | فَاحِصٌ pl.

اِنْتِقَادٌ | Censur s. f. فَحْصٌ | رُقْبَاءُ | (Zeugnis) - | تَوْبِيْغٌ | تَأْنِيْبٌ

شَهَادَةٌ فِي الْمَدَارِسِ.

Centimeter s. n. الْجُزْءُ الْمِئَّةُ مِنَ الْمِتْرِ.

Centner s. m. قَنْطَار pl. قَنْطِير.

central a. مُتَوَسِّط | مَرْكَزِي.

centrifugal a. مُبْتَعِد من المَرْكَز | Kraft s. f. مُبْتَعِد من الوَسَط | قُوَّة دَافِعَة.

centripetal a. طَالِب المَرْكَز | مَائِل | إِلَى المَرْكَز.

Centrum s. n. وَسَط | مَرَاكِز pl. مَرْكَز.

Ceremonie s. f. رُتْبَة pl. رُتَب.

ohne | طُقُوس pl. طُقُوس | تَشْرِيف

Ceremoniell s. n. | بلا تَكْلِيف -n

Ceremonien-

meister s. m. | تَشْرِيفَانِجِي *.

ceremoniös a. كَثِير التَّكْلِيف.

cernieren va. Stadt zc. حَاصِر المَدِينَة.

أَحَاط بِهَا.

Certifikat s. n. شَهَادَة f. Zeugniss.

Cervelatwurst s. f. نَوْع من المَقَانِق *.

Cession s. f. تَرْك | تَنَازُل عن.

Centa n. pr. سَبْتَة.

Chagrineder s. n. جِلْد مُحَبَّب.

Chaise s. f. عَرَبَة * | عَجَلَة.

Chalcedon s. m. (Edelstein) حَجَر

يَشِب أَزْرَق | يَمَانِ.

Chaldäa n. pr. كَلْدِيَة.

Chaldäer s. m., chaldäisch a. كَلْدَانِي.

Chalif s. m. خَلِيفَة pl. خُلَفَاء |

أَمِير (Beherrscher der Gläubigen) المُوْمِنِينَ.

Chamäleon s. n. حِرَابِي pl. حِرَابِي | كَثِير التَّلَوَّن bld. | جَمَل اليَهُود.

Champagner s. m. نَبِيد | شَمْبِنِيَا * | دُو رَغْوَة.

Champignon s. m. كَمَاء | فِطْر | فُقَع | عَشْر الغُرَاب.

Chan s. m. (Tartarenhäuptling)

(niederes

Gasthaus) خان pl. خانات

فُنْدُق pl. فُنْدُق.

Chance s. f. بَحْت | نَصِيب.

Chaos s. n. اِخْتِلَاط bld. | خَوَاء.

Charade s. f. حَزْوَرَة * | أَلْغَاز pl. لُغَز.

Charakter s. m. طَبْع | شِيْمَة | خُلُق s. m.

pl. حَط (Handschrift) - | طَبِيعَة

| ثَابِت الطَّبْع a. -fest | خُطُوط

| بَيِّن ه | -isieren va. etw. | دُو عَزْم

| -istisch s. f. | وَصَف i ه | عَرَف ه

| -istisch a. | ما يُعَرَف | ما يُبِين

واهِى a. -los | تَعْرِيفِي | بَيَانِي

العَزِيمَة.

Charfreitag s. m. f. Karfreitag.

Charge s. f. رُتْبَة (عِنْد الضَّبَاط

خُصُوصًا).

- Charlatan s. m. حَائِلٌ مُدَّعٍ بِعِلْمٍ | فَشَارٌ* | مُتَطَبِّبٌ | الطِّبِّ
- charmant a. جَاذِبٌ | سَارٌّ جِدًّا | فَتَّانٌ | جَمِيلٌ | القَلْبِ
- Charpie s. n. اِنْسِيْلٌ | كَتِيْتٌ* | رُقُوْعٌ | نُسَالٌ
- Charwoche s. f. f. Karwoche.
- Chaussee * رَصِيْفٌ* | رَصْفٌ*
- Chef s. m. رُوْسَاءُ pl. رَثِيْسٌ
- Chemie s. f. كِيْمِيَاءٌ | Chemiker s. m. كِيْمِيَاءٌ | chemisch a. كِيْمَوِيٌّ | كِيْمِيٌّ
- Chemisett s. n. صِدَارٌ
- Cherub s. m. كُرُوْبٌ (مَلَكٌ) pl. كُرُوْبُوْنٌ
- Chiffre s. f., Chiffreschrift s. f. اَرْقَامٌ | اَصْطِلَاحِيَّةٌ فِي الْمَكَاتِبَاتِ
- Chifane s. f. مُنَاقِرَةٌ | مُمَاحِكَةٌ | ناَقِرَةٌ | مَاحِكَةٌ s. jn. chifanieren va.
- Chimäre s. f. وَاْحْشٌ وَهْمِيٌّ | خُرَافَةٌ | اَخْيَلَةٌ pl. خِيَالٌ | chimärisch | اَوْهَامٌ pl. وَهْمٌ | خُرَافَاتٌ | وَهْمِيٌّ | خَيَالِيٌّ
- China n. pr. بِلَادُ الصِّيْنِ | Chinese s. m. صِيْنِيٌّ pl. صِيْنِيُّوْنٌ | chinesisch a. صِيْنِيٌّ
- Chinarinde s. f. اَلْكِيْنَا | -baum s. m. سَجْرَةٌ اَلْكِيْنَا
- Chinin s. n. اَلْكِيْنَا
- Chios n. pr. جَزِيْرَةٌ سَاقِزٌ
- Chiromantie s. f. قِيَافَةٌ | قَنُحُ الْفَأْلِ | بِالنَّظَرِ فِي الْاَيْدِي
- Chirurg s. m. جِرَاحٌ | -ie s. f. عِلْمٌ | جِرَاحِيٌّ | -isch a. اَلجِرَاحَةُ
- Chokolade s. f. شُوْكُوْلَاْتَةٌ* | Schokolade.
- Cholera s. f. هَيْضَةٌ | اَلهَوَاءُ الْاَصْفَرُ*
- Cholerine s. f. اِسْتِطْلَاقٌ | اِسْهَالٌ | اَلْبَطْنِ
- Choleriker s. m., cholertsch a. صَفْرَاوِيٌّ
- Chor s. m. جَمَاعَةٌ مُوسِيْقِيِيْنٌ* | نُوْبَاتٌ pl. نُوْبَةٌ | im - singen | christl. (einer Kirche) | مِحْرَابٌ* | خُوْرُسٌ* | اَلتَّرَاتِيْلِ pl. تَرَاتِيْلٌ | s. m. christl. | كَاهِنٌ قَانُوْنِيٌّ | نُوْبَاتِيٌّ s. m. | كَهَنَةٌ pl. | مِرْتَلٌ فِي الْخُوْرُسِ | مِرْتَلٌ
- Chrestomathie s. f. نَجْدَةٌ | اَدَبِيَّةٌ
- Chrisam s. n. kath. اَلْمَيْرُوْنُ الْمَقْدَّسُ
- Christ s. m. نَصْرَانٍ pl. نَصْرَانِيٌّ | مَسِيْحِيٌّ pl. نَصْرَانِيٌّ

Citadelle s. f. قَلْعَة pl. قلاع | حصن | حصون pl.

Citat s. n. شَاهِدَة pl. شواهد | Citation s. f. أسانيد pl. إسناد | citieren va. مداعاة قَدَامِ القَاضِي | etw. ه u ذَكَر ه | jin. vor den Richter - داعى ه إِلَى القَاضِي -

Citrone s. f. لَيْمُونِ حَامِضِ coll. | eine - لَيْمُونَة - nbaum s. m. شَجَرَة اللَيْمُونِ.

civil a. مَدَنِيّ | أدبِيّ | -isation s. f. تَمَدَّن * | عُمُرَان | آدَب | تَأْدِيب | -isieren va. jin. ه | آدَب ه | -ist s. m. مَن لَيْسَ بِعَسْكَرِيّ | -liste s. f. مَبْلَغٌ يُعْطَى لِلْمَلِكِ | مِّن مَّالِ الْمَمْلَكَة

Clique s. f. جَمَاعَة أَشْقِيَاء | عَصَبَة | عصبات pl.

Cochénille s. f. قَرْمِزِ | قَرْمِزِ

Cocon s. m. شَرَانِقِ pl. شَرْنَقَة *

Codex s. m., pl. Codices مَجَلَّة | مَجْمُوع القَوَانِين

Cognac * كُنْيَاك

col. f. kol.

Cölibat s. m. عَزْبَة | عَزُوبَة | im - leben u عَزَب.

com. f. kom.

Commis s. m. مَوْظَّفٌ فِي مَحَلِّ بِيحَارِيّ | دَوَّارِ - | مُسْتَحْدَمِ

مُسَافِرٍ يَبِيعًا لِبَضَائِعِ تَاجِرٍ.

Commune s. f. f. Kommune.

Compagnie s. f. شَرِكَة | mil. - فِرْقَة | Compagnon pl. فِرَقِ العَسَاكِرِ | s. m. شَرِيكِ pl. شُرَكَاء.

Compendium s. n. كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ.

Comptoir pl. مَكَاتِبِ | f. مكاتب | Kontor.

con. f. kon.

Conto s. n. حِسَابِ | -buch s. n. -current | دَفَاتِرِ pl. دَفْتَرِ التَّاجِرِ | حساب جَارًا تَحَاسُبِ s. n.

cor. f. for.

Cordoba n. pr. قُرْطُبَة.

Cordon s. m. صَفِّ عَسَاكِرِ.

Corps s. n. (Armee-) تُورُوكِ | stud. - جَمْعِيَّةٌ بَيْنَ تَلَامِيذَة دَارِ - آراءِ جَمَاعَة - geist s. m. | الفُنُونِ

Coulisse s. f. حَائِطٌ فِي المَرَسَعِ pl. حَيْطَانِ.

Coupee s. n. قِسْمٌ عَجَلَة فِي القِطَارِ | pl. أقسام | f. Abteil.

Coupon s. m. صَكٌّ لِقَبْضِ فَائِدَة | pl. صُكُوكِ | كُوبُونِ * | صُكُوكِ

Cour s. f., jm. die - machen, schneiden

تَمَلَّقَ هـ | تَلَطَّفَ بِهِ

Couffin s. m. إِبْنُ الْعَمِّ pl. أَبْنَاءُ

بِنْتُ الْعَمِّ -e s. f. | إِبْنُ الْخَالِ
pl. بِنَاتُ | الْخَالِ | بِنَاتُ

Couvert s. n. (Briefumschlag) ظَرْفٌ

إِغْلَافٌ pl. | ظُرُوفٌ pl.
أَدَاةُ السُّفْرَةِ (beim Essen) -
لِكُلِّ نَدِيمٍ

Cultus s. m. f. Kultus.

Curfus s. m. f. Kursus.

Cyanfali s. n. حَامِضٌ مُرَكَّبٌ مِنْ
إِذْرُوجِيْنٍ وَأَزْوَتٍ وَكَرْبُونٍ وَهُوَ
سَمٌّ قَاتِلٌ

Cyflon s. m. عَاصِفَةٌ | زَوْبَعَةٌ دَائِرَةٌ

Cyflor s. m. جَبَّارٌ ذُو عَيْنٍ وَاحِدَةٌ
مَبْنِيٌّ a. -isch | فِي وَسَطِ جَبْهَتِهِ
بِحِجَارَةِ عَظِيمَةٍ

Cyflus s. m. مَجْمُوعٌ | دَائِرَةٌ

Cylinder s. m. أَسْطُوَانَةٌ pl. أَسْطُوَانِيْنَ
رُجَاجَةٌ اللَّامِبَةُ (-Lampen) -
cylindrisch | بُرْنِيْطَةٌ طَوِيْلَةٌ (-hut) -
a. أَسْطُوَانِيٌّ

Cymbel s. f. صُنُوجٌ pl. صَنْجٌ *
شُقَيْفَاتٌ pl. شُقَيْفَةٌ *

Cynifer s. m. فَيْلَسُوفٌ كَلْبِيٌّ (عِنْدُ
فَلَسِيْفَةٌ pl. | فِلَسُوفِيْنَ a.

Cynismus | وَقِحٌ | مَاجِنٌ | كَلْبِيٌّ

s. m. مَجَانَةٌ | وَقَاحَةٌ

Cypern n. pr. جَزِيرَةُ قُبْرُسٍ

Cypresse s. f. شَجَرَةُ السَّرْوِ | سَرْوٌ
شَرِيْبِيْنٌ

D

الْحَرْفُ الرَّابِعُ مِنْ حُرُوفِ الْحِجَاءِ د

da adv. (Ort) هُنَاكَ | هُنَالِكَ

فِي ذَلِكَ | تَمَّ (Zeit) | حَيْثُ wo -

حَضَرَ u - | فِي هَذَا | الْوَقْتُ

إِجْمَاعًا | حِينَئِذٍ (Zeit) - conjct. | وَجَدَ

إِمَّا أَنْ | إِذْ إِنَّ (Grund) - | مَتَى

interject. -! | لِأَجْلِ أَنْ | بِحَيْثُ

دُونَكُمْ | دُونَكَ

dabei adv. فِي جَانِبِهِ | عِنْدَهُ

- | مَعَ ذَلِكَ (außerdem) -

كَانَ u حَاضِرًا | حَضَرَ u

Dach s. n. سَطْحٌ pl. سَطُوحٌ

سَقْفٌ | سَقْفٌ u. | سَقُوفٌ pl.

بِنَاءٌ | مُسَقِّفٌ s. m. -decker

pl. رُوْشَنٌ s. n. -fenster | السُّطُوحُ

pl. نَافِذَةٌ | كُوْوِيٌّ pl. كُوْوَةٌ | رُوْاشِنٌ

سَنْدٌ s. m. -frist | طَاقَةٌ * | نَوَافِذُ

إِجْمَالُونَ * | أَعْلَى الْبَيْتِ | السَّقْفُ

-hammer s. f. تَحْتَ السَّقْفِ

-lufe s. f. f. -fenster | -reiter

s. m. بُرَيْجٌ عَلَى سَقْفِ الدَّارِ |
-rinne s. f. مِرْزَابٌ pl. مِرْزَابِيَّةٌ |
مِيَازِيْبٌ pl. مِيَازِيْبِيَّةٌ.

Dachs s. m. zool. عِنَاقُ الْأَرْضِ |
تُقَّةٌ | تُقَّةٌ.

Dachstube f. Dachkammer | Dach-
traufe s. f. f. Dachrinne.

Dachtel s. f. لَطْمَةٌ.

dadurch adv. بِوِاسِطَتِهِ | بِهِ.

dafür adv. -halten vn. |عَنْهُ | لِأَجْلِهِ |
رَأَى | ظَنَّ u.

dagegen adv. عَنْهُ | بِضِدِّهِ.

daheim adv. فِي الْبَيْتِ.

daher adv. لِأَجْلِ ذَلِكَ | لِذَلِكَ |
- (von dort) مِنْ هُنَاكَ -

dahier adv. هُنَا.

dahin adv. -[scheiden vn. | إِلَى هُنَاكَ |
ضَاعَ | مَضَى | -fein vn. | تَوَقَّى |
فَقِدَ.

dahinten adv. فِي الْوَرَاءِ | فِي الْخَلْفِ |
dahinter adv. خَلْفَهُ | وَرَاءَهُ.

damalig a. الْكَائِنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ |
damals adv. فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ |
إِذْ ذَاكَ | وَقْتَيْدٍ | حِينَيْدٍ

damascener a. شَامِيٌّ * | دِمَشْقِيٌّ |
- Säbel, Klinge سَيْفِ شَامِيٍّ |
damascieren va. رَصَّعَ | Stahl

Damaskus | الفولاذ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
الشام * | الشام * | جَلَّقَ | دِمَشْقٌ n. pr.
Damaft s. m. نَسِيَجٌ حَرِيرٍ مُشَجَّرٍ
مُوسَى.

Dambrett s. n. رُقْعَةُ الدَّامَا *.

Dame s. f. سَيِّدَةٌ pl. سَيِّدَاتٌ |
pl. خَاتُونٌ * | سِنَاتٌ pl. سِتٌّ
لُعْبَةٌ s. n. -n|piel | خَوَاتِينُ
الدَّامَا *.

Damhirsch s. m. طَبَاءٌ pl. ظَبْيٌ |
junger - شَادِنٌ -

Damiette n. pr. دِمْيَاطٌ.

damit adv. بِوِاسِطَتِهِ | بِهِ | مَعَهُ |
- conjct. لِ | لِيَكُنْ | لِأَجْلِ أَنْ |
لِيَكَيْلًا | لِئَلَّا | - nicht | حَتَّى

Damm s. m. حَاجِزٌ | أَسَدَادٌ pl. سُدٌّ |
pl. جُسُورٌ äg. | جِسْرٌ * | حَجَزَةٌ |
- (der Straße) وَسَطُ الشَّارِعِ |
- bld. مَانِعٌ pl. مَوَانِعٌ -bau s. m.
كَسْرٌ سُدٌّ -bruch s. m. | بِنَاءُ سُدٍّ

dämmen va. etw. ه | سَدَّ ه | حَجَزَ ه |
وَقَّفَ ه | عَوَّقَ ه

Dämmer s. m. poet. f. Dämmerung |
-haft, -ig a. مُظْلِمٌ قَلِيلًا | -licht
s. n. | نُورُ الْفَجْرِ أَوْ الشَّفَقِ |
| بَزَغَ u. النُّهَارُ | طَلَعَ u. النُّهَارُ

انْسَجِر | -ung s. f. (Morgen-)
شَفَق | - (Abend-) فَجْر.

Dämon s. m. (Geist) جَان | جِن
عَفَارِيْت pl. | عِفْرِيْت | جِنَّة
شَيْطَان pl. | شَيْطَان (Teufel) -
أَبَالِسَة pl. | أِبْلِيْس *

Dampf s. m. أَبْخِرَة pl. | بُخَار
-boot | تَهْبَل * | تَهْبِيل * s. n.
وَابُور | بَوَاخِر pl. | بَاخِرَة s. n.
بَخَّر | بَخَّر -en vn. | البَحْر *

dämpfen va. طبخ الطعام
خَفَّف | - | حَقَف | Stimme
أَبْطَل ه | أَطْفَأ ه - | الصَّوْت
لَيِّن ه | سَكَّن ه

Dampfer s. Dampfboot.

Dämpfer s. m., jm. einen - auf-
setzen ه سَكَّن.

Dampf-kessel s. m. اقْزَان البُخَار *
-kraft s. f. | قُوَّة البُخَار s. f. | -maschine s. f.
آلَة | آلَة بَخَارِيَّة -roß s. n. poet.
التَّحْرِيك فِي السِّكِّك الحَدِيدِيَّة |
-schiff s. n. f. | -boot | آغ. | وَاْبُور *
-schiffahrt فِي البَحْر | سَفَر البَوَاخِر فِي
آلَة | -wagen s. m. | وَالْأَنْهَر
التَّحْرِيك فِي السِّكِّك الحَدِيدِيَّة |
آغ. | وَاْبُور *

Damwild s. n. f. Damhirsch.

danach, darnach adv. بِحَسَبِهِ | بَعْدَهُ.

Dandy s. m. غَنَادِرَة pl. | غَنَج *.

daneben adv. بِقُرْبِهِ | بِجَانِبِهِ
- (auch) | - | أَضَى (auch)
مَا أَصَاب

danieder adv. إِلَى تَحْتِ.

Dank s. m. تَشْكُر | شُكْرَان | شُكْر
Gott sei -, (Belohnung) | مُكَافَأَة
jm. | الحَمْدُ لِلَّهِ -! | dem Himmel sei -
- abstaten, sagen, spenden u شُكْر
شُكْر u ه | jm. - wissen für ه وَلَهُ
jm. etw. zu -e machen | عَلَى
-bar a. | مُتَشَكِّر | أَرْضَى ه عَنِ
عارِف الجَمِيل | شَاكِر الإِحْسَان
-barkeit s. f. | تَشْكُر | مَمْنُون *
مَعْرِفَة الجَمِيل | مُشَاكِرَة | شُكْرَان
مَمْنُونِيَّة *.

danke! أَشْكُرُ فَضْلَكَ | كَثَّرَ اللَّهُ خَيْرَكَ!
مُتَشَكِّر * | مَمْنُون *

danken va. jm. für ه وَلَهُ عَلَى |
- (den Gruß erwidern) u رَدَّ
- (ablehnen) | für etw. - | السَّلَام
مُسْتَحِقّ a. | -wert s. | رَفَضَ u ه
شُكْر | Danfsagung s. f. | الشُّكْر

dann (zu jener Zeit) فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

- | بَعْدَهُ (hierauf) - | إِذْ ذَاكَ | حِينَئِذٍ
 - u. wann أحيانًا.
- | مِنْ هُنَاكَ - | dammen adv., von
 ذاهبًا.
- | بِجَانِبِهِ | بِهِ | فِيهِ | daran adv.
 | كَادَ يَفْعَلُ | ich - sein zu thun
 | كُنْتُ رَائِحًا | war - zu schreiben
 | أَكْتُبُ *
- | بَعْدَ ذَلِكَ | عَلَيْهِ | darauf adv.
- | مِنْهُ | daraus adv.
- | افْتَقَرَ | فقر | darben vn. u.
- | عَرَضَ لَهُ | i h له | darbieten va. jm. etw.
 | داربieten | ناوَلَهُ | قدمه له
 | تقديم | عَرْضَ | s. n.
- | آتَى بِ | قدمه | darbringen va. etw.
- | بُوغاز | بُوغاز | Dardanellen s. pl. n. pr.
 | الدَّرْدَرَنِيْل | الحِصَار
- | دَارِيْنِ | دارين | دارين | darein, darin, darinnen, drinnen
 | فِيهِ | داخلًا | adv.
- | عَرَضَ لَهُ | i h له | darlegen va. jn. etw.
 | أَطْلَعَ عَلَى | أَرَى | etw. aus-
 | فصله | Darlegung | ausführlich -
 | عَرْضَ | بيان | ausführliche -
 | تَفْصِيْل
- | إِسْلَاف | (Leihen) | Darlehen s. n.
 | إِقْرَاضَ | اعارة | (geliehene Summe)
 | قُرُوضَ | قروض | pl. قرض | عارة | سلف
- | أَعَارَهُ | h | darleihen va. jm. etw.
- | دَارِيْنِ | Darleiher s. m. | أَسْلَفَهُ |
- | مُعْبِرَ | مُسَلِّفَ | مُدَايِنَ | مُدِيْنِ |
 | مُقْرِضَ
- | مُصَيِّرَ | مَصِيْرَ | Darm s. m. | أَمْصِرَةَ | pl.
- | مَعَى | مَعَى | مَعَى | معاء u. u. معى
 | مَصَارِيْنِ | pl. | وَتَرَ | faite s. f. | أَمْعَاءَ | pl.
 | أَوْتَارَ
- | بِحَسْبِهِ | بَعْدَهُ | darnach adv.
- | إِلَى تَحْتِ | darnieder adv.
- | قَلْوًا | تَحْمِيْمَ | (Rösten) | Darre s. f.
- | سِلَّ | (Krankheit) | حَمْسِ | - med. | الصُّلْبِ
- | قَدَّمَ لَهُ | i h له | darreichen va. jm. etw.
 | ناوَلَهُ
- | مَثَلَهُ | صَوَّرَهُ | darstellen va. etw.
- | وَصَفَ | شَخَّصَهُ | Darsteller s. m.
- | مُصَوِّرَ | مُشَخِّصَ | مُمَثِّلَ | مُصَوِّرَ |
 | تَمَثِّيْلَ | تَصْوِيْرَ | Darstellung s. f.
- | وَصَفَ | تَشَخَّصَ
- | بَرَّهَنَهُ | u | دَلَّ | darthun va. etw.
- | أَثْبَتَهُ | عَلَى
- | عَلَيْهِ | فَوْقَهُ | darüber adv. - u.
- | بِالْإِنْقِلَابِ | شَقَلَبَ | darunter
- | مَقْلَبَ *
- | لِأَجْلِهِ | بِهِ | darum adv.
- | لِذَلِكَ | (deshalb)

darunter adv. تَحْتَهُ | يَيْنَهُ | - u.
darüber f. darüber.

das pr. dem. هذا.

dasein vn. u. حَضَرَ | وَجِدَ | كَانَ |
Dasein s. n. حَيَاةَ | كَوْنٌ | وَجُودٌ |
حُضُورٌ.

dieselbst adv. هُنَاكَ.

daß conjct. أَنَّنْ | أَنْ.

datieren va. Brief zc. أَرَخَ الْخِطَابَ.

Dativ s. m. gr. مَفْعُولٌ لَهُ.

Dattel s. f. frische رُطْبٌ | بَلَحٌ pl.
getrocknete | أَرْطَابٌ |
- (-baum, -palme) نَخْلٌ coll. -
- fern s. m. نَخْلَةٌ - eine | نَخِيلٌ
pl. قَلْبٌ بَلَحٌ | نَوَى pl. نَوَاةٌ بَلَحٌ
عَقَائِقُ pl. عَقِيْقَةٌ | قُلُوبٌ.

Datum s. n. تَوَارِيخٌ pl. تَارِيخٌ |
das - setzen أَرَخَ.

Daube s. f. أَلْوَاحٌ pl. لَوْحٌ الْبُرْمِيْلِ.

däuchten vn., deuchten vn., mir
däucht (deucht) od. mich däucht
(deucht) يَطَّهَّرُ لِي.

Dauer s. f. دَوَامٌ | بَقَاءٌ | دَيْمُومَةٌ |
| مَاكِئِنٌ | بَاقٍ | دَائِمٌ | -haft a. مُدَّةٌ |
| -haftigkeit s. f. مَتَانَةٌ |
-lauf s. m. -lauf | بَقَاءٌ | دَوَامٌ | مَكْنَةٌ |
| -n vn. u. دام | جَرَى مُسْتَمِرٌّ

أَسِفٌ a عَلَيْهِ | - va. jii. اسْتَمَرَ |
تَأَسَّفَ عَلَيْهِ.

Daumen s. m. إِبْهَامٌ pl. أَبَاهِمٌ u.
| بَوَاهِمٌ pl. باهم * | أَبَاهِيمٌ |
den - aufs Auge halten & أَخَضَعَ |
Daumenschrauben, Daumenschrau-
ben s. pl. قَبُودٌ تُقَيَّدُ بِهَا أَبَاهِمٌ |
Däumling s. m. غِطَاءٌ |
رُجَيْلٌ (kleiner Mann) - | الإِبْهَامُ |
Daune s. f. زَغَبٌ | زَبَبٌ.

David n. pr. داوُدٌ.

davon adv. مِنْهُ | -gehen vn. انْصَرَفَ |
-helfen v. jm. سَاعَدَهُ فِي الذَّهَابِ |
-kommen vn. تَخَلَّصَ | u. نَجَا |
-laufen vn. انْصَرَفَ رَاكِبًا |
-machen v. sich انْصَرَفَ |
-tragen va. etw. كَسَبَ i ه | حَصَلَ u عَلَى

davor adv. مِنْهُ | أَمَامَهُ.

dawider adv. ضِدَّهُ | etw. - haben
عَارِضٌ.

dazu adv. مَعَ ذَلِكَ | إِلَيْهِ.

dazumal adv. حِينئِذٍ.

dazwischen | يَبْنِيهِمْ | jm. - reden
مُدَاخَلَةٌ s. f. - | قَاطَعَ كَلَامَهُ |
دُخُولٌ بَيْنَ.

Debatte s. f. مُجَادَلَةٌ | debattieren
vn. mit jm. über & جَادَلَ.

Debet s. n. ما عَلَى التاجر فى الحساب.

Debit s. n. (von Waren) رَواج
نَفَاق البَضَائِع | البَضَائِع.

Debüt s. n. -ant | اِبْتِدَاء | بَدْء
s. m. مُبْتَدِئٌ | بَادِئٌ.

December s. m. f. Dezember.

decent a. بِحَسَبِ الأَدَبِ | Decenz
s. f. حِسْمَةٌ | أَدَبٌ.

Decigramm s. n. العُشْرُ مِنَ الغرامِ.

Deciliter s. n. العُشْرُ مِنَ اللِيتْرِ.

Decimal a. -bruch | أَعْشَارِيٌّ | عَشْرِيٌّ
s. m. arithm. كَسْرُ أَعْشَارِيٍّ |
-rechnung s. f. حِسَابُ الكُسُورِ
الأَعْشَارِيَّةِ.

Decimeter s. n. العُشْرُ مِنَ المِترِ.

decimieren va. (L)eer | أَسْقَطَ بالْقَتْلِ
أَمَات كَثِيرِينَ | واحِدًا عَلَى عَشْرَةٍ
مِنْ.

Deck s. n. -bett s. n. | سَطْحُ المَرْكَبِ
وَرَقَةٌ | -blatt s. n. | حُفٌ pl. لِحَافِ
Decke s. f. | مُغَطِّيَّة السِّيكَارَةِ
| أَغْطِيَّة pl. غِطَاء (للمَغْرُوشَاتِ)
- (Pferde-) | الحُف pl. لِحَافِ (-Bett-)
حِرَام - wollene | جِلَال pl. جُلَل
سَقْف (-Zimmer) | حِرَامَات pl.
mit jm. unter | سُقُوف pl. الحُجْرَةِ
| اتَّفَقَ مَعَهُ سِرًّا - stecken einer

sich nach der - strecken نَسَبَ
Deckel s. m. | المَصَارِيفِ إِلَى كَيْسِهِ
(Buch-) | - (AGْطِيَّة pl. غِطَاء (للأَوَانِي)
decken va. etw. | جُدُّ الكِتَابِ
die Stute - (Hengst) | غَطَّى ه
anzu u عَلَيْهِ | سَفِدَ a عَلَى الفَرَسِ
den Tisch - | مَدَّ u السُّفْرَةَ -
Dach - | سَقَّفَ الدار - (be-
schützen) in. s i | حَمَى |
sich - (beschützen) | اسْتَأْمَنَ |
sich - (entsprechen) | اتَّفَقَ
Deckmantel s. m. | مَعَا
Deckung s. f. | غِطَاء | حُجَّة
مَأْمَن.

Dedikation s. f. eines Buchs اِهْدَاء
dedizieren | تَقْدِيمُ كِتَابٍ | كِتَابٍ
va. jm. ein Buch له كِتَابًا
قَدَّمَ لَهُ كِتَابًا.

Defekt s. m. | نُقْصَان | نَقْص
a. ناقص.

defensiv a. دِفَاعِيٌّ.

Deficit (Defizit) s. n. | نُقْصَان
نُقْصَان.

defilieren vn. | تَتَابَعُ.

definieren va. etw. ه | حَدَّدَ ه

Definition | شَرَحَ a مَعْنَاهُ | عَرَّفَ ه

- s. f. تَحْدِيد | تعريف | definitiv
a. قاطع | جازم | بات.
- Degen s. m. سَيْف pl. سَيْوْف |
arجل ذو شجاعة - ein guter
-gehenf s. n., -foppel s. f. حمالة
-knopf pl. حمائل | السيف
رمانة السيف.
- Degradation s. f. خَلْع مِنْ مَنْصِب |
degradieren | خراب | تلف | ذلة
va. in. من منصبه | خلع
- etw. ه. أنلف ه.
- dehnbar a. سهل التمديد | -feit
a. سهولة التمديد.
- dehnen va. etw. ه | مدد ه
Dehnung | امتد - sich | أوسع ه
s. f. امتداد | توسيع | تمديد | مدد
إتساع.
- Deich s. m. حاجز | أسداد pl. سدّ
pl. جسور | جسور* | حجرة
äg. | -hauptmann s. m. مفتش
الأسداد.
- Deichsel s. f. مجر العجلة | جرّار*
العربة.
- dein, deinig pr. poss. ك | ك | dein
Buch | كتابك od. كتابك
halten, deinetwegen, um deinet-
willen بسببك.
- Defaden; s. f. انحطاط.
- Defalog s. m. christl. العشر الكلمات.
- Deflamation s. f. إنشاد | Deflamator
| مُنشِد | deflamieren va. Verse
أنشد الأبيات.
- Deflination s. f. gr. تصريف الأسم
deflinieren va. das Nomen gr.
صرف الأسم.
- Deforateur s. m. مُزخرف |
Deforation s. f. زخرفة | زواق*
زین Theater- | تزويق* | تزيين
deforieren va. etw. المرسع
قدد ه - in. | زين ه | زخرف ه
وجه إليه نيشانا | نيشانا
- Defret s. n. أمر | منشور
pl. أوامر | أحكام pl. حكم
-ieren va. etw. أمر ب.
- Delinquent s. m. مجرم | جان pl.
مذنب | جناة.
- Delirium s. n. | هذاء | خرف
بجران* | خنزير بحريّ
دلفين* | دلافين pl.
- Delta s. n. دلّتا*.
- Demagog s. m. متعصب بثورة
مختص بثورة | -isch a. الشعب
الشعب.
- Demant s. m. ألماس.

Demarkationslinie s. f. حَطَّ فَاصِلٌ.

demgemäß, demnach adv. بِحَسَبِ
لِذَلِكَ | ذَلِكَ.

demnächst adv. عَنْ قَرِيبٍ | بَعْدَهُ.

Demission s. f. اسْتِعْغَاءٌ.

Demokrat s. m. تَابِعِ لِحُكْمِ الْجُمْهُورِ
pl. حُكْمِ الْجُمْهُورِ | -ie s. f. تَبَعَةٌ
-isch a. مُخْتَصِّ بِحُكْمِ الْجُمْهُورِيِّ
الْجُمْهُورِ.

demolieren va. etw. ه | خَرَّبَ
ه i هَدَمَ.

Demonstration s. f. اِشَارَةٌ | اِظْهَارٌ
| اِثْبَاتَاتٍ pl. | اِثْبَاتٌ (Beweis) -
demonstrieren pl. | بَرَاهِينِ pl. بُرْهَانِ
va. etw. ه | بَرَهَنَ.

demoralisieren va. jn. اَفْسَدَ اَخْلَاقَهُ.

Demut s. f. خُضُوعٌ | خُشُوعٌ | تَوَاضَعٌ
demütig a. خَاشِعٌ | مُتَوَاضِعٌ
| اَخْشَعَ | demütigen va. jn. ه | خَاضِعَ
| تَخَشَّعَ لَهُ | sich - vor jm. | دَلَّلَ ه
| تَذَلَّلَ | Demütigung s. f. تَذَلُّلٌ
| اِهَانَةٌ | تَذَلَّلَ.

Denar s. m. دِنَارٌ pl. دِنَانِيْرٌ.

dengeln va. Sense اَلْمِنْجَلُ u. سَنٌّ.

Denkart s. f. نَوْعُ التَّفَكُّرِ | denkbar
a. مُمَكِّنٌ تَصَوُّرُهُ | denken va. etw.

(glauben) ه u ظَنَّ | an etw. -

تَأَمَّلَ فِي | تَفَكَّرَ فِي | افْتَكَّرَ فِي
| ترَوَّى | is. od. an jn., etw.

| تَذَكَّرَ ه و ه | ذَكَرَ ه و ه (gedenken)
auf etw. - ه i ه | قَصَدَ | hoch hinaus -

| تَصَوَّرَ ه - | قَصَدَ i اَلْمَعَالِي
| تَخَيَّلَ ه | der Mensch denkt u.

الإنسان يُدَبِّرُ وَالله يَهْدِي
| كَثِيْرُ التَّفَكُّرِ | Denker s. m. يُقَدِّرُ

| فِلَاسِفَةٌ pl. | Denkmal
s. n., Denksäule s. f., Denkstein

pl. | اَثَرٌ | تَمَثِيْلٌ pl. | تِمْتَالٌ s. m.
| تفكير s. f. | Denkschrift آثار

| Denkspruch | عَرَضَ حَالٍ | يَبِيْنُ
s. m. | حِكْمٌ pl. | حِكْمَةٌ s. m.

Denkart s. f. | Denkart | denkwürdig
a. | مُسْتَحِقُّ الذِّكْرِ | Denkwürdig-

keiten s. pl. | تَذَاكِيْرُ حَوَادِثٍ
| مُخْتَصَّةٌ بِزَمَانِ المَوْلَفِ | Denk-

zettel s. m. | تَذَكِيْرَةٌ - (scherzhaft)
لَطْمَةٌ.

dennoch conjct. | لِأَنَّهُ | لِأَنَّ | فَانَّهُ | فَانَّ
| إِلَّا أَنْ | لِذَلِكَ (also) -

dennoch conjct. | لَكِنْ | مَعَ هَذَا
| غَيْرَ أَنْ | إِلَّا أَنْ

Denunziant s. m. | وَاشٍ pl. | وُشَاةٌ | Denim
| جَوَاسِيْسٌ pl. | جَاسُوسٌ

- ziation s. f. وَشَى | denunzieren
jn. bei بِهِ إِلَى وَشَى.
- Departement s. n. فَرْعٌ مِنَ الْإِدَارَةِ |
pl. أَفْنَادٍ | فُرُوعٍ pl.
- Depesche s. f. تَلْغَرَفٌ * | رِسَالَةٌ بَرْقِيَّةٌ
pl. تَلْغَرَفَاتٌ | eine - abschicken
ضَرَبَ i هـ | كَتَبَ u تَلْغَرَفًا
- deponieren va. etw. bei jem. أَوْدَعَ هـ.
- deportieren va. jn. نَقَى i هـ |
سَرَكَلَ هـ *
- Deposit s. n., Depot s. n. وَدِيعَةٌ
pl. وَدَائِعٍ | Depot von
Waren مَخْزِنٌ pl. مَخَازِنٌ
- Deputiertenkammer s. f. مَجْلِسٌ
نَائِبٍ | Deputierte s. m. النُّوَابُ
pl. نُوَابٌ f. Abgeordnete.
- der, die, das (Artikel) | (لام التَّعْرِيفِ) ال..
- pr. dem. هَذَا f. هَذِهِ | pr. rel.
التَّيِّ f. الَّذِي
- derart adv. هَكَذَا.
- derb a. غَلِيظٌ | خَشِينٌ -heit s. f.
خُشُونَةٌ
- dereinst adv. فِي ذَاتِ يَوْمٍ | يَوْمًا مَا
- dergestalt adv. هَكَذَا.
- dergleichen مِنْ | مِثْلُ هَذَا | كَذَا
هَذَا النَّوعِ
- derjenige, diejenige, dasjenige
welcher, -e, -es التَّيِّ f. الَّذِي
- derlei f. dergleichen.
- dermaleinst f. dereinst.
- dermalen adv. الْآنَ | dermalig a.
الكَائِنِ فِي هَذَا الْوَقْتِ
- dermaßen adv. هَكَذَا.
- dero حَضَرْتَكُمْ - (للإكرام) كُمْ
- derselbe, dieselbe, daselbe pr., der-
selbige pr. نَفْسِ الشَّخْصِ أَوْ
هِيَ | هُوَ (er, sie, es) - | الشَّيْءِ
- derweil, derweile, derweilen adv.
يَيْنَمَا | conjct. فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ
- Derwisch s. m. دَرَاوِيَشٌ pl. دَرَاوِيَشٍ
- derzeit adv. فِي هَذَا الْوَقْتِ -ig a.
الكَائِنِ فِي هَذَا الْوَقْتِ
- Deserteur s. m. هَارِبٌ مِنَ الْعَسْكَرِيَّةِ
desertieren vn. هَرَبَ u مِنْ
هُرُوبِ | Desertion s. f. الْعَسْكَرِيَّةِ
مِنَ الْعَسْكَرِيَّةِ
- desfalls adv. فِي هَذَا الْحَالِ
- desgleichen adv. أَيْضًا | مِثْلُهُ | كَذَلِكَ
- deshalb conjct. لِذَلِكَ
- Despot s. m. ظَلَمَاءٌ pl. ظُلْمٍ -ie
حُكْمٌ | ظُلْمٌ s. f., -ismus s. m.
ظُلْمِيٌّ a. -isch | مُطْلَقٌ بِالظُّلْمِ

Deffert s. n. فَاكِهَةٌ pl. قَوَاكِهِ | نُقْلُ
pl. نُقُولُ.

Destillation s. f. تَقْطِيرُ | قَطْرَانُ
| مَعْمَلُ العَرَقِ | destillieren va.
Branntwein قَطَّرَ العَرَقُ.

desto, je . . . desto كَلَّمَا.

deswegen, um deswillen بِسَبَبِ
هذا.

Detail s. n. تَفْصِيلُ | تَفْرِيقُ |
| تَقْطِيعُ | im - بالتَّفْصِيلِ - en gros
& en - بِالْجُمْلَةِ وَالْقَطَاعِيِّ * -
-lieren va. etw. هَ فَصَّلَ.

deuchen, deuchten f. دَاُحِنُ، es
deucht mir يَظْهَرُ لِي.

Deutelei s. f. شَرْحُ مُصَنِّعٍ | deuteln
vn. an etw. هَ بِنَتَصِّعٍ a شَرَحَ.

deuten va. etw. هَ ا شَرَحَ | فَسَّرَ هَ
- (Traum) هَ عَبَّرَ | vn. - auf

Deuter s. m. مُعَبِّرٌ | مُفَسِّرٌ | شَارِحٌ
| دَلَّ u عَلَى | أَشَارَ إِلَى

deutlich a. ظَاهِرٌ | صَرِيحٌ | بَيِّنٌ | وَاضِحٌ
-heit s. f. وُضُوحٌ | صَرَاخَةٌ | بَيَانٌ

deutsch a. جِرمَانِيٌّ | أَلْمَانِيٌّ
-land n. pr. الجِرمَانِيَّةُ | الأَلْمَانِيَّةُ

الكَوْنُ -tum s. n. الجِرمَانِيَا | أَلْمَانِيَا
التَّظَاهِرُ -tümelei s. f. الأَلْمَانِيَّةُ
بِالأَلْمَانِيَّةِ.

Deutung s. f. تَعْبِيرٌ | تَفْسِيرٌ | شَرْحٌ.

Dezember s. m. كَانُونُ الأَوَّلِ | دِسْمَبِرٌ.

diabolisch a. شَيْطَانِيٌّ.

Diadem s. n. عِصَابَةُ المَلِكِ pl.
عِصَابٍ.

Diagonale s. f. math. حَظٌّ مِنْ زَاوِيَةٍ
| مُقَابَلَةٌ * | إِلَى أُخْرَى مُقَابَلَةٌ لَهَا
أُورَابٍ pl. وَرَبٌ *.

Dialekt s. m. لُغَةٌ | لُحْجَةٌ
-if s. f. عِلْمُ المَنْطِقِ | -isch a.
مُخْتَصَرٌ بِلُحْجَةٍ | مَنطِقِيٌّ.

Dialog s. m. مُحَاوَرَةٌ | مُحَادَثَةٌ
| مُحَاظَبَةٌ | مُكَالِمَةٌ.

Diamant s. m. مَاسٍ | أَلْمَاسٍ
-en | مِمنِ أَلْمَاسٍ a.

Diameter s. m. قَطْرُ الدَّائِرَةِ.

diametral a. قَطْرِيٌّ.

Diarrhöe s. f. إِسْهَالٌ.

Diät s. f. تَدْبِيرُ الأَكْلِ والشُّرْبِ.

dicht a. مُتَكَثِفٌ | كَثِيفٌ

- (ganz) - | حَالِكٌ (finsternis)
nahe bei) -e s. f. مُلَاصِقٌ | f.

-igkeit.

dichten va. (dicht machen) etw.

- Gedicht a. خَتَّرَ هَ | عَقَّدَ هَ | جَمَدَ هَ

bld. دِخْتُ | اقْتَرَعُ | نَظَمَ i الشِّعْرَ

Dichten s. n. قَصْدٌ i هَ | أَلْحَمَ هَ

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------|
| das - u. Trachten | كُلِّ الْمَقَاصِدِ | -erei s. f. | سَرْقَةٌ | -isch a. | مَائِلٌ |
| Dichter s. m. | شَاعِرٌ pl. | -shandwerk s. n. | إِلَى السَّرْقَةِ | | |
| Dichterin s. f. | شَاعِرَةٌ | -slaterne s. f. | لُصُوصِيَّةٌ | | |
| dichterisch a. | نَظْمِيٌّ شِعْرِيٌّ | يَرَى حَامِلُهُ بِوَأَسِطَتِهِ وَلَا يَرَاهُ | | | |
| Dichterling s. m. | شُعْرُورٌ pl. | سَرْقَةٌ | سَرْقَةٌ | | |
| | مُتَشَاعِرٌ شَعَارِبِرٌ | | | | |
| Dichtigkeit s. f. | جَثَالَةٌ كَثَافَةٌ | Diele s. f. | لَوْحٌ خَشَبٌ pl. | أَلْوَاحٌ pl. | |
| | حَلَكٌ (der Finsternis) | -n va. | دِهْلِيْزٌ أَرْضُ الْحَجْرَةِ | | |
| Dichtkunst s. f. | فَنُّ الشِّعْرِ | fußboden | بِخَشَبِ | اِفْرَشٌ i, u | |
| | شِعْرٌ s. f. | | لَوْحٌ هَا * خَشَبٌ هَا * تَحْتِ هَا * | | |
| die (Person) | سَمِيْنٌ | dienen v. jm. | خَدَمَ u, i | Gott - | |
| die (Sache) | سَمِيْكٌ | dem Staat - u | تَعَبَّدَ | لِلْهِ | |
| (geschwollen) | وَارِمٌ | (im Heer) - | بِخِدْمَةِ الدَّوْلَةِ | | |
| (dicht) | كَثِيْفٌ | إِقْدَمَ هُ لَه | تَجَنَّدَ | jm. - mit etw. | |
| (sein u. ضخم) | سَمِكٌ u | Ihnen zu -! | حُبًّا وَكِرَامَةً | zu | |
| mit etw. - thun | بِ | etw. - | لِ | u | |
| (des Leibes) | فَشْرٌ u * | Diener s. m. | خَادِمٌ pl. | u. | |
| (von Sachen) | ضَخَامَةٌ سَمَانَةٌ | Gottes | عَبْدُ الرَّبِّ | خَدَامٌ خُدَّامٌ | |
| Knäufel | كَنْفَةٌ تَخُونَةٌ غِلَاطَةٌ سَمِكٌ | (Derbeugung) | pl. | عَبِيدٌ u. | |
| Kopf | كَنْفَةٌ الغَابَةُ | jm. einen - | خَضَعُوا | | |
| stummer | رَجُلٌ بَلِيْدٌ رَجُلٌ مُعَانِدٌ | machen لَهُ | ا | خَضَعُوا لَهُ | |
| lippig a. | دُو * دُو شَفَّةٌ ضَخْمَةٌ | Dienerin | طَاوَلَةٌ | عَلَى جَنْبِ المَائِدَةِ | |
| wanst s. m. | رَجُلٌ دُو | s. f. | خَادِمَةٌ pl. | خَوَادِمٌ | |
| | بَطْنٌ سَمِيْنٌ | pl. | جَوَارٍ pl. | جَارِيَّةٌ إِمَاءٌ pl. | |
| Didaktik s. f. | تَعْلِيْمٌ | dienern vn. a | خَضَعُوا | دِيْنِ الشَّرَفِ | |
| | تَعْلِيْمِيٌّ | s. f. | الْخَدَمُ الخُدَّامُ | دِيْنِيْحٌ a. | |
| Dieb s. m. | سَارِقٌ pl. | Dienstlichkeit | مُفِيْدٌ لِ نَافِعٌ لِ | | |
| | سَرْقَةٌ u. | s. f. | مَنْفَعَةٌ نَفْعٌ | Dienst s. m. | |

Ding s. n. pl. Dinge شَيْءٌ pl.
vor allen | أمورٌ pl. | أمْرٌ | أَشْيَاءُ
-en | قبل كل شيء | pl. Dinger
(verächtlich) | شخص (احتقارًا) |
بنات pl. | بنت.

dingen va. jn. als Diener 2c.
| استخدم | استأجر | أجره
- vn. (feilschen) mit jm. über
den Preis | جادل | في الثمن
عالمه.

dinglich a., -es Recht حق المرء
في ملك.

dingsda فلان.

dinieren vn. | تغدى | zu Mittag essen.

Dinkel s. m. نوع من الحنطة.

Dinte s. f. | Tinte.

Diocese s. f. kath. أبرشية* | أسقفية*
رعايا pl. | رعية*.

Diphthong s. m. gr. اتحاد حرفين.

Diplom s. m. براءة | إجازة | شهادة
| فرامين pl. | فرمان* | براءات pl.
| سياسيون pl. | سياسى
| سياسة s. f. | وكيل دولة
| وكلاء الدول (Die Diplomaten)
| علم | علم الموامرات s. f. |
سياسى | اتisch a. | المخابرات

direkt a. | صريح | مستقيم

adv. بلا واسطة | دغرى* | رأسًا
-ion s. f. | تدبير | إدارة
رئيسة s. f. | مدبر | مدير
dirigieren va. | في محل تجارى
دبره | اداره.

Dirne s. f. | ابنة | بنت pl. | بنات
عاهرة (-Eust) | فتيات pl. | فتاة
pl. | فاجرة | ابنة الخطاء | عواهر
شرموطه* | قحاب pl. | قحبة | فاجرات
pl. | شراميط.

Disciplin, Disziplin s. f. | تأديب
| نظام | ترتيب
تعليم (einer Wissen-
schaft).

Disfant s. m. mus. الصوت فوقانى
في الغناء.

Disfont comm. إسقاط في الحساب
أسقطه في
الحساب.

disfret a. | قطن | أمين | كاتم السر
| أمانة | كتمان السر
فطنة.

Disfussion s. f. | مُباحثة | مُجادلة
| تباحث في
| جادل | في
باحثه في.

Dispens s. m., -fation s. f. | إذن
| فسح* | تحليل | حل | سماح

جَنْبِيَّةٌ * | سَكَكِين pl. سَكِين (fl.)
 äg. | شُكْرِيَّةٌ * | yr.
 Dolde s. f. زَهْرَةٌ عَلَى شَكْلِ مِظَلَّةٍ |
 أَكْلِيل pl. إِكْلِيل زَهْرِيّ
 Dolmetsch s. m. | -er | -en va. etw.
 -er s. m. | نَقَلَ u ه | تَرَجَمَ ه
 تَرَاوَج pl. تَرَاوَجَان
 Dom s. m. كَنِيسَةٌ أُسْقَفِيَّةٌ |
 كَاهِن kath. -herr | كَتَدْرِيَّةٌ *
 جَمْعِيَّةٌ kath. -kapitel s. n. | قَانُونِيّ
 -pfaff s. m. | كَاهِنَةٌ قَانُونِيَّةٌ
 صِعَاء u. صَعَوَات pl. صَعُو
 Domäne s. f. أَمْلاَك pl. مُلْك المَمْلَكَةِ
 Domicil, Domizil s. n. مَسْكِن | مَقَرّ
 pl. مَسَاكِن
 Dominikaner s. m. kath. * | دُومِينِيكِيّ
 نَوْعٌ مِنَ الرُّهْبَان
 Domino s. n. نَوْعٌ مِنَ اللَّعِب
 بِأَحْرَاز
 Donau s. f. n. pr. نَهْرُ الطُّونَةِ
 Donner s. m. رَعْد pl. رُعُود (Blitz)
 | صَاعِقَةٌ | vom - gerührt werden
 | es | رَعَدَ | -n vn. a | أَدْعِر | صُعِق
 donnert | bld. gegen السماء
 | -schlag | أَبْرَقَ وَأَرَعَدَ عَلَيْهِ -
 | مُصِيبَةٌ فَجَائِيَّةٌ | رَعْد pl. s. m.
 -stg s. m. | يَوْمُ الخَمِيسِ | Grün-

خَمِيس العُود | الخَمِيس الكَبِير
 -stimme s. f. | خَمِيس الغُسل
 صَوْت | صَوْت طَنَّان | صَوْت رَنَّان
 | زَوْبَعَةٌ s. n. | -wetter
 | قاصِف
 -wort s. n. | كَلِمَةٌ مُفْرَعَةٌ
 -adler s. m. | مُضَاعَف -t a.
 دُوبَل
 نَسْر دُو رَأْسِيْن (عَلَامَةٌ مَمْلَكَتِيّ
 بِيْرَةٌ s. n. | -bier | رُوسِيَا وَنَمْسَا)
 -ehe | -finnig | -a. | -dentig
 | قَوِيَّةٌ s. f. | -flinte
 | زَوَاج بَأْمَرَاتِيْن s. f.
 | -gewehr s. n. | جِفْتَةٌ pl.
 | -gänger s. m. | شَخْصٌ شَبِيْهِ
 بَغِيْرِهِ
 | ضَعْفَ ه | -n va. etw.
 | كَثِيْرًا | التَّبَاس s. m. | -finn
 | ضَاعَفَ ه | مُلْتَبِس | دُو
 مَعْنِيَّيْن | -finnig a.
 | ضِعْفًا adv. | -t a. | مُضَاعَف
 | أَضْعَاف pl. ضِعْف s. n. | -te
 | دُو لِسَانِيْن | -züngig a.
 Dorf s. n. | قَرْيَةٌ pl. كَفْر
 | ضِيَاع u. ضِيَاع pl. ضِيَعَةٌ | كُفُور
 | أَهْلُ القَرْيَةِ (Dorfbewohner)
 - das sind ihm böhmische Dörfer
 هَذَا مَجْهُولٌ عِنْدَهُ
 مُخْتَصَرٌ بِالقَرْيَةِ | dörflich a.
 | القَرْيَةِ وَأَهْلِهَا s. f. | Dorfschaft
 | شَيْخُ البَلَد s. m. | Dorfschulze
 | شُوك s. m., Dornen s. pl. | Dorn

شَوْكَة - ein | أشوك pl. النباتات
-busch s. m., -strauch s. m. سَجْرَة
-enhefte s. f. | سَفَا | أَصْل | شَائِكَة
-enfrone | وَشِيْع | سِيْبَاج | حَسَك
s. f. | إِكْلِيل | الأَسْتِشْهَار
-ig a. | دُو شُوك | شَائِك | bld.
مُتْعِب.

دوررن vn. u | يَبَسُ | جَفَّ | a
نَشَفَ *a.

دörren va. etw. ه | جَفَّفَ ه | يَبِّسُ ه
نَشَفَ ه.

Dorsch s. m. zool. نَوْعٍ مِنْ سَمَكٍ
بَحْرِيّ.

dort adv. هُنَاكَ | هُنَالِكَ | -her adv.
إِلَى هُنَاكَ | -hin adv. | مِنْ هُنَاكَ
-ig a. | كَائِنٌ هُنَاكَ | هُنَاكَ.

Dose s. f. عُلْبَة pl. | عُلْبَ | حَقَّة
pl. حَقَق.

Dose s. f., Dosis s. f. med. كَمِيَّة
عُنَاصِرِ الأَدْوِيَّةِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
مَرَّةً.

Dotation s. f. أَوْقَاف pl. | وَقَفَ
dotieren va. | نِعْمَةٌ مِنْ الدَّوْلَةِ
jn. mit عليه ه أَنْعَمَ.

Dotter s. n. صِفَارِ البَيْضِ | ذَهَبِ البَيْضِ
-blume s. f. bot. أَفْحَوَانٌ أَصْفَرٌ
عَيْنِ صَفَاءٍ.

Douane s. f. كُمْرُك * pl. كَمَارِك
pl. جَمَارِك äg. f. Söllamt.

Dozent s. m. مُعَلِّمٌ فِي دَارِ الفُنُونِ
dozieren vn. عَلَّمَ فِي دَارِ الفُنُونِ.

Drachen s. m. (Schlange) نُعْبَانٌ
pl. نُعَايِين - (fabelhaftes Tier)
- (Art Eidechse) | تَنَائِين pl. تَنِيْن
| نَوْعٌ مِنَ الضَّبَابِ لَهُ جَنَاحَانِ
- | طِيَارَة (Spielzeug) -
| امْرَأَة شَرِيْرَة (Weib).

Drachme s. f. دِرْهَم pl. دَرَاهِم.

Dragoman s. m. تَرَاجِم pl. تَرُجْمَان.

Dragoner s. m. نَوْعٌ مِنَ الحَيَّالَةِ.

Draht s. m. سَلُوك pl. سَلُوك
- (Gold od. | شَرَايِط pl. شَرِيْطَة *
Silber-) | قَصَب * (Telegraph)

جَوَاب s. f. | -antwort s. f. | تَلْغَرَاF *
إِرْسَالَة بَرْقِيَّة | -bericht s. m. | بَرْقِيّ

| -en va. etw. * | كَتَبَ u ه | بالتَلْغَرَاF *
-puppe s. f. | لُعْبَة pl. | لُعْبَ

تَلْغَرَاF * | إِرْسَالَة بَرْقِيَّة | -tung s. f.

drall a. ضَنْخُم | سَمِيْن | بَدِيْن.

Drama s. n. رِوَايَات pl. رِوَايَة
-tifer s. m. | مَوَلِّف رِوَايَة | -tiſch

تِيَاتِرِيّ * | مَرْسِيّ * a.

Drang s. m. | حَتٌّ | تَحْرِيْك | - (Ge

dränge) (Notwendigkeit) | اِزْدِحَام | زَحْمَةٌ (dränge)
 لزوم | ضَرُورَةٌ (Notwendigkeit)
 drängeln vn. | اِزْدَحَم | drängen
 va. jn. | اِزْدَحَم | ضَايِقٌ | ضَايِقٌ
 jn. | اِزْدَحَم | ضَايِقٌ | ضَايِقٌ
 Dränger s. m. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ظالم.
 Drangsal s. f. | اِزْدَحَم | ضَيْقٌ | ضَيْقٌ
 -ieren va. jn. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 جار | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 عَلَيْهِ.
 drangvoll a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مضايق.
 Draperie s. f. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 زِينَةٌ بِأَقْمِشَةٍ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 drapieren va. etw. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 زَيْنٌ هـ بِأَقْمِشَةٍ.
 dräuen v. jn. poet. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 هَدَدٌ هـ.
 Draufgeld s. n. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 عَرَبُونَ.
 drauß, draußen adv. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 خَارِجًا | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 فِي الْخَلَا | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 فِي الْخَارِجِ.
 Drechselbank s. f. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مَخْرَطَةٌ pl. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مَخْرَطٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 drechseln va. etw. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 خَرَطَ هـ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 Drechsler s. m. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 خَرَّاطٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 Drechslerhandwerk s. n. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 خِرَاطَةٌ.
 Dreß s. m. (Menschenkot) | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 خِرَاءٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 بَعْرٌ (von Tieren) | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 خُرءٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 وَحُولٌ pl. (Schmutz) | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 وَحُلٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 وَحِلٌ a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 وَحِلٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 Dreßbank s. f. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 f. Drechselbank | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم

Drehbrücke s. f. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 قَنْطَرَةٌ مُمَكِّنٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 آدَارٌ هـ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 تَدْوِيرُهَا | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 Drehen va. etw. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 آدَارٌ هـ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 (Wind) | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 سِجْ - | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 سِجْ - | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 * | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 دَوْرٌ هـ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 Drehher s. m. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 تَغْيِيرَتِ الرِّيحِ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 Drehorgel s. f. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 خَرَّاطٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 Drehpunkt s. m. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مُنْتَقِلٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 Drehung s. f. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 دَوْرَانٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 دَوْرٌ هـ.
 drei num. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ثَلَاثٌ f. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ثَلَاثَةٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 je - | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مَثَلَّتْ s. n. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مَثَلَّتْ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ثلاثٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -edig a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ذُو ثَلَاثِ زَوَايَا | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -edig a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 christl. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مَثَلَّتْ (الله) | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -er | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 christl. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 الثَّالُوثِ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -er | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 s. m. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 نَقْدٌ صَغِيرٌ مِنَ النِّحَاسِ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -erlei a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ثلاثٌ مَرَّاتٍ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مَثَلَّتْ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ثلاثيٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -faltigkeit s. f. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 christl. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 f. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -einig- | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 feit | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -farbig a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ذُو ثَلَاثَةِ أَلْوَانٍ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -fuß s. m. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 pl. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مِنْصَبٌ الْقِدْرِ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -jährig | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 pl. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 أَثْنَيْيَةِ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مَنْاصِبٍ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ثَلَاثِ سِنِينَ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -fönigsfest s. n., | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 بُعْدَ ثَلَاثَةِ أَلْحَانٍ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -fönigstag s. m. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 christl. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 عِيدٌ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 عِيدُ الْغَطَاسِ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 عِيدُ الْمَجُوسِ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 الطُّهُورِ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -mal num. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 ثلاثٌ مَرَّاتٍ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -malig | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 الجَارِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 a. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -master | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 s. m. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 مَرْكَبٌ ذُو ثَلَاثَةِ صَوَارٍ | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 s. m. | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -- (Hut) | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 بُرْنَيْطَةٌ ذَاتِ ثَلَاثِ زَوَايَا | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم
 -seitig | اِزْدَحَم | اِزْدَحَم

- a. مُثَلَّث الأَضلاع | دُو ثَلَاثَة أَضلاع.
 -filbig a., -es Wort كَلِمَة ذات
 | ثَلَاثُون. -fig num. ثَلَاثَة أَجْزاء
 -figste a. الثَلَاثُون | -figstel s. n.
 الجزء الثَلَاثُون.
- dreift a. جَسُور | جَرِيء | -igkeit s. f.
 جَرَاءَة | جَسَارَة.
- dreistöckig a., -es Haus دار ذات
 ثلاث طَبَقَات.
- dreistweg adv. بِجَرَاءَة | بِجَسَارَة.
- Drei-zack s. m. خَطَاف دُو ثَلَاث
 -zehn | خَطَاطِيف pl. شَوَكَات
 num. ثلاث عَشْرَة f. ثَلَاثَة عَشْر
 -zehnte a. الثالث عَشْر f. الثَالِثَة
 الجزء الثالث | -zehntel s. n. عَشْرَة
 عَشْر.
- dreischen va. Getreide الحُبُوب u دَرَس |
 leeres Stroh | اِسْتَعْل بلا فَايْدَة -
 Drescher s. m. دَارِس | Dresch-
 flegel s. m. مِدَاق pl. مِدَاق
 Dreschmaschine s. f. آلَة لِدراس
 الحُبُوب.
- dressieren va. Pferd الخَيْل u راض |
 - Hund الكَلْب | ضَرَى الكَلْب كَلْب -
 تَرْوِيض s. f. Dressur | الصَيْد
 تَعْلِيم الكَلْب | الخَيْل.
- Drill s. m. der Soldaten تَدْرِيب
- دَرَب العَسَاكِر | -en va. Soldaten
 العَسَاكِر.
- Drillich s. m. خَنِيف *
 Drilling s. m. ثَوَام مِن ثَلَاثَة ثَوَائِم
 dringen vn. in etw. اِدْخَل u ه أَوْ فِي
 - in jn. | تَبَطَّن ه | نَفَذ u ه
 - auf etw. | لَجَّ i عَلَيْهِ | أَلَحَّ عَلَيْهِ
 -d a. (nötig) | لَجَّ i فِي | أَلَحَّ فِي
 قَرِيب (bevorstehend) - | ضَرُورِي
 | dringlich a. ضَرُورِي | المَدُوث
 Dringlichkeit s. f. ضَرُورَة.
- dritte a. ثَالِث f. ثَالِثَة | zum -n f.
 Drittens | die - Person gr. ضَمِير
 | Drittel s. n., Drittel s. n. الغَائِب
 | drittens | أَنثَلَاث pl. ثُلُث | ثُلُث
 adv. اِثْنَان | dritthalb num ثَالِثًا
 وَنِصْف.
- droben adv. فَوْق.
- Droge, Droque s. f. (Parfümerie)
 pl. تَأْبَل (Gewürz) - | عِطَارَة
 pl. دَوَاء (Heilmittel) - | تَوَابِل
 Drogerie, | عَقَاقِير pl. عَقَار | أَدْوِيَة
 Droguerie s. f. مَخْزَن العِطَار
 Drogist, Droguist s. m. عِطَار.
- drohen v. jm. ه | هَدَّد ه | تَوَعَّد ه
 | أَرَعَد عَلَيْهِ | أَبْرَق عَلَيْهِ
 Drohne s. f. نَحْلَة مُذَكَّرَة.

Dudelsack s. m. قِرْبَة ذات أنابيب
pl. مِزْمَار بِقِرْبَة | قِرْبَات.

Duell s. n. مُبَارَاة | jn. zum -
herausfordern للمُبَارَاة u طلب |
-ant s. m. مُبَارِز | -ieren v. sich
mit jm. بارز.

Duett s. n. قَصِيدَة يُغَنِّي بِهَا آثْنَان.

Duft s. m. (Geruch) رَائِحَة pl. رَوَائِح |
-en vn. | بُخَار رَفِيع (Dunst) -
-ig a. | سَطَع a | تَنَسَّمَ بِرَائِحَة
مَمْلُوء بُخَارًا رَفِيعًا | دُو رَائِحَة

Dufaten s. m. نَقْد قَدِيم من نُقُود
الذَّهَب.

dulden va. (erdulden) etw. ه | تَحَمَّل ه
| كَابَد ه | صَبَرَ i على | اِحْتَمَلَ ه
| قَاسَى ه (erlauben) etw.
| ألم a (leiden) - | vn. | تَسَامَعَ فِي
Dulder | تَوَجَّع | وَجَع a | تَأَلَّمَ
s. m. صَابِر | مُتَوَجَّع | وَجَع | مُتَأَلِّم
| سَمِيع | مُسَامِح a. | دُلدسام | صَبُور
Duldsamkeit s. f., Duldung s. f.
تَسَاهُل فِي | مُسَامِحَة

dumm a. (Perf.) بَلِيد | أَبْلَه f.
(Sache) - | حَمَقَاء f. | أَحْمَق | بَلْهَاء
| بَلْد u fein - | صَادِر من البَلَادَة
| بَلَاة Seug -es | حَمَق u | بِلَه a
| رَجُل -erjan s. m. | وَقِع a. -dreist

بَلَادَة | حَمَق s. f. -heit | أَحْمَق
رَجُل أَحْمَق s. m. -kopf | بَلَاهَة

dumpf a. غَيْر رَنِين | أَبْكَم
| سَدَارَة | سَدَر s. f. -heit | دَائِغ
ضَيِّق (Luft) -ig a. | دَوْخَة *
وَرَطُب (هَوَاء).

Düne s. f. تَلَّ رَمْل عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ
pl. كَثِيب | تُلُول u. تِلَال pl.
أَكْنَبَة.

Dung s. m. زُبُل pl. | düngen
va. Erde | زَبَل الأَرْض | Dünger
s. m. | دُبَال | Düngung s. f.
تَزْيِيل.

dunkel a. | مُعْتَم | مُظْلِم
(Farbe) - | غَمِيق | قَلِيل الضَّوء
أَشْوَب | مُشْبَع | مُشْرَب -blau
f. | شُهْل pl. | شُهْلَاء f. - (wenig
verständlich) | مُتَبَس | مُبْتَم
| خَفِيَ | مَجْهُول (unbekannt) -
Dunkel s. n. f. | دَنِي | خَامِل
Dunkelheit.

Dünkel s. m. | زَهُو | عُجْب
| صَاحِب الزَّهْو -haft a. | هَدْر
دُو عُجْب.

Dunkelheit s. f. | ظُلْمَة | ظَلَام
| إِبْهَام (Unverständlichkeit) -
| حُمُول (Unbekanntheit) - | التَّبَاس

- أَظْلَمَ | dunkeln vn. | دَنَاةٌ | خَفَاءٌ
 أَظْلَمَ اللَّيْلَ | es dunkelt | أَعْتَمَ
- dünken jm. u. jn. | ظَهَرَ لَهُ | sich
 groß - ظَنَّ u. أَنَّهُ كَبِيرٌ -
- dünn a. (Person) | نَحِيفٌ pl. | نحاف
 | دَقِيقٌ (Sache) - | نَحْلَى pl. | نحيل
 | رَقٌّ i. | رَفِيعٌ - | رَقِيقٌ
 | قَلِيلٌ اللِّحْيَةِ | bärtig a. | نَحْلٌ a.
 - | بِيْرَةٌ ضَعِيفَةٌ | e s. f.,
 - | دِقَّةٌ | رِقَّةٌ s. f. -heit
- Dunst s. m. | أَبْخِرَةٌ pl. | بُخَارٌ طَبِيعِيٌّ
 | رَوَائِحٌ pl. | رَوَائِحٌ | jm. blauen -
 vormachen | أَوْهَمَ s. b.
- dünsten va. Speisen | طَبَخَ الطَّعَامَ
 | فِي بُخَارِهِ
- dunstig a. | دُوٌّ بُخَارٌ | Dunstkreis
 s. m. | جَوٌّ
- Duodez s. n. | الطَّلْحِيَّةُ 1/12 | قَطْعٌ
- Duplikat s. n. | نَسْخَةٌ ثَانِيَةٌ
- durch praep. c. dat. | بِ | بِوَأَسْطَةٍ
 | فِي مَدَّةٍ | مِنْ وَسْطٍ
 | طُولُ السَّنَةِ - | u. -
 | مِنْ طَرْفٍ إِلَى طَرْفٍ
 | حَرَثَ u. هُ كَثَّهُ | arbeiten
 | اسْتَغَلَ بِهِ جَيِّدًا | sich
 | غَلَبَ i. هُ | durch etw. -
 | كُبِّيًّا | عَلَى الإِطْلَاقِ | مُطْلَقًا adv.
- لا... أَصْلًا - - nicht | بِالْكَلِيَّةِ
 -backen va. etw. | لا... قَطْعًا
 -beben va. jn. | خَبَزَ هُ جَيِّدًا
 -beißen etw. | هَزَزَهُ | أَرَعَشِيَهُ
 | تَخَلَّصَ - - | ثَقَبَ u. هُ بِالْعَضِّ
 -bilden va. jn. | بِالْكَلِيَّةِ | آدَبَ هُ
 -blättern va. Buch | تَصَفَّحَ كُلَّ
 | blick s. m. durch etw. | الْكِتَابِ
 -blicken vn. durch | الْمَنْظَرَ بِوَسْطِهِ
 etw. | ثَقَبَ u. هُ | نَظَرَ u. بِوَسْطِهِ
 -blitzen va. jn. u. etw. | دَخَلَ u. فِي
 -bohren va. jn. | خَرَقَ u. هُ و
 u. etw. | ثَقَبَ u. هُ و | خَرَقَ u. هُ و
 -braten va. etw. | نَفَذَ u. هُ و
 -brechen va. | شَوَى i. هُ جَيِّدًا
 | كَسَرَ i. هُ | ثَقَبَ u. الْحَائِطَ الْحِمْيَرِ
 | فَتَحَ a. | الْبَابَ أَوْ | -Thür, Straße
 | خَرَقَ | -brennen va. etw. u. | الشَّارِعَ
 | هُ بِالْحَرَقِ | (weglaufen) - - vn. | هُ
 | هَرَبَ | -bringen va. Vermögen
 | اِكْتَسَبَ - - | اِسْرَفَ الْمَالَ
 | ثَقَبَ | كَسَرَ s. m. | -bruch s. m. | مَعَاشَهُ
 | تَأَمَّلَ فِي | -denken va. etw. | فَتَحَ
 | نَحَلَ u. هُ و فِي | -dringen va. etw.
 | خَرَقَ u. هُ | نَفَذَ u. هُ | طَعَنَ a. هُ
 | ثَقَبَ u. هُ | - - jn. (Gefühl)
 | اَثَّرَ فِيهِ (إِحْسَاسٌ) | - - mit

etw. -dringend | أَنْجَحَ | أَفْلَحَ | تَوَقَّقَ
 a. شَدِيدٌ | حَادٌّ | نَافِذٌ | ثَاقِبٌ
 -er Schrei | حَادٌّ | صُرَاخٌ | -eilen
 va. Entfernung | الْمَسَافَةَ | a. قَطَعَ |
 - - | u. جَالٌ | u. فِي الْبِلَادِ |
 | مُخْتَلِطًا | -einander adv. | فِي الْبِلَادِ
 -einander s. n. | اِخْتِلَاطٌ | -fahren
 va. etw. | u. بٍ | | عَبَّرَ | u. هـ
 | قَطَعَ | a. هـ | | جَازَ | u. بٍ | | خَرَقَ | i, u. هـ
 - - | in. (Gedanke) | u. بِبَالِهِ |
 -fahrt s. f. (-fahren) | | عُبُورٌ |
 - - | | مَعَابِرٌ | pl. مَعْبَرٌ (Ort) |
 -fall | | مَضِيقٌ | - - | enge | | مَنْفَذٌ
 s. m. (Krankheit) | | إِسْهَالٌ |
 - - | | فِي | (im Examen) |
 | | سَقَطَ | u. | -fallen vn. | | الْأَمْتِحَانِ |
 | سقط u. فِي الْأَمْتِحَانِ | - - | im Examen
 -feuchten va. etw. | u. هـ | | كَلَّهُ |
 -flammen va. etw. | u. هـ | | أَشْعَلَهُ |
 -flechten va. etw. | u. هـ | | لَفَّهُ |
 -fliegen va. etw. | u. هـ | | طَائِرًا |
 | قَرَأَ | a. | -Buch | - - | | مَرَّرَ | u. | بِهِ | طَائِرًا
 | -forschen va. etw. | | الْكِتَابَ | بِسُرْعَةٍ
 | -fressen | | بَحَثَ | a. | عَنْهُ | بِتَدْقِيقٍ
 va. etw. | | قَرَضَ | i. هـ |
 | - (aus- | | نَقَلَ | u. هـ |
 führen) etw. | | أَنْجَزَهُ |

s. f. | | أَنْجَازٌ | | نَقَلَ | s. m.
 -furchen va. | | رَفْتِيَّةٌ * | | تَسْرِيحٌ
 etw. | u. هـ | | خَطَطَهُ | | خَدَّ | u. هـ
 | كَرَشٌ | هـ (Stirn) | - - | | تَلَّمَهُ *
 -gang s. m. (-gehen) | | عُبُورٌ |
 - - | | مَعَابِرٌ | pl. مَعْبَرٌ (Ort) |
 enger - - | | مَضِيقٌ | -gänglich a.
 -gehen va. etw. | | عُمُومِيٌّ | | عَامٌ
 | قَطَعَ | a. هـ | | مَرَّرَ | u. بٍ | | عَبَّرَ | u. هـ
 - - | | تَصَفَّحَ | | الْكِتَابَ | Buch |
 | مَرَّقَ | الْأَحْذِيَّةَ | - - | | عَنْهُ |
 | عَبَّرَ | u. هـ | | -durch | vn. | | بِالْمَشْيِ
 - - | | هَرَبَ | u. | (fliehen) |
 | - - | | جَمَعَ | a. | -durch | etw. |
 | | تَقَبَّ | u. هـ | | - (angenommen
 werden, Gesetz 2c.) | | عُمُومِيًّا |
 | -gehends adv. | | - | | الْغِ
 | | أَشْعَلَ | هـ | u. | | وَهْ |
 | -greifen vn. | | تَدْبِيرَ قُوَّتِهِ |
 | -greifend a. | | نَافِذٌ | | فَاعِلَةٌ |
 | -hauen va. | | ضَرَبًا | | ضَرَبَ | i. هـ
 | | كُتُونٌ | - - | | شَدِيدًا |
 | -hecheln va. | | اِنْتَقَدَ | هـ |
 | -helfen v. | | سَاعَدَ | هـ | | in. |
 | -jagen va. | | كَلَّ | | الْبِلَادِ |
 | -kämpfen | | دَارٌ | u. | | فِي كُلِّ الْبِلَادِ
 | -kommen | | أَنْجَزَهُ | | بِالْقِتَالِ |

vn. durch einen Ort عَبَّرَ u بَلَدًا |
 (gerettet werden) | مَرَّ u بِيَدِ
 -- durchs Examen | تَخَلَّصَ نَجَا u
 -kreuzen va. | نَجَّحَ a في الأَمْتِحَانِ
 etw. ه a قَطَعَ -- | Absicht عَارَضَ
 -laß | عَرَضَ i نُونِ المَرَامِ | القَصْدِ
 | خُصْلَةٌ مِنَ النُّهْرِ | إِدْخَالَ s. m.
 -lassen va. jn. | أَذِنَ a له في
 -- | آذَنَ ه | الدُّخُولِ | fehler
 كَوَلَّتْهُ * | لاوحت s. f. | صَفَّحَ a عن
 صَاحِبِ | حَضْرَةٍ | (لَقَبِ البَرِيئَاتِ)
 -lauchtig a., -lauchtigst
 | كَوَلَّتْهُ * | (لَقَبِ البَرِيئَاتِ) a.
 | شَوَكْتَهُ * | allerdurchlauchtigst
 | عُبُورِ s. m. | الحَضْرَةِ المُلُوكِيَّةِ
 | إِسْمَالِ (مَرَضِ) (Krankheit) --
 | مَرَّ بِهِ رَاكِبًا | -laufen va. etw.
 -- | ذَاعَ i بٍ | جَالِ بٍ
 | تَصَفَّحَ ه | بِسُرْعَةٍ Brief
 | أَتَمَّحَ | -läutern va. etw. | البَحْثِ
 | صَفَّى ه كَلَّمَ | خَلَّصَ ه كَلَّمَ
 | وَقْتًا u, i | بَدَلَ | -leben va. eine
 | قَضَى ه * | أَصْرَفَ ه | -lesen va.
 | أَقْرَأَ a | الكِتَابِ كَلَّمَ | Buch
 | تَصَفَّحَ ه -- | -löchern
 | خَرَّقَ u, i | ه | -nagen va. etw.
 | جَرَّبَ ه | -machen va. etw.

مَرُورِ s. m. | قَاسَى ه | -marschieren
 | الجُنُودِ بِيَدِ | -marschieren vn.
 | مَرَّ u بِيَدِ (الجُنُودِ) (Soldaten)
 | خَلَطَ u ه | -mengen va. etw. mit
 | كَلَّمَ ب | -messen va. Land u
 | بِيَلَادِ | -messer s. m. | قَطْرَ الدَّائِرَةِ
 | كَشَفَ i ه كَلَّمَ | -musteren va. etw.
 | ه قَارِضًا | -nagen va. etw. | ثَقَّبَ u
 | ضَرَبَ المَلَابِسِ | -nähen va. Kleider
 | ه u بَلَّ | -nässen va., -netzen va. etw.
 | كَثِيرًا | -peitschen va. jn. | جَلَدَ i ه
 | سَاطِ u | -eine Sache | أَسْرَعَ ه
 | -pflügen va. etw. | حَرَثَ | أَمْرًا
 | ه كَلَّمَ | -probieren va. etw.
 | جَرَّبَ ه كَلَّمَ | -prügeln va. jn.
 | ضَرَبَ i ه | ضَرَبًا شَدِيدًا | -queren
 | قَطَعَ a | البِلَادِ | -مرَّ u | بالبلاد
 | ه كَلَّمَ | -räuchern va. etw. | دَخَنَ
 | المَطَرِ u | دَخَلَ | -regnen vn.
 | مَرُورِ | عُبُورِ s. f. | -reisen vn. durch
 | عَبَّرَ | البِلَادِ | -مرَّ u | ein Land
 | خَرَّقَ ه | -reißen va. etw. | مَرَّقَ ه
 | تَخَرَّقَ | -reiten va. | تمَرَّقَ --
 | بِيَدِ | رَاكِبًا | -مرَّ u | einen Ort
 | انْجَرَحَ | بِالرُّكُوبِ -- | -rennen
 | مَرَّ بِهِ رَاكِبًا | -va. etw. | jn. mit
 | ه | بالسيف -- | -dem Degen | طَعَنَ a

-rieseln va. etw. | جَرَى i ب |
 -rinnen | - - in. (Gefühl) | سال i ب |
 | -rinnen | اسْتَوَى عَلَيْهِ الإِحْسَانُ
 f. -rieseln | -fägen va. etw.
 | -fäuern va. etw. | نَشَرَ u ه |
 | خَلَّلَ ه كَلَّةُ | حَمَّضَ ه كَلَّةُ
 | -schauen va. etw. | كَشَفَ i ه |
 | وَقَفَ i عَلَى | - - in. | وَقَفَ i عَلَى
 | -schauern va. in. | أسرار قَلْبِهِ
 | جَعَلَ a ه | يَفْشَعِرُ | زَعَزَعَ ه | هَزَزَهُ
 | -scheinen vn. | اسْتَشَفَّ | -scheinend
 a. | شَقَّاف | -schießen va. etw.
 | ثَقَّبَ u ه | بِرِصَاصٍ أَوْ بِسَهْمٍ
 | - - ein Buch mit | خَرَقَ i, u ه
 Papier | جَدَّدَ الكِتَابَ بِوَرَقٍ
 | -schiffen va. Meer a | رَكِبَ | -للِكِتَابَةِ
 | -schimmern vn. | اسْتَشَفَّ | -الْبَحْرِ
 | -schlag s. m. | ثَقَّبَ | -schlagen va.
 etw. | u ه | ثَقَّبَ | -بالضَّرْبِ
 | غَلَبَ i - - | صَغَى ه | رَوَّقَ ه
 | اِكْتَسَبَ مَعَاشَهُ | -بالقِتَالِ
 | - - (Arznei) | أَثَّرَ (دَوَاءً) | - -
 va. etw. | تَدَخَّلَ فِي | -schlüpfen
 vn. durch | تَدَخَّلَ فِي | -schneiden
 va. etw. | a ه | قَطَعَ | -das Herz - -
 | فَتَّتَ القَلْبَ | - | قَطَعَ s. m. | -
 | مُتَوَسِّطٍ a. | - | تَوَسَّطَ | -schnittlich

-schreiten va. etw. | مَرَّ u ب |
 | -schwärmen va. Ort | عَبَّرَ u ه |
 | - - die Nacht | - | جال u في البَدَدِ
 | -schweifen | - | صَرَفَ i اللِّيْلَةَ بِالْإِفْرَاطِ
 va. Ort | جال u في البَدَدِ
 | -schwimmen va. Fluß | عَبَّرَ النَهْرَ
 | -schwitzen va. Kleid u | بَلَّ عَائِمًا
 | - (flüssig- | الثَّوْبَ بِالْعَرَقِ | vn. - -
 keit) | تَنَبَّعَ | -segeln va. Meer
 | -sehen va. etw. | رَكِبَ a | -الْبَحْرِ
 durch | نَظَرَ u ه | - - | -Rech-
 nung | اِطَّلَعَ عَلَى الحِسابِ | - -
 | - | فَحَّصَ a | - | الحِسابِ
 | -sehen va. | اسْتَشَفَّ | - (durch-
 etw. | قَطَرَ ه | بِمِصْفَاةٍ | -scheinen)
 | - | أَنجَزَ ه | - | - | بِمِصْفَاةٍ
 vn. - - | - | تَبَّرَ | - | durch einen Fluß
 | - | مَوْبُوءٍ | وَبِئِءِ | - | النَهْرِ
 | - | اِطَّلَاعَ عَلَى | فَحَّصَ | - | s. f. | -sicht
 | - | سِجِّاف | - | سِجِّافِةٍ | - | s. f. | -sichtigkeit
 | - | تَنَبَّعَ | - | سُفُوفٍ | - | شَقَّفَ | - | sichern vn.
 | - | غَرَّبَلَ ه | - | تَقَطَّرَ | - | sieben va. etw.
 | - | شَقَّ u ه | - | سَلَطَ | - | spalten va. etw.
 | - | كَلَّمَهُ | - | سَاطِرٍ | - | sprechen va. etw. mit in.
 | - | باحَثَ ه | - | stechen va. etw.
 | - | ثَقَّبَ u ه | - | خَرَقَ i, u ه | - | stecherei
 s. f. | دَسَائِسٍ pl. | دَسِيسَةٍ | - | s. f. | -

- (Jahr) قَحِط | e s. f. | Dynamit s. n. بَارُودِ النَّطْرُونِ.
- قَحْوَلَةٌ | des Bodens يَبْسُ - | Dynastie s. f. آلِ الْمُلُوكِ | مُخْتَصَّ | dynastisch a. مَلِكِيَّةٌ | بِسُلَالَةِ مَلِكِيَّةٍ.
- Durst s. m. | غَلِيل | haben | دَاءِ الزُّنْطَارِيَّةِ * | زُحَارِ | Dysenterie s. f.
- a | den - löschen | بَرَدٌ | عَطِشٌ | | |
- en, dürsten va. a | عَطِشٌ | | |
- ig | | | |
- pl. | عَطِشٌ | | |
- a. | عَطِشٌ | | |
- Glück) | دَوْحَةٌ * | | |
- ei s. f. | نَعَاسٌ | | |
- ig a. | دَائِخٌ | | |
- u | داخ | | |
- Qüster a. | قَلِيلِ الضَّوْءِ | | |
- عَبُوسٌ | | |
- (Charakter) | مَغِيْمٌ | | |
- Düster s. n., -heit s. f. | سَوْدَاوِي | | |
- ظُلْمَةٌ | | |
- قَرَاتِيْسِي | قرطاس pl. | | |
- f. Tüte.
- Duzend s. n. | دَرَبِنَةٌ * | | |
- اِثْنَا عَشْرَةَ | | |
- Duzbruder s. m. | الْمُخَاطَبُ بِصِيغَةِ | | |
- duzen va. | | |
- بِصِيغَةِ الْمُفْرَدِ | | |
- Dynamik s. f. | دِيْنَامِيْكٌ * | | |
- حَرَكَاتِ الْأَجْزَاءِ | | |
- Ebbe s. f. | جَزْرُ الْبَحْرِ | | |
- ii vn. | | |
- رجع | | |
- eben a. | سَوَّلٌ | | |
- مُؤَدٌّ | | |
- eben adv. (soeben) | | |
- (gerade) - die Sache | | |
- ذات الأمر | | |
- Eben-bild s. n. | أَنْبَاءٌ | | |
- pl. | | |
- bürtig a. | | |
- من نفس النسب | | |
- مساواة الأصل | | |
- bürtigkeit s. f. | | |
- مساواة النسب | | |
- Ebene s. f. | سَوَّلٌ (ضِدَّةُ جَبَلٍ) | | |
- pl. | | |
- ebnen. | | |
- eben-falls adv. | كَمَا | | |
- كَمَا * | | |
- holz s. n. | | |
- maß s. n. | | |
- mäßig a. | | |
- كذلك | | |

Eber s. m. خَنْزِير pl. خَنْزِيرِ.
 ebenen va. etw. ه | سَوَّى ه | سَوَّل ه
 سَطَّح ه | وَطَّأ ه | مَهَّد ه
 Echo s. n. أَصْدَاء pl. صَدَى -en
 vn. رَدَّ | الصَّوْت | أَصْدَى
 echt a. صَحِيح | صَافٍ | خَالِص
 s. f. صَفَاء | خُلُوص
 Eckbrett s. n. رُفُوف pl. رَفَّ
 s. n., Ecke s. f. زَاوِيَة pl. زَوَايَا
 قُرْن pl. قُرْنَة | قُرُون pl. قُرْن
 Eckensteher s. m. رُسُل pl. رَسُول
 سَعَاء pl. سَاع
 Ecker s. m. ثَمَرَة شَجَرَة السُّيَاح
 بَلُوط.
 Eckhaus s. n. دار في زاوِيَة الشَّارِع
 -ig a. -pfeiler | مُقَرَّن | دُو زَوَايَا
 s. m., -pfosten s. m. رُكْن في زاوِيَة
 خَزَانَة | -schrank s. m. | أَرْكَان pl.
 -stein s. m. | في زاوِيَة الحُجْرَة
 pl. أَسْس | أَسْس pl. | أَسَاس
 pl. نَاب | -zahl s. m. | آسَاس
 حُجْرَة في | -zimmer s. n. | أَتْيَاب
 زاوِيَة الدار
 edel a. (von Geburt) أَصِيل pl.
 شَرِيف | دُو نَسَب شَرِيف | أَصْلَاء
 pl. نَجِيب | أَشْرَاف pl. | النَسَب

جَلِيل (von Rang) | نَجَبَاء
 شَرِيف (von Gefinnung) | كَرِيم
 | شَرُف | u | كَرَم | كِرَام pl.
 edler Körperteil كَرِيمَة pl. كَرِيمَات
 -dame s. f., -frau s. f.,
 | كَرَائِم u.
 سَيِّدَة شَرِيفَة s. n. | -fräulein s. n.
 شَرِيف a. | -geboren a. | النَسَب
 -stein s. n. | -gestein s. n. | النَسَب
 غَلَام مِّنْ حَدَمِ الْمَلِكِ s. m. | -knabe s. m.
 -mann s. m., pl. | -leute | غِلْمَان pl.
 شَرِيف النَسَب | -mut | رَجُل شَرِيف النَسَب
 -sinn s. m. | -sinnig a., -mütig a. | كَرَم النَفْس s. m.,
 | شَرَف | نَجَابَة | شَرِيف (Person) | كَرِيم الأَخْلَاق a.
 (Handlung) | - | نَجِيب | الأَخْلَاق
 -stein s. m. | صادر من كَرَم الأَخْلَاق
 | جَوَاهِر | جَوَاهِر pl. | حَجَر نَفِيس
 -weiss s. n. bot. | نَوْع من النَبَات
 في الجِبَال
 نَعِيم | عَدْن | فِرْدَوْس s. n. | Eden
 pl. أَمْر | مَنَشُور s. n. | Edikt
 pl. فَرْمَان * | بَرَاءَات pl. | بَرَاءَة
 فَرَامِين
 مَعْمُول | عَمَل | نَائِبِر s. m. | Effekt
 | -en | أَثَر | Wirkung | -machen
 | أَتَمَّتَة (Möbel, Sachen) s. pl.
 | حَوَائِج * | -komm. | سَفَاتِح

* -tiv a. | أَوْرَاقِ الْمُعَامَلَةِ | بَوَالِصِ *
(Münze) عَيْنِ (النَّقْدِ)

Effendi s. m. * أَفْنَدِيَّةِ pl. أَفْنَدِي *
egal a., es ist ihm - سَوَاءٌ عَلَيْهِ -
f. gleich.

Egel s. m. عَلَقَةٌ f. Bluteigel.

Egge s. f. مِسْلَفَةٌ | شَوْفٌ * زَحَافَةٌ *
äg. | -n va. etw. ه u سَلَفٌ |
أَسْلَفٌ ه

Egoismus s. m. إِفْرَاطٌ فِي | أَثَرَةٌ *
Egoist | أَنَانِيَّةٌ * | مَحَبَّةُ الذَّاتِ
s. m. رَجُلٌ مُحِبٌّ ذَاتَهُ بِإِفْرَاطٍ *
egoistisch a. مُحِبٌّ ذَاتَهُ بِإِفْرَاطٍ *

ehē conjct. قَبْلَ أَنْ | قَبْلَمَا | قَبْلَ مَا

Ehe s. f. | إِقْتِرَانٌ | نِكَاحٌ | زَوَاجٌ | eine
- schließen, eingehen mit jm.
die - brechen | إِقْتَرَنَ بِهِ | تَزَوَّجَ بِهِ
i | عَقْدُ الزَّوْاجِ s. n. -band | زَنَى |
-brechen vn. i | زَنَى | brecher s. m.

brecherin s. f. | زُنَاةٌ pl. زَانٍ
brecherisch a. | زَوَانٍ pl. زَانِيَّةٌ

زِنَاءٌ | زَنَى | bruch s. m. | زَانٍ
-bund s. m. عَقْدُ الزَّوْاجِ

ehedem adv. f. ehemals.

Ehe-frau s. f., -gattin s. f., -ge-
mahlin s. f., -hälfte s. f. زَوْجَةٌ
pl. قَرِيْبَةٌ | بَعْلَةٌ | اِمْرَأَةٌ | زَوْجَاتٍ pl.

pl. حَلَائِلُ | حَلِيْلَةٌ | قَرَائِنُ pl.
* -gatte s. m., -ge-
mahl s. m., -hälfte s. f., -mann
s. m. | بَعْلٌ pl. | أَزْوَاجٌ pl. | زَوْجٌ s. m.
حَلِيْلٌ | قَرْنَاءٌ pl. | قَرِيْبِيْنٌ | بَعُوْلٌ
pl. | اِبْنُ العَمِّ * | اِحْلَاءٌ pl.

ehēgestern adv. أَوَّلَ أَمْسٍ

Ehe-gut s. n. | مالُ الزَّوْجَةِ -Freuz

s. n. | -krüppel | زَوْجَةٌ شَرِيْبَةٌ s. n.

zōj (تَضَاحُكَامِنْهُ) (spöttisch) s. m.

ibn ḥalāl | -leiblich a., --es Kind

leute s. pl. | -leute s. pl. | ehelich f. | وَلَدٌ شَرْعِيٌّ

zōj | -lich a. | الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ

Wald | ابن حلال -es Kind -

nikem | -lichen va. jn. s i, a | شَرْعِيٌّ

los a. | إِقْتَرَنَ بِهِ | تَزَوَّجَ ه أَوْ بِهِ

azab | عَزَبٌ pl. | عَزْبَاءٌ f. | عَزَبٌ

azab | -losigkeit s. f. | إِغْيَابٌ مُتَزَوِّجٌ

ra'ib fī zōj | -lustig a. | اِغْيَابٌ فِي الزَّوْجِ

ehemals | ماضٍ | سابق | ehemals

qadīmā | فِيمَا مَضَى | سابقًا adv.

Ehe-mann s. m. f. | -gatte | -paar

s. n. | الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ

ehē a. | سابق | أسبق (früher)

qabla | قبل ذلك | قبلاً adv. | سَالِفٌ

ahsan | أولى (lieber) - | الحِجِينِ

ehēn a. | من صاد أحمر | من نحاس

- er hat eine -e Stirn | مِنْ قُلْز | er hat eine -e Stirn
 هُوَ عَادِمُ الْحَيَاءِ.
- Ehe-schänder s. m. | زَانٍ | -scheidung
 s. f. | طَلَاق.
- ehestens adv. | فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ.
- Ehe-vertrag s. m. | عَقْدُ النِّكَاحِ |
 -weib f. -frau.
- Ehrabschneider s. m. | نَمُونٌ pl. نَمَمٌ |
 | أَدِيبٌ | حَشِيمٌ | -bar a. | نَمَامٌ |
 | آدَبٌ | حِشْمَةٌ | -barkeit s. f. |
 -barlich a. f. | -bar | -begierde s. f. |
 | حُبُّ الرُّفْعَةِ | طَمَعٌ فِي الرُّفْعَةِ |
 -begierig a. | طَامِعٌ فِي الرُّفْعَةِ.
- Ehre s. f. | شَرَفٌ | عِزٌّ | عِزَّةٌ |
 | فَخْرٌ | عِزَّةٌ | عِزَّةٌ | عِزٌّ | شَرَفٌ |
 - (die man genießt) | عِرْضٌ pl. |
 - (Ehrenhaftigkeit) | نَامُوسٌ * | صِيْتٌ | أَعْرَاضٌ |
 | اسْتِنْقَامَةٌ | Mann von -
 - (Ehrenbezeugung) | رَجُلٌ مُسْتَقِيمٌ |
 | تَعَزِيزٌ | تَشْرِيْفٌ |
 | إِكْرَامًا لَهُ | zu -en | إِحْتِرَامٌ | إِكْرَامٌ |
 | بَكَارَةُ الْبِنْتِ | (eines Mädchens) -
 | رُتَبٌ | (Ehrenstellen) | -n pl. |
 | جَنَازَةٌ | die letzte | مَعْرَكَةٌ | -
 | شَرَفٌ | بِأَعْمَالِهِ | - machen |
 | تَشْرَفٌ | بِ | - haben | zu |
 | شَرَفٌ | بِ | - erweisen | zu |
 | إِحْتَرَمٌ | -n halten | zu | in.
- ehren va. | شَرَفٌ | | أَكْرَمَ | |
 | أَعَزَّ | | عَظَّمَ | |
- Ehren-amt s. n. | وَظِيْفَةٌ بِلا أَجْرَةٍ |
 -bezeugung s. f., -bezeugung s. f. |
 | اسْتِغْفَارٌ | -erklärung s. f. | تَشْرِيْفٌ |
 | اسْتِقِيمٌ | -haft a. | إِبْطَالُ النَّمِيْمَةِ |
 | اسْتِنْقَامَةٌ | -haftigkeit s. f. | (رَجُلٌ) |
 -handel s. m. f. | -sache | -mann |
 | رَجُلٌ مُسْتَقِيمٌ | -pforte s. f. | s. m. |
 | بابٌ يُبْنَى إِكْرَامًا لِفُلَانٍ | هِلَالٌ |
 | صُدُورٌ pl. | صَدْرٌ | -platz s. m. |
 | دُسُوتٌ pl. | دُسُوتٌ | -posten s. m. |
 | -amt | -preis s. m. | bot. | f. |
 | كِبْلَابُ الْمَجُوسِ | شَيْخٌ | أَلَاطِيْنِي |
 | نَحْوَةٌ | مُرُوءَةٌ | إِبَاءٌ | -punkt s. m. |
 | تَبْرِيْرٌ | -erklärung s. f. | -rettung s. f. | f. |
 | مُهِيْبٌ | مُعِيْبٌ | -rührig a. | -sache |
 | نَحْوَةٌ | مُرُوءَةٌ | إِبَاءٌ | s. f. |
 | -schändung | -schein s. m. | إِهَانَةٌ | s. f. |
 | دَيْنٌ | دَيْنٌ | -schuld s. f. | بَرَهْنُ الشَّرَفِ |
 | رُتْبَةٌ | -stelle s. f. | بَرَهْنُ الشَّرَفِ |
 | رُتْبٌ | -tag s. m. | يَوْمُ التَّمْيِيْزِ | pl. |
 | لَقَبٌ | -titel s. m. | أَلْقَابٌ | pl. |
 | مُشْرِفٌ | -wache s. f. | -voll a. |
 | حَرَمٌ | -wert a. | لِلْإِكْرَامِ |
 | مُعْتَبَرٌ * | -wort s. n. | | مُكْرَمٌ |
 | قَوْلٌ أَوْ وَعْدٌ بِمُقْتَضَى الشَّرَفِ |

-zeichen s. n. نِيشَان pl. نِيشَانِين.
 ehr-erbietig a. (Person) مُحْتَرَم |
 | اِحْتِرَامِي (Sache) - | مُحْتَشِم | مُكْرَم
 | اِحْتِرَام s. f. | اِكْرَامِي |
 | اِحْتِشَام | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -fürchtig a., -furchtsvoll a. ذُو
 -gefühl s. n. | هَائِب | حِشْمَة
 | اِحْتِشَام | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -geiz s. m. f. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -geizig a. f. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -begierde | -geizig a. f. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -begierig | -lich a. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -er Namen | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -lichkeit s. f. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -liebe | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -begierde | -liebend a. f. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -begierig | -los a. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -lofigkeit | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -فضيحة | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -قبايح pl. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -سُحْت s. f. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -begierde | -süchtig a. f. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -los | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -würden s. f. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 -würdig a. | اِعْتِبَار * | اِحْتِشَام | اِكْرَام
 | اِحْتِشَام | هَيْبَة | مَهَابَة s. f.
 مُسْتَحِقَّ الاحْتِرَام.

ei! interject. آه | وَى | وَاها | وا.

Ei s. n. (Hühner-) بَيْض coll. pl.
 | بَيْضَات pl. | بَيْضَة - | ein | بَيْض
 | بَيْض | بَرِشْت * | weich gefocht
 | بَيْض | مَسْلُوق | hart gefocht
 | بَيْض | باض | -er legen i
 | بَيْض | مَكْنَات | - (von Seiden-
 | بَيْض | بَزُر pl. | - (von
 | بَيْض | مَازِن | - (von fischen)
 | بَيْض | سَرَاة | سَرَاء.

Eibe s. f., -nbaum s. m. نَوْع مِ
 | السَّرْو أَوْ الشَّرْبِين.

Eibisch s. m. غِسْل | خِطْمِي.

Eichamt s. n. مَحَلُّ الْمُعَايِرَة.

Eichbaum s. m., Eiche s. f. شَجَرَة
 | Eichel s. f. | بَلَّوط | eichen
 | بَلَّوط | a. مِ
 | بَلَّوط | حَشَب البَلَّوط.

eichen va. etw. | عَايَرَهُ | حَقَّق عِبَارَة.

Eichenholz s. n. حَشَب البَلَّوط.

Eichhorn s. n., Eichhörnchen s. n.
 | سِنْجَاب.

Eid s. m. | أَيْمَان u. | أَيْمَان pl. | يَمِين
 | حَلْف | أقسام pl. | قَسَم
 | حَلْف | كاذب | حَلْف زور
 | حَلْف | - ablegen, schwören i
 | حَلْف | حَلْف.

Eidam s. m. | أَصْهَار pl. | صَوْر
 | أَحْتَان pl.

Eidbruch s. m. | حَلْف زور | حَلْف

- | حَالِفٌ زُورًا | eidbrüchig a. | كاذِبٌ
 | حَلَفَ i زُورًا | werden --
 Eidechse s. f. | سَامٌ | أَوْرَالٌ pl. | وَرَلٌ
 | سَحْلِيَّةٌ* | |ر. | سَقَايَةٌ* - | |. | أَبْرَصٌ
 | حَرَاذِينٌ pl. | حِرْدُونٌ - | gr. | äg.
 | حِرْدُونٌ*
 Eiderdaunen s. pl. | زَغَبٌ.
 Eidesformel s. f. | صُورَةٌ | الْيَمِينِ
 Eidesleistung s. f. | حَلَفٌ.
 Eidgenosse s. f. | حَلِيفٌ | pl. | حُلَفَاءُ
 Eidgenossenschaft s. f. | مُحَالَفَةٌ
 | eidgenössisch a. | | أَهْلٌ | سُوسِرَا
 | eidlich a. | مَحْلُوفٌ | | سُوسِرِي
 | مُؤَكَّدٌ | بِحَلَفٍ | مُقْسَمٌ | عَلَيْهِ
 Eidotter s. n. | صَفَارٌ | ذَهَبٌ | الْبَيْضُ
 | الْبَيْضُ
 Eidschwur s. m. | |. | Eid.
 Eier-becher s. m. | فَنَاجَانٌ | لِأَكْمَلِ | الْبَيْضِ
 | فَنَاجِينٌ s. m. | | فَنَاجِينِ | pl.
 | قَشُورٌ pl. | قَشْرُ | الْبَيْضِ | s. f. | -|schale
 | مَبْيِضٌ | جُرْنُ | الْبَيْضِ | s. m. | -|stock
 Eifer s. m. | حَمِيَّةٌ | | غَيْرَةٌ | هِمَّةٌ
 | غَيْرَةٌ | عَلَى | غَيْرِ | هِدَايَةٍ - | blinder
 | دُو | حَمِيَّةٌ | | دُو | هِمَّةٌ | s. m. | -er
 | مُتَعَصِّبٌ | -n | vn. | für | od. | gegen
 | بَدَلٌ | u, | i | الجُهدِ | فِي | أَوْ | ضِدِّ
 | حَسَدٌ | | غَيْرَةٌ* | s. f. | -|sucht
- | أَاغَارَةٌ | | s. f. | -|füchtelei
 | غَيْرَةٌ | صَغِيرَةٌ* | -|füchtig a. | auf | jn.
 | حَاسِدٌ | | - | sein | auf
 | غَارٌ | i | عَلَيْهِ | jn.
 Eiform s. f. | دَائِرَةٌ | بَيْضِيَّةٌ
 | بَيْضِيٌّ a. | eiförmig | | أَهْلِيَلِيَّةٌ
 | أَهْلِيَلِيَّةٌ | | عَلَى | شَكْلِ | بَيْضَةٍ
 | دُو | حَمِيَّةٌ | | دُو | غَيْرَةٌ | | دُو | هِمَّةٌ | eifrig a.
 | مُجْتَهِدٌ | | غَيُورٌ
 Eigelb s. n. | صَفَارٌ | الْبَيْضِ | ذَهَبٌ | الْبَيْضِ
 | مَخْصُوصٌ | بٍ | | خَاصٌّ | بٍ | eigen a.
 | مُتَعَلِّقٌ | | خُصُوصِيٌّ | | seine -en
 | نَفْسِ | كَلَامِهِ | | عَيْنِ | كَلَامِهِ | Worte
 | مُسْتَقِلٌّ | -e | Leute | -er | Herr
 | مَمَالِيكَ | | عَبِيدٌ | | etw. | zu | - | haben
 | مَلِكٌ | | i | هِ | sich | etw. | zu
 | اسْتَمَلَكَ | هِ | | jm. | etw. | - | machen
 | مَلِكٌ | هِ | | zu | - | geben
 | خَوَاصٌّ | pl. | خَاصَّةٌ | s. f. | -|art | غَرِيبٌ
 | خُصُوصِيَّاتٌ | pl. | خُصُوصِيَّةٌ | -|artig
 | غَرِيبٌ | | خُصُوصِيٌّ | a. | -|düffel
 | عَجْبٌ | | هَانِدِيٌّ a. | -|händig
 | خُصُوصِيَّاتٌ | pl. | خُصُوصِيَّةٌ | s. f. | -|heit
 | حُبِ | الذَّاتِ | s. f. | -|liebe
 | ثَنَاءٌ | عَلَى | الذَّاتِ | s. n. | -|lob
 | إِخْتِيَارِيٌّ a. | -|mächtig | | الذَّاتِ
 | ظَلْمِيٌّ | | مُسْتَقِلٌّ | -|name s. m.

-nutz | عِلْمٌ | أَسْمَاءُ pl. | اسْمُ الْعِلْمِ
 | غَرَضٌ ذَاتِيٌّ | مَصْلَحَةٌ ذَاتِيَّةٌ s. m.
 | حَرِيصٌ -nützig a. | طَمَعٌ | حِرْصٌ
 | -schaft | خُصُوصًا -s adv. | طَمَاعٌ
 | خَاصَّةٌ | صِفَاتٌ pl. | صِفَةٌ s. f.
 | خَاصِّيَّاتٌ pl. | خَاصِّيَّةٌ | خَوَاصٌّ pl.
 | -schaftswort | كَيْفِيَّةٌ | خِصَائِصٌ u.
 | نَعْتٌ pl. | صِفَاتٌ pl. | صِفَةٌ s. n.
 | مُعَانِدَةٌ | عِنَادٌ -sinn s. m. | نُعُوتٌ
 | -sücht a. | مُعَانِدٌ | عَنِيدٌ -sinnig a.
 | -süchtig a. | حُبُّ الذَاتِ s. f.
 | أَصْلِيٌّ a. | -lich | مُحِبُّ الذَاتِ
 | أَصْلًا | حَقِيقَةً adv. | حَقِيقِيٌّ
 | -tum s. n. (Be- | بِحَضْرِ الْمَعْنَى
 | -fessene | تَمَلَّكَ | مِلْكٌ (beseßene
 | pl. | مَتَاعٌ | أَمْلاكٌ pl. | مِلْكٌ (Sache)
 | -tümer | أَمْوَالٌ pl. | مَالٌ | أَمْتِئَةٌ
 | pl. | صَاحِبٌ | مَلَاكٌ pl. | مَالِكٌ s. m.
 | أَرْبَابٌ pl. | رَبٌّ | ذُوٌّ | أَصْحَابٌ
 | -tümlich a. | خَاصٌّ | مَخْصُوصٌ
 | -tümlichkeit | غَرِيبٌ | خُصُوصِيٌّ
 | pl. | خُصُوصِيَّةٌ | خَوَاصٌّ pl. | خَاصَّةٌ s. f.
 | -wille s. m. | خُصُوصِيَّاتٌ pl.
 | مُعَانِدٌ | عَنِيدٌ a. | -willig | عِنَادٌ
 | eignen va. | jmt. | etw. | هُ | مَلَّكَ هُ
 | sich - zu etw. | لِي u. | صَلَحَ | -
 | jmt. | كان u. | مِنْ مُلْكِهِ | كان u. | لَهُ jmt.

Eigner s. n. | حَصٌّ u. | بِهِ
 tümer.

Eiland s. n. | جَزَائِرٌ pl. | جَزِيرَةٌ.

Eilbote s. m. | سَاعَةٌ pl. | سَاعٌ
 | اسْتَعْجَالٌ | عَجَلَةٌ | عَجَلٌ | سُرْعَةٌ s. f.
 - haben | eilen | eilen vn. od.
 sich - a | عَجَلَ | اسْتَعْجَلَ | u. | سَرَعَ
 | اسْرِعًا adv. | اسْرِعَ | eilends adv.

eilf | elf.

eilfertig a. | مُعَجَّلٌ | سَرِيعٌ
 | -feit | بِالْوَفْرِ | عَلَى الْفُورِ | بِالْفُورِ
 s. f. | عَجَلَ | وَفَرَ | فُورٌ.

Eil-gut s. n. | مَنقُولَةٌ | بِالسُّرْعَةِ
 | مُعَجَّلٌ | مُسْرِعٌ | سَارِعٌ a. -ig
 | -marsch s. m. | مُسْتَعْجَلٌ | عَاجِلٌ
 | -zug s. m. | الْجَدُّ فِي السَّيْرِ
 | سَرِيعٌ.

Eimer s. m. | دِلَاءٌ pl. | دَلْوٌ (kupferner)
 | سَطُولٌ u. | أَسْطَالٌ pl. | سَطْلٌ
 | نَوْعٌ مِنَ الْأَكْيَالِ (Maß) -

ein num. | إِحْدَى f. | أَحَدٌ
 | واحِدَةٌ | der -e ... der andere
 | -s sein | البَعْضُ ... والبَعْضُ
 | es ist alles -s | اتَّحَدَ (Personen)
 | كُنَّةٌ سَوَاءٌ.

ein adv. (in Zusammensetzungen)
 | يَدُلُّ عَلَى الْبَدْءِ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ

(aus und - gehen | في التَّرْكِيبَاتِ)
 bei jm. | aus und - gehen | عَاشَرَ ه
 an einem Ort | تَرَدَّدَ فِي
 aus noch - wissen | ما لَهُ قِبْلَةٌ
 ولا دُبْرَةٌ.
 einander | die Brüder lieben | بَعْضُهُمْ
 - | الإِخْوَةَ يُحِبُّونَ بَعْضُهُمْ -
 ein-arbeiten sich in | تَعَوَّدَ ه
 a. | شُدْفَ pl. | شُدْفَاءَ f. | أَشْدَفَ a.
 -äschern | شُلَّ pl. | شَلَاءَ f. | أَشَلَّ
 va. etw. | أَحْرَقَ ه | atmen va.
 etw. | -- (durch die Nase) | تَنَفَّسَ ه
 -äugig | شَمَّ a | ه | اسْتَنْشَقَ ه
 a. | عُورَ pl. | عَوْرَاءَ f. | أَغْوَرَ a.
 mieren va. | حَنَطَ ه | in.
 s. m. eines Buchs | تَجَلِيدَ كِتَابٍ
 | -bändig a., -es | عَرَمَ * | إِصْحَافٍ
 | كِتَابٍ ذُو جُزْءٍ وَاحِدٍ | Buch
 | شَمِلَ a | ه | -begreifen va. etw.
 | -behalten | اسْتَمَلَ عَلَى | تَضَمَّنَ ه
 va. etw. | أَبْقَى ه عِنْدَهُ | -beißen
 vn. | عَضَّ a | فِي | -bekommen va.
 | -berufen va. | قَبَضَ i | المال
 | -berufung | أَمَرَ u | ه | بالاجْتِمَاعِ
 | -bescheren | أَمَرَ | بالاجْتِمَاعِ
 | -biegen vn. | bescheren | va. etw. | .
 | bilden v. sich | انْكَنَى فِي الطَّرِيقِ

etw. | تَخَيَّلَ ه | تَصَوَّرَ ه
 sich etw. - - auf | افْتَحَرَ ب
 eingebildet a. | خَيَالِيَّ |
 -bildung | مُعْجِبَ بِنَفْسِهِ | مَوْهُومِ
 s. f. | تَخَيَّلَ | تَصَوَّرَ | خَيَالٍ
 pl. | أَوْهَامِ | -bildungskraft s. f.
 | قُوَّةَ التَّخَيَّلِ | -binden va. Buch
 | عَرَمَ u | ه * | أَصْحَفَ ه | جَدَّدَ كِتَابٍ
 -blasen va. etw. | بالَنْفُخِ | ه
 | -bläsen va. etw. | - | أَتَسَفَ
 | ه | أَخْطَرَ بِبَالِهِ - | jm. etw.
 | ه | فِي ذِهْنِهِ | له الكلام
 | ه | فِي الذِّهْنِ | -bläser s. m.
 | ه | -bleuen va. jm. etw.
 | ه | بِالضَّرْبِ | -blick s. m. in etw.
 | - | نَظَرَ إِلَى | إِطْلَاعَ عَلَى
 | - | -blicken | -blicken
 | - | نَظَرَ إِلَى | إِطْلَاعَ عَلَى
 | -bohren va. etw. | تَفَرَّسَ فِي
 | ه | أُدْخَلَ ه | فِيهِ ثَاقِبًا
 | -brechen vn. | انْكَسَرَ | in ein Haus
 | - | كَخَلَ u | فِي دَارٍ بِالْقُوَّةِ - -
 | - | غَزَا u | الْبِلَادِ - - | (Nacht)
 | -brennen va. jm. | خَيَّمَ (الْكَيْلُ)
 | -bringen va. | وَسَمَ i | ه | ein Mal
 | ه | إِسْتَحْضَرَ ه | - | اتَى i | ب | جاءَ i | ب
 | - | - | (Gewinn) | - | اسْتَحْضَرَ ه
 | - | - | أَوْرَدَ ه * | كَسَبَ ه

holen, ersetzen) etw. رَبِحَ a بَعُدَ
 أَصْلَحَ | جَبَرَ u الأُمُور | الخَسَارَةَ
 مال الزَّوْجَةِ | das-gebrachte | الأُمُور
 -brocken va. (Brot
 in Milch) | فَتَّتَ الخُبْزَ فِي اللَّبَنِ
 bld. -- etw. هُ | أَجْرَى هُ
 -bruch s. m. (des Diebes) كَسَرَ
 أَوْ تَقَبَ اللَّصَّ تَحْصِيلاً لِلسَّرِيقَةِ
 - - (in ein Land) | غَزَا
 | أَوَّلَ اللَّيْلِ | -- der Nacht | غَزَاةٌ
 -bürgern va. etw. فِي | أَدْخَلَ هُ
 | أَدْخَلَ كَلِمَةً -- ein Wort | البَدَدِ
 | ein Wort im Arabischen | فِي النُّعَةِ
 | ein Wort im | عَرَبَ هَا --
 Deutschen -- | أَمَّنَ هَا --
 | خُسِرَ s. f. | تَبَدَّدَ | تَوَطَّنَ
 -- haben, | فُقِدَانِ | خَسَارَةَ
 erleiden f. -büßen | -büßen va.
 | خَسِرَ a هُ | -dämmen va., -deichen
 va. einen Fluß | سَدَّ u النَّهْرَ
 | ذُو مَعْنَى وَاحِدٍ a. -deutig
 | تَدَخَّلَ هُ أَوْ فِي | -drängen v. sich in
 | دَخَلَ u هُ أَوْ فِي | -dringen vn. in
 | نَفَذَ u هُ | خَرَقَ u هُ | بالقُوَّةِ
 | تَبَطَّنَ هُ | تَعَمَّقَ فِي | tief -- in
 | -dringlich | غاص u فِي | تَبَحَّرَ فِي
 | ذُو نُفُودٍ | ذُو تَأْثِيرٍ | نَافِذٍ a.

متدخّل | رَجُلٌ لَاجٍ s. m. -dringling
 pl. أَثَرٌ s. m. -druck | بلا حَقِّ
 -- machen | انْفِعَالٍ | تَأْثِيرٍ | آثار
 | أَمِلَ a فِيهِ | أَثَرَ فِيهِ | auf jn.
 | كَسَرَ البابَ | -drücken va. Thür
 | أَثَرَ فِي | -dem Gedächtnis -- sich
 | -drücklich a. f. -dringlich | التَّفَكَّرِ
 | سَطَّعَ هُ | سَوَّلَ هُ | -ebnen va. etw.
 | -en va. jn. u. etw. | سَوَّى هُ
 | جَمَعَ a هُ و هُ | وَحَدَّ هُ و هُ
 | اجْتَمَعَ | اتَّحَدَ -- sich
 | ضَيَّقَ هُ | etw.

أَحَدٌ | واحِدَةٌ f. واحدٍ num. einer
 | أَحَدَى f.

-lei | وَحْدَانِيَّةٌ | وَحْدَةٌ s. m. Einer
 | es ist | سَوَاءٌ | مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ
 | سَوَاءٌ عِنْدِي -- mir

ein-ernten va. etw. هُ | حَصَدَ
 | حَصَلَ u عَلَى -- Lob | نَالَ a هُ
 | غَيْرَ مُرَكَّبٍ | بَسِيطٍ a. -fach | الثَّنَاءِ
 | -- (nicht doppelt) | غَيْرَ مُصَنَّعٍ | سَهْلٍ
 | -fach | أَبْلَهَ (einfältig) -- | مُفْرَدٍ
 | حُلُوصِ النِّيَّةِ | بَسَاطَةٍ * s. f. heit
 | بَلَهَ | عَدَمَ التَّصْنَعِ | عَدَمَ التَّرْكِيبِ
 | أَدْخَلَ الخَيْطَ | -fädeln va. | بِلَاهَةِ
 | eine Sache fein -- | فِي الإِبْرَةِ
 | -fahren va. | دَبَّرَ الأمرَ بِذَكَاءِ

| | | |
|-------|-----|-----|
| giat: | ... | ... |
| jn. | ... | ... |
| Depo: | ... | ... |
| pl. | ... | ... |
| Depo: | ... | ... |
| pl | ... | ... |
| قأ | ... | ... |
| depe: | ... | ... |
| depe: | ... | ... |
| De: | ... | ... |
| D: | ... | ... |
| d: | ... | ... |
| z: | ... | ... |
| z: | ... | ... |

holen. erischen: amiradict

ا

خسارة

ذ

amiradict: Das-gewinn

ein

عند انكاح

a.

in Milch: سن

te)

bid. -- etno. a

a,

-bruch s. m. Das

gen

سرقه

an

-- in am

(su

خروء

ب

-bürgern

en

المبد

ق

نفعه

ر

--

ء

Deutschen

rt

قوطن

أ

خسارة

أ

erleiden

tte

amiradict: Dämmen

i a.

حبره

م

--

er --

amiradict

iv. |

amiradict

hen | -ge

amiradict

أموئيل |

amiradict

غرض |

Getreide | - - | راض u الحَيْل
 -- | vn. | نُقِل u الحُبُوب بِالْعَجَلَةِ
 | دَخَلَ u رَاكِبًا فِي عَجَلَةٍ أَوْ مَرْكَبٍ
 | -fahrt s. f. | نَزَلَ i فِي مَعْدِنٍ
 | نُزُولٍ | دُخُولٍ بِرُكُوبٍ (-fahren)
 | مَدْخَل (Ort) | - - | فِي مَعْدِنٍ
 | -fall s. m. | لِلْعَجَلَاتِ أَوْ الْمَرَاكِبِ
 | - - in ein Land | غَزَوْا | سَقُوطٍ
 | - - | غَزَا | غَزْوَةٌ | غَزَاةٍ
 | -fallen vn. u سَقَطَ | أَفْكَارٍ pl.
 | - - in ein Land | غَزَا u الْبِلَادِ
 | - - jm. (in den Sinn kommen)
 | - - jm. in die | خَطَرَ u بِبَالِهِ
 | -gefallen | قَاطَعَ كَلَامَهُ
 | -falt s. f. *بَسَاطَةٌ | -نَحِيل (Bachen)
 | -fältig a. | بَسِيطٌ | بَلَاهَةٌ | بَلَهُ
 | -fältigkeit s. f. | -falt | أَبْلُهُ
 | -faltspinsel s. m. | رَجُلٌ أَبْلُهُ
 | -fangen va. jm. | مَسَكَ u, i
 | -farbig a. | دُو لَوْنٍ | قَبِضَ عَلَيْهِ
 | -fassen va. etw. | أَحَاطَ بِ | وَاحِدٍ
 | - - ein Kleid mit الثَّوْبِ بِ |
 | - - | رَضَعَ ه | - - mit Edelsteinen
 | -fassung s. f. (eines Ortes, Mauer)
 | سُوْر | سِيَاجٍ | حِيْطَانٍ pl. حَائِطٍ
 | - - eines Kleides | حَاشِيَةٌ pl.
 | - - | كِفَافٍ pl. كَفَّةٌ | حَوَائِشٍ (mit

Edelsteinen) | تَرَضَعَ | -fetten va.
 etw. | دَهَنَ u ه | -finden v. sich
 an einem Ort | حَضَرَ u ه |
 | تَوَجَّهَ إِلَى | -flechten va. etw. in
 | حَلَطَ u هِبٍ | حَبَكَ u ه | شَبَكَ i ه
 | -flicken va. etw. in | فِي ه |
 | -fließen vn. in | فِي ه |
 | -lassen in | - - | انْصَبَ فِي
 | -flößen va. jm. etw. | فِي ه |
 | - - bld. | جَرَّعَ ه | سَقَى i ه
 | - - | أَمَلَى ه عَلَيْهِ | أَلْقَى ه فِي ذَهْنِهِ
 | -flüsteren va. jm. etw. | فِي ه |
 | -flüsterung s. f. | وَسْوَاسٍ | اِغْوَاءٍ
 | -fluß s. m. eines | وَسَاوِسٍ pl.
 | - - (-wirkung) | مَصَّبَ |
 | -flußlos a. | عَدِيمٌ | - | أَثَرَ فِي
 | -flußreich a. | كَثِيرٌ النُّفُودُ | - | نَفُودًا | تَأْتِيرٌ
 | -flußlos a. | عَدِيمٌ | - | عَمِلَ فِي
 | -flußreich a. | كَثِيرٌ النُّفُودُ | - | النُّفُودُ
 | -fordern va. etw. | ه | طَلَبَ
 | -förmig a. | مُتَسَاوِي الشَّكْلِ | -
 | -förmigkeit s. f. | عَدَمُ التَّغْيِيرِ | - | عَدَمُ التَّغْيِيرِ
 | -fressen vn. | قَرَضَ | - | قَرَضَ u أَكَلَ
 | -frieden va., -friedigen va. etw.
 | -frieren vn. | أَمْسِكَ بِالْبُرْدِ | - | سَبَّحَ ه | أَحَاطَ بِهِ بِحَائِطٍ أَوْ سِيَاجٍ
 | -fügen | أَمْسِكَ بِالْبُرْدِ | -

va. etw. in | أَذْرَجَ هـ فِي | أَذْخَلَ هـ فِي |
 -fuhr s. f. | جَدَّبَ | اجْتَلَابَ |
 | الوارِدات | إِذْخَالَ | اسْتَجْلَابَ |
 -führbar a. | مُمَكِّن | مُمَكِّن جَلْبُهُ |
 | إِذْخَالُهُ | -führbarkeit s. f. |
 | إِذْخَالِهِ | -führen |
 va. etw. in | -- | أَذْخَلَ هـ فِي |
 | اسْتَجَلَّبَ هَا | جَلَّبَ | البَضَائِعِ |
 | -- | أَوْرَدَهَا مِنْ بَلَدٍ |
 | -- | أَذْخَلَ هـ | -- | أَجْرَى الْعَادَّةِ |
 | -- | حَضَرَ هـ | جَمَّ | in. in ein Amt |
 | -- | -- | هـ | وَطَّفَ هـ | -führung s. f. |
 | -- | جَلَّبَ | -füllen va. etw. |
 | -- | هـ | صَبَّ هـ | -gabe s. f. |
 | -- | دُخُولَ | -gang s. m. |
 | -- | مَدَاخِلَ | pl. مَدْخَلَ | (Ort) |
 | -- | -- | ابْتِدَاءَ | (Anfang) |
 | -- | -- | وَرُودَ | (Ankunft) |
 | -- | -- | هـ | فِي الْآبِتِدَاءِ | -gangs adv. |
 | -- | -- | هـ | فِي الْآوَلِ | -gangs Zoll s. m. |
 | -- | تَسْرِيحَ | تَذَاكِرَ | pl. تَذْكِرَةَ | الوارِدات |
 | -- | هـ | مَعْطَى | -geben va. jm. Medizin |
 | -- | هـ فِي | -- | الدَّوَاءِ |
 | -- | -- | هـ | أَوْحَى إِلَيْهِ | -gebildet |
 | -- | مَوْهُومَ | وَهْمِيَّ | خِيَالِيَّ |
 | -- | -- | هـ | بِنَفْسِهِ | -geboren a. |
 | -- | -- | بَلَدِي | وَطَنِيَّ |

(einzig geboren) | وَجِيدَ | -gebung
 s. f. | إِيْقَاءَ فِي الْقَلْبِ | إِيْحَاءَ |
 | ذَاكِرَ | -gedenk a. | تَلْقِيْنَ | إِيْعَاءَ |
 | -- | einer Sache gen. -- | sein
 | -- | هـ | ذَكَرَ | -gefallen a. |
 | -- | هَابِطَ * | سَاقِطَ | (Bache)
 | -- | -- | نَجِيْلَ | -fallen | -gefleischt a.,
 | -- | -- | سَيِّءَ الْأَخْلَاقِ | -gehen
 vn. in | -- | هـ | دَخَلَ | -- | (an-
 kommen) | -- | وَرَدَ | i | وَصَلَ | i |
 Grunde gehen, aufhören) | باد |
 | -- | -- | خَرِبَ | a | تَلَفَ | a |
 | -- | -- | اِنْحَصَرَ | i | قَلَصَ |
 | -- | -- | كَمَثَرَى | u | رَضِيَ | a |
 | -- | -- | هـ | عَاشَرَ | -aus und -gehen bei jm. |
 | -- | -- | هـ | تَرَدَّدَ فِي | -aus und -gehen an einem Ort |
 | -- | -- | هـ | أَبْطَلَ | -etw. -- |
 | -- | -- | هـ | عَقَدَ | -Wette
 mit jm. | -- | هـ | رَاهَنَ | -gemacht a. |
 | -- | -- | هـ | مَرْبَبَاتَ | pl. مَرْبَبَ | (Früchte) |
 | -- | -- | هـ | مَرْبَبَاتَ | pl. مَرْبَبِيَّ * | -sauer -- |
 | -- | -- | هـ | مَكْبُوسَ * | (Gurken 2c.) |
 | -- | -- | هـ | مَخَلَّلَ | -ge-
 nommen a. | -- | هـ | أَعْرَاضَ |
 | -- | -- | هـ | غَرَضَ | -für jm. -- |
 | -- | -- | هـ | مَالٍ | i | هـ | -gegen jm. -- | sein

- تَحَامَلٌ | مال عَلَيْهِ | غَرَضٌ مِنْهُ
 -nehmen | -genommen-
 heit s. f. تَحَامَلٌ | سَبَقَ الظَّنَّ |
 -geschrieben a. (Brief)
 -[schreiben | -geständ-
 nis s. n. اِقْرَارٌ | اِعْتِرَافٌ |
 -gestehen
 va. etw. اِقْرَبَ | اِعْتَرَفَ بَ |
 -geweide s. pl. اَحْشَاءٌ |
 بَطْنُ - - der Erde مَصَارِينُ
 -gewöhnen
 v. sich an einen Ort od. Ver-
 hältnisse تَعَوَّدَ بِمَحَلٍّ أَوْ بِأَحْوَالٍ
 -gezogen a. مُنْفَرِدٌ | مُعْتَزِلٌ |
 -ziehen | -gezogenheit اِعْتَزَلَ
 اَصَبَّ u ه | -gießen va. etw. اِنْفِرَادٌ
 -graben va. etw. حَفَرَ i ه |
 bld. نَقَشَ u ه | نَقَرَ u في
 اَصَمَّ ه | اَبَصَمَ u ه | اَثَبَتْ ه في
 in | تَدَاخَلَ في in
 die Rechte is. - - تَعَدَّى عَلَيْهِ
 - - in einander | جَارٌ u عَلَيْهِ
 اِنْدَمَجَ | تَدَاخَلَ في بَعْضِهِ
 -grenzen va. تَعَشَّقَ * | تَحَبَّكَ *
 -griff | حَصَرَ i ه | حَدَّدَ ه
 - - unrechtmäßiger | تَدَاخَلَ s. m.
 -halt s. m., einer | جَوْرٌ | تَعَدَّى
 Sache dat. - - thun ه a مَنَعَ |
- halten va.
 etw. ه a مَنَعَ | ه a قَمَعَ | vn.
 -handeln | وَقَفَ | i زال | a اِنْقَمَعَ
 va. etw. ه | اِشْتَرَى ه
 va. jm. etw. ه اَيْتَمَّ ه اَيْتَمَّ ه
 قَبَضَ ه | - - jm. Geld ه اَيْتَمَّ ه
 | -händigung s. f. تَسْلِيمٌ | اِمَالٌ
 | -hängen va. etw. ه اَعْلَقَ |
 -hauchen va. jm. اُدْخَلَ ه
 | نَفَخَ بِفَمِهِ فِي | الهَوَاءِ فِي صَدْرِهِ
 -hauen
 va. اَحْيَا ه - - jm. Leben
 | كَسَرَ البَابَ بِالْفَأْسِ
 | نَقَشَ u ه - - etw. in Stein
 | اِنْقَصَّ - - vn. auf die Feinde
 | - (viel essen) vulg. - - | على الأعداء
 | -heften va. etw. in
 اَكَلَ u كَثِيرًا
 | -hegen va. etw. | خَيَّطَ ه بَيْنَ
 | -heimisch a. اَوْطَنِي | سَيَّجَ ه
 | -heimisen va. etw. ه u حَصَدَ |
 | -heiraten vn. in eine familie
 اِقْتَرَنَ بِالنِّزَاجِ | تَأَهَّلَ
 | وَحْدَانِيَّةٌ | وَحْدَةٌ | Einheit s. f.
 | -lich a. مُتَّفِقٌ | - | اِتِّفَاقُ الأَجْزَاءِ
 | -lichkeit s. f. اِتِّفَاقُ
 الأَجْزَاءِ.
 | دَفَأَ ه | سَخَّنَ التَّنُّورَ | ein-heizen vn.
 | -helfen v. | خَوَّفَ ه - - bld. jm.

jm. | اِنْتَسَفَ لَهُ الْكَلَامُ | hellig a.
 | مُتَّحِدٌ | helligkeit
 | اِتِّفَاقُ الْآرَاءِ | s. f.
 | تَقْوِيمٌ عَامٌّ |
 einher adv. | إِلَى هُنَا |
 ein-holen va. | اَلْحَقَّ بِهٖ |
 | اِسْتَقْبَلَهُ -- | jn. feierlich |
 | طَوَى | i القِلاع - - | die Segel
 | لَمْ | u ها | Nachrichten - - über
 | اِسْتَشْبَرَ عَنْ | Rat - - bei jm.
 | اِسْتِشَارَةٌ | -holung s. f.
 | حَيَوَانٌ ذُو قَرْنٍ | fi -horn s. n.
 | جَبْهَتِهِ كَالْكُرْكَدَانِ | -hufer s. m.,
 | ذُو حَافِرٍ أَوْ سُنْبُكٍ | -hufig a.
 | لَفَّ | u s | fi in | -hüllen va. jn.
 | سَمَّلَ | s | fi | زَمَلَ | s | fi
 einig a. | مُتَّفِقٌ | | مُتَّحِدٌ |
 | اِتَّفَقَ | | اِتَّحَدَ | | - sein
 | اِتَّفَقَ | | اِتَّحَدَ | | - werden
 | اِتَّفَقَ بِالثَّمَنِ | -e pl. des Preises
 | اِتَّفَقَ | | اِتَّحَدَ | | -en v. sich
 | اِجْتَمَعَ | | va. jn. u. etw. |
 | جَمَعَ | u s | و ه | -ermäßen adv.
 | فَعِيَتْ | s. f. | | فِي بَعْضِ النِّسَبِ |
 | اِتِّفَاقٌ | | اِتِّحَادٌ | | -ung s. f.
 ein-impfen jm. | اَلْقَحْمُ | die Pocken
 | طَعَّمَ الْجَدْرِيَّ * | | الجَدْرِيَّ |
 | اَشْرَبَ عَقْلَهُ بِ | - - bld. | jagen

va. jm. | خَوْفٌ | s | furcht | -jährig
 | اِبْنُ سَنَةٍ | | اِحْدَةٌ | a.
 | وَاِحْدَةٌ | | -jähriger s. m., -jährig
 | مَنْ يَتَجَنَّدُ فِي | freiwilliger s. m.
 | الْجَيْشِ الْأَمَانِيِّ | مُدَّةَ سَنَةٍ | وَاِحْدَةٌ |
 | قَبِضَ | i المال | Geld | -passieren va.
 | مُشْتَرَى | | شِرَاءٌ | s. m. | -kauf
 | اِشْتَرَى | | ه | etw. | -kaufen va.
 | مُشْتَرٍ | | -fehr s. f. | Käufer s. m.
 | دُخُولٌ فِي دَارٍ | | نُزُولٌ فِي دَارٍ | - -
 | نَزَلَ | i عِنْدَهُ | | jm. | -halten bei
 | نَزَلَ | | (im Gasthaus zc.) | -fahren vn.
 | نَزَلَ | i | (في لو كُنْدَةٌ مِثْلًا) | | -حل
 | شَدَّ | u ه | بِالْحَابُورِ | etw. | -feilen va.
 | حَزَّ | u ه | | etw. | -ferben va.
 | سَجَنَ | u s | | jn. | -ferfern va.
 | حَبَسَ | i s | | etw. | -fitten va.
 | ه | | بِالْمِلَاطِ | | -flagen va. Schulden
 | طَالَبَ | s | شَرَعًا | بِالذِّينِ | -flam-
 | وَضَعَ | a | | ein Wort | -mern va.
 | كَلِمَةً | | بَيْنَ قَوْسَيْنِ | s. m. | -flang
 | اِتِّفَاقٌ | | مُطَابَقَةُ الْأَصْوَاتِ | | اِيقَاعٌ |
 | اَلْبَسَ | s | | u s | | -fleiden va. jn.
 | لَفَّ | u ه | | غَطَّى | | ه | bld. | -fleidung
 | اَلْبَاسِ | | اِكْسَاءٌ | | s. f. | -flemmen va.
 | حَزَقَ | i ه | | شَدَّ | u ه | | etw. | -flöpfen
 | اَدْخَلَ | ه | | غَرَزَ | i ه | | في | | etw. | va.

-lochen va. etw. ه u سَدَق |
 -kommen vn. (Geld) قَبِضَ (امال) |
 i وصل | bei jm. - - um etw.
 i التَّمَسَ ه مِنْهُ | bei Gericht - -
 | رَافَعَ إِلَى الْقَاضِي - - jm. (ein-
 fallen) | خَطَرَ u بِبَالِهِ -kommen
 s. n. | وُصُولِ الدُّخُلِ * |
 -kommensteuer s. f. | تَمَتَّعَ * |
 -framen va. Waren | فَرَدَّةَ *
 -freisen va. etw. | لَمَّ u البَضَائِعِ
 -fugeln | حَدَقَ i ب | أَحَاطَ بِ
 v. | تَكَوَّرَ |
 -laden va. Waren | الإِيرَادَاتِ *
 in ein Schiff 2c. | شَكَّنَ a مَرَكَبًا
 | دَعَا u ه إِلَى | zu - - |
 | إِسْتَدْعَى ه إِلَى |
 der -geladene | ضَيْفٍ pl. |
 -ladung s. f. | دَعَا |
 ein Schiff 2c. | فِي البَضَائِعِ
 | الإِيرَادَاتِ * |
 | المَرَكَبِ |
 | طَيَّهَ - - |
 | إِذْنٍ فِي |
 | تَذَكَّرَ |
 | تَذَاكُرٍ pl. |
 | إِذْنٍ فِي |
 | خَاضَ u فِي |
 | تَقَيَّدَ بِ |

-laufen | اتَّصَلَ بِهِ |
 vn. (ankommen) | وَرَدَ i |
 | اتَّخَصَّرَ (sich zusammenziehen) - -
 | قَلَصَ i (Stoff) - - |
 | وَصُولِ -laufen s. n. |
 | أَخْبَرَ -läuten va. ein fest |
 | بِالعِيدِ بالنَوَاقِيسِ |
 | تَعَوَّدَ بِ |
 | وَضَعَ a ه فِي |
 | أَشْرَبَ ه الحَلَّ - - |
 | خَلَّلَ ه |
 | البَسَ ه بِ |
 | رَصَّعَ ه بِ |
 | ائْتَاذٍ |
 | شَفَعَ - - |
 | تَشَفَّعَ لَهُ |
 | جَهَّزَ ه |
 | إِسْتَنْطَقَ - - |
 | مُقَدِّمَةَ |
 | فَاتِحَةَ |
 | دِيبَاجَةَ - - |
 | إِسْتَنْطَقَ (eines Verfahrens) |
 | رَجَعَ إِلَى صَدَدٍ |
 | ارْتَحَى (nachgeben) - - |
 | خَسَفَ i |
 | حَفِظَ a ه |

-leuchten vn. jm. i | وَضَعَ | بان |
 -leuchtend a. | يَبِين | واضح |
 -liefern va. etw. ه | سَلَّمَ |
 a. | طَيِّه | الكائن في طَيِّه |
 -lösen va. Pfand | خَلَّص | لَقَا
 وَفَى | Wechsel - - | الرهن
 وَفَى | sein Wort - - | بالبُولِصَة *
 | أَنَامَ | بالغِنَاءِ | - | بوعُدِّه
 - | كَبَسَ | ه | (Früchte 2c.)
 | أَشْرَبَ | ه | in Zucker
 | رَبَّى | ه | في السُّكَّرِ * | السُّكَّرِ
 | أَشْرَبَ | ه | in Eßig
 | ه | الخَلِّ

einmal adv. | فَرَدَ مَرَّةً | مَرَّةً | وَاِحِدَةً
 | سَوِيَّةً * | مَعًا | (zusammen) - auf
 | (plötzlich) - | auf | في وَقْتِ وَاِحِدِ
 | - | über das andere, - | بُغْتَةً
 | بَعْضُ | | المَرَّةِ | بَعْدَ المَرَّةِ
 | يَوْمًا | | مَرَّةً | (einmal) - | المَرَاتِ
 | في يَوْمٍ | من الأيام | في ذات يَوْمٍ
 | شَجَرَةً | ضَرَبَ | الأَعْدَادِ | - | ein
 | الحَاصِلِ | مَرَّةً | وَاِحِدَةً | - | ig a.

Ein-marsch s. m. | دُخُولَ الجُنُودِ |
 - | marschieren vn. in einen Ort
 | - | master | دَخَلَ | u | في بَلَدِ (الجُنُودِ)
 | مَرَكَبَ | دُو | صَارَ | وَاِحِدٍ | s. m.
 | - | mauern va. etw. | في

-mengen va. | حَائِطَ | - | mischen |
 - | messen va. etw. | ه | i | قَاسَ
 | - | mieten v. sich in | وَأَدْخَلَ | ه | في
 | - | einem Hause دارًا | اسْتَأْجَرَ
 | - | mischen va. etw. in | ه | u | خَلَطَ
 | - | Mischung | تَدَاخَلَ | في | - | sich
 | - | mummen va. jm. | تَدَاخَلَ | s. f.
 | - | شَمَلَ | ه | بِ | | زَمَلَ | ه | بِ | in
 | - | münden vn. in | لَفَّ | ه | u | بِ
 | - | mündung s. f. | انْصَبَّ | في
 | - | mut s. m. | اتَّفَقَ | الآراءِ |
 | - | mütigkeit s. f. | مُتَّفِقِ | الآراءِ | a.
 | - | nähern va. etw. in | اتَّفَقَ | الآراءِ
 | - | nahme s. f. (einer | خَاطَ | i | ه | في
 | - | von | فَتَحَ | المَدِينَةَ | Stadt)
 | - | Steuern | تَحْصِيلِ | الجَبَايَاتِ
 | - | إيرادات pl. | إيراد | دَخَلَ | (-kommen)
 | - | nehmen | مَدَاخِيلِ | pl. | مَدْخُولِ *
 | - | va. Stadt | فَتَحَ | a | المَدِينَةَ
 | - | تناول الطعام | عَنِهَا | - |
 | - | Arznei | تَعَاطَى | الدَّوَاءِ | - |
 | - | Platz | قَبَضَ | i | المالِ | Geld
 | - | شَغَلَ | ه | | وَسَعَ | ه | | مَلَأَ | المكانِ
 | - | genommen sein für jm. | غَرَضَ
 | - | genommen | مالِ | i | إِلَيْهِ | إِلَيْهِ
 | - | sein gegen jm. | غَرَضَ | مِنْهُ |
 | - | nehmer | تَحَامَلَ | عَلَيْهِ | مالِ | عَلَيْهِ

-reiben va. etw. | الخُرُوج بِالْمَطَرِ
 | دَلَّكَ u ه | دَعَكَ a ه | مَسَحَ a ه
 -reibung s. f. | دَعَكَ | دَلَّكَ -reichen
 va. etw. jm. od. bei jm. ه | سَمَّ ه
 | قَدَّمَ ه لَهُ | عَرَضَ i ه لَهُ | إِلَيْهِ
 -reihen va. etw. ه | نَظَّمَ i ه
 | رَتَّبَ ه | دُو صَفِّ a. -reihig
 | صَفِّ u ه | هَدَمَ i Haus -reißen
 va. | وَاوَّحِدَ | دَمَّرَ ها | الدار
 | مَزَّقَ i Papier - - (schlechte
 | الوَرَقَ قَلِيلًا | vn. - - (Gewohnheit)
 | اِنْتَشَرَ (عَادَةٌ رَدِيئَةٌ)
 -reiten vn. in einen Ort ه u | دَخَلَ
 | رَدَّ u | رَاكِبًا -renken
 va. | العَضْوَ إِلَى مَحَلِّهِ
 -rennen va. | كَسَرَ i الباب
 بِالْجُرْيَانِ | Thür | اِسْتَفْعَلَ - -
 offene Thüren | ضَمَّتْهُ
 -richten va. etw. | بِأَشْيَاءَ
 | بَاطِلَةً | جَهَّزَ ه | نَظَّمَ i ه
 | رَتَّبَ ه | رَدَّ u | العَضْوَ
 - - | اَسَّسَ ه | جَهَّزَ دَارَهُ - -
 | اِىح | إِلَى مَحَلِّهِ
 -richtung s. f. | وَقَرَّ | رَتَّبَ
 | اَثَانَهُ | تَرْتِيبَ الدارِ | نِظَامَ
 | تَرْتِيبَ | حَبَسَ -riegeln
 va. | نَاسِيسَ | دُخُولَ
 s. m. | رِيتَ - | بِالْمِتْرَسِ
 | حَزَّ u ه | رِيتَ va. etw.
 | بِالرُّكُوبِ | لَفَّ u ه | فَرَضَ
 i ه | اِفْسَدَ | صَدِيَّ
 | bld. i, u

-rücken vn. (Soldaten) in eine
 Stadt | اَلْمَدِينَةَ (العَسَاكِرُ) | دَخَلَ
 in js. Stelle - - | مَكَانَهُ u
 | عَقَّبَ | etw. - - lassen in eine Zeitung
 | اَدْرَجَ ه | فِي جَرِيدَةٍ
 -rühren va. | دَوَّبَ ه | فِي
 | حَلَّ u ه | فِي | اَحَدَ |
 | وَاِحِدَةً f. | وَاِحِدًا num. eins
 | اِحْدَى f. | -sacken
 | زَرَعَ | بَدَّرَ s. f. | Ein-saat
 | وَضَعَ a ه | فِي جَيْبِهِ
 -salben va. etw. mit | ه ب |
 | دَهَنَ u ه | -salzen va. etw.
 | مَسَحَ a ه | ب | مُنْفَرِدًا
 | وَاِحْدَانِيَّ | -sam a. | مَلَّحَ ه
 | اِنْفِرَادًا | خَلْوَةً s. f. | -samkeit
 | خَالَ | وَاِحْدَانِيَّةً * |
 | وَاِحِدَةً * | اِعْتِرَالَ | خَلَاءَ
 | مَحَلَّ خَالَ (Ort) - - | لَمَّ
 u ه | -sammeln va. etw. | حَصَدَ
 u ه | جَمَعَ a ه | وَضَعَ
 a | اَلْمَيْتَ فِي الصُّنْدُوقِ | vn. |
 | رَأْسَ مَالٍ فِي لَعِبٍ | -satz
 s. m. | رَهْنًا pl. | رَهْنًا
 -saugen va. etw. | مَصَّ u ه | - -
 | مَصَّ u ه | شَرِبَ a ه
 (Schwamm zc.) | اِسْفِجَّ
 | (الْاِسْفِجُّ مِثْلًا) | -schalten
 va. etw. | رَكَّبَ ه | دَمَجَ ه
 | اَدْرَجَ ه | فِي | einen
 Tag im Jahr - - | كَبَسَ i
 | السَّنَةَ - -

تَحَصَّنَ | sich schanzen v. | يَوْمٍ
 بِمَتَارِيسٍ | schärfen va. jm.
 etw. | أَوْصَى بِ | scharren va.
 jm. u. etw. | دَفَنَ | i s u h
 | schenken va. etw. | ه | صَبَّ | u h
 | سَكَبَ | u h | كَبَّ | u h *
 | سَقَى | i s h -- | كَبَّ | u h *
 | أَشْرَبَ | s h | jm. klaren Wein --
 | عَرَفَ | s h | حَقِيقَةَ الْأَمْرِ
 | schicken va. jm. etw. | ه | إِلَيْهِ
 | أَذْرَجَ | h | في | schieben va. etw.
 | شَيْءٍ | schiefel s. n. | أَذْخَلَ | h | في
 | مُدْرَجٍ | schießen va. Stadt
 | المَدِينَةَ | -- | المَدِينَةَ | بالمَدْفَعِ
 | جَرَّبَ | Geld in eine
 | كَاسَةً | -- | صُنْدُوقٍ | --
 | تَمَرَّنَ | بإِطْلَاقِ الرِّصَاصِ | -- | sich
 | شَحَنَ | schiffen va. Waren a
 | المَرْكَبِ | -- | البَضَائِعِ
 | أَتَحَرَ | -- | sich | أَرْكَبَ | الجُنُودَ
 | مَرْكَبًا | نَزَلَ | i | في | المَرْكَبِ *
 | رَكِبَ | a | البَحْرِ
 | رَقَدَ | u | نام | a | schlafen vn.
 | نَوَّقَى | (sterben) | -- | نَعَسَ | u a
 | أَبْطَلَ | -- | سَكَنَ | u bld. --
 | خَدِرَ | a | جَبَلَ | a | (عضو) (Glieder)
 | أَنَامَ | s h | schläfern va. jm.
 | تَشَبَّكَ * | سَكَنَ | s h | bld. -- | نَعَسَ | s h *
 | أَرْقَدَ | خُبْنَةَ | schlag s. m. (am Kleide)

pl. كِفَافٍ | pl. كُفَّةٍ | غَبْنَةً | خُبْنَ |
 | كَسَرَ | i | الباب | Thür | schlagen va.
 | بِالضَّرْبِ | jm. die Zähne --
 | كَسَرَ | i | أَسْنَانَهُ | Nagel -- in die
 | دَقَّ | u | المِسْمَارِ | بالحَائِطِ | Wand
 | لَفَّ | u | البَضَائِعِ | في | -- | Waren
 | سَارَ | i | في | الطَّرِيقِ | -- | Weg --
 | نَزَلَتْ | الصَاعِقَةُ | (Blitz) --
 | تَوَقَّقَ | a | نَجَحَ | (Erfolg haben)
 | -- | (Hand geben zur Einwilligung)
 | تَصَافَحَ | علامَةً | للِرِّضَاءِ | in ein Fach
 | إِخْتَصَرَ | بٍ | خَصَّ | u | بٍ --
 | تَابَعَ | لٍ | تَعَلَّقَ | بٍ | schlägig a.
 | مُتَعَلَّقٍ | بٍ | متعلق sich in
 | كَخَلَ | u | فِيهِ | خَفِيَّةً | schleifen
 | نَحَّتَ | i, u | ه | في | etw. va.
 | قَصَبَ * | | زَمَلَ | u, i * | schleppen
 | أَذْخَلَ | h | جَارًا | Krank-
 | أَذْخَلَ | -- | in einen Ort
 | المَرَضِ | في | بَدَدَ | schließen va. etw.
 | قَفَلَ | i | ه | -- | Stadt
 | حَاصَرَ | المَدِينَةَ | -- | etw. (um-
 | إِحْتَوَى | bld. -- | أَحَاطَ | بٍ | geben)
 | تَضَمَّنَ | ه | إِشْتَمَلَ | عَلَى | ه | أَوْ عَلَى
 | مَضْمَنًا | مَعًا | لَفًّا | طَيِّهَ | geschlossen
 | مَضْمَرًا | | دَاخِلًا | adv. | schließlich
 | مَضْمَنًا | | مَعًا | | schließung s. f.

-{schlucken va. | مُحَاصِرَةٌ | إِحَاطَةٌ
 etw. ه a | بَلَع -{schlummern vn.
 a | نام | a, u | نَعَس - -- bld.
 u | سَكَن | هَدَأ | -{schlürfen va.
 etw. ه | نَجَّرَع -{schluß s. m. |
 الواصل (das -geschlossene) - -
 -{schmeicheln v. sich bei jm.
 | طَيَّه | دَخَلَ u | فِي نِعْمَتِهِ بِالْتَمَتَّق
 -{schmeißen va. etw. ه i | كَسَرَ
 -{schmelzen va. Metalle | بِالرَّمَى
 | صَبَّ u | هَا | سَبَكَ i | المَعَادِن
 -{schmieren va. etw. | أَفْرَغَ هَا
 -{schmuggeln va. Waren | دَهَن u | ه
 | أَدْخَلَ البَضَائِعَ تَوْرِيْبًا مِنَ الكُمْرِكَ
 -{schnallen va. etw. | شَدَّ u | هِ بِسَيْرٍ
 -{schnappen va. Luft | تَنَفَّسَ
 -{schneiden va. etw. in | نَحَّتْ i | ه
 | قَصَّبَ * | زَمَلَ u, i | ه *
 | فَرَضَ i | ه | جَزَّ u | ه - - in etw.
 -{schneidend a. | قَاطِعَ | جَازِمَ -{schnitt
 s. m. | حَزَّ -{schnüren va. etw.
 | شَدَّ u | ه | بِحَبْلِ
 -{schöpfen va. | غَرَفَ u, i | ه
 -{schränken va. | حَصَرَ i | ه | حَدَدَ ه
 | قَتَلَ نَفَقَاتَهُ - - | قَيَّدَ ه
 | اِكْتَفَى بِ | اِقْتَصَرَ عَلَى - - | سِجْ
 -{schränkung s. f. | حَصَرَ | تَقْصِيرَ

-{schrauben va. etw. | تَقْيِيدَ
 -{schreiben va. | ضَبَطَ i | ه | بِالْبِرَاقِي
 etw. auf | ه u | كَتَبَ - -
 | وَقَعَ ه | قَيَّدَ ه (registrieren)
 | سَوَّكَرَ ه (Brief) - - | سَجَّلَ ه
 -{schreiten | قَيَّدَ آسْمَهُ - - | سِجْ
 vn. | تَدَاخَلَ -{shrumpfen vn.
 | قَلَصَ i (Seug) - - | ضَاقَ i | اِنْحَصَرَ
 | اِدْرَاجَ -{shub s. m. | كَمَشَى u
 -{shüchtern va. jm. | شَىءَ مُدْرَجَ
 -{shustern va. etw. vulg. | خَوَّفَ ه
 -{shütten | خَسِرَ a | ه | مِنَ المَالِ
 va. etw. in | ه u | صَبَّ -
 -{schwärzen va. f. | -{schmuggeln |
 -{schwätzen va. jm. etw. | أَقْنَعَ ه | بِ
 -{schwemmen vn. | اِنْحَنَى فِي الطَّرِيقِ
 -{segnen va. christl. Eheleute | صَلَّى
 - - | كَلَّلَ هُمَا * | عَلَى المُنْتَزَوِّجِيْنَ
 | مَيَّرَنَ هُمْ * | ثَبَّتَ الأَوْلَادَ Kinder
 -{segnung s. f. christl. (der Ehe)
 | تَثْبِيْتِ (der Kinder) - - | تَكْوِيلَ *
 | اَطَّلَعَ -{sehen va. etw. | مَيَّرُونَ *
 | اِمْتَنَحَنَ ه | فَحَصَ a | عَنِ | عَلَى
 | اَدْرَكَ ه (erkennen) - -
 -{seifen va. | عَرَفَ i | ه | فِيهِمَ a | ه
 | صَبَّنَ ه * | غَسَلَ i | ه | بِالصَّابُونِ etw.
 | اَسْكِرَ ه vulg. - - | صَوَّبَنَ *

واقع في طرف a. -feitig | غَسَّ u ه
 -feitigkeit s. f. | دُو أَغْرَاضٍ | واحد
 -senden | تَعَصَّبَ | تَغَرَّضَ | غَرَضَ
 va. jni. etw. ه | أَرْسَلَ ه | إِلَيْهِ
 -sender s. m. | الْمُرْسِلُ | -senken
 va. etw. ه | أَنْزَلَ | -setzung s. f.
 -setzen va. etw. | مُنَحَّدَرٌ | إنزال
 in -- in eine | وَضَعَ a ه | في in
 Zeitung | أَدْرَجَ ه | في جَرِيدَةَ
 -- im Spiel | الرَّهْنُ فِي اللَّعِبِ
 jni. -- ه | أَقَامَ ه | in ein Amt
 -- zum Erben | وَظَّفَ ه * | --
 -setzung | عَيَّنَ ه | وَاِرْتًا | أَقَامَ ه | وَاِرْتًا
 s. f. | تَوْظِيفٌ * | تَعْيِينٌ | وَضَعٌ | s. f.
 -sicht s. f. in etw. | عَلَى | -sicht
 ذكاء (Verstand) -- | وَقُوفٌ عَلَى
 -- in etw. | فِطْنَةٌ | نِبَاهَةٌ | عَقْلٌ
 haben, nehmen | عَلَى | وَقَفَ | i
 -sichtig a., -sichtsvoll a. | ذَكِيٌّ
 -sichern s. n. | فَطِنٌ | نَبِيهٌ | حَازِقٌ
 | نَقَعَ | تَشَرَّبَ | إِبْتَلَّ | تَبَلَّلَ
 -fiedelei s. f. | مَنَاسِكٌ pl. | مَنَسِكٌ
 pl. | مَحْبَسَةٌ | صَوَامِعٌ pl. | صَوْمَعَةٌ
 | خَلَوَاتٌ pl. | خَلْوَةٌ | مَحَابِسٌ
 pl. | زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا | s. m. | -fiedler
 -fiedlerisch | نُسَاكٌ pl. | نَاسِكٌ | زُهَادٌ
 a. | نَسِكِيٌّ | -fiegeln va. etw.

-es Wort | خَتَمَ i ه | -ilbig a.,
 - | كَلِمَةٌ ذات مَقْطَعٍ واحد
 -ilbig | رَجُلٌ مُوجِزُ الكَلَامِ Mensch
 -feit s. f. | إِيجَازُ الكَلَامِ | قِلَّةُ
 -fingen va. jni. | بِالْغِنَاءِ | أَنَامَ ه
 -finken vn. u | سَقَطَ | وَقَعَ a | -finken
 vn. | جَلَسَ | i | فِي الدَّارِ | eingesessen
 | سَاكِنٌ فِي البَلَدِ | مُقِيمٌ فِي البَلَدِ
 -spannen va. | عَطَّقَ الخَيْلَ | Pferd
 - | كَدَنَ u ه * | أَقْرَنَ u | الثَّوْرَ Ochsen
 -spanner s. m. | عَرَبَةٌ ذات حِصَانٍ
 -spännig a., --er Wagen | واحد
 f. | -spanner | -sperren va. jni.
 -spielen | سَجَنَ u ه | حَبَسَ i ه
 | تَمَرَّنَ فِي المَوْسِيقَى | sich mus.
 | صَارَ i | صُلْحَةً (دُود) | -spinnen v. sich
 | sich -- | (scherzhaft) | صَارَ فَيْلِحَةً
 | سَجَنَ u ه | (scherzhaft) | - | اِغْتَزَلَ
 -sprache s. f. | -spruch | -sprechen
 va., jni. | شَجَّعَ ه | -- | Mut
 | سَلَّى ه | -- | -spruch
 erheben) | عَارَضَ | خَالَفَ | -sprengen
 va. | كَسَرَ | i | الباب | Thür
 (besprengen) | بَلَّ u ه | -springen
 vn. | دَخَلَ u | قَافِرًا | für jni. --
 -spritzen | سَاعَدَ ه | قام u | مَغَامَةٌ
 va. etw. | فِي | رَشَّ u ه | فِي

رَشَّ | -spritzung s. f. | بَنَى u ه في *
 | - (das -gespritzte) | بَحَّحَ * | صَبَّ
 | -spruch s. m. | مَادَعَ مَرَشُوش
 | مَضَادَّةَ | مُعَارَضَةَ | مُخَالَفَةَ
 | خَالَفَ ه | etw. - - erheben, thun ه
 | عَارَضَ ه

يَوْمًا | مَرَّةً (einmal) | einst adv.
 | - (früher) | في ذات يَوْمٍ | في يَوْمٍ ما
 | قَدِيمًا | سَالِحًا | سَابِقًا

دَقَّ u ه | ein-stampfen va. etw.
 | -stechen vn. in | بِالْأَرْجُلِ النخ
 | -stecken va. etw. in | ثَقَّبَ u ه
 | - - etw. in die | أَدْخَلَ ه في
 | وَضَعَ a ه | Tasche | فِي الْجَيْبِ
 | - - Degen | غَمَدَ i, u | السَّيْفِ
 | - - | تَحَمَّلَ الإِهَانَةَ - - | eine Beleidigung
 | سَجَنَ u ه | حَبَسَ i ه - - | jn.
 | ضَمِنَ a ب | -stehen vn. für
 | تَكْفَّلَ بِ | كَفَلَ i, u | بِ | تَضَمَّنَ بِ
 | دَخَلَ u ه | -stehlen v. sich in etw.
 | دَخَلَ u ه | -steigen vn. in | خَفِيَّةً
 | نَزَلَ i في | (in's Schiff) | - - | أَوْ فِي
 | أَدْخَلَ ه في | -stellen va. etw. in
 | وَضَعَ a ه | etw. - - (unterlassen)
 | قَطَعَ a ه | أَقْلَعَ عَن | أَزَالَ ه
 | حَضَرَ u | تَوَجَّهَ - - | كَفَّ u عَن
 | -stem. | تَجَدَّدَ - - | sich wieder

men (Arme in die Seite) va.
 .أَسْنَدَ ه

einstens adv. poet. | einst | einstig
 a. (früher) | سَالِفَ | سابق (früher)
 (künftig) | مُسْتَقْبِلَ

إِتَّفَقَ (في المَوْسِيقَى) | ein-stimmen vn. in
 - - bld. | رَضِيَ a ب | -stimmig a.
 | مُتَّحِدَ | مُتَّفَقَ الآرَاءِ | -stimmigkeit
 s. f. | تَقْوِيمَ عَامَ | اتِّحَادَ | اتِّفَاقَ الآرَاءِ

einstmals adv. | einst | einstmalig a.
 (früher) | سَالِفَ | سابق (früher)
 مُسْتَقْبِلَ

دار ذات | ein-stöckig a., - -es Haus
 | -stopfen va. etw. | طَبَّقَةَ وَاحِدَةً
 | -stoßen va. etw. | أَدْخَلَ ه في in
 | كَسَرَ i ه | بِالدَّفْعِ | أَدْخَلَ ه في in
 | قَبَضَ i المال | -streichen va. Geld
 | رَمَى i ه في | -streuen va. etw. in
 | جَرَى i | -strömen vn. | خَلَطَ u ه بِ
 | -studieren va. etw. | المَاءِ إِلَى
 | تَعَلَّمَ ه | -stürmen va. auf jn.
 | هَجَمَ u عَلَيْهِ | -sturz s. m. | سُقُوطَ
 | هَبُوطَ * | -stürzen vn. u | سَقَطَ
 va. - - etw. | ه | أَسْقَطَ ه

في | أثناء ذلك | einstweilen adv.
 | في غُضُونِ ذَلِكَ | einstweilig a.
 .مُوقَّتَ * | حِينِي | وَقْتِي

-wachsen vn. in | اتَّفَقَ الآراءُ
 (Nagel) | - | دَخَلَ u ه نَاشِئًا
 ins Fleisch) | دَخَلَ u الظُّفْرُ اللَّحْمَ
 -wand s. m. | حُجَّةٌ | مُعَارَضَةٌ pl.
 - | عِلَّةٌ pl. | عِلَلٌ | einen - -
 | خَالَفَ | عَارَضَ | erheben
 | مُهَاجِرُونَ pl. | مُهَاجِرٌ s. m.
 -wandern vn. in ein | مُرْتَحِلٌ
 Land | اِرْتَحَلَ إِلَى بِلَادٍ
 s. f. | مُهَاجِرَةٌ | اِرْتَحَالَ
 adv. | إِلَى دَاخِلٍ | -wässern va.
 etw. | ه | بَلَّ u ه | أَزَالَ
 | مِلْحَةً | -weben va. etw. in
 | أَدْرَجَ | ه | فِي نَسِيَجٍ
 -weihen va. | صَرَّفَ | المَالُ Geld
 etw. in | ه | فِي | أَشْرَبَ ه |
 | اسْتَعْمَلَ | ه | etw. -weihen va.
 - | دَشَّنَ | ه * | آبْتِدَاءَ
 Kirche | كُرْسِيَّ | ه * | قَدَسَ الكَنِيسَةَ
 in Geheimnisse - - | فِي | ه |
 | أَشْرَكَ | ه | فِي | مَعْرِفَةَ أَسْرَارِ
 | اسْتِعْمَالَ آبْتِدَائِيٍّ | -weihung s. f.
 | اِدْخَالَ فِي مَعْرِفَةَ أَسْرَارِ | تَدَشِّينَ
 | تَكْرِيسَ | تَقْدِيسَ | -wenden va.
 | رَدَّ | u عَلَيْهِ | عَارَضَ | ه | ب. | im. etw.
 -wendung s. f. | حُجَّةٌ | مُعَارَضَةٌ
 | عَارَضَ | -en vorbringen | حُجَجٌ pl.

| كَسَرَ | ه | بِالرَّمِيِّ | -werfen va. etw.
 | رَمَى | ه | فِي | - | - | etw.
 | عَارَضَ | -wickeln va. (einwenden)
 | لَفَّ | u ه | ب. | in | ه | etw.
 | اَنَامَ | الطِّفْلُ | Kind | -wiegen va.
 | رَضِيَ | ب. | in | -willigen vn. | بِالْكَهْزِ
 | اِرْتَضَى | ب. | ه | a | قَبِلَ | -willigung
 | رِضَاءَ | -wirfen va. s. f. | قَبُولٌ
 | حَاكَ | u ه | فِي | in | - | etw.
 | اَثَّرَ | فِيهِ | - | auf | in. | - | vn.
 | تَأَثَّرَ | فِيهِ | -wirkung s. f. | نَفُودٌ
 | اَقَامَ | ب. | sich | - | - | wohnen vn.
 | بَبَدَدَ | - | an einem Ort | تَعَوَّدَ بِالإِقَامَةِ
 | سَاكِنَ | pl. | ساكِنٌ s. m. | -wohner
 | أَهَالٍ | pl. | أَهْلٌ | -wohnerschaft
 | أَهَالٍ | pl. | أَهْلٌ s. f. | -wühlen va.
 | اُدْخَلَ | ه | حَافِرًا | etw. - | - | in
 | دَخَلَ | u ه | حَافِرًا | -wurf s. m.
 | رَمَى | - | - | (Einrede) | مُعَارَضَةٌ
 | مُخَالَفَةً | -wurzeln vn. | نَأَصَلَ
 | مُفْرَدَ | -zahlen va. s. f. | gr. | -zahl
 | كَفَعَ | a | المَالُ Geld | -zählen
 | وَأَدْخَلَ | ه | in | etw. | va.
 | شَمَلَ | u ه | | تَضَمَّنَ | ه | -zapfen
 | صَبَّ | u | in | ein Gefäß | - | va. Flüssigkeit
 | المَائِعَ | فِي | إِنْاءَ | -zäunen va. etw.
 | أَحَاطَ | بِ | بِحَائِطٍ | أَوْ سِيَاجٍ |

-jahrung s. f. | سِيَاج | -zeichnen
va. etw. ه | قَيَّد | sich - -
قَيَّد | آسَمَهُ.

Einzel-ding s. n. | أَفْرَاد | pl. فَرْد
s. f. | الْحَبْس بِالْأَنْفِرَاد | -heit s. f.
-n a. | تَفْصِيْلَات | pl. تَفْصِيْل
- - ver- | مَفْصَل | مَفْرَق | مُنْفَرِد
kaufen | بِالنَّقْطِيْع | i باع | i
قاضي في | richter s. m. | بِالتَّفْرِيق
-verkauf s. m. | الْمَحْكَمَةُ بِلا مُعَاوِن
| فَرْد | wesen s. n. | بِبِيْع | بِالتَّقْطِيْع
شَخْص.

einziehen vn. faden in Nadel | أَدْخَلَ
| أَنزَلَ | flagge - - | الْحَيْطُ فِي الْإِبْرَةِ
| طَوَى | i القُلُوع | Segel - - | الرَايَةَ
- - | تَنَفَّس | Luft - - | لَمْ u ها
| قَبَض | i | جَبَا | u, i | الحَرَاج | Steuern
| ضَبَط | u, i | الْأَمْوَال | Guter - - | الْإِنَاوَةَ
| سَجَن | u ه - - | in gefanglich
| كَخَلَ | u ه | أَوْ فِي | in - -
| - - | اِنْتَقَلَ | - - | eine Wohnung
| نَقَعَ | (المَائِع) | (flussigkeit)
مُعْتَزَل | gezogen

| لا نَظِيْر لَهُ | فَرِيْد | وَحِيْد | einzig a.
- u. allein | لا غَيْر | فَقَط.

Ein-zug s. m. | دُخُول | - - | (in ein
Haus) | اِنْتِقَالَ الدَار | -zwangen

va. etw. ه | ضَيَّق | -zwingen va.
jm. etw. ه | أَلَزَم.

airund a. | عَلَى شَكْلِ الْبَيْض | | بِيضِي
| أَهْلِيْلَجِي.

Eis s. n. | نَجْم | المَاء | جَمِد | جَمِد
- | سَقِيْط | ضَرِيْب | صَبْر | (Ge-
frorenes) | مَجْلُوْدَةٌ | * | بُوز* |
فَتَح | das - brechen a | شَرَبَات*
طَرِيْق | عَلَى الْجَلِيْد | -bahn s. f. | بِأَبَا
| دُبَّ | أَيِيْض | -bar s. m. | لِلتَّرْحُلُق
-berg s. m. | كَوْمَةٌ جَلِيْد | -brecher
s. m. | لِكَسْرِ الْجَلِيْد.

eisen vn. | كَسَرَ | i | الْجَلِيْد.

Eisen s. n. | حَدِيْد | - (der Lanze)
- | أَسِنَّة | pl. سِنَان | (Bugel-)
نَعْل | - | مَكَاوِ | pl. مِكْوَاة | (Huf-)
| in. in - legen | نِعَال | pl. الفَرَس
| اَلْتَس | - | زَنْجَر * | قَيَّد ه | حَدَائِد
| أَشْيَاء | لا طَائِل فِيْهَا | عَنِيْقَةٌ |
-bahn s. f. | سِكَّة | حَدِيْد |
تَذَكِرَةٌ | -bahnbillet s. n. | حَدِيْدِيَّة
| تَذَاكِر | -bahncontroleur s. m.
| مَفْتِيْشِي | -bahnfahrkarte s. f.
| تَذَاكِر | pl. تَذَكِرَةٌ | -bahnschaffner
s. m. | كُمْسَارِي | -bahnschiene s. f.
| أَقْضِيْب | سِكَّة | الْحَدِيْد | -bahnstation
s. f. | مَحَطَّة | -bahnwagen s. m.

Ellenbogen f. Ellbogen.

ellenlang a. طَوِيلٌ كَثِيرًا | طُولُهُ ذِرَاعٌ

Ellenreiter s. m. (scherzhaft)

مُسْتَخْدَمٌ فِي مَحَلِّ تِجَارِيٍّ

Eller s. f. حَوْرٌ رُومِيٌّ

Ellipse s. f. geom. دَائِرَةٌ أَهْلِيَلِيَّةٌ

gr. - | بِيكَارُ الْبَيْضَةِ | أَهْلِيَلِيَّةٌ

تَقْدِيرٌ بَعْضٌ | إِضْمَارٌ | إِسْتِنَارٌ

أَهْلِيَلِيَّةٌ a. elliptisch | الكَلَامُ

إِسْتِنَارِيٌّ

Elster s. f. zool. عَقَاعِقَةٌ pl. عَقَعَقٌ

غُرَابٌ | قُعْقَانٌ pl. قَعْقَعٌ * | قَعْقَعٌ

الْبَيْنِ

elterlich a. Eltern s. pl. أَبَوِيٌّ

elternlos a. | الأَبْوَانُ | الوَالِدَانِ

عَادِمِ الْوَالِدَيْنِ

elysaisch a. مُخْتَصٌّ بِجَنَّةِ الْوَتْنِيِّينَ

Elysium s. n. جَنَّةُ الْوَتْنِيِّينَ

hld. - نَعِيمٌ

Email s. n. مِينَا -lieren va. etw.

ذَيَّنَ هـ بِالمِينَا

Emancipation s. f. تَحْرِيرٌ | eman-

cipieren va. ju. حَرَّرَ هـ

Emballage s. f. حَزْمُ الْبَضَائِعِ

Emblem s. n. رَمُوزٌ pl. رَمُوزٌ

Embryo s. m. أَجِنَّةٌ pl. جَنِينٌ

emeritiert a. مُتَقَاعِدٌ

Emigrant s. m. مُهَاجِرٌ pl.

مُهَاجِرُونَ

Eminenz s. f. (لَقَبُ الْأَسَاقِفَةِ)

نِيَافَةٌ

Emir s. m. أَمِيرٌ pl. أَمْرَاءٌ

Emisfär s. m. رَائِدٌ pl. رَوَادٌ

جَوَاسِيْسٌ pl.

Emission s. f. (von Anleihe, Aktien zc.)

إِصْدَارُ الْأَسْتِقْرَاضِ أَوْ الْأَسْهُمِ

صَرْفٌ

Emolument s. n. فَوَائِدٌ pl. فَوَائِدٌ

Empfang s. m. (von Personen)

إِتْرَحَابٌ - guter | إِسْتِقْبَالٌ | قَبُولٌ

قَبُولٌ | تَسَلُّمٌ (von Sachen) -

إِقْبَاضُ الْمَالِ (von Geld) - | وَصُولٌ

etw. in - nehmen هـ a قَبِلَ

قَبِلَ هـ a | -en va. ju. | تَسَلَّمَ هـ

قَبِلَ هـ a | - - | إِسْتَقْبَلَ هـ

بَلَغَ هـ u | الشَّيْءُ | تَسَلَّمَ هـ

وَصَلَ هـ i | إِلَيْهِ | وَرَدَ هـ i عَلَيْهِ الشَّيْءُ

الشَّيْءُ - - (schwanger werden)

حَمَلَ هـ i | حَبَلَ هـ a

Empfänger s. m. (von Geld) الْقَابِضُ |

الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ (eines Briefes) -

empfindlich a. (الْحَطَابُ) |

Empfindlichkeit s. f. | قَابِلٌ لِ

حَبَلٍ | Empfängnis s. f. قَابِلِيَّةٌ

- حَبَل | unbesleckte - kath. حَبَل
مَرِيَمَ الْعَذْرَاءِ بِلا دَنَسٍ.
- Empfang-schein s. m., -sbeschei-
nigung s. f., -sbestätigung s. f.
| وَصَلْ * | سَنَدٌ مُشْعِرٌ بِقَبْضِ مَبْلَغٍ
| وَصُولٌ -=|aal s. m., -=|alon s. m.,
-=|zimmer s. n. (türk.) * سَلَامُكَ |
صَالَةً * | مَفْعَدٌ | قَاعَةُ الْأَسْتِقْبَالِ
- Empfehl s. m. f. -ung | -en va.
jm. etw. | أَوْصَى هُ بِ | وَصَى هُ بِ
sich - - | سَلَّمَ - - | sich jm. - - | وَدَّعَ - -
مُسْتَحِقٌّ | -enswert a. | عَلَيْهِ
-ung s. f. | مُعْتَبَرٌ * | الْأَحْتِرَامُ
(einer Person od. Sache) | تَوْصِيَّةٌ فِي
(Gruß, in Briefen etc.) | -- | إِيصَاءٌ فِي
-ungsbrief s. m., | سَلَامٌ | أَحْتِرَامٌ
-ungschreiben s. n. | كِتَابُ تَوْصِيَّةٍ
- Empfinderei s. f. | تَظَاهَرُ بِرِقَّةِ الْقَلْبِ
empfindeln vn. | تَظَاهَرُ بِرِقَّةِ الْقَلْبِ
empfinden va. etw. | حَسَّ هُ | حَسَّ هُ
übel - | شَعُرَ هُ | أَسَّ هُ | أَحَسَّ هُ
etw. | أَخَذَ هُ | empfindlich a. (Sache)
| سَرِيْعُ التَّأَثُّرِ أَوْ الْأَنْفِعَالِ | مُؤَلِّمٌ | مُؤَدِّ
| سَرِيْعُ الْأَغْتِيَاظِ (Person) - -
سُرْعَةً | Empfindlichkeit s. f. | دُو نَزَقٌ
سُرْعَةً | نَزَقٌ | التَّأَثُّرُ أَوْ الْأَنْفِعَالُ
سَرِيْعٌ | empfindsam a. | الْأَغْتِيَاظُ
- Empfind- | رَقِيْقُ الْقَلْبِ | التَّأَثُّرُ
samkeit s. f. | سُرْعَةُ التَّأَثُّرِ
Empfindung s. f. | حَسَّ | الْقَلْبِ
شُعُورٍ | إِحْسَاسٍ بِ | حَاسَّةٌ
Emphase s. f. | تَعْظِيمٌ
emphatisch a. | مُتَعَاظِمٌ
empirisch a. | اِمْتِحَانِيٌّ | تَجْرِبِيٌّ
empor adv. | إِلَى فَوْقٍ | -arbeiten v.
sich | تَقَدَّمَ بِالشُّغْلِ
-bringen va. | قَدَّمَ هُ | أَعْظَمَ هُ | جِئَ
-dringen vn. | طَلَعَ | اِرْتَفَعَ
Empore s. f. christl. | مَرْتَبَةٌ فِي
الْكِنَائِسِ
empören v. sich gegen jm. & i عَصَى
مَرَدٌ | عَانَدٌ هُ | عَاصِيٌ هُ | وَعَلَيْهِ
Empörer s. m. | قَامَ هُ | عَلَيْهِ | عَلَيْهِ
عَصِيَّوْنَ pl. | عَصَاةٌ pl. | عَاصِيٌ
u. | مَارِدُونَ pl. | مُعَانِدٌ | أَعْصِيَاءٌ u.
مَرَدَةٌ.
- empor-halten va., -heben va. etw.
| رَفَعَ هُ | -firche s. f. | Empore |
-kommen vn. | اِرْتَفَعَ | سَمَا هُ | إِلَى
حَدِيثِ | -fömmling s. m. | الْمَكَارِمِ
| حَدِيثِ عَهْدٍ بِغَنَى | النِّعْمَةِ
-ragen vn. | اِرْتَفَعَ | -ranken v. sich
u. | عَرَّشَ | عَرَّشَ | عَرَّشَ | عَرَّشَ
-sehen vn. | إِلَى فَوْقٍ | نَظَرَ هُ |

eng-halfig a. (flasche) مَحْزُوق |
 -herzig a. ضَيْقِ الْقَلْبِ | -herzig-
 feit s. f. ضَيْقِ الْقَلْبِ.
 England n. pr. اِنْجِلْتَرَا* | اِنْكَلْتَرَا
 äg. | Engländer | بلاد الأَنْكَلِيْزِ |
 s. m. اَنْجَلِيْزِي* | اَنْكَلِيْزِي
 die - pl. الأَنْكَلِيْزِ | engländisch a.,
 englisch a. اَنْجَلِيْزِي | اَنْكَلِيْزِي.
 englisch a. (von Engeln) مَلَائِكِي |
 -er Gruß سَلَامِ الْمَلَاكِ | -e Krank-
 heit كَسَحٌ | عَجْزٌ.
 Engpaß s. m. مَضِيْقٌ pl. مَضَايِقُ.
 Enkel s. m. (Sohnesohn) حَفِيْدٌ
 pl. | اِبْنُ الْاَبْنِ | حَفْدَةٌ pl.
 (Tochter-
 sohn) اِبْنُ الْبِنْتِ | -in s. f.
 (Sohnestochter) اِبْنَةُ
 (Tochter-
 tochter) اِبْنَةُ الْبِنْتِ | اِبْنَةُ
 اِبْنَةِ الْاَبْنِ | اِبْنَةُ
 الْاَبْنَةِ.
 ent-arten vn. تَغْيِيْرٌ عَنِ اَصْلِهِ |
 u artung s. f. اِنْحِطَاٌ | فَسْدٌ u
 اِنْحِطَاطٌ | فَسَادٌ | تَغْيِيْرٌ عَنِ اَصْلِهِ
 -äußern v. sich einer Sache gen.
 اِنْخَلَصَ مِنْ | اِنْخَلَى عَنْ اَوْ مِنْ مِذْكِ
 اِنْخَلَى عَنْ | تَخَلَّى عَنْ | تَرَكَ u هـ
 -äußerung s. f. تَخَلَّى | تَرَكَ u هـ
 -behren va. etw. اِمْتَنَعَ | اِسْتَعْنَى عَنْ | غَنَى a عن

-behrlieh a. صَبْرٌ i عَنِ | عَنِ
 اَغْيَرُ نَافِعٌ | باطِلٌ | فَاضِلٌ | زَائِدٌ
 -behrliehkeit s. f. زِيَادَةٌ | مَزِيْدٌ
 -behnung s. f. اِمْتِنَاعٌ | فُضُوْلٌ
 -bieten va. jm. اِنْقِطَاعٌ | اِنْكِافٌ
 etw. اَخْبَرَ هـ بِ | jm. seinen
 Gruß - سَلَّمَ عَلَيْهِ | -binden va.
 jm. von اَغْفَى هـ عَنِ | اَخْلَصَ هـ مِنْ
 eine | بَرَّأَ هـ مِنْ | اَحَلَّ هـ مِنْ
 frau - | وَوَلَدَ اَمْرَاةً - -
 werden (frau) von einem Kinde
 | وَوَضَعَتْ هـ | وَوَلَدَتْ اَمْرَاةً طِفْلًا
 -bindung s. f. von اِتْحَالِيْسٌ مِنْ
 pl. | طَلَّقَ | وَوَلَادَةٌ (einer frau) - -
 -blättern va. | وَوَضَعَ | وَوَضَعَ | اَطْلَاقٌ
 u وَوَرَقَ الشَّجَرَةَ | جَثَّ |
 | اَمْرَدَ هَا | اَخْرَطَ هَا | اَعْبَلُ i الشَّجَرَةَ
 -blöden v. sich, sich nicht - -
 -blößen va. etw. اِجْتَرَأَ | تَجَاسَرَ
 | جَرَّدَ هـ | اَعْرَى هـ | اَعْرَى هـ
 | كَشَفَ i - - | كَشَفَ i هـ
 | سَلَّ i - - | اَلرَّاسُ | اَلرَّاسُ
 | اَعْرَى هـ مِنْ - - | اَلسَّيْفِ |
 | اَعْدَمَ هـ | اَحْرَمَ i هـ |
 | تَعْرَى | تَجَرَّدَ | -blößung s. f. تَعْرَى
 | اِسْتَعَلَ | -brennen vn. تَجَرَّدَ
 | اِسْتَحْرَأَ | اِسْتَدَّ | اِحْطَرَمَ

-fremden | جَرَى i مِّن | سأل i مِّن
 -führen | أْبْعَدَ هُ عُنْهُ | jn. jm.
 | خَطِيفَ هُ و هُ | va. etw. u. jn.
 | ذَهَبَ هُ ب | اِخْتَطَفَ هُ و هُ
 | اِنْتَهَبَ هُ | نَهَبَ هُ u, a
 -führung | خَاطِفَ | -führer s. m.
 s. f. | اِخْتِطَافَ | خَطْفَ .
 entgegen adv. | لِقَاءَ | مُقَابَلَةً
 -arbeiten vn. jm. | خَالَفَ هُ
 vn. jm. | اِسْتَقْبَلَ هُ | لَاقَى هُ
 -führen va. jn. | لِقَاءَ هُ | لِلْمُقَابَلَةِ
 -gehen vn. jm. | اِسْتَقْبَلَ هُ | لَاقَى هُ
 -handeln | عَارَضَ هُ | -halten vn. jm.
 vn. jm. | خَالَفَ هُ | -kommen vn.
 | لَاقَى هُ | قَابَلَ هُ | جَاءَ لِلِقَائِهِ | jm.
 -laufen | بَادَرَ هُ | بِالْجَمِيلِ - - | bld.
 | لَاقَى هُ | رَاكِبًا | - vn. jm.
 | خَالَفَ هُ | -sehen vn. einer Sache
 dat. | اِنْتَظَرَ هُ | -sein vn. jm.
 | عَارَضَ هُ | -setzen va.
 | عَارَضَ هُ | -gesetzt vn. etw. | jm.
 | عَارَضَ هُ | -stellen
 | عَارَضَ هُ | -wirken
 | خَالَفَ هُ | -vn. jm.
 | اَجَابَ هُ | ent-gegen vn. jm.
 | اَجْوِبَةٌ pl. | جَوَابَ | -gegung s. f.
 | تَفَلَّتْ | فات | هُ u | -gehen vn. jm.

| مِّنْهُ | einer Gefahr - - | تَجَنَّبَ
 | نَجَا | u | -gelt s. m., ohne - - | خَطَرًا
 | مَجَانًا | -gelten va., er muß es - -
 | يَلْحَقُهُ عُقُوبَةٌ فِعْلِهِ | -gleifen vn.
 | حَادَ i عَنِ السِّكَّةِ (قِطَارِ) (Sug)
 | زَاغَ i عَنِ السِّكَّةِ | -gleiten vn.
 | سَقَطَ u مِّنْهُ | -glühen vn. | jm.
 | -brennen | -gürten va. | jn. | .
 | فَكَّ u مِّنْطَقَتَهُ | حَلَّ u مِّنْطَقَتَهُ
 | اِحْتَوَى هُ و عَلَى | -halten va. etw.
 | تَضَمَّنَ هُ | اِسْتَمَلَّ عَلَى | sich einer
 Sache gen. - - | كَفَّ عَنِ
 | زَهَدَ هُ | اِعْفَ عَنِ | -halt.
 | قَنِعَ فِي الْأَكْلِ | زَاهِدَ | sam a.
 | قَنِيَتَ | اِعْفِيْفَ | -halt.
 | اِمْتِنَاعَ | اِمْتِنَاعَ | zühed | samkeit s. f.
 | اِكْفَافَ | اِمْتِنَاعَ | -haltung s. f. | اِعْفَى
 | رَأَسَهُ | -haupten va. | jn. a
 | ضَرَبَ i عُنُقَهُ | -hauptung s. f.
 | ضَرَبَ الْعُنُقَ | قَطَعَ الرَّأْسَ | -heben
 va. | jn. einer Sache gen. | خَلَّصَ
 | اَعْفَى هُ مِّنْ | هُ مِّنْ | -heiligen
 | دَنَسَ هُ | -vn. etw. | اَنْجَسَ
 | اِسْتَعْمَلَ هُ سُوًّا | -heiligung s. f.
 | اِسْتَعْمَالَ | اِنْجَاسَ | تَدْنِيَسَ | سوء
 | اَشْيَاءَ الثَّمِينَةَ | -hüllen va. | a
 | كَشَفَ i هُ | -etw. | ein Geheimnis

- - | أباح بالسِرِّ - - | hüllung s. f.
 قَشَّرَ ه | hüllen va. etw. | كَشَفَ
 enthusiastieren va. jn. | وَلَعَ ه |
 Enthusiasmus s. m. | أَعْجَبَ ه
 هَيْجَانِ النَّفْسِ | حَمِيَّةٌ | تَوَلَّيْعُ
 Enthusiast s. m. | مَوْلَعٌ | عَجَبٌ
 enthusiastisch a. | سَرِيْعٌ التَّعَجُّبِ
 مَوْلَعٌ.
 ent-jungfern va. Mädchen a | فَضَحَ
 -fleiden | أَخَذَ u بِكَارَتِهَا | البِنْتُ
 | شَلَعَ ه | عَرَى ه | جَرَدَ ه | jn. va.
 | تَعَرَّى | تَجَرَّدَ - - | sich
 | نَجَا u | Pommen vn. | ثِيَابُهُ
 -forken | نَقَذَ a | سَلِمَ a | تَخَلَّصَ
 va. flasche | فَلَينَةُ القَنِينَةِ
 -kräften va. jn. | فَتَحَ a القَنِينَةَ
 - - | نَهَكَ a ه | أضعف ه
 | ضَعْفٌ | -kräftung s. f. | ضَعْفٌ u
 | نَهَكَةٌ | انْحِطاطِ القُوَى
 | فَرَّغَ ه | أَنْزَلَ الحِمْلَ عن
 | أطلَقَ البُنْدُقيَّةَ | - - | Gewehr
 | - - | die Galle | اغْتَاطَ
 | فَرَّغَ - - | sich | أَبْرَأَ ضَمِيرَهُ
 | أطلَقَ.
 entlang praep. einer Sache gen.
 عَلَى جَانِبِ ال...
 ent-larven va. jn. | كَشَفَ i وَجْهَهُ |

-lassen | نَزَعَ i مِنْهُ ما تَنَدَّرَ بِهِ
 | سَرَّحَ a ه | صَرَفَ i ه | jn. va.
 | - - | أَذِنَ a لَهُ في الذَّهَابِ | jn.
 aus seinem Amt | عَزَلَ i ه عن
 | عَزَلَ | -lassung s. f. | وَطِيفَتِهِ
 | seine - - | إِسْتِعْفاءُ | تَعَزَّلَ
 um seine - - | إِسْتَعْفَى | bitten
 | أَنْزَلَ الحِمْلَ مِنْهُ | -lasten jn.
 | -lastung | أَرَّاحَ ه | خَفَّفَ ه عَنْهُ
 s. f. | تَخْفِيفٌ | -lauben va. Baum
 | جَتَّ وَرَقَ الشَّجَرَةِ | -laufen
 | فَرَّ i | هَرَبَ u مِنْهُ | jn. vn.
 -ledigen va. jn. einer Sache gen.
 | - - | sich | خَلَّصَ ه من
 | أَوْفَى بَ | تَخَلَّصَ مِنْ | -leeren
 | أَفْضَى ه | أَفْرَغَ ه | va. etw.
 | -leerung s. f. | أَخْلَى ه | خَلَّى ه
 | - - | نَحْلِيَّةٌ | إِفْرَاقٌ
 | -legen | إِسْتِفْرَاقٌ | فَرَّغَ | بُرُوزُ | بَرَّازٌ
 | بَعِيدٌ | -legenheit s. f. | بَعِيدٌ a.
 | إِسْتَلَفَ | -lehnen va. etw. von jn.
 | إِقْتَرَضَ ه مِنْهُ | ه مِنْهُ | -leiben
 | قَتَلَ - - | قَتَلَ u ه | jn. va.
 | -leihen va. | -leihen | نَفْسَهُ
 | -locken va. jn. etw. مِنْهُ | ه
 | طَوَّشَ ه | -mannen va. jn.
 | طَوَّاشِيٌّ | -mannte s. m.

nung s. f. | تَطْوِيْش | -masten va.
 (Schiff) | كَسَرَ i صَوَارِي الْمَرْكَبِ |
 -menscht a. | عَادِم | نَزَعَ i ها
 | قَاسَى الْقَلْبِ | جَافٍ | الإِنْسَانِيَّةَ
 -mündigen va. einen Volljährigen
 | أَقَامَ وَصِيًّا لِإِنْسَانٍ بَالِغٍ
 va. jn. | أَخْمَدَ نَشَاطَهُ | بَرَدَ هِمَّتَهُ
 | أَخَذَ | آيَسَ | -nahme s. f.
 -nehmen va. jm. etw. ه u أَخَذَ
 | عَرَفَ i ه مِنْ | aus -- etw. مِنْهُ
 | رَأَى a ه مِنْ | -nerven va. jn.
 | أَنْتَ ه | أضعَفَ ه | أَخْمَلَ ه
 | خَرَجَ u سِجْ | -puppen v. sich u نَعَمَ ه
 | سِجْ | - als etw. مِنْ الصَّلَاجَةِ
 | أَبَانَ دَاتَهُ شَيْئًا
 | نَبَعَ i, u مِنْ | einer Sache dat.
 -raffen v. sich einer Sache gen.
 | تَخَلَّصَ مِنْ | -raten vn. einer Sache
 gen. f. entbehren.

Entree s. n. | ثَمَنَ الدُّخُولِ .

ent-reißen va. jm. etw. ه u أَخَذَ
 | انْتَزَعَ | قَلَعَ a ه مِنْهُ | مِنْهُ بِالْقُوَّةِ
 -- | jm. ein Geständnis ه مِنْهُ
 | قَرَّرَ ه ب | -richten va. Steuern 2c.
 | آتَى ها | دَفَعَ a الرُّسُومِ -- Schuld
 | وَفَى i بِالذَّيْنِ | -ringen va. jm.
 | أَخَذَ u ه مِنْهُ | بِالمُبَارَاةِ etw.

-rinnen vn. (Wasser dem Berge 2c.)
 | جَرَى i | (الماءِ مِنَ الْجَبَلِ) | سال i
 | نَجَا | bld. -- (entkommen) u --
 | مَضَى i | (الزَّمَانُ) (Zeit) -rollen
 | بَسَطَ u الأَعْلَامِ | va. fahnen 2c.
 | حَلَّ u ها | vn. -- (-fallen)
 | تَدَحَّرَجَ | سَقَطَ u | -rücken va. jn.
 | نَزَعَ i ه مِنْ | einer Sache dat.
 | أَبْعَدَ ه عَنْ | -rüsten jn. va.
 | أَغَظَ ه | أَغْضَبَ ه | sich -- über
 | غَضِبَ a عَلَى | حَنِقَ a مِنْ
 | إِغْتَاظَ عَلَى | -rüstung s. f. غَضَبَ
 | غَيَّبَ | -sagen vn. einer Sache dat.
 | خَلَّى ه | رَفَضَ i, u ه | تَرَكَ ه
 | تَنَزَّلَ عَنْ | رَجَعَ i عَنْ | der Welt
 | زَهَدَ a فِي الدُّنْيَا | -sagung --
 | تَنَزَّلَ عَنْ | تَرَكَ طَلَبِ | - s. f.
 | زُهْدَ | رَفَعَ s. m. | der Welt
 | إِزَالَةَ الحِصَارِ | الحِصَارِ | - (sagt-
 | جُنُودَ لِرَفْعِ الحِصَارِ | truppen)
 | عَوَّضَ ه مِنْ | -schädigen va. jn. für
 | تَعْوِيضَ | مُعَاوَضَةً | -schädigung s. f.
 | أَعْوَاضَ pl. | -scheid s. m. عَوَّضَ
 | -scheidung | -scheiden va. etw.
 | حَكَمَ u ب | قَضَى i ه | od. über etw.
 | قَطَعَ a ه | بَتَّ u ه | sich -- zu
 | عَزَمَ عَلَى | انْتَخَبَ ه | -- für etw. sich

-scheidend a. **بَات** | **جَازِم** | **قَاطِع** |
 -cheidung s. f. **حُكْم** | **قَطْعِي** |
عَزْم | **جَزْم** | **قَضَاء** | (القاضي مثلاً)
 | **ذُو عَزْم** | **جَازِم** | -chieden a. **بَات** |
 -chiedenheit s. f. **مَحْكُوم** | **مَجْزُوم** |
 - | **عَزِيمَة** | -chlafen vn. a **نَام** | -
 (sterben), im Herrn - - **تَوَقَّى** |
 -chlagen v. sich einer Sache
 | **تَخَلَّصَ مِنْ** | -chleiern va. jm. u.
 etw. **نَزَعَ** | **رَفَعَ** a **الْبُرُوقِ مِنْ** |
 | **كَشَفَ** i **و ه** | **الْحِجَابِ مِنْ** |
 -chließen v. sich zu **عَزَمَ** | **عَلَى** |
 | **صَمَّمَ** **عَلَى** **أَوْ فِي** | **أَزْمَعَ** **عَلَى** |
 -chlossen a. **عَازِم** | **الْقَلْبِ** |
 -chlossenheit s. f. **عَزِيمَة** |
 -chlummern vn. f. **الْقَلْبِ** |
 -chlafen | -chlüpfen vn. jm.
 | **نَجَا** u | **فَرَّ** i **مِنْهُ** | **هَرَبَ** u **مِنْهُ** |
 -chluß s. m. **عَزْم** | **جَزْم** | einen
 - - fassen i **عَزَمَ** | -schuldbar a.
 | **قَابِلِ الْعُدْرِ** | **مَعْدُور** |
 -schuldbarkeit s. f. **قَابِلِيَّةُ الْعُدْرِ** |
 -schuldigen va. jm. wegen **عَدَرَ** i **عَلَى** |
 | **اعْتَذَرَ** | - | **سَامِعَ** **عَلَى** |
 -schuldigung s. f. **عُدْر** pl. **أَعْدَار** |
 | **مَعَادِر** pl. **مَعْدِرَة** | **اعْتِنَار** |
 -chürzen va. Knoten **العُقْد** u **حَلَّل** |

-schweben vn. **انْصَرَفَ طَائِرًا** |
 -schwinden | **أَخَذَ** u **فِي الطَّيْرَانِ** |
 vn. **اخْتَفَى** | **غَاب** i | **تَوَارَى** |
 -seelt a. **عَدِيمِ النَّفْسِ** |
 -senden va. jm. zu **أَرْسَلَ** **عَلَى** |
 | **بَعَثَ** a **عَلَى** |
 | **عَزَلَ** i **عَنْ** **وِظِيفَتِهِ** |
 - | **خَلَعَ** **عَنْهَا** | eine Festung - -
 | **رَفَعَ** a **حِصَارِ الْقَلْعَةِ** | - |
 vor od. über a **فَزَعَ** | **رَعَبَ** |
 | **فَزَعَ** | **خَوْفٍ** | **فَزَعَ** | - |
 | **خَافَ** a |
 | **مُخِيفٍ** a. | **هَوْلٍ** | **رَوْعٍ** |
 - - (stark) | **مُفْزِعٍ** | **هَائِلٍ** | **رَائِبٍ** |
 | **قَسَاوَة** s. f. | **شَدِيدٍ** |
 | **فَوَاحِشٍ** pl. | **فَاحِشَة** |
 | **فَتَحَ** a | **فَضَّ** u **خَتَمَ** **الْخِطَابِ** |
 | **سَقَطَ** u | **سَقَطَ** | **الْخِطَابِ** |
 | **سَمِنَ** v. sich einer Sache
 gen. **تَذَكَّرَ** | **ذَكَرَ** u **ه** |
 va. jm. **أَفْسَدَ** | **أَفْسَدَ** **أَخْلَاقَهُ** |
 | **نَشَأَ** a | **نَشَأَ** | **آدَابَهُ** |
 -sprechen vn. einer Sache dat.
 | **طَابَقَ** | **ه** | **نَاسَبَ** | **ه** | **وَافَقَ** |
 | **خَرَجَ** u **مِنْ** | **خَرَجَ** |
 | **نَشَأَ** a **مِنْ** | **نَبَتَ** u | **طَلَعَ** u **مِنْ** |
 | **تَوَلَّدَ** **مِنْ** | **تَوَلَّدَ** |
 | **انْتَسَبَ** | **إِلَى** |

i, u | أَنْفَجَرَ | تَنْبَعُ (النَّهْرُ) | نَبَعَ |
 - - | نَشُوْا u مِنْ | (entstehen) aus - -
 - - | تَوَلَّدَ مِنْ | صَدَرَ u مِنْ
 | هَرَبَ u | نَجَا u (-kommen)
 -stammen vn. jm. od. aus | تَوَلَّدَ
 -stehen vn. | اِنْتَسَبَ إِلَى | مِنْ
 | نَشُوْا u مِنْ | تَوَلَّدَ مِنْ | aus
 | اِرْتَفَعَ | حَصَلَ u مِنْ | صَدَرَ u مِنْ
 | جُرْتُوْمَةٌ | أَصْلُ | -stehung s. f.
 | مَنَاشِيْءٌ pl. | مَنَاشِئٌ | مَنَابِعُ pl. | مَنَبَعٌ
 | -steigen vn. einer Sache | بَدَأَ
 | خَرَجَ u مِنْ | طَلَعَ u مِنْ | dat.
 -stellen va. jm. das Gesicht zc.
 | سَمَّجَ | شَوَّهَ وَجْهَهُ | قَبَّحَ وَجْهَهُ
 | غَيَّرَ هَ | زَوَّرَ هَ | - - | وَجْهَهُ
 | تَقْيِيْعٌ s. f. | -stellung s. f. | لَفَّقَ هَ
 | -stürzen va. jm. | تَرَوِيْرٌ | تَغْيِيْرٌ
 | -sündigen va. jm. | سَقَطَ u مِنْ
 | -täuschen va. | خَلَّصَ هَ | مِنَ الْخَطَا
 | أزال ضلاله | أزال غلطه | jm.
 | -täuschung | أَيقظ هَ | رَفَعَ a وَهْمَهُ
 | رَفَعُ الْوَهْمِ | إِزَالَةُ الْغَلَطِ s. f.
 | عَزَلَ هَ | مِنَ الْمَلِكِ | -thronen va. jm.
 | أَخْلَى الْبِلَادَ | -völkern va. Land
 | اسْتَأْصَلَ أَهْلَ الْبِلَادِ | -من السُّكَّانِ
 | -wachsen vn. einer Sache dat.,
 | كَبُرَ u عَلَى | - - | sein einer Sache dat.

-waffen va. jm. | الْأَسْلِحَةَ هَ |
 -walden va. Gegend | النَّاجِيَةَ هَ |
 -wässern va. Land | أَعْدَمَ
 | الْغَابَةَ | جَفَّفَ هَا | الْبِلَادَ الْمَاءَ
 | يَا... وَيَا... يَا... | يا... oder ...
 | يَا... | يَا... | يَا... |
 | أَمَّا... أَمْ | أَمَّا... |
 | هَرَبَ u | اِنصَرَفَ | ent-weichen vn.
 | دَنَسَ هَ | -weihen va. etw. هَ
 | اسْتَعْمَلَ هَ سَوْءًا | نَجَسَ هَ
 | اِحْتَلَسَ هَ | -wenden va. jm. etw. هَ
 | -werfen va. etw. | سَرَقَ i هَ
 | رَسَمَ هَ * | رَسَمًا خَفِيْفًا |
 | أَزَالَ قِيَمَتَهُ | -werten va. etw. هَ
 | بَسَطَ u هَ | -wickeln va. etw. هَ
 | - (erklären) | - - | نَشَرَ u هَ
 | - (vergrößern) | - - | أَبَانَ هَ | أَوْضَحَ هَ
 | اِنْبَسَطَ - - | سِجِّ | كَبَّرَ هَ
 | كَبُرَ u | اِزْدَادَ | زَادَ i | اِنْتَشَرَ
 | بَسَطَ s. f. | -wicklung s. f. | نَشَأَ a
 | اِيضاح | بَيَان | تَبَسَّطَ | نَشَرَ
 | نَزَعَ i هَ | -winden va. jm. etw. هَ
 | حَلَّ u هَ | -wirren va. etw. | مِنْهُ
 | أَبَانَ هَ | فَكَّ u هَ | (العقد مثلاً)
 | نَجَا u مِنْهُ | -wischen vn. jm. مِنْهُ
 | تَخَلَّصَ مِنْهُ | هَرَبَ u مِنْهُ
 | فَصَلَ i الْبَطْلَ | -wöhnen va. Kind
 | - - | - - | فطم i هَ | عَنِ الرِّضَاعِ

Epilepsie s. f. داء النُقطة | صرُع

Epileptiker s. m. مَصْرُوع | epilep-

tisch a. صرُعِي | مُخْتَصِّصٌ بِالصَّرْعِ

Epilog s. m. خاتِمة.

Epiphaniensfest s. n. christl. عيد

عيد المَجُوسِ | الظُّهور

episch a., -es Gedicht f. Epos.

Episkopat s. m. kath. جَماعة

الأساقفة.

Episode s. f. فِعْلٌ عَرَضِيٌّ فِي رِوَايَةِ

حَوَادِثِ pl. حَادِثَةٌ مُعْتَرِضَةٌ

إِسْتِطْرَادٌ.

Epistel s. f. مَكْتُوبٌ pl. مَكَاتِيبُ

أَلُوكةٌ | رَسَائِلُ pl. رِسَالَةٌ

Epitaph s. m. تَأْرِيبٌ عَلَى قَبْرِ.

Epoch s. f. حِينٌ | أَرْزَمِنَةٌ pl. زَمَانٌ

أَوَاقَاتُ pl. وَقْتٌ | أَحْيَانٌ pl.

Epopée s. f., Epos s. n. قَصِيدَةٌ فِي

مَوَاقِعِ الأَبْطَالِ.

Eppich s. m. كَرْفُسٌ.

er pr. pers. أَنْتَ (مُخَاطَبَةٌ | هُوَ

عَوَامِ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ القَدِيمِ)

erachten va. etw. für ه ه u ظَنَّ

Erachten s. n. رَأَى | عَدَّ ه ه u

حَسِبَ ه ه

Erb-adel s. m. شَرَفُ النَسَبِ |

-anfall s. m. إِارْتٌ | -anspruch s. m.

حَقٌّ لِلْإارْتِ.

erbarmen v. sich js. ه ا رَجِمَ |

شَفِقَ a | رَقَّ i لَهُ | حَنَّ عَلَيْهِ

Erbarmen s. n. رَحْمَةٌ | عَلَيْهِ

um - bitten | شَفَقَةٌ | حَنَوُ

Erbarmer s. m. (Gott) | إِسْتَرْحَمَ

رَحِيمٌ | رَحْمَانٌ.

erbärmlich a. مَسَاكِينٌ pl. مَسْكِينٌ

-heit s. f. | أَشْقِيَاءُ pl. شَقِيٌّ

شَيْءٌ | شَقَاوَةٌ | شَقَاءٌ | سُوءُ الحَالِ

حَقِيرٌ.

Erbarmung s. f. f. Erbarmen |

عَدِيمُ الشَّفَقَةِ -los a.

erbauen va. etw. ه i بَنَى - in.

حَمَلَ i ه | اجْتَدَبَ ه إِلَى الفَضِيلَةِ

عَلَى الفَضِيلَةِ بِقُدْوَةٍ أَوْ بِنِصَائِحٍ

مُوجِبِ العِبْرَةِ a. erbaulich | صَالِحَةٌ

Erbauung s. f. بُنْيَانٌ | بِنَاءٌ

قُدْوَةٌ | مَثَالٌ.

Erb-begräbnis s. n. قَبْرٌ للعائِلَةِ |

-berechtigung s. f. f. -anspruch |

وَرَاثٌ u. وَرَثَةٌ pl. وارِثٌ s. m. -e

تِرْكَةٌ | وِراثَةٌ | إِارْتٌ s. n. -e

مَوَارِيثٌ pl. مِيرَاثٌ.

erbeben s. n. ارْتَعَدَ | ارْتَعَشَ

- (Erde) | تَرْتَلَزَلُ | vor furcht -

- قاصِد | -schleicher s. m. | تَرْكَة
 | -schleichei s. f. | الإِرْت بِحِيَّة
 قَصْد الإِرْت بِحِيَّة.
- | جُلْبَان | بِسِلَّة (grün) | Erbse s. f.
 | حُمَص * | حِمَص (-Kicher-) -
 -nsuppe s. f., Erbsuppe s. f.
 حَسَاء مِن جُلْبَان.
- pl. شَيْء مَوْرُوْت | Erb-stück s. n.
 | -sünde s. f. christl. | أَشْيَاء
 | -teil s. n. | إِرْت | الخَطِيئَة الأَصْلِيَّة
 | -teilung s. f. | تَقْسِيم الإِرْت.
- | مِحْوَر الأَرْض | -apfel | Erd-achse s. f.
 | بَطاطَة * | بَطاطِس * | s. m.
 | طَرِيق الأَرْض | -bahn s. f. | أَفْرُنْجِي
 | -beben s. n. | كُرَة الأَرْض | -ball s. m.
 | زَلْزَال | زَلْزَال pl. | زَلْزَلَة الأَرْض
 | ثَمَر الثُّوت الأَفْرُنْجِي | -beere s. f.
 | جَغْرَافِيَّة * | -beschreibung s. f.
 | سَطْح الأَرْض | -boden s. m. | أَرْض.
- | - | كُرَة الأَرْض | أرض | Erde s. f.
 | - | سَطْح الأَرْض | oberfläche (Stoff)
 | - | | (die Erdbewohner) | تُرَاب
 | - | | sein - der | سَكَّان الأَرْض
 | - | | bringen - die | جِن. | مات u
 | - | | eine Stadt der | أَمَات * | دَفَن *
 | - | | machen | دَمَّر المَدِينَة | gleich -
- | möge ihm die - leicht | حَرَب ها
 | sein! | ثَرَاوَة i | طاب.
- | نَحْيَل ه | تَصَوَّر ه | erdenken va. etw.
- | قابل | erdenklich | اِخْتَرَع ه
 | مُمَكِن تَصَوَّرَة | التَصَوَّر.
- | أَصْفَر كَلُون | -farben a. | erd-fahl a.
 | جِن الأَرْض | -geist s. m. | التُّرَاب
 | الطَّبَقَة | -geschöß s. n. | جِنَّة | جَان
 | الدُّوْر الأَسْفَل | السُّفْلَى مِنَ الدَّار
 | مَحْلُوط | تُرَابِي a. | -ig | أَرْضِيَّة
 | بِتُّرَاب.
- | اِخْتَرَع ه | erdichten va. etw.
- | تَظَاهَرَب | اِخْتَلَق ه | أَبْدَع ه
 | اِخْتِرَاع | Erdichtung s. f. | خَيْل
 | كَذِب.
- | سَطْح الأَرْض | -fugel | Erd-freis s. m.
 | كُرَة الأَرْض | -funde s. f. | s. f.
 | بَلْبُوس | -nuß s. f. | جَغْرَافِيَّة
 | بَصَل الزَّبْر | بَصَل الذُّب | -öl
 | زَيْت الكَاز * | نَقَط | s. n.
- | قَتَلَ ه | بِالْحَنْجَر | erdolchen va. jn.
- | حَمَر | قَفَر اليَهُود | Erd-pect s. n.
 | سَطْح الأَرْض | -reich s. n.
- | تَجَسَّر | تَجَسَّر | erdreisten v. sich
- | حَنَق ه | حَنَق ه | erdroffeln va. jn.
- | ضَايِق ه | - - | Erdroffelung bld.

s. f. شُنُقُ * | اِحْتِنَاقٌ | خَنْقٌ | تضايِقٌ.

erdrücken va. jn. ثَقَّلَ عَلَيْهِ |

حَمَلَ هـ | ما لا يُطِيقُ | اَعْسَفَ هـ

لَحَّ i, a, عَلَيْهِ | خَنْقٌ u هـ | اَنْعَبَ هـ

Erd-scholle s. f. مَدْرَةٌ pl. مَدَرٌ | -stoß

s. m. زَلَزِلَةٌ pl. زَلَزِلٌ |

-strich s. m. قَطْرٌ pl. اَقْطَارٌ | -teil

s. m. قَطْرٌ pl. اَقْطَارٌ.

erdulden va. etw. هـ | اِحْتَمَلَ هـ |

قَاسَى هـ | كَابَدَ هـ | صَبَرَ i عَلَى

ereifern v. sich über اِحْتَدَّ | حَدَّ عَلَى

| فَاِرٌ u فَاِثْرَةٌ | طَارَ i طَاِثْرَةٌ | عَلَى

اِسْتَشَاَطَ عَلَى.

ereignen. a. sich i جَرَى | u حَصَلَ |

Ereignis s. n. وَقَعَ a | حَدَثَ u

pl. وَاِقَعَةٌ | حَوَادِثٌ pl. حَادِثَةٌ

وَقَائِعٌ.

ereilen va. jn. طَرَأَ a عَلَيْهِ | فَجَأَ هـ |

كَبَسَ i هـ.

Eremit s. m. زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا pl.

-age s. f. اُنْسَاكٌ pl. نَاسِكٌ | زُهَّادٌ

pl. صَوْمَعَةٌ | مَنَاسِكٌ pl. مَنَسِكٌ

مَحَابِسٌ pl. مَحْبَسَةٌ | صَوَامِعٌ.

ererbten va. etw. حَصَلَ u عَلَيْهِ |

بِالْاِرْثِ.

erfahren va. etw. (hören) هـ | عَرَفَ i هـ

| بَلَّغَنِى - ich habe | سَمِعَ a هـ

| جَرَّبَ هـ (durchmachen) etw. -

| اِحْتَبَرَ هـ (erdulden) etw. -

| كَابَدَ هـ | قَاسَى هـ | تَحَمَّلَ هـ

| مَاهِرٌ | خَبِيرٌ a. -heit s. f.,

Erfahrung s. f. تَجْرِبَةٌ pl. تَجَارِبٌ |

عَمَلِيَّةٌ | اِحْتِبَارٌ | خِبْرَةٌ.

erfassen va. etw. هـ i, u مَسَكَ |

اَدْرَكَ هـ - - | قَبَضَ i عَلَى

فَهِمَ a هـ.

erfechten va. etw. حَصَلَ u عَلَيْهِ |

بِالْقِتَالِ.

erfinden va. etw. هـ | اِخْتَرَعَ هـ |

وَجَدَ i هـ | اَوْجَدَ هـ | اِخْتَلَقَ هـ

er hat das Pulver nicht erfunden

Erfinder s. m. هُوَ قَلِيلُ الْعَقْلِ |

erfinderisch a. مَبْدِعٌ | مُخْتَرِعٌ

Erfindung s. f. حَازِقٌ فِي الْاِخْتِرَاعِ |

اِيجَادٌ | اِبْدَاعٌ | اِخْتِرَاعٌ s. f.

كَذِبٌ.

erflehen va. etw. von jn. u حَصَلَ

عَلَيْهِ مِنْهُ بِالتَّضَرُّعِ.

Erfolg s. m. حَاصِلٌ pl. حَوَاصِلٌ |

glücklicher - عَاقِبَةٌ pl. عَوَاقِبٌ |

اِتْوَفِيقٌ (von Gott) - | فَلَاحٌ | نَجَاحٌ

aus - - | وَقَعَ a | حَصَلَ u -en vn.

| بِلَا نَجَاحٍ a. -los | نَتَعَ u مِنْ

- كَثِيرٌ a. reich - | بِلا حَاصِلِ
 النِّجَاحِ.
- erforderlich a. | لازم | ضروريّ | er-
 fordern va. etw. ه | طلب | u
 Erfordernis s. n. | لزوم | اقتضاء |
 حاجات pl. حاجة | احتياج.
- erforschen va. etw. | بَحَثَ a | عَنْ
 طَلَعَ u | وَقَفَ i | عَلَى | فَحَصَ a | عَنْ
 | باحث s. m. | Erforscher s. m. | عَلَى
 | Erforschung s. f. | فاحص | كاشف
 | كَشَفَ | فَحَصَ | بَحَثَ.
- erfragen va. etw. von jm. a | سَأَلَ
 ه | عَنْ.
- erfrechen v. sich | تَجَاسَرَ.
- erfreuen va. jn. ه | سَرَّ u | ه |
 | شرح خاطرهُ | sich - einer Sache
 | انبسط | سرّب | an |
 | تمتع ب | او من
 | مسرور a. | erfreut a. | مسرور | سار
 |. erfreuen.
- erfrieren vn. | مات u | هلك i | بالبرد
 | مصاب | erfroren | صرّ | بالبرد
 | سهل التأثر من البرد | بالبرد.
- erfrischen va. jn. u. etw. ه |
 | sich - | برّد ه | رطب ه | طرى ه
 | er- | تقوى | بالراحة | او الطعام
 | Er- | مرطب | مبرّد a. | frischend
- | ترطيب | تبريد s. f. | frischung
 | (erfrischende Sache) - | تقوية
 | مشرب | شىء مبرّد | شىء مرطب
 | طعام مقوّ | مبرّد.
- | ملاً a ه ه | erfüllen va. etw. mit ه
 | وفى i | بالوعد |
 | - | Pflichten | قام u | به | أوفى به
 | Wunsch | قام u | بواجباته
 | Erfüllung s. f. | إملاء | الرغبة
 | in - gehen | إكمال | تنميم | وفاء
 | i | كمل u | تم.
- | أتم ه | تمم ه | ergänzen va. etw.
 | أنجز ه | أكمل ه |
 | تامة | تمام | تم s. f. | Ergänzung
- | أخذ u ه | بجيلة | ergattern va. etw.
 | أدرك ه | بجيلة.
- | أنتج ه | نتج u | حصل u | ergeben va., sich ergeben (folgen)
 | سلم نفسه (sich übergeben) - | sich
 | بذل نفسه دون أو عن - | sich jn.
 | سلم أمره لله - | sich Gott
 | انهمك فى المنكر - | der Sünde
 | رضى a | ب | in etw. | sich -
 | خاضع | مسلم a. | geben a. | -ft
 | الداعى | الخاضع (in Briefen)
 | بذل الذات له. | jn. s. f. | -heit
 | انقطاع إليه | خضوع له | Er-

gebnis s. n. حَاصِل pl. | حَوَاصِل
Ergebnis pl. عَوَاقِب | عَاقِبَة
gebung s. f. تَسْلِيم | الأَنْقِيَاد لله
إِسْلَام المَرْءِ أَمْرُهُ إِلَى | الخُضُوع لله
الله.

ergehen vn. (Befehl) | حَمَدَر u (أَمْرٌ)
einen Befehl - lassen أَمْرًا
etw. über sich - lassen ه تَحَمَّل
sich - تَمَشَى * | تَنْزَهُ * | تَفَسَّح *
| كان حاله. jm. - | شَمَّ الهَوَاء *
es ergeht ihm gut حاله جَيِّد.

ergiebig a. | وافر | فائض | جَزِيل
- | كَثِير المَكْسَب | مُثْمِر | غَزِير
s. f. | وَفُور | فَيْض | غَزَارَة
المَكْسَب.

ergießen va. etw. ه | أَفَاض | صَبَّ u ه
فاض. i | اِنْصَبَّ - | كَبَّ ه *

erglänzen vn. a | لَمَعَ | بها u.

erglühn vn. | أَحْمَرَ.

ergötzen va. jm. ه | سَلَّى a | شَرَح
| اِنْبَسَط | تَسَلَّى - | صَدْرُهُ
| مُسَلَّ | ergötzlich a. | اِنْشَرَح
Ergötlichkeit s. f. | تَلْهِية | Er-
götzung s. f. | اِنْبِساط | تَسَلَّى
تَسْلِيَة | اِنْشَرَا.

ergrauen vn. i شاب.

ergreifen va. jm. u. etw. ه | مَسَكَ u ه

إِسْتَوَى | Besitz - von | قَبَضَ i عَلَى
| اتَّخَذَ تَدَابِيرَ - | Maßregeln | عَلَى
| حَازِب ه - | die Partei | دَبَّر ه
| die Gelegen- | تَعَصَّبَ لَهُ | شَايَع ه
heit - | اِغْتَنَمَ الفُرْصَة - | die Flucht -
| اِنْكَلَمَ | فرَّ i | هَرَب u
| اِسْتَوَى عَلَيْهِ (Furcht, Schrecken)
| اِعْتَرَى ه (Krankheit) | الخَوْفُ
| المَرَضُ.

ergrimmen vn. | اِحْتَدَّ | حَنِق |
غَضِب a.

ergründen va. etw. في | تَعَمَّقَ |
| اِسْتَقْصَى في | تَبَحَّرَ في

ergrünen vn. | اِحْضَرَ.

Erguß s. m. | صَبَّ | سَكَب -
| اِبَاحَة القَلْبِ بِأَسْرَارِهِ (-Herzens-)

erhaben a. (hoch) | عالٍ | رَفِيع |
| جَلِيل (edel) - | عَظِيم | شَامِع | سامٍ
| البَارِزِ مِنَ العِمالِ - | سَنِيَّ
| اِسْمُو | اِرْتِفَاع s. f. | النَقْشِ
| رَفْعَة | جَلَالَة | سَنَاء | عُلُو.

erhalten va. etw. (bekommen)

| حَظِيَ a | اِسْتَلَمَ ه | أَخَذَ u ه
| وَرَدَهُ الشَّيْءُ | وَصَلَهُ الشَّيْءُ
| حَصَلَ u عَلَى (erlangen) etw. -
| فاز u | نال a ه
| اَبْقَى ه | حَفِظَ a ه
halten) etw. ه

- sich - a بَقِيَ | u دام | - jn. (ernähren) * u قَات | sich - von اِقْتَاتِ بِ | Erhalter s. m. حَافِظ pl. حُقَاط u. حَفَظَة | Erhaltung s. f. حِفْظ | اِبْقَاء | مَعَاش | erhändigen va. etw. هَسَب i هَسَب | اِسْتَرَى هَسَب (kaufen) - | بِالتِّجَارَة | erhängen va. jn. * u سَنَق | erharren va. etw. * اِنْتَظَر | erhärten va. etw. durch Beweise 2c. اَثْبَت هَسَب بِالْبَرَاهِين | erhaschen va. etw. هَسَب i مَسَكَ | قَبِض i عَلَى | erheben va. jn. u. etw. هَسَب و هَسَب | اَعْلَى هَسَب و هَسَب | - jn. (zu Würden) اَعْلَى رُتْبَتَهُ | وَجَّه هَسَب | رَقَى هَسَب | - jn. (loben) هَسَب | عَظَّمَ هَسَب | jn. über andere هَسَب عَلَى | قَبِض i المال Geld - | غَيْرِهِ | - Steuern von jn. ضَرَب i الرُّسُوم | قَبِض i الخَرَج | جَبَا u الخَرَج عَلَيْهِ | eine Zahl ins Quadrat - رَبَّع | نَهَض a | قام u - | sich | عَدَدًا | (Sturm) اِسْتَصَب | اِرْتَفَعَ | sich - | اِرْتَفَعَ | اِسْتَصَب | sich - gegen jn. | ثَارَتِ الزُّوْبَعَةُ | sich über andere - | قام u عَلَيْهِ | Erheblich a. مُؤَمَّم | Erheblichkeit s. f. اَهْمِيَّة | Erhebung s. f. اِرْتِفَاع | تَلَّ pl. تِلَال u. تُلُول | قَبِض | اِرْتِفَاع | رِفْعَة | erheiraten va. Vermögen i كَسَب المال بِالزَّوْاج | erheischen va. etw. هَسَب u طَلَب | erheitern va. jn. هَسَب | اَفْرَح هَسَب | اِسْرُور s. f. اِسْرُور | بَسَط u هَسَب | اِنْبِسَاط | بَسَط | مَسَرَّة | erhellen va. etw. هَسَب | اَضَاء هَسَب | اِنْتَضَح | وَضَح i | بان - i vn. | erheucheln va. etw. تَظَاهَرَ ب | erhitzen va. etw. هَسَب | دَفَأ هَسَب | تَصَلَّى | تَدَفَأ - | sich | حَمَى هَسَب | اِسْخُونَة | تَدْفِئَة | erhoffen va. etw. هَسَب | اَمَّل هَسَب | رَجَا u هَسَب | تَرَجَّى هَسَب | erhöhen va. etw. هَسَب | اَعْلَى هَسَب | وَجَّه هَسَب | رَقَى هَسَب | - jn. | رَفَع a هَسَب | etw. (vermehrten) - | اَعْلَى رُتْبَتَهُ | Erhöhung s. f. اِرْتِفَاع | زاد i هَسَب | رِفْعَة | تُلُول u. تِلَال pl. تَلَّ | زيادَة | erholen v. sich (von Krankheit) اَفَاق | sich (von Müdigkeit) اِرْتاح (مِن التَّعَب) | sich (vom Erstaunen) اِزَالَ تَحْيِرُهُ |

erklären va. jm. etw. ه لَه | شَرَحَ a
 | يَبِّينَ ه لَه | أَوْضَحَ ه لَه | فَسَّرَ ه لَه
 | اَظْهَرَ ه | عَرَّفَ ه | jm. den
 | نَصَبَ i الحَرْبَ لَه - Krieg
 | تَحَرَّبَ لَه - für
 | Erklärer s. m.
 | مُمَكِّن تَفْسِيرُهُ a. | erklärlich | شارح
 | تَفْسِيرٍ | شرح | f. | Erklärung
 | يَبِّينَ | بيان | إيضاح
 | تَعْبِيرٍ | (der Träume)

erflecklich a. مُهَمَّ | كافٍ.

erklettern va., erklimmen va. einen

صَعِدَ a عَلَى | طَلَعَ u جَبَلًا Berg

erfliegen vn. i رَنَّ | i طَنَّ | طُنَّ

erflügeln va. etw. اِحْتَرَعَ ه.

erforen a. مُنْتَخَبٍ | مُخْتَارٍ | er-
 tiefen.

erfrachten vn. u طَطَّقَ | طَقَّقَ * قَرَّقَعَ.

erfranken vn. a مَرِضَ | a سَقِمَ |
 | اِعْتَلَّ | Erkrankung s. f. | دَاءٌ
 | مَرِضَ pl. | عِلَّةٌ pl. | سَقَمَ |
 | أمراض.

erfühnen v. سِجِّ | تَجَاسَرَ | نَجَّرًا.

erfunden va. etw. عَنَ | بَحَثَ a
 | اسْتَحْبَرَ | erfundigen v., sich
 | اسْتَحْبَرَ عَنَ | - nach
 | اسْتَفْهَمَ | اسْتَعْلَمَ | اسْتَحْبَرَ |
 | -en einziehen | sich erfundigen.

erkünsteln va. etw. ب | تَصَنَّعَ |
 | تَظَاهَرَ بِ.

erfüren va. jm. zu etw. ه | اِنْتَخَبَ ه
 | اِحْتَارَ ه.

erlaben va. | laben.

erlahmen vn. a تَعِبَ | أَعْيَا.

erlangen va. etw. ه | نَالَ a | فاز u بِ |
 | حَصَلَ u عَلَى | Erlangung s. f.
 | حُصُولَ عَلَى | فَوْزٍ | نَوَالٍ | نَوَلٍ
 | تَحْصِيلٍ.

Erlaß s. m. pl. أَمْرٍ | مَنْشُورٍ
 | بَرَاءَةٌ pl. | بَرَاءَاتٍ * | فَرْمَانٍ pl.
 | اَصْدَرَ | erlassen va. | بَعَثَ | فَرَامِينَ
 | سَامَعَ ه فِي (Strafe) - | اَلْأَمْرِ | jm. etw.
 | مُسَامَحَةٌ | اِصْدَارٍ | s. f. | Erlassung

Erlaub s. m. | -nis | -en va. jm.
 | سَمَعَ a لَه | اِذْنَ a لَه | بِ |
 | -- etw. | اَجَازَ ه لَه | اَبَاحَ ه
 | -- Sie mir zu | اَحَلَّ ه (Gott)
 | تَجَاسَرَ -- | دَعْنِي اَفْعَلْ | thun!
 | اِجَازَةٌ | اِذْنٌ s. f. | نِجْرًا |
 | pl. | دُسْتُورٌ * | تَسْرِيحٌ | رُخْصَةٌ
 | دُسْتُورٌ * | بِاِذْنِكَ! -- | mit
 | بلا مَوَاحِذَةٍ | zu | sagen | -- mit
 | اِسْتَاذَنَ ه فِي | bitten | -- | jm. um
 | -te Sache | مُبَاحٌ | جَائِزٌ | a. -t

مُخَلِّص | Erlösung s. f. اِنْقَاذ |
تَخْلِيص.

erlustigen va. f. ergötzen.

ermächtigen va. jn. zu هِ اَلْيَهُ |
Ermächtigung s. f. اَذِن ا له فِي
تَفْوِيض * | رُخْصَة | اِذْن | اِجَازَة.

ermahnen va. jn. zu هِ اَلَى |
حَمَل ا i هِ اَلَى | حَرَض هِ اَلَى
Ermahnung s. f. تَحْرِيط |
اِئْذَار | نَصَائِح pl. نَصِيْحَة.

ermangeln vn. u نقص |
قَصْر u | اِفْتَقَر اِلَى
- einer Sache gen. اِلَى
ما اِحْتَاَج اِلَى | nicht - zu thun
| ما سَهَا u عَن | غَفَلَ u عَن فِعْلِهِ
Ermangelung s. f., in - einer
Sache لِعَدَم وُجُوْد الشَّيْءِ.

ermannen v. sich zu اِشْدَد نَفْسَهُ لِ
تَشَجُّع لِ

ermäßigen va. Preis 2c. اَنْزَلَ
Ermäßigung | هَاوَدَه | الثَّمَن
s. f. des Preises اِئْزَال الثَّمَن
مُهَاوَدَة.

ermatten va. jn. هِ اَلْتَعِب هِ
ermattet | اَعْيَا | تَعِب ا
Ermattung s. f. تَعَب |
تَعْبَان

ermessen va. etw. i قاس | - etw.

اِظَنَّ u هِ | تَأَمَّل فِي (bedenken)
Ermessen s. n. رَأَى.

ermitteln va. etw. هِ اِسْتَكْشَف
Ermittelung s. f. اِلَى اَلْبَحْثِ عَنْهُ
بَحْث ا عن anstellen - | بَحْث

ermöglichen va. jn. etw. مَكَّن هِ مِّنْ

ermorden va. jn. هِ اَلْغِيْلَة
ermordet pl. قَتِيل | فَتَكَ u بِهِ
Ermordung s. f. مَقْتُول | قَتَلِي
فَتَكَ | قَتَلَ

ermüden va. jn. هِ اَلْتَعِب هِ
ermüdend | اَعْيَا | تَعِب ا
- vn. a | تَعْبَان | ermüdet
Ermüdung s. f. تَعَب |

ermuntern va. jn. هِ اَلْاَفَاق هِ
حَتَّ هِ اَلَى - | نَشَط هِ
اِسْتَفَاق | تَبَيَّنَّ | يَبِّغْ ا -
sich - | تَنْشِيْط |
Ermunterung s. f. تَشَجُّع
تَحْرِيط.

ermutigen va. jn. هِ اَلْتَشَجُّع هِ
حَرَض هِ اَلَى - | حَتَّ هِ اَلَى -
اِشْدَد نَفْسَهُ | تَشَجُّع ا - | اَلَى
Ermutigung s. f. تَشَجُّع
تَنْشِيْط.

ernähren va. jn. هِ اَلْقَات هِ
اِقْتَات ب | عَيْشِي هِ
Ernährung s. f. اِطْعَام | قُوْت |

ernennen va. jn. zu etw. ه عَيَّن |
jn. - zu einem Amte وَظِيْفَةً |
Ernennung s. f. تَعْيِينَ | وَظْف ه
تَقْلِيد.

erneuen va., erneuern va. etw.
sich - ه غَيَّر | ه بَدَّل | ه جَدَّد ه
Erneuerung | تَغْيِير | تَبَدَّل | نَجَدَّد
s. f. تَجْدِيد.

erniedern va., erniedrigen va. etw.
سَقَلَ ه | أَنْزَلَ ه | حَطَّ ه
| انْحَطَّ - sich | دَلَّل ه - jn. | وَطَأ ه
Erniedrigung s. f. | تَذَلَّل | وَطَوَّ ه
| تَذَلَّل | انْحِطَّط.

ernst a. (Person) وَقُور | رَزِين | مُجَدَّد
| حَقِيقِيٌّ وَلَا مُصْنَعٌ | مُهِمَّ (Sache) -
Ernst s. m. | جَدَّ | وَقَار | جِدَّ
| im - | أَهْمِيَّةٌ | جَفَاءٌ | شِدَّةٌ
| بِالْحَقِيقَةِ | بِالرِّزَانَةِ | فِي الْجِدِّ
| حال الجِدِّ s. m. | -fall | حَقِيقَةً
| -haft a., -lich a. | حال الحَرْبِ
| -haftig | بِالْجِدِّ | مُهِمَّ | مُجَدَّد
feit s. f. | Ernst.

Ernte s. f. | حَصَادٌ | غَلَّةٌ pl. | غَلَاتٌ u.
pl. | مَوْسِمٌ * (- Zeit der) - | غِلَالٌ
| حَصَدَ ه u. | -n va. etw. ه
| مَوَاسِمٌ | -bld. | ه اِكْتَسَبَ | ه حَصَلَ ه -

ernüchtern va. jn. أزال سُكْرَهُ | er-
nüchtert werden u. صَحَا | أَفَاقَ.

Eroberer s. m. (البلاد) | فَاتِحٌ | مُفْتَتِحٌ
| erobern | مُتَسَلِّطٌ عَلَى | مُتَمَدِّكٌ
va. | فَتَحَ البلاد a. | نَسَّطَ
- das Herz is. | اسْتَمَالَ -
Achtung i | كَسَبَ | بِقَلْبِهِ
| حَصَلَ u. عَلَى | الأَحْتِرَامِ | الأَحْتِرَامِ
Eroberung s. f. | فَتُوحٌ | فَتُوحٌ
| اسْتَيْلَاءٌ.

eröffnen va. etw. ه (يُسْتَعْمَلُ) فَتَحَ
a ه | - etw. (an- | افْتَتَحَ ه | مَجَازًا)
fangen) | ابْتَدَأَ ه | jn. etw. -
Eröffnung | أَعْلَمَ ه | عَرَفَ ه
s. f. | ابْتِدَاءٌ | افْتِتَاحٌ | jn. -en
machen ه عَرَفَ ه.

erörtern va. etw. mit jn. | بَاحَثَ ه فِي
| Erörterung s. f. | قَاوَلَ ه فِي
مُبَاحَثَةٍ.

erotisch a. | عَزَلِيٌّ | عَشْقِيٌّ.

erpicht a., - auf etw. sein | اِحْتَدَّ |
| اسْتَحَرَّ | التَّحَمُّ.

erpressen va. jn. etw. ه u. | أَخَذَ
| Erpresser s. m. | مِنْهُ | بِالتَّهْدِيدِ
| أَخَذَ | Erpressung s. f. | بِالتَّهْدِيدِ
| أَخَذَ | بِالتَّهْدِيدِ.

erproben va. etw. ه | جَرَّبَ ه | اِحْتَبَّرَ ه.

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| erquicken va. jn. أَرَاغ بَرَّد | errichten va. etw. (gründen) أَنشَأَ |
| erquicklich a. سَتَى سَتَى أَرَوَى | etw. - أَسَس رَفَعَ |
| Erquickung لَطِيف مُسَلِّ مُبَرِّد | نَصَب بَنَى (bauen) |
| s. f. رَاخَةٌ وَطَعَامٌ تَبْرِيدٌ إِرْوَاءٌ | erringen va. etw. بِالْقُوَّةِ |
| erraffen va. etw. مَسَكَ | سِخِ etw. - اِكْتَسَبَ |
| قَبَضَ عَلَى | erröten vn. اِحْمَرَّ Erröten s. n. |
| erraten va. etw. حَزَرَ u, i خَمَّنَ | اِحْمَرَارِ |
| - Rätsel اللُّغْزُ u حَلَّ | Errungenschaft s. f. كَسَبَ |
| erregbar a. تَزِقَ سَرِيعَ الْحِدَّةِ | اِقْتَبَسَ |
| s. f. سُرْعَةَ اِسْتِعْدَادَ لِلْحِدَّةِ | ersättigen v. سِخِ an تَشَبَّعَ |
| erregen va. etw. حَرَّكَ | أَرَوَى عَلَيْهِ |
| erregung التَّأَثُّرُ | Ersatz s. m. تَعْوِيضٌ |
| erregen va. etw. هَيَّجَ jn. - أَقْلَقَ | عَوَّضَ jn. - leisten für مِنْ |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | كَوَاءٌ مُتَبَادِلٌ -mittel s. n. |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | ersaufen vn. غَرِقَ |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | ersäufen va. jn. غَرَّقَ |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | erschaffen va. jn. u. etw. وَه |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | erschaffung كَوَّنَ وَه بَرَأَ وَه |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | s. f. تَكْوِينٌ اِحْتِقَ |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | erschallen vn. u. صَاتَ i رَنَّ |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | erschauen va. سِخِ schauen. |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | erscheinen vn. u. بَرَزَ a ظَهَرَ |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | u بَدَأَ - (kommen) u حَضَرَ |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | Er- طَبِعَ (الكتاب) (Buch) - |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | scheinen s. n. ظَهَرَ |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | Erscheinende s. m., Erschienene |
| erregung اِضْطِرَابٌ اِضْطِرَابٌ | s. m. حَاضِرُونَ pl. حاضر |

erscheinung s. f. ظُهُور | بُرُوز |
 - (Gesicht) رُؤْيَا | - (Ereignis)
 حَادِثَةٌ pl. حَوَادِثُ.
 erschließen va. jm. بِالْبُنْدُقِيَّةِ s u قَتَلَ
 قَوَّسٌ *.
 erschlaffen vn. اِرْتَخَى | i, u فَتَرَ | va.
 - etw. ه u حَلَّ | ه اَرَّخَى |
 اَلَانَ ه | Erschlaffung s. f. رَخَاءُ |
 رَخَاوَةٌ.
 erschlagen va. jm. s u قَتَلَ.
 erschleichen va. etw. حَصَلَ عَلَيْهِ
 بِالْكَذِبِ.
 erschließen va. etw. ه a فَتَمَّ | sich -
 فُتِحَ | اِنْفَتَحَ.
 erschmeicheln va. etw. von jm.
 حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْهُ بِالتَّمَلُّقِ.
 erschnappen va. etw. ه تَلَقَّفَ |
 تَرَقَّفَ ه | رَحَفَ ه.
 erschöpfen va. etw. ه فَرَّغَ | - jm.
 نَهَكَ ه | اَضْنَى ه | اَضْعَفَ ه
 Erschöpftheit s. f., Erschöpfung
 s. f. نَهْكَةٌ | اَضْنَى | ضَعْفٌ | فَرَاغٌ.
 erschrecken va. jm., impf. erschreckte,
 part. erschreckt ه هَوَّلَ ه | فَزَعَهُ ه
 فَزِعَهُ ه | اَخَافَهُ ه | اَخَافَ ه
 vn. - vor, impf. erschraf, part.
 erschrocken ه اَخَفَ | ه فَزِعَ | ه اَخَفَ

erschrecklich a. اِهْتَالٌ | مِنْ
 مُخِيفٌ.
 erschüttern va. etw. ه اهَزَّ ه u
 ه | erschüttert
 werden ه زَعَزَعَ ه | اِهْتَزَّتْ
 اِرْتَجَفَتْ | اِهْتَزَّتْ
 تَزَعَزَعَتْ | jm. das Swerchfell -
 اهَزَّ ه | Erschütterung s. f. اهَزَّةٌ
 زَلَايِلٌ pl. زَلَزَلَةٌ | زَعَزَعَةٌ pl.
 erschweren va. etw. ه صَعَّبَ |
 وَعَسَّرَ ه | عَسَّرَ ه.
 erschwingen va. etw. ه اَدْرَكَ |
 اَقَامَ ه u بِحَاجَتِهِ | لِحَقِّ ا ب
 كَفَى ه i.
 ersehen va. etw. ه ا رَأَى ه |
 - jm. نظر u إِلَيْهِ | jm. - zu etw.
 اِنْتَخَبَ ه ه.
 ersehnen va. etw. اِسْتَأْتَقَى إِلَى.
 ersetzen va. etw. durch ه عَوَّضَ مِنْهُ
 اَقَامَ ه u مَقَامَهُ - | اَبْدَلَ ه ب
 اِسَدَّ ه | اَسَدَّ ه u مَسَدَّهُ | نَابَ ه u عَنْهُ
 عَوَّضَ ه مِنْ - | etw.
 ersichtlich a. وَاضِحٌ.
 ersinnen va. etw. ه تَخَيَّلَ ه |
 مُمَكِّنٌ ه | اِحْتَرَعَ ه
 تَصَوَّرَهُ ه.
 ersitzen va. Recht حَقٌّ |
 بِمُرُورِ الزَّمَانِ.

erspähnen va. jm. u. etw. تَرَصَّدَ ه و ه

ersparen va. etw. إِذْخَرَ ه | أَبْقَى ه

jm. etw. - وَقَّرَ ه * | اسْتَبْقَى ه

| صَانَ ه u | حَفِظَ ه a | عَنِ

Ersparnis s. f. | حَمَى ه i | عَنِ

ذُخْرًا | شَيْءٌ مُسْتَبْقَى | اسْتِبْقَاءٌ

-fe machen | تَوَفِيرٌ * | إِذْخَارٌ pl.

وَقَّرَ * | أَبْقَى

ersprießlich a. | مُفِيدٌ | نَافِعٌ

s. f. نَفْعٌ.

erst adv. قَبْلَ | فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ | أَوَّلًا

| سَابِقًا | قَبْلًا (vorher) - | كَلَّ شَيْءٌ

- فَقَطَ (nur).

erstarken vn. تَقَوَّى.

erstarren vn. u. تَصَلَّبَ | صَلَبٌ

u | تَخَبَّلَ | vor Kälte,

furcht - | اِرْتَعَدَ مِنَ الْبُرْدِ أَوْ -

الْخَوْفِ.

erstatten va. jm. etw. رَدَّ ه u | لَهُ

| اَرْجَعَ ه لَهُ | jm. Bericht - über

| شَكَرَ ه - | اَخْبَرَ ه بِ |

Erstattung s. f. | اِرْجَاعٌ | رَدٌّ.

erstaunen vn. über | اِنْدَهَشَ مِنْ

عَجَبٌ a | اسْتَعْزَبَ ه | تَحَيَّرَ مِنْ

Erstaunen s. n. | تَعَجَّبَ مِنْ | مِنْ

| عَجَبٌ | تَحَيَّرَ | اِنْدَهَشَ | دَهَشَ

| دَهَشَ ه | اِنْدَهَشَ | تَعَجَّبَ |

in - geraten f. erstaunen |

erstaunlich a. | مُحَيَّرٌ | مُدْهَشٌ

عَجِيبٌ.

erste a. | أَوْلَى pl. | أَوْلُونَ pl.

الرَّئِيسِ | أَوْلِيَّاتٌ u. | أَوْلٌ

pl. | رُوَسَاءٌ | die Ersten (Notabeln)

الأَعْيَانِ.

erstechen va. jm. | بِالسَّيْفِ ه u

أَوْ بِالرُّمْحِ.

erstehen va. etw. (bei Versteigerung)

| اِسْتَمْرَى ه فِي الْمَزَادِ vn. - (auf-

ersterhen) | قَامَ u مِنْ الْأَمْوَاتِ

- | نَشَأَ a (entstehen).

ersteigbar a. | مُمَكِّنٌ طُلُوعُهُ (جَبَلٌ)

ersteigen va. | طَلَعَ u الْجَبَلَ

| عَلَا ه u | أَوْ بِهِ | صَعِدَ فِيهِ a

Ersteigung s. f. | طُلُوعٌ | صُعُودٌ.

erstens adv. | أَوَّلًا.

ersterben vn. | اِنْقَرَضَ | زال a, u

| تَلَأَشَى | in Ehrfurcht - vor jm.

| اِحْتَرَمَ ه غَايَةَ الْاِحْتِرَامِ

مُشَبَّكٌ * | خَابِلٌ (عُضْوٌ) (Glieder)

erstgeboren a. | أَبْكَارٌ pl. | بَكْرٌ

geburt s. f. | بَكْرِيَّةٌ | بَكْرٌ

ersticken va. jm. | خَنَقَ ه u | ه

- | اَخْمَدَ النَّارَ Feuer

اضْطَاقٌ i النَّفْسِ | فَطَسَ i * | اِحْتَنَقَ

vor Wut - غَضَّ u غَيْظًا | vor
 Sachen - ضَاقَ i نَفْسُهُ ضَحْكًَا |
 Erstickung s. f. خَنَقَ | تَقْطِيسُ *
 ضَيْقُ النَّفْسِ.
 erstlich adv. أَوَّلًا.
 Erstlinge s. pl. البَدَارِي | الأُولَى |
 أَبْكَارُ pl. بَكْرٌ | البَكُورَةُ | البَكْبِكَةُ
 erstorben s. ersterben.
 erstreben va. etw. ه i قَصَدَ.
 erstrecken va. etw. ه | مَدَّ u ه |
 بَسَطَ u ه | امْتَدَّ - sich
 erstreiten va. etw. ه بِالْقِتَالِ a نال.
 erstunken a., - u. erlogen كَذَبَ.
 erstürmen va. Festung عَلَى اسْتَوْلَى
 القَلْعَةَ بِالْحَمَلَةِ.
 ersuchen va. jn. um مِنْهُ ه | التَّمَسُّ
 Ersuchen s. n. عَرَضَ | التَّمَاسُ
 حال.
 ertappen va. jn. ه | فَاجَأَ ه
 erteilen va. jn. etw. ه | أَعْطَى ه
 jn. Würden - ه | أَنْعَمَ ه | ب
 Befehl - ه | أمرٌ | jn. Erlaubnis -
 ه | أَمَرَ ه | jn. guten Rat -
 ه | أَمَرَ ه | أَمَرَ ه | أَمَرَ ه |
 ه | أَمَرَ ه | أَمَرَ ه |
 ertönen vn. i رَنَّ | u صَاتَ.
 ertöten va. das Fleisch, die Lüste
 Er. أَقْمَعَ الجَسَدَ أَو الشَّهَوَاتِ

tötung s. f. des fleisches u. der
 Lüfte قَمَعَ الجَسَدَ وَالشَّهَوَاتِ.
 Ertrag s. m. دَخَلَ pl. أُدْخَالٌ |
 مَحْصُولٌ * | عَوَائِدُ pl. عَائِدَةٌ
 Rein- | وَاِرِدَاتُ * | مَحْصُولَاتُ
 أَطَاقَ -en va. etw. | دَخَلَ صَافٍ
 | صَبَرَ i عَلَى | تَحَمَّلَ ه | ه أَوْ عَلَى
 erträglich a. | قَاسَى ه | كَابَدَ ه
 | مُتَحَمِّلٌ | مُطَاقٌ | مُمَكِّنٌ أَحْتِمَالُهُ
 -heit s. f. إِمْكَانٌ - | كَافٍ | يُقْبَلُ
 Erträgnis s. n. | كِفَايَةٌ | أَحْتِمَالِهِ
 f. Ertrag | ertragreich كَثِيرٌ
 كَثِيرِ الوَارِدَاتِ * | الدَّخْلُ
 ertränken va. jn. ه | أَغْرَقَ.
 erträumen va. etw. ه | تَخَيَّلَ.
 ertrinken vn. a غَرِقَ.
 ertrogen va. etw. von jn. a نال
 ه مِنْهُ بِالتَّوْهِيدِ.
 erübrigen va. etw. ه | أَبْقَى
 بَقِيَ - a | اسْتَبْقَى ه
 erwachen vn. اسْتَيْقَظَ | اسْتَيْقَظَ
 Erwachen s. n. اسْتَيْقَظَ.
 erwachsen vn. u كَبُرَ | نَشَأَ a
 erwachsen a. | رَاشِدٌ * | بِالْبَالِغِ (mi
 20 Jahren) يَفِيعٌ pl. يَفِيعَةٌ u
 يُفِيعَانُ.
 erwägen va. etw. فِي تَأَمَّلَ

| نَظَرَ u في | فَحَصَ a عَنْ | عَلَى
 Erwägung s. f. | تَأَمَّلَ | etw. in
 - ziehen s. erwägen.
 | انْتَخَبَ ه |
 erwählen va. jn. zu etw. ه
 | اِخْتَارَ ه
 | ذَكَرَ u ه و ه |
 erwähnen va. jn. u. etw. ه و ه
 | ذِكْرٌ | Erwähnung s. f. | أَوْمَأَ إِلَيْهِ
 | تَقْرِيظٌ - ehrenvolle | ذِكْرِي
 einer Sache gen. - thun ه u ذَكَرَ.
 | تَدَفَّأَ |
 erwärmen vn.
 | دَفَّأَ ه و ه |
 erwärmen va. jn. u. etw. ه و ه
 | اِدْفَأَ | تَدَفَّأَ - | سَخَّنَ ه و ه
 Erwärmung s. f. | نَدْفِئَةٌ |
 | انْتَظَرَ ه و ه |
 erwarten va. jn. u. etw. ه و ه
 | اسْتَأْنَى | تَوَقَّعَ ه | اسْتَنْظَرَ ه و ه
 Erwartung s. f. | انْتِظَارٌ |
 | تَوَقَّعَ |
 | نَبَّهَ ه | أَيْقَظَ ه |
 erwecken va. jn. ه
 | فَيَّقَ ه * | jn. - von den Todten
 | أَقَامَ ه | bld. - jn.
 | هَيَّجَ ه | حَرَّكَ ه
 | تَحَمَّى مِنْ | اِمْتَنَعَ عَنْ |
 | أَلَانَ ه | لَيَّنَ ه |
 erweichen va. etw. ه
 | اِرْحَى ه | رَقَّقَ ه |
 | حَنَّ i | رَقَّ i | sich - lassen i
 | بَرَّهَانَ | -en va. etw. |

| دَلَّ u عَلَى | بَرَّهَنَ ه (beweisen)
 | أَحْسَنَ - | اَثْبَتَ ه | jm. Gutes
 | شَرَّفَ ه - | اِيَّهِ | jm. Ehre
 | خَدَمَ u ه | sich - |
 | اَطَّهَرَ نَفْسَهُ ه | als etw. -lich a.
 | مُحَقَّقٌ | -ung s. f. |
 | اِظْهَارٌ |
 | وَشَّعَ ه |
 | اِنشَرَحَ | اتَّسَعَ - | شَرَحَ a ه |
 | تَوَسَّعَ | Erweiterung s. f. | اِمْتَدَّ |
 | اتِّسَاعٌ |
 | اِكْتَسَبَ | اَرْبَاحٌ pl. | رِيْمٌ |
 | مَكَاسِبٌ pl. | مَكْتَسَبٌ | اِكْتِسَابٌ |
 | اِكْتَسَبَ i ه | اَرَجَ a ه | -en va. etw. ه
 | اِقْتَنَى ه | اِكْتَسَبَ ه |
 | اِكْتَسَبَ ه - | sich etw. -ung
 | اِقْتِنَاءٌ | اِكْتِسَابٌ | كَسْبٌ s. f. |
 | تَحْصِيلٌ |
 | رَدَّ u ه |
 | بَادَلَ ه | بِالزِّيَارَةِ - | jn.
 | أَجَابَ ه عَنْ | vn. - jm. auf
 | رَدَّ u جَوَابًا عَلَى | جَاوَبَ ه عَنْ |
 | اِجَابَةٌ | رَدٌّ |
 | اَجْوَابَةٌ pl. | جَوَابٌ |
 | أَنَالَ ه |
 | قَبِضَ i |

erwischen va. jn. u. etw. i

أَذْرَكَ ه و ه | لَحِقَ a ب | على
 وَقَعَ a في الفَعِّحِ - lassen sich

erwünschen va. etw. فِي a رَغِبَ |
 مَرْغُوبٍ erwünscht | غَرَضَ a إِلَى
 مَيْسُورٍ | مُفِيدٍ | فِيهِ

erwürgen va. jn. ه | خَنَقَ u ه
 ذَبَعَ a ه

Erz s. n. مَعْدِنٍ قَبْلَ تَنْقِيَّتِهِ
 قُلُوزٍ | صَادٍ أَحْمَرَ | نَحَاسٍ

Erz (in Zusammensetzungen) فِي
 التَّرْكِيبَاتِ يَدُلُّ عَلَى التَّأْكِيدِ أَوْ
 عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ جِنْسِهِ

erzählen va. etw. ه | حَكَى i ه
 Erzähler | حَدَّثَ ه | رَوَى i ه
 نَقْلَةً pl. ناقل | رُؤَاةَ pl. راوٍ
 Erzählung s. f. قَصَّاصٍ | قَصَّاصٍ
 قِصَّةَ pl. حِكَايَاتٍ | حِكَايَةٍ
 قِصَصٍ

Erzbischof s. m. kath. * pl. مَطْرَانٍ
 erzbischoflich a. رَئِيسِ الْأَسَاقِفَةِ | مَطْرَانَةٍ
 أِبْرَشِيَّةٍ | مَطْرَانِيَّةٍ *
 كُرْسِيِّ رَئِيسِ الْأَسَاقِفَةِ

erzen a. من نحاسٍ

Erzengel s. m. رَئِيسِ الْمَلَائِكَةِ

erzeugen va. Kinder الْأَوْلَادِ

Sachen | نَسَلَ u ه | نَجَلَ u ه

Er. | أَوْرَدَ ه * | أَغْلَّ ه | أَثْمَرَ ه
 Erzeuger s. m. وَالِدٍ | Erzeugerin
 s. f. وَالِدَةٍ | Erzeugnis s. n. (Des
 Bodens) pl. مَحْصُولٍ * (الأَرْضِ)
 - (Der Kunst) pl. ثَمَرٍ | مَحْصُولَاتٍ
 مَصْنُوعٍ | صِنَائِعٍ pl. صَنِيعَةٍ (Kunst)
 pl. مَصْنُوعَاتٍ - (Des Geistes)
 | تَصْنِيفٍ | تَأْلِيفٍ pl. تَأْلِيفٍ
 Erzeugung s. f. تَوْلِيدٍ | إِبْلَادٍ |
 إِثْمَارٍ | إِنْشَاءٍ

erziehen va. jn. ه | رَبَّى ه u رَبَّ
 Erzieher s. m. | أَدَّبَ ه | رَبَّبَ ه
 Erzieherin s. f. مُرَبِّيَّةٍ | مُرَبِّ
 Erziehung s. f. تَرْبِيَّةٍ | تَأْدِيبٍ
 تَهْذِيبٍ

erzielen va. etw. حَصَلَ عَلَيْهِ
 قَصَدَ i ه | نَالَ a ه | بِالتَّصْوِيبِ
 erzittern vn. تَرْتَلَزَلُ | ارْتَجَفَ

erzürnen va. jn. ه | أَعْضَبَ ه
 erzürnt غضبان

erzwingen va. etw. حَصَلَ u عَلَيْهِ
 بِالْغَضَبِ

es pr. pers. إِنَّهُ | هُوَ

Esche s. f. (Baum) | دَرْدَارٍ - (Frucht)
 من خَشَبٍ a. - | لِسَانِ الْعَصَافِيرِ
 دَرْدَارٍ

Esel s. m. zool. pl. حِمِيرٍ

wenig) قليل (adverbial
gebraucht) قليلاً.
Etymologie s. f. اشتقاق الكلمات |
etymologisch a. اشتقاقى.
euer pr. poss. كُمْ, f. كُنَّ, dual كُما |
- Buch كِتَابِكُمْ.
Eule s. f. بُومَة - coll. eine بُوم.
Eunuch s. m. طَوَاشِي.
Euphrat n. pr. نَهْرُ الْفَرَاتِ.
Europa n. pr. بِلَادُ الْأَفْرُجِ | أَوْرُبا |
Europäer s. m. رَجُلٌ أَوْرُوبِيٌّ |
europäisch a. أَوْرُوبَاوِيٌّ | أَوْرُوبِيٌّ |
أَفْرُجِيٌّ.
Euter s. m. دَرَّةٌ | ضُرُوعٌ pl. ضَرُوعٌ |
pl. دُرَرٌ.
Eva n. pr. حَوَاءُ.
evangelisch a. christl. تَبَشِيرِيٌّ |
* | أَنْجِيلِيٌّ (protestantisch)
* | بَرُوتِسْتَانِيٌّ | Evangelist s. m.
صَاحِبُ الْأَنْجِيلِ * | بُشْرَاءُ pl. بَشِيرٌ |
Evangelium s. n. christl. بَشِيرَةٌ |
أَنْجِيلٌ pl. أَنْجِيلٌ * | بُشْرَى
Eventualität s. f. عَرَضِيَّةٌ | eventuell
a. اتِّفَاقِيٌّ | عَرَضِيٌّ.
Evolution s. f. der Soldaten ٢٥. حَرَكَاتٌ pl. حَرَكَةُ الْعَسَاكِرِ
ewig a. (von Ewigkeit her) أَزَلِيٌّ |

- (bis in die Ewigkeit)
- | دَائِمٌ | دَائِمًا | خَالِدٌ |
عَلَى الدَّوَامِ | دَائِمًا | الأَبَدِ
s. f. (uranfängliche) أَزَلٌ |
- (unendliche) أَبَدِيَّةٌ | أَبَدٌ |
لِإِلَى - zu - | خُلُودٌ |
-lich f. ewig. | الأَبَدِ
kraft a. (Person) مُتَقِنٌ |
- | مُدَقِّقٌ | مُتَقِنٌ (Sache)
Wissenschaften الرِّيَاضِيَّةُ
Examen s. n. إِمْتِحَانٌ |
- bestehen | أَدَّى الإِمْتِحَانَ |
Examen s. m. مُمْتَحِنٌ |
s. m. | مُمْتَحِنٌ |
va. ju. عَنْهُ | إِمْتَحَنَ *
Excellenz s. f. (Titel) (لَقَبٌ) |
رِفْعَةٌ.
Excentricität s. f. غَرَابَةٌ | excentric
a. math. | خَارِجٌ عَنِ الْمَرْكَزِ |
كَوَائِرُ ذَاتِ مَرَاكِزٍ مُخْتَلِفَةٍ
غَرِيبٌ | مُخَالِفٌ الْعَادَةَ
Excerpt s. n. مُخْتَصَرٌ |
نَحَبٌ | excerptieren va. et
ه مِنْ كِتَابٍ |
Exceß s. m. شِدَّةٌ | زِيَادَةٌ |
أَفْرَطٌ | -e begehen | إِفْرَاطٌ
Exempel s. n. (Beispiel) |

- (Rechen-) | نمودج | قُدْوَة | أمثال
مسائل pl. مسألة حسابية
Exemplar s. n. نسخة pl. نسخ
--e | ذو قُدْوَة | أو عِبْرَة | -isch a.
Strafe | عِبْرَة pl. | in. -- be-
strafen | عِبْرَة لِغَيْرِهِ a. جعل.
exercieren vn. (Soldaten) تمرن
Exercitium | تدرب | (العساكر)
s. n. تمرين.
Exil s. n. منفى pl. منافي.
Existenz s. f. (Dasein) اكون | وجود
حال (soziale Stellung) - | حياة
pl. | existieren vn. | مقام | احوال pl.
كان | u | وجد.
effusiv a. انسان متعصب برأيه
| ما عدا | عدا | ما خلا | خلا | -e adv.
دون غيره | لا غيره
expedieren va. etw. ه | أرسل ه
Expedition s. f. | بعث ه
(Sendung) | ارسل | friegerische -
einer | غزوات pl. | غزاة | غزو
Zeitung | الجريدة مکتب.
Experiment s. n. تجربة pl. تجارب
-ieren v. جرب.
Exponent s. m. math. الدليل على
| ادلاء pl. | قوة العدد
va. | شمس | Bilder in der Sonne
- الصور | exponiert a. (gefährdet)
معرض للخطر.
Export s. m. الصادرات | -eur
s. m. ناقل الصادرات | -handel
s. m. تجارة الصادرات | -ieren va.
etw. | نقل u | الصادرات u
-prämie | البضائع من البلدان
s. f. | ما يكافئه على اخراج البضائع
-zoll s. m. | الصادرات
pl. رسوم.
express a. | مخصوص | -e s. m. رسول
| رسل pl. | -zug s. m.
قطار مخصوص | قطار مستعجل
Expropriation s. f. | قبض الاملاك
| ضبط الاملاك * | expropriieren va.
قبض | i | استصفي املاكه
jn. | املاكه * | املاكه
i, u
غير | مخصوص | خصوصي
extra | خارق العادة | مألوف
-blatt s. n. | رسائل pl. | رسالة خصوصية
Extrakt s. m. خلاصة.
extravagant a. | غريب | مجنون
| غرابة | Extravaganz s. f. | ملطوش *
لطشة * | جنون
Extrem s. n. | ضد | غاية
pl. | اضداد | اليدان والرجلان
-itäten s. pl.

ف

الحَرْفُ السَّادِسُ مِنْ حُرُوفِ الْحِجَاءِ ف
 الآتِيَّةِ (اِخْتِصَارًا) (= folgende) ff.
 etw. aus dem ff verstehen ه عرف
 بِالتَّدْقِيقِ.

fabel s. f. (عَلَى أَلْسِنَةِ الْحَيَوَانَاتِ) مَثَل
 pl. خُرَافَةٌ (Lüge) - أمثال pl.
 -dichter s. m. | كَذِبٌ | خُرَافَاتُ
 خُرَافَةٌ -ei s. f. | مُصَنِّفٌ أمثال
 -haft a. | كَذِبٌ | خُرَافَاتُ pl.
 عَظِيمٌ | غَرِيبٌ | مُخْتَصِرٌ بِالْخُرَافَاتِ
 -hans s. m. | بَخْرَافَاتِ | آتَى
 -n vn. | بَخْرَافَاتِ | آتَى.

fabrik s. f. مَعْمَلٌ pl. مَعَامِلٌ |
 pl. كَرِّخَانَةٌ * | فَوْرِيكَةٌ * | فَبْرِيكَةٌ *
 صَاحِبٌ -ant s. m. | كَرَّارِخِينِ
 pl. صَانِعٌ | أَصْحَابٌ pl. مَعْمَلٌ
 | شَيْءٌ مَصْنُوعٌ -at s. n. | صُنَاعٌ
 -ation s. f. | صِنَاعَةٌ | صَنَعٌ.

fabrizieren va. etw. ه صَنَعَ |
 ه عَمِلَ.

fabulieren vn. آتَى i بِخُرَافَاتِ.

façade s. f. | Fassade.

fach s. n. (für Bücher 2c.) دَفٌّ
 pl. رُفُوفٌ | رَفٌّ pl. | دُفُوفٌ pl.

pl. طَبَقَاتِ | - (einer Wissenschaft)
 pl. فُنُونِ فن.

fächeln vn. تَرَوَّحٌ بِالْمِرْوَحَةِ | fächer
 s. m. مِرْوَحَةٌ pl. مَرَاوِحُ.

fachmann s. m. رَجُلٌ خَبِيرٌ بِفَنِّهِ.

facel s. f. مَشَاعِلٌ pl. مَشَاعِلُ |
 | مَشْعَلَةٌ | die - des Kriegs ent-
 zünden | تَحْيِيرٌ -n vn. | أَسْعَرَ الْحَرْبُ
 تَطَوَّفٌ آخْتِفَالِيٌّ | تَرَدَّدٌ | zug s. m.
 بِالْمَشَاعِلِ.

façon s. f. | Fasson.

fade a. (Geschmack) تَفِهٌ | - (Mensch)
 عَادِمٌ الْمَلَاحَةُ | بَارِدٌ.

faden s. m. خَيْطٌ pl. خُيُوطٌ u.
 | شُرْطٌ pl. شَرِيْطٌ * | خِيْطَانٌ *
 - (Swirus-, Baumwollen- 2c.)
 | رَدَنٌ | - (mit Gold oder
 Silber besponnener -) | قَصَبٌ *
 - der Rede | سِيَّاقُ الْكَلَامِ
 ذِرَاعٌ (مِقْيَاسٌ) (Maß) - | الْكَلَامِ
 pl. | أَذْرُعٌ | es hängt nur an einem -
 -|scheinig a. | هُوَ سَرِيْعُ الزَّوَالِ
 | مَتَلَفٌ (قُمَاشٌ) (Tuch).

fadheit s. f. عَدَمٌ الْمَلَاحَةُ | تَفَهٌ.

fagott s. n. مِرْمَارٌ كَبِيرٌ | زَمَارَةٌ كَبِيرَةٌ
 pl. مِرْمَامِيرٌ.

falschmünzer s. m. مُزَوِّر السِّكِّك |
ضارِب النُّقُود | مُزَيِّف السِّكِّك
تَزْوِير -ei s. f. | زَاغِل * | الزَّائِفَة
السِّكِّك.

fälschung s. f. تَزْوِير | تَزْيِيف |
زَغَل * | تَلْفِيق | تَحْرِيف

falschett s. n. صَوْت حَادِّ وَعَالٍ

falte s. f. مَطْوَى | أَثْنَاء pl. ثَنَى
pl. غَضُون pl. غَضْن | طَى * | مَطَاو pl.
- | خُدَد pl. خُدَّة (der Haut) -
| اِنْقِمَاش (des Bodens) - | شَنَج
die -n des Herzens سَرَائِر القَلْب
| ثَنَى werfen -n | خَفَايَا القَلْب
تَغَضَّن

falten va., falten va. etw. ه | طَوَى i ه
die Hände | غَضَّن ه | ثَنَى i ه
falten christl. لَف u اليَدَيْن
| die Stirn falten i عَبَس | للصَّلَاة
-wurf | كَرَس ها | قَطَب الجَبْهَة
s. m. تَصْوِير اللِّبَاس | تَغَضَّن

falter s. m. zool. نَوْع مِنَ الفَرَاشِ

faltig a. فِيهِ | مُغَضَّن | مَثْنَى
faltung s. f. des Bodens | أَثْنَاء
اِنْقِمَاش

falz s. m. ثَنَى | فُرُض pl. فُرُضَة
pl. مَطْوَى s. n. -bein | (في الورق)

-en va. Papier 2c. | مَطْوَاة | مَطَاو
طَوَى i الورق مثلاً

familie s. f. pl. أَهَالٍ | أَهْل البَيْت
pl. عَائِلَة * | آل | بَيْت | أَهْل
جنس (Naturgeschichte) - | عِيَال
| أَجْناس pl. (في علم الطَّبِيعَة)
-nbegräbnis s. n. قَبْر للعَائِلَة
-nhaupt s. n. رَئِيس العَائِلَة

famos a. جَمِيل | مَشْهُور

famulus s. m. تَلْمِيز خَادِم الأُسْتَاذ

fanatiker s. m. اِنْسَان مُتَعَصِّب
fanatisch a. | fanatisieren
va. jn. حَرَّض ه عَلَى التَّعَصُّب
fanatismus s. m. تَعَصُّب

fang s. m. - | غَنِيْمَة | قَبْض
(Klaue des Vogels) pl. مِخْلَب الطَّائِر
- | مِخَالِب
(Zahn des Wildschweins) pl. أَنْبَاب
| مَسَك i, u thun - einen
قَبْض i عَلَى

fangen va. etw. ه | مَسَك i, u ه
| أَخَذ u ه | قَبْض i عَلَى | أَمَسَك ه
Fische - | السَّمَك i | Feuer -
| اِحْتَدَّ | اضْطَرَم | اِسْتَعَل
lassen | اِغْتَنَس

fant s. m. غُلَام

fassung s. f. **أَشْكَال** pl. **شُكُل** |
صِنْعَةٌ.

fassung s. f. (eines Edelsteins)
إِطْمِئْنَان (des Gemütes) - | **تَرْصِيع**
die - verlieren, aus der - kommen
إِضْطْرَب | -gabe s. f., -skraft
s. f., -svermögen s. n. **إِدْرَاك** |
فَهْم | **عَقْل**.

fast adv. **إِلَّا** | **كَأَد** **يَكُون** | **تَقْرِيْبًا**
كَأَنَّ | **قَلِيْلًا**.

fasten vn. u **صَام** | **فَاسْتَن** s. n. |
فَطَرَ - brechen u **صِيَام**
-monat s. m. (muslim.) **رَمَضَانَ** |
-zeit s. f. **وَقْتُ الصَّوْمِ**.

fastnacht s. f. christl. **ثَلَاثَاءَ الْمَرْفَعِ**
فَاسْتَن s. m. | **عِنْدَ الْغَرْبِيِّينَ**
يَوْمَ الصَّوْمِ.

fatal a. **شَوْمِي** f. **أَشَام** | **آتٍ بِسُوءٍ**
مَذْهَبِ s. m. **-ismus** | **نَحْس**
مَنْ هُوَ مِنْ s. m. **-ist** | **التَّقْدِيرِ**
حَادِثٍ s. f. **-ität** | **مَذْهَبِ التَّقْدِيرِ**
دَهْرٍ s. n. **فَاتُم** | **سُوءٍ**.

fauchen vn. (wie Katzen) **نَفَخَ كَالْقِطِّ**.

faul a. (verfault) **عَفِنَ** | **مُتَعَفِّنَ**
كَسَالِي pl. **كَسْلَان** (träge) - | **فَاسِد**
f. **تَنْبَلِ*** | **كَسَلِي** u. **كَسْلَانَةٌ** f.
-baum s. m. **حَوْرَ أَسْوَدٍ**.

fäule s. f. f. **فَؤُلْنِس**.

faulen vn. a **عَفِنَ** | **تَعَفَّنَ** | i, u **فَسَدَ** |
-zen vn. a **كَسِلَ** | **تَكَاسَلَ** | -zer
s. m. **كَسُولَان** | **كَسُول**
-zerei s. f. f. **فَؤُلْنِس**.

faulheit s. f. **كَسَل** | **تَكَاسَل** | **فَؤُلْنِس**,
فَؤُلْنِس a. **عَفِنَ** | **مُتَعَفِّنَ** | **فَؤُلْنِس**.

fäulnis s. f. **فَسَاد** | **عُفُونَةٌ**.

faulpelz s. m. **رَجُلٌ كَسُولٌ** | **فَؤُلْ**
tier s. m. zool. **حَيَوَانٌ بَطِيءٌ**
رَجُلٌ كَسُولٌ - bld. | **الْحَرَكَةُ**.

faun s. m. **رَجُلٌ شَهْوَانِيٌّ**.

fauna s. f. eines Landes **مَا يُوجَدُ**
فِي بِلَادٍ مِمَّنِ الْحَيَوَانَاتِ.

faust s. f. **كَفٌّ** | **جُمُعُ الْكَفِّ** | die
-ballen **كَفٌّ** a **جَمَعٌ** | **سِخِّ** in's

fäustchen lachen **ضِحْكٌ** a **خَفِيَّةٌ**
das paßt wie die - aufs kluge

مِنْ - auf eigene - **هَذَا لَا يُوَافِقُ**
-hand | **مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ** | **ذَاتِهِ**

faustschuh s. m. **كَفٌّ** pl. **لَا أَصَابِعَ لَهُ**
pl. **الْدِيَوَانِ** **لَا أَصَابِعَ لَهُ** | **كُفُوفٌ**

كفاح s. m. **-كَمْفِ** | **الْدِيَوَانَاتِ**
| **مُصَارَعَةٌ** | **مُبَارَزَةٌ** | **بِالْكُفُوفِ**

كämpfer s. m. **مُبَارِزٌ** |
| **حَقُّ الْقُوَّةِ** s. n. **-recht** | **مُكَافِحٌ**

-schlag s. m. | ضَرْبَةٌ بِجُمُعِ الْكَفِّ
لُكْمَةٌ.
fauteuil s. m. | كُرْسِيٌّ pl. كُرَاسِيٌّ
- قُوْتِيل * (Theaterplatz)
favoritin s. f. | مَحْبُوبَةٌ الْمَلِكِ
fagen s. pl. | تَهْرِيج * | دُعَابَةٌ | مَرْح
fayence s. f. | قَيْشَانِي * | خَزَفٌ مَطْلِيٌّ
februar s. m. | شُبَّاط * | فَبْرَايِر *
fechtboden s. m. | قَاعَةٌ لِلْمُبَارَاةِ
fechten vn. mit jmt. | سَايَفٌ | بَارَزَةٌ
fechten vn. mit einander -
(betteln) | تَقَاتَلُ | تَسَايَفُ
| شَحَذُ a * | طَلَبُ u الصَّدَقَةُ
fechtkunst s. f. | صِنَاعَةُ الْمُبَارَاةِ
fechtlehrer s. m., fechtmeister
s. m. | مُعَلِّمُ صِنَاعَةِ الْمُبَارَاةِ
fechtsaal s. m. f. fechtboden.
feder s. f. (der Vögel) | رِيَشٌ coll.
pl. | رِيَشَةٌ - | أَرِيَاشٌ pl.
- مِرْقَمٌ | أَقْلَامٌ pl. قَلَمٌ (Schreib-) -
pl. | يَرَاعُ | die - ergreifen
Leute von der - | آخِذٌ u يَكْتُبُ
| أَهْلُ الْإِنْشَاءِ | أَهْلُ الْكِتَابَةِ
- | زُنْبُرُك * (der Uhr zc.) -
pl. | لَوَالِبٌ | ball s. m. -ball
| بَاقَةٌ s. m. | بَاقَةٌ * | مَرِيَشَةٌ

-fuchser s. m. | زِبْنَةٌ رِيَشِ
(verächtl.) | يُسْتَعْمَلُ أَحْتِقَارًا
halter s. m. | كَتَبَةٌ pl. كَاتِبٌ
آلَةٌ يُدْخَلُ فِيهَا وَيُمْسَكُ بِهَا
بُرْتَيْبَةٌ s. m. | -but s. m. | الْقَلَمُ الْحَدِيدِيُّ
| خَفِيفٌ كَالرِيَشِ | leicht a. -
| تَنْقِيَةُ الرِيَشِ | ohne -
lesen s. n. | سِكِّينٌ s. n. | مِصْرَبٌ
| بِرَاءَةٌ | مِبرَاةٌ | الْقَلَمُ
pl. مَطْوَى * | مَوَاسِيٌّ pl. مَوْاسِيٌّ
| عُوْبَيْسِيَّة * | مَطَاوٍ
-vieh | خُطُوطٌ pl. خَطٌّ s. m. | -
strich s. m. | طُيُورٌ قِنٌّ s. n. | -
zeichnung s. f. | خَطٌّ pl. خَطٌّ s. m. | -
zug s. m. | رَسْمٌ بِالْقَلَمِ
خُطُوطٌ.
fee s. f. | تَوَابِعٌ pl. تَابِعَةٌ | جِنِّيَّةٌ
مُخْتَصَرٌ بِصَنِيعٍ a. -haft | غُولٌ
-nmärchen s. n. | عَجِيبٌ | التَّوَابِعِ
-rei s. f. | خُرَافَاتٌ pl. خُرَافَةٌ
صَنِيعِ التَّوَابِعِ.
fegfeuer, fegfeuer s. n. kath.
النَّارُ الْمُطَهِّرِيَّةُ | مَطَهَّرٌ
fegen va. etw. | كَنَسَ | كَنَسَ u i, h
قَنَسَ u *
fehde s. f. | مُشَاجَرَةٌ | خِصَامٌ
| مُنَازَعَةٌ | -brief s. m. | مَنَازَعَةٌ
-handschuh s. m., jmt. den - -
hinwerfen | دَعَا u هَا لِلْقِتَالِ

Feigwarze s. f. وَدَمٌ .

feil a. (Sache) | مَبَاعٌ | مَعْرُوضٌ لِلْبَيْعِ

قَابِلٌ | قَابِلٌ الرَّشْوَةِ (Person) -

-bieten | مَبْرُطَلٌ | مَرْتَشِيٌّ | البَرْطِيلُ

va. etw. عَرَضَ i ه لِلْبَيْعِ .

feile s. f. مِسْكَلٌ | مَبَارِدٌ pl. مِبْرَدٌ

pl. مَسَاحِلٌ .

feilen va. etw. سَحَلَ a ه | بَرَدَ u ه

bld. | فَيْلِيحٌ | أَنْفَعَ ه | أَصْلَحَ ه -

s. n., Feilspäne s. pl. حُكَالَةٌ | بُرَادَةٌ

خُرَاشَةٌ .

feilschen vn. تَعَالَجَ | تَعَالَجَ فِي الثَّمَنِ

mit jm. - über den Preis عَالَجَ ه فِي

الثَّمَنِ | Feilschen s. n. تَعَالَجٌ .

fein a. (dünn) | رَفِيعٌ * | دَقِيقٌ | رَقِيقٌ

(sehr) - | لَطِيفٌ | نَاعِمٌ (zart) -

gut) | جَيِّدٌ (empfindlich,

von den Sinnen) | سَرِيعٌ الحَسِّ

| حَازِقٌ | ذَكِيٌّ (scharffinnig) -

مَكَّارٌ (schlau) - | ظَرِيفٌ .

Feind s. m. | أَعْدَاءٌ pl. عَدُوٌّ

ضِدٌّ | خُصُومٌ pl. خَصْمٌ (Gegner)

| الشَّيْطَانُ - der böse | أَعْدَادٌ pl.

| عَدُوٌّ أَلَدٌ | Todfeind | الإِبْلِيسُ

Feind, jm. - | عَدِيٌّ a لَهُ | fein

-schaft | عَدُوِّيٌّ a. -lich | عَادَى ه

s. f. | بُغْضٌ | -felig a. f. عَدَاوَةٌ

-lich | -feligkeit s. f. تَعَدُّ |

إِعْتِدَاءٌ .

Feinheit s. f. | دِقَّةٌ | رِقَّةٌ * | رَفَاعَةٌ .

حَذَاقَةٌ | ذَكَاءٌ | ظَرِاقَةٌ | لَطَاقَةٌ .

feist a. | سَمِينٌ | -igkeit s. f. سَمَانَةٌ .

Feld s. n. | حَقْلٌ pl. حُقُولٌ | مَرْزَعَةٌ

| قِضَاءٌ | بَرِّيَّةٌ - freies | مَزَارِعٌ pl.

bl. - | مَيْدَانٌ - | خَلَاءٌ * (im Schach-

spiel) | يَبِيَّتٌ (في لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ)

pl. | يَبُوتٌ (Schlachtfeld) - | يَبُوتٌ pl.

das - bestellen | مَوْقِعَ الحَرْبِ | الوَعْيُ

Das steht in weitem | زَرَعَ a الأَرْضِ

ins - ziehen, | هَذَا بَعِيدٌ -e

das - | خَرَجَ u لِلحَرْبِ | rücken

behaupten | الحَرْبِ فِي | انْتَصَرَ فِي

altar s. m. | الحَرْبِ فِي | هَيْكَلٌ

arbeit s. f., -bau s. m. | فَلَاحَةٌ -

فِرَاشٌ سَهْلٌ | -bett s. n. | زِرَاعَةٌ

خِدْمَةٌ | -dienst s. m. | التَّنَقُّلُ

geschrei s. n. | عَسْكَرِيَّةٌ فِي الحَرْبِ

قَائِدٌ | -hauptmann s. m. | شَعَارٌ

herr s. m. | -herr s. m. | قُوَادٌ pl. فِي الحَرْبِ

مُنشِيرٌ | قُوَادٌ pl. قَائِدُ الجَيْشِ

herrn- | جِنْرَالِيَّةٌ pl. | جِنْرَالٌ *

علم الحركات العسكريَّة s. f. | فُنُوقٌ

huhn s. n. | حَجَلٌ pl. | حِجْلَانٌ

pl. | نَاطُورُ الزَّرْعِ | -hüter s. m.

| مُعَسَّكَر s. n. -Iager | نَوَاطِير u. نُطَّار
 | مُسْتَشْفَى حَرْبِيّ s. n. -Iazarett
 | حُدُود الْأَرْض s. f. -marschall
 | أَكْبَر قُوَاد الْجَيْش s. m. | مَارِشَال *
 | مَسَّاح s. m. -messer | مُشِير
 | مُهَنْدِس | مَسَّاحَة
 | عِلْم الْمُهَنْدِسَة | عِلْم الْمِسَّاحَة s. f.
 | بَرِيد فِي الْحَرْب s. f. -post
 | بَرِيد فِي الْحَرْب s. m., -prediger
 | وَعْظَاء pl. | وَاعِظ الْجَيْش s. m.
 | جَرَّاح الْعَسَاكِر s. m. -fcher
 | مَعَارِك pl. | مَعْرَكَة s. f. -schlacht
 | نَوْع مِّن | نَوْع مِّن s. f. -schlange | قِتَال
 | كُرْسِيّ يَثْنَى s. m. -stuhl | الْمَدَافِع
 | الْوَعْب s. m. | كُرَاسِيّ pl.
 | مِّن الضُّبَّاط التَّحْتَانِيَّيْن
 | رَايَات pl. | رَايَة | أَعْلَام pl. | عِلْم s. n.
 | قَائِد الطُّوبُجِيَّة * s. m. -zeugmeister
 | غَزَاة | غَزُو s. m. -zug | قُوَاد pl.
 | مَغَازِي pl. | مَغَزَى | غَزَوَات pl.
 | جُلُود pl. | جُلْد (الْحَيَوَان) s. n. fell
 | لا يَتَأَثَّر - er hat ein dickes
 | دَاس - über die Ohren ziehen
 | غَشَى u. | سَلَى a, u. | -eisen
 | شَنْتَة * s. n.
 | صُخُور pl. | صَخْر s. m., -en s. m. fels
 | صَخْرَة - ein | جَلَامِيد pl. | جُلُود

| ثَابِت كَالصَّخْر a. -enfest
 | صُئْب كَالصَّخْر a. -enherz s. n.
 | صَخْر | صَخْر a. -ig | قَلْب قَاسِي
 | فَمَة s. f., فَمِجْرِيح s. n. | مَحْكَمَة
 | سَرِيَّة قَدِيمَة فِي بَعْض جِهَات
 | الْمَانِيَا.
 | رَازِبَانِج | بَسْبَاسَة s. m. bot. fenchel
 | شُمْرَة | شَمَار
 | شَبَابِيك pl. | شُبَّك * s. n. fenster
 | مَنَافِذ pl. | مَنُفَذ | نَوَافِذ pl. | نَافِذَة
 | كُوَات pl. | كُوَة | طَاقَات pl. | طَاقَة
 | رَوَازِين pl. | رَوَازِينَة * - fl.
 | دَاس دَالْت - هِنَاؤِ مَال
 | أَسْرَف الْمَال s. f., -brett
 | بَرِيصَة s. f. | بَرِيص s. n.,
 | سَنْد الشُّبَّك | الشُّبَّك | لَادِن
 | دَرَفَات pl. | دَرَفَة s. m. | مَصْرَاع
 | مَصَارِيح pl. | الطَّاقَة s. m. rahmen
 | بَرَاوِيِز pl. | بَرَاوِاز الشُّبَّك
 | قَرَازَة * | زُجَاجَة s. f. scheibe
 | فَاِهْرْمَان s. m. f. fährmann. ferge
 | مُسَامَحَة | تَعَطَّل s. pl. | زَمَان
 | زَمَان الْفَرَاغ | الْبَطَالَة
 | خِنَازِير pl. | خِنَازِير صَغِير s. n. ferfel
 | خِنَازِير pl. | خِنَازِير (Säu) -n vn.
 | نَتَجَت الْخِنَازِيرَة | خَشْرَب - bld.
 | فِي عَمَلٍ

fern a. | بَعِيد | قاصٍ | - | sein u | بَعُد |
-e s. f. | بَعْدَةٌ | بَعُد.

ferner a. | تَالٍ | تَالٍ | تَابِعٍ | آتٍ | adv. -
(später) | - | زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ | عَدَا ذَلِكَ
-hin, -weit adv. | فِيمَا بَعُد |
فِيمَا بَعُد.

fern-glas s. n. | نَظَّارَةٌ | -rohr s. n.
مَنْظَرٍ | نَظَّارَةٌ مَرصِدٍ | -sicht s. f.
قاصِي | -sichtig a. | إِلَى الْبَعْدِ
| مَنْ لَا يَرَى إِلَّا مِنْ بَعِيدٍ | الْبَصْرِ
آلة يُنْقَلُ بِهَا | -sprecher s. m.
تَلْفُون * | الصَّوْتِ وَالْكَلامِ

ferse s. f. | عَقَبٍ | pl. | أَعْقَابٍ |
* | الرِّجْلِ | jm. auf der - nach-
folgen & | عاقِب & | تَتَبَع & | -ngeld
s. n., - - geben | أَدْبَرَ | u | هَرَبَ.

fertig a. | تامٍ | كامِلٍ | * | خَالِصٍ | - (ge-
schickt) | حاضرٍ | zu - | مَاهِرٍ |
- | etw. | تامٍ | i | sein | - | مُسْتَعِدِّ | لِي
| خَلَصَ | ه * | كَمَلَ | ه | أتمَّ | ه | machen
| خلاص * | -! | اسْتَعَدَّ | sich - machen
| صنع | a | ه | أتمَّ | ه | -en va. etw.
| - | ه | ا | عَمِلَ | ه | (Geschick-
lichkeit) | شَطَارَةٌ * | حَذَاقَةٌ | مَهَارَةٌ |
pl. | عَادَةٌ | تَمَرَّنَ | (Gewohnheit) | - -
- | stellen va. etw. | عَوَّضَ | u. | عَادَاتٍ
| كَمَلَ | ه | أتمَّ | ه

ffel s. f. | قَيْدٍ | pl. | قِيُودٍ | | سِلْسِلَةٍ
| زَنَاجِيرٍ | pl. | زَنْجِيرٍ * | | سَلَسِلٍ | pl.
jm. -n anlegen, jn. in -n schlagen
| قَيْدٍ | - | (des Pferdes) | رُسُغٍ | pl.
| مَكَلَّ الشِّكَالِ فِي الْفَرَسِ | | أَرْسَاغٍ |
- | غَيْرَ مُقَيَّدٍ | | مَحْلُولٍ | -los a.
va. jn. & | قَيْدٍ.

fest a. (Gegenteil: weich) | صَلْبٍ |
- | ما كِن | ثابتٍ |
| مُحَصَّنٍ | (befestigt) - | جامِدٍ | (flüssig)
| مَتْنٍ | u | مَكْنٍ | u | ثَبَّتَ | u | sein
| نَوْمٍ غَرِقٍ | -er Schlaf | -er Sand |
بِمَكَانَةٍ | بثبات | -en fuges | سُبْحٍ

fest s. n. | عِيدٍ | pl. | أَعْيَادٍ |
| وِلَائِمٍ | pl. | وِلِيمَةٍ | (Gastmal)
- | فَرَحٍ | | سُرُورٍ | (Freude) -

festen va. etw. | ه | أَثْبَتَ |
fest-halten va. jn. & i, u | مَسَكَ |
| حَفِظَ | a | ه | - - | قَبِضَ | i | عَلَيْهِ
| أَيَّدَ | ه | -igen va. etw. | وَفَى | i | بِ
| مَكَّنَ | ه | | مَتَّنَ | ه | | أَثْبَتَ | ه
-igkeit s. f. | ثَبَاتٍ | | مَتَانَةٌ |
| رَزَانَةٌ | (des Charakters) | - - | bld.
-lich a. | - | بَرٍّ | s. n. | لاند | - | حَزَامَةٌ
| -lichkeit s. f. | اِحْتِفَالٍ | | اِحْتِفَالِي
-setzen va. etw. | ه | أَثْبَتَ | ه

- - (bestimmen) etw. ه | عَيَّنَ
 ه | حَدَّدَ | sich - - (an einem Ort)
 ه | اِسْتَوَطَنَ | ه | اَقَامَ فِي | قَرَّرَ فِي
 -setzung s. f. | تَعَيَّنَ | -stellen va.
 etw. ه | حَقَّقَ | ه | قَرَّرَ | ه | اَثْبَتَ | ه
 -tag s. m. | اَعْيَادَ | pl. عِيدَ | s. f. قَلْعَةَ |
 -ungswerf | قِلَاعَ | pl. قَلْعَةَ | s. f.
 s. n. | حُصُونِ | pl. حِصْنِ | s. n.
 fetisch s. m. | مَعْبُودِ السُّودَانِ |
 fett a. (Menschen, Tiere) | سَمِيْنِ |
 | شَحِيْمِ | | مُدْهَنْ (Fleisch) | - | مُسْمِنِ |
 - sein a | سَمِنَ | | etw. -
 machen | سَمَّنَ | ه | (Boden)
 | كَثِيْرَ الْمَكْسَبِ | - | bld. | خِصْبِ |
 fett s. n. | دَسْمِ | | سَحْمِ | | دُهْنِ |
 | das - abschöpfen | bld. | سَمْنِ |
 -ig | دَهْنِ | ه | etw. -en va. | تَرَبَّدَ |
 a. | شَحْمِيْ | | شَحْمِيْ | | دُهْنِيْ | a.
 setzen s. m. | شَقَفَ | pl. شَقَفَةَ |
 | شَرْطُوْطَةَ | pl. | خِرْقَةَ | pl. |
 | شَرَاطِيْطِ | | (Papier) - | رُقْعَةَ | pl.
 feucht a. | رَطْبِ | | نَدِيْ | | (Mauer)
 -en va. | رَطَّبَ | a | رَاشِحِ | |
 etw. ه | رَطَّبَ | | ه | بَلَّ | u |
 s. f. | رَشْحِ | | رَطُوْبَةَ | s. f. |
 feudal a. | اِخْتِطَاعِيْ | | اِخْتِطَاعِيْ |

أَحْوَالِ اِلْاِدَارَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلٰى ن. s.
 التَّوَلَّى عَلٰى اِلْقِطَاعَاتِ.
 Feuer s. n. | نَارِ | pl. | نِيْرَانِ |
 - (zur | حَرِيْقِ | (-sbrunst)
 Zigarre) | قَبَسِ | | jim. - geben
 | اِقْتَبَسَ | - nehmen | اَقْبَسَ |
 | اِطْلَاقِ الرِّصَاصِ | (Schießen)
 - geben | feuern | - (Leuchtturm)
 | الصَّاعِقَةَ | | - des Himmels | مَنَارَةَ |
 | اِحْتَدَّ | | bld. | اِسْتَعَلَ | |
 - fangen | اَوَّلَعَ | | النارِ |
 - anmachen, anzünden | اِنْتَفَأَ | |
 ausgehen (vom Feuer) | جَعَلَ | a |
 | اِنْتَفَأَ | | | |
 | اَحْرَقَ | | وَذَبَحَ | | (Land)
 wüsten | مَجْبُوسِ | | -brand s. m.
 | مِقْبَاسِ | pl. | مَقْبَاسِ | |
 | اِنْدَاءِ عِنْدَ الْحَرِيْقِ | !-jo |
 | اَطْلَقَ | | -n vn. | زَنْبِقِ اَحْمَرِ | bot.
 | اَسْعَرَ | | اَوَقَدَ | | الرِّصَاصِ |
 | تَجْرِبَةَ | | بالنار | s. f.
 | اَضْرَرَ | | بالحريق | s. m. |
 | اِسْفِيْعَ | | - | مَرْكَبِ مَنَارَةَ | s. n. |
 | اِبْرُكَانَ | | -er Berg | |
 | اِثْرُمْبَةَ * | | طُلْمَبَةَ * | s. f. |
 | -stättē | s. f., -stelle s. f. (Brand:

- stätte, -stelle) مَحَلَّ الحَرِيقِ | fibel s. f. كِتَاب مَبَادِي القِرَاءَةِ.
- (Herdstelle) مَوَاقِدِ pl. مَوَاقِدِ | fiber s. f. أَلْيَافِ pl. لَيْفِ.
- dar pl. دُورِ | -stein s. m. صَوَّانَةٌ | fichte s. f., -nbaum s. m. صَنُوبَرٌ
- pl. صَوَّانِ | -taufe s. f. عَمُودِيَّةٌ | coll. eine fichte صَنُوبَرَةٌ | -napfel
- (von Soldaten) f. Blut- s. m., -nzapfen s. m. أَجُوز الصَّنُوبَرِ |
- taufe | -tod s. m. مَوْتٌ بِالْإِحْرَاقِ | *كُرُوزِ pl. كُرُوزِ.
- ung s. f. مَوَالِدٌ لِتَوَقِيدِ | تَوَقِيدِ | fidel a. مَسْرُورٌ | فَرِحَ.
- versicherung s. f. ضَمَانَةٌ | النارِ | fidibus s. m. وَرَقَةٌ لِتَوَقِيدِ المَاسُورَةِ.
- ver- | -wehr s. f. الطُّلُمُجِيَّةُ * | fieber s. n. حُمَّى pl. حُمِّيَّاتِ |
- wehrmann * صُلْمُجِيٌّ | - | حُمَّى دَوْرِيَّةٌ (-Wechsel-) | سَخُونَةٌ
- s. n. | - | das - | بَرْدَاءٌ - | فَالْتَسُ | دَوْرٌ * |
- werker s. m. صَانِعُ النِّيرانِ | - | haben, bekommen حُمٌّ | bld. -
- (bei der Artillerie) - | - | -anfall | إِضْطِرَابٌ (Aufregung)
- شِبَابٌ s. f. زَاجَةٌ | - | s. m. | -frost s. m. f. | -schauer |
- pl. شِبَابِيَّتِ | -zeug s. n. زَنْدٌ | -haft a., -isch a. حُمُورِيٌّ | -Frank
- . كِبْرِيَّتِ * | زِنَادِ pl. | -rinde | حُمٌّ | -n vn. | مَحْمُومٌ a.
- Feuilleton s. n. قِسْمُ الجُرَيْدَةِ الأَدَبِيَّةِ | - | schauer s. m. | الكِينَا s. f. | رِعْدَةٌ.
- feurig a. | نَارِيٌّ | - (Mensch) | حَامٍ | fiedel s. f. كَمَنْجَةٌ | - (einsaitige)
- e Kohle | نَشِيطٌ (Pferd) - | | نَشِيطٌ | قَوْسٌ s. m. | رَبَابَةٌ | رَبَابٌ
- pl. جَمْرَةٌ | جَمْرٌ pl. | - | ضَرَبَ | بِالْكَمَنْجَةِ | -n vn. | الكَمَنْجَةِ |
- fej s. m. (rote Mütze) * طَرَبُوشٌ | - | fiedler s. m. | الضَّارِبُ بِالْكَمَنْجَةِ.
- pl. طَرَابِيِشِ | - | figur s. f. | سُورَةٌ | أَشْكَالِ pl. | شَكْلٌ
- fej n. pr. | بِلَادِ فَاسٍ | - | (im Schach) | هَيْئَةٌ | صُورٌ pl. |
- fi! أَفِ! | - | | حَضَرَ vn. u. | - | أَحْجَارِ pl. | حَجَرٌ
- fiafer s. m. | عَجَلَةٌ | الأَجْرَةُ | - | a. | ظَهَرَ.
- *عَرَبَةُ الأَجْرَةِ | - | figürlich a. (bildlich) | مَجَازِيٌّ |
- fiasco s. n. | خَيْبَةٌ | - | machen i. | خَابَ | إِسْتِعَارِيٌّ.

Filigran s. n. مَصَاغٌ مُخَرَّمٌ عَلَى شَكْلِ شَبَكَةٍ.

filter s. f. مِصْفَاةٌ | filtrieren va. أَجْرَى هـ بِمِصْفَاةٍ | أَصْفَى هـ etw.

Filtrierpapier s. n. وَرَقٌ تَصْفِيَّةٌ.

Silz s. m. اَلْبَادُ u. لُبُودٌ pl. لِبْدٌ

رَجُلٌ (Geizhals) - | لِبْدٌ pl. لُبْدَةٌ

-hut | مِّن لِبْدٍ a. -en | بَخِيلٌ

s. m. | بُرَيْطَةٌ مِّن لِبْدٍ a. -ig

pl. قِلَشِيْنَ * | -schub s. m. | بَخِيلٌ

تُرْلِكٌ * | قِلَاشِيْنَ

finanz s. f. pl. -en | مَالِيَّةٌ | دَخَلُ

die hohe | خَزَنَةُ الْمَمْلَكَةِ | الْمَمْلَكَةِ

-mann | تِجَارَةُ الْبُورْصَةِ | finanz

s. m. | تِجَارٌ pl. تاجِرٌ فِي الْبُورْصَةِ

pl. نَاطِرٌ الْمَالِيَّةِ | -minister

s. n. | -ministerium | نِظَارَةٌ

الْمَالِيَّةِ.

findelhaus s. n. | دارُ الْقَطَاءِ | findel-

find s. n. | لَقِيْبٌ pl. لُقَطَاءٌ

pl. مَلَاقِيْبٌ.

finden va. etw. هـ | وَجَدَ i | -jn.

h a | لَقِيَ | etw. so u. so - (halten

für) | حَسِبَ a هـ | كَذَا | ظَنَّ u هـ

| رَأَى a هـ | كَذَا | كَذَا | etw. für

gut - | اسْتَحْسَنَ هـ | etw. für

schlecht - | اسْتَقْبَحَ هـ | seinen

القِي a مَن هُوَ أَقْوَى مِنْهُ - Herrn

| اِنْتَفَعَ مِنْ | seine Rechnung - bei

| اِنْتَفَعَ أَنْ | u | وَجَدَ - sich

| اِرْتَضَى ب | findet sich - in etw.

s. m. einer Sache هـ | مَن وَجَدَ هـ

finderlohn s. m. | مِكَافَاةٌ لِمَن

| نَشِيْبٌ | حَانِقٌ a. | وَجَدَ هـ

findigkeit s. f. | حَذَاقَةٌ | نَشَاطٌ

findling s. m. | لَقِيْبٌ pl. لُقَطَاءٌ

- | حَجَرٌ مَنْقُولٌ (Stein).

finger s. m. | اَصْبَاعٌ pl. اَصْبَاعٌ

| اَصْبَعٌ - Ring | اَصْبَعٌ - kleiner

| اَصْبَعٌ الْوَسْطَى - Mittel

| تَدْيِيْرُ اللّهِ - Gottes - der | سَبَابَةٌ

lange - machen i | سَرَقَ | jm.

durch die - sehen s | سَمِعَ | jm.

auf die - sehen s | رَاقَبَ | sich die

- verbrennen | اِنْتَدَعَ | er ist um

den - zu wickeln | اَلْحَلْقُ | هُوَ سَهْلٌ

-fertig a. | شَاطِرٌ بِالْاَصْبَاعِ

feit s. f. | شَطَارَةٌ بِالْاَصْبَاعِ

s. m. | كُشْتَبَانٌ * | قِمْعٌ الْحَيَّاطِ

| كُشْتَبَانٌ * | كُشَاتِيْبِيْنَ

- - bot. | زَهْرُ الْكُشَاتِيْبِيْنَ

s. m. | اَطْفَارٌ pl. ظُفْرُ الْاَصْبَعِ

-reif s. m., -ring s. m. | حَلْقَةٌ

pl. | خَوَاتِمٌ pl. خَاتَمٌ | حَلَقٌ

pl. | -faß

- s. m. طَرِيقَةٌ تَتَابَعُ الْأَصَابِعَ عِنْدُ |
 طَرِيقَةٌ تَتَابَعُ الْأَصَابِعَ عِنْدُ |
 -spize s. f. | دَقُّ آلاتِ الطَّرَبِ
 | بَنَانٍ pl. بَنَانَةٌ | أَنْمَلٍ pl. أَنْمَلَةٌ
 -zeig s. m. إِشَارَةٌ.
- fingieren va. etw. تَظَاهَرَبِ |
 firt s. m., -e s. m. بَرَقِشٍ pl. |
 | دَجٌّ | شَرَاشِيرٍ pl. شُرُشُورٍ | بَرَاقِشٍ
 -enschlag s. m. غِنَاءُ الْبَرَاقِشِ |
- firne s. f. (im Gesicht :c.) بَثْرٍ pl. |
 | بَثْرٍ | جَنَاحُ السَّمَكِ (der fische) - |
 | أَجْنَحَةٌ pl. الْكَبِيرِ (im fleisch) - |
 | حَيَوَانٌ مُضَرٌّ يُوجَدُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ
 -es Schwein | دُو بَثُورٍ | بائِرٍ |
 | خِنْزِيرٍ مَرِيضٍ |
- finster a. غَمِيْقٌ | مُعْتِمٌ | مُظْلِمٌ |
 | عَبُوسٌ | عَابِسٌ (Gesicht) - | حَالِكٌ
 - | مُحْزِنٌ | حَزِينٌ (traurig) -
 s. n. f. -nis | -ling s. m. عَمِيٌّ |
 | كَارَةٌ الْبَصِيرَةِ وَالْعِلْمِ | الْقَلْبِ
 -nis s. f. عَتَمَةٌ | ظَلَامٌ | ظُلْمَةٌ |
- finte s. f. تَنَكَّرٌ | تَظَاهَرٌ | أَلْعُوبَةُ |
 firtelfanz s. m., firtelfanzerei s. f. |
 | هَذِيَانٌ | قَوْلٌ وَعَمَلٌ لَا طَائِلَ فِيهِ |
- firtm a. ثَابِتٌ | قَوِيٌّ |
 firma s. f. comm. مَحَلٌّ تِجَارِيٌّ pl. |
 | مَحَلَّاتٌ u. مَحَالٌّ |
- firtmament s. n. فَكٌّ |
- firtman s. m. فَرَامِينِ pl. فَرَامَانٌ * |
 | تَوَاقِيْعٍ pl. تَوَاقِيْعٌ |
- firtmeln va., firtmen va. f. Kon-
 firmieren | firtmling s. m. f. Kon-
 firmant | firtmung s. f. f. Kon-
 firmation.
- firt s. m., -er s. m. كَوْمَةٌ جَلِيدٌ
 | فِي جِبَالِ الْأَلْبِ |
- firtis s. m. | دُهْنٌ صِينِيٌّ -fen va.
 | طَلَى i ه | بَدُهْنٌ صِينِيٌّ | etw.
- firtst s. m. | أَعْلَى الْبَيْتِ أَوْ الْجَبَلِ |
- firtch s. m. | سَمَكٍ pl. | ein
 | سَمَكَةٌ | großer - | حُوتٍ pl.
 | صاد i السَّمَكِ -e fangen | حِيْتَانٌ
 | die -e (Sternbild) | اصْطَادٌ ه
 -bein | بُرْجُ الْحُوتِ | السَّمَكَتَانِ
 s. n. | لِحِيَّةُ الْحُوتِ | brut s. f.
 | سُمَيْكَاتٌ لِلْمَحَاقِنِ وَالْعُدْرَانِ
 -en va. etw. | صاد i سَمَكًا -
 | أَخْرَجَ اللُّوْلُوْ مِنْ الْبَحْرِ | Perlen -
 | اسْتَنْفَعَ مِنْ آخْتِلَالِ - im Trüben
 | صِيَادِ سَمَكٍ -er s. m. | أُمُورِ الْغَيْرِ
 | صَائِدُونَ pl. | صَائِدٌ pl.
 -erboot s. n., | غَوَّاصٌ (-Perlen) -
 -erfahrzeug s. n., -erfahn s. m.
 | سَفِيْنَةٌ لِصَيْدِ السَّمَكِ |
 -erei s. f., -fang s. m. | صَيْدٌ

مَحْبُوبَةٌ | Feuer u. - für etw. sein
 تَوَلَّعَ غَيْرَةً | اشتعل حميَّةً | Feuer
 u. - speien u وَبَرَقَ a, u رَعَدَ |
 flammen vn. اِشْتَعَلَ | اِلتَهَبَ .
 Flanell s. n. نَسِيَجٌ خَفِيفٌ | فَلَانِيْلًا *
 مِنْ فَلَانِيْلًا * .-en a. | مِنْ صُوفٍ
 flanke s. f. جَوَانِبٌ pl. | جَانِبٌ pl.
 flankieren va. اِكْتَفَى pl. | اَكْتَفَى pl.
 etw. هَبَ جَنَمٌ ه ب .
 flasche s. f. قَنَائِيٌّ pl. | قَنَائِيَّةٌ pl.
 قَمَائِمٌ pl. | قَمَائِمَةٌ * (flakon) -
 -nbier s. n. | حَنَاجِيْرٌ pl. حَنْجُوْرٌ *
 -nfürbis s. m. | بِيْرَةٌ فِي قَنَائِيٍّ
 مَجْمُوعٌ s. m. | نِزْجٌ - | قَرَعٌ pl. قَرَعَةٌ
 مُخَمَّسٌ | بَكَرَاتٌ لِرْفَعِ الْأَثْقَالِ
 flatterhaft s. m. خَفِيفٌ | طَائِثٌ
 flattern vn. | طَيْشٌ s. f. | الطَّبْعُ
 | ماج u - | bld. | رَفْرَفٌ (Vogel)
 | خَفَقَ i, u (im Winde) - | تَمَوَّجٌ
 flattersinn s. m. طَيْشٌ .
 flau a. (Speise) - | بَارِدٌ | ضَعِيفٌ
 | ضُعْفٌ s. f. | عَادِمٌ المِلْحُ
 عَدَمٌ المِلْحُ .
 flaum s. m., -federn s. pl. زَبَبٌ |
 -weich a., -enweich a. | زَغَبٌ
 كَيْسٌ كَالزَّبَبِ .
 flaus s. m., flausch s. m., flausch.

roß s. m. ثَوْبٌ مِنْ قُمَاشٍ
 خَشِنٌ .
 flause s. f. حُجَّةٌ pl. | حُجَجٌ pl.
 امْهَارِبٌ pl. | امْهَارِبَةٌ * | اِعْلَلٌ pl. عِلَّةٌ
 هَذِيَانٌ .
 fläz s. m. اِرْجُلٌ ثَقِيْلٌ | رَجُلٌ غَلِيْظٌ
 فَلَاحٌ .
 flechse s. f. اَطْنَابٌ pl. | طُنْبٌ pl.
 اَوْتَارٌ pl. .
 flechte s. f. جَدِيْلٌ (Haar-) pl.
 | جَدَائِلٌ pl. جَدِيْلَةٌ * | جُدُلٌ
 pl. | قُوْبَاءٌ | حَزَازٌ (Geschwür) -
 | شَيْبَةُ العَجُوْزِ | اُسْنَةٌ bot. - | قُوْبٌ
 | جَدَلٌ u ه | etw. | flechten va.
 | ضَفَرَ i ه | حَبَكَ i, u ه
 | شَبَكَ i ه | einander - | etw.
 | اِشْتَبَاكَ | اِحْتَبَاكَ s. n. | اِشْتَبَاكَ
 اِلْتِغَاْفٌ .
 fleck s. m. قِطْعَةٌ (Erde) - | بَقْعٌ
 | مَحَلٌّ (Ort) - | مِنْ اَلْاَرْضِ
 -e kommen | تَقَدَّمَ flecken s. m.
 | اَنْجَاسَةٌ | اَدْنَسٌ pl. دَنْسٌ | بَقْعٌ
 pl. | عَيْبٌ - | اَوْسَاحٌ pl. وَسَخٌ
 | عَيْبٌ s. m. (Ortschaft) | flecken s. m.
 | قُرَى pl. قَرْيَةٌ - | اِل. | بَلَدَةٌ | بَلَدٌ
 | كُفُوْرٌ pl. | flecken va. etw. | كُفِرَ
 | نَقَطَ | نَقَشَ | رَقَشَ | مُرَقَشٌ
 | نَقَطَ | نَقَشَ | رَقَشَ

vn. - | دَنَسَ | fleckfieber s. n. | وَسَخَ -
 fleckig a. | مَرَقَش | حُمَى حَصْبِيَّة
 مُنَقَط | مُنَقَش.

fledermaus s. f. | وَطَاط pl. | وَطَاوِيْب
 خَفَافِيْش pl. | خَفَاش.

flederwisch s. m. | مِكْنَسَة رِيْش.

flegel s. m. (Dresch-) | مِدَق pl.
 رَجُل غَلِيْظ (Grobian) - | مَدَاق
 -ei s. f. | غَلَاظَة - | غَلِيْظ a. -haft
 -jahre s. pl. | زَمَن الغَلَامِيَّة -n
 v. | سَلَك u. بَغَلَاظَة sich.

flehen vn. um | تَضَرَّع فِي | -tlich a.
 مِلِح | مِلِح لاح.

fleisch s. n. | لَحْم pl. | لِحَام u. لُحُوم
 ein Stück - | لَحْمَة - | der Früchte
 (Leib) - | مَا يُوَكَّل مِن الِاتِّمَار
 die Auferstehung des -es | جَسَد
 -beschauer s. m. | قِيَامَة الجَسَد
 -brühe s. f. | مُمْتَجِن اللُّحُوم
 | فَصَّاب | جَزَّار s. m. -er | مَرَقَة لَحْم
 -erhund s. m. | دِرْوَاس | لِحَام
 | شَهَوَات pl. | شَهْوَة | اِسْتِهَاء s. f.
 -fresser s. m. zool. | جَارِحَة pl.
 -ig a. | ضَوَار pl. | ضَارِيَّة | جَوَارِح
 -lich a. | كَثِيْر اللُّحْم | لِحِيْم
 -werdung | شَهْوَانِي | جَسَدَانِي
 s. f. | تَأَسَس | تَجَسَّد s. f.

Fleiß s. m. | اِجْتِهَاد | عِنَايَة | مَلَازِمَة
 mit - (vorzüglich) | قَصْدًا | عَمْدًا
 -ig a. | مُجْتِهِد | طَالِب العِلْم
 -ig fein | اِجْتِهَد | جَدَّ i.

flektieren va. gr. Nomen, Verbum
 صَرَف الِاسْم أَوْ الفِعْل.

flennen vn. i | بَكَى.

fletschen va. die Zähne u | صَرَّ
 | صَرَف i | بِأَسْنَانِه | بِأَسْنَانِه
 كَرَّ i | عَلَى أَسْنَانِه *.

flexion s. f. gr. | تَصْرِيْف الِاسْم أَوْ
 الفِعْل.

flicken va. Kleider | رَقَعَ a | الثِّيَاب
 | قَطَب ه * | صَلَح ه | رَقَعَ ه
 s. m. | رُقْعَة | flickei s. f., flickei
 werf s. n. | تَرْقِيْع.

flieder s. m. bot. | اِحْمَان * | سَنْبُوْقَة
 | لِيْلِك * | اَقْطَى * | پَرْسِيْخَر -
 | اَزْدَرَحْت.

fliege s. f. | اَذِيْبَة pl. | ذُبَاب
 - | ذُبَابَة * | ذُبَابَة (von Bart)
 | اَعْنَقَقَة | دُبَاب هِنْدِي - | سَپَانِيْخَة.

fliegen vn. i | طَار i | حَام i - (schnell
 laufen) | اَسْرَع فِي المَشْيِ.

fliegen-netz s. n. | نَامُوسِيَّة *
 -schwamm s. m. bot. | اِغَارِيْقُون
 -wedel s. m. | مِذْبَة.

pl. مَعَادٍ | - (von aufgeblasenen
Fellen) كَمَك | عام pl.

flößbar a. (fluß) مُمَكِن نَقَلَ
الْحَشَبِ عَلَيْهِ.

flöße s. f. أَعْجِنَحَة pl. جَنَاحِ السَّمَكِ
زَغَانِف pl. زَغْنَفَة.

flößen va. نَقَلَ u الْحَشَبِ عَلَى
نَقَالَ الحَطَبِ s. m. نَوْرٍ
أَوْ الْحَشَبِ عَلَى نَوْرٍ.

flöte s. f. مَزَامِير pl. مَزَامِير
- | spielen f. flöten | -n vn. u, i
-n gehen i ضَاع | -nbläser s. m.,
-nspieler s. m., flötist s. m. زَمَار
-nspiel s. n. زِمَارَة.

flott a. طَافٍ | عَائِم | - fein (Schiff)
u عام | u طَفَا | etw. - machen
خَلَّصَ | bld. etw. - machen عَوَمَ ه
عام u | - werden مَنِ الضِّيقِ
(lustig) | - تَخَلَّصَ مِنَ الضِّيقِ
عَاشَ i بِفَرَحٍ | - leben قَرِحَ.

flotte s. f. أَسْطُولٌ * | عَمَارَة pl.
دُونَنَمَة | türf. أَسَاطِيلِ.

flottille s. f. عَمَارَة صَغِيرَة.

flöß s. n., flöz s. n. مِّنْ
المَعَادِنِ.

fluch s. m. لَعْنَة | لَعْنَات pl.

دُعَاء | - über jn. مَسَبَة * | سَبَّ *

عَلَيْهِ | - (fluchenswerte Sache)

كَرْيَبَة | مُصِيبَة | einen - aus-
stoßen f. fluchen | -n vn. jn. od.

دَعَا u عَلَيْهِ | لَعَنَ a s | auf jn.

كَرْيَبِهِ a. | -nwert سَبَّ u s

مُسْتَحِقُّ اللَعْنِ | مَكْرُوه

flucht s. f. اِنْهِيَام | اِدْبَار | فِرَار | هَرَب

- | تَجَنَّب | - vor (Vermeiden) der

Jahre | جَرِيَانِ الأَزْمِنَة

Muhammads (besser: Aus-

wanderung) | die - er-

greifen i | هَرَب u | أَدْبَرَ | فَرَّ i

in die - | هَزَمَ s | schlagen

flüchten vn. od. sich - u | هَرَب

هَارِبِ a. | أَدْبَرَ | فَرَّ i

flüchtig a. | آبَقِ | -er Sklave | شَارِدِ

سَرِيعِ المَضِيِّ | عَابِرِ (schnell

ober-) | وَقْتِي * | سَرِيعِ الزَّوَالِ

flächlich) | سَطْحِي | طَائِشِ | chem.

werden u | هَرَب | صَائِرِ بُخَارًا

flüchtigkeit s. f. | آبَقِ i (Sklave)

flüchtling s. m. | طَيْشِ | سُرْعَة

آبَقِ | شَرْدِ pl. | هَارِبِ | شَارِدِ

fluchwürdig a. f. fluchenswert.

flug s. m. | طَيْرِ | طَيْرَانِ | im - e

طار | | بالسرعة | seinen - nehmen i

-blatt s. n. رِسَالَةٌ | كُتَيْبٌ | كُرَّاسَةٌ
 pl. رَسَائِلٌ.
 flügel s. m. أَجْنِحَةٌ pl. جَنَاحٌ
 - eines Gebäudes جَانِبٌ بِنَاءٍ
 pl. جَوَانِبٌ | - (einer Thür, eines
 fensters) مِصْرَاعٌ pl. مِصْرَاعِيٌّ
 - (Art Klavier) *
 im. die - beschneiden * a مَنَعَ
 adjutant s. m. تَائِفٌ | - مِنْ الْأَرْتِقَاءِ
 | كَسِيحُ الْجَنَاحِ a. لَاهِمٌ | يَأْوِرُ
 -mann s. m. mil. أَوَّلُ الصَّفِّ
 | -n va., nur geflügelt
 | العَسْكَرِيِّ
 | -thür s. f. | سَرِيْعٌ | ذُو أَجْنِحَةٍ
 | أَبْوَابٍ pl. بَابٌ ذُو مِصْرَاعَيْنِ
 flügge a. قَادِرٌ عَلَى الطَّيْرَانِ (طَائِرٌ)
 (صَغِيرٌ).
 flugs adv. سَرِيْعًا.
 flugsand s. m. رَمْلٌ تُحَرِّكُهُ الرِّيحُ
 flugschrift s. f. f. flugblatt.
 flunder s. f. نَوْعٌ مِنَ سَمَكِ الْبَحْرِ.
 flunferei s. f. | flunfern vn. | فُشَارٌ *
 *فَشَّرٌ.
 flur s. f. pl. مَزْرَعَةٌ | مَرْجٌ pl.
 | مَزَارِعٌ | flur s. m. (eines Hauses)
 | -hüter s. m. | دِهَالِيْبٌ pl. دِهَالِيْبِيْنَ
 | -schütz s. m. | نَوَاطِيْبِرٌ pl. نَاطُوْرٌ
 fluß s. m. أَنْهَارٌ u. نُهُرٌ pl.

u. نُهُرٌ u. نُهُرٌ | - (fließen)
 | سَيْلَانٌ | جَرَبَانٌ | - (flüßig-
 werden) | ذَوْبَانٌ | - der Rede
 | - med. | غَزَارَةٌ الْكَلَامِ | كَثْرَةٌ الْكَلَامِ
 | وَايٍ s. n. -bett | نَزَلَاتٍ pl. نَزَلَةٌ
 | مَجْرَى النُّهْرِ | أَوْدِيَةٌ pl. النُّهْرِ
 pl. مَجَارٍ.
 flüßig a. | سَائِلٌ | مَائِعٌ (Metall)
 | مَوَائِعٌ pl. مَائِعٌ s. f. - | ذَائِبٌ
 | سَوَائِلٌ pl. سَائِلٌ.
 flußpferd s. n. pl. فَرَسُ الْبَحْرِ
 أَفْرَاسٌ.
 flüßtern vn. | وَسْوَسَ | تَكَلَّمَ هَمْسًا
 | وَشْوَشَ * | - (Wasser od. Wind)
 زَمَزَمَ.
 flut s. f. (Gegenteil: Ebbe) | مَدُّ الْبَحْرِ
 | قَيْضٌ (Ueberschwemmung) -
 | طُوفَانٌ | قَيْضَانٌ | bld. - (Menge)
 | هَاجَ vn. i -en | وَفُورٌ | غَزَارَةٌ | كَثْرَةٌ
 (الماء).
 fockmast s. m. الصَّارِي الْقُدَامِي.
 föderal a. | اتِّحَادِيٌّ | تَعَاهِدِيٌّ | تَحَالِفِيٌّ
 | مُعَاهَدَةٌ | مُحَالِفَةٌ s. f. föderation
 | اتِّحَادٌ | föderativ a., föderiert a.
 مُتَحَالِفٌ.
 fodern va., foderung s. f. f. fordern,
 foderung.

Fohlen s. n. مُهْر pl. مَهَار u.
 فُوهَان | فُوهَان pl. أَفْلَاء | فُوهَان vn.
 وَضَعَت الْفَرَسَةَ | نَتِجَت الْفَرَسَةَ.
 fōhn s. m. رِيح شَدِيدَةٌ فِي جِبَال
 الْأَلْب.
 fōhre s. f. صَنُوبَر coll. eine -
 صَنُوبَرَةٌ.
 folge s. f. (Reihen-) تَتَابُع | تَعَاقِب (Schluß-)
 -der Seiten | مُرُور الْأَيَّام (Schluß-)
 pl. نَتِجَةٌ * | عَوَاقِب pl. عَاقِبَةٌ
 in - | in | فِيمَا بَعْد - | نَتَائِج
 von, zu - einer Sache gen. بِنَاء
 | اِنْقَاد لَهُ | اَطَاع * | leisten | jm. - | اَعْلَى
 einem Befehl - geben | بِالْأَمْرِ u
 اِطَاعَةٌ s. f. | اَطَاعَ الْأَمْر
 folgen vn. jm. * | اَعْقَب u | اَتَّبَعَ a *
 | اَخْلَف i * | اَلْحَق * | اَعَقَب *
 | اِنْقَاد لَهُ | اَطَاع * | jm. (gehörchen)
 einem Wege - | فِي طَرِيقٍ | سَار i
 vn. - aus | اَصْدَرَ u | نَشَأَ a
 | اَتَّال | آتٍ a. | اَتَّج i | من * | من
 | اَلنَّوْعِ الْاَتِّي | اَتَّى | dermaßen adv.
 | كَثِير a. | -schwer a. | reich a.,
 الْعَوَاقِب.

folgerung s. f. نَتِجَةٌ pl. اَعْلَى
 folgezeit s. f. الْمُسْتَقْبَل | نَتَائِج
 folglich adv. | لِذَلِكَ | فَاِذَا
 | مُطِيع a. | بِنَاء عَلَيْهِ
 | اِطَاعَةٌ s. f. | خَاضِع | مُمْتَنِل
 | اِمْتِنَال | اِنْقِيَاد | اِطَاعَةٌ.
 foliant s. m. كِتَاب حَجْمُهُ نِصْف
 | فَوَلْيُو s. n., groß - | حَجْم
 | طَلْحِيَّة
 | طَلْحِيَّة.
 folter s. f. عَذَاب | تَنْكِيْل pl.
 | عَذَابَات | in. auf die - spannen
 | عَذْب * | نَكَل * | -bank s. f.
 | مَرْكَبَةٌ حَدِيدِيَّةٌ لِلتَّنْكِيل
 | عَذْب * | نَكَل * | in.
 fonds s. m. comm. رَأْسُ مَال.
 fontäne s. f. فَسْتُقِيَّة * | نَوْفَرَةٌ *
 fontanelle s. f. اَفْتَحَ رَأْسَ الْوَطْفَلِ
 | جُرْحٌ صِنَاعِيّ.
 foppen va. in. ضَحِكَ a عَلَيْهِ
 | اِهْجَاء s. f. | اِسْتَهْزَأَ بِهِ
 | اِسْتَهْزَاءُ.
 forderer s. m. طَالِب.
 förderlich a. مُنَاسِب | مُفِيد | نَافِع
 ffordern va. etw. von jm. طَلَبَ u ه
 | in. - | zum Zweikampf
 | اَعَا u | لِلْقِتَالِ | بَارَزَ *

u | طَرَدَ | -trollen v. sich | اِنْصَرَفَ |
-währen vn. f. -dauern | -während
adv. دَائِمًا.

fossil a. | مَعْدِنِيّ | fossil s. n. | مَطْمُور
في الأرض من النباتات

fötus s. m. | جَنِين

fracht s. f. | نَقْل | وَسْق | شَحْن |
ثَمَن نَقْل (-preis) - | البَضَائِع

fracht s. m. | قَائِمَةٌ | -brief s. m. | البَضَائِع
أَمْوَال -gut s. n. | البَضَائِع الْمَنْقُولَةٌ
-schein s. m. f. | -brief. | مَنقُولَةٌ

fract s. m. | ثَوْب | جَكَّة مَقْطُوعَةٌ *
ذُو زَرْفَيْن

frage s. f. | مَسْأَلَةٌ | أَسْئَلَةٌ pl. | سَوَال
pl. | اِسْتِفْهَام | اِسْتِفْهَام | مسَائِل pl.
eine - stellen | مَشَاكِل pl. | مُشْكِل
| هُوَ مَشْكُوك - | es ist die | سَأَلَ عَنِ
die - dreht sich um etw. | صَدَد
الكلام هُوَ

fragen va. | سَأَلَ | عَنِ | nach | سَأَلَ
| اِسْتَحْبَرَ | عَنِ | اِسْتَفْهَمَ | عَنِ
| سَأَلَ | nach | (sich kümmern
um) | اِسْتَفْهَمَ | عَنِ | سَأَلَ
| هُوَ مَشْكُوك | sich

frag-ewort s. n. | اَدَاةِ اِسْتِفْهَامِ gr.
pl. | اَدْوَات | -ezeichen s. n. | اَدْوَات
| اِدْوَات | علامَةٌ اِسْتِفْهَامِ

haft) | مَشْكُوك | --(in Rede stehend)
| الوَاقِعِ الكَلَامِ فِيهِ | -los a. | غَيْرُ
مَشْكُوك | -würdig a. | مَشْكُوك

Frakturschrift s. f. | ثُلُثِيّ | اَلْحَطَّ
اَلْمُسْتَقِيمِ

frank a., - und frei | حُرّ

frank s. m. (frz. Geldstück) | فَرَنْك

frankatur s. f. (eines Briefs) | تَخْلِيص
عَلَى خِطَاب *

franke s. m. (Europäer) | اَفْرَنْجِيّ
die -n | اَلْاَفْرَنْجِ

frankieren va. | Brief عَلَى
دَفْعِ a | سَلَقًا اُجْرَةً | اَلْخِطَاب *
اَلْبُوسَطَةِ

fränkisch a. (europäisch) | اَفْرَنْجِيّ

franko adv. | اَلْاُجْرَةَ اَلْبَرِيدِ

Frankreich n. pr. | فَرَنْسَا

franse s. f. | اَهْدَاب pl. | هُدْب
va. etw. | هَدَّب | -ig a. | مُهَدَّب

franzband s. m. | تَجْلِيدِ كِتَاب

franzbranntwein | بِجِلْدِ الْعِجْلِ
s. m. | اَعْرَقَ فَرَنْسَاوِيّ | franzbrot s. n.
| اَرْغَفَةٌ pl. | رَغِيْف

franze s. m., franzmann s. m. f.
franzose.

franziskaner s. m. kath. | نَوْعٍ مِنَ
الرُّهْبَانِ

franzose s. m. | فَرَنْسَاوِيّ * | فَرَنْسِيّ
 -n s. pl. | مَرَضٌ | مَرَضٌ أَفْرَنْجِيّ
 französin s. f. | حَبٌّ | مُبَارَكٌ
 französisch a. | امْرَأَةٌ فَرَنْسَاوِيَّة *
 فَرَنْسَاوِيّ | فَرَنْسِيّ
 frappant a. | مُؤَثِّرٌ | القَلْبُ فِي
 frappieren va. in. | أَثَّرَ فِيهِ
 fraß s. m. | طَعَامٌ | أَكَلَ الحَيَوَانَاتِ
 عُلفٌ pl. | عُلُوفَةٌ | عَلِيقٌ | البَهَائِمِ
 fraternisieren vn. mit jm. | أَخَى
 frasse s. f. | عَوَجُ الوَجْهِ | صَعَرَ الوَجْهَ
 | صَعَرَ حَدَّهُ | -n schneiden | كِشْرَةٌ *
 مُكَشِّرٌ a. | -haft | كَشَّرَ | عَجَّى
 frau s. f. | نِسَاءٌ pl. | مَرَأَةٌ od. امْرَأَةٌ
 | سَيِّدَةٌ | حُرْمٌ pl. | حُرْمَةٌ | نِسْوَانٌ u.
 | سِنَاتٌ pl. | سِتٌّ | سَيِّدَاتٌ pl.
 | زَوُجَاتٌ pl. | زَوْجَةٌ (Gattin) -
 | بِنْتُ العَمِّ * | قَرَائِنٌ pl. | قَرِينَةٌ
 | unsere | عَجَائِزٌ pl. | عَجُوزٌ -
 | العُدْرَاءُ | kath. (Maria) -
 | -enfrage | اتَّزَوَّجَ | -nehmen | sich eine
 | مَسْأَلَةٌ | حُقُوقُ النِّسَاءِ s. f.
 | حُرْمٌ pl. | حَرِيمٌ s. n. | -engemacht
 | بنوعٍ | -haft a. | أَحْرَامٌ pl. | حَرَمٌ
 | فُستَانٌ | -enfleid s. n. | النِّسَاءِ
 | فُسطَاطِيْنٌ pl. | فُسطَانٌ | فُسطَاطِيْنٌ pl.
 | مدافعٌ | عَن حُقُوقِ | -enrechtler s. m.

-enüberwurf s. m. | النِّسَاءِ
 | أَزْرٌ pl. | إِزَارٌ (weißer, leinener)
 - - | مِلَايَةٌ (bunter) | -enverein
 | جَمْعِيَّةُ النِّسَاءِ s. m. | -enzimmer
 | نِسْوَانٌ u. | نِسَاءٌ pl. | امْرَأَةٌ s. n.
 | وَيُسْتَعْمَلُ غَالِبًا أَحْتِقَارًا فِي هَذِهِ
 | - - | (Zimmer für Frauen) | - | الأَيَّامِ
 | أَحْرَامٌ pl. | حَرَمٌ | حُرْمٌ pl. | حَرِيمٌ
 | سَيِّدَةٌ (غَيْرُ مُتَزَوِّجَةٍ) s. n. | Fräulein
 | سِنَاتٌ pl. | سِتٌّ | سَيِّدَاتٌ pl.
 | سَفِهٌ a. | سَفِيهٌ | - | وَقِعَ | frech a.
 | سَفَاهَةٌ | سَفَهٌ s. f. | -heit | وَقِعَ a
 | وَقَاحَةٌ
 | نَوْعٌ مِنَ المَرَاكِبِ s. f. | fregatte
 | الحُرْبِيَّةُ
 | خَالِصٌ مِنَ (rein von) | - | حُرٌّ a. | frei
 | - | (freiwillig) | - | (leer,
 | فَاضٍ * | خَالٍ عَنِ | فَرِغَ (unbeseht)
 | مُخَالِفٌ الحِشْمَةِ (unanständig) | -
 | - | أَجْتَرَأَ | تَجَاسَرَ | - | so
 | -beuter s. m. | | جَازَ u. | لَهُ | -
 | -beuterei | | قَرَاصِيْنٌ pl. | قُرْصَانٌ
 | تَذْكِرَةٌ مُنْصَرِفَةٌ s. n. | -billet | قُرْصَنَةٌ
 | -brief s. m. | | تَذَاكِرٌ pl. | مَجَّانًا
 | -denker | | امْتِيَاذَاتٌ pl. | امْتِيَاذٌ
 | زَنَادِيْقٌ u. | زَنَادِقَةٌ pl. | زُنْدِيْقٌ s. m.
 | الخَلَاءُ * | الهَوَاءِ | البَرِّيَّةِ | freie s. n.

حَقٌّ | -zügigkeit s. f. | آخْتِيَارًا
 الأَسْتِيْطَانِ فِي مَحَلِّ مَا
 fremd a. | غَرِيْبٌ * | بَرَانِي * (ander)
 | غَيْرٌ مَعْرُوفٌ (unbekannt) | - | الغَيْرُ
 -artig | لا أَعْرِفُ هَذَا - Das ist mir
 -e s. m. | مُخْتَلِفٌ الْجِنْسِ a.
 pl. | أَجْنَبٌ | غُرَبَاءُ pl. | غَرِيْبٌ
 -e s. f. (Aus- | أَجْنَبِيٌّ | أَجَانِبٌ
 land) | -heit | بِلَادِ الأَجَانِبِ | غَرَبَةٌ
 -ländisch a. | جَهْلٌ | غَرَابَةٌ s. f.
 pl. | غَرِيْبٌ | -ling s. m. | fremd f.
 -wort | أَجَانِبٌ pl. | أَجْنَبٌ | غُرَبَاءُ
 . كَلِمَةٌ مَأْخُوذَةٌ مِنْ لُغَةِ غَرِيْبَةٍ s. n.
 freske s. f. | صُوْرَةٌ عَلَى حَائِطٍ | fresco-
 malerei s. f. | تَصْوِيْرٌ عَلَى حَائِطٍ .
 fresse s. f. (vulg.) | فَمٌ | fressen va.
 | أَكَلٌ u | أَكَلٌ (الْحَيَوَانَاتِ) | etw.
 | قَرَضٌ i (nagen) - | كَثِيْرًا (إِنْسَانٌ)
 | أَطْعَمَ ه | - geben zu | etw. | jm.
 Fresser s. m. | أَكُوْلٌ | أَكَالٌ | Fresserei
 s. f. | الأَكْلُ الْمُفْرِطُ .
 frett s. n., frettchen s. n. | نِمْسٌ
 | نَمُوْسٌ | نَمُوْسٌ | pl.
 | يُصْطَادُ بِهِ الأَرَانِبُ .
 Freude s. f. | مَسْرَّةٌ | سُرُوْرٌ | فرح
 | herrlich und in -n leben | فرح
 | vor -n außer | عَاشَ i فِي التَّلَذُّدِ

| طَارَ i فَوَاذَةٌ مِنَ الفَرَحِ | sich fein
 -botschaft s. f. | بُشْرَى | بِشَارَةٌ
 -ngeschrei s. n. | زَجَلٌ | صَوْتُ
 (Der Frauen im | - | التَهَلُّلُ
 Orient) | زَلَاغِيْبٌ pl. | زَلْفَةٌ *
 -nmädchen s. n. | بِنْتُ الحَطَاءِ
 | فَاجِرَاتٌ pl. | فَاجِرَةٌ | قَحَابٌ pl. | قَحْبَةٌ
 pl. | شَرْمُوْطَةٌ * | عَوَاهِرٌ pl. | عَاهِرَةٌ
 | -npost s. f. | شَرَامِيْبٌ | -botschaft.
 f. | فَرْحَانٌ | فَرَحٌ | مَسْرُوْرٌ | freudig a.
 | مُنْشَرِحٌ | سَارٌّ | فَرْحَى | -heit s. f.
 | فَرَحٌ | سُرُوْرٌ .
 | أَفْرَحَ ه | سَرَّ ه u | freuen va. | jm.
 | sich - einer Sache gen. od. über
 | اِنْسَرَّ | سَرَّ ب | فرح a
 | اِنْتَضَّرَ ه | sich - auf etw. | اِنْبَسَطَ
 | بِسُرُوْرٍ .
 | أَصْدِقَاءٌ pl. | صَدِيْقٌ | Freund s. m.
 | أَحْبَابٌ u. | أَحْبَاءٌ pl. | حَبِيْبٌ
 | تَرَبٌ | جُلَسَاءٌ pl. | جَلِيْسٌ
 | أَصْحَابٌ pl. | صَاحِبٌ * | أَثْرَابٌ
 | أَخِلَاءٌ pl. | خَلِيْلٌ - vertrauter
 | -in s. f. | خُلَانٌ | u.
 | -lich a. | أَنْيْسٌ | لَطِيْفٌ
 | تَلَطَّفَ لَهُ | zeigen gegen | jm.
 | تَلَطَّفَ لَهُ | wollen Sie so - -
 | هَلْ تُرِيْدُ أَنْ تَعْمَلَ لِي | sein?

- | لَطَافَةٌ | لُطْفٌ s. f. - - | مَعْرُوفًا
 | مَوَدَّةٌ | وِدَادٌ s. f. - | بَشَاشَةٌ
 | (Verwandschaft) - - | صَدَاقَةٌ | أَلْفَةٌ
 | وِدَائِيٌّ a. - | سَبَبٌ | قَرَابَةٌ
 | فَرِيعٌ s. m. | جُرُومٌ pl. | جُرْمٌ s. m.
 | فَرِيعٌ | ظُلْمٌ | جُورٌ | فَوَاحِشٌ pl.
 | فَاضِحٌ a. | فَرِيعٌ a. | -haft a.,
 | مُتَجَاسِرٌ | مُعَيِّبٌ - | مُتَّجِسِرٌ s. m.,
 | - | خَاطِرٌ | الفَاضِحُ s. m. | -n vn.
 | أَجْرَمَ | أَذْنَبَ | جَنَى i | اجْتَرَمَ
 | - | فَرِيعٌ | فَرِيعٌ s. m. | f. s. f.
 | أَشْقِيَاءٌ pl. | شَقِيٌّ | فَرِيعِيٌّ a.
 | f. | فَرِيعِيٌّ a. | f. | فَرِيعِيٌّ a.
- | سِلْمٌ s. m. | فَرِيدَةٌ s. m.,
 | مُسَالَمَةٌ (Friedensvertrag) - | صُلْحٌ
 | (Eintracht) - | عَقْدُ الصُّلْحِ | مُصَالِحَةٌ
 | - | مُوَافَقَةٌ | اتِّحَادٌ (Schließen
 | - | نَقَضَ | أَحْكَمَ الصُّلْحِ | brechen u
 | - | فَسَخَ a ه | الصُّلْحِ | stiften zwischen
 | - | اِجْتَمَعَ | اِجْتَمَعَ | in. in - lassen
 | - | لَمْ يَضْجُرْ ه | لَمْ يَبْرَمْ ه | der
 | سَلَامٌ | رَاحَةٌ | النَّفْسِ | Seele
 | - | اِذْهَبْ | بِالسَّلَامِ | - | in
 | - | نِسْبَةٌ | لِرِمَانِ | الصُّلْحِ | s. m. f. s. m.
 | قَاضِيٌّ s. m. | قَبْلَةُ | السَّلَامِ | - | s. m.
 | قَضَاةٌ pl. | يَحْكُمُ | بِالصَّغَائِرِ | s. m. f. s. m.
 | - | اِحْكَامُ | الصُّلْحِ | s. m.
- | مُشْتَبِهٌ s. m. | مُصْلِحٌ | مُشْتَبِهٌ
 | مُنْقَى | الفِتْنَةِ | فِي | الشُّعْبِ
 | مُسَلِّمٌ s. m. | سَلَامٌ | مُسَلِّمٌ
 | - | صُلْحٌ | - | صُلْحٌ s. f. | - | صُلْحٌ
 | مُقَابِرٌ pl. | مَقَابِرَةٌ s. m. | Friedhof
 | مَزَارَاتٌ pl. | مَزَارٌ | مَدْفِنٌ pl. | مدفن
 | سَلِيمٌ a. - | لِحٌ | تَرَبٌ pl. | تَرَبَةٌ
 | هَادِيٌّ | مُجِبُّ | الصُّلْحِ | ساكن
 | - | - | fertig | - | liebend a. f. | - | sam a. f. | - | lich.
- | بَرْدٌ u | (Kälte empfinden) | frieren vn.
 | - | صَرِدٌ | a | خَصِرٌ | a | es
 | بَرْدٌ u | الجَلِيدِ | كان | friert
 | - | (sich in Eis verwandeln) | u | جَمَدَ |
 | قَرَسَ | i | جُلِدَ |
- | نَسِيحٌ | مِنَ | صُوفٍ (Stoff) | Fries s. m.
 | - | اِفْرِيْبِزْ pl. | اِفْرِيْبِزْ arch. -
- | حُمَيْرَاءٌ | حَصْبَةٌ s. n. | Friesel
- | يَخْنِيٌّ * | يَخْنَةٌ * | Frisasse s. n.
- | طَرِيٌّ | بَارِدٌ | رَطْبٌ | frisch a. | غير
 | جَدِيدٌ | غَيْرُ | فَاسِدٌ | مُمَلِّحٌ | حديث
 | - | تَبَرَّدَ | اِشْرَافٌ | auf - er
 | - | اِشْرَافٌ | اِشْرَافٌ | auf! - | auf!
 | - | هَلُمَّ | جَرًّا | هَيَّا | e s. f., -heit s. f.,
 | - | مُعْتَدِلٌ | بَرْدٌ | مُعْتَدِلٌ | - | fein s. n.
 | طَرَاءَةٌ | رَطَابَةٌ | نَضَارَةٌ |

- Frischling s. m. خِنْوَصُ بَرِّي pl. frommen va. jm. a نَفَع | أَجْدَى ه | نَفَعًا.
- Friseur s. m. مُزَيِّن | frisieren va. Frömmigkeit s. f. تَقْوَى | عِبَادَةٌ | نَسْك.
- Frift s. f. مِيعَاد pl. أَجَل | مواعيد s. m., Fronarbeit s. f., Frondienst s. m.,
pl. أَجَال | zu dieser - الآن | frisiten frone s. f. سُخْرَةٌ | frönen vn.
va. etw. ه | أَجَل | das Leben - انْتَمَكَ | seinen Begierden | سُخِّر
اقتات. مَن | Fröner s. m. فِي الشَّهَوَاتِ
Friseur s. f. تَعْيِيف | تَجْعِيد | يُسَخِّرُهُ الْوَالِي.
- Frivol a. (Person) خَفِيف الْعَقْل | Frönleichnamtsfest s. n. kath. عِيد
- (Sache) باطل. الجَسَد.
- froh a. فَرِحَان | فَرِح | مَسْرُور | Front s. f. mil. مُقَدَّم | in der -
einer Sache gen. - داخل الصَّف.
- werden ب تَمَتَّع.
- fröhlich a. أَبْهَج | مَبْسُوط | مسرور | Frostd s. m. (Kälte unter Null) جَمْد
- | انْتِشْرَاح | انْبِسَاط | بَهْجَةٌ | - | قَرَس | صَقِيع | جَلِيد | جُمُود
- | فَرِح | سُرُور. | (Empfindung der Kälte) | بَرْد | خَصِر | خَصْر
| قَشْب * | وَرَمٍ مِنَ الْبَرْدِ s. f.
- fröh-locken vn. a زَجَل | - (Frauen) frösteln vn. od. es fröstelt ihn
* | زَلْغَط | - | زَجَل | - | اِقْشَعْرَ | صَرِد | ا | بَرْد | u
- | زَلَاغِيْط pl. زَلْغَطَةٌ * (Frauen) | صَرْد | ا | بَارِد | frostig a. | مِنَ الْبَرْدِ
s. m. |. Fröhlichkeit | - | sinnig a. | بَرْدَان *.
- s. fröhlich.
- fromm a. صَالِح | تَقِي.
- Frömmerei s. f. مُنَافَقَةٌ | frömmeln fröttieren va. jm. ه | دَعَكَ | ه | u دَلَك.
- vn. نَافَق.
- Frucht s. f. ثَمَر pl. أَنْمَار | - (Obst)
| حَصَائِد (-feld-) | فَوَاكِه pl. فَاكِهَةٌ
| ثَمَرَةٌ (-Reibes-) | غَلَال | u. غَلَّات

un- | أولاد pl. | ولد | حمل البطن
 (Nutzen) - | جنين - | geborene
 فوائد pl. | فائدة | ثمر pl. | ثمرة
 - | منافع pl. | منفعة | bringen,
 -bar a. | خصب | i | أثمر | tragen
 (Boden) - | مثير (Baum)
 كثير (Menschen, Tiere) -- | ريف
 | نثور | ضائفة (Frau) -- | النسل
 منشئ كثير -- | er Schriftsteller
 | خصب s. f. | التأليف -barkeit
 | إحصاب كثير الأنسال -en vn.
 غير | غير نافع a. -los | نفع a
 عدم s. f. | باطل | مفيد
 | النفع

زهد | زاهد في الأكل frugal

مبكرًا | باكراً früh, frühe adv.

أ. | بدري | ير. | بغير *

oder spät | صباحًا (-morgens) -

عاجلاً أو آجلاً | بدياً وأخيراً

früher | صبح | صباح s. f. | frühe

قبل ذلك الوقت | سابقاً | قبلاً adv.

في أقرب وقت | frühestens adv.

إسقاط الجنين s. f. | früh-geburt

ربيع s. m. | -ling s. n., -jahr

der -- des Lebens | فصل الربيع

باكور | بدري | reif a. | شباب

reife | مدرك قبل الوقت | كبير

-rot | البلوغ قبل الوقت s. f.

-stück s. n. | فلق | فجر | صبح s. n.

-stücken vn. | ترويقة * | فطور | فطر

كسر الريق * | تروق * | فطر u

-zeitig a. | f. | früh.

فuchs s. m. | ثعلب pl. | ثعالب

إنسان محتال (listiger Mensch) -

حصان | حصان أشقر (Pferd) -

تلميذ جديد في stud. | أصعب

(Gold-) | تلامذة pl. | دار الفنون

-balg s. m. | نفود pl. | نقد ذهب

جحر s. m. | جلد الثعلب -bau

حديد s. n. | الثعلب -eisen

-en va. | للقبض على الثعلب

أشقر a. -ig, -icht a. | أغاظ s

تملق | كالثعلب -schwänzen vn.

fuchsin | متملق s. m. | -schwänzer

fuchswild a. | ثعلبة s. f. | غضوب

مغتاز

jn. | نوع من السيف s. f. | fuchtel

أدب s | nehmen - | die unter

تشاجر vn. -n | كذب s | هدب s

تبارش | تنازع

fuder s. n. | حمة عربية s. f. | وسقة

مئل برمبل عظيم | عجلة

fug s. m. | حق | موافقة

fuge s. f. | دماج | تركب | اندماج

(Stern- | **der** - | **عَرَبِيّ** | سَائِقِ عَرَبِيَّة
 bild) ضَابِطِ الْعِنَانِ | ذُو الْعِنَانِ
 Führung s. f. | قِيَادَةٌ | تَدْبِيرٌ
 fuhrwerk s. n. | عَجَلَةٌ * | فُهِرْ-
 wefen s. n. | نَقْلُ الْأَشْيَاءِ بِالْعَجَلَةِ
 fülle s. f. | وَفُورٌ | غَزَارَةٌ | كَثْرَةٌ
 فَيْضَانٌ
 füllen s. n. | أَمْهَارٌ u. مِهَارٌ pl. | مُهْرٌ
 فِلُو pl. | أَفْلَاءٌ
 füllen va. etw. mit | مَلَأَ ه ه a
 حَشَا ه ه u | و مِ ن و ب
 füllhorn s. n. | قُرُونٌ pl. | قَرْنُ الْوُفُورِ
 füllsel s. n. | حَشُو مِنْ لَحْمٍ أَوْ
 | مِلْءٌ s. f. | فُيْلُفٌ | حَشَائِشُ
 حَشُو
 fund s. m. | لُقَاتٌ | لَقَطٌ * | لَقِيَّةٌ *
 لِقَايَةٌ *
 fundament s. n. | قَاعِدَةٌ | أَسَاسٌ pl.
 | أَتَسَسَ ه | قَوَاعِدُ -ieren va. etw.
 fund-bureau s. n. | مَكْتَبُ اللَّقِيَّاتِ
 -grube | مَكْفَأَةٌ لِمَنْ وَجَدَ ه -geld
 s. f. | مَأْخِذٌ pl. | مَأْخِذٌ وَافِرٌ
 fundieren va. etw. | أَتَسَسَ ه
 fünf num. | خَمْسَةٌ f. | خَمْسٌ | je -
 | مَخْمَسٌ s. n. | -eef | مَخْمَسٌ | خُمَاسٌ
 | مَخْمَسِيٌّ | ذُو خَمْسِ زَوَايَا -eefig a.
 | -eef | مِ ن خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ * | -erlei a.

a., -fältig a. | خَمْسَةٌ أَضْعَافٌ
 -finger- | مَضَاعِفُ خَمْسَةٌ مِرَارٌ
 fraut s. n. bot. | نَبَاتٌ أَوْرَاقُهُ
 | عَلَى شَكْلِ الْيَدِ الْمَبْسُوطَةِ
 | خَمْسٌ مِئَةٌ -hundert num.
 | إِبْنٌ خَمْسِ سِنِينَ -jährig a.
 | دَائِمٌ خَمْسِ سِنِينَ -täglich a.
 | دَائِمٌ خَمْسَةٌ | إِبْنٌ خَمْسَةِ أَيَّامٍ
 | خَامِسٌ -te a. | خَامِسٌ | -te a. | أَيَّامٌ
 | -tens adv. | أَخْمَاسٌ pl. | خُمُسٌ
 | خَمْسَةٌ عَشْرٌ -zehn num. | خَامِسًا
 | خَامِسٌ -zehnte a. | خَمْسٌ عَشْرَةٌ f.
 | خَامِسٌ | -zehntel s. n. | عَشْرٌ
 | خَمْسُونَ -zig, funfzig num. | عَشْرٌ
 قام u | بَوَاجِبَاتٌ | تَوَطَّفٌ | فُيْغِرِينَ vn.
 الْوَطِيفَةَ
 Funke, Funken s. m. | شَرَارٌ | شَرَارٌ
 coll. | ein - | شَرَارَةٌ | شَرَّرَةٌ - bld.
 | تَوَقَّدَ | لَمَعَ الذِّكَاؤُ (von Geist)
 | تَطَايَرُ الشَّرَارِ | - | الذِّهْنُ | - | sprühen
 funkeln vn. | لَمَعَ u | بَرَّقَ | تَطَايَرٌ
 | جَدِيدٌ | funkelnagelneu a. | الشَّرَارُ
 جَدًّا
 Funktion s. f. | قِيَامُ بَوَاجِبَاتِ الْخِدْمَةِ
 -ieren vn. | فُيْغِرِينَ
 عَلَى | لِأَجْلِ | لِ | für praep. c. acc.
 (anstatt) | - | مِ ن شَأْنٍ * | شَأْنٍ *

- | يَوْمِيًّا | كَلَّ يَوْمٍ Tag - Tag | عَن
 - und - | بلا أَنْقِطَاع | دَائِمًا - in.
 | كان مِنْ حِزْبِهِ | كان u مَعَهُ sein
 Fürbitte s. f. | شَفَاعَةٌ - einlegen
 f. | fürbitten | -n vn. | für in. bei
 | تَشَفَّعَ لَهُ | شَفَعَ لَهُ | إِلَيْهِ in.
 | شُفَعَاءُ pl. | شَفِيعَ s. m. | إِلَيْهِ
 | حُطُوطُ pl. | حُطَّ المَحْرَاثُ s. f. Furche
 | خُدَّ pl. | خُدَّةَ | أَنْلَامُ pl. | تَلَمَّ
 | حَطَّ ه | خَدَّ ه | u ه | -n va. etw.
 | تَلَمَّ ه | شَقَّ ه | u ه | (die Stirn)
 كَرَّشَ.
 | خَشِيَّةَ | مَخَافَةٌ | خَوْفٌ s. f. Furcht
 | هَيْبَةٌ | حِشْمَةٌ (Ehrfurcht) -
 | in. in - | setzen, in. -
 | -bar | أَخَافَ ه | machen, einjagen ه
 | رَاعِبٌ | مَهْلُولٌ | هَائِلٌ | مُخِيفٌ a.
 | رَعْبٌ | هَوْلٌ s. f. -barheit
 | خَافَ ه | أَوْ مِنْ | va. etw. fürchten
 | - in. | حَشِيَ ه | ه | فَرَعَ ه | مِنْ
 | تَهَيَّبَ ه | هَابَ ه | (verehren)
 | für in. - | اتَّقَى الله - Gott
 | خَافَ ه | مِنْ | -vor | خَافَ ه عَلَيْهِ
 | رَاعِبٌ | مُفْرِعٌ | مُخِيفٌ a. fürchterlich
 | رَعْبٌ | هَوْلٌ s. f. -heit
 | مُتَجَاسِرٌ | جَسُورٌ a. furchtlos
 | تَجَاسُرٌ | جَسَارَةٌ s. f.
- | خَائِفٌ | فَرَعَ | حَائِشٌ | حَائِشٌ | فَرَعَ | خَائِفٌ a. furchtsam
 | خَوْفٌ | حَشِيَّةٌ | s. f. -heit
 | مِنَ الْآنَ | -hin adv. | fürder adv.
 | فَصَاعِدًا.
 | الثَّارِعُ | الرُّومَانِيَّينَ | s. f. Furie
 | إِمْرَأَةٌ | شَرِيْرَةٌ - | غَوْلَةٌ * bld.
 | رَائِدُ | الجَيْشِ | s. m. furier
 | العَسَاكِرِ.
 | ارْتَضَى ب | fürlieb nehmen vn. mit
 | اِكْتَفَى ب |
 | حِكْمَةٌ | الله | s. f. Fürsorge
 | Dorsorge.
 | عِنَايَةٌ | التِّفَاتُ s. f. Fürsorge
 | فُورِ | fürbitte | für- | s. f. Fürsprache
 | für- | bidden | für- | bidden | für-
 | fürbitter. | s. m. für-
 | بَرْنِسٌ * | أَمْرَاءُ pl. | أمير s. m. Fürst
 | بَرْنِسَاتُ | -bischof s. m. | أسقف pl.
 | بَرْنِسَاتُ | -entum s. n. | بَرْنِسَاتُ
 | بَرْنِسَةٌ * | أَمِيرَةٌ | s. f. -in | إمارة
 | بَرْنِسٌ | زَوْجَةٌ | الأَمِيرِ | أَوْ | البرنيس | lich
 | أَمِيرِيٌّ | مُخْتَصٌّ | بِالْأَمِيرِ | a.
 | مَخَاضَةٌ | مَخَاضٌ | pl. | s. f. furt
 | مَعَابِرُ pl.
 | جَيِّدٌ | فَاضِلٌ | a. fürtrefflich
 | حَقِيْقَةً | حَقًّا | fürwahr!
 | النِّظَرِ | وَالْمَعْرِفَةِ | s. m. Fürwitz
 | رَعْبَةٌ فِي

Fürwort s. n., persönliches - gr.

ضمائر pl. ضمير.

furz s. m., furzen s. n., furzer s. m.

f. farz, farzen, farzer.

fusel s. m. عرق سوه.

füselier s. m. mil. بيادة خفيفة *

fuß s. m. قدم | أَرَجُل pl. رجل

قائمة (eines Tieres) - | أقدام pl.

pl. | أيدي pl. يد - Vorder- | قوائم

Hinter- | رجل pl. | أَرَجُل - eines

Baumes | أسفل الشجرة - des

Berges | حضيض | سفح الجبل

Arbeits- | الجبل - des Tisches

Arbeits- | أجزاء pl. | جزء شجر - (Vers-)

Arbeits- | حال - | أحد التفاعيل

Arbeits- | حال الحرب - Krieg-

zu - gehen | ماشيًا | راجلاً - zu

أسرع | gut zu - e sein | مشى i

Hand und - haben | في السير

stehen- | بثبات - es - festen | أصاب

den - es - سريعًا | حالًا | - fassen

legen | تثبت | توطن | jm. etw. zu Füßen

legen | sich jm. | قدمه | إكرامًا له

zu Füßen werfen | على | انطرح

etw. mit Füßen treten | قدميه

bld. | jm. auf dem - e | احتقره

folgen & | angel s. f. | فتح

كئة تُضرب s. m. | حديدى

-bank s. f. | ككل pl. | بالرجل

pl. | موطنًا | مناصب pl. | منصّب

ag. | ترجيل * | إسكملتة * | مواطى

-bekleidung s. f. | أحذية pl. | حذاء

إعمال pl. | نعل | خفاف pl. | خفف

-boden s. m. | بلاط * | أرضية

-eisen s. n. f. | Fußangel. | البيت *

füßen vn. auf etw. | استند إلى.

fuß-fall s. m., einen - - thun vor

jm. | انطرح على قدميه.

انطرح على قدميه - - bitten

gänger s. m. | رجل pl. | راجل

gestell s. n. einer | ماش pl. | مشاة

Statue | قواعد pl. | قاعدة تمثال

-pfad s. m. | طريق ضيق

قدوميّة * | مناقب pl. | منقبة

-schmel s. m. f. | -bank | -soldat

s. m. | مترجل | جندي راجل

-spur s. f., | بيادة pl. | بيادى *

in | آثار pl. | أثر | أثر

die -stapfen js. treten & a | تبع

steig s. m. f. | -pfad | اقتدى به

-teppich s. m. | فرش pl. | فرش

Arbeits- | بسط pl. | بسط

-e geben, | لبطة * | لطة | رمحة

versetzen u | رمح | رمح | اطلع

- Galcere s. f. سَفِينَةٌ فِي الزَّمَنِ الْقَدِيمِ | Gallerte s. f. هَلَامٌ | جَلَاتِينٌ * |
 pl. سُنُنٌ | in. auf die -n schicken | عَصِيرٌ مِنَ الْعِظَامِ.
- * | لَوْمَنٌ ه | -n|slave s. m., -n|sträf- | gall-icht, -ig a. مَمْرُورٌ | صَفْرَاوِيٌّ |
 ling s. m. الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالشُّغَالِ | -|sucht s. f. صَفْرٌ | غَضَابِيٌّ |
 مَلُومَنٌ * | اللُّومَانِ | -|füchtig |
 ا. صَفْرَاوِيٌّ.
- Galerie s. f. دَهْلِيْزٌ | أَرْوَقَةٌ pl. رُوقٌ | Galmei s. f. ثَوْتِيَاءٌ.
- pl. دَهَالِيْزٌ | - (Gemälde-) صَفٌّ | Galopp s. m. حُضْرٌ | قُمَاصٌ |
 صُورٌ فِي رُوقٍ.
- Galgen s. m. مَشَانِقٌ pl. مَشْنَقَةٌ * |
 in. zum - verurteilen u حَكَمٌ |
 أَجَلٌ s. f. -|frist عَلَيْهِ بِالشَّنْقِ |
 أَجَلٌ | لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالشَّنْقِ |
 ا. سُرُورٌ الْأَيْسُ s. m. humor -| |
 -|schwengel s. m., -|strich s. m., |
 -|vogel s. m. رَجُلٌ مُسْتَحِقٌّ |
 خَرَجَ الْمَشْنَقَةُ | الشَّنْقِ.
- Galiläa n. pr. بِلَادِ الْجَلِيلِ | الْجَلِيلِ | Galiläer s. m. جَلِيلِيٌّ.
- Gallapfel s. m. غَدَّةٌ فِي بَعْضِ النَّبَاتَاتِ |
 pl. غُدَدٌ | عَقَصٌ coll. etw. mit - |
 färben ه عَقَصٌ | Galle s. f. مَرَّةٌ |
 (Zorn) - | صَفْرَاءٌ | صُفَارٌ | مِرْرٌ pl. |
 | سَوْدَاءٌ - | schwarze | غَيْظٌ | غَضَبٌ
- Gallenblase s. f. مَرَارَةٌ pl. مَرَارَاتٌ |
 u. مَرَارِيٌّ | Gallenfieber s. n. حُمَّى |
 صَفْرَاوِيَّةٌ.
- Gallerie f. Galerie.
- ein Pferd in - setzen أَحْتٌ |
 | أَعْدَى ه | الفَرَسِ عَلَى الْعَدُوِّ |
 -ieren vn. i, u قَمَصٌ | u رَكَضٌ |
 u عَدَا | خَيْلٌ * | رَمَحٌ äg. |
 -ierende Schwindsucht سِلٌّ.
- Galosche s. f. مَا يُلْبَسُ | جَالُوشٌ * |
 فَوْقَ الْأَحْذِيَّةِ مِنَ الْجِلْدِ.
- galvanisch a. | كَهْرَبَائِيٌّ * | galvani-
 fieren va. etw. فِيهِ قُوَّةٌ |
 الْكَهْرَبَائِيَّةُ.
- Gamasche s. f. طِمَاقَاتٌ pl. طِمَاقٌ * |
 Gang s. m. مَسِيرٌ | سَيْرٌ (Gehen) |
 | مَشِيَّةٌ (Ort zu gehen) - | مَشَى |
 | جَوْبٌ | طُوفٌ | جَوْلٌ (Ausgang) - |
 einen - machen u جال | u طاف |
 etw. in den - bringen ه مَشَى |
 | مَشَى | in - kommen i |
 - (Ort wo man geht, Galerie)

- Garde s. f. حُرَّاس المَلِكِ أَوْ السُّلْطَانِ | garstig a. (häßlich) قَبِيحٌ | شَنِيعٌ |
 جِنْدَارَةٌ* | خَاصَّةً المَلِكِ |
 Garderobe s. f. المَلَابِسُ | صِوَانٌ |
 مَحَلٌّ لِخَلْعِ المَلَابِسِ فِي التِّيَّاتُرِ وَالنَّحْلِ |
 gardez! (im Schachspiel) كَبِّشْ | Garten s. m. (Blumen-) جَنَّةٌ pl.
 الوَزِيرِ* |
 Gardine s. f. حُجُبٌ pl. | جُنَيْنَةٌ* | جِنَانٌ | جَنَاتٌ pl.
 سُتُورٌ pl. | سِتْرٌ | خُدُورٌ pl. | خِدْرٌ |
 -n. | بُرْدَايَةٌ | سَتَائِرٌ pl. | سِتَارَةٌ |
 تَوْبِيخٌ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ | Gärtnerei s. m. | بُسْتَانِيٌّ* |
 حُرَّاسٌ pl. | حَارِسُ المَلِكِ | Gärtnerei s. f. | جِرَائَةُ الجِنَانِ |
 جِنْدَارَةٌ pl. | جِنْدَارٌ* |
 Garen vn. | تَحْمَرٌ | u. | تَغٌّ | bld. i. هَاجَ |
 غَارَانٌ |
 Garloch s. m. | طَبَّاحُونَ pl. | طَبَّاحٌ |
 عَشِيَّةٌ pl. | عَشِيٌّ* |
 Garn s. n. | خِيُوطٌ pl. | خِيُوطٌ u. | خَيْطَانٌ* |
 جِبَالَةٌ (Netz des Jägers) - |
 - | شَبَكٌ pl. | شَبَكَةٌ | حَبَائِلٌ |
 وَفَعٌ i. فِي جِبَالَةٍ |
 Garneele s. f. | سَرَطَانٌ بَحْرِيٌّ صَغِيرٌ |
 سَرَاتِيبٌ pl. |
 Garnison s. f. | جُنُودٌ حَرَسَةٌ | شِخْنَةٌ |
 مَوْقِعُ العَسَاكِرِ (Ort) - | خَفَرٌ |
 غَارنيزونٌ* | مَقَرُّ الخَفَرِ |
 Garnitur s. f. | طَقْمٌ | - eines Kleides |
 زِينَةُ الثَّوْبِ |

- Garstig a. (häßlich) قَبِيحٌ | شَنِيعٌ |
 كَنِيسٌ | وِسِيحٌ (schmutzig) - | بَشِيعٌ* |
 (unanständig) - | نَجَسٌ | قَدْرٌ |
 فَاحِشٌ |
 Garten s. m. (Blumen-) جَنَّةٌ pl.
 جُنَيْنَةٌ* | جِنَانٌ | جَنَاتٌ pl.
 بُسْتَانٌ (Frucht-) - | غَيْطٌ | جِنَائِنٌ |
 حَدَائِقٌ pl. | حَدِيقَةٌ | بَسَاتِينٌ pl. |
 Gärtnerei s. m. | بُسْتَانِيٌّ* |
 جِرَائَةُ الجِنَانِ | -ei s. f. |
 الجِنَانِ |
 Gärung s. f. | تَحْمَرٌ | bld. - | فُورَانٌ |
 Gas s. n. | غَازٌ* | -anstalt s. f. | مَعْمَلٌ |
 فِي حَالِ الغَازِ -förmig a. | الغَازِ |
 -haltig a., -ig | عَلَى شَكْلِ الغَازِ |
 -Pocher s. m. | غَازِيٌّ a. | عُدَّةٌ لِلطَّبْخِ |
 -messer s. m. | بِالغَازِ |
 الغَازِ |
 Gasse s. f. | رُقَاقٌ pl. | أَرْقَّةٌ |
 زَارُوبٌ |
 -nbube s. m. | عَطْفَةٌ* | زَوَارِيبٌ pl. |
 أَوْلَادٌ pl. | وَلدٌ كَوَارٌ فِي الأَرْقَةِ |
 -nhauer s. m. | دَارِجَةٌ |
 -njunge s. m. | أغانٍ |
 -nlieder s. m. | كَنَاسٌ |
 -nhauer. |
 Gast s. m. | ضَيْفٌ pl. | ضَيْوْفٌ u. |
 (beim Essen) - | نَزِيلٌ | أَضْيَافٌ |

ein | مُوَائِل | نُدْمَاء pl. نَدِيم
ungebetener - | طَفِيلِي | in. zu -
laden, bitten | دَعَا u | لِلْأَكْلِ *
pl. وَلِيْمَةٌ s. f. -erei | عَزَمَ *
| مُضِيْفِي | مُضِيْفٍ a. frei - | وَلَايْم
| ضِيَاْفَةٌ s. f. -freiheit | ضِيَاْفِي
| ضِيُوْفٍ pl. ضِيُوْفٍ s. m. -freund
| أَضِيَاْفٍ s. f. -freundschaft u.
| صَاْحِبٍ s. m. -geber | ضِيَاْفَةٌ
-haus | صَاْحِبِ الْوَلِيْمَةِ | مَنَزِلِ
| لُوْكَنْدَةٌ * | أُوتِيْل * | هَوْفٍ s. m.
| فَنَادِقٍ pl. فُنْدُقٍ | خَانَاتٍ pl. خَان *
| مَنَازِلِ pl. مَنَزِلٍ vn. -ieren
| لِيْحٍ a. f. -frei | لِيْحِيَّةٌ s. f.
| مَاهِلٍ s. n. -freiheit | مَاهِلٍ s. n.
| عَزُوْمَةٌ * | وَلَايْمٍ pl. وَلِيْمَةٌ
| وِيْرْتٍ s. m. -freundschaft | وِيْرْتٍ s. n.
| صَاْحِبِ لُوْكَنْدَةٍ | صَاْحِبِ أُوتِيْلٍ *
| وِيْرْتِشَاْفْتٍ s. f. -wirtschaft | خَانَاتِي *
| لُوْكَنْدَه * | خَانَاتِي *

gäten va. f. jäten.

زَوْجٍ | بُعُولٍ pl. بَعْلٍ s. m. Gatte
| اِبْنِ الْعَمِّ * | اَزْوَاجٍ pl. اِجْتَمَعَ

شَعْرِيَّاتٍ pl. شَعْرِيَّةٌ * s. n. Gatter
| زَوْجَاتٍ pl. زَوْجَةٌ | بَعْلَةٌ s. f. Gattin
| قَرَائِنٍ pl. قَرِيْنَةٌ

Gattung s. f. | اَنْوَاعٍ pl. نَوْعٍ s. f.
| اَجْنَاسٍ pl. جِنْسٍ | اَصْنَافٍ pl.
| اَشْكَالٍ pl. شَكْلٍ | ضُرُوبٍ pl.
ضُرُوبٍ.

Gau s. m. | نَوَاحٍ pl. نَاحِيَّةٌ s. m.
| اَقَالِيْمٍ pl. -dieb s. m. | اَقَالِيْمٍ pl.
سَارِقٍ بِحِيْلَةٍ.

Gaufelbild s. n. | صُوْرَةٌ كَاذِبَةٌ | Gaufelei
| اِحْتِيَالٍ | شَعْبَدَه s. f. | نَظَاهِرٍ
| رَفْرَفٍ | حَامٍ u | شَعْبَدٍ vn. | gaufeln
Gaufelspiel s. n., | Gaufelwurf
s. n. f. | Gaufelei | Gaufler s. m.
| مُشْعَبِدٍ | gauflerisch a. | مُحْتَالٍ.

Gaul s. m. | فَرَسٍ pl. اَفْرَاسٍ.

GAUMEN s. m. | اَحْنَاكٍ pl. حَنَكٍ s. m.
| مَذَاقٍ | سَقْفِ الْمَلَقِ | لَطْعٍ
| بUCHSTABE s. m. | ذَوْقٍ (Geschmack)
| حُرُوفٍ pl. حُرُوفِ حَنَكِيٍّ.

Gauner s. m. | مُحْتَالٍ -ei s. f.
| اِحْتَالٍ -n vn. | اِحْتِيَالٍ.

Gaza n. pr. غَزَّةٌ.

Gaze s. f. | اِبْرَنْجَلٍ * | شَفِّ s. f. كُرْبِيْشَةٌ *

Gazelle s. f. (männliche) | ظَبِيٍّ pl.
| غَزَلَةٌ u. | غِزْلَانٍ pl. | غِزَالٍ | طِبَاءٍ
| غِزَالَةٌ | طَبِيَّةٌ (weibliche) -
غِزَالَاتٍ.

geadert, geädert a. (Holz, Marmor)

دُو خُطُوط (خَشَب أَوْ رُخَام)

Gebäck s. n. حَلَاوَى مَقْلِيَّة

Gebälk s. n. خَشَبَات مُرَكَّبَةٌ لِبِنَاء

Gebärde s. f. تَشْبِير* | رَمَز | إِشَارَةٌ

pl. حَرَكَات | تَشَابِير | pl. حَرَكَة

كَثُر حَرَكَاتُهُ | تَحَرَّكَ | -n v. sich

إِجْمَاع | تَشْبِير* | -nspiel s. n. | شَبْر*

إِجْمَاع

gebären v. sich u سَلَك | Gebären

s. n. سُلُوك

gebären va. in. (Frau) وَاكَّدَتْ

وَضَعَتْ | الأَمْرَاءُ | الأَمْرَاءُ

سَبَّبَ ه | bld. - etw. | خَلَّفَ ه*

geboren مولود | Frau Müller,

geborene Schulze السَيِّدَةُ مِثْر

geborener Dichter | آبْنَةُ شُلْتُنْسَة

geboren für etw. | شَاعِرٌ طَبْعًا

Gebärerin s. f. | خَلِيقٌ طَبْعًا

Gebärmutter s. f. | مُخَلِّفَةٌ | نَفْسَاء | وَالِدَةٌ

Gebärstuhl | رَجَم | s. f.

s. m. كُرْسِيٌّ الْوِلَادَةِ

Gebäude s. n. أَبْنِيَّة | pl. بِنَاء

عِمَارَةٌ | بُنِيَ | pl. بُيَّة

Gebein s. n. عِظَام

Gebelfer s. n. نُبَاح | عَوَاء

Gebell s. n. نُبَاح

geben va. in. etw. ه | أَعْطَى

أَنْعَمَ ه بِ أَوْ ه عَلَيْهِ | رَزَقَ ه ه

in. die Hand - مَدَّ | اليَدِ إِلَيْهِ

in. Recht - اسْتَحْسَنَ ه

(Beweise 2c.) - | رَضِيَ ا ب

- etw. | أَتَى | بِالْبَرَاهِينِ الْخ

(eintragen) | أَثْمَرَ ه | ein Theater-

stück - | شَخَّصَ رِوَايَةً*

etw. - auf | اِعْتَبَرَ ه | nichts -

auf | اِنْصَلَحَ | sich - | اسْتَخَفَّ ه

sich zufrieden - mit | اسْتَقَامَ

كَيْت | Gott gebe! | اِرْتَضَى ب

vn. - (existieren) | لَعَلَّ | عَسَى

was | فِيهَا | فِيهِ | وُجِدَ | es giebt

Geber s. m. | ما الْخَبْرُ ? | giebts?

وَهَابَ | وَاهَبَ | مَانِعَ | مُعْطٍ

Geberde s. f., geberden vn. f. Ge-

bärde, gebärden.

Gebet s. n. صَلَاة | صَلَوَات | pl. صَلَاة

das - verrichten | أَدْعِيَّة | pl. دُعَاء

دَعَا | لَهُ | صَلَّى

Gebiet s. n. مَمْلَكَةٌ أَوْ وِلَايَةٌ

-en vn. in. etw. | اِحْاطَةٌ | دَائِرَةٌ

pl. سَيِّد | -er s. m. | أَمْرَ ه ب

إِمْوَالٍ | pl. مَوْلَى | سَادَات | u. سَادَةٌ

pl. سَيِّدَات | s. f. سَيِّدَةٌ -erint

-erisch a. حَتْمِيّ | حَزْمِيّ | أَمْرِيّ
حُكْمِيّ.

Gebild, Gebilde s. n. صُورَة pl. صُور.

gebildet f. bilden.

Gebimmel s. n. دَقُّ الجَرَسِ بِتَوَاتُرٍ.

Gebirge s. n. جَبَل | سِلْسِلَة جِبَالٍ
pl. جِبَال | gebirgig a. كَثِير الجِبَالِ

Gebirgsfette s. f., Gebirgszug s. m.
سِلْسِلَة جِبَالٍ.

Gebiß s. n. صَفَّ | الأَسْنَان (Zähne)

خِطَام (des Pferdes) - | الأَسْنَان

pl. مَسَاحِل | مَسْحَل | خُطْم pl.

جُم pl. لِحَام | شَكَايِم pl. شَكِيمَة

geblümt a. مُزَيَّن بِأَشْكَال الأزْهَار
(قماش).

Gebüt, Gebüte s. n. دَم | Prinzen

von - أَمْراء مِّن آل المَلِك -

gebogen a. عَوْجَاء f. أَعْوَج | مُنْحَنٍ

f. biegen | -e Linie مُدَوَّر -e

geboren a. f. gebären.

Gebot s. n. (Befehl) أَمْر pl. أوَامِر

العَشْر | الوَصَايَا العَشْر -e

كان stehen -e zu jm. | الكَلِمَات

| عَرَض (Angebot) - | نَحَتْ أَمْرِهِ

(bei ein - thun i عَرَض | تَقْدِيم

Versteigerung) | أَوَّل دَفْعٍ عِنْد المَزَاد

ein höheres - مُزَايَدَة -

Gebräu s. n. f. Bräu.

Gebrauch s. m. (Gebrauchen)

إِسْتِعْمَال | - machen von etw.

إِسْتِعْمَل ه | - (Sitte, Brauch)

-en va. عَوَائِد u. عَادَات pl. عَادَة

jm. u. etw. ه و ه | إسْتِعْمَل ه

إِسْتَحْدَم ه و ه

gebräuchlich a. مُسْتَعْمَل عَادَة

إِعْتِيَادِيّ.

Gebraus, Gebrause s. n. خَرِير | كَوِي

gebreehen vn. jm. u. نَقَص | قَصَرَ u.

Gebrechen s. n. نَقَائِص pl. نَقِيصَة

آفَات pl. آفَة | عُيُوب pl. عَيْب

gebreehlich a. ضَعْف | عَجْز

Gebrechlichkeit | عاجز | ضَعِيف

s. f. عَجْز | ضَعْف.

Gebrethen s. n. f. Gebrechen.

gebrochen f. brechen.

Geb Brüder s. pl. إِخْوَان | إِخْوَة

Geb rüll s. n. (des Löwen) زَيْبِر |

(des Stiers) - | جُورَاء (des

Meeres, Sturms) | كَوِي

Geb rumm, Geb rümme s. n. (eines

Tiers) | هَمَلَمَة (eines Insekts)

| تَذَمَّر | دَمْدَمَة - | طَنِين

مَرْمَرَة.

Gebühr s. f. (Schuldigkeit) وَاجِب

Gedränge s. n. | اِزْدِحَامٌ | زَحْمَةٌ | im
- sein bild. | تَضَائِقٌ | Gedrängtheit
s. f. des Stils | اِبْجَازُ الْكَلَامِ |
حَصْرُ الْمَعْنَى.

gedrungen a. (untersetzt) | مُرْتَبِعٌ |
مُكْتَلٌ | مَرْبُوعٌ.

Geduld s. f. | اِصْطِبَارٌ | تَصَبُّرٌ | صَبْرٌ |
| اِحْتِمَالٌ | etw. mit - ertragen | حِلْمٌ
عَيْلٌ | die - verlieren | صَبْرٌ | على
| تَأْتَى | صَبْرٌ | sich | -en v. | صَبْرَةٌ
| صَبُورٌ | صَابِرٌ | -ig a. | اِسْتَأْنَى
| -igen v. | حَلِيمٌ | -en.

gedunfen a. | وَارِدٌ | مُنْتَفِخٌ.

Geehrte s. n. | اِحْتِبَابُكُمْ -s | Ihr
العَزِيزِ.

geeignet a. zu | مُسْتَعِدٌّ | مُنَاسِبٌ |
مُؤَافِقٌ | لِي.

Geest s. f., Geestland s. n. | اَرْضٌ
مُرْتَفَعَةٌ | ذات رَمَلٍ.

Gefahr s. f. | مُخَاطَرَةٌ | اَحْطَارٌ | pl. | خَاطِرٌ
- laufen | رَكِبَ | a. | اَلْاَحْطَارِ | sich
| خَاطِرٌ | بِنَفْسِهِ | der - aussetzen
-bringend a. | f. | gefährlich.

Gefährde s. f. | f. | Gefahr | gefährden
va. | اَحْطَرَهُ | خَاطَرَ | ب. | etw.
عَرَّضَهُ | لِلْخَطَرِ.

gefahrrohend a. | f. | gefährlich.

gefährlich a. | مُخْطِرٌ | خَطَرٌ | (Sache)
| رَجُلٌ | لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ | (Mensch)
-feit s. f. | مُخَاطَرَةٌ | مَهْلَكَةٌ.

gefahrlos a. | بِلا خَطَرٍ | -igkeit s. f.
عَدَمُ الْخَطَرِ.

Gefährt s. n. | عَجَلَةٌ | pl. | عَجَالٌ | u.
عَرَبَةٌ *.

Gefährte s. m. | رَفِيقٌ | pl. | رُفَقَاءٌ |
Gefährtin s. f. | رَفِيقَةٌ.

Gefälle s. n. eines flusses | اِنْجِدَارٌ
| ein gutes | مَيْلُ النُّهْرِ | النُّهْرِ
- haben | شَرِبَ | كَثِيرًا | a. | s. pl.
Gefälle (Steuern) | رُسُومٌ.

gefallen vn. jm. | اَرْضَى | اَعْجَبَ |
sich etw. - lassen | اِرْتَضَى | ب.
Gefallen s. m. | مَعْرُوفٌ | جَمِيلٌ |
jm. einen | نِعْمَةٌ | اِحْسَانٌ | فَضْلٌ
- thun, erweisen | اَفْضَلَ عَلَيْهِ | ب.
| اَنْعَمَ | ه. | عَلَيْهِ | اَوْ | ب. | nach - is.
| اَنْعَمَ | ه. | عَلَيْهِ | اَوْ | ب. | an etw.
- finden | سَرَّ | ب. | ا. | فَرِحَ |
اَنْبَسَطَ | مِنْ.

gefällig a. | اَلطِيفُ | اَنْيْسُ | (Person)
- sein | لَذِيذٌ | مَقْبُولٌ | (Sache)
| اَفْضَلَ عَلَيْهِ | jm. - sein | تَفَضَّلَ |
-ft adv. | تَفَضَّلَ | -feit s. f. | مَعْرُوفٌ |
f. | جَمِيلٌ | Gefallen.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefall-sucht s. f. غُنْجٌ تَدَلُّلٌ - süchtig a. غُنْجٌ مُتَنَزَّرٌ مُتَدَلِّلٌ | مُفَاتَلَةٌ وَقِيعَةٌ وَقَائِعٌ pl. واقعة قتال. |
| Gefangene s. m. مَحْبُوسٌ مَسْجُونٌ - (Kriegs-) أُسْرَاءٌ pl. أُسِيرٌ (Kriegs-) | gefeiert a. مَشْهُورٌ مَشْهُورٌ Gefieder s. n. رِيشٌ رِيشٌ -t a. مُرَيْشٌ. |
| Gefangennahme s. f. حَبْسٌ gefangennehmen va. jn. حَبَسَ i s s u سَجَنٌ - (im Krieg) أُسْرٌ (im Krieg) | Gefilde s. n. مَرْجٌ pl. مَرْجٌ pl. مَزَارِعٌ. |
| Gefangenschaft s. f. حَبْسٌ - (Kriegs-) أُسْرٌ (Kriegs-) - (Slaverei) | Geflecht s. n. اِحْتِبَاكٌ اِحْتِبَاكٌ الْتِفَافٌ. |
| gefanglich adv., jn. عُبُودِيَّةٌ einziehen s i حَبَسَ Gefängnis s. n. سَجُونٌ pl. سَجُونٌ pl. مَحَابِسٌ pl. مَحَابِسٌ حُبُوسٌ pl. | gefleckt a. مُرَقَّشٌ مُرَقَّشٌ gefließen a. مُجْتَهِدٌ مُجْتَهِدٌ s. f. اِحْتِهَادٌ اِحْتِهَادٌ -tlich a. قَصْدٌ قَصْدٌ عَمْدًا قَصْدًا قَصْدًا قَصْدِيٌّ |
| pl. مَحَابِسٌ مَحَابِسٌ حُبُوسٌ pl. jn. ins - werfen s i حَبَسَ Gefängnisstrafe s. f. اِقْصَاصُ الْحَبْسِ Gefängniswärter s. m. سَجَّانٌ حَدَّادٌ | Geflügel s. n. طَيْرٌ قَيْنٌ -t a. كَلَامٌ مَشْهُورٌ -تة دُوْا اَجْنِحَةَ |
| Gefäß s. n. اِنَاءٌ pl. اِنَاءٌ pl. اَوْعِيَّةٌ - des Körpers des Degens قَنَوَاتٌ pl. اِحْسَامُ قَبْضَةُ السَّيْفِ * مَقْبَضُ السَّيْفِ | Geflüster s. n. هَمْسٌ * هَمْسٌ Gefolge s. n. تَبَعَةٌ (الْمَلِكِ مِثْلًا) (Jug) - خَدَمٌ وَحَشَمٌ اَتْبَاعٌ Gefolgshaft s. f. مَحْفِلٌ مَحْفِلٌ |
| gefaßt a. مُرْتَاخٌ مُرْتَاخٌ - sein auf fassen تَوَقَّعٌ هـ تَحَسَّبٌ هـ -heit s. f. رَاحَةٌ سَكُونٌ | gefräßig a. أَكَّالٌ أَكَّالٌ -heit s. f. لَهْمٌ رُغْبٌ شَرَاهَةٌ شَرَاهَةٌ gefrieren vn. نَجَمَدٌ (الْمَائِعِ بِالْبَرْدِ) i جُلْدٌ قَرَسٌ Gefrierpunkt s. m. Gefrorenes s. n. نَقْطَةُ التَّجْمِيدِ بُوزَةٌ بُوزَةٌ * شَرَابَاتٌ مَجْلُودَةٌ |
| Gefecht s. n. مَعْرَكَةٌ pl. مَعَارِكٌ | Gefüge s. n. تَرْكِيْبٌ تَرْكِيْبٌ |

سَهْلٌ | دَمِثٌ a. gefügig | نِظَامٌ
كَيْسٌ | الخُلُقُ

Gefühl s. n. (Tastinn) حَاسَّةُ اللَّمَسِ

| حَاسَّةُ الجَسِّ | حَاسَّةُ المَسِّ

| شَفَقَةٌ (Mitleid) - | إِحْسَاسٌ -

| عَادِمُ الإِحْسَاسِ Iosa - | رِقَّةُ القَلْبِ

Iosigkeit - | جَافٍ | عَادِمُ الشَّفَقَةِ

s. f. | عَدَمُ الشَّفَقَةِ | عَدَمُ الإِحْسَاسِ s. f.

| شَفُوقٌ | ذُو إِحْسَاسٍ a. -voll

رَقِيقُ القَلْبِ

Gegacker s. n. صِيَاحُ الدُّجَاجِ

تَلْتَلَةٌ* | كَثْرَةُ الكَلَامِ

gegen praep. c. acc. (feindlich)

| إِلَى | لِي (freundlich) - | عَلَى | ضِدَّ

- | نَحْوَ (ungefähr) - | نَحْوَ (Richtung) -

| بَدَلًا (anstatt) - | تَقْرِيبًا | نَحْوَ

befehl s. m. | كِفَاءً | عِوَضًا | عَن

besuch - | رُجُوعٌ بِالأَمْرِ | إِبْطَالُ الأَمْرِ

s. m. رَدُّ النِّبَارَةِ

Gegend s. f. جِهَةٌ | نَوَاحٍ pl. نَاحِيَةٌ

أَقْطَارٍ pl. قَطْرٌ | جِهَاتٍ pl.

Gegen-dienst s. m. إِحْسَانٌ مُتَرَدِّدٌ

رَجْعَةٌ فِعْلٌ جِرْمٌ -druck s. m.

| مُرَادَةٌ - bld. | رَدٌّ فِعْلٌ جِرْمٌ

füßler s. m. | مُقَاوَمَةٌ | مُضَادَّةٌ

gewicht - | مُتَقَاطِرُونَ pl. مُتَقَاطِرٌ

إِخْسَافٌ المِيزَانِ* | ثَقْلٌ مُعَدِّلٌ s. n.

-liebe | تَرِيَاقٌ | دِرْبَاقٌ s. n. -gift

-part | نَحَابٌ | حُبٌّ مُتَبَادِلٌ s. f.

حِزْبٌ s. m. | -partei s. f. | خَصْمٌ

-rechnung s. f. | خَصْمٌ | مُضَادَّةٌ

-rede | مَا يَلْتَزِمُ حَذْفُهُ فِي الحِسَابِ

s. f. | -faß s. m. | إِعْتِرَاضٌ | جَوَابٌ

- - einen | تَنَاقُضٌ | تَضَادٌّ | تَخَالُفٌ

| خَالَفَ هـ | ضَادَّ هـ bilden zu

-seite s. f. | مُخَالِفٌ a. -fäglich

| مُبَادِلٌ a. -seitig | الجِهَةُ المُضَادَّةُ

بَعْضًا | مُشْتَرِكٌ | مُتَرَدِّدٌ | مُتَبَادِلٌ

| تَبَادُلٌ s. f. -seitigkeit | لِبَعْضٍ

-stand s. m. | إِشْتِرَاكٌ | تَشَارُكٌ

pl. أَمْرٌ | أَشْيَاءٌ pl. شَيْءٌ (Ding)

pl. مَوْضُوعٌ (Thema) - - | أُمُورٌ

| مَسْأَلَةٌ | مَوَادٌّ pl. مَادَّةٌ | مَوَاضِيَعٌ

-standslos a. | صَدَدٌ* | خُصُوصٌ

| المَنْبِيْلُ لِغَيْرِهِ s. n. -stück | باطل

-teil | الأَخْ لِغَيْرِهِ | النِّظِيرُ لِغَيْرِهِ

- - im | أَضْدَادٌ pl. ضِدٌّ s. n.

| عَلَى وَجْهِ آخَرَ | بِالضِدِّ | بِخِلَافِ ذَلِكَ

-teilig a. | مُخَالِفٌ | -über praep.

| بِجَاهِ | إِزَاءٌ | حِذَاءٌ c. dat. adv.

(Zeit) -wart s. f. | تِلْقَاءٌ | قُبَالَةٌ

(einer) - - | الحَالُ | الوَقْتُ الحَاضِرُ

| حَضْرَةٌ | حَضَرَ | حُضُورٌ (Person)

| ثَبَاتُ الجِنَانِ - - des Geistes

سُرْعَةُ الْعَقْلِ | ثَبَاتُ الرُّوحِ

-wärtig a. حَاضِرٌ | adv. -- (jetzt)

الآن | -wehr | - | fein u حَضَرَ

s. f. دِفَاعٌ | مُقَاوَمَةٌ | مُدَافَعَةٌ

قَاوَمَ | دَافَعَ عَنْ نَفْسِهِ

-wert s. m. كِفَاءٌ | عَدْلُ الشَّيْءِ

-wind s. m. مِضَادَةٌ | رِيحٌ

Gegner s. m. ضِدٌّ pl. اَضْدَادٌ | خَصْمٌ

pl. عَدُوٌّ | اَحْصَامٌ * u. خُصُومٌ

اَعْدَاءٌ | مُخَالَفٌ | مُضَادٌّ a. -ifch

اَعْدَاءٌ | عَدَاوَةٌ s. f. -schaft

مُعَارَضَةٌ | تَقْيِيزٌ

gehaben v., sich u سَلَكَ | gehab

dich wohl! اِسْتَوْدِعْكَ اللّٰهَ

اللّٰهَ | بِحِفْظِ اللّٰهِ

سَلُوكٌ | Gehaben s. n.

Gehalt s. m. u. s. n. (Inhalt)

اِقِيْمَةٌ (Wert) - | مَوَادٌّ | سَعَةٌ

- von Gold اِقِيْمَةُ الذَّهَبِ

اِمْرَتَبٌ * | رَوَاتِبٌ | اُجْرَةٌ (Be-

-soldung) | leer a., -los

a. اَبْرِيءٌ | باطلٌ | لا اِقِيْمَةَ لَهُ

اِثْمِيْنٌ | كَثِيْرٌ اِقِيْمَةٌ

اِقِيْمَةٌ a. -voll

Gehänge s. n. اِحْمَالٌ pl. اِحْمَالَةٌ

اِحْرَصَانٌ pl. اِحْرَصٌ (am Ohr)

اِحْرَصَانٌ pl. اِحْرَصَانٌ (Blumen-)

اِحْمَالٌ مِنْ اَغْصَانٍ مَعَ اَزْهَارٍ

اِحْمَالٌ (Abhang)

مُدْرَعٌ a. geharnischt

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | مُبْغِضٌ a. gehässig

اِحْمَالٌ | صَادِرٌ مِنْ سُوءِ النِّيَّةِ

سُوءٌ | كِرَاهَةٌ | بُغْضٌ s. f. -heit

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

Gehäuse s. n. (einer Uhr, Schnecke)

اِحْمَالٌ (سَاعَةٌ اَوْ اِحْمَالٌ)

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ pl. عُلْبَةٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | قَلْبُ الفَوَاكِهِ

Gehege s. n. اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ (Saum)

اِحْمَالٌ | زَاخَمٌ s. kommen

geheim a. اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ | اِحْمَالٌ

aus etw. machen | كَتَمَ u ه | اُخْفَى ه
 -nisfrämer s. m. | كَاتَمَ الْأُمُورِ بِلا دَاعِ
 -nisfrämerei s. f. | كِتْمَانُ الْأُمُورِ
 | دُوَ أَسْرَارٍ -nisvoll a. | بِلا دَاعِ
 -rat s. m. | مُسْتَشَارِ سِرِّي (لَقَبِ)
 -[schreiber s. m. | كَاتِبِ سِرِّي pl.
 كَاتِبِ | كَتَبَةَ u. كُتَّابِ u. كَاتِبُونَ
 أَرْقَامِ اصطلاحِيَّةِ s. f. | -[schrift | الْأَسْرَارِ
 فِي الْمَكَاتِبَةِ.

Geheiß s. n. | أَوْامِرِ pl. | أَمْرٍ
 sein - بِأَمْرِهِ.

gehen vn. i | مَشَى | zu Fuß
 - a | رَجُلِ | مَشَى | (weggehen)
 a | انْطَلَقَ | انْصَرَفَ | رَاحَ | u | ذَهَبَ a
 i | (Maschine) | تَوَجَّهَ | مَضَى | i
 i | دارِ | gut - | اِسْتَعْلَمَ * | مَشَى | i
 von Statten - (Geschäfte zc.)
 a | وَصَلَ إِلَى (Weg) | نَجَحَ | -
 | (الطَّرِيقِ) | auf (Fenster, Thüren)
 - | in etw. | أَطَّلَ عَلَى | أَشْرَفَ عَلَى
 تاب u إلى - | in sich | تَضَمَّنَ ه
 (ge- | vor sich | اللّهِ فِي ذُنْبِهِ
 schehen) u | جَرَى | i | حَدَّثَ u
 etw. - (übertreffen) | ه | فاق u
 in Stücke - | انْكَسَرَ | es geht um
 das Leben | إِنَّ الْحَيَاةَ لَفِي خَطَرٍ
 unrichtig - (einer Frau) | اسْقَطَ

| أَثَّرَ فِي الْقَلْبِ - zu Herzen | الْجَنِينِ
 etw. - lassen | لَمْ | لَمْ يَمْنَعْ ه
 | قَلَّ | عَزَمَهُ | lassen - | يُخَالِفُ ه
 etw. darauf - lassen | ه | أَسْرَفَ
 | يُمَكِّنَ (ist möglich) | es geht
 | هُوَ مَقْبُولٌ | wie geht es Dir?
 | كَيْفَ صِحَّتِكَ | كَيْفَ حَالِكَ
 | حَالِي بِالْخَيْرِ | geht mir gut.

Geheiß s. n. | حَمَائِلِ pl. | حَمَالَةٍ.

Geheul s. n. | عَوَاءِ | عَوَاعَةٍ.

Gehilfe s. m. | مُسَاعِدِ | مُعَاوِنِ
 | Gehilfin s. f. | أَعْوَانِ pl. | عَوْنِ
 مُسَاعِدَةٍ.

Gehirn s. n. | دِمَاحِ | مَعِّ | (Verstand)
 -los | رَأْسِ s. m. | فَاسْتَنَ | عَقْلِ
 a. | لا عَقْلَ لَهُ | أَبْلَهُ a.

Gehöft s. n. | ضَيْعَةٍ pl. | ضِيَاعِ
 | مَزَارِعِ pl. | مَزْرَعَةٍ * | جَفْتَلِكَ *

Gehölz s. n. | غَابَةِ صَغِيرَةٍ.

Gehör s. n. | حَاسَّةِ السَّمْعِ
 | اِسْتِمَاعِ | سَمَاعِ | السَّمِيعَةِ
 | أَجَابَ bld. | أَصْغَى إِلَيْهِ | geben
 | سِمَاخِ | صِمَاخِ gang - | طَلَبَهُ
 | اِتَّقَادَ لَهُ | اطَاعَ ه | in.
 nicht - | عَصَى | i.

gehören vn. | im. | u | لَهُ | كَانِ
 | zu etw. - | كَانِ مِنْ حَقِّهِ | مُلِكَ

- sich | اِعْتَدَّ بَيْنَ | كان مِنْ عَدَدِهِ
 - für (angemessen sein) | لاقِ بِ |
 gehörig a. jm. | تابِعْ لَهُ |
 كَمَا | لائِقٌ بِهِ | مُتَعَلِّقٌ بِهِ
 كَثِيرًا | جِدًّا | يَلِيْقُ
 Gehörn s. n. | الْقُرُونُ .
 gehorsam a. | خَاضِعٌ | مُمْتَنِلٌ | مُطِيعٌ
 Gehorsam s. m. | اِتِّقِيادٌ | اِطَاعَةٌ
 | اَطَاعَ & | اِمْتَنَلْ |
 -en vn. jm. & | اَطَاعَ .
 Gehülfe s. m. | f. | G_e_h_i_l_f_e .
 Geier s. m. zool. | اَنْسَرٌ | pl. نَسْرٌ
 u. | عِقْبَانٌ | pl. عُقَابٌ | نُسُورٌ u.
 | اَعْقَبَ | zum -!, Hol Dich der -!
 لَعَنَكَ اللهُ .
 Geifer s. m. (der Kinder) | رِبَالٌ |
 -er | مُجَاجٌ (der Greise) - | لُعَابٌ
 s. m. | مَاجٌ | ذُو نَعْرِ مَلْعُوبٌ
 | رال i (Kind) -n vn. | غَضُوبٌ
 | مَجٌّ u (Greis) -n | سال i لُعَابُهُ
 bld. | اَزِيدَ غَضَبًا .
 Geige s. f. | كَمَنْجَةٌ - | (einseitige
 der Beduinen) | رَبَابَةٌ | رَبَابٌ
 -r | ضَرَبَ i بِالْكَمَنْجَةِ -n vn.
 s. m. | الضارِبُ بِالْكَمَنْجَةِ .
 geil a. (üppig wachsend) | زُحُورٌ |
 | دَاعِرٌ (wollüstig) - | ذُو وَحَافَةٍ

| شَهْوَانِيَّةٌ | -heit s. f. | شَبَقٌ |
 تَدَعَّرٌ .

Geißel s. f. | رَهُونٌ u. | رِهَانٌ pl. رَهْنٌ
 | رَهَائِنٌ pl. رَهِيْنٌ .

Geißel s. f. (oder Geißel) | سَوَطٌ pl.
 | مَجَالِدٌ pl. | مُجَلَّدَةٌ | اَسْوَاطٌ u. | سِيَاطٌ
 | قَدٌّ - | مَقَارِعٌ | مَقْرَعَةٌ pl.
 | كِرْبَاجٌ * | قَمِشَّةٌ *
 -n va. | مَضْرَّةٌ | ضَرْبَةٌ مِنْ اللّهِ
 | جَلَدٌ i & | سَاطٌ u & | jn.

Geist s. m. | اَنْفُسٌ | اَرْوَاحٌ pl. رُوحٌ
 (Verstand) | - | اَنْفُسٌ u. | نَفُوسٌ pl.
 (Zibicht) | - | لُبٌّ | ذِهْنٌ | عَقْلٌ | ذَكَاءٌ
 | جِنٌّ (Dämon) - | قَصْدٌ | نِيَّةٌ
 | عَفَارِيْتُ pl. | عَفْرِيْتُ | جِنَّةٌ | جَانٌّ
 die himmlischen, seligen -er
 | الشَّيْطَانُ - | der böse - | المَلَأِيكَةُ
 | der heilige - | christl. | اِلْيَاسُ
 | den - | اَرْوَاحُ الْقُدُسِ
 -erbanner s. m., -erbe-
 | تَوَقَّى |
 schwörer s. m. | اَلْمُدَّعِي بِاِسْتِدْعَاءِ
 | جِنِّيٌّ -erhaft a. | سَاحِرٌ | اَلْمَوْتِيُّ
 | نِصْفُ الْكَيْلِ s. f. | -erstunde | طَيْفِيُّ
 | سَهْوَانٌ | سَاهٍ -esabwesend a.
 | -esabwesenheit s. f. | مَجْنُونٌ | غَافِلٌ
 | -esgegen- | جُنُونٌ | غَفْلَةٌ | سَهْوٌ
 wart s. f. | ثَبَاتٌ | ثَبَاتُ الْجَنَانِ

Gelatine f. Gallerte.

geläufig a. كَرَجًا | سَرِيْع | سَهْل |

-feit s. f. سُرْعَة | سُهولة.

Geläut, Geläute s. n. صَوْت جَرَس

الْكَنِيسَة الخ

gelb a. صُفْر | صُفْرَاء pl. صُفْرَاء f. أَصْفَر

- werden das - e | اصْفَارًا | اصْفَرَّ

fieber حُمَى يَصْفَرُّ بِهَا جِدُّ

ذَهَب - e s. n. (des Eis) | البَدَن

-gießer s. m. | صَفَارًا * | مَحَّ | البَيْض

مُصْفَرَّ a. -lich | سَبَّكَ فِي نَحَاس

-[chnabel s. m. | مُشْرَب الصُّفْرَة

إِنْسَان صَغِير السِّنِّ غَيْرَ خَبِير

يَرْقَان | صَفِيرَاء * | صَفْر -[ucht s. f.

مُبْتَلَى بِالصَّفْر. -[üchtig a. | أَبُو صَفَار

مَيْرُوق | قُرَه pl. قُرَهَاء f. أَقْرَه

-wurz s. m. bot. كُرْكُم.

Geld s. n. نَقُود pl. نَقْد | مال

(pl. von دَرَاهِم | سِكِّك pl. سِكَّة

| (فَلْس pl. von فُلُوس * | دِرْهَم

gambares - | نَقْد - bares

نَقُود جَارِيَة | نَقُود رَائِجَة | مُعَامَلَة *

الْقَطْع | فُرَاطَة * | فُرْط * - kleines

الكُسُور مِن النُّقُود | من النُّقُود

نَقُود | نَقُود مُزَوَّرَة - falsches

بَاع ه i - machen zu - | مَرْغُولَة *

-beutel s. m., -börse s. f., -faße

s. f. كَيْسِ الْفُلُوس | كَيْسِ الدَّرَاهِم

- (am Gürtel befestigt) هَمِيَان

pl. هَمَائِيْن | -buße s. f. دِيَة pl.

-eswert | جَزَاء نَقْدِي * | دِيَات

s. m. | قِيَمَة الدَّرَاهِم -flemme

s. f., -mangel s. m. عَدَم الدَّرَاهِم

-fact s. m. كَيْسِ | قِلَّة الدَّرَاهِم

غِنَاء (Reichtum) bld. | الْفُلُوس *

رَجُلٌ غَنِيٌّ (reicher Mann)

-[stolz a. | مُتَكَبِّرٌ بِمَالِهِ -[stolz s. m.

-[strafe s. f. | -buße | تَكَبَّرَ بِمَالِهِ

-[stück s. n. نَقْد pl. نَقُود

pl. | مَسْكُوكَة * | سِكِّك

s. f. | مَبَالِغ pl. مَبَالِغ الدَّرَاهِم

-wechsler s. m. | صَرَاف pl. صَيَارِفَة

. بَنِيْكِر *

عَصِيْرٌ مُجَمَّدٌ مِنَ الْفَوَاكِه s. n. Gelee

رُبَّ.

gelegen a. an einem Ort واقع في

(passend) - | كَائِنٌ فِي | مَحَلِّ

adv. -, zu -er | مُوَافِقٌ | مُنَاسِبٌ

Zeit - | es ist ihm daran - | فِي وَقْتِهِ

-heit s. f. | يُبَالِي بِهِ | يَهْمُهُ ذَلِكَ

pl. | فُرْص pl. فُرْصَة - eines Hauses

- - geben zu etw. | مَحَلِّ فِي الدَّار

أَوْجَبَ ه | فَتَحَ a | بَابًا | سَبَّبَ ه

die - - benutzen, ergreifen, wahr-

صَات -en vn. u | حَادَّ الصَّوْت |
طَن | كَوَى | أَصَات

geloben va. jm. etw. | وَعَدَ a ه ب |
Gott etw. - | نَذَرَ u ه | عَلَى نَفْسِهِ - |
Gelöbniß s. n. (zu | اِنْتَذَرَ ه |
Gott) | نَذَرَ pl. | نَذُور - (Ver-
sprechen) | وَعَدَ

Gelock s. n. | شَعَرَ | شَعْرٌ مُزْرَفَن |
مُعَكَّسٌ

gelt! interject. | هَلَّا حَقًّا

gelten vn. (Person) | لَهُ | لَهُ شَأْنٌ |
لَهُ قِيَمَةٌ (Sache) - | لَهُ مَزَايَا | قَدَّرَ |
| سَاوَى | سَوَى a | لَهُ ثَمَنٌ |
- (Münze) u | رَاجَ - | für etw. - |
| اُعْتَبِرَ فِي | اِحْتَسِبَ فِي | اُعَدَّ فِي |
| فاق u ه - | mehr als etw. - |
| اَفْضَلَ عَلَى | seine Rechte -d machen |
| اَبَانَ حُقُوقَهُ | sich -d machen |
| اِفْتَحَرَ | اَبَانَ شَأْنَهُ | Geltung s. f. |
| اِعْتَبَارًا | قَدَّرَ | قِيَمَةٌ

Gelübde s. n. | نَذَرَ pl. | نَذُور | ein
- thun, ablegen u | نَذَرَ

Geliüst s. n. (Wunsch) | تَمَنَّى | رَغِبَةٌ |
| شَهَوَات pl. | شَهْوَةٌ | اِشْتِهَاءٌ |
- einer Schwangeren | وِحَام -en |
vn. nach | اِشْتَهَى ه | رَغِبَ a فِي

-en s. n | تَمَنَّى ه | طَمِعَ a فِي |
f. Geliüst.

gemach adv. | مَهْلًا | عَلَى مَهْلٍ |
| بِنْتَانٍ | رُوَيْدًا

Gemach s. n. | حُجْرَةٌ pl. | حُجْرٌ |
| مَخَادِع pl. | أَوْضَات pl. | أَوْضَةٌ * |
| مَخَادِع pl. | أَوْضٌ | أَوْضٌ * |
| das heimliche - |
| مُسْتَرَاخ | يَيْتِ الأَدَب

gemächlich a. (langsam) | مُتَنَّانٍ |
| سَهْلٌ (bequem) - | مُتَمَهِّلٌ |
| هَوْنٌ | سُهُولَةٌ s. f. - | هَيِّنٌ |
| رَاحَةٌ | تَنَانٍ | هَيِّنَةٌ

Gemahl s. m. | بَعْلٌ pl. | بُعُولٌ |
| رُوجٌ | زَوْجٌ |
| اِبْنُ العَمِّ | أَزْوَاج pl. |
| قَرِيْنَةٌ | زَوْجَات pl. | زَوْجَةٌ |
| بِنْتُ العَمِّ * | قَرَائِن pl.

gemahnen va. jm. an | ذَكَرَ ه ه |
| فَكَرَ ه فِي | نَبَّهَ ه عَلَى أَوْ إِلَى

Gemälde s. n. | صُورَةٌ pl. | صُورٌ |
| تَصَاوِير pl. | تَصْوِيرٌ

Gemarkung s. f. | حُدُودٌ

gemäß a. | مُطَابِقٌ | مُوَافِقٌ | praep.
| طِبْقًا | بِحَسَبِ ... | c. dat. ... |
| بِمُوجِبِ ... | بِمُقْتَضَى ... |
| مُطَابِقَةٌ | مُوَافِقَةٌ s. f. -heit | in
- - einer Sache gen. | f. gemäß |
-igt a. | مُعْتَدِلٌ | f. mäßigen.

Gemäuer s. n. حائط pl. حيطان |
 جُدْر pl. جُدْر.
 gemein a. (allgemein) عُمُومِيّ | عامّ
 - (mehreren gemeinsam) مُشْتَرِك
 - (weit verbreitet) كَثِير الوجود (weit verbreitet)
 | مُعْتَاد (gewöhnlich) - | غَزِير
 | اِعْتِيَادِيّ (niedrig, gewöhnlich) - |
 | دَارِج * | مُتَدَاوِل | جَار | مَطْرُوق
 | خَبِيث (niedriger Mensch) - |
 | mit | أَنْفَار pl. نَفَر Soldier -
 | im. -e Sache machen | شَارِك *
 | -de s. f., -e s. f. جَمْعِيَّة سِيَاسِيَّة
 | جَمَاعَة | جَمْعِيَّات pl. أَوْ دِينِيَّة
 | أَهْل بَلَد | طَائِفَة | جَمَاعَات pl.
 | عَضْو | مَجْلِس بَلَدِيّ derat s. m.
 | -deschule s. f. | مَجْلِس بَلَدِيّ
 | مَدْرَسَة بَلَدِيَّة | مَدْرَسَة اِبْتِدَائِيَّة
 | -devorsteher s. m. | مَجْلِس
 | شَيْخ البَلَد | رُؤَسَاء pl. بَلَدِيّ
 | -e s. f. | f. Gemeinde | -faßlich a.
 | خَطِر | -gefährlich a. | مَفْهُوم للعامّ
 | -gefühl s. n., -geist s. m. | للعامّ
 | -gültig a. | مَيْل إِلَى خَيْر العامّ
 | -gut | جَارٍ عُمُومًا | مَقْبُول عُمُومًا
 | s. n. | مَلِك العامّ | مال العامّ s. n.
 | -heit s. f. | رُدَالَات pl. رُدَالَة | دَنَاءَة
 | -hin adv., -iglich adv. | عَادَة

| غَالِبًا | بِحَسَب العَادَة | عَادِيًّا
 | نَافِع للعامّ | -nützig a., -nützlich a.
 | مَنفَعَة العامّ | -nützigkeit s. f.
 | عِبَارَة | عِبَارَة عَامِيَّة | -platz s. m.
 | -fam a. | عِبَارَة مَطْرُوقَة | دَارِجَة *
 | سَوَاء * | مَعَا adv. | مُشْتَرِك
 | اِجْمَاع s. f. | -famkeit s. f. | سَوِيَّة *
 | اِسْتِشْرَاك der Güter - - | اِتِّفَاق
 | مُضِرّ a. | -schädlich | في الأَمْوَال
 | -schaft s. f. (von Personen) | للعامّ
 | -- (von Sachen) | جَمَاعَة | جَمْعِيَّة
 | f. | -famkeit | -schaftlich a. f. | -fam |
 | -sinn s. m. f. | -geist | -verständlich
 | lich a. f. | -faßlich | -wesen s. n.
 | مَمَالِك pl. مَمْلَكَة | دُول pl. دَوْلَة
 | الخَيْر s. n. | -wohl | جُمهُورِيَّة *
 | العامّ.

Gemenge s. n., Gemengsel s. n.

مِزَاج | اِخْتِلَاط | خِلْط

gemessen a. | مُدَقِّق | صَرِيح | messen |
 | -heit s. f. | دَقِّيق | دِقَّة

Gemengsel s. n. | ذَنْج | قَتْل

Gemisch s. n. | اِخْتِلَاط | خِلْط

Gemme s. f. | نَوْع مِنَ الجَوَاهِر

Gemse s. f. | وُعُول u. أَوْعَال pl. وُعَل

Gemüll s. n. | رُدُوم pl. رُدْم | خَرْبَة

pl. أَنْقَاضٍ | نَقْضٌ | خِرَابٌ pl. u.
نُقُوضُ.

Gemurmel s. n., Gemurre s. n.
مَرْمَرَةٌ | تَذَمَّرُ.

Gemüs, Gemüse s. n. خُضْرَةٌ pl.
| بُقُولٌ pl. | بَقْلٌ | أَغ. خُضَارٌ* | خُضْرٌ
| خَضَّارٌ | بَقَّالٌ s. m. -händler
خُضْرَجِيٌّ | خُضْرِيٌّ*.

Gemüt s. n. خَاوِطِرٌ pl. | خُلُقٌ | خَوَاطِرٌ pl.
| قَلْبٌ | ضَمِيرٌ | طِبَاعٌ pl. طَبْعٌ
| نَفْسٌ | sich etw. zu -e führen
| نَفْسِهِ | اتَّخَذَهُ | sich etw. zu -e
| حَزِنَ عَلَى | تَأَسَّفَ عَلَى ziehen
| لَطِيفٌ | سَهْلُ الطَّبْعِ a. -lich
| سُهُولَةُ الطَّبْعِ s. f. -lichkeit
| -sart | عَادِمُ الْمَيْلِ a. -los | لَطَافَةٌ
s. f. | -sbewegung s. f. | طَبْعٌ | خُلُقٌ s. f.
| -sfrank a. | تَأَثَّرَ | إِضْطِرَابٌ
| -sfrankheit s. f. | سَوْدَاءٌ | -sfrankheit
-slage s. f., -sstimmung s. f.,
-sverfassung s. f., -szustand s. m.,

حَالُ الْخَاوِطِرِ | حَالُ النَّفْسِ

gen praep. نَحْوُ.

genähsig a. | شَرِهٌ عَلَى لَذِيذِ الْأَطْعِمَةِ a.
لُحُوسٌ | لَأْسٌ.

genau a. (Sache) | مُدَقَّقٌ* | مُضَبَّوْطٌ*
| مُدَقَّقٌ (Person) | - | مُحَكَّمٌ | مُتَّقِنٌ

| مُوَقَّرٌ* (sparsam) - | مُحَكَّمٌ | مُتَّقِنٌ
| قَلْبِيٌّ | كَخَيْلٍ | بَاطِنٌ (intim) -
| صَدِيقٌ | صَدِيقٌ صَادِقٌ -er Freund
| تَمَامًا | بَدِيقَةٌ - adv. | مُخْلِصٌ
| تَدْقِيقٌ | دِقَّةٌ s. f. -igkeit | بِالتَّمَامِ
| ضَبْطٌ* | إِحْكَامٌ | إِتْقَانٌ (Sparsam-
feit) * تَوْفِيرٌ.

Gendarm s. m. ضَابِطِيَّةٌ pl. ضَابِطِيٌّ*
-erie s. f. الضَابِطِيَّةُ.

Genealogie s. f. نَسَبٌ | سِلْسِلَةٌ
| نَسَبِيٌّ | نَسَبٌ | genealogisch a. | النَسَبِ
تَسْلُسُلِيٌّ.

genehm a. | مَقْبُولٌ | -igen va. etw.
| قَبِلَ | هِ ا. | رَضِيَ ا. ب
s. f. | رِضَاءٌ | قَبُولٌ.

geneigt a. | مَائِلٌ إِلَى | zu etw. | -im.
| عَاطِفٌ لَهُ | حَسَنُ الْأَلْتِفَاتِ إِلَى
| مَالٌ إِلَى | -i | لَطِيفٌ لَهُ | -sein zu
-heit s. f. | سَطْحٌ مُنْحَدِرٌ | -e Ebene
عَاطِفَةٌ | تَصَرَّفَ | مَيْلٌ.

general (in Zusammensetzungen)

3. B. | عُمُومِيٌّ | عَامٌّ (في التَّرْكِيبَاتِ)
| الْمَجْلِسُ الْعَامُّ | -versammlung

General s. m. قَائِدٌ عَسْكَرِيٌّ pl.
| جِنْرَالِيَّةٌ pl. | جِنْرَالٌ* | قَوَادٍ
| -feldmarschall s. m. | مُشِيرٌ | تُورِكِيٌّ
| -isieren va. etw. | سِرْدَارٌ*

Genugthuung s. f. تَكْفِير | تَعْوِيز |
 إِرْضَاء | إِيفَاء | وِفَاء | إِسْتِغْفَار
 jm. - geben لَهُ | كَفَّرَ لَهُ |
 ۛ | أَوْفَى ۛ | von jm. - fordern
 ۛ | أَرْضَى ۛ | sich - ver-
 schaffen حَقَّهُ | تَطَلَّبَ حَقَّهُ مِنْهُ
 إِسْتَوْفَى حَقَّهُ.

Genuß s. m. (einer Sache) تَمَتَّعَ بِ
 - | تَنَاوَلَ الطَّعَامَ (der Speisen)
 - | تَنَعَّمَ | سُرُورَ (Vergnügen)
 - | لَذَاتٍ pl. لذات s. m.
 - | رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي اللذَاتِ
 s. f. | طَمَعٌ فِي اللذَاتِ a.
 طامعٌ فِي اللذَاتِ.

Geograph s. m. | جُغْرَافِيٌّ *
 | جُغْرَافِيَّةٌ * | ie s. f. | بِالْجُغْرَافِيَّةِ *
 | مُتَعَلِّقٌ | جُغْرَافِيٌّ * |
 | بِالْجُغْرَافِيَّةِ *.

Geologie s. f. | جِيُولُوجِيَا *
 | هَيْئَةُ الأَرْضِ وَمُرَكَّبَاتِهَا
 | مُتَعَلِّقٌ بِعِلْمِ الجِيُولُوجِيَا *.

Geometer s. m. | مُهَنْدِسٌ
 | مَسَاحَةٌ | Geometrie s. f.
 | هَنْدَسِيٌّ | geometrisch a. | هَنْدَسَةٌ.

Georg n. pr. | جِرْجِيْسٌ * |
 | الجِخْر | جِرْجِيٌّ *.

Georgien n. pr. | كُرْجٌ | Georgier s. m.
 | كُرْجِيٌّ | georgisch a. | رَجُلٌ كُرْجِيٌّ.

Gepäck s. n. | أَمْتَعَةٌ * |
 - | مَكَلَّ العَفْشِ * |
 - | تَقْتِيْشِ العَفْشِ * |
 - | تَذْكِرَةُ العَفْشِ * |
 | وَرَقَةُ العَفْشِ * |
 | شَيَالٌ | s. m.

Gepflogenheit s. f. | عَادَاتٌ pl. عَادَاتُ
 | عَوَائِدُ u.

Gepolter s. m. | مُحَادَثَةٌ |

Gepolter s. n. | جَلْبَةٌ |

Gepräge s. n. | طَبْعٌ.

Gepränge s. n. | أَهْوَةٌ |
 | عَظْمَةٌ.

Geprassel s. n. | ضَجَّةٌ |

gerade a. | مُسْتَقِيمٌ |

der - Weg bild. | مُعْتَدِلٌ |

eine | طَرِيقُ الهُدَى |

عددٌ يَنْقَسِمُ عَلَى أَنْيُنِ سَاهٍ -

adv. | مُسْتَقِيمٌ | عادل (Person) -

- (eben) die Sache 2c. ذات

-s Wegs, - aus, - zu

- heraus, | دُغْرِيٌّ * | تَوَا | رَأْسًا

- nach - | بِلا تَكْلِيْفٍ * |

Geradheit s. f., Gerad-

sinu s. m. | إِسْتِقَامَةٌ |

gerad- | عَدَلٌ |

linig a. | مُسْتَقِيمٌ الخُطُوطِ.

- Geranium s. n. bot. **إِبْرَةِ الرَّاعِي** | **دَبَّع** |
غَرَانِيُون *
 Gerassel s. n. **طَوْشَةَ** * | **دَوِي** | **ضَجَّة** |
 - (von Schlüsseln) **قَلَقَلَة**.
 Gerät s. n. **آلة** pl. **آلات** | **أدَاة** pl.
أَثَات (des Hauses) - | **أَدَوَات**
 pl. **جِهَاز الدَار** | **أَثَاتَات** pl.
 geraten vn. in **ا** **وَقَعَ** **فِي** -, wohl-
 a **نَجَح** | in (Pflanze) **نَمَى** i - |
 Brand - **اِشْتَعَلَ** | **اِحْتَرَق** -
 Verlegenheit - **تَحَيَّر** | in Ver-
 gessenheit - **ذُكْرَة** u **فَات** | an
 einander -, einander in die
 Haare - **تَشَاجَرَ** | **تَوَاقَعَ** -
 geraten a. **مُؤَافِق** | **مُنَاسِب** | **مُفِيد** | **نَافِع** a.
 Geratwohl s. n., auf das -
عَلَى | **بِلا تَبَصَّر** **ولا قَصَد** | **عَرَضًا**
التَّقْدِير.
 Gerätschaft s. f. f. Gerät.
 geraum a., -e **مُدَّة طَوِيلَة** **زَيت**.
 geräumig a. **مُتَسِع** | **رَحْب** | **وَاسِع** |
رُحْب | **اِتِّسَاع** | **سَعَة** s. f. -
رَحَابَة.
 Geräusch s. n. **جَلْبَة** | **دَوِي** | **ضَجَّة** |
 -los | **طَوْشَة** * | **أَصْوَات** pl. **صَوْت**
 a. **بِلا ضَجَّة** | **بِلا صَوْت** a.
مُضِج | **ضَجَاج**.
- gerben va. **اَلْجِلْد** i, u **دَبَّع** |
 Gerber s. m. **دَبَّاع** | Gerberei s. f.
مَدْبَعَة (Ort) - | **دِبَاعَة** (Handwerk)
 pl. **مَدَابِغ** | Gerberlohe s. f. **عِطَان** |
قِشْر البَلُوط **مَسْحُوق** **للدَبَّع**
 stoff s. m. **دِبَاع** | **دَبَّع**.
 gerecht a. (Person) **عَادِل** | **مُنْصِف** |
مُطَابِق | **عَدْل** (Sache) - | **مُسْتَوِي**
عَدْل s. f. -igkeit | **صَوَابِي** | **العَدْل**
 (Vorrecht) - - | **اِنْصَاف** | **عَدَالَة**
 (Gesamtheit der Richter) - - | **اِمْتِيَاذ**
 - - **اَلْقَضَاة** | **اَلْحُكَّام** (üben,
 handhaben i **عَدْل** | **اَنْصَف** | **اَنْصَف** |
 - - widerfahren lassen * **اَنْصَف** |
 -same s. f. **اِحْكَم** u **لَهُ** **بِالعَدْل**
حُقُوق pl. **حَقَّ شَرْعِي** | **اِمْتِيَاذ**.
 Gerede s. n. **كَلَام** **بَاطِل** | **كَلَام**.
 gereichen vn. zu **لِ** u **صَلَحَ**.
 Gereiztheit s. f. **حِدَّة** | **طُلُوع الخُلُق**.
 gereuen va. in., seine That gereut
 ihn **عَمِلِهِ** **عَلَى** a **نَدِم**.
 Gericht s. n. **مَحْكَمَة** pl. **مَحَاكِم** |
مَجَالِس pl. **مَجَالِس** | das jüngste -
يَوْم الدِين - halten, zu - sitzen
 über in. **اَوْ** **عَلَيْهِ** u **لَهُ** | **اِحْكَم**
اَشْكَال pl. **شَكْل الطَّعَام** (Speise) -
اِحْكَمِي | **اَشْرَعِي** | **اِقْضَائِي** a. -lich

Gerichtsbarkeit - | مَفْعُول بِأَمْرِ الْقَاضِي

s. f., -bezirk s. m. | حُكُومَةٌ | حُكْمُ

-bote | تَصَرَّفَ | تَوَلَّى | وِلَايَةٌ | إِيَالَةٌ

s. m., -diener s. m. | رَسُولٌ

ضَابِطٌ | مَرْسَلٌ | الْمَحْكَمَةُ | الْمَحْكَمَةُ

-handel | ضَبَّاطٌ | pl. الْمَحْكَمَةُ*

| دَعَاوَى u. دَعَاوٍ pl. دَعَاوَى s. m.

-shof s. m. | مَحْكَمَةٌ | -srat s. m.

| مُسْتَشَارُ الْمَحْكَمَةِ (لَقَب) (Titel)

| كَاتِبُ الدَّعَاوَى s. m. | -schreiber

s. m. | صَنَّكَ | مُسَجِّلٌ

| -sbarkeit | -stand | -bezirk s. f.

| صَاحِبُ الْعِقَابِ s. m. | -vollzieher

| شَرَطِي | شَرَطِي*

gerieben a. مَكَارٍ | reiben.

gering a. صَغِيرٌ | يَسِيرٌ | قَلِيلٌ

| لا أَدْنَى شَيْءٍ -ste nicht das | دَنِيءٌ

| اِحْتَقَرَهُ & اِحْتَقَرَهُ | -achten, schätzen

| اِحْتِقَارٌ s. f. | -achtung | اسْتَحْفَافٌ

| اِعْدَامُ الْأَهْمِيَّةِ a. | -fügig | اسْتِحْفَافٌ

| اِعْدَمُ الْأَهْمِيَّةِ s. f. | -fügigkeit

| مُسْتَحْفَفٌ | مُحْتَقِرٌ a. | -schätzig

| -schätzigkeit s. f., -schätzung s. f.

| اسْتِحْفَافٌ | اِحْتِقَارٌ.

gerinnen vn. u. جَمَدٌ | تَجَبَّنَ | رَابٌ

Gerippe s. n. | هَيْكَلُ الْعِظَامِ

ألواح eines Schiffes | العِظَامُ
مَرْكَبٌ.

Germane s. m. | جِرْمَانِيٌّ pl.

جِرْمَانِيَّوْنَ.

gern, gerne adv. | عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ

| بِطَيْبَةِ الْخَاطِرِ | بِحُسْنِ الرِّضَى

رِضًا | - od. ungerne | سَمِعًا وَطَاعَةً

شَاءَ أَمْ | طَوْعًا أَوْ كَرْهًا | أَوْ قَسْرًا

مُدَّعٍ بِمَا لَيْسَ | -groß s. m. | أَبِي

مُعْجَبٌ بِنَفْسِهِ | فِيهِ.

Geröchel s. n. | شَهِيْقٌ.

Geröll s. n. | وَعْرٌ (Stein-) | رَكَمٌ

هَيَارٌ.

Gerste s. f. | شَعِيرٌ | -nform s. n.

| غَدِيدَةٌ فِي طَرْفِ الْعَيْنِ | شَعِيرَةٌ

| بِيْرَةٌ* | -nfaft s. m. | شَحْلَا الْعَيْنِ

| بِيْرَةٌ* | بُدُوْرَاتٌ* | -ntrauf s. m.

| -nzucker s. m. | مَعْجُونٌ مَرْكَبٌ مِّنْ

سُكَّرٍ وَمَاءِ الشَّعِيرِ.

Gerste s. f. | قُضْبَانٌ pl. | قُضْبٌ

| حَاسَّةُ الشَّمِّ (Sinn) | Geruch s. m.

| - (der Blumen zc.) | الشَّامَّةُ

| im -e stehen | رَوَائِحٌ pl. | رَائِحَةٌ

| اِعْدَامُ الرَّائِحَةِ a. | -los | لَهُ صِيْتٌ

| -losigkeit s. f. | اِعْدَمُ الرَّائِحَةِ.

Gerücht s. n. | صِيْتٌ | سَمْعَةٌ | es

geht das - i شَاعٌ.

nicht recht - | مَجْنُون | -heit s. f.
شَطَارَةٌ | عَقْل.

Geschenk s. n. هَدِيَّة pl. هَدَايَا |
مَوَاهِب pl. مَوْهَبَةٌ | هِبَات pl. هِبَةٌ
-geber | بَخَاشِيش pl. بَخْشِيش *
s. m. مُعْطَى | -nehmer s. m. مُعْطٍ.

Geschichte s. f. (Erzählung) حِكَايَةٌ |
قِصَص pl. قِصَصَةٌ | حِكَايَات pl.
(Geschichts- | رَوَايَات pl. رَوَايَةٌ
kunde, Reihe von Begebenheiten)
pl. حَدِيث | تَوَارِيخ pl. تَارِيخ
-nbuch | أَخْبَار pl. خَبْر | أَحَادِيث
s. n. كِتَابِ الحِكَايَات | geschichtlich
a. تَارِيخِي | Geschichtsbuch s. n.
Geschichtsforscher | كِتَابِ تَارِيخِي
s. m., Geschichtsschreiber مُوَرِّخ
Geschichtswerk s. n. | مُوَرِّخُونَ pl.
كِتَابِ تَارِيخِي.

Geschick s. n. (Schicksal) قَدْرُ اللّٰهِ |
حِظٌّ | نَصِيب | مُقَدَّر | تَقْدِير
| مَهَارَةٌ (Geschicklichkeit) - | قِسْمَةٌ
| مُوَافَقَةٌ (Brauchbarkeit) - | شَطَارَةٌ *
- | etw. ins | مُنَاسَبَةٌ | مطابقة
- | أَصْلَحُ ه | مَهْدُ ه | bringen
| حَذَاقَةٌ | شَطَارَةٌ * | مَهَارَةٌ |
-t a. (Person) | خِفَّةُ اليَدِ * | صِنَاعَةٌ
| حَاقِقٌ | شَاطِرٌ * | مَاهِرٌ

| مُنَاسِبٌ لِ (Sache) | اليَدِ *
- | مُوَافِقٌ لِ | -heit s. f. | -lichkeit.

Geschirr s. n. (Gefäß) آنِيَةٌ pl. إِنَاءٌ |
- | أَوْعِيَةٌ pl. وِعَاءٌ | أَوَانٍ u.
| جِهَازِ الفَرَسِ (Pferde) |
طَعْمِ الفَرَسِ *.

Geschlecht s. n. أَجْنَاسٌ pl. جِنْسٌ |
أَصْنَافٌ pl. صِنْفٌ | أَنْوَاعٌ pl. نَوْعٌ
| das | الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ -er beide
| النِّسَاءِ - | schöne, andere, schwache
| الجِنْسِ | Das - der Menschen
(familie) | - | الأَنَامِ | البَشَرِ | البَشَرِيّ
| ذَرَارِيّ pl. ذُرِّيَّةٌ | بَنُونَ | آل
- | أَنْسَالٌ pl. نَسْلٌ | سُلَالَةٌ
شَرَفٌ s. m. | -sadel | جِنْسِيّ a.
| تنَاسُلٌ s. f. | -sfolge | النِّسَبِ
-sglied s. n., -sorgan s. n. | تَوَلَّدَ
| سِلْسِلَةٌ s. n. | -sregister | -steile f.
| سِنٌّ | بُلُوغٌ s. f. | -sreihe | النِّسَبِ
| أَعْضَاءٌ s. pl. | -steile | الرُّشْدِ
| التَّنَاسُلِ s. m. | -strieb | مَيْلٌ
| طَبِيعِيٌّ إِلَى التَّنَاسُلِ | -swort
s. n. gr. | حَرْفِ التَّعْرِيفِ.

Geschlinge s. n. | مِعْلَاقٌ | التَّنِيفِ.

Geschluchze s. n. | شَهِيْقٌ.

Geschmack s. m. | ذَوْقٌ | - (von
| طَعْمٌ pl. طَعْمَةٌ (Speisen) | guter -

اِرْبَابَةٌ (Gefallen) - | ذُوقٌ سَلِيمٌ
 اِرْبَابٌ فِي a - | مَيْلٌ an etw.
 اِرْبَابٌ (Art u. Weise) - | مالٌ i إِلَى
 اِرْبَابٌ | تَفَهُ a. - | طَرُزٌ
 اِرْبَابٌ s. f. | تَفَهُ - | وَاِمْلَاحَةٌ
 اِرْبَابٌ a. - | عَدَمٌ الدَّدَةُ وَاِمْلَاحَةٌ
 اِرْبَابٌ a. - | مُخَالِفٌ widrig - | ذُوقٌ سَلِيمٌ
 الذُّوقُ السَّلِيمُ.

Geschmeide s. n. جَوَاهِرٌ pl.

geschmeidig a. غَيْدَاءٌ f. اَغْيَادٌ | رَحُصٌ

pl. اَغْيَادٌ | لَيْسَ | اَمْدٌ pl.

Feit - | لَيْسَ | اَلْاِخْلَاقُ - | مُدٌ

s. f. لَيْسَ | اَغْيَادٌ | رِخَاصَةٌ

Geschmeiß s. n. اَسَافِلٌ | زِبُلٌ

اَوْبَاشُ | اَلنَّاسُ | اَلْقَوْمُ

Geschmiere s. n. خَرْبَشَةٌ *

Geschöpf s. n. خَلَائِقٌ pl.

pl. كَوَائِنٌ u. كَائِنَاتٌ pl.

اَلْمَخْلُوقَاتُ - e

Geschloß s. n. مِرْمَاةٌ | مَرَامٌ pl.

pl. نِبَالٌ | نَبْلٌ | سِهَامٌ pl.

pl. طَبَقَةٌ | اَلدَّارُ (Stoßwerk)

اَدْوَارٌ pl. دَوْرٌ * | طَبَقَاتٌ

Geschrei s. n. صَرْخَةٌ | صُرَاخٌ | صِيَاحٌ

(Freuden-) - | صَبْحَةٌ (Ärm) - | عِيَابٌ

(der Frauen) - | تَهْتَلٌ | رَجُلٌ

pl. زَلَاغِيطٌ | زَلْفَةٌ (im Orient)

pl. وَاِلْوَالٌ (Klage-) - | وَاِلْوَالَةٌ

ein - erheben, (Kriegs-) | وَاِلْوَالَةٌ

ausstoßen a | صَرْخٌ | ins -

kommen | حُسْنُ الصِّيْتِ a | خَسِرٌ

Geschreibsel s. n. خَرْبَشَةٌ *

Geschütz s. n. مِدْفَعٌ pl.

Geschwader s. n. (von Reitern)

pl. كَتَائِبٌ | جَمَاعَةٌ خَيَالَةٌ

(von Schiffen) | عَمَارَةٌ -

pl. اَسَاطِيْلٌ * | دُونَنَمَةٌ

Geschwätz s. n. كَثْرَةٌ | اَلْكَلَامُ

pl. تَلَاتِلٌ | تَلْتَلَةٌ *

pl. اَلْاِخْلَاقُ | اَلْكَلَامُ | وَاِلْوَالَةٌ

pl. اَلْكَلَامُ | وَاِلْوَالَةٌ | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

pl. اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى | اَلْمَعْنَى

- gericht s. n. مَجْلِسٌ هَوْلَاءُ | الحُكَّامُ.
- Geschwulst s. m. u. s. f., Geschwür s. n. دَمَامِلٌ pl. | أَوْرَامٌ pl. وَرَمٌ s. n.
- gesegnet va. etw. بَارَكْ | das Seitliche - نُوقِيّ.
- Gesell s. m., Geselle s. m. رَفِيقٌ pl. | رُفَقَاءٌ (im Handwerk) - | رَصِيفٌ | حُرَفَاءٌ pl. حَرِيفٌ va. jm. zu jm. اَصْحَبَ ه ه | سِخٌ | رَافِقٌ ه | صَاحِبٌ ه | zu jm. - | حَسَنٌ | أَنِيسٌ a. -ig | شَارَكَ ه | -igkeit | مُحِبُّ المَعَاشِرَةِ | المَعَاشِرَةُ | حُسْنُ المَعَاشِرَةِ | المَعَاشِرَةُ | اُنْسٌ s. f. -schaft s. f. (Vereinigung von Personen) | جَمَاعَةٌ | جَمْعِيَّةٌ (Handels- -) | شَرِكَةٌ | شَرِكَةٌ (-) | الهَيْئَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ (allgemein) | مُخَالَطَةٌ | مُعَاشِرَةٌ (Umgang) - - | صَاحِبٌ ه | leisten - - | رِفْقَةٌ | رَافِقٌ ه | شَرِيكَ comm. - - | رُفَقَاءٌ | مُخْتَصِرٌ a. -schaftlich | شُرَكَاءٌ | -schaftsanzug s. m. ثِيَابٌ رَسْمِيَّةٌ | -schaftsordnung s. f. نِظَامُ الهَيْئَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ.
- Gesetz s. n. * قَوَانِينٌ pl. | قَوَانِينٌ | شَرْعٌ | فُرُوضٌ pl. | فَرَضٌ | نِظَامٌ | شَرْيَعَةٌ | Mann des -es pl. | مُجْمُوعٌ s. n. | -buch s. n. | مُفْتٍ | فُقَهَاءٌ | شارِع s. m. | -geber s. m. | الشَّرَائِعُ | -gebung s. f. | وَاضِعُ القَوَانِينِ | شَرْعٌ pl. | وَضَعُ القَوَانِينِ | اِسْتِرَاعٌ s. f. | -lichkeit a. | شَرْعِيٌّ | شَرْعِيَّةٌ s. f. | صِحَّةٌ شَرْعِيَّةٌ | مَشْرُوعِيَّةٌ s. f. | -los a. | فَوْضُوِيٌّ | -losigkeit s. f. | -mäßig a. | فَوْضُوِيَّةٌ | عَدَمُ الحُكْمِ | -lichkeit | -mäßigkeit | -lichkeit.
- gesetzt a. | وَقَرٌ | وَقَرٌ | رَزِينٌ - conjct., | - daß | فَرَضْنَا أَنْ | فَرَضْنَا أَنْ | -heit s. f. | وَقَارٌ | رَزَانَةٌ.
- gesetzwidrig a. | غَيْرُ شَرْعِيٌّ | مخالف | مُخَالَفَةٌ s. f. | القَانُونِ | القَوَانِينِ.
- Gesicht s. n. (Sinn des -s) حَاسَّةٌ | البَصَرُ | etw. zu - bekommen | رَأَى a ه | etw. aus dem - verlieren | غَابَ i الشَّيْءُ عَنِ البَصَرِ | u. | وَجُوهُ pl. | وَجْهٌ (Ungesicht) - | مَنظَرٌ bld. | ظَاهِرُ الوَجْهِ | أَوْجُهُ | ein langes Gesicht machen | رُوْبَا* | وَحَى (Vision) - | تَعَبَّسَ | -sbildung s. f. | مَرَأَةٌ | مَرَأَى

- ig a. مُحِبُّ الْحَدِيثِ | -weise
adv. فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ.
- Gestade s. n. سَوَاحِلُ pl. | سَوَاحِلُ
| شَوَاطِئُ pl. | شَوَاطِئُ | شَطُوطُ pl. | شَطُوطُ
ضِفَّةٌ.
- Gestalt s. f. صُورَةٌ pl. | صُورٌ
| هَيْئَةٌ | أَزْبَاءُ pl. | زِيٌّ | أَشْكَالُ pl.
| قَامَةٌ (Statur) - | هَيْئَاتُ pl.
| صَوَّرَهُ -en va. etw. | تَقَطَّيْعَ | قَدَّ
| sich | صَنَعَ a ه | كَوَّنَ ه | شَكَّلَ ه
-et a., | تَكَوَّنَ | تَصَوَّرَ | تَشَكَّلَ -
| حَسَنَ الْخِلْقَةَ | مُتَّقَنٌ -wohl-
| سُوءَ الْخِلْقَةَ | غَيْرَ مُتَّقَنٍ -übel-
| تَصْوِيرٌ | تَشْكِيلٌ s. f. -ung
| نَاقِصُ الصُّورَةِ a. -los | تَكْوِينٌ
| لَا هَيْئَةَ لَهُ | غَيْرَ مُهَنْدَمٍ.
- Gestammel s. n. تَمْتَمَةٌ.
- geständig a. مُقَرَّبٌ | einer Sache
gen. - | sein | أَقْرَبٌ | أَقْرَبٌ
Geständnis s. n. إِقْرَارٌ | إِقْرَارٌ.
- Gestank s. m. رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ | خَمْنٌ
| نُتُونَةٌ | نَتَانَةٌ.
- gestatten va. jmt. etw. | أَذِنَ لَهُ بِ
| sich | سَمِعَ لَهُ بِ | أَجَازَهُ لَهُ
- zu | تَجَاسَّرَ | تَجَرَّأَ -
| إِذْنٌ s. f. | إِجْزَازٌ
- Geste s. f. حَرَكَةٌ pl. | حَرَكَاتُ
رَمَزٌ.
- gestehen va. etw. | أَقْرَبٌ | أَقْرَبٌ
Gestein s. n. حَجَرٌ pl. | حِجَارَةٌ u.
أَحْجَارٌ.
- Gestell s. n. صِفَالَةٌ * pl. | صِفَائِلُ
| مَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ التَّخْتُ | جَحْشٌ
- Gestellung s. f. zum Militärdienst
قَيْدٌ فِي الْخِدْمَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ.
- gestern adv. | بِالْأَمْسِ | أَمْسٌ
| عَشِيَّةَ أَمْسٍ - | البَارِحَةَ |
von - | sein | حَدِيثًا -
- gestikulieren vn. كَثَّرَ الْحَرَكَاتُ.
- Gestirn s. n. نَجْمٌ pl. | نُجُومٌ
| كَوَكَبٌ pl. | كَوَاكِبٌ | das - des Tages
| القَمَرِ - der Nacht | das - der
| مُرْصَعٌ بِالنُّجُومِ | مُنْتَجِمٌ | مُنْجِمٌ -t a.
| ذُو نُجُومٍ | ذُو كَوَاكِبٍ
- Gestotter s. n. تَمْتَمَةٌ.
- Gesträuch s. n. دَغَلٌ pl. | دِغَالٌ u.
| أَدْغَالٌ | جِبَابٌ pl. | جَبٌّ *
أَجْبَابٌ.
- gestreckt a., in -em Lauf | مُسْرِعٌ فِي
| strecken. | الرِّكْضِ
- gestreift a. | مُخَطَّطٌ | مَخْطُوطٌ
| مُقَلَّمٌ * | مُخَطَّطٌ |
| streifen. |

- gestrenge a. عَنِيفٌ | شَدِيدٌ | جَافٍ |
 ناشِفٌ* | عَابِسٌ |
- gestrig a. البَارِحُ.
- Gestrüpp s. n. جُدَادٌ | دِغَالٌ pl. دَغَلٌ |
 هَيْشٌ* | دُبْشَةٌ* | عُلَيْقٌ | عَوْسَجٌ |
- Gestühl s. n. الكِرَاسِيُّ.
- Gestümper s. n. تَحْبِيسٌ* | خَبْصَةٌ* |
 عَمَلٌ نَاقِصٌ.
- Gestüt s. n. زَرِيبَةٌ لِلْفُحُولِ وَلِلرَّمَكَاتِ.
- Gesuch s. n. عَرَضُ الْمَالِ | عَرَضُ الْحَالِ |
 اسْتِدْعَاءٌ | التِّمَاسُ |
- gesucht a. مُصَنِّعٌ |. suchen.
- Gesudel s. n. لِحْبَطَةٌ* | خَرْبَشَةٌ* |
- Gesumm, Gesumme s. n. دَوِيٌّ |
 طَنْطَنَةٌ |
- gesund a. صَحِيحٌ الْمِزَاجِ | سَلِيمٌ | سَالِمٌ |
 صَحٌّ | i | سَلِيمٌ a | - | صَاغٌ* |
 عَقْلٌ | عَقْلٌ سَدِيدٌ | er Verstand - |
 عَدِيٌّ | عَادِيٌّ (Luft) - | رَشِيدٌ |
 نَجْوَعٌ | هَنِىءٌ (Nahrung) - |
 ماءٌ مَعْدِنِيٌّ | -brunnen s. m. |
 -heit s. f. | صَحٌّ | i | شَفِيٌّ | -en vn. |
 (eines Ortes) - | مِزَاجٌ | عَافِيَةٌ | صِحَّةٌ |
 --! auf Ihre | مَرَاةٌ | عَذَاوَةٌ | عَدَى |
 -- | auf die | بِسْرِكٌ* | نَحْبَكٌ |
 -- | -- | jz. | -- | jz. | -- |
 -- | -- | jz. | -- | jz. | -- |
 -- | -- | jz. | -- | jz. | -- |
- Getäfel s. n. أَلْوَاكٌ يُخَشَّبُ بِهَا.
- Getändel s. n. قَوْلٌ أَوْ عَمَلٌ لَتَمَازِحٍ.
- Gethsemane n. pr. جِزْمَانِيَّةٌ.
- Gethue s. n. تَدَلَّلٌ.
- Getier s. n. الْحَيَوَانَاتُ.
- Getös, Getöse s. n. ضَجَّةٌ.
- Getränk s. n. شَرَابٌ pl. أَشْرِبَةٌ |
 مَشَارِبٌ pl. مَشْرَبٌ | شُرْبٌ |
- getrauen v. sich zu | تَجَاسَرُ بِ |
 اجْتَرَأَ بِ |
- Getreide s. n. غَلَّةٌ pl. غَلَّاتٌ u. غِلَالٌ |
 -händler | قَمَحٌ | حِنْطَةٌ | حُبُوبٌ |
 حَنَاطِيٌّ | حَنَاطٌ s. m. |
- getreu a., -lich a. وَافٍ | أَمِينٌ |
 وَفِيٌّ |
- Getriebe s. n. اهْتِزَازٌ | حَرَكَاتٌ |
 مَجْمُوعٌ دَوَالِيِبٍ (Triebwerk) - |
 آلَةٌ |
- getrieben a., -es Metall مَعْدِنٌ |
 |. treiben. | مَنقُوشٌ |
- Getrödel s. n. تَأْخِيرٌ.
- Getrommel s. n. طِبَالَةٌ.
- getrost a. سَلِيمٌ الْقَلْبِ | قَوِيٌّ الْقَلْبِ |
 -en Mutes مُتَشَجِّعًا |
- getrösten v. sich einer Sache gen. |
 اِنْتَضَرَهُ بِثِقَةٍ |
- Getümmel s. n. ضَجَّةٌ.

-thätig a. ظالم | جاف | -thätig-
 feit s. f. f. -that.
 Gewand s. n. ثوب pl. ثياب.
 gewandt a. ماهر | نبيه | خفيف |
 | نباهة | خفة a. -heit | نشيط
 | مهارة | نشاط.
 gewärtig a. einer Sache gen. - sein
 f. -en | -en va. etw. انتظر.
 Gewäch s. n. هذر | تلتدة*.
 Gewässer s. n. ماء pl. مياه u.
 أموا.
 Gewebe s. n. نسج pl. نسيج |
 نسيج pl. نسيج.
 Gewehr s. n. بندقية pl. بنادق |
 (Waffe) - | بواريد pl. بارودة
 | das - los- | أسلحة pl. سلاح
 | das - | أطلق البندقية
 | strecken vor jm. | سلم ذاته له
 | -lauf s. m., -schloß
 s. n., -schuß f. flintenlauf 2c.
 Geweih s. n. قرون الإيل.
 Gewerbe s. n. صناعة pl. صناعات
 u. | حرف pl. حرفة | صنائع
 | مهن pl. مهنة*
 s. m. | gewerbsfleißig a.
 | gewerblich a., gewerb-

thätig a. صناعي | gewerbsmäßig
 a. حرفي.
 Gewerk s. n., Gewerkschaft s. f.
 جماعة أصحاب حرفة.
 Gewicht s. n. ثقل pl. أثقال |
 (Metallstück) - | أوزان pl. وزن
 | عيار pl. | مناقيل pl. منقال
 | - einer | أوزان pl. وزن | عبارات
 | bld. - | أثقال pl. ثقل ساعة Uhr
 | bld. | ثقل a. -ig | نفوذ | أهمية
 | bld. | ثقل s. f. -igkeit | مهم
 | أهمية.
 gewiegt a. | خبير | مجرب | wiegen.
 Gewieher s. n. صهيل.
 gewillt sein | أراد | قصد i.
 Gewimmel s. n. جمّة | جمّ | حفل.
 Gewimmer s. n. نوح | أنين | نباح
 | نوح | تعويل.
 Gewinde s. n. (Blumen-) | إكليل
 | (Schrauben-) | أزهار
 | (Straßen-) | تيه.
 Gewinn s. m. ربح | مكسب pl.
 | منافع pl. | منفعة | نفع | أرباح
 | حصّة المكسب s. m. -anteil
 | نافع a. -bringend | حصص
 | ربح a. | كسب i. ه
 | die Oberhand | افاق -- u

- | كاسِب | رابِع | er s. m. | اِنْتَصَرَ |
 | طَمَع في | fucht s. f. | - | مُكْتَسِب |
 | طامِع في الرَّبْع | - | füchtig a. | الرَّبْع |
 Gewinnfel s. n. f. Gewinner.
 Gewinnst s. m. f. Gewinn.
 Gewirk s. n. نُسج pl. نَسِيج |
 | نَسَائِح pl. | نَسِيجَةٌ |
 Gewirr s. n. تَفَتَّل | التِّغاف |.
 gewiß a. | مُحَقَّق | صَحِيح (sicher) |
 | - (fest) | - | مُوَكَّد | يَقِين | أَكِيد |
 | آمِن | آمِن (Person) | - | ثَابِت |
 | etw. für - annehmen ه | تَيَقَّن |
 | ein - er | فلان | فلانِي | pl. - e |
 | بلا شَك | حَقِيقَةٌ | يَقِينًا - | adv. |
 Gewissen s. n. | ذِمَّة * | ضَمِير | auf
 | mein - | على ذِمَّتِي | etw. auf dem
 | - haben | تَثَقَّل ضَمِيرُهُ بِ |
 | ein - aus etw. machen | تَرَدَّد |
 | وَقَعَ a في خَاطِرِهِ وَسُؤاسٍ | ضَمِيرُهُ |
 | -haft a. (Person) | ذُو ذِمَّة |
 | -haftig | مُدَقَّق (Sache) | القَلْب |
 | ذِمَّة | سَلَامَةُ القَلْب | s. f. |
 | -los a. | عَدِيم الذِمَّة | -losigkeit
 | s. f. | عَدَم الذِمَّة | -sbiß |
 | تَبَكَيْت | -fall s. m., | نَدَامَةٌ | الذِمَّة |
 | -sfrage s. f., -sache s. f. | مُشْكِل |
 | مَشَاكِل pl. | يَخْتَصُّ بِالضَمِيرِ |
- sfreiheit s. f. حُرِّيَّة في القِيَام |
 | -sfrupel s. m. | بَوَاجِبَات الدِّيَانَةِ |
 | وَسُؤاسٍ | تَرَدَّد الضَمِيرِ |
 gewissermaßen adv. عَلَى وَجْهِ مَا |
 Gewißheit s. f. | يَقِين | تَأَكِيد |
 | يَقِينًا | gewißlich adv. | عِلْم يَقِين |
 | بلا شَك | حَقِيقَةٌ |
 Gewitter s. n. | زَوَابِع pl. | زُوبَعَةٌ |
 | pl. | نُوء * | عَوَاصِف pl. | عَاصِفَةٌ |
 | آتٍ بِزُوبَعَةٍ | -haft a. | أنوَاء |
 Gewitzel s. n. | عَقْل غَيْر مُصِيب |
 | gewitzigt, gewitzt a. | نُكْتَةٌ بَطَالَةٌ |
 | witzigen. | مُكَرَّر | مُنَبِّه |
 Gewoge s. n. | تَلَاطُم الأمْوَاج |.
 gewogen a. | كَلِف بِهِ | مُحِبَّب | jm.
 | تَعَلَّق بِهِ | jm. - | مُتَعَلِّق بِهِ |
 | | wägen | -heit s. f. | مَحَبَّة |
 | مَعْرُوف (Gefälligkeit) | - | عِلَاقَةٌ |
 | جَمِيل |
 gewöhnen, gewohnt sein einer Sache
 | اِعْتَاد ه | gen. od. etw. od. an etw. |
 | | gewohnt | اِعْتِيَادِي | تَعَوَّد ه |
 | | an etw. ه | عَوَّد ه |
 | | an ه | اِعْتَاد ه | - sich |
 Gewohnheit s. f. | عَادَةٌ (Sitte) pl. |
 | - | عَوَائِد u. | عَادَات | (fertigkeit)
 | | دَرُوب pl. | دَرَب | أَدُوب pl. | دَاب

- gewöhnlich a. مُعْتَاد | عَادِي |
 عَادِيًا | عَادَةً - | اِعْتِيَادِي |
 حَسَبِ الْعَادَةِ - | wie | غَالِبًا |
 gewohnt, gewöhnt f. | كَالْعَادَةِ |
 gewöhnen, gewöhnen.
- Gewölbe s. n. عَقْد | قُب | pl. قُبَّة |
 pl. اَقْبِيَّة | قُبُو* | عُقُود |
 - | مَخَازِن | pl. مَخْزِن (-Laden) - |
 - | مَدَافِن | pl. مَدْفِن (-Grab) - |
 Schlüsselstein des -s | اَغْلَاق | pl. غَلَق |
 u. اَغَالِيْق |.
- Gewölk s. n. سَحَابَة | pl. سَحْب | u.
 - | غَيْم | pl. سَحَائِب | u. سَحَاب |
 غَيْوَم |.
- Gewühl s. n. اِزْدِحَام | زَحْمَة | s. n.
 Gewürm s. n. هَوَام | دُود |.
- Gewürz s. n. بَزْر | تَوَابِل | pl. تَابِل |
 pl. طِيْب | اَبَاذِيْر | u. اَبْزَار |
 -händler | عَطُور | pl. عَطْر | اَطْيَاب |
 s. m., -främer s. m. عَطَّار |
 | عَطْرِي | a. -ig | سَمَان | عَقَاقِيْرِي |
 | طِيْب | -nägelein s. n., -nelke
 s. f. bot. قُرْنُفَل | coll.
- Gezänt s. n. اِنْرَاع | مُشَاجِرَة | خِصَام |
 مُخَانَقَة* | مُنَازَعَة |.
- Gezeit s. f. مَدَّ الْبَحْرِ وَجَزْرُهُ |.
- Gezelt s. n. خِيَم | pl. خِيَام | خِيْمَة | s. n.
- geziemen vn. jm. od. sich - für jn.
 | لَاقِ | a. -د | صَلَح | u | لَهُ | لَاقِ | i | بِهِ |
 adv. كَمَا يَدِيْق |.
- Geziere s. n. تَكْتَف | تَصْنَع | تَدَلَّل |
 | مُتَصَصِع | | مُتَدَلَّل | | تَطَاهُر |
 مُتَكْتَف |.
- Gezisch s. n. صَفَار | صَفِيْر | - (der
 Schlange) | فَح | | حَسْف | s. n. -el |
 وَشَوْشَة* | هَمْسِ الصَّوْت |.
- gezogen a. (Geschütz) مَخْطَط دَاخِل |
 | المِدْفَع | f. ziehen.
- Gezücht s. n. ذُرِّيَّة | pl. ذَرَارِي |
 | اَنْسَال | pl. نَسْل | سَلَالَة |.
- Gezweig s. n. مَجْمُوعِ الْاَغْصَان |.
- Gezweg s. n. زَعَانِف | pl. زَعْنَفَة |
 قَصِيْرِ الْقَد |.
- Gezwitscher s. n. تَغْرِيد | غَرْد |.
- gezwungen a. | مُتَكْتَف | | مَقْهُور |
 adv. - | غَضَبًا | f. zwingen | -heit
 تَكْتَف |.
- Gibeon n. pr. الْجِيْب |.
- Gibraltar n. pr. جَبَل طَارِق |.
- Gicht s. f. اِدَاءِ الْمَفَاصِل | نِقْرَس |
 | مَقْلُوج | a. -brüchig | اِدَاءِ الْمُلُوك |
 | -ig a., -isch | اِدَاءِ الْمَفَاصِل | مُبْتَلَى |
 a. مُبْتَلَى | اِدَاءِ الْمَفَاصِل |.

- Giebel s. m. حَائِطُ | حَائِطُ الْجَمْلُونِ | بُنْيَةٌ مُثَنَّنَةٌ فِي أَعْلَى | السَّقْفِ | طَاقَةٌ * -fenster s. n. | السَّقْفِ
- Gier s. f. nach | طَمَعٌ فِي | -en vn. | طَمَعٌ فِي a | nach | -ig a. nach | -igkeit s. f. | طَمَاعٌ فِي | طامِعٌ فِي | f. Gier.
- Gießbach s. m. سَيُولٌ pl. | سَيُولٌ | gießen va. (Wasser) u | صَبَّ | (Metall) | - | كَبَّ u ه | سَكَبَ u ه | أَفْرَغَ ه | صَبَّ u ه | سَبَكَ u ه | es gießt (regnet stark) i | هَطَلَ | Gießer s. m. | سَبَّكَ | Gießerei s. f. | مَسَابِكٌ pl. | مَسَبِكٌ | Gießfanne s. f. | مِرْسَئَةٌ | مِسْقَاةٌ.
- Gift s. n. سُمٌّ pl. | سُمُومٌ u. | سِمَامٌ | - u. Galle speien | اِسْتَدَّ عَضَبًا | -ig a. | سَمٌّ | سَمٌّ | مَسْمُومٌ | سَمٌّ | - - (zornig) | غَضُوبٌ | -igkeit s. f. | ذَاعِفٌ a. | مِشْخَرٌ | - | كَيْفِيَّةٌ سَامَةٌ | - | مِشْخَرَةٌ s. f. | سَاقٍ سَمًّا | سَمٌّ | قَتَلَ بِسَمِّ | -mord | سَمٌّ | دَعَفَ | رُحْصَةٌ شِرَاءِ السَّمِّ فِي | - | a. | الأَجْزَائِيَّاتِ.
- Gigant s. m. جَبَّارٌ pl. | جَبَابِرَةٌ | -isch a. | جَسِيمٌ | جَبَّارِيٌّ.
- Gigerl s. m., s. n. | غَنَجٌ | غَنَادِرَةٌ pl. | غَنْدُورٌ *.
- Gilde s. f. أَصْحَابُ حِرْفَةٍ.
- giltig a. | f. gültig | -heit s. f. | f. Gültigkeit.
- Simpel s. m. صَعُوهٌ pl. | صَعَوَاتٌ u. | رَجُلٌ قَلِيلُ الْعَقْلِ | صِعَاءٌ.
- Sinster s. m. bot. | رَتَمٌ * | لَزَانٌ *.
- Sipfel s. m. قِمَّةُ الْجَبَلِ pl. | قِمَمٌ | بَلَّغَ u. | -n vn. | رُوُوسٌ pl. | رَأْسٌ | النُّقْطَةُ s. m. | -punkt | أَعْلَى دَرَجَةٍ | الغَايَةِ | العُلْيَا.
- Sips s. m. | جَبْسٌ | قَصٌّ | -en va. | قَرْمِيدٌ | شَارُوقٌ | قَرْمَدٌ ه | جَبَسَ ه * | جَصَّصَ ه | صَقَى الخَمْرَ بِالْجَبْسِ | Wein | -figur s. m. | جَبْسِيٌّ | -en a., -ern a. | تِمثالٌ مِّنْ | -statue s. f. | لَامٌ | -verband s. m. | جَبْسٌ | بِالْجَبْسِ.
- Giraffe s. f. zool. | زَرَّافَةٌ pl. | زَرَّافَاتٌ u. | زَرَّافِيٌّ.
- girieren va. | وَفَّعَ السُّفْتَجَةَ | Wechsel | Giro s. n. | أَمْضَى عَلَى ظَهْرِهَا | جِيرُوهٌ * | تَوْقِيعٌ.
- girren vn. (Taube) | رَتَمٌ (الحَمَامُ) | غَرَّدَ | نَاحٌ u.

Gischt s. m. رُغْوَةٌ | رُغَاوَةٌ.

Gitter s. n. شَعْرِيَّاتٌ pl. شَعْرِيَّةٌ *
حَاجِزٌ مِّنْ قُضْبَانٍ مُّشَبَّكَةٌ.

Glanz s. m. جَلَاءٌ | لَمَعَانٌ | لَمَعٌ
| سَنَاءٌ | جَلَالٌ | رَوْنَقٌ | بَهَاءٌ
| اِكْفِيْرَارٌ.

glänzen vn. اَبْرَقَ u | بَهَا u | لَمَعَ a
| بَارِقٌ | بَاهِيٌّ | لَامِعٌ a. -د | لَاح u
| مُنِيرٌ | نَيْرٌ.

Glanzleistung s. f. عَمَلٌ عَظِيمٌ.

Glas s. n. (Stoff) قَرَّازٌ * | زُجَاجٌ
- (zum Wassertrinken) كَأْسٌ pl.
| كِبَايَةٌ * | طَاسَاتٌ pl. | طَاسٌ | كُووسٌ
- (zum Weintrinken) قَدَحٌ pl.
| بَلَّوْرَةٌ * (Uhr-) | أَقْدَاحٌ
| zu | مِاءِ القَدَحِ (-es) | holt eines
-er | سِكرٌ a. | gucken - tief ins
-erei | قَرَّازٌ * | زُجَاجِيٌّ | زُجَاجٌ s. m.
s. f. صِنَاعَةُ الزُّجَاجِ.

gläsern a. زُجَاجِيٌّ.

Glas-fabrik s. f. مَعْمَلُ الزُّجَاجِ |
طَلَّى هُ | بَدَّهْنٌ va. etw. -ieren
-ig a. | صِينِيٌّ أَوْ بَزِيَّتٌ لَامِعٌ
-ur s. f. | شَبِيْهِه بِالزُّجَاجِ | زُجَاجِيٌّ
| زَيْتٌ لَامِعٌ | دُهْنٌ صِينِيٌّ.

glatt a. مُلْسٌ pl. مَلْسَاءٌ f. أَمْلَسٌ
| مَصْقُولٌ | صَقِيلٌ (-) | (schlüpfrig)

Glätte s. f. مَلَّاسَةٌ | زَلْجٌ | زَلْجٌ | زَلٌّ
| مُلَّوْسَةٌ | Glatteis s. n. جَلِيدٌ
مَاءِ المَطَرِ الَّذِي يُجَدُّ عَلَى | دَقِيقٌ
| صَقَل u ه. | glätten va. etw. | الأَرْضُ
| أَمْلَسٌ ه. | مَلْسٌ ه. | جَلَا u ه.
| مُتَمَلِّقٌ a. | glattzünftig

Glaze s. f. صُلْعَةٌ | صُلْعَةٌ | glatz-
föppig a. أَحَصَّ f. | حَصَاءٌ f. | أَقْرَعٌ
| صُلْعَاءٌ f. | أَصْلَعٌ | قُرْعٌ pl. | قُرْعَاءٌ f.
| سَلْحَاءٌ f. | أَسْلَعٌ.

Glaube, Glauben s. m. (Meinung)
- an | آراءٌ pl. | رَأْيٌ | فِكْرٌ | ظَنٌّ
| اِعْتِنَادٌ بِ | اِيْمَانٌ بِ | etw.
- (Über-) | أَوْهَامٌ pl. | وَهْمٌ (-)
| اِصْدَاقٌ | خُلُوصٌ النِّيَّةِ - u.
- haben an | glauben an | jm.
- beimessen | صَدَّقَ ه. | - va.
(meinen) u | ظَنَّ - | etw. (für wahr
halten) | jm. | etw. -
| آمَنَ بِ | an etw. | - | صَدَّقَ ه. فِي
-sartifel s. m. christl. | اِعْتَقَدَ ه.
-sbe- | مُعْتَقَدٌ | عَقَائِدٌ pl. | عَقِيْدَةٌ
| اِعْتِرَافٌ بِالْاِيْمَانِ s. n. | christliches - -
| اِظْهَارُ الْاِيْمَانِ | muslimisches - -
| كَلِمَةُ الْاِيْمَانِ | -sformel s. f. |
| كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ | -sbe- | -sbe-
| -sfreiheit s. f. | حُرِّيَّةٌ

- | الأديان والمذاهب | sgenossen-
 schaft s. f. | جماعة دينية | -lehre
 s. f. | -sartifel.
 glaubhaft a. | قابل التصديق |
 مؤمن | موثوق به | -igkeit s. f.
 f. | Glaubwürdigkeit.
 gläubig a. | مؤمنون pl. | مؤمن
 s. m. | مدّين | دائن | pl.
 غرّماء.
 glaublich a. | قابل التصديق |
 مؤمن | موثوق |
 معتقده.
 glaubwürdig a. | أهل الثقة |
 مؤثوق | -heit s. f. |
 ممكن | معتقده | به
 احتمال | حقيقة | صحة | ثقة.
 gleich a. | أسواء pl. | سى | مساو
 (von einerlei | عدلاء pl. | عدل
 Art) | من جنس واحد | نظير (Art)
 - | متساو | سهل (eben) -
 machen | سهل ه | سوى ه
 dem Erdboden - machen ه |
 jm. - | kommen, jm. - | stehen
 ه | عادل ه | sich jm. -
 stellen ه | مساو ه | es ist ihm -
 مثل بعضه عليه * | سواء عليه
 seines -en | مثله pl. |
 ohne -en | لا كفاء له | فريد -en

- | sehen ه | شابه ه | gleich adv. |
 | حالاً (sogleich) - | بدون فرق
 | وإن | wenn-, ob- conjct. | في الحال
 | أثراب pl. | تراب a. | alterig - |
 | أقران pl. | قرن | artig a. |
 | متفق معنى |
 - | e s. f., die
 | اعتدال الليل | Tag u. Nacht-e
 | ساوى ه | en vn. | jm. ه | والنهار
 | شابه ه | شاكل ه | حاكى ه
 | اشتبهه | تشابهه -- | sich | أشبهه ه
 -er | تناسب | تماثل | تشاكل
 s. m. | الأستواء (Aequator)
 | كمان * | أيضا | كذلك | falls adv.
 | متساوى الشكل |
 | على نمط واحد | غير متغيّر
 -förmigkeit s. f. | تساو |
 -gewicht s. n. | معادلة |
 - | europäisches - | موازنة
 | -gültig a. | اميزانية الأوروبية
 لا فائدة | لا طائل تحته (Sache)
 | سواء عندي -- | es ist mir | فيه
 | غير متأثر | بارد * (Person) - -
 -gültig. | خال من غرض أو ميل
 | خلو البال من الغرض |
 | مساواة | سواء s. f. | أو الميل
 -laufend | موازنة | استواء | تساو

a. مُتَوَازٍ | -maß s. n. اِعْتِدَالٌ |
 -mäßig | هِنْدَامٌ | مُنَاسِبَةٌ | مُطَابِقَةٌ
 a. مُهَنْدَمٌ | مُتَطَابِقٌ | مُعْتَدِلٌ |
 -mäßigkeit s. f. | -maß | -mut
 s. m. رَاحَةُ الْبَالِ | -mütig a.
 دُو نَفْسٍ | -namig a. مُرْتَحِ الْبَالِ
 مَثَلٌ | -nis s. n. سَمِيٌّ | الْأَسْمُ
 pl. | -sam adv. تَشْبِيهِ | أَمْثَالٌ |
 Zeid ist -- ein | كَأَنَّهُ | مِثْلُ | كَ
 -schenkelig | كَانَّ زَيْدًا أَسَدٌ | Löwe
 a. math., -es Dreieck مُثَلَّتْ
 -seitig a. | مُتَسَاوِي الضِّلْعَيْنِ
 math., -es Dreieck مُثَلَّتْ
 -ung s. f. math. | مُتَسَاوِي الْأَضْلَاعِ
 | صُورَةَ الْأَسْتِوَاءِ بَيْنَ كَمِيَّتَيْنِ
 -wie adv. | كَذَلِكَ | سِوَاءَ |
 adv. | كَمَا | كَأَنَّهُ | مِثْلُ | كَ
 -winkelig a. math. | مُتَسَاوِي
 | مَعَ هَذَا | -wohl conjct. | الزَّوَابِ
 | لَكِنْ | غَيْرَ أَنْ | مَعَ ذَلِكَ | إِلَّا أَنْ
 -zeitig a. | مُعَاوِرٌ | وَقَعَ فِي زَمَانٍ
 | جَارٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ | وَاحِدٍ
 -zeitigkeit s. f. | حُدُوثٌ فِي زَمَانٍ
 وَاحِدٍ.

Gleis s. n. | Gleis.

Gleisner s. m. | رَجُلٌ مُرَاءٍ | -ei s. f.

مُرَاءٍ | -isch a. | مُرَاءَاةٌ | رِثَاءٌ

gleißen vn. a | لَمَعَ | u | بَهَا | u | برق |
 u | لاح.

gleiten vn. i | زَلَجَ | a | زَلِقَ | * |
 | تَرَحَّلَقَ | |
 | تَمَلَّصَ مِنْ - | im. aus der Hand
 | اِنْسَحَطَ مِنْ يَدِهِ | über etw.
 | يَدِهِ | |
 | أَوْجَزَ الْكَلَامَ فِي | hin - bld.

Gletscher s. m. | كَوْمَةٌ جَلِيدٌ | pl. كَوْمٌ |
 | كَنْتَلَةٌ جَلِيدٌ | pl. كَنْتَلٌ.

Glied s. m. | أَعْضَاءٌ | pl. | اَعْضَاءُ | auch
 | دُكُورٌ | pl. | ذَكَرٌ - | männliches | bld. |
 | حَلَقَةُ السِّلْسِلَةِ | pl. | - der Kette
 | -er (Arme u. | حَلَقَاتٌ | u. | حَلَقٌ
 | الجوارح) | الجراميز | الكحوف |
 | - der Verwandtschaft | الكواسر |
 | - (Reihe) mil. | دَرَجَةُ الْقَرَابَةِ |
 | -erbau s. m. | صُفُوفٌ | pl. | صَفٌّ
 | -ern va. etw. | بُنْيَةُ الْأَعْضَاءِ |
 | -er. | نَظْمٌ هـ | رَتَّبَ هـ | رَتَّبَ هـ
 | -erreißten s. n., | لُعْبَةٌ | puppe s. f.
 | -erschmerz s. m. | الْمَفَاصِلُ |
 | -erung | رِيحٌ * | رَثِيَّةٌ | دَاءُ الْعَضَلِ
 | -maßen | تَرْكِيْبٌ | تَرْتِيْبٌ | s. f.
 | الأَعْضَاءِ | pl. s.

glimmen vn. | تَشَعَّلَ تَحْتَ الرَّمَادِ |
 | لَمَعَ | a | قَلِيلاً.

Glimmer s. m. | ضَوْءٌ قَلِيلٌ | حَجَرٌ

-n vn. | طَلَقَ | لَامِعٌ ذُو صَفَائِحِ
لَمَعٌ a قَلِيلًا.

glimpflich a. مُعْتَدِلٌ.

glitschen vn. | تَزَحَلَقُ * | glitscherig a.,
glitschig a. * مُزَحَلَقٌ.

glitzen vn., glitzern vn. a | لَمَعُ | u | لَمَعٌ
u | بَرَقَ | u | لَمَعٌ | glitzerig a., glitzig
a. لَامِعٌ.

Globus s. m. كُرَّةُ الْأَرْضِ الصِّنَاعِيَّةِ.

Glocke s. f. | أَجْرَاسٌ pl. | جَرَسٌ pl.

(Kuh-) | نَوَاقِيسٌ pl. | نَاقُوسٌ *

(Schlag- | جَلَاجِلٌ pl. | جَلَاجِلٌ

uhr) | سَاعَةٌ كَبِيرَةٌ | - der Lampe

(für Teller, | بُرْنَيْطَةُ اللَّامِبَةِ *

Käse zc.) | قُبَبٌ pl. | قُبَّةٌ مِّنْ رُّجَاجٍ

die - läuten | دَقَّ u | الجرسُ | etw.

an die große - hängen | أَشْهَرُ هـ

-nblume s. f. bot. | لِجَمِيعِ النَّاسِ

| نَبَاتٌ زَهْرَةٌ أَشْبَهَ بِالْجَلَاجِلِ

| -n(schlag s. m. | ضَرْبَةُ الْجَرَسِ

-n(spiel | قَرَعَةُ الْجَرَسِ | دَقَّةُ الْجَرَسِ

s. n. | قَرَعُ الْأَجْرَاسِ عَلَى وَزْنِ

بُرْجٍ | -nturm s. m. | وَإِيقَاعٌ

. | بُرُوجٌ pl. | لِلْأَجْرَاسِ

Glöckner s. m. | دَقَّاقُ الْأَجْرَاسِ فِي

الْكِنَائِسِ.

Glorie s. f. | بَهَاءٌ | فَخْرٌ | عِزَّةٌ | جَاهٌ

| إِكْبِيلُ نُورٍ | -n(schein s. m. | عَظْمَةٌ

bld. - | إِكْبِيلُ الْمَجْدِ | glorifizieren

va. etw. | عَظَّمَ هـ | glorreich a.

(Person) | مَجِيدٌ | ماجِدٌ - (Sache)

. | مُمَجِّدٌ | مُعَظَّمٌ

Glossar s. n. | كِتَابٌ بَعْضُ مُفْرَدَاتِ

| شَرْحٌ | تَفْسِيرٌ | Glossé s. f. | لُغَةٌ

über etw. -n machen | عَيَّبَ هـ

| glossieren va. etw. | اِنْتَقَدَ هـ

. | اِنْتَقَدَ هـ | شَرَحَ a هـ | فَسَّرَ هـ

großäugig a. | أَنْجَلٌ | glozen vn.

. | نَظَرَ u | مَبْهُوَلًا

Glück s. n. | فَلَاحٌ | حَظٌّ | سَعَادَةٌ | سَعُدَ

- zum | بَخَّتْ | إِقْبَالَ | نَصِيبٌ

das - der Waffen | لِلْحَظِّ | حَظًّا

sein - machen | أحوالِ الحَرْبِ

هَنَاءٌ | jm. - wünschen zu | أَيَسَّرَ

- auf den | بِالْخَيْرِ | - auf! - zu!

Weg! | مَعَ السَّلَامَةِ

Glucke s. f. | رَنْقَاوَاتٌ pl. | رَنْقَاءٌ

. | قَرَقَ u | قَرَقَ u | قُرْقَةٌ *

glücken vn. a | نَجَحَ | تَوَقَّقَ

Gluckhenne s. f. f. | Glucke.

glücklich a. | مَيْمُونٌ | مَسْعُودٌ | سَعِيدٌ

| مُتَوَقِّقٌ | مُفْلِحٌ (erfolgreich) -

| آتٍ بِخَيْرٍ (günstig) - | نَجِيحٌ

| سَعِدَ a | مُبَارَكٌ | مُقْبِلٌ

a حَطَّ | a نَجَّحَ | jn. - machen

أَسْعَدَ | eine -e Hand haben

اَللُّحْظَ | -erweise adv. حَطَّ | نَجَّحَ

glücklich a. سَعِيدٌ | -heit s. f.

سَعَادَةٌ.

Glück-sfall s. m. اَعْرَاضٌ pl. عَرَضٌ

نَصِيبٌ | صُدْفَةٌ pl. صُدْفٌ | اِئْتِاقٌ

pl. اَنْصِبَةٌ u. نَصْبٌ | -sgüter

s. pl. اَمْوَالٌ | -sjäger s. m. f.

-sritter | -sfind s. n., -spilz s. m.

-sritter s. m. اِنْسَانٌ دُو حَطَّ

اَفَاقٌ | آفَاقِيٌّ.

glücken vn. f. glücken.

Glück-spiel s. n. قِمَارٌ | -sfern s. m.

-wunsch طَالِعٌ سَعِيدٌ | بَخْتٌ

s. m. تَهْنِئَةٌ | jn. seinen - - ab-

statten zu هُنَا هُنَا | هُنَا هُنَا

vn. jn. zu هُنَا هُنَا.

glühen va. das Eisen حَمَرَ الحَدِيدَ

اِحْمَرَّ مِنَ النَّارِ - | بالنار

اِحْمَرَّ مِنَ النَّارِ a. د- | اِسْتَعَلَ

-e Kohle | شَدِيدٌ | نَارِيٌّ | حَارٌّ جَدًّا

Glühwein s. m. | جَمْرٌ pl. جَمْرَةٌ

Glühwurm s. m. | خَمْرٌ حَارٌّ

سِرَاجٌ | يَرَاعٌ | قُطْرُبٌ | حُبَابِجٌ

الليلى *

Blut s. f. اَجَّةٌ | حَرٌّ | حَرَارَةٌ النَّارِ

pl. لَهْبَانٌ | حَرْقَةٌ | اِجَاجٌ bld. -

-pfanne | هِمَّةٌ | غَيْرَةٌ | حَمِيَّةٌ

s. f. مَنَقَلٌ * | كَوَانِينٌ pl. كَانُونٌ

pl. مَنَاقِلٌ.

Gnade s. f. نِعْمَةٌ pl. نِعَمٌ | فَضْلٌ

pl. اَلطُّافُ pl. لُطْفٌ | اَفْضَالٌ pl.

- (Verzeihung) | عَفْوٌ | غُفْرَانٌ von

Gottes -n | بِفَضْلِ اللّٰهِ -n

die - haben, jn. eine -

erweisen | تَكَرَّمَ عَلَيْهِ بِ

- finden | تَرْضَى | رِضَاً * اِكْتَسَبَ

wieder zu -n kommen | رِضَاً a نَالٌ

عَلَى ثَانِيَةً | auf - u. Ungnade

(-n v.), | عَلَى مَا يَهْوَى | الخَاطِرِ

gnade Gott! | رَحِمَ اللّٰهُ -nbild

s. n. kath. | صُورَةٌ قَدِيْسِيٌّ pl. صُورٌ

-nbrot | اَيُّقُوْنَاتٌ pl. اَيُّقُوْنَةٌ *

s. n., -nsold s. m. | مُرْتَبٌ اَلْمُتَقَاعِدِ

-nstoß s. m. | اِجْمَازٌ عَلَى الجَرِيْعِ

bld. | تَهْلُكَةٌ -nwahl s. f. theol.

اِصْطِفَاءٌ مُنْذُ | اِخْتِيَارٌ مُنْذُ اَلْاَزَلِ

اَلْاَزَلِ.

gnädig a. | مُتَلَطِّفٌ | مُنْعِمٌ

(barmherzig) | - | دُو اَلْتِغَاتِ

اِرْحَمَانَ | رَحِيْمٌ | شَفُوْقٌ | حَنُوْنٌ

- fein gegen jn. | تَلَطَّفَ اِلَيْهِ

-er | عَطَفَ اِ عَلَيْهِ | تَكَرَّمَ عَلَيْهِ

- Herr! | يا أَيُّهَا السَّيِّدُ! -e frau,
-es fräulein! | يا أَيَّتُهَا السَّيِّدَةُ!
Gott sei Dir -! | رَحِمَكَ اللهُ -!
Gnom s. m. | نَوْعٌ مِنَ الْجِنِّ.
Godel s. m. | دُيُوكُ pl. دِيكُ.
Göhre s. f. | صَبِيٌّ | أَطْفَالٌ pl. طِفْلٌ
pl. صَبَايَا pl. صَبِيَّةٌ | صَبِيَّانِ pl.
Gold s. n. | ذَهَبٌ | -ader s. f. رَكِيزَةٌ
-ammer s. f. | رَكَائِزُ pl. ذَهَبٌ
zool. | -arbeit | صَفَارِيٌّ pl. صُفَارِيَّةٌ
s. f. | -arbeiter | مَصُوغَاتٌ | صِيَاغَةٌ s. f.
s. m. | -barre s. f. | صَاعَةٌ pl. صَائِعٌ s. m.
-blech | تَبْرٌ | سَبَائِكُ pl. سَبِيكَةٌ
s. n. | -borte s. f. | صَفِيحَةٌ ذَهَبٌ s. n.
-draht | شَرَائِطُ pl. شَرِيطَةٌ ذَهَبٌ
s. m. | -en a. ذَهَبِيٌّ | سِلْكُ ذَهَبٌ s. m.
-finger s. m. | بِنَصْرٌ | مِنْ ذَهَبٍ
-fisch s. m. | سَمَكٌ صَغِيرٌ أَصْفَرٌ
| ابْنَةُ ذَاتِ مَطَرٍ كَبِيرٌ bld. | اللُّونُ
-fuchs s. n. | حِصَانٌ أَشْقَرٌ
| ذَهَبِيٌّ a. -ig | نَقُودٌ pl. ذَهَبٌ
-lack s. m. bot. | خَيْرِيٌّ أَصْفَرٌ
-leiste | عَصِيْفِرَةٌ | مَنُشُورٌ أَصْفَرٌ
s. f. | قُضْبَانٌ pl. قَضِيْبٌ ذَهَبٌ s. f.
| وَرَقٌ s. n. | -papier s. n. | شِلْفٌ ذَهَبٌ*
| ذَهَبٌ s. m. | -schaum s. m. | مُذَهَّبٌ
-schmied | بَهْرَجٌ | زُخْرُفٌ | مُصَنَّعٌ
s. m. | صَائِعٌ pl. صَاعَةٌ | -schmiede-
kunst s. f. | صِيَاغَةٌ | -sticerei s. f.
| قَصَبٌ | -stück s. n. | دِينَارٌ pl.
| دَنَائِيرٌ | -treffe s. f. | -borte |
-wage s. f. | مِيزَانُ الدَّرَاهِمِ s. f.
| مِيزَانُ الشَّعْرِيَّةِ* | والدَنَائِيرِ
jedes Wort auf die - - legen
تَكَلَّمَ بِالْأَحْتِرَازِ.
Golf s. m. | خَلِيجٌ pl. خُلُجَانٌ.
Golgatha n. pr. | الْجُلْجَلَةُ.
Gondel s. f. | زَوَارِقٌ pl. زُورِقٌ.
gönnen va. jm. etw. (anwünschen)
| لَمْ يَحْسِدْ ه ه | تَمَنَّى ه لَهُ
jm. etw. - (erlauben) a | أَذِنَ
Gönner s. m. | حَامٍ pl. لَهُ بِ
Gönnerin | مُحَامٍ | حَامِيَّةٌ u. حُمَاةٌ
s. f. | حَامِيَّةٌ | Gönnerschaft s. f.
| حَامِيَّةٌ | ظَلٌّ | مُحَامَاةٌ | حِمَايَةٌ
Goffe s. f. | بَلْوَعَةُ المَطْبَعِ
pl. مِيَارِيبِ | مِيَارِيبٌ pl. مَزَارِيبِ
Gott s. m. | اللهُ | إِلَهٌ | (der Heiden)
| أَصْنَامٌ pl. صَنَمٌ | آلِهَةٌ pl. إِلَهٌ
o mein -! | أَلَّهَمَّ -! - sei Dank!
| - behüte! - bewahre! | الحَمْدُ لِلَّهِ
| ein | حَاشَى اللهُ | مَعَاذُ اللهِ
| -esacker | إِنْسَانٌ تَقِيٌّ | Mann -es
s. m. | مَقَابِرٌ pl. مَقْبَرَةٌ s. m.

مزار | تُرَب pl. | تُرْبَةٌ | مَدافِن pl.
 عِبَادَةٌ s. m. | -esdienst pl. | مَزَارَات pl.
 عِبَادِيّ a. | -esdienstlich | تَعَبَّد |
 عِبَادَةٌ s. m. | -esfriede | مُخْتَصَّ بِالْعِبَادَةِ
 هُدْنَةٌ كَانِ الْمُلُوكِ الْمَسِيحِيِّينَ
 مُلْتَزِمِينَ بِهَا | -esfurcht s. f.
 تَقِيّ a. | -esfürchtig | مَخَافَةُ اللَّهِ
 نِعَم pl. | نِعْمَةٌ اللَّهِ s. f. | -esgabe
 عَالِمٌ بِاللَّاهُوتِ s. m. | -esgelehrte
 عِلْمُ اللَّاهُوتِ s. f. | -esgelehrtheit
 مَعَابِد pl. | مَعْبَد s. n. | -eshaus
 كَنَائِس pl. | -esfasten | كَنِيْسَةٌ
 صُنْدُوقُ الصَّدَقَاتِ s. m. | -es
 مُجَدِّفٌ s. m. | لَائِطِرِ s. m. | سَقَّار
 تَجْدِيْفِيّ a. | -eslästerlich
 تَجْدِيْف pl. | تَجْدِيْفٌ s. f. | لَائِطِرِ
 سَبُّ الدِّينِ s. m. | -esleugner
 كَافِرُونَ pl. | كَافِرٌ | زَنَادِقَةٌ pl. | زَنَدِيْق
 كِفَارٌ u. | كَفْرَةٌ u. | كُفَّارٌ u. | -esurteil
 مُقَاتَلَةٌ تَأْكِيْدًا لِذَعْوَى
 مُعْجِبٌ اللَّهِ a. | -heit | -gefällig
 أَلُوْهِيَّةٌ | أَلُوْهَةٌ | إِيْهَةٌ s. f.
 إِيْهٌ | اللَّهُ (Gott) - - | لَاهُوت
 إِيْهِيّ a. | گُوتْلِيْخ a. | الإِيْهَةُ s. f. | Götting
 عَظِيْمٌ | فَاضِلٌ - bld.
 الْحَمْدُ لِلَّهِ | -los a. | gott-lob! interject.
 زَنَادِقَةٌ pl. | زَنَدِيْق | سَقَّار | كَافِر

-losigkeit s. f. | كُفْرَانٌ | كُفْرٌ s. f.
 الإِيْهَةُ الْمُتَنَائِسُ s. m. | -menschl.
 الشَّيْطَانُ s. m. | -feibeius | الْمَسِيْحِيّ
 تَقِيّ a. | -elig | الإِيْبِلِيْس
 تَقْوَى s. f. | -eligkeit | -ver-
 -los | -verlassen a. | gefien a. f.
 شُوْمَى f. | أَشْمَامٌ | آتٍ بِسُوْمٍ
 إِيْتِكَالٌ عَلَى اللَّهِ s. n. | -vertrauen
 جَمِيْلٌ a. | -voll
 صَنَمٌ pl. | أَصْنَامٌ s. m. | Göthe
 وَثْنٌ pl. | وَثْنٌ | مَعَابِيْد pl. u.
 أَوْلِعٌ بِهِ أَحَدٌ - bld. | أَوْثَانٌ
 GÖTZE s. n. f. | -ndiener | -nbild
 عِبَادِ الْأَصْنَامِ s. m. | وَثْنِيّ pl.
 مُشْرِكٌ | جَاهِلِيّ | -ndienst s. m.,
 عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ s. f. | -nverehrung
 مُرَبِّيَّةٌ s. f. | GOUVERNANTE
 حُكُوْمَةٌ (Regierung) s. n. | Gouvernement
 وِلَايَةٌ (Provinz) - | GOUVERNEUR
 حَاكِمٌ pl. | حُكَّامٌ s. m. | عامل
 (einer Provinz türkf.) | - | عَمَّال
 (eines Regierungs- | وِلَاةٌ pl. | وال
 bezirks türkf.) | - | مُتَصَرِّفٌ
 (eines | - | مُدِيْرٌ | قَائِمٌ مَقَامُ
 Kreises türkf.)
 مَأْصُوفٌ s. n. | قُبُورٌ pl. | قَبْرٌ Grab
 تَرْبَةٌ (Leum) | تَرْبٌ pl. | مَدْفِنٌ
 دَاسْ هَيْلِيْغِسْ - | مَدْفِنٌ | قَبْرُ يَسُوعِ

- إِلَى الْمَمَات -e bis zum | في الْقُدْسِ
 ins - steigen u مات | in. zu -e
 tragen * i دَفَن | am Rande des
 -es stehen عَلَى الْمَوْتِ
- Graben s. m. حَفِيرَةٌ pl. حَفَائِرُ |
 graben vn. خَنَدَقِ pl. خُنْدَقُ *
 in der Erde حَفَرَ i الْأَرْضِ أَوْ فِي
 نَقَرَ u فِي (in Stein 2c.) - | الْأَرْضِ
 | jm. eine | نَقَشَ u هـ | الْحَجَرِ
 Grube u لَهُ شَرَكًا -
- Grab-gewand s. n. كَفَن - | hügel
 s. m. | Grab | -legung s. f.
 | ضَرَائِحِ pl. ضَرِيمِ s. n. -mal | دَفَن
 | مِحْفَرِ s. n. -heit | رُجْمِ pl. رُجْمَةٌ
 | مَقَالِبِ pl. مِقْلَبِ | مَحَافِرِ pl.
 | مَنَكُوشِ * | مَنَاكِيشِ pl. مَنَكَاشِ
 | تَأْرِيخِ عَلَى قَبْرِ s. f. -chrift
 | Grab | -stätte s. f. | تَوَارِيخِ
 | رُجْمِ pl. رُجْمَةٌ s. m. -stein
 | مَنَقَاشِ | مَنَقَشِ s. m. -stichel
- Grad s. m. دَرَجَةٌ pl. دَرَجَاتُ |
 | رُتَبِ pl. رُتْبَةٌ | دَرَجَةٌ (Rang) -
 | مَنَزِلَةٍ | مَرَاتِبِ pl. مَرْتَبَةٌ
 | الغَايَةِ - der höchsten | مَنَازِلِ
 | لِلْغَايَةِ -e im höchsten
- grade f. gerade.
 gradweise adv. تَدْرِيجًا.
- Graf s. m. (وَهُوَ لَقَبٌ * | قُمْسِ * كُونْتُ
 | لِبَعْضِ الْأَشْرَافِ مِنَ الْأَفْرَجِ)
 Gräfin s. f. | كُونْتُ * | امْرَأَةٌ الْكُونْتُ
 | مُخْتَصِّ بِالْكُونْتُ * | gräflich a.
 | مُلْكِ الْكُونْتُ * | Grafschaft s. f.
- Gram s. m. | غَمِ pl. غُمُومِ | آسَفُ
 | كُرُوبِ pl. كَرْبِ | كَابَةٌ | حُزْنُ
 gram, - sein jm., - werden jm.
 | حَقَّدَ | حَقَّدَ i عَلَيْهِ | أَبْغَضَ عَلَيْهِ
 | كَاشَعَ * | عَلَيْهِ
- grämen v. | اغْتَمَّ | تَكَدَّرَ | انْغَمَّ |
 | حَزَنَ a.
- grämlich a. | مُسْتَوْحِشِ | شَرِيْسِ |
 | بِلْدَامِ | ثَقِيلِ | شَرَّاسَةٌ s. f. -feit
 | اسْتِيْحَاشِ
- Gramm s. n. * | غَرَامِ
- Grammatik s. f. | النُّحُوِّ وَالصَّرْفِ |
 | كِتَابِ الصَّرْفِ وَالنُّحُوِّ (Buch) -
 | مَعْلَمِ الصَّرْفِ s. m. -er | أَجْرَمِيَّةُ *
 | نَحْوِيَّ | وَالنُّحُوِّ | grammatisch a.
 | نَحْوِيَّ
- gramvoll a. | مَعْمُومِ
- Gran s. m. | حَبَّاتِ pl. حَبَّةُ
- Granat s. m. | سِيَالِيْنِ pl. سِيَالَانِ
 | -apfel s. m. | أَعَقَّةُ pl. عَقِيْقِ
 | -apfel | رُمَّانَةٌ - - ein | رُمَّانِ coll.

- baum s. m., -baum s. m. شَجَرَةٌ | gratis adv. مَجَّانًا | بلاش *.
- الرَّمَان.
- Granate s. f. قُنْبُلَةٌ صَغِيرَةٌ pl. GRATULATION s. f. تَهْنِئَةٌ | gratulieren vn. jm. zu ب هَنَّا *.
- قَنَابِل.
- Granit s. m. صَوَّانٌ pl. GRAU a. شَهْبَاءٌ f. أَشْيَبٌ pl. (afch-) - | سِنَجَابِي * | شَهْبٌ | شَهْبٌ | أَكْهَبٌ (braun-) - | رَمَادِي اللُّونُ (-haarig) f. كَهْبَاءٌ pl. كُهْبٌ - | شَائِبٌ (Himmel) - | أَشْيَبٌ | darüber lasse ich mir fein -es Haar wachsen بِذَلِكَ | رَمَّ -en vn. u. رَمَّ -en a. قَصِيلٌ | -füterung s. f. قَصِيلٌ | -ig a. مُعْشِبٌ | عَشِبٌ | عاشب | -müde s. f. zool. نَوْعٌ مِنَ الطُّيُورِ الصَّغِيرَةِ.
- graffieren vn. (Epidemie) in einem Lande اسْتَوَلَى عَلَى الْبِلَادِ (وَبَاءً).
- gräßlich a. مَكْرُوهٌ | هَائِلٌ | مُخِيفٌ | adv. - (sehr) vulg. جِدًّا | -feit s. f. قَبَائِحٌ pl. قَبِيحَةٌ | إِخَافَةٌ s. f. أَمْرٌ مَكْرُوهٌ.
- Grat s. m. ذُرَى pl. ذُرْوَةٌ جَبَلٍ | قُنَّةٌ | قَلَّةٌ جَبَلٍ | شَعْفَةٌ جَبَلٍ | جَبَلٍ.
- Gräte s. f. حَسَكَةٌ pl. حَسَكَاتٌ | شَوْكَةٌ سَمَكٍ * | فِقْرَةٌ سَمَكٍ | grätig a. كَثِيرٌ الْحَسَكَاتِ (سَمَكٍ).
- Grattier s. n. أَوْعَالٌ pl. وَعَلٌ.
- Gratulation s. f. تَهْنِئَةٌ | gratulieren vn. jm. zu ب هَنَّا *.
- grau a. شَهْبَاءٌ f. أَشْيَبٌ pl. (afch-) - | سِنَجَابِي * | شَهْبٌ | أَكْهَبٌ (braun-) - | رَمَادِي اللُّونُ (-haarig) f. كَهْبَاءٌ pl. كُهْبٌ - | شَائِبٌ (Himmel) - | أَشْيَبٌ | darüber lasse ich mir fein -es Haar wachsen بِذَلِكَ | رَمَّ -en vn. u. رَمَّ -en a. قَصِيلٌ | -füterung s. f. قَصِيلٌ | -ig a. مُعْشِبٌ | عَشِبٌ | عاشب | -müde s. f. zool. نَوْعٌ مِنَ الطُّيُورِ الصَّغِيرَةِ.
- Gräuel f. Greuel.
- grauen vn. a. كَرِهٌ | ه | خَافٌ | es graut mir vor | أَكْرَهُهُ | أَخَافُ مِنْ | ظَهَرَ a. | طَلَعَ u. النَّهَارُ (Tag) - | der Morgen graute | النَّهَارُ | خَوْفٌ s. n. | شَقَّ الفَجْرُ | طُلُوعُ النَّهَارِ des Tages - | هَوْلٌ -haft a. مُخِيفٌ.
- grau-haarig a. شَائِبٌ | أَشْيَبٌ | -kopf s. m. رَجُلٌ أَشْيَبٌ.
- graulich a., gräulich f. كَهْبَاءٌ pl. كَهْبَاءٌ f. أَكْهَسٌ | كَلْسَاءٌ pl. كَلْسَاءٌ f. أَكْلَسٌ | قَهْبٌ pl. مُدْهَشٌ | هَائِلٌ | مُخِيفٌ | كَلْسٌ.
- Graupe s. f. شَعِيرٌ مُقَشَّرٌ.

graupeln vn. سَقَطَ u البردُ الدقيقُ.

Graus s. m. هائل | graus a. هائل |
مُخيف.

grausam a. (Person) جاف | قاس |
- (Sache) - (sehr stark) مر | مؤلم (Sache) -
شديد | -feit s. f. قساوة | جفاء |
جور.

Grauschimmel s. m. فرس ززورى.

Grausen s. n. هائل | خوف |
-haft a., grauig a., grauslich a. هائل |
مُخيف.

Gravität s. f. وقار | رزانة.

Grazie s. f. ملاحاة | لطافة | ظرافة |
graziös a. ملبيع | لطيف | ظريف.

Greif s. m. مغربة | مغرب | عنقاء.

greifbar a. واضح | greifen va. etw.

u. jn. امسك ه وه | امسك u, ه وه jn.

على | قبض i etw. mit den Händen

- können | أدرك ه جلياً | vn. zur

Feder - | أخذ u يكتب - | in seinen

eigenen Busen - | عن a فحص

تداخل - | ضميره

| تعشق * | اندمج | فى بعضهم

jm. unter die Arme - | ساعد s

um sich - | انتشر.

greinen vn. i بكى.

Greis s. m. اختيار * | شيوخ pl. شيخ

pl. اختيارية | greis a. أشيب |

شيوخة -enalter s. n. شائب |

كبر | هرم | شيب | شيخوخية

-enhaft a. بنوع الشيوخ -in s. f.

اختيارية * | عجائز u. عجز pl. عجوز

grell a. عال | ثاقب | خارق | حاد

(صوت).

Grenadier s. m. الطويل القامة

من البيادة

Grenze s. f. (eines Landes) حد

ثغر | تخوم pl. تخم | حدود pl.

نهاية (das Äußerste) - | ثغور pl.

die -n überschreiten | حد | آخر

sich in den -n halten | تجاوز الحد

-n va. an | وقف i عند الحدود

-nos a. | جاور ه | اتصل ب

| غير محدد | بلا نهاية | بلا حد

Grenzlinie s. f. خط فاصل | Grenz-

nachbar s. m. مجاور | Grenzstein

s. m. نصب | علم u. أعلام pl. علم

pl. أنصاب.

Greuel s. m., Greuelthat s. f.

شيء مكروه | قبائح pl. قبيحة

greulich a. مخيف.

Griechen s. m. (Alt-) يوناني | die -n

die -n | رومي (-Neu-) | اليونان

-nland n. pr. (Alt-) | الأروام | الروم

- | بلاد الروم (-Neu-) | بلاد اليونان
 griechisch a. (alt-) | يوناني (-neu-)
 روم كاثوليك (-katholisch) | رومي
- Gries s. n. | مَجْرُوش | جَرِبِش
 | بُرْغَل * | مَجْشُوش | جَشِيش
 -gram s. m. | رَجُل مُتَدَمِّر
 -grämig a. | رِزَام | رَجُل مُدْمِم
 سَوْدَاوِي | مُدْمِم | مُتَدَمِّر
- Griff s. m. | مَس | لَمَس (eines
 muſ. Instrumentes) | مَلْمَس pl.
 | دَسَاتِين pl. | دَسْتَان | مَلَامَس
 - (eines Werkzeugs) | مَقْبِض
 pl. | آيِد | (des Schwertes)
 قَائِمَة | مَقْبِض | السَيْف
- Griffel s. m. | أَقْلَام pl. | قَلَم
 pl. | مَرَاقِم | مَرَاقِم
- Grille s. f. zool. | صَرَار اللَّيْل
 | صُرُور | زِيَان pl. | زِيَر | جُدْجُد
 (-Laune) | جِيَان pl. | جِيَز *
 | أَهْوَاء pl. | هَوَى | مُرَاد دُون دَاعِ
 مُتَفَكِّر s. m. | -nfänger | لَطْشَة *
 | نَابِع هَوَاه | فِي الْهَوَا جِس
 مَلْطُوش * a. | -haft | مَلْطُوش *
- Grimasse s. f. | صَعْر الْوَجْه
 -n | كِشْرَة * | الْوَجْه
 كَشْر * | عَجَى | صَعْر وَجْهَهُ
- Grimm s. m. | حَنْق | غَضَب | غَيْظ
 grim a. | f. | grimmig.
- Grimmen s. n. (Bauch-) | مَعْص.
- grimmig a. | حَنْق | غَضَب | غَيْظ
 - (sehr stark) | شَدِيد.
- Grind s. m. | قَرَعَة | -ig a. | أَقْرَع f.
 | حَلِم | قُرَع pl. | قُرَعَاء
- grinſen vn. a. | ضِحْك | هَانَف | تَهَانَف
 Grinſen s. n. | ضِحْك | هِنَاف | مَهَانَفَة
- Grippe s. f. | نَزَلَة | زَكَام
- Grips s. m. vulg. | عَقْل.
- grob a. | غَلِيظ | حَشِين
 - (unhöflich) | - (dicke) | نَحِين
 | غَيْر مُتَهَدِّب | غَلِيظ | حَشِين
 -es Wetter naut. | سَمِيح * | سَفِيه
 | حُشُونَة | غِلَاطَة s. f. | هَيْت
 | رَجُل غَلِيظ | -ian s. m. | نَخَانَة
 | حَشِين | غَلِيظ | - (sehr
 stark) | زَائِد | شَدِيد | Grobschmied
 s. m. | حَدَاد.
- Grog s. m. | شَرَاب الْمَاء وَالْعَرَق
- gröhlen vn. | غَتَى سُوء الْغِنَاء
- Groll s. m. | حَقِيْدَة | حِقْد
 | كَيْد | غَل | gegen jm. - hegen | f.
 | حَقْد | عَلَيْهِ | -en vn. | jm. | grollen

(Donner, Meer 2c.) | كَشَحَ ه | كَشَحَ a لَهُ
 اِرْتَجَسَ | دَوَى .
 Gros s. n. (der Armee 2c.) مُعْظَم
 en gros | أَكْثَرُ الْجَيْشِ | الْجَيْشِ
 بِالْجُمْلَةِ .
 Groschen s. m. نَوْعٌ مِنَ نُقُودِ الْفِصَّةِ .
 Groß s. n. اِثْنَتَا | اِثْنَا عَشَرَ دَسْتِ
 عَشْرَةَ دَرِيْنَةَ *
 groß a. كَبِيْرٌ pl. | كِبَارٌ - (von
 Wuchs) | شَدِيْدٌ (stark) - | طَوِيْلٌ (Wuchs)
 (großartig, mächtig) - | كَثِيْرٌ قَوِيٌّ
 die Großen pl. | جَلِيْلٌ | عَظِيْمٌ
 die Großen des Reichs | الأَعْيَانِ | الأَكْبَارِ
 im -en | أَرْبَابِ الدَّوْلَةِ
 | عَظْمٌ u | كَبُرٌ u | - | بِالْجُمْلَةِ
 - thun تَكَبَّرَ | sich - thun mit
 | كَلَامٌ مُفْتَحَمٌ -e | تَكَبَّرَ بِ
 -artig a. | كَبِيْرٌ | عَظِيْمٌ
 s. f. | عَظْمَةٌ - brittannien n. pr.
 بِرِيْطَانِيٍّ a. -| بِرِيْطَانِيَّا
 Größe s. f. | عَظْمٌ | كَبُرٌ | كِبُرٌ - (an
 Wuchs) | قَدٌّ | قَدٌّ - (Betrag)
 (Bedeutung) | مَقْدَارٌ | أَقْدَارٌ pl. | قَدْرٌ
 | جَلَالَةٌ | جَلَالٌ | عَظْمَةٌ (deutung)
 - der | مَعَالٍ pl. | مِعْلَاةٌ | أَهْمِيَّةٌ
 شَرَفَ النَّفْسِ Seele .
 Großeltern s. pl. | الجَدَّانِ .

Größenlehre s. f. math. عِلْمُ
 -verhältnis s. n. | الرِّيَاضِيَّاتِ
 -wahn s. m. | نِسْبَةٌ رِيَاضِيَّةٌ
 عَظْمَةٌ مَوْهُومَةٌ .
 Groß-fürst s. m. بَرِيْنَسٌ مِنَ بَرِيْنَسَاتِ
 -handel s. m. | رُوْسِيَا | بِيْجَارَةٌ
 -heit s. f. f. Größe | بِالْجُمْلَةِ
 -herr s. m. | البَادِشَاهُ | السُّلْطَانُ
 -herzig a. شَرِيْفٌ النَّفْسِ
 -herzigkeit s. f. شَرَفُ النَّفْسِ
 -herzog s. m. كَرَانٌ دُوْكََا * | لَقَبٌ
 -herzogin | بَعْضُ الأُمْرَاءِ الأَلْمَانِيَّةِ
 s. f. | اِمْرَأَةٌ كَرَانٌ دُوْكََا *
 -lich a. | مُخْتَصَرٌ بِكَرَانٍ دُوْكََا *
 -herzogtum s. n. | كَرَانٌ دُوْكَِيَّةٌ *
 -jährig a. | رَشِيْدٌ * | بَالِغٌ
 werden | أَرْشَدٌ - | jähigkeit s. f.
 دَوْلَةٌ كَبِيْرَةٌ | -macht s. f. | بُلُوْغٌ
 pl. | دُوٌّ القُدْرَةُ a. | مَاقِيْطٌ - | دُوْلٌ
 -mama s. f. f. | (لَقَبُ المَلُوْكَ)
 -mutter | -maul s. n. | اِنْسَانٌ فَشَّارٌ
 -mäulig a. | فَشَّارٌ | -mut s. f. شَرَفٌ
 | نَجَابَةٌ | كَرَمٌ النَّفْسِ | النَّفْسِ
 | شَرِيْفٌ النَّفْسِ (Person) | -mütiga
 | نَجِيْبٌ | كَرِيْمٌ النَّفْسِ (Hand-
 lung) | صَادِرٌ مِنَ كَرَمِ النَّفْسِ
 -mutter s. f. | جَدَّةٌ * | -onkel

s. m. | أَخُو الْجَدِّ أَوْ الْجَدَّةِ -papa
 s. m. | جَدِّ -sohn s. m. | حَفِيد
 | إِبْنِ الْآبِنِ | -sprecher s. m.
 pl. | صِلْف | جَنَاف | مُتَحَدِّق
 | -sprecheri | -فَشَار* | صُلْفَاء u. صِلَافِي
 s. f. | صَلْف | جَنُف | تَحَدُّق
 | -stadt | -فَشَار* | -spurig a.
 s. f. | مَدِينَةٌ كَبِيرَةٌ -städter s. m.
 | ساكِن مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ | -städtisch
 a. | مُخْتَص بِمَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ -tante
 s. f. | أُمَّة | أُخْتُ الْجَدِّ أَوْ الْجَدَّةِ
 | مَآثِر pl. | مَآثِرَةٌ s. f. | -that
 pl. | مَفْخَرَةٌ | سَطَوَات pl. | سَطَوَةٌ
 | فَشَار* s. m. | -thuer
 | -vater s. m. | -thueri s. f. | فَشَار*
 s. m. | -vezier s. m. | أَجْدَاد pl. | جَدِّ
 | -würdenträger | الصَّدْرُ الْأَعْظَمُ
 s. pl. | أَكْبَاب | أَرْبَابِ الدَّوْلَةِ
 الدَّوْلَةِ.

grotesk a. | غَرِيب.

Grotte s. f. | مَغَارَةٌ pl. | مَغَاوِر
 pl. | كُهُوف.

Grube s. f. | حُفْرَةٌ pl. | حُفَر
 pl. | قُغُور | - (zum fangen von
 Tieren) | مَغَاوِ pl. | مَغَاوِ
 pl. | جُورَةٌ* | مَغَاوِ
 pl. | جُور | - (Bergwerk)

pl. | مَعَادِن | - (Grab) | قَبْر | in
 die - fahren u. مات.

Grübchen s. n. | حُفَيْرَةٌ | - (in den
 Wangen) | غَار pl. | أَغْوَار
 هَزْمَةٌ الذَّقْنِ | الذَّقْنِ.

Grübeleien s. f. | مُبَالِغَةُ التَّدْقِيقِ
 | إِفْرَاطُ التَّدْقِيقِ | grübeln vn. | بَالِغ
 دَقَّقَ فِي | فِي التَّدْقِيقِ.

Grubenarbeit s. f. | المَعَادِنِ فِي
 -arbeiter s. m. | المَعَادِنِ فِي
 pl. | مَعْدِن | فَعَلَةٌ s. m. | f.
 Grubenarbeit.

Grübler s. m. | رَجُلٌ مُفْرِطٌ فِي
 | التَّدْقِيقِ | -ifch a. | فِي
 التَّدْقِيقِ.

Gruft s. f. | قَبْرٌ pl. | قُبُور.

Grummet s. m. | مَا يَنْبُتُ مِنْ
 الأعشاب بعد الحصاد.

grün a. | خَضِرٌ pl. | خَضِرَاءُ f. | أَخْضَرُ
 | مُدْهَمٌ | دَهْمَاءُ f. | أَدْهَمُ (-dunkel-)

- (unreif von Obst) | فِجَّ bld. -

- fein od. | غَيْرٌ خَبِيرٌ | جَدِيدٌ

werden a. | إِخْضَرَ | خَضِرَ | es wird

mir - und gelb vor den Augen

auf einen -en Zweig

kommen | أَفْلَحَ | نَجَحَ | a. | jm. nicht

- sein | أَبْغَضَ s. Grün s. n.

Mutter - | لَوْنٌ أَخْضَرٌ | خُضْرَةٌ
الأرض.

Grund s. m. قَعْرٌ pl. قُعُورٌ | قاع
pl. | الأسْفَلُ | قِيعَانٌ (Erdober-
fläche) | أَرْضٌ pl. | (Thal)
| أَوْدِيَةٌ pl. | وادٍ (Grundlage)
| سَبَبٌ (Ursache) | أَصْلٌ | أساس
| بَوَاعِثٌ pl. | بَاعِثٌ | أَسْبَابٌ pl.
| مُوجِبٌ | كَوَاعٍ pl. | داعٍ
| عَقَارَاتٌ | ضِيَعٌ | Gründe
| خَفَايَا | أَرْزَاقٌ * | des Herzens
| تَمَامًا - e | aus dem | القَلْبِ
| حَقِيقَةً - e | im | أَصْلًا -
| zu - e gehen | هَلَكٌ | in. zu - e richten
| أَهْلَكَ | ein Schiff in den -
| أَعْرَقَ مَرْكَبًا | den - legen
| أَتَسَّسَ هُ | einer Sache dat.
| إِسْتَقْصَى هُ | - kommen
| الأَشْرَافُ أَصْحَابُ ضِيَعٍ | - adel s. m.
| شَرْطٌ أَصْلِيٌّ | - bedingung s. f.
| تَعْرِيفٌ أَصْلِيٌّ | - begriff s. m.
| أَصْحَابٌ | مُلْكٌ | عَقَارٌ | - besitz s. m.
| صَاحِبٌ مُلْكٌ | - besitzer s. m.
| أَصْحَابٌ pl. | - buch s. n. | تَقْوِيمٌ
| أَهْلًا | بَدَدٌ | - eigentum s. n. |
| - besitz | - eigentümer s. m. |
| besitzer.

gründen va. etw. هُ | أَنشَأَ هُ |
- | بَنَى | i | المَدِينَةَ | Stadt -
| أَقَامَ هُ | - etw. auf
| إِسْتَنَدَ هُ | - auf | إِسْتَنَدَ هُ | sich
| مُؤَسِّسٌ s. m. | Gründer | إِسْتَنَدَ هُ |
| مُنْشِئٌ.

Grund-feste s. f. | -lage | -form
| صُورَةٌ أَصْلِيَّةٌ s. f. | -gesetz s. n.
| قَانُونٌ أَصْلِيٌّ | -herr s. m. | صَاحِبٌ
| أَصْلٌ | أساس s. f. | ضِيَعَةٌ |
| أَصُولٌ pl. | أساس pl.

gründlich a. | إِسْتِقْصَائِيٌّ | -feit s. f.
| إِسْتِقْصَاءٌ.

Gründling s. m. | بُورِيٌّ pl. | بُوَارِيٌّ.

Grund-linie s. f. math. | قَاعِدَةٌ pl.
| عَمِيقٌ جِدًّا | بلا قَعْرٍ | -los | قَوَاعِدُ
| - (Weg) | وَعْرٌ | - (nicht be-
| بلا دَاعٍ | - | بلا سَبَبٍ | gründet)
| عَدَمٌ | عُمُقٌ | بلا قَعْرٍ | -losigkeit s. f.
| أَصْلُ الحَايِطِ | -mauer s. f. | الدَاعِيُّ.

Gründonnerstag s. m. | خَمِيسٌ
| الخَمِيسُ | الخَمِيسُ | العَهْدُ | الغُسْلُ
| الكَبِيرُ.

Grund-riß s. m. | رَسْمٌ pl. | رُسُومٌ |
| قَاعِدَةٌ pl. | قَوَاعِدُ | -satz s. m.
| مَبَادِيٌّ | ohne Grundsätze
| سَيِّئٌ | السَّيِّئَةُ | -fäglich (Person)

a. موافق القواعد | -schuld s. f.
 دَيْن رَهِين عَلَى مُدْك | -stein
 s. n. أساس البناء | -steuer s. f.
 وَبِرْكُو* (in der Türkei) | خراج
 عُنْصُر pl. | -stoff s. m. بِرْكُو*
 -strich s. m. der Buch-
 pl. أَرْجُل | رَجُل الْأَحْرَفِ
 -stück s. n. أَرْض pl. | عَقَار
 pl. مُدْك لَا يُنْقَل | عَقَارَات pl.
 أَمْلاك.
 بِنَاء | تَأْسِيس s. f. Gründung
 اِقَامَة | اِنْشَاء.
 عَدَد أَصْلِيّ | gr. Grund-zahl s. f.
 أَمِيرِيّ عَلَى صَاحِب | -zins s. m.
 pl. أَصْل | -zug s. m. مُدْك
 أَصُول.
 اِخْضَرَ | خَضِرَ a. grünen vn.
 قَصِيل | -fohl Grün-futter s. n.
 مَلْفُوفَ أَخْضَرَ | -fram s. m.
 خُضَار* | خُضَار | -fram-
 بَقَال | خُضَار s. m. händler
 خُضْرِيّ* | خُضْرِيّ* | -fraut
 ضَارِب | -lich a. -fram s. n. f.
 صَيَّاد | -rock s. m. صَيَّاد
 رَجُل غَيْر مُجَرَّب | -schnabel s. m.
 رَجُل غَيْر خَبِير | -span s. m.
 زُنْجَار | جُنْزَار.

اِقْبَع a (الْحِنْزِيرُ) (Schwein) grunzen vn.
 هَمَمَم | هَمَمَم | نَحَرَ | i, u
 هَمَمَمَة | نَحِير | قُبُوع
 مَجْمُوع s. f. Gruppe
 جَمَاعَة | قَوْم | gruppieren va.
 جَمَل u ه | جَمَع a ه | etw.
 اِجْتَمَع - | لَم u ه | sich
 es gruselt mir vor gruseln vn.
 أَخَاف مِّنْ.
 تَسْلِيم | سَلَام s. m. Gruß
 تَحَايَا | u. تَحِيَّات pl. | jm. einen
 بَلَّغ ه السَّلَام | -senden, entbieten
 رَدَّ u عَلَيْهِ | -js. erwidern
 سَلَّمَ عَلَيْهِ | in. | grüßen va. | السَّلَام
 حَيَّى ه بِالسَّلَام | in. | - von jm.
 بَلَّغ ه السَّلَام مِنْهُ | in. | - lassen
 قَرَأَ a عَلَيْهِ السَّلَام | بَلَّغ ه السَّلَام
 أَقْرَأَ ه السَّلَام | Gott grüße Dich!
 السَّلَام عَلَيْكَ.
 جَرِبَش | مَجْرُوش s. f. Grütze
 بُرْغَل | جَشِيش | - vulg. (Grips)
 عَقْل.
 نَظَرَ | u | رَأَى a gucken vn.
 خَادَعَة | خَوْخَة بَاب | fenster s. n.
 مُبْتَدِيّ s. m. Guckindiewelt
 سُنْدُوقَة | جاہل | Guckkasten s. m.
 الفُرْجَة.

Guillotine s. f. آلة لِقْطَعِ الرَّأْسِ |
guillotiniieren va. jn. قَطَعَ a رَأْسَهُ.

Guinee s. f. جِنْيَّة *.

Guirlande s. f. أَكْلِيلٌ مِنْ أَغْصَانٍ |
pl. أَكَالِيلٍ مَعَ أَزْهَارٍ.

Guitarre s. f. طُنَابِيرٌ pl. طُنَابِيرٌ |
pl. كِنَارَةٌ * | قِيَابِيرٌ pl. قِيَابِيرَةٌ *
كِنَابِيرٌ.

Gulden s. m. نَوْعٌ مِنْ نُقُودِ الْفِضَّةِ.

gültig a. مَقْبُولٌ | مُعْتَبَرٌ | رَائِحٌ |
مُسْتَصَوَّبٌ | مُسْتَحْسَنٌ | جَارٌ
صِحَّةٌ | إِعْتِبَارٌ | زَوَاجٌ s. f. -keit
صَلَاحَةٌ.

Gummi s. n., s. m. (arabicum)

صَمْغَةٌ - Stück | صَمْغٌ | صَمْغٌ |
-baum | جِلْدٌ مَرِنٌ (elasticum) -
gutt | طَلْحٌ كَثِيرٌ الصَّمْغِ s. m.
صَمْغٌ الصَّنُوبَرِ الْأَصْفَرِ s. n.
صَمْغٌ مِنَ الصَّنُوبَرِ s. n. -harz
| جَالُوشٌ * s. m. -schuh | وَغَيْرُهُ
مَا يُلْبَسُ فَوْقَ الْأَحْذِيَّةِ مِنَ الْجِلْدِ.

Gunst s. f. إِحْسَانٌ | جَمِيلٌ

نِعْمَةٌ | أَفْضَالٌ pl. فَضْلٌ | مَعْرُوفٌ
رِضَاءٌ (Wohltwollen) - | نِعْمٌ pl.
- | إِعْتِبَارٌ (Ansehen) - | لُطْفٌ
عُضْدٌ | مُسَاعَدَةٌ | رِعَايَةٌ (Schutz)
- | jn. eine - | عِنَايَةٌ | أَعْضَادٌ pl.

erweisen, erzeigen اَنْعَمَ عَلَيْهِ |

تَفَضَّلَ عَلَيْهِ * | أَفْضَلَ عَلَيْهِ |

sich js. - erwerben اسْتَعْطَفَ

bei jm. in - stehen خَاطِرُهُ

بِالْأَعْضَادِ - nach | حَظِيَ a عِنْدَهُ

zu -en js. نَفْعًا لَهُ | -bezeigung

s. f. f. Gunst.

günstig a. jn. (Person) مُتَلَطِّفٌ لَهُ |

(Sache) - | مُعْطِفٌ | ذُو الْاَلْتِنَاتِ

مَيْسُورٌ | مُنَاسِبٌ | مُفِيدٌ | نَافِعٌ

Günstling s. m. اَعْرَظَةٌ pl. عَزِيْزٌ

نُدْمَاءٌ pl. نَدِيمٌ.

Gurgel s. f. حَلَاqِيمٌ pl. حُلُقُومٌ

حَنْجَرَةٌ | حُلُوقٌ pl. حَلْقٌ

jm. die - abschneiden حَنَاجِرٌ

alles durch die | ضَرَبَ i عُنُقَهُ

-jagen | اَسْرَفَ مَالَهُ بِالشَّرْبِ -

v. n. تَغَرَّغَرٌ.

Gurke s. f. خِيَارٌ | قِتَاءٌ | -nbeet

s. n. مَقْتَنَاءَةٌ | -nsalat s. m. سَلَاطَةٌ

خِيَارٌ *.

gurren vn. f. girren.

Gurt s. m. حَزْمٌ pl. حِزَامٌ

-bett | سِيُورٌ pl. سِيْرٌ | حَزَائِمٌ pl.

فِرَاشٌ عَلَى سِيُورٍ s. n.

Gürtel s. m. مَنَاطِقٌ pl. مَنَاطِقَةٌ

-rose s. f. med. | زُنَابِيرٌ pl. زُنَارٌ

gütlich a. بِالتَّوَّاضِعِ | sich - thun
 an einer Speise تَلَدَّدَ فِي الطَّعَامِ
 gut-mütig a. لَيِّنٌ | أَنِيسٌ | حَلِيمٌ | الجانب
 -mütig | سَهْلُ الخَلِيقَةِ | الجانب
 Feit s. f. حِلْمٌ | -sagen vn. für
 ضَمِنَ a لٍ | تَكْفَّلَ عن
 Gutsbesitzer s. m., Gutsherr s. m.
 أَصْحَابٌ pl. صَاحِبِ ضَيْعَةٍ
 Gut-schein s. m. وَرَقَةُ الدَّفْعِ |
 -schreiben va. jm. etw. لَهْ | قَبِدْهُ
 -that s. f. إِحْسَانٌ | -willig a.
 -willigkeit | بِالْأَخْتِيَارِ | اخْتِيَارِي
 s. f. اخْتِيَارٌ.
 Gymnast s. m. تَلْمِيزٌ فِي مَدْرَسَةٍ
 مَدْرَسَةٌ vn. تَجْهِيزِيَّةٌ | تَجْهِيزِيَّةٌ
 Gymnastik s. f. رِيَاضَةُ الجِسْمِ |
 -treiben | تَرَاوَفٌ | تَرَاوَفٌ
 -er | لَعِبَ a بِالْجُمْبَازِ* | تَرَاوَفٌ
 | لَاعِبٌ بِالْجُمْبَازِ* | تَرَاوَفِي s. m.
 gymnastisch a. رِيَاضِيٌّ | تَرَاوَفِيٌّ.
 Gyps f. Gips.

H

الحَرْفُ الثَّامِنُ مِنْ حُرُوفِ الحِجَاءِ هـ
 ha! interject. هُوِيٌّ | هُوِيٌّ.
 Haar s. n. شَعْرٌ pl. شُعُورٌ u. أَشْعَارٌ

u. شِعَارٌ | ein - شَعْرَةٌ | graues,
 weißes - شَيْبٌ | falsches - شَعْرٌ
 | بِالْكُلِّ - | mit Haut u. | مُسْتَعَارٌ
 einander in die -e geraten | تَشَاجَرَ
 er hat -e auf den Zähnen عِنْدَهُ
 | es ist kein gutes - an ihm
 قُوَّةٌ | هُوَ رَجُلٌ سَوْءٌ | -bürste s. f.
 | فُرْشَةُ الشَّعْرِ | -büschel s. m.
 كُشَّةٌ | فِيلِيلٌ | خُصْلَةٌ pl. خُصَلَةٌ
 | شَوْشَةٌ* | كُشَشٌ pl. | -en vn.
 | غَيَّرَ شَعْرَهُ | بَدَّلَ شَعْرَهُ -en,
 | شَعْرِيٌّ | -ig a., hārig
 | أَشْعَرٌ f. زَبَّاءٌ | أَزَبٌ a.
 | تَفْصِيلاً | -flein adv. شَعْرٌ pl.
 | مُزَيِّنٌ | -locke s. m. | نَاصِيَةٌ
 s. f. | نَوَاصِيٌّ pl. | خُصْلَةٌ
 | زُرَافِيْنٌ pl. | زُرَافِيْنٌ pl. | خُصْلَةٌ
 | إِبْرَةٌ | إِبْرَةُ الشَّعْرِ s. f. | -nadel
 | قَرَامِلٌ | قَرَامِلٌ pl. | قَرْمِلٌ
 | زِبْنَةُ الرَّأْسِ | -scharf a. | قَاطِعٌ
 جِدًّا.

Habe s. f. مُلْكٌ | مالٌ | Hab u.
 المنقولات و العقارات Gut

haben va. etw. u | مَلِكٌ i هـ | كان
 | كان له شيءٌ | عِنْدَهُ شَيْءٌ
 | كان معه شيءٌ | lieb - jn. od.
 | أَحَبَّ هـ و هـ | ich möchte
 etw. هـ و هـ

etw. - | أَرِيدُهُ | sich - u | سَلَكَ |
 es ist zu - (es giebt) | فِيهِ | es
 ist zu - (zu verkaufen) | هُوَ مَعْرُوضٌ |
 Haben s. n. comm., Soll
 u. - | مَا عَلَيْهِ وَمَا لَهُ فِي الْحِسَابِ |
 Habenichts s. m. | رَجُلٌ فَقِيرٌ.

Haber s. m. |. Hafer.

Habgier s. f. |. Habsucht | -ig a.
 |. habgierig | habhaft a., einer
 Sache gen. - werden | قَبِضَ عَلَيْهِ |
 |. اسْتَوْلَى عَلَيْهِ.

Habicht s. m. | بَوَاشِقٌ pl. |
 |. أَنْفٌ قَانٍ -snase.

Habilitation s. f. | قبول يبين الأساتذة
 | habilitieren v. | في دار الفنون
 | قبل يبين الأساتذة | في دار
 | الفنون.

Hab-schaft s. f. |. -seligkeit | -selig-
 |. مال | أملاك pl. | ملك s. f.
 | طَمَعٌ | -sucht s. f. | أموال pl.
 | طَمَاعٌ | طامع a. | طامع.

Hackbeil s. n. | قَدَائِمٌ pl. | قَدُومٌ
 | قَدُمٌ | Hackbrett s. n., Hackebrett
 | ألواح pl. | لَوْحٌ | جُدَعٌ عَلَيْهِ s. n.
 | (arab.) | سَنُطُورٌ | سِنُطِيرٌ - mus.
 | Hacke s. f., Hacken s. m. | قَانُونٌ
 | كَعْبٌ * | أعقاب pl. | عَقَبٌ

s. f. (Werkzeug) | مُحْفَرٌ pl. | مَحَاوِرٌ |
 | مَنَاقِشٌ pl. | مَنَاقِرٌ pl. | مَنَاقِرٌ
 | مَنَاقِشٌ * | مَنَاقِشٌ |
 | قَطَعَ الحَطَبَ | Holz | Fleisch
 | هَرَمَ اللِّحْمِ | كَتَعَ اللِّحْمِ - Erde
 | حَفَرَ | الأرض | نَكَّشَ الأرض.

Häckerling s. m., Häcksel s. m. | رُفٌ.

Hackmesser s. n. | مَحْدَعٌ pl. | مَحَادِعٌ.

Hader s. m. (Lumpen) | خِرْقَةٌ pl.
 | شَرَاطِيطٌ pl. | شَرُطُوطَةٌ * | خِرْقٌ
 | مُنَازَعَةٌ | نزاع (Streit) -

hadern va. mit jm. | شَاجَرَهُ | نَازَعَهُ
 | خَانَقَهُ.

Hafen s. m. (Gefäß) | إِنَاءٌ pl. | آنِيَةٌ
 | أَبَارِيقٌ pl. | أَبَارِيقٌ | أَوَانٌ u.
 | مَرَفَأٌ | مَرَايِي pl. | مَرُوسَى (See-) -
 | مَرَايِي pl. | مَرَايِي pl. | مَرَايِي
 | دار الراحة | - bld. | مَرَايِي
 | رَثِيسٌ s. m., -meister s. m. |
 | مَرَايِي pl. | مَرَايِي * | مَرَايِي
 | مَرَايِي.

Hafer s. m. | خَرُطَالٌ | قُرْطُمَانٌ
 | هُرْطُمَانٌ * | شُوفَانٌ.

Haff s. n. | خَلِيجٌ pl. | خُلُجَانٌ.

Haft s. f. | قَبْضٌ | حَبْسٌ |
 | قَبِضَ عَلَيْهِ | حَبَسَ |
 | حَبَسَ | حَبَسَ |

-bar a. ضَامِنٌ | مَسْؤُولٌ -bar-
 feit s. f. ضَمَانَةٌ | مَسْؤُولِيَّةٌ
 -befehl s. m. أَمْرٌ بِحَبْسٍ -en
 vn. an | تَعَلَّقَ بِ | التَّصَقَّ بِ |
 ضَمِنَ a ه -- | لَزِمَ a ه | أَوْ بِ
 -ung s. f. | تَكْفَّلَ بِ | أَوْ بِ
 تَكْفَّلَ | ضَمَانَ.

Ḥag s. m. (Hecke) حَسَكٌ | سِيَاجٌ
 pl. دَغَلٌ (Gebüsch) - | سِيَاجَاتٌ pl.
 ḥage-büchen a. غَلِيظٌ | حَشِينٌ |
 -butte s. f. bot. ثَمْرَةٌ عُلْيَقُ الْكَلْبِ
 -dorn s. m. bot. زُعْرُورٌ | بُوتٌ
 pl. زَعَارِيرٌ.

Ḥagel s. m. بَرَدٌ | bld. (Menge)
 تَكَاثُرٌ | ثَوَاتِرٌ - (Bleischrot)
 | مُتَوَاتِرٌ | مُتَكَاثِرٌ - | خُرْدُقٌ
 -n vn., es ḥagelt | بَرَدَتِ السَّمَاءُ
 | بَرَدَتِ الْأَرْضُ.

ḥager a. هَزِيلٌ | نَحِيلٌ | نَحِيفٌ
 -feit s. f. | نُحُولٌ | نَحَافَةٌ

Ḥagestolz s. m. رَجُلٌ أَعَزَّبٌ.
 Ḥäher s. m. zool. أَبُو زُرْبُقٍ | زُرْبُقٌ
 Ḥahn s. m. | دُبُوكٌ pl. دِيكٌ - der
 Vögel | ذَكَرُ الطِّيُورِ - | einer flinte
 | زَنْدُ الْبُنْدُقِيَّةِ - | (an Wasser-
 leitung 2c.) | حَنْفِيَّةٌ * pl. لَوَلَبٌ
 | لَوَالِبٌ | jm. den roten - auf

das Dach setzen | أَحْرَقَ دَارَةً |
 -ebüchen a. f. ḥagebüchen | -enfuß
 s. m. bot. | حَوْلَانٌ | صَفِيرٌ
 -enfamm s. m. | كَبِيكٌ | السَّبْعُ
 -enschrei s. m. | عُرْفٌ pl. عُرْفٌ
 | صُقَاعُ الدِّيكِ | زُقَاعُ الدِّيكِ
 -ensporn s. m. | دَابِرَةٌ الدِّيكِ
 | مُعَرِّصٌ -rei s. m. | كَلَّابُ الدِّيكِ
 -- | مَقَرَّنٌ | قَرْنَانٌ | wissenschaftlicher
 | حال القَرْنَانِ s. f. | قَوَادٍ -reischaft
 | تَعْرِيصٌ | قَوَادَةٌ.

Ḥai s. m., Ḥaiſiſch s. m. كَلْبُ الْبَحْرِ
 | أَبُو مَنْشَرٌ | زَفَا.

Ḥain s. m. | غَابَةٌ صَغِيرَةٌ | غَيْضَةٌ
 | المَوْتُ - | حَدِيقَةٌ | friend

Ḥäfelarbeit s. f., Ḥäfelei s. f. شُغْلٌ
 | ḥäfelig a. | مَعْمُولٌ بِالصَّنَارَةِ
 | اشتغَلَ | ḥäfeln vn. | مُتَوَعَّرٌ | صَعْبٌ
 | Ḥäfelnadel s. f. | بِالصَّنَارَةِ
 pl. صَنَانِيرٌ.

Ḥafen s. m. | كَلَّابٌ pl. كَلَالِيْبٌ |
 | شَنَاكِلٌ pl. | شَنْكَلٌ * | die Sache
 | hat einen | صُعُوبَةٌ -

halb a. | نِصْفٌ | eine -e Stunde
 | بِالكِفَايَةِ - | نِصْفُ سَاعَةٍ - u.
 | إِخْوَةٌ أَخْيَافٌ pl. -brüder | تَقْرِيْبًا
 -dunkel s. n. | ضَوْءٌ نَاقِصٌ.

halben, halber praep. c. gen.

بِسَبَبِ ال...

Halb-gott s. m. | قَرِيدَ عَصْرِه | إنسان

| تَرَدَّد | تَحْيِير s. f. | -heit | مَشْهُور

| نَصَّف ه | -ieren va. etw. | اِرْتِيَاب

| جَزِيرَة | شِبْه جَزِيرَة s. f. | -insel

| نِصْف s. n. | -jahr | جَزَائِر pl.

| حَادِث كُل | -jährlich a. | السَّنَة

| نِصْف s. m. | -freis | نِصْف السَّنَة

| نِصْف كُرَة s. f. | -Fugel | الدائِرَة

| نِصْف كُرَة s. m. | -messer | نِصْف كُرَة الأَرْض

| نِصْف قَطْر الدائِرَة | -mond s. m.

| -mond | أهاليل u. أهلة pl. | هلال

| -part s. m. | مُوَقَّل | förmig a.

| نِصْف ه | -feiden a. | شَطْر | نِصْف

| pl. | -stiefel s. m. | خُف | حَرِير

| pl. | لَسْتِيك * | جَزِيمَة * | خِفَاف

| حَادِث | -stündlich a. | جَزِيمَات

| -weg s. adv. | كُل نِصْف السَاعَة

| النساء s. f. | -welt | مُتَوَسِّطًا

| علم s. n. | -wissen | الفاجِحَة

ناقص.

Halde s. f. | ضِلَع الجَبَل.

Halbte s. f. | أنصاف pl. | نِصْف | شَطْر

| die bessere | أشطار u. شَطور pl.

| etw. in | القَرِينَة | الزَوْجَة -

zwei -n teilen ه نَصَّف.

Halfter s. f., Halfterband s. n.

| مَقَاوِد pl. | مَقُود | أَرِيَمَة pl. | زِمَام

| أَرَسَان pl. | رَسَن

Hall s. m. | صَوْت.

Halle s. f. | دِهَالِيَن pl. | دِهَالِيَن

| أسواق pl. | سوق (-Markt) -

| صَات u | رَن | hallen vn. i | بازار *

halloh! interject. | البِدَار البِدَار | إِيَه

| هَلَم | هَيَا هَيَا | العَجَل العَجَل

| يَالله يَالله * | جَرَا

Halm s. m. | قَصَب coll. | ein -

| عود | شَتَلَة * | غَرَسَة | قَصَبَة

الغَلَة.

Hals s. m. | عُنُق | عُنُق pl. | أعناق

| رَقَبَات u. | رِقَاب pl. | رَقَبَة

| سَرِيْعًا Kopf - u. | أَرُقَب | über -

| jm. den - brechen | عَلَى الغُور

| sich den - | أَهْلَكَ ه | قَتَلَ u

brechen u | مات | i | هَلَكَ | jm.

um den - fallen ه | عَانِق | aus

vollem -e lachen | قَوَيْقَه | -ab-

schneider s. m. | مُرَاب | -band

| طَوُق pl. | عَقُود pl. | عِقْد s. n.

| سَاجُور (eines Hundes) - | أطواق

| عَصَبَة s. f. | -binde | سَوَاجِير pl.

| -bräune s. f. | عَصَبَات pl. | اللُّعْنُق

| -brechend | دَاء الخَوَانِيْق | حُنَاق

a., -brecherisch a. | خَطِرٌ | -starrig
 a. | مُعَانِدٌ | -starrigkeit s. f. | عَنِيدٌ
 | مُعَانِدَةٌ | -tuch s. n. | عَصَبَةٌ | عِنَادٌ
 | مُنْدِيلٌ | عَصَبَاتٌ pl. | لِلْعُنُقِ
 | مَنَادِيلٌ pl. | لِلْعُنُقِ
 halt! interject. | قِفْ بِمَكَانِكَ | Halt
 s. m. | رُكْنٌ pl. | أَرْكَانٌ pl. | سَنَدٌ pl.
 | -bar | وَقَفٌ | -machen i | أَسْنَادٌ
 | مُسْتَمِرٌّ | دَائِمٌ | باقٍ a.
 | مَتَانَةٌ | صَلَابَةٌ s. f. | -barkeit
 | مَكْنَةٌ | -en va. | in. u. | etw.
 | أَمْسَكَ سَ وَه | مَسَكَ i, u | سَ وَه
 | أَلْفَى الْخُطْبَةَ -- | رِيدَةٌ | قَبَضَ i | عَلَى
 | وَقَى i | بِالْوَعْدِ | -- | Wort, Versprechen
 | اشْتَرَكَ | Zeitung | -- | قام u | بِالْوَعْدِ
 | جَالٌ -- | u | Das Meer | | فِي الْجَرِيدَةِ
 | Schule -- | دار u | فِي الْبَحْرِ | | فِي الْبَحْرِ
 | دَبَّرَ الدَّارَ -- | Haus | | فَتَحَ a | الْمَدْرَسَةَ
 | نَجَّاسٌ -- | Sitzung | | أَدَارَ الدَّارَ
 | in. | in Atem | -- | شَغَلَ s | in. --
 | عَدَّ s | كَذَا | ظَنَّ u | كَذَا | für etw.
 | حَسَبَ i | كَذَا | in. | hoch | --,
 | viel | -- | auf in. | oder von in.
 | إِحْتَرَمَ s | | إِعْتَبَرَ s * | | es -- mit
 | تَعَصَّبَ لَهُ | حَازَبَ s | in. | -- | sich
 | إِسْتَمَرَ | دام u | | sich -- | an etw.
 | تَعَلَّقَ بِ | | sich -- | an in. | اعْتَمَدَ

| وَقَفَ -- i | --, inne -- | vn. | عَلَيْهِ
 | انْ سِمْ | ان sich -- | دام u
 | مَلَكَ i | عَلَى نَفْسِهِ | حَكَمَ u | نَفْسَهُ
 | -epiats s. m. | صَعَبٌ -- u | schwer --
 | epunkt s. m. | مَحَلَّ الْوَقْفِ
 | أَرْكَانٌ pl. | رُكْنٌ | الوَقْفِ | سَنَدٌ
 | أَسْنَادٌ pl. | -estelle s. f. | مَحَطَّةٌ
 | عَادِمٌ السَّنَدِ a. | -los | صَغِيرَةٌ
 | عَادِمٌ الرُّكْنِ | لا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ | عَادِمٌ الرُّكْنِ
 | عَدَمٌ | عَدَمٌ السَّنَدِ s. f. | -losigkeit
 | وَضَعٌ s. f. | الرُّكْنِ | -ung
 | جَلَسَةٌ | قِيَامٌ
 | لُصُوصٌ pl. | لَصٌّ s. m. | Halunke
 | خُبَيْثٌ pl.
 | رَدِيءٌ النِّيَّةِ a. | هَامِيْشْ
 | سُوءُ النِّيَّةِ
 | غَنَمٌ pl. | غَنَمٌ s. m. | Hammel
 | رَأْسٌ غَنَمٍ (einzelner) | -
 | أَخْرَفَةٌ u. | خِرْفَانٌ pl. | wieder
 | رَجَعَ i | إِلَى | فَوَجَدَ -- | auf besagten
 | مَوْضُوعَ الْكَلَامِ | -sprung s. m. | --
 | نَوْعٌ إِعْطَاءِ الْآرَاءِ فِي مَجْلِسِ النُّوَابِ
 | فِي أَلْمَانِيَا
 | مَطَارِقٌ pl. | مَطْرَقَةٌ s. m. | Hammer
 | مِدَقٌّ pl. | مِدَاقٌ * | | -
 | مَعْمَلٌ حَدِيدٍ (Eisen-) | --
 | سَوَّلَ التَّطْرِيْقَ a. | hämmerbar

هَامَّوْا | hämmern va.
 etw. طَرَقَ u ه بِالمِطْرَقَةِ
 بِالمِطْرَقَةِ.

Hämorrhoiden s. pl. باسُور pl.
 بَواسِير.

Hampelmann s. m. لُعْبَةٌ pl. لُعَبٌ.

Hamster s. m. zool. يَرَبُوع pl. يَرَابِيع |
 bld. - رَجُلٌ بَخِيلٌ.

Hand s. f. يَدٌ pl. أَيَدٌ u. أَيَادٍ |
 - (fläche) كَفٌّ pl. كُفُوفٌ u. أَكْفٌ |

- (Handschrift) خَطٌّ pl. خُطُوطٌ |

eine - voll مِلءُ اليَدِ | مِلءُ الكَفِّ |

unter der - كَمِشَّةٌ * | قَبْضَةٌ |

الآن - vor der - سِرًّا | خَفِيَّةٌ |

- aufs Herz بِالذِمَّةِ | mit be-
 waffneter - بِالْحَرْبِ | jm. عَنُوتَةٌ |

die - drücken & صَافِحٌ | eine glück-

liche - haben ا فِي أُمُورِهِ | نَجَحٌ |

jm. auf den Händen tragen

& لَاطَفٌ | jm. an die - gehen

& سَاعَدٌ | - an sich selbst legen

um die - eines قَتَلَ u نَفْسَهُ

Mädchens bitten, anhalten خَطَبٌ

| طَلَبٌ u بِنْتًا لِلزَّوْاجِ | u بِنْتًا

jm. die Hände binden bld. & a مَنَعَ

die - auf etw. legen | عَنِ العَمَلِ

die - an etw. legen | اِسْتَوَى عَلَيَّ

اِبْتَدَأَ فِي عَمَلِهِ | die letzte - an
 etw. legen نَقَعَ | mit vollen

Händen geben اَعْطَى بِسَخَاءٍ |

sich die Hände in Unschuld waschen

شُغِلَ -arbeit s. f. اِسْتَبْرَأَ مِنْ أَمْرٍ

مَصْنُوعِ اليَدِ pl. اِسْتُغَالَ |

pl. مَصْنُوعَاتٌ | -beil s. n. قَدُومٌ

pl. قَدَائِمٌ u. قَدَمٌ | -buch s. n.

اِكْتَابٌ مُخْتَصَرٌ صَغِيرُ الحَاجِمِ

دُسْتُورٌ.

Händedruck s. m. قَبْضُ اليَدِ |

مُصَافِحَةٌ.

Handeisen s. n. صَعْدٌ pl. أَصْفَادٌ.

Handel s. m. اِتِّجَارَةٌ | مَتَجَرٌّ |

- treiben u تَجَرٌّ - (Angelegenheit)

ein schlimmer - اُمُورٌ pl. أَمْرٌ

Handel suchen mit jm. اِمْرٌ رَدِيٌّ |

einen - mit خَانِقٌ * | خَاصِمٌ &

jm. machen, mit jm. handelseins

werden über لَهُ بِ | صَفَقَ i لَهُ بِ

vn. a اِسْتَعْلَ | اِفْعَلَ | اِعْمَلَ |

(Handel treiben) u تَجَرٌّ | اِتَّجَرَ |

von etw. - - عَنِ a | بَحَثَ |

mit jm. - - um etw. | كَتَبَ u فِي

es handelt sich | عَالَجٌ & فِي الثَّمَنِ

um etw. اِسْتَدْرَكَ الكَلَامَ كَذَا

اِسْتَدْرَكَ الكَلَامَ كَذَا | -flotte s. f. مَرَاكِبٌ

مَحْكَمَةٌ | -sgericht s. n. | تِجَارِيَّة |
 مُعَامَلَةٌ | -sgeschäft s. n. | التِّجَارَةُ
 pl. | مُعَامَلَات | -sgesellschaft s. f.
 مَجَلَّةٌ | -sgesetzbuch s. n. | شِرْكَةٌ
 الشَّاهِس | -shaus s. n. | القَوَانِينِ التِّجَارِيَّةِ
 تَاجِرٌ | -sherr s. m. | مَحَلٌّ تِجَارِيٌّ
 مَجْلِسٌ | -sammer s. f. | تِجَارٌ pl.
 -smann s. m. | مَجَالِسٌ pl. | التُّجَّارُ
 -sminister s. m. | تِجَارٌ pl. | تَاجِرٌ
 مَتَجِرَةٌ | -splatz s. m. | وَزِيرُ التِّجَارَةِ
 -srecht s. n. | بَنَادِرٌ pl. | بَنَدَرٌ *
 -sreisender s. m. | قَوَانِينِ التِّجَارَةِ
 -stadt s. f. | دَوَارٌ يَبْعًا لِبَضَائِعِ تَاجِرٍ
 -splatz | -sstand s. m. |
 مَجْلِسٌ | -stag s. m. | جَمَاعَةُ التُّجَّارِ
 التُّجَّارِ.

Händelsucht s. f. | شَرَّاسَةٌ | händel-
 süchtig a. | شَرِّيسٌ | خَصِمٌ.

Handelsvertrag s. m. | عَهْدُ التِّجَارَةِ
 pl. | اِتِّفَاقٌ | عَقْدٌ | عُهُودٌ.

Hand-fessel s. f. | -eisen | -fest a.
 كُفُوفٌ pl. | كَفٌّ | -fläche s. f. | قَوِيٌّ
 | عُرْبُونٌ | -geld s. n. | أَكْفٌ u.
 مَفْصِلٌ | -gelenk s. n. | رُعْبُونٌ *
 | رُسُغٌ pl. | مَفَاصِلٌ pl. | اليَدِ
 | زِنَادٌ pl. | زِنَادٌ | -gemein, -- wer-
 | تَبَارَزٌ | تَكَافَحٌ | التَّحَمُّ den

-gerecht | كِفَاحٌ | التِّجَامِ | menge s. n.
 -greiflich a. | هَيِّينٌ | سَهْلٌ a.
 نَزَلٌ i | - - | يَبِينٌ | واضحٌ
 | -greiflichkeit s. f. | وَضُوحٌ | بِالضَّرْبِ
 | لَمْسٌ | مَلَامَسَةٌ | -griff s. m.
 | مَقْبِضٌ | حَرَكَاتٌ pl. | حَرَكَه
 | -griff | bld. | فُرْصَةٌ s. f. f.
 | -haben va. etw. ه | اسْتَعْمَلُ
 | -habung s. f. | مَارَسٌ ه | دَبَّرُ ه
 | تَدْيِيرٌ | اسْتِعْمَالٌ | مُمَارَسَةٌ
 | دَوَالِيبٌ | -farren s. m. | عَجَلَةٌ ذاتُ
 | -forb s. m. * | سَلَّةٌ | واطِئَةٌ
 | زِينَةٌ أَكْمَامِ القَمِيصِ | -fuß s. f.
 | تَقْبِيلِ اليَدِ | -langer s. m. s. m.
 مُعَاوِنٌ | مُنَاوِلٌ فِي البِنَاءِ.

Händler s. m. | تِجَارٌ pl. | تَاجِرٌ.

hand-lich a. | سَهْلٌ الاسْتِعْمَالِ |
 | -lung s. f. | عَمَلٌ pl. | أَعْمَالٌ |
 | - - | (eines Kaufmanns) | تِجَارَةٌ |
 | -lungsbesliffener s. m. | مَخْزِنٌ |
 | -lungsreisender | تِجَارٌ pl. | تَاجِرٌ
 | -mühle s. f. | هاندلسreisender |
 | -pferd | كَبْدَاءٌ | غَرِيبَةٌ | مِجَشَّةٌ
 | -reichung s. f. | يَدِكَ * | سَاعِدَةٌ s. n.
 | -schlag s. m. | إعْطَاءِ اليَدِ | -schlage
 | -schreiben s. n. | كَبِيرٌ | كِتَابٌ رَجُلٌ
 | -schrift s. f. | خَطٌّ pl. | خُطُوطٌ | بِخَطِّهِ

- wurft s. m. * مُهْرَجٌ | هَارِجٌ * |
رَجُلٌ يُضْحِكُ عَلَيْهِ.
- hantieren vn. mit etw. هِ | اسْتَعْمَلَ هِ |
Hantierung | اسْتَعْلَبَ | مَارَسَ هِ
s. f. حِرْفَةٌ pl. حِرَفٌ.
- hapern vn. i تَوَقَّفَ | وَقَفَ .
- Happen s. m. لُقْمَةٌ pl. لُقَمٌ.
- Harem s. m. u. s. n. (muslim.
Frauengemach) أَحْرَامٌ pl. حَرَمٌ
(Frauen im Harem) حَرِيمٌ
pl. حُرْمٌ.
- hären a. f. haaren a.
- Häretiker s. m. f. Ketzer.
- Harfe s. f. عُوْدٌ pl. اَعْوَادٌ u. اَعِيْدَانٌ |
Harfner | جُنُوكٌ pl. جُنُوكٌ * | مِعْرَافٌ
s. m. الضارب بالعود.
- Häring s. m. اَرْنَكَاتٌ pl. اَرْنَكَةٌ * |
نُوعٌ مِنَ سَمَكِ الْبَحْرِ.
- Harfe s. f. مُشَطُّ الْبُسْتَانِيِّ pl.
-n vn. | مَجْرَفَةٌ * | جَارُوفَةٌ * | مِشَاطٌ
| اسْتَعْلَبَ بِالمِشَطِّ .
- Harlefin s. m. * مُهْرَجٌ * | هَارِجٌ * .
- harm s. m. حَزْنٌ | غَمٌّ | härmen
va. jn. & u غَمَّمَ | sich - um
غَيْرٌ | هَارْمَلُوسٌ a. حَزِينٌ a. عَلَى
Harmlosigkeit | غَيْرٌ مُضِرٌّ | مَغْمُومٌ
s. f. عَدَمُ الضَّرَرِ | عَدَمُ الغَمِّ .
- Harmonie s. f. اِيْقَاعٌ | اِيْقَاعَةٌ
-ren | اِتِّحَادٌ | اِتِّفَاقٌ | اَلْحَانُ
vn. تَوَافَقَ | اتَّفَقَ | Harmonika
s. f. اَلْمَوْسِيقِيَّةُ | اَرْمُونِيْقَا * |
harmonisch a. مُوَافِقُ اَلْاَصْوَاتِ |
Harmonium s. n. مُوَافِقُ اَلْاِيْقَاعِ
نُوعٌ مِنَ اَلْاَرَاغِيْمِ .
- Harn s. m. بُولٌ | -blase s. f. مِبْوَلَةٌ |
اَشْعَاقٌ * u | بَالٌ | -en vn. u
مَنْجَرِي الْبُولِ -gang s. m.
سِرْبَالٌ | دُرُوعٌ pl. دِرْعٌ |
اِحْتَدَّ | in - geraten | سَرَابِيْلٌ pl.
jn. in - bringen & اَغْضَبَ .
- Harnröhre s. f. مَجْرَى الْبُولِ .
- Harpune s. f. حُطَافٌ pl. اِخْطَاطِيْفٌ |
harpunieren va. jn. & حَطَّفَ &
بِالْحُطَافِ .
- harren vn. auf jn. اِنْتَظَرَ & .
- harsch a. غَلِيظٌ | خَشِيْنٌ .
- hart a. (Sache) صَلْبٌ | - (rauh)
- (schwer) | - (heftig) | خَشِيْنٌ
für jn. صَعِبٌ عَلَيْهِ |
- (Person) جَافٍ | einen
-en Kopf haben اَعَادَ | اَدْرَاكٌ
بِالقُرْبِ مِنَ .
- Härte s. f. اَشْدَدَةٌ | خَشُوْنَةٌ | صَلَابَةٌ

صَلَّبَ هـ | جَفَاء | قَسَاوَةٌ | -n va. etw. هـ |
 حَشْنٌ هـ.
 hart-gefotten a. (Ei) | مَسْلُوقٌ (يَيْضُ) |
 -herzig a. | قَاسٍ (قَلْبٌ) (Herz)
 -herzigkeit s. f. | قَاسِي الْقَلْبِ
 ثَقِيلٌ | -hörig a. | قَسَاوَةُ الْقَلْبِ
 | -hörigkeit s. f. | السَّمْعِ
 | -köpfig a. | مُعَانِدٌ |
 | -leibig a. | مُنْقَبِضِ الْبَطْنِ
 | انْقِبَاضٌ s. f. | -leibigkeit s. f. | كَانِمٌ *
 | -mäulig a. | كِتَامٌ * | عَقَلَةٌ | الْبَطْنِ
 | عَنِيدٌ | -näckig a. | جَمُوحٌ (Pferd)
 | عِنَادٌ | -näckigkeit s. f. | مُعَانِدٌ
 | مُعَانِدَةٌ.
 Harz s. n. | صَمَعٌ الصَّنَوْبَرِ * |
 | صَمَغِيّ a. | -ig | رَسِيْنَةٌ *
 | رَاتِيْنَجِيّ *.
 Hasardspiel s. n. | قِمَارٌ.
 haschen va. ju. | قَبَضَ i عَلَيْهِ | - nach
 | سَعَى i فِي الْحُصُولِ عَلَى |
 | ضَابِطِيَّةٌ pl. ضَابِطِيّ s. m. |
 | حَشِيْشِ s. m. | حَشِيْشِ |
 | - rauchen a. | من الحَشِيْشَةِ
 | حَشَاشٌ s. m. | -raucher s. m. | حَشِيْشًا
 | حَاشِ s. m. | أَرَانِبٌ pl. أَرَانِبِ
 | حَاشِ s. n. | دَرَارِيْجٌ pl. دَرَارِجِ |
 | -nuß s. f. | بُنْدُقٌ * pl. |

eine - - | بُنْدُقَةٌ | -staude s. f.,
 -strauch s. m. | شَجَرَةُ الْبُنْدُقِ.
 Hasen-fuß s. m. | جَبَانٌ | -panier
 s. n., das - - | هَرَبٌ |
 | يَحْنِي مِنْ لَحْمٍ | -pfeffer s. m. | قَرِي
 | مَشْقُوقٌ | -scharte s. f. | أَرْنَبِ
 | عُلَمَاءٌ f. | أَحَدِي الشَّفَتِيْنِ
 | pl. فُلُحٌ pl. فُلُحَاءٌ f. | أَفْلَحَ | عُلْمٌ pl.
 | هَاجِمٌ s. f. | أَرْنَبَةٌ.
 Haspe s. f. (der Thür) | رَزَّةٌ |
 | الباب.
 Haspel s. f. (Garn-) | حَلَالَةٌ |
 | مِسْلَكَةٌ * | مِرَادِيْنِ pl.
 | حَلَّ الْغَزْلِ | -n va. | كُوْفِيَّةٌ *
 | كَبَّ u هـ | سَلَّكَ هـ * | رَكَنٌ u هـ
 | حَنْقٌ | بَعْضَاءٌ | بَعْضٌ s. m. |
 | كَرَاهَةٌ | عَدَاوَةٌ | حِقْدٌ
 | - hegen عَلَيْهِ i | حَقَّدَ | -en va.
 | جِئ. | أَبْغَضَ عَلَيْهِ | كَرِهَ s a
 | كَانَحٌ هـ | عَلَيْهِ
 | بَشِيْعٌ * | شَنِيعٌ | قَبِيْحٌ الْمُنْظَرِ | häßlich a.
 | - | مَكْرُوهٌ | قَبِيْحٌ - (moralisch)
 | - | قَبِيْحٌ u | شُنْعٌ u |
 | od. werden u | شُنْعٌ u |
 | شِنَاعَةٌ | قَبَاحَةٌ s. f.
 | حَاشِ s. f. | سُرْعَةٌ | -en vn. | حَاشِ
 | -ig a. | مُسْرِعٌ | سَرِيْعٌ | -igkeit s. f.
 | f. | حَاشِ.

(familie) | حال بَيْتِي | دار | بَيْت
 (Sparſamkeit) | أَهْلُ الْبَيْتِ
 تَوْفِير.
 Haus-mädchen s. n., -magd s. f.
 -mannsfoſt s. f. | خَادِمَةُ الْبَيْتِ
 | -foſt | -miete s. f. | أَجْرَةُ الْبَيْتِ
 | -mittel s. n. | دَوَاءٌ بَسِيطٌ
 | -ordnung s. f. | نِظَامُ الْبَيْتِ
 | -poſtillē s. f. | مَجْمُوعُ مَوَاعِظٍ
 | -rat s. m. | لَأَسْتَعْمَالَ الْعَائِلَةِ
 | -recht s. n., | أَثَانَاتٌ | آلات الدار
 das - - brauchen gegen jn.
 | طَرَدٌ u. | رِجَالٌ مِنَ الدار
 regiment s. n. | -ſchlüſſel s. m. | تَدْبِيرُ الْبَيْتِ
 | مفاتيح pl. | مِفْتَاحُ الْبَيْتِ
 | -ſchwalbe s. f. | خَطَّافٌ
 | -ſchwamm s. m. | فِطْرُ الْبَيْتِ
 Hauffe s. f. | تَرْقِي الأوراق في البورصة
 Haus-ſtand s. m. | أَهْلُ الْبَيْتِ
 | تَزْوِجٌ | einen - - gründen | عَائِلَةٌ
 | -ſuchung s. f. | التَّفْتِيْشُ فِي الْبَيْتِ
 | -tier s. n. | حَيَوَانٌ أَنْيْسٌ
 | -verwalter | حَيَوَانٌ أَهْلِيٌّ | داجن
 s. m., -vogt s. m. | مُدَبِّرُ الْبَيْتِ
 | -vogtei s. f. | مَحَلُّ السَّجَّانِ
 | -weſen s. n. | تَدْبِيرُ الْبَيْتِ

أَصْحَابٌ pl. صاحب البيت s. m.
 -wirtschaft | تَدْبِيرُ الْبَيْتِ
 Haut s. f. | جِلْدٌ pl. | جُلُودٌ (Über-
 zug) | - (von Früchten) | غَشَاوَةٌ
 رَجُلٌ - eine gute | قَشُورٌ pl. | قَشْرٌ
 | بالكَلْبَةِ Haar - u. | طَيِّبٌ
 er möchte aus der - fahren
 | انْشَقَّ غَيْظًا | اغْتَاظَ
 | seine | دَافَعَ عَنْ نَفْسِهِ
 - wehren | zu Märkte tragen | خَاطَرَ بِنَفْسِهِ
 -ausſchlag s. m. | بَثْرٌ pl. | بُثُورٌ
 -drüſe s. f. | دُمَلٌ pl. | دَمَامِلٌ
 häuten va. ein Tier | سَلَخَ | حَيَوَانًا
 | اِسْلَخَ | اِسْلَخَ | سَلَخَ - ſich
 | غَطَائِيٌّ | غِشَائِيٌّ | häutig a.
 Hautkrankheit s. f. | دَاءُ الْجِلْدِ
 Häutung s. f. | اِسْلَاحٌ | سَلَخٌ
 Hautzahn s. m. | حَاوِيٌّ
 Havarie s. f. | عَوَارُ الْمَرْكَبِ | تَعَطَّلَ
 | البَضَائِعِ
 he! interject. | يَا | أَيُّ
 Hebamme s. f. | قَابِلَةٌ pl. | قَوَابِلٌ
 | Hebebaum s. m., | دَايَةٌ *
 | عَتَلٌ pl. | عَتَلَةٌ *
 | قُوَّةٌ | طاقة - | مَحْوَلٌ
 heben va. etw. | رَفَعَ | ه | عَلَى
 | حَلٌّ | حَلٌّ | اِمْتِشَالٌ u. Schwierigkeit

- Steuern الحِراج | قَبَضَ | sich -
 اِرْتَفَعَ | u علا | hebe Dich weg
 von mir! اِذْهَبْ | Heber s. m.
 اَنَابِيْب عُقْفَ pl. اَنْبُوْب اَعْقَفَ
 مِمَّصَ *

Hebräer s. m. عِبْرَانِيّ | hebräisch a.

اللُّغَةُ الْعِبْرَانِيَّةُ | s. n. عِبْرَانِيّ

Hebung s. f. رَفَعَ | الحِراج | قَبَضَ

Hechel s. f. مُشَطُّ الْكَتَانِ | in. durch

die - ziehen s تنَحَّلَ | -n va.

flachs مَشَطُّ الْكَتَانِ

Hecht s. m. نَوْعٌ مِنْ سَمَكِ الْأَنْهَارِ

Heck s. n. des Schiffes مَوْخَرُ الْمَرْكَبِ

Hecke s. f. وَشِيْعٌ | حَسَكٌ | سِيَاجٌ

مَحْضِنُ الطَّيُورِ - der Vögel -| زَرِيْبَةٌ

-n vn. (Vögel) u حَضَنَ | i باضَ

-rose s. f. bot. وَرْدُ السِّيَاجِ

جُلْنِسْرِيْنٌ * | زَهْرُ النِّسْرِيْنِ

heda! interject. f. he!

Hederich s. m. bot. فُجْلُ بَرِّيّ

تُوْدَرِيّ | تُدْرِيّ

Hedschra s. f. هِجْرَةٌ

Heer s. n. جَيْشٌ pl. جَيُوشٌ

جُنُودٌ pl. جُنْدٌ | عَسَاكِرٌ pl. عَسْكَرٌ

das wilde - | الجِنِّ -| bann s. m.,

-esbann s. m., -esfolge s. f.

-eszug | نِدَاءُ الْمَلِكِ جَمِيْعِ الْعَسْكَرِ

s. m., -fahrt s. f. غَزَاةٌ | غَزُوٌ pl.

قَائِدٌ عَسْكَرِيّ -|فُوهْرَاتٌ

pl. قُوَادٌ -|haufe s. m., -haufen s. m.

| جَيْشٌ s. f. | جُنُودٌ pl. جُنْدٌ

die himmlischen - -en | الْمَلَائِكَةُ -

-|chau s. f. عَسْكَرِيّ

-|straße s. f., -weg s. m. طَرِيْقٌ

-|zug s. m. f. | سُلْطَانِيّ

Hefe s. f. عَكْرٌ | رُسُوْبٌ | ثَقُلٌ

- des Volks | أَسَافِلُ الْقَوْمِ

den Kelch bis zur - leeren تَعَدَّبَ

غَايَةَ التَّعَدَّبِ

Heft s. n. (Buch Papier) كُرَّاسٌ |

pl. كُرَّاسَةٌ | كَرَارِيْسٌ pl. كُرَّاسَةٌ

مَقْبِضُ دِفَاتِرِ - | دِفَاتِرٌ

das | قَبِضَةُ السَّيْفِ * | السَّيْفُ

- in Händen haben تَسَلَّطَ

Heftel s. f. | أَبَازِيْمٌ pl. | أَبْرِيْمٌ

etw. | أَنْشَبَ الْإِبْرِيْمَ فِي

heften va. etw. an | أَنْشَبَ هِبَ

den | أَلْصَقَ هِبَ | عَلَّقَ هِبَ

| حَاوَلَ الْبَصَرَ إِلَى -| auf Blick -

- | ضَبَرَ u | ضَبْرٌ u | كِتَابٌ

أَوْرَاقُ الْكِتَابِ

heftig a. | شَدِيْدٌ (Sache) قَوِيّ

- | عَنِيفٌ | عَاسِفٌ (Person) -

| حِدَّةُ الطَّبْعِ | فَوْرَانٌ | شِدَّةٌ s. f.

- Heftpflaster s. n. مَرَهْمٌ لَازِقٌ.
- Hegemonie s. f. رِئَاسَةٌ.
- hegen va. etw. سَيَّجَ هـ | أَحَاطَ بِ |
 هـ a حَفِظَ | etw. - u. pflegen
 eine | اِهْتَمَّ بِ | اِعْتَنَى بِ |
 Meinung - von etw. هـ u ظَنَّ |
 Zweifel - u شَكَّ | freundschaft
 - gegen jn. صَاحَبَ هـ.
- Heher s. m. f. Hähler.
- Hehl s. n., ohne - بلا تَزْوِيرٍ | es
 fein - haben يَخْفَى | -en va.
 etw. مَخْبِيٌّ | -er s. m. أَحْفَى هـ
 تَخْبِيَةُ السَّرِقَةِ | -erei s. f. السَّرِقَةُ.
- hehr a. جَلِيلٌ.
- hei! heida! interject. هَيَّا هَيَّا.
- Heide s. m. عِبَادُ الْأَصْنَامِ pl. عِبَادٌ |
 مُشْرِكٌ | جاهليٌّ | وَثَنِيٌّ
 مُشْرِكُونَ.
- Heide s. f. بَرِّيَّةٌ | -fraut s. n. bot.
 أَرِيْقَى.
- Heiden-angst s. f. خَوْفٌ عَظِيمٌ |
 -geld s. n. دَرَاهِمٌ | مالٌ زَائِدٌ
 ضَجَّةٌ عَظِيمَةٌ | -lärm s. m. زَائِدَةٌ
 -mäßig adv. جِدًّا | كَثِيرًا |
 s. n. عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ | - (vor dem
 Islam) الجَاهِلِيَّةُ.
- Heiderose s. f. f. Heckenrose.
- heidnisch a. مُشْرِكٌ | جاهليٌّ | وَثَنِيٌّ.
- heifel a., heiflig a. (Sache) اصْعَبُ
 مُشْكِلٌ -e Sache | مُتَوَعَّرٌ | عَسِرٌ
 pl. مَشَاكِلٌ | - (Person) اصْعَبُ
 الاَقْتِنَاعُ.
- heil a. صَحِيحٌ | سَلِيمٌ | سَالِمٌ | Heil
 s. n. مَرْحَبًا! - | نَجَاةٌ | خَيْرٌ
 - and s. m. طَوْبَى لَكَ! - Dir!
 | سَيِّدُنَا عَيْسَى | مُخْلِصٌ | مِنْجٍ
 -anstalt s. f. مُسْتَشْفَى | -bar a.
 اِمْتِكَانٌ | -barkeit s. f. مُمْكِنٌ شِفَاؤُهُ
 | شَافٍ | -bringend a. شِفَائِهِ
 | شَفَى | -en va. jn. هـ i نَافِعٌ لِلصِّحَّةِ
 | bld. jn. - - von | عَافَى هـ | أَبْرَأَهُ
 | vn. - - (Wunde) | حَلَّصَ هـ مِنْ
 اِنْدَمَلٌ | دَمَلٌ a.
- heilig a. مُكْرَمٌ * | مُقَدَّسٌ | -
 | مَهِيْبٌ | مُخْتَرَمٌ | مُحَرَّمٌ | جَلِيلٌ
 | مار * | قَدِيْسٌ | - (der -e) christl.
 | أوليَاءٌ pl. وَلِيٌّ | musl. | مَارِي *
 die -e Schrift christl. الكِتَابُ
 die -e Dreieinigkeiٹ | المَقْدَّسُ
 christl. | der -e | الثَّالُوْثُ الْأَقْدَسُ
 Dater kath. | البابا | der -e Stuhl
 kath. | كُرْسِيُّ الْبَابَا | das -e Kolleg
 kath. | جَمَاعَةُ الْكِرَادِلَةِ | -en va.
 etw. هـ | طَهَّرَ هـ | قَدَّسَ هـ

اعظم في آخر سلسلة الظهر s. n.
 -enbild s. n. kath. | عجب
 آيقونة * | صور pl. صورة قديس
 -endienst s. m., | آيقونات pl.
 -enverehrung s. f. kath. | اكرام
 -entschein s. m. | القديسين
 -feit s. f. | اكليل نور
 -tum | (لقب البابا) قداسة *
 pl. مزار | مقادس pl. مقدس s. n.
 -ung | معايد pl. معبد | مزارات
 تطهير | تقديس s. f.

Heil-funde s. f. | علم الطب -los a.
 -mittel s. n. | مشووم | سيى
 -quell s. m., | آدوية pl. دواء
 -sam | ماء معدنى s. f. | ماء
 مفيد | شاف | نافع للصحة a.
 -stätt s. f. | مستشفى -tranf
 -ung s. f. | دواء يشرب s. m.
 | برء | طيبة * | تعاف | شفاء
 -von | تخليص من bld. --

إلى الدار | إلى البيت heim adv.
 | بيت s. n. | إلى الوطن
 | وطن | دار

Heimat s. f. | وطن a. | وطنى
 -los a. | بلا وطن | recht s. n.,
 -recht s. n. | حق أولاد البلد

Heimchen s. n. | صرصور | صرار الليل

جيز * | زيران pl. | زير | جدجد
 | جيزان pl.

Heim-fahrt s. f. | رجوع إلى الدار
 -fall s. m. | استرجاع مال | falls,
 recht s. n. | حق استرجاع مال
 -führen va. | إلى الدار | أجمع
 -gang s. m. | تزوج -- | die Braut
 (Tod) -- | رجوع إلى البيت
 i إلى | gehen vn. | وفاة
 | توفي (sterben) -- | bld. | البيت
 -fehr s. f. | رجوع | fehren vn.

بلدى | وطنى a. | -ifch | رجوع i
 -leuchten | تآلف مع --

أخذ | قابل | بمثل عمله | im. vn.
 | سرى a. | -lich | نارة
 | هاد (ruhig, angenehm) --

بيت | das -- e Gemach | ساكن
 -lichkeit s. f. | مستراح | الأدب

رجوع s. f. | -reise | أسرار pl. سر
 -stätt s. f. | دار pl. | إلى الدار

-suchen va. | يوت pl. بيت | دور
 | بلا u s (Gott) | mit Unglück | in.

إبتلى | heimgesucht werden | ببليّة
 -suchung s. f. | بليّة pl. | بلايا

| زيارة العذراء kath. | -- Mariä
 -tücke s. f. | خباثة خفية

| خبيث خفى a. | -tückisch

-wärts adv. إِلَى الْبَيْتِ | -weg
s. m. رُجُوعٌ إِلَى الْبَيْتِ | -weh
s. n. مَرَضٌ | شَوْقٌ إِلَى الْوَطَنِ
مُسَبَّبٌ عَنِ الشَّوْقِ إِلَى الْوَطَنِ
Hein, Freund - الْمَوْتُ.

Heirat s. f. إِقْتِرَانٌ | زَوَاجٌ | نِكَاحٌ
-en vn. jn. هُ | نَكَحَ | هُ
-santrag s. m. إِقْتِرَانٌ بِهِ | أَوْ بِهِ
| بالغ a. -sfähig | عَرَضُ الزَّوْجِ
| -sfähigkeit s. f. | بالغ سِنِ الزَّوْجِ
| مال الزَّوْجَةِ s. n. -sgut | بُلُوغٌ
| راغِبٌ فِي الزَّوْجِ a. -slustig
| -skontrakt s. m., -svertrag s. m.
عَقْدُ الزَّوْجِ.

heifa! interject. هَيَّا هَيَّا.

heischen va. etw. von jm. هُ | طَلَبَ
جُمْلَةٌ | Heischesatz s. m. gr. مِنْهُ
طَلَبِيَّةٌ.

heiser a. أَبَعَّ | مَبْحُوحٌ * | - werden
بَحَّةٌ * | بَحَاحَةٌ s. f. -feit | بَعَّ a

heiß a. سَخِنَ | حَامٍ | حَارٌّ جِدًّا
| حَمِيٌّ a | حَرٌّ | - | سَخِنَ
etw. - machen هُ | es ist -
الْحَرُّ شَدِيدٌ.

heißa! interject. f. heifa!

heißblütig a. -feit | سَرِيْعُ الْغَضَبِ
s. f. سُرْعَةُ الْغَضَبِ.

heißen va. jn. so u. so (nennen)
| سَمَى هُ | jn. willkommen -
كَذَا | اسْتَحْسَنَ هُ | etw. gut به
| - jn. etw. (befehlen) بٍ | هُ
| سَمِيَ | (genannt werden) vn. -
| er heißt Beschir | قِيلَ لَهُ | دُعِيَ
| اسْمُهُ بِشِيرٍ | das heißt (das
bedeutet, abgekürzt d. h.) | يَعْنِي
| es heißt, (man sagt) يُقَالُ.

Heiß-hunger s. m. جُوعٌ شَدِيدٌ
| -hungrig a. | سَعَارٌ | دَاءُ الذُّبِّ
| رَجُلٌ | -sporn s. m. | جَائِعٌ جِدًّا
حَامٍ.

heiter a. | طَالِقٌ | صَافٍ (Himmel)
| رَائِقٌ (Gesicht) - | مُكَشِّحٌ | صَاحٍ
| بَشُوشٌ | مَبْسُوطٌ | بَهِيحٌ (lustig) -
| -feit s. f. (des Himmels) | صَحْوٌ
| رَوْقٌ (des Gesichts) - - | صَفَاءٌ
| - - | طَلَاقَةُ الْوَجْهِ (Munterfeit)
| - - | بَشَاشَةٌ | سُرُورٌ | بَهْلَجَةٌ
قَلْبَقَةٌ | ضِحْكٌ (Gelächter).

heizbar a., -es Zimmer حُجْرَةٌ مُؤَمَّنَةٌ
| heißen va. Ofen u. حَمَّ
دَقَاً | - Zimmer | أَحْمَمَ هُ | الْفُرْنُ
| Heizung s. f. | سَخِنَ هَا | الْحُجْرَةُ
| - | تَسَخَّنَ | تَدْفِئَةٌ
| وَقُودٌ | حَطَبٌ (Brennmaterialien)

أَشْهَرُ هِ بِالطَّبْعِ | الْكِتَابِ بِالطَّبْعِ
 a هِ | طَبْعُ -geber s. m. eines
 مَبَاشِرٍ لَطْبَعِ كِتَابٍ |
 -gehen vn. u خَرَجَ | - - auf
 أَشْرَفَ عَلَى (Fenster, Thür)
 - - mit der Sprache | أَطَّلَ عَلَى
 خَرَجَ | -kommen vn. u تَكَلَّمَ بِحُرِّيَّةٍ
 طَبْعِ (الْكِتَابِ) (Buch) -- | ظَهَرَ a
 - - das kommt auf eins - الأُمْرَانِ
 - dabei kommt nichts - سِيَّانِ
 -kriegen va. f. هَذَا لَا يَنْفَعُ
 -bringen | -lassen va. etw. هِ | أَخْرَجَ
 -nehmen va. etw. هِ | أَخْرَجَ | sich
 -reißen | اجْتَرَأَ | تَجَاسَرَ - - etw.
 a هِ | قَلَعَ | أَخْرَجَ هِ بِالْقُوَّةِ va. etw.
 | تَخَلَّصَ | خَرَجَ - - u | نَزَعَ i هِ
 - - mit -rückten vn. u خَرَجَ |
 a دَفَعَ الدَّرَاهِمَ dem Gelde
 - - mit der Sprache أَظْهَرَ فِكْرَهُ
 -schlagen va. etw. | بِلا مُرَاعَاةٍ
 -streichen | كَسَبَ i هِ | أَخْرَجَ هِ
 a هِ و هِ | مَدَحَ va. in. u. etw.
 -gehen | -ziehen | -treten vn. f.
 va. etw. هِ | أَخْرَجَ | sich - - aus
 تَخَلَّصَ مِنْ.

إِلَى هُنَا (نَحْوَ الْمُتَكَلِّمِ) herbei adv.
 -bringen va., -führen va., -holen
 va., -[schaffen va. etw. هِ | أَحْضَرَ
 | اقْتَرَبَ | -kommen vn. سَبَّبَ هِ
 -lassen v. sich تَنَازَلَ.

Herberge s. f. * خَانَاتِ pl. خان
 مَنَازِلِ pl. مَنَازِلِ | فَنَادِقِ pl. فُنْدُقِ
 لُوكُنْدَةَ.

Herbheit s. f., Herbigkeit s. f.
 حُمُوضَةٌ.

herbringen va. etw. هِ | أَحْضَرَ
 | مُعْتَادِ a هِرْجَبْرَاحَتِ | أَتَى i بِ
 اِعْتِيَادِي.

Herbst s. m. خَرِيفِ | - (Weinlese)
 اِقْتَطَفَ -en vn. | اِقْتِطَافِ الْعِنَبِ
 -zeit. | خَرِيفِيَّ a. -lich | الْعِنَبِ
 lose s. f. bot. | سُورَنْجَانِ
 قَاتِلِ الْكَلْبِ.

Ärd s. m. مَوَاقِدِ pl. مَوْقِدِ
 | يَيْتِ | دار (Haus) - | türf.
 - bld. | مَرْكَزِ | مَنْبَعِ.

Herde s. f. قَطِيعِ pl. قُطْعَانِ u.
 مَاشِيَّةِ | أَقَاطِيعِ u. قِطَاعِ u. أَقْطَاعِ
 pl. مَوَاشِي.

herein adv. (نَحْوَ الْمُتَكَلِّمِ) | إِلَى دَاخِلِ
 -brechen vn. u | ادْخُلَ ! -
 -bringen | أَقْبَلَ | اقْتَرَبَ | بِالْقُوَّةِ

herb a. حَامِضِ | حَامِزِ | bld. -
 حُمُوضَةٌ s. f. | شَدِيدِ | قَاسِ

va. etw. ه | أَدْخَلَ | -dringen vn.
 u بِالْقُوَّةِ | دَخَلَ | -fallen vn. bld.
 i خَاب | -gehen vn., -kommen
 vn. u دَخَلَ | -lassen va., -legen
 va., -nehmen va. etw. ه | أَدْخَلَ |
 -treten vn. u دَخَلَ.

herfahren vn., herfallen vn. über
 in. هَجَمَ u عَلَيْهِ | انْقَضَ عَلَيْهِ

herfür adv. f. hervor.

Her-gang s. m. einer Sache حَدُوث
 -geben va. etw. | وَقُوعَ | الأمر
 -gebracht a. f. her- | أَعْطَى ه
 bringen | -gehen vn. i جَرَى |
 u | وَقَعَ | -halten va.
 | قَدَّمَ ه | vn. - - |
 | أَحْتَمَلَ | -holen va. in. u. etw.
 | أَحْضَرَهُ وَه

Hering s. m. f. Haring.

Her-kommen s. n. عَادَةٌ | -kommen
 vn. von i مِّن | أَتَى i مِّن | جاء i مِّن
 نَشَأً | تَوَلَّدَ مِّن | صدر u مِّن
 | مُعْتَادٍ | -kömmlich a. | مِّن
 | إِعْتِيَادِي | -kunft s. f. (Ankunft
 hier) | وَرُودَ | وُصُولَ (hier)
 | تَسَبَّ | -laufen
 | مَنَّبَعٍ | أصل
 | جَرَى i إِلَى هُنَا | hergelaufen
 | خَلَعَاءَ | -leiten va. pl. خَلِيعِ a.

etw. von مِّن | اِسْتَقَى ه | -machen
 v. sich über etw. | انْقَضَ عَلَى |
 هَجَمَ u عَلَى

Hermelin s. n. السَّمُورِ الأَبْيَضِ |
 | جِلْدُ القَاقِمِ | قَاقِمٌ *

hermetisch a., -er Verschluss سَدِّ
 مُحْكَمِ

her-nach adv. | بَعْدَهُ | فِيمَا بَعْدَ |
 -nehmen va. etw. von | تَمَّ
 | أَخَذَ ه | -nieder adv. f.
 herab, herunter.

heroisch a. شَجَاعِيٌّ | بَطَلِيٌّ

Herold s. m. | مُبَشِّرٌ | مُنَادٍ حَرْبِيٌّ
 حَرْبِيٌّ

Heros s. m. pl. Heroen بَطَلٌ pl.
 | أَبْطَالٌ | فَرِيدَ عَضْرَةٍ

Herr s. m. (Besitzer) صَاحِبٌ pl.
 | مَالِكٌ | ذَوُونَ pl. ذُو | أَصْحَابٌ
 | أَرْبَابٌ pl. رَبِّ (eines Dieners)
 | سَادَاتٍ u. سَادَةٌ pl. سَيِّدٌ
 | مَوْلَى pl. مَوْلَى | أَسْيَادٌ *
 | سَيِّدٌ | (von Beamten, türk.)
 | أَفْنَدِيٌّ * | (von Christen im
 | خَوَاجَاتٍ pl. خَوَاجَا * | Orient)
 | الرَّبِّ | المَوْلَى (Gott) - der
 | الأَكْبَرِ | - einer Sache
 gen. werden, sich zum -n einer

Sache machen | اسْتَوَى عَلَى |
 -endienst s. m. | خِدْمَةُ الرَّبِّ |
 -enhaus s. n. | دار صاحب | سُخْرَةٌ |
 مجلس (in Preußen) - - | ضَيْعَةٌ |
 -entos a. | الأشراف في بروسيا |
 pl. ضالّة Sache - - | بلا صاحب |
 | حَقَّ السادات s. n. | -enrecht | ضوَالٌ |
 دار | -enfiz s. m. | حَقَّ الأشراف |
 | الله s. m. | -gott | صاحب ضَيْعَةٌ |
 | سِتَات pl. | سَيِّدَةٌ | -in s. f. |
 | ذوات pl. | ذات | صاحِبَةٌ |
 | مُتَجَبَّرٌ | مُتَعَاظِمٌ | مُتَكَبِّرٌ a. |
 | عَظِيمٌ a. | -lich | مُتَصَلِّفٌ |
 | عَظَمَةٌ s. f. | -lichkeit | جَيِّدٌ |
 | سِيَادَةٌ | سُلْطَةٌ | سيادة s. f. |
 ein Land unter seine - - bringen |
 | - (herrschende | - - | أَخْضَعَ البلاد |
 | سَيِّدٌ | Person od. Personen |
 | سَادَات | سَادَةٌ | سَيِّدَةٌ |
 | مُتَخَصِّصٌ بِالسَيِّدِ a. | -schaftlich | رَبٌّ |
 | -schbegierde s. f. | أو بِالسَيِّدَةِ |
 | -sch | -schbegierig a. | -sch |
 süchtig.
 herrschen vn. über عَلَى u ساد |
 | تَسَلَّطَ عَلَى | Herrscher | مَلِكٌ i عَلَى |
 pl. مَلِيكٌ | pl. مُلُوكٌ | s. m. |
 pl. سُلْطَانٌ | pl. مُلْكَاءٌ |

Herrscherin s. f. | مَلِكَةٌ | Herrsch-
 sucht s. f. | طَمَعٌ فِي السُّلْطَةِ |
 herrschsüchtig a. | طَامِعٌ فِي | تَكَبَّرَ |
 مُتَعَاظِمٌ | مُتَكَبِّرٌ | السُّلْطَةِ |
 her-rühren vn. von | صَدَرَ u مِنْ |
 | نَشَأَ مِنْ | -agen | نَشَأَ مِنْ |
 | تَلَا u الدَّرْسَ عَنِ | -va. |
 | - Gedicht | - - | ظَهَرَ القَلْبُ |
 | -schaffen va. | - | القَصِيْدَةَ |
 | -schreiben v. sich von | - | أَحْضَرَ ه |
 | نَشَأَ | - | تَوَلَّدَ مِنْ | صَدَرَ u مِنْ |
 | -stammen vn. | - | مِنْ |
 | -schreiben | -stellen va. | - |
 | - | - | كَرَامَةً i شَفَى |
 | - | - | إِصْلَاحٌ s. f. | المَرِيضِ |
 - - (eines Kranken) | شِفاءٌ .
 herüber adv. | مِنْ تِلْكَ الجِهَةِ إِلَى هَذِهِ |
 -fahren, -gehen, -kommen, -lau-
 fen, -reiten, -ziehen vn. u مَرَّ |
 | -bringen, -fahren, -nehmen, | -عَبَّرَ u |
 | -ziehen va. | - | عَبَّرَ .
 herum adv. | حَوْلَ | um das Haus -
 | حَوْلَ | rings - | حَوْلَ الدار |
 | تَقْرِيْبًا | - (ungefähr) | um - |
 | -bekommen va. | - | -bringen va. |
 | حَمَلَ i | - | عَلَى | أَقْنَعَ |
 | - | - | دَوَّرَ | -fahren |
 -drehen va. | - | دَوَّرَ ه |

vn. u جال | -führen va. jn. جال
 u جال | u دار | -gehen vn. u به
 u طاف | es geht mir im Kopfe
 herum يُشغِلُ فِكْرِي | -irren vn.
 i تاه | u دار | u جال | -kommen
 vn., -laufen vn., -reisen vn.
 u جال | -stören vn. كَثِيرًا
 u جال | -streifen vn. u نَبَشُ *
 | -streiten v. sich mit jm. باحَثَ &
 | جال u sich | -treiben v. جادل &
 u طاف | -treiber s. m. مُتَشَرِّدٌ
 | -zanken v. sich | -streiten | -ziehen
 vn. u دار | u جال | u طاف |
 | سائر | جائل | دَوَّارٌ | -ziehend
 herunter adv. من فوق إلى تحت
 | -bringen | herab | (نحو المتكلم)
 va. etw. ه | أنزل ه | jn. ه
 | -machen va., -reißen va. jn. wegen
 وبتنه ه على
 hervor adv. إلى قدام | إلى خارج
 | -brechen vn. ظهراً بالفور
 | -bringen va. etw. أتى i ب
 (Worte) -- | ولد i ه | أورد ه
 | -gehen vn. aus u خرج
 | -heben va. ننج u من | من
 | عظم ه | أبان ه | أظهر ه
 | -ragen vn. ارتفع | - - sich

u ناف | u | أشرف | سئم a | برز u
 | مُهِمَّ | -ragend a. | نتأ a | أناف
 | كَثِيرًا | جِدًّا | - adv. -- | كبير
 | -stechen vn. | ارتفع | أثر في القلب
 | -stechend a. | مؤثر في القلب
 | -ragen | -stehen vn. | مرْتَفِعٌ
 | -treten | -thun v. sich in | أفضل في
 | -ziehen va. etw. | تقدم vn.
 .أخرج ه

| قواد | قلوب pl. قلب s. n. Herz
 | - | صدور pl. صدر (Brust)
 | لُبُوب pl. لُب | شجاعة (Mut)
 | -en | شجاع | Mann von
 | فنتت | - brechen | das - قلبياً
 | sich etw. zu -en nehmen,
 | jn. ans | عنى ب | zu -en gehen
 | - | عائق & | sein - auf
 | der Junge tragen, sprechen wie
 | es einem ums - ist | تكلم بخلوص
 | -en | هو مهم | es liegt mir am
 | يا قرة العين! - | عندي | mein
 | -beutel | ورقة كبا * | -en (Karte)
 | شغف القلب | s. m. | غلاف القلب
 | -blatt s. n. | مطرب | -bewegend a.
 | قرة العين | عزيز | حبيب
 | -brechend a. | ملحجة | -blut s. n.
 | -eleid s. n. | مقيت القلب | كرب

pl. كُرُوب | -en va. jn. لَاطَفٌ &
 & قَبَل | -ensbruder s. m., -ens-
 dieb s. m., -ensfreund s. m.
 حَبِيب | عَزِيز | -enskönigin s. f.
 حَبِيبَةٌ | مَحْبُوبَةٌ | -enslust s. f.
 تَقْعِير | -grube s. f. سُرُورِ الْقَلْبِ
 شَجَاعٌ a. -haft | المَعْدَةُ
 herziehen vn. über jn. وَبَّحَ &

herz-ig a. لَطِيفٌ | عَزِيزٌ a.,
 -inniglich a. قَلْبِيٌّ | من بَاطِنِ
 جَوْفِ | -kammer s. f. الْقَلْبِ
 pl. أَجْوَافِ | -klopfen s. n. الْقَلْبِ
 قَلْبِيٌّ a. -lich | حَقَقَانَ الْقَلْبِ
 مَحَبَّةٌ قَلْبِيَّةٌ s. f. | فَوَادِيٌّ
 -los a. جَافٌ | قَاسٍ | -losigkeit
 s. f. قَسَاوَةٌ.

Herzog s. m. دُوكَا * | -in s. f. امْرَأَةٌ
 دُوكِيَّةٌ * | -tum s. n. الدُّوكَا *

Herz-pochen s. n. f. -klopfen |
 -stärkung s. f. تَقْوِيَّةُ الْقَلْبِ |
 -zerreißend | شَيْءٌ مُقَوِّى الْقَلْبِ
 مُفَتِّتِ الْقَلْبِ a.

herzu adv. إِلَى هُنَا (نَحْوِ الْمُتَكَلِّمِ).

heterogen a. مُخْتَلِفِ الْجِنْسِ.

Heublatt s. n. جَرِيدَةُ مُلْقِيَةِ الشَّعْبِ |
 Hege s. f., Hejagd s. f. صَيْدٌ
 hegen va. HUND auf بِالْكِلَابِ

pl. أَعْرَى الْكَلْبِ عَلَى | jn. - gegen
 حَرَضَ & عَلَى | حَتَّ & u عَلَى

Heu s. n. حَشِيشِ نَاشِفِ |
 عَلَفٌ.

Heuchelei s. f. مُنَافَقَةٌ | رِثَاءٌ |
 مُنَافِقٌ | heucheln vn. نَافَقَ |
 Heuchler s. m. إِنْسَانٌ مُنَافِقٌ |
 مُنَافِقٌ | heuchlerisch a. مُرَاءٌ
 مُرَاءٌ.

heuer adv. فِي هَذِهِ السَّنَةِ | فِي هَذِهِ
 الْأَيَّامِ.

Heuer s. f. أَجْرَةُ الْبَحْرِيَّةِ | -n va.
 اسْتَأْجَرَ الْبَحْرِيَّةِ Matrosen.

heulen vn. i عَوَى | mit den Wölfen -
 Heulen s. n. | تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ النَّاسِ
 Heuler s. m. عَوَاءٌ | عَوَاءٌ
 s. f. عَوَاءٌ.

heurig a. مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ.

Heuschober s. m. عَرْمَةٌ الْحَشِيشِ
 pl. كُومٌ | كُومَةٌ الْحَشِيشِ | عَرَمٌ pl.

Heuschreck s. m., Heuschrecke s. f.
 جَرَادَةٌ - | coll. جَرَادٌ

heute adv. فِي هَذَا النَّهَارِ | الْيَوْمَ

heutig a. | فِي هَذَا الصَّبَاحِ früh -
 | مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ | مِنْ هَذَا الْيَوْمِ
 | فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ -en Tages
 | فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ heute-
 zutage adv.

Here s. f. سَاحِرَةٌ pl. سَاحِرَاتٌ u.
 | سَكَّرَ -n vn. | غَوْلَةٌ | سَوَاحِرِ
 | سَكَّرَةٌ pl. سَاحِرِ s. m. nmeister
 | عَارِضٌ مِنْ دَاءٍ s. m. -nschuß
 | سِحْرٌ s. f. -rei | الْمَفَاصِلِ

hie adv. هُنَا | - u. Da هُنَاكَ
 فِي بَعْضِ | فِي بَعْضِ الْمَحَلَّاتِ
 الْأَحْيَانِ.

Hieb s. m. | ضَرْبَةٌ | ضَرْبِ (Wunde)
 جِرَاحَةٌ | جُرْحِ

hiebei adv. عِنْدَ هَذَا.

Hieber s. m. سَيْفِ pl. سَيْفُونَ.

hiedurch adv. بِوَاسِطَةِ هَذَا.

hiefür adv. لِأَجْلِ هَذَا.

hiegegen adv. ضِدَّ هَذَا.

hieher adv. إِلَى هُنَا.

hiemit adv. بِهَذَا | مَعَ هَذَا.

hienach adv. بِحَسَبِ هَذَا | بَعْدَ هَذَا.

hieneben adv. بِجَانِبِ هَذَا.

hienieden adv. فِي هَذِهِ الدُّنْيَا.

hier adv. هُنَا | - u. Da f. hie | -an
 فِي هَذَا.

Hierarchie s. f. سِلْسِلَةُ الْمَرَاتِبِ |
 | تَدْرِيجِ الْمَرَاتِبِ hierarchisch a.
 رُتَبِيٌّ | دَرَجِيٌّ.

hier-auf adv. عَلَى | بَعْدَهُ | بَعْدَ هَذَا
 | مِنْ هُنَا -aus adv. | ثُمَّ | هَذَا

| عِنْدَ هَذَا -bei adv. | مِنْ هَذَا

-durch adv. | بِوَاسِطَةِ هَذَا -ein

adv. | لِأَجْلِ هَذَا -für adv. | فِي هَذَا

-gegen adv. | ضِدَّ هَذَا -her adv.

-hin | إِلَى هَذَا الْوَقْتِ | إِلَى هُنَا

| فِي هَذَا -in adv. | إِلَى هُنَا

-lands adv. | فِي هَذَا الْبَلَدِ -mit

adv. | مَعَ هَذَا -nach adv.

-neben | بِحَسَبِ هَذَا | بَعْدَ هَذَا

adv. | بِجَانِبِ هَذَا.

Hieroglyphen s. pl. خَطِّ مِصْرِيٍّ قَدِيمِ.

hier-orts adv. | فِي هَذَا الْبَلَدِ -selbst

adv. | عَلَى هَذَا -über adv. | هُنَا

-unter adv. | تَحْتَ هَذَا -von adv.

| قَدَّمَ هَذَا -vor adv. | مِنْ هَذَا

| ضِدَّ هَذَا -wider adv. | قَبْلَ هَذَا

-zwischen adv. | إِلَى هَذَا -zu

adv. | بَيْنَ هَذَا.

hiefig a. | مِنْ هَذَا الْبَلَدِ | مِنْ هُنَا

مَوْجُودٌ فِي هَذَا الْمَكَانِ.

Hifthorn s. n. | أَبْوَاقِ pl. | بُوقِ

| إِعَانَةٌ | مُعَاوَنَةٌ | مُسَاعَدَةٌ Hilfe s. f.

| تَوْفِيقِ (von Gott) - | إِمْدَادٌ | مَدَدٌ

! - zu | بِعَوْنِ اللَّهِ - mit Gottes

jm. | الْمَدَدُ الْمَدَدُ | الْعَوْتُ الْعَوْتُ

- leisten, jm. zu - kommen

- um - rufen, jm. um - | سَاعَدَ &

نَحْوَ الدَّارِ - nach dem Hause | فُقِدَ |
auf etw. - | على شَيْءٍ - u. her
- u. | ذَاهِبًا آثِبًا | هُنَا وَهُنَا
wieder أَحْيَانًا.

hinab adv. مِنْ فَوْقٍ إِلَى تَحْتٍ
f. herab u. seine
Komposita.

hinan adv. مِنْ تَحْتٍ إِلَى فَوْقٍ
f. heran u. seine
Komposita.

hinarbeiten vn. auf ه i هَصَدَ.

hinauf adv. f. hinan.

hinaus adv. مِنْ الْمُتَكَلِّمِ إِلَى خَارِجٍ
f. heraus u. seine Komposita |
- sein über etw. ه u فاق | -führen
va. جئ. ه | أَخْرَجَ ه |
-gehen vn. u | خَرَجَ -- über etw.

auf etw. (Thür,
fenster) | أَطَلَّ عَلَى | أَشْرَفَ عَلَى
-kommen vn., -laufen vn. auf

setzen va. etw. | أَفْضَى إِلَى
| أَخَّرَ الْأَجَلَ -- | أَخْرَجَ ه
| فاق u ه | über etw. - - sich
أَرَادَ أَنْ - | تَفَوَّقَ عَلَى

auf etw. f. beabsichtigen | يَخْرُجُ
hoch - - | الْمَعَالِي.

hin-blick s. m. نَظَرَ | im - - auf

نَظَرَ - blicken vn. auf u نَظَرَ إِلَى
قَضَى i | -bringen va. | إِلَى
-brüten | صَرَفَ i | الزَّمَنَ | الزَّمَنَ
| فَشَلَ - brüten s. n. | فَشَلَ
-dämmern vn. a فَشَلَ.

hinderlich a. | مُضَيِّقٍ | عَائِقٍ
| أَعَاقَ ه | عَاقَ ه
! مَنَعَ ه | عَنِ أَوْ مِنْ - an
Hindernis s. n. | مَوَانِعٍ pl. | مَوَانِعِ
عَوَائِقٍ pl. عَوَائِقِ.

hindeuten vn. auf أشارَ إِلَى.

Hindin s. f. أَنْثَى الْأَيْلِ.

Hindu s. m. | هِنْدِيّ | die -s.

hindurch adv. | طَوَّلَ | فِي مُدَّةٍ
| طَوَّلَ سَنَةً | فِي مُدَّةِ سَنَةٍ -
Jahr | بِوَاسِطَةِ | durch u. seine Kom-
posita.

Hindustan n. pr. هِنْدُوسْتَانِ.

hinein adv. (عَنِ الْمُتَكَلِّمِ) | إِلَى دَاخِلٍ
in den Tag - | بِلا تَأَمَّلَ.

hinein f. ein u. herein u. ihre
Komposita | -bringen va. etw. in
| أَدْخَلَ ه | -denken v. sich in
| تَخَيَّلَ ه | تَصَوَّرَ ه etw.

Hin-fahrt s. f., - - u. Rückfahrt
| -fallen vn. | الدَّهَابِ وَالْإِيَابِ
| فَانَ | وَقَعَ ا | سَقَطَ u

-strecken va. Hand 2c. مَدَّ u اليَد |
 - - jm. s. أَمَات | -streichen vn.
 | فات u | مَضَى i (الزَمَانُ) (Zeit)
 - - an etw. مَرَّ u بِالْقُرْبِ مِنْ |
 hinten-segen va., -stellen va. etw.
 | تَغَاوَل عَنْ | تَوَانَى فِي
 s. f., -stellung s. f. | تَغَاوَل عَنْ |
 عَدَمُ الْمُرَاعَاةِ |
 hinten adv. خَلْفًا | وَرَاءَ |
 | خَلْفَهُ | -nach adv. | فِي الْوَرَاءِ
 | وَرَاءَهُ | بَعْدَهُ |
 hinter praep. خَلْفَ | وَرَاءَ |
 - etw. kommen i كَشَفَ h | jm.
 - das Licht führen s a خَدَعَ |
 - einander | تَتَابَعًا |
 her sein s تَتَبَعَ | -backe s. f.
 | أَطْيَاز pl. طِيَز* | أَلْيَات pl. أَلِيَّة
 -bein s. n. رِجْلُ الْحَيَوَانِ pl.
 | أَرَجُلُ | sich auf die -e stellen
 | بَقِيَ a | -bleiben vn. | عَارِضُ
 -bliebenen eines Verstorbenen
 | أَقْرِبَاءُ الْمُنْتَوِي | -bringen va. jm.
 etw. h | بَلَّغَ s h |
 -bringer | وَقَفَ i s | عَلَى | ه أَوْ بِ
 s. m. | مُبَلِّغٌ | -drein adv. | بَعْدَهُ
 | وَرَائِي | خَلْفِي a. -e | خَلْفَهُ
 | أَسْتَاهُ pl. إِسْت | مُؤَخَّرٌ s. m. -e

| قَعْدَةٌ* | مَقْعَدَةٌ | أَذْبَار pl. دُبُر
 | أَطْيَاز pl. طِيَز* | -einander f.
 | رِجْلُ الْحَيَوَانِ s. m. -fuß | hinter
 | أَرَجُلُ pl. | -gebäude s. n. | بِنَاءُ
 | وَرَاءَ الدَّارِ | -gedanke pl. | سَرِيرَةٌ
 | بَطَائِنِ pl. | بَطَانَةٌ | سَرَائِرُ
 | خَدَعَ s a | -gehen va. | خَفِيَ
 | قَصَا s. m. | -grund s. m. | قَصَاءُ
 | كَمِينِ pl. | -halt s. m. | كَمْنًا
 | كَمَنَ u | -legen, im - - liegen | كَمِنَ
 | أَمْنًا | - | حِمَايَةً (Schutz) | - | لَهُ
 | وَجْهَيْنِ a. | -haltig a., -hältig a. |
 | مُدَارٍ | -hand s. f. | ذُو لِسَانَيْنِ
 | قَفَا | -haupt | قَفَا | مُشْطُ الْيَدِ
 | قَفَاءُ | -haus s. n. | قَفَا s. n. f.
 | وَرَاءَهُ | -gebäude | -her adv. |
 | قَفَا | -lader | قَفَا s. m. |
 | بُنْدُقِيَّةٌ تُحْشَى | -مدفع s. m. |
 | فِي مُؤَخَّرِهَا | -land s. n. | نَاحِيَّةُ
 | مِينَا أَوْ عَاصِمَةٌ | -Mogodo |
 | تَرَكَ h u | -lassen va. etw. h | خَلْفَ
 | أَبْقَى h | -lassenschaft | بَقِيَ h
 | تَرْكَةٌ s. f. | -Möbilität pl. | مِيرَاثُ
 | الصَّيْدِ s. m. | -lauf s. m. | رِجْلُ
 | أَرَجُلُ pl. | -legen va. etw. bei
 | أَوْ دَعَى h s | -das | أَوْ عِنْدَهُ
 | وَدِيعَةً | -Hinterlegte | أَمَانَةٌ |

مُشَنَّقَةٌ | -gericht s. n. | مُحْتَرَمٌ
-land s. n. | -fläche.

höchlich adv. | جِدًّا | لِلغَايَةِ.

Hoch-mut s. m. | كِبْرٌ | كِبْرِيَاءٌ | تَكَبَّرَ |
مُتَكَبِّرٌ | -mütig a. | اِنْتِفَاحٌ | اِفْتِخَارٌ
-ofen s. m. | مَعْمَلُ الحَدِيدِ |
-schätzen va. | اِحْتَرَمَ |
-schätzung s. f. | اِحْتِرَامٌ | اِعْتَبَرَ *
-schule s. f. | اِعْتِبَارٌ |
-schüler s. m. | اَلْمَدْرَسَةُ الكُبْرَى |
-tلاميذة pl. | تَلْمِيذٌ فِي دَارِ الفُنُونِ |
-sinn s. m. | عُلُوُّ الافْكَارِ | -sinnig
a. | اَعْلَى الافْكَارِ | -sinnigkeit s. f.
f. | Hochsinn.

höchst adv. | فِي الغَايَةِ.

Hochstapler s. m. | مُحْتَالٌ.

höchstens adv. | عَلَى الاكْثَرِ.

Hoch-stift s. n. kath. | جَمْعِيَّةٌ كَهَنَةِ
| ذُو جَزَالَةٍ | -trabend a. | قَانُونِيَّيْنِ
| دَسِيسَةٌ | -verrat s. m. | ذُو تَبَهُّرُجٍ
| -verräter | عَلَى الدَّوْلَةِ أَوْ الوَطَنِ
| صَاحِبُ دَسِيسَةٍ عَلَى الدَّوْلَةِ | s. m.
| ذُو دَسِيسَةٍ عَلَى | -verräterisch a.
| غَابَةٌ فِيهَا | -wald s. m. | الدَّوْلَةُ
| -wasser s. n. | اَشْجَارٌ عَظِيْمَةٌ
| -wohlgeboren (Titel) | فِيضَانِ المَاءِ
| Euer -- | جَنَابٌ | حَضْرَةٌ (لَقَبٌ)

جَنَابُكَ | حَضْرَتُكَ (Ew. - -)
-würden (Titel einiger Geistlicher)
| حَضْرَةٌ (لَقَبٌ بَعْضُ الوُعْظَاءِ)
| حَضْرَتُكَ (Ew. - -) | Euer - -
-würdig a. (Titel) | (لَقَبُ الوُعْظَاءِ)
مُحْتَرَمٌ.

Hochzeit s. f. | اَعْرَاسٌ pl. | عُرْسٌ
| تَزْوِجٌ | - machen, halten | زِفَافٌ
| عِيدٌ تَذْكَارًا | - silberne, goldene
| -bitter | لِلزَّوْجِ بَعْدَ ro أَوْ o سَنَةً
| -lich a. | دَاعٍ إِلَى عُرْسٍ | s. m.
| -sfeft | زَوَاجِيٌّ | عُرْسِيٌّ | زِفَافِيٌّ
f. | Hochzeit | -sgast s. m. | مَدْعُوٌّ
| وَلِيْمَةٌ | -smahl s. n. | لِلعُرْسِ
| -snacht s. f. | وَلائِمٌ pl. | العُرْسِ
| -stag | كَيْلَةُ الدُّخُولِ عَلَى العُرُوسِ
s. m. | يَوْمُ الزَّوْجِ.

قَفَّ *u | اَقْعَى | جَنَّا | hochen vn. u
| بَرَكَ *u | قَرَفَصَ *

Höcker s. m. | حَدَبَةٌ (Buckel) | -
| اَسْنِمَةٌ pl. | سَنَامٌ (des Kamels)
| -ig a. | حُدْبَاءٌ f. | اَحْدَبٌ |
- | وَعُرٌّ | خَشِيشٌ (uneben) - -

Höde s. f. | بَيْضٌ pl. | بَيْضَةُ (الرَّجُلِ)
| -nsack s. m. | خُصِيَّةٌ pl. | خُصِيَّةٌ
| كَيْسُ البَيْضِ.

Hof s. m. | حَوْشٌ pl. | (des Hauses)

- | صُحُون pl. صَحْن الدار | جيشان
 | ضَيْع pl. ضَيْعَة (Gutshof) -
 | حاشية des Königs - | جِفْتِك
 | دار الملك | حَشَم الملك | الملك
 | دَوْلَة (Regierung) - | قَصْر الملك
 | أَرْباب الدَوْلَة | دَوْل pl.
 | تَمَلَّق ه و لَهُ den - machen
 | وَظِيْعَة في دار الملك s. n. -amt
 | صاحِب s. m. -besitzer | وَظَائِف pl.
 | صاحِب جِفْتِك | ضَيْعَة -dame
 | سِتّ في صُحْبَة المَلِكَة s. f.
 | مَن لَهُ إِذْن في الدُخُول a. -fähig
 | عِنْد المَلِك .
 Hoffart s. f. تَكَبَّر | hoffärtig a.
 مُتَكَبِّر .
 hoffen va. etw. ه | رَجَا u ه | أَمَل ه
 | إِطْمَأَنَّ . auf etw. - | تَرَجَّى ه
 | اِعْتَمَد عَلَى | وَثِقَ i ب | إِلَى
 | Hoff- | إِذْن شَاء اللّهِ adv. -tlich
 | رَجَاء | آمال pl. أَمَل s. f. -nung
 | (frau) - guter | تَوَقَّع | تَرَجَّج
 | hoffnungslos a. عَادِم | حَامِل
 | hoffnungsvoll a. كَثِير | الرَجَاء
 | الآمال .
 Hof-gefinde s. n. خَدَم الملك | -gunst
 | نِعْمَة المَلُوك s. f. -halt s. m.,
 | حاشية | دار الملك s. f. -haltung
- كَلْب حارس s. m. -hund | المَلِك
 . تَمَلَّق ه وَ لَهُ ieren va. jn. | الحَوْش
 . مِن حاشية المَلِك a. höflich
 دَسِيْسَة في حاشية Hof-fabale s. f.
 -lager s. n. | دَسَائِس pl. المَلِك
 | مَقَرّ المَلِك | -leute s. pl. حَشَم
 المَلِك .
 | آدِمِيّ * | أَنيس | أَدِيب a. höflich
 | أَنَس | لُطْف | آدَب s. f. -feit
 | Höfiling s. m., Hof- | آدَمِيَّة *
 mann s. m. حاشية من
 | نَدْمَاء pl. نَدِيم المَلِك | المَلِك
 مُفَتِّسِر الإِصْطَبَل Hof-marschall s. m.
 | مُرَبِّ s. m. -meister | المَلُوكِيّ
 | هَارِج في حاشية s. m. -narr
 | مُسْتَشَار (Titel) -rat s. m. | المَلِك
 | -raum s. m. | دار الملك (لَقَب)
 | -schranze s. m. | حَوْش
 | كَنِيء الطَّبَع في حاشية المَلِك
 | حاشية المَلِك s. m. -staat
 | سَنَاء | سُمُو | عُلُوّ s. f. Höhe
 | تَلّ (Anhöhe) - | اِرْتِفَاع | رِفْعَة
 | رُبِّي pl. رُبُوَة | تِلال u. نُلول pl.
 | in die - gehen, sich in die -
 | اِرْتَفَع | اِنْتَصَب | etw. in
 | نَصَب ه | رَفَع ه a. die - richten
 | شَرَف | سُمُو s. f. Hoheit (Herr-

- (Titel) | اسْتِيْلَاء | مُلْك (Schafft) |
 -srecht s. n. | دَوْلَة | سُمُو (لقب) |
 pl. حُقُوق | حَقَّ السَّلْطَنَة |
 Hohelied s. n., das - Salomonis
 christl. نَشِيد الأَنَاشِيد |
 Höhenrauch s. m. ضَبَابَة نَاشِفَة |
 Höhenzug s. m. سِلْسِلَة التُّوْل |
 Hohepriester s. m. أَحْبَار pl. |
 كَهَنَة pl. كَاهِن |
 Höhepunkt s. m. أَعْلَى دَرَجَة |
 أَوْج | كُنْه | دُرَى pl. دُرُوءَة |
 hohl a. نَحِيْل (Wange) - |
 أَجُوف | die | رَأْس فَاْرِغ العَقْل -er Kopf |
 -e Hand | باطن اليَد -e Stimme |
 رَاسِب a. -äugig | صَوْت بَهِيْم |
 -bohrer s. m. بَرِّيْمَة |
 Höhle s. f. مَغَاوِر pl. |
 جُحْر | كُفُوف pl. كُهْف |
 -n bewohner s. m., | جُوف ه |
 -mensch s. m. | اِنْسَان سَاكِن فِي |
 المَغَاوِر |
 Hohlheit s. f. قِلَّة العَقْل |
 جُوف | hohlköpfig a. قَلِيْل العَقْل |
 Höhlung s. f. أَجُوف pl. |
 جُوف | hohlwangig a. نَحِيْل الخَدَّيْن |
 Hohlweg s. m. طَرِيْق مُجُوف |
 مَضِيْق |
- Hohn s. m. اسْتِهْزَاء | هِجَاء |
 سُخْرِيَّة | höhnen va. jn. اسْتِهْزَأَ بِه |
 Hohngelächter s. n. ضِحْك |
 höhnisch a. مُسْتَهْزِئ |
 مُسْتَهْزِئَة | höhnlächeln vn., höhnlachen vn. |
 اسْتِهْزَاء a ضِحْك | Hohnrede s. f. |
 كَلَام مُسْتَهْزِئ |
 Höfer s. m. بائِع | باعَة pl. |
 يَبَاع | -in s. f. يَبَاعَة * |
 خُرُوجِي | Hofuspokus s. m. شَعْبَدَة |
 بَلْبَلَة | هَوْشَة |
 hold a. لَطِيْف | ظَرِيْف | عَزِيْز |
 -felig a. | أَحَبَّ * | - sein |
 jn. | لُطْف s. f. -feligkeit |
 hold | مَلَاْحَة | ظَرَاْفَة |
 holen va. etw. أَحْضَرَ ه |
 دَهَبَ a | أَرْسَل طَالِبًا - |
 لَافَّط طَالِبًا |
 Holla! interject. يَا |
 أَيَا | holland n. pr. هُلَنْدَة |
 Holländer s. m. رَجُل هُلَنْدِي |
 holländisch | هُلَنْدِي a. |
 Hölle s. f. جَحِيْم |
 نار | جَحِيْم |
 -stein s. m. حَجَر جَحِيْم |
 höllisch a. جَحِيْمِي |
 جَحِيْمِي | جِدًّا (sehr) - |
 خَبِيْث للغَايَة |
 holpern vn. عَثَرَ | holpricht a., |
 holprig a. وَعُر | دُو صَلَابَة |
 صُلْب |

Horde s. f. قَبَائِلُ pl. قَبِيلَةٌ راحلة s. f. قوم فَوْضَى

hören va. jm. u. etw. سَمِعَ a و ه - (sich erkundigen) اَصْغَى اِلَيْهِ - auf jm. | عَرَفَ i | اسْتَحْبَرَ (schwer, schlecht - ثَقِيل u كان سَمِعَ a و ه - sagen - jm. | السَّمْعُ | bei einem Universitätsprofessor - stud. اَعْتَدَ اَسْتَاذًا | تَعَلَّمَ عِنْدَ اَسْتَاذٍ | في دار الفنون | lassen, - lassen u قال | تَكَلَّمَ | es läßt sich - يُحْتَمَلُ.

Hörensagen vn. نَقَلَ | ما يُسْمَعُ | صَبَّأ | القال والقيل | وَمَنْقُولٌ | Hörer s. m. سَامِعٌ pl. | Hörer, schaft s. f. السَامِعُونَ | تَلَامِيذَةٌ pl. | تَلْمِيذٌ اَسْتَاذٍ

hörig a. مَمْلُوكٌ | اَرِقَاءٌ pl. | رَقِيْقٌ pl. | رِقٌّ s. f. - | مَمَالِيكٌ pl.

Horizont s. m. اَفَقٌ pl. | das geht über seinen - هَذَا يَفُوْقُ - اَفُقِيٌّ a. - | طاقته أو اِقْتِدَارُهُ

Horn s. n. قُرُونٌ pl. | mus. - | Hörner tragen اَبْوَاقٌ pl. | بوق | Hörner aufsetzen | عَرَّضَ | jm. | das - blasen, in das - stoßen | hörnern a. | قُرْنٌ | بوق

Hörnerträger s. m. مُقَرَّنٌ | مُعَرَّضٌ | قرنان | Hornhaut s. f. des Auges | قَرْنِيَّةُ العَيْنِ * | شَحْمَةُ العَيْنِ | مُقَلٌّ pl. | مُقَلَّةٌ

Hornisse s. f. زُنْبُورٌ pl. | زُنَابِيْرٌ

Hornist s. m. بَوَّاقٌ

Hornung s. m. | فَبْرَائِرٌ * | شَبَابٌ *

Hornvieh s. n. حَيَوَانٌ ذُو قُرْنٍ | رَجُلٌ اَبْلَهٌ - bld.

Hör-rohr s. m. بُوقٌ مُقَوِّى الصَّوْتِ | مَسَامِعٌ pl. | مَسْمَعٌ s. m. - | سال

Horst s. m. وَكْرٌ الطُّيُورِ الكَاسِرَةِ pl. | اَوْكَارٌ

Hort s. m. (Schatz) كَنْزٌ pl. | مُعِينٌ (Stütze, Beschützer) - | مَحَامٍ

Hose s. f., Paar -n, -n | سَرَاوِيْلٌ pl. | سِرْوَالٌ - | سِرْوَالٌ * | das Herz ist ihm in die -n gefallen a | خَمْدٌ u | فَشَلٌ

orientalische - | نَشَاطُهُ | seine Frau hat die -n an | تَدْبِيْرُ الدَّارِ لِزَوْجَتِهِ | -nband s. n. | رَبَطٌ pl. | رَبَاطُ السَّاقِ

orden s. m. | النِّيشَانُ الاكْبَرُ عِنْدُ | جَيْبٌ s. f. | -ntasche | اِلْاِنْكِيْلِيْزِ

pl. | عِبَابٌ pl. | عِبٌّ * | جِيُوبٌ pl. | حَمَالَةٌ البَنْطَلُونَ * | -nträger s. pl.

pl. | جِيُوبٌ * | عِبٌّ * | جِيُوبٌ pl. | حَمَالَةٌ البَنْطَلُونَ * | -nträger s. pl.

pl. | جِيُوبٌ * | عِبٌّ * | جِيُوبٌ pl. | حَمَالَةٌ البَنْطَلُونَ * | -nträger s. pl.

Hosianna s. n. christl. هَوَشَعْنَا *
 Hospital s. n. | مُسْتَشْفَى * |
 حَسْتَخَانَةٌ *
 Hospiz s. n. | دار للفقراء | دار الضيافة
 Hostie s. f. | ذَبِيحَةٌ pl. | ذَبَائِح *
 Hotel s. n. | لُوكَنْدَةٌ | أُوتِيل |
 | مَنَازِل pl. | مَنَزِل | فَنَائِق pl.
 | هُوتَلُو * | -besitzer s. m., -ier s. m.
 | صَاحِب أُوتِيل | صَاحِب لُوكَنْدَةٌ
 Hub s. m. رَفْعُ.
 hüben adv. | فِي هَذِهِ الْجِهَةِ
 hübsch a. | لَطِيف | ظَرِيف | جَمِيل
 | ظَرَاةٌ | لَطَافَةٌ s. f. | كُويِس *
 hucken vn. | هَافَن.
 hudeIn vn. | خَرَبَش * | خَبَّص فِي عَمَلِهِ *
 Huder s. m. | مُخَبِّصُ.
 Huf s. m. | حَوَافِر pl. | حَافِر
 Hufe s. f. | نَوْعٌ مِنْ قِيَاسِ سَطْحِ
 | الأَرْضِ.
 Huf-eisen s. n. | نَعْلُ الفَرَسِ pl.
 | حَشِيشَةٌ s. m. bot. | -lattich
 | نَعَال | -schlag
 | دَرَسَةٌ الحِمَار * | السُّعَال
 | لَطْعَةٌ | رَمْحَةٌ | رَفْسَةٌ s. m.
 Hüfte s. f. | حُق pl. | حِقَاق
 | مَخَلَع a. | -nlahm
 | أَوْرَاك pl. |
 | الوَرَكِيْنِ.
 Hügel s. m. | تَل pl. | تُلُول u. | تِلَال

اكَثِير التِلَال a. | -ig | رُبِّي pl. رُبُوَّة
 -land s. n. | كَثِيرَةُ التِلَال
 Huhn s. n. | دَجَاج pl. | دُجَج coll.
 | دَجَاجَةٌ - ein | فَرَارِيْج pl. | فَرَوِجَةٌ
 Hühnerauge s. n. | سِلْعَةٌ pl. | سِلْعُ
 | مَسَامِير pl. | مِسْمَار * | شَتُونَةٌ
 | عِيُون pl. | عَيْن سَمَك * | {yr.
 Hühnerhund s. m. | كِلَابٍ مِنْ
 | الصَّيْدِ.
 Hui, in einem - | فِي لَحْظَةٍ -
 Huld s. f. | إِحْسَان | نِعْمَةٌ
 -igen vn. | بَايَعُ s | jn. |
 | -igung s. f. | مُبَايَعَةٌ | -reich a., -voll a.
 | كَثِيرٌ | كَثِيرُ النِّعْمَةِ | مُنْعِم
 | الإِحْسَانِ.
 Hülfe s. f., hülf, Hülf, s. f. Hilfe,
 hilf, Hilfs.
 Hülle s. f. | غِشَاءٌ pl. | أَغْشِيَّة
 | لَفَائِف pl. | لِفَافَةٌ | أَعْطِيَّة pl.
 | ظُرُوف pl. | ظَرْفُ الخِطَابِ (-Brief-)
 | die sterb. | الثِّيَابِ (Kleider) -
 | in - | جَثَث pl. | الجَثَّة - liche
 | hüllen va. | فَائِض | وَاِفِر | fülle
 | لَفَّ u s | ب | غَطَى s | ب | in
 | sich in | تَغَطَّى ب | in - sich
 | سَكَت - u Schweigen
 Hülse s. f. | قَشْر (الفِصُولِيَّة مَثَلًا)

- pl. قُشُور | -nfrucht s. f. حُضْرَة | Hund-sfott s. m. رَجُلٌ خَبِيثٌ |
 ذات قِشْرٍ | -ität | إنْسَانِيٌّ (مَجَازًا) | -sföttisch a. خَبِيثٌ | -sgemein
 s. f. إنْسَانِيَّةٌ. | a. اِرْدَى | * | -stage
 s. pl. أَيَّامُ الْحَرِّ الشَّدِيدِ | -swut
 s. f. كَلْبٌ | داء الكَلْبِ | -szahn
 s. m. نَابٌ pl. أَنْيَابٌ.
 Hummel s. f. زُنْبُورٌ pl. زَنَائِيرٌ | Hüne s. m. جَبَّارٌ pl. جَبَابِرَةٌ |
 eine wilde - | ابْنَةٌ وَحْشِيَّةٌ - | رَجُلٌ طَوِيلُ الْقَامَةِ |
 Hummer s. f. سَرَطَانُ الْبَحْرِ. | -ngrab s. n. قَبْرُ جَبَّارٍ مِنَ الزَّمَنِ
 Humor s. m. ذَوْقٌ غَرِيبٌ | -istisch | شَبِيهِهِ a. نَهَافٌ | قُبُورٌ pl. الْقَدِيمِ
 a. مُضْحِكٌ | ذُو ذَوْقٍ غَرِيبٍ. | بِجَبَّارٍ.
 humpeln vn. a. عَرَجٌ. | Hunger s. m. جُوعٌ | bld. - (Be-
 Humpen s. m. كَأْسٌ كَبِيرٌ لِشُرْبِ الْخَمْرِ | gierde) | - | اِسْتِهَاءٌ | - haben, leiden
 pl. كُؤُوسٌ. | u مات جُوعًا -s sterben | - | جاع |
 Hund s. m. كَلْبٌ pl. كِلَابٌ | junger - | den - stillen الجُوع u قَتَلَ | i
 auf den - | كَسَرَ | قَتَلَ | كَسَرَ |
 kommen | أَجْرِيَّةٌ pl. جِرْوُ | * | الجُوع | -fur s. f. حِمِيَّةٌ
 -ehütte s. f. | أَفْتَقَرُ | -leider s. m. فَقِيرٌ pl. | الطَّعَامِ
 بَرْدٌ | -efälte s. f. مَرَقْدُ الْكَلْبِ | | فقراء | -n vn. u جاع |
 شَدِيدٌ. | -pfote s. f., an den - -n saugen
 | جُوعٌ | قَحْطٌ s. f. | -snot s. f. | افْتَقَرُ
 | -tud s. n. | سَنَةٌ | مَجَاعَةٌ | جَدْبٌ
 | -e nagen | افْتَقَرُ.
 | جِياعٌ pl. جُوعَانٌ | جَائِعٌ | hungrig a. |
 | - sein od. werden u جاع.
 | قَزَّ | قَفَزَ | i | وَثَبَ | i | hüpfen vn. |
 | نَطَّ | * | i.
 | حَصِيرَةٌ مِنَ صَفْصَافٍ pl. | Hürde s. f.

- hüten va. Vieh المَواشِي a رَعَى |
- in. u. etw. ه و i حَرَسَ |
- in. vor a و ه حَمَى | رَعَى a و ه
das Bett, | صان u من | من
das Zimmer - الفِراش a لَزِمَ
| أَوِ الحُجْرَةَ | sich - vor a حَذَرَ
Hüter s. m. حَارِسٌ | اِحْتَرَسَ مِنْ
pl. حُرَّاسٌ.
- Hutmacher s. m. | بَرَانِيَطِيّ | Hut-
schachtel s. f. صُنْدُوقٌ لِحِفْظِ
صَنَادِيِقِ pl. البُرْنِيَطَةِ.
- Hütte s. f. | أَكْوَاحٌ pl. كُوخٌ
pl. | اِحْصَاصٌ u. اِحْصَاصٌ pl. (Eisen-)
- | مَعَامِلٌ pl. مَعْمَلُ الحَدِيدِ
besitzer s. m. صَاحِبُ مَعْمَلِ
مَعْمَلِ الحَدِيدِ | - | مَعْمَلِ
الحَدِيدِ.
- Hütung s. f. رَعَى.
- Hyäne s. f. ضِبَاعٌ pl. ضِبَاعٌ.
- Hyazinth s. m. (Stein) | حَجَرٌ يَمَانٍ
ياقوت زَعْفَرَانِيّ.
- Hyazinthe s. f. bot. | أَوْقِنْتُوسٌ *
نَوْعٌ مِنَ السُّوسَنِ.
- Hydraulik s. f. | عِلْمُ سَيْرِ المِيَاهِ
مُخْتَصٌّ | وِرْفَعِيهَا | hydraulisch a.
مِكْبَسٌ | بِتَحْرِيكِ المَاءِ - e Presse
مَكَابِسِ pl. يُحَرِّكُ بِالمَاءِ.
- (Schaf-) | أَطْبَاقٌ pl. | حَصَائِرِ
زِرَابِ pl. زَرِيْبَةٌ.
- Hure s. f. | عَاهِرَةٌ pl. عَوَاهِرٌ | فَاجِرَةٌ
| قِحَابٌ pl. قَحْبَةٌ | فَاجِرَاتِ pl.
- | شَرَامِيِطٌ pl. شَرْمُوطَةٌ *
| زَنَاةٌ pl. زَانٌ | زَنَى - r s. m.
- | زِنَاءٌ | زِنَى s. f. -rei
زَانٌ.
- Hurra! hurrah! | هَيَّا هَيَّا (عِنْدَ
هُورَا * | هَلَمَّ جَرًّا | العَسَاكِرِ).
- hurtig a. | سُرْعَةٌ s. f. - | سَرِيْعٌ.
- Husar s. m. mil. | خَيَْالَةٌ خَفِيْفَةٌ.
- huschen vn. | رَكَضٌ | جَرَى i
| دَخَلَ u خَفِيْفَةً.
- hüsten vn. | سَعَلَ u قَلِيْلًا (mit
Absicht) | تَنَحَّنَمِ | نَحَّ | husten vn.
(mit Absicht) | قَمَّ u * | سَعَلَ u
- | ich werde Dir etwas -
Husten s. m. | يَخِيْبُ سَعِيْكَ
قَحَّةٌ * | سَعَالٌ.
- Hut s. m. | بَرَانِيِطٌ pl. بُرْنِيَطَةٌ *
| ein - | قَلَانِسٌ pl. قَلَنْسُوتَةٌ
قَالَبِ سُكَّرِ | رَأْسِ سُكَّرِ.
- Hut s. f. (Schutz) | حِفْظٌ | etw. in
feiner - haben, etw. in feine -
nehmen ه ا حَفِظَ | auf der - fein
vor | اِحْتَرَسَ مِنْ | حَذَرَ مِنْ.

- Hygiene s. f. عِلْمُ الصِّحَّةِ.
- Hygrometer s. n. مِقْيَاسُ الرُّطُوبَةِ.
- Hymen s. n. poet. عُرْسٌ | زِفَافٌ.
- Hymen s. n. anat. حِجَابُ البِكُورِيَّةِ.
- Hymne s. f. قَصِيدَةٌ | مَدَائِحٌ pl. مَدِيحٌ pl. قِصَائِدٌ.
- Hyperbel s. f. مُبَالَغَةٌ.
- Hypochonder s. m. سَوْدَاوِيٌّ | Hypo-
chondrie s. f. سَوْدَاءٌ.
- Hypothef s. f. رَهْنٌ بِمُلْكٍ لَا يُنْقَلُ | رَهَائِنٌ pl. رَهَائِنَةٌ | رِهَانٌ pl.
- Hypothese s. f. قِيَاسٌ فَرَضِيٌّ | تَخْمِينٌ.
- Hysterie s. f. دَاءُ الرَّجْمِ | hysterisch
a. مُصَابٌ بِدَاءِ الرَّجْمِ.

J

- الحَرْفُ التَّاسِعُ مِنْ حُرُوفِ الحِجَاءِ i
- Jbis s. m. أَبُو مَنَجَلٍ | حَرِيْرٌ.
- ich pr. pers. أَنَا.
- Jch s. n. الذَاتِيَّةُ | das -,
das liebe - | أَنَانِيَّةٌ * | حُبُّ الذَاتِ -
heit s. f. الذَاتِيَّةُ | الذَاتِ.
- Jchneumon s. n. نُمُوسٌ pl. نُمُوسٌ.
- Jchsucht s. f. أَنَانِيَّةٌ * | حُبُّ الذَاتِ.
- Jdeal s. n. البَالِغُ فِي أَقْصَى دَرَجَاتِ
زَائِدٌ | ideal a. غَايَةٌ | قُدُوَّةٌ | الجُودَةُ

- مَذْهَبٌ -ismus s. m. | الحُسْنُ
- ist | فِلْسَفَةٌ فِكْرِيَّةٌ | الخَيَالِيِّينَ
s. m. فَيَّلَسُوفٌ خَيَالِيٌّ.
- Idee s. f. فِكْرٌ pl. أَفْكَارٌ | تَصَوُّرٌ
fire - | ظَنٌّ وَقِيَاسٌ | إِدْرَاكٌ | دِهْنِيٌّ
فِكْرٌ دَائِمٌ مُشْغَلُ العَقْلِ.
- identisch a. mit ذَاتِيًّا أَوْ
Identität s. f. اتِّحَادُ الذَاتِ | مَعْنَى
أَوْ المَعْنَى.
- Idiom s. n. لِسَانٌ pl. أَلْسِنَةٌ | لُغَةٌ
pl. لُغَاتٌ.
- Idiot s. m. بَلِيدٌ | أَبْدَدٌ | أَهْلُهُ
أَحْمَقٌ.
- Idol s. n. مَعْبُودٌ | أَصْنَامٌ pl. صَنَمٌ
pl. وَثْنٌ | مَعَابِيِدٌ pl. وَثْنٌ
مَنْ أَوْلَعَ بِهِ أَحَدٌ | أَوْثَانٌ bld.
- Idylle s. f. قَصِيدَةٌ أَوْ صُورَةٌ رَاعِيَّةٌ
أَوْ زَهْرِيَّةٌ.
- Igel s. m. قَنْفَذٌ pl. قَنْفَذٌ.
- Ignorant s. m. جَاهِلٌ.
- ANTEMMA | ANTE | ANTEMMA | ANTEMMA
pr. pers. أَنْتُمْ | أَنْتُنَّ | هُمَا | هُنَّ | هُمْ | هَا
pr. poss. أَنْتُمْ | أَنْتُنَّ | هُمَا | هُنَّ | هُمْ | هَا
3. 3. ihr Buch | كِتَابُهُمَا | كِتَابُهُمَا | كِتَابُهُمَا
ihretwegen, um ihretwillen
بِسَبَبِهَا | بِسَبَبِهَا | بِسَبَبِهَا

- ihrig pr. poss. | ها | بِسَبَبِهِمَا
 ihr. | هُمَا | هُنَّ | هُمْ
 illegal a. | مُخَالِفِ الْقَانُونِ.
 illegitim a. | مُخَالِفِ الْقَانُونِ -er
 Sohn | حَرَامِ | Bastard.
 Illumination s. f. | نُورِ الزَّيْتِنَةِ | تَنْوِيرِ
 illuminieren va. etw. | زَيَّنَ | تَوَّرَهُ
 هـ | بِالْأَنْوَارِ
 Illusion s. f. | خَيْالٍ | إِعْتِقَادِ بَاطِلٍ
 وَهْمِيٍّ | illusorisch a. | تَوَهَّمِ
 Iltis s. m. zool. | ظُرْبَانٍ pl.
 imaginär a. | وَهْمِيٍّ | خَيْالِيٍّ
 Imam s. m. | أَيْمَّةٍ pl. | إِمَامٍ
 s. n. | إِمَامَةٍ
 Imbiß s. m. | أَكْلٍ خَفِيفٍ | فُطُورٍ
 Imker s. m. | مُرَبِّي النَّحْلِ
 Immatrikulation s. f. | تَقْيِيدِ | immatrikulieren
 | تَدْوِينِ | تَسْجِيلِ
 va. jn. | سَجَّلَ | قَيَّدَ |
 Imme s. f. | نَحْلٍ coll. | eine -
 Immediat- | إِعْرَاضِ | IMMEDIAT-
 vorstellung s. f. | عَرُضِ حَالٍ
 immer adv. | دَائِمًا | عَلَى الدَّوَامِ | بِلَا
 | إِلَى الأَبَدِ - | فÜR - | auf - | انْقِطَاعِ
 - | أَكْثَرَ | وَأَكْثَرَ | -dar adv.,
 -fort adv. | دَائِمًا | -grün a. | أَحْضَرَ
 | -grün s. n. bot. | حَتَّى الْعَالَمِ | دَائِمًا
- hin adv. | حَبَّذَا | نِعَمَتٌ | نِعَمَتٌ
 -während a. | دَائِمًا | دَائِمًا
 -zu adv. | دَائِمًا
 Immobilien s. pl. | العَقَارَاتِ |
 | أَمْوَاتَانِ | مُلْكٍ لَا يُنْقَلُ | الأَرْضِي
 Immortelle s. f. bot. | f. | Immergrün.
 Immunität s. f. med. | نَزَاهَةِ مِنْ
 | بَرَاءَةِ | إِمْتِنِيَّازِ (Privileg) - | مَرَضٍ
 Imperativ s. m. gr. | صِيغَةِ الأَمْرِ
 مِنْ الفِعْلِ
 Imperfekt s. n. gr. | المَاضِي المُسْتَمَرِّ
 impertinent a. | وَقِحٍ | سَفِيهِهِ |
 | وَقَاحَةٍ | سَفَاهَةٍ | pertinenz s. f.
 impfen va. jn. | * | لَقَّحَ | طَعَّمَ الجَدْرِيَّ
 Impffschein s. m. | إِسْنَدٍ بِالتَّطْعِيمِ
 Impfung s. f. | * | تَلْقِيحِ |
 imponieren vn. jn. | إِثْرٍ فِيهِ |
 عَمِلَ فِيهِ
 Import s. m. | جَلْبِ | الوَارِدَاتِ
 -ieren va. etw. | هـ | جَلَبَ |
 أَوْرَدَ هـ
 imposant a. | مُؤَثِّرٍ | جَلِيلٍ | نَظِيمٍ
 impotent a. | سَاقِطٍ | عَاجِزٍ | أَكْسَمِ
 Impotenz s. f. | عَجْزٍ | كَسَمِ | حَالِ
 العَاجِزِ
 imprägnieren va. etw. | هـ | أَشْرَبَ
 Improvisation s. f. | بَدَاهَةِ | الرُّجَالِ

improvisieren | اقْتَبَالَ | اقْتِرَاح
 va. اقْتَرَحَ | اقْتَبَلَ | ارْتَجَلَ | ابْتَدَه.
 Impuls s. m. تَحْرِيك.
 in praep. c. dat. فِي | بِ | c. acc.
 عن قَرِيب furzem - | إِلَى | لِ
 Inbegriff s. m. عَيْن | ذات | جَوْهَر
 | مُضَمَّرًا | داخِلًا -en adv. | كُنْه
 مَعًا | مُضَمَّنًا
 Inbrunst s. f. غَيْرَة | حَمِيَّة | حَرَارَة
 | مُلْتَهَب | حَارٌّ inbrünstig a. | هَمَّة
 دُو غَيْرَة | مُجْتَهِد
 indem conjct. | فِيمَا | بَيْنَمَا
 بِمَا أَنْ
 Indenmität s. f. تَضْمِين
 Inder s. m. رَجُل هِنْدِيّ
 indes, indessen adv. (inzwischen) فِي
 | فِي غُضُون ذَلِكَ | أَثْنَاء ذَلِكَ
 - (während) conjct. - | لَكِن (aber) -
 فِيمَا | بَيْنَمَا
 Index s. m. pl. فِهْرِسْت Indices
 | فِهْرِسْت الكُتُب المَحْرَمَة -
 kath. حَرَم setzen - auf den Buch
 كِتَابًا
 Indianer s. m. هِنْدِيّ مِنْ أَمِيرِكا
 Indien n. pr. | بِلَاد الهِنْد Indier
 s. m. هُنُود u. هِنْدِيّون pl. هِنْدِيّ
 indifferent a. (Sache) | لا طَائِل تَحْتَه

خال (Person) - | لا فَائِدَة فِيه
 | بَارِد * | مِنْ الغَرَض أَوْ المَيْل
 Indifferenz s. f. خُلُوءٍ مِنَ الغَرَض
 أَوْ المَيْل
 Indigo s. m. نَيْل
 Indikativ s. m. gr. صِيغَة المُضَارِع
 الفِعْل الوُقُوعِيّ | المَرْفُوع
 individuell a. | شَخْصِيّ | فَرْدِيّ
 Individuum s. n. فَرْد pl. أَفْرَاد
 | أَشْخَاص pl. شَخْص
 Indossament s. n. comm. | حَوَالَة
 Indossant s. m., Indossent s. m.
 صَاحِب حَوَالَة
 Induktion s. f. اسْتِنْتِاج | قِيَاس
 | بالتَحْلِيل
 Industrie s. f. الصَّنَائِع | industriell
 | صَنِيع a. Industrieritter s. m.
 مُحْتَال
 infallibel a. | مَعْصُومٍ مِنَ الضَّلَال
 Infallibilität s. f. عِصْمَة مِنَ
 الضَّلَال
 infam a. | شَنِيع | فُضِيح | مَرْدُول
 | رَذُل -ie s. f. | قَبِيح | فَاحِش
 | فَضَائِح pl. | فَضِيحَة | فَضَاحَة
 | عَار | قَبَائِح pl. | قَبِيحَة
 Infant s. m. | بَرْنَس فِي بِلَاد الأَنْدَلُس
 | بَرْنَسَات pl.

- Infanterie s. f. | رَجَالَةٌ | يَبَادَةٌ *
 Infanterist s. m. | يَبَادِي * | مُشَاة
 جُنْدِي رَاجِل.
- Infinitiv s. m. gr. | مَصْدَر.
- Influenza s. f. | نَزْلَةٌ | زُكَام.
- infolge praep. c. gen. | بِذَاءٍ عَلَى.
- Information s. f. | اسْتِخْبَار | in-
 formieren va. ju. von ب | أَخْبَرَ ه ب
 sich - über | اسْتِخْبَرَ.
- Jugber s. m. f. | Ingwer.
- Ingenieur s. m. | مُهَنْدِس.
- ingleichen adv. | كَذَلِكَ | أَيْضًا.
- Ingredienz s. f. | أَجْزَاء | جُزْءٌ دَوَاءٍ pl.
 عَقَاقِير pl. | عَقَار | عَنَاصِر pl. | عُنُصُر.
- Ingrimm s. m. | مُغْتَاظ | -ig a. | غَيْظ.
- Ingwer s. m. | زَنْجَبِيل *.
- Inhaber s. m. | أَصْحَاب pl. | صَاحِب
 | أَرْبَاب pl. | رَبٌّ | دُوُون pl. | دُو
 مَالِك.
- inhastieren va. ju. | حَبَسَ i | s
 | سَجَن u.
- Inhalt s. m. | مَوْضُوع | مَضْمُون
 -reich a. (Buch) | مُفِيد (كِتَاب)
 | فِهْرِسْت s. f. | -sangebe | مُرْغَب
 -schwer a. | كَثِير المَعْنَى | -sver-
 zeichnis s. n. | فِهْرِسْت.
- Initiale s. f. | الحَرْفُ الأَوَّلُ مِنْ كَلِمَةٍ.
- Injektion s. f. | اِحْتِقَان.
- Injurie s. f. (Verbal-) | شَتِيمَةٌ pl.
 (Real-) | - | كَدْمَمَةٌ | سَبٌّ | شَتَائِم
 | اسْتِخْفَاف | إِهَانَةٌ.
- influsive adv. | مُضْمَنًا | مُضْمَرًا | دَاخِلًا
 مَعًا.
- infognito adv. | سِرًّا | خَفِيَّةً | تَنَكَّرًا.
- infromodieren va. ju. | ثَقَّلَ عَلَيْهِ *
 sich - | كَلَّفَ خَاطِرَهُ -.
- inforrekt a. | مَغْلُوط | غَيْرُ مَضْبُوط.
- Inland s. n. | بِلَاد | وَطَن.
- Inländer s. m. | أولاد | ابن البلد s. m.
 | in- | وَطَنِي | بَلَدِي.
- ländisch a. | وَطَنِي | بَلَدِي.
- inliegend a. | الوَاصِلُ طَيِّهٌ | adv.
 | لَقَا | طَيِّهٌ.
- inmitten praep. einer Sache gen.
 | فِي وَسْطِهِ.
- innehaben va. etw. | مَلَكَ i | ه
 | عَرَفَ | - | وَصْفِ | مَلَكَ ه
 | العِلْمِ.
- innehalten vn. (in der Rede 2c.)
 | تَوَقَّفَ | وَقَفَ i | (فِي الكَلَامِ مِثْلًا)
- innen adv. | جَوًّا * | ضِمْنًا | دَاخِلًا
 - | بَاطِنًا (geistig) | welt s. f.
 | البَاطِنِ.
- inner a. | بَاطِن (geistig) | - | دَاخِل.

- | بطْن s. n. -e | جَوَانِي | رُوحَانِي |
 | (des) - - | داخِلَة | ضَمْن | باطِن |
 | اَصْمِير | اَكْحِيل | الْاِنْسَان | Menschen |
 | (eines Staates) - - | سَرِيرَة |
 | das Ministerium | اُمُورِ الدَاخِلِيَّة |
 | نِظَارَة اُمُورِ الدَاخِلِيَّة -n |
 | -halb adv. داخِلًا | - praep. c. gen. |
 | داخِل a. -lich | في مُدَّة | في داخِل |
 | باطِن .
 | شَعَر u ب | innwerden va. etw. |
 | -feit | خَالِص | قَلْبِي | باطِن | innig a. |
 | صَفَاء | خُلُوص | s. f. |
 | جَمَاعَة اَصْحَابِ حِرْفَة | s. f. | Innung |
 | - | اسْتِنطاق | s. f. | Inquisition |
 | مَحْكَمَة رُوحَانِيَّة |
 | سَكَان pl. ساكِن | s. m. | Inasse |
 | لا سِيَمًا | خُصُوصًا | insbesondere adv. |
 | كِتَابَة | خُطُوط | pl. خَط | s. f. | Inschrift |
 | تَارِيخ | رُسُوم | pl. رَسْم |
 | حَشْرَات pl. حَشْرَة | s. n. | Insekt |
 | جَزَائِر pl. جَزِيرَة | s. f. | Insel |
 | اِعْلَان فِي جَرِيْدَة | pl. | Inserat | s. n. |
 | inserieren va. etw. in | اِعْلَانَات |
 | اَدْرَج اِعْلَانًا فِي | einer Zeitung |
 | اِدْرَاج | s. f. | Insertion | | جَرِيْدَة |
 | اِعْلَان فِي جَرِيْدَة |
 | خَفِيَّة | سِرًّا | insgeheim adv. |
- | عَالِبًا | عَادَةً | insgemein adv. |
 | جَمِيْعًا | insgesamt adv. |
 | خَوَاتِم pl. خَاتَم | s. n. | Inseigel |
 | اَعْلَامَاتِ الشَّرَف | s. pl. | Insignien |
 | سِيَمَة |
 | اَلْقَاء فِي | تَلْمِيح | s. f. | Insinuation |
 | الذَّهْن |
 | اِنَّ كَانَ | اِنَّ (wenn) | insofern conjct. |
 | فِي هَذِهِ (in dieser Beziehung) - |
 | النِّسْبَة |
 | اِمْفَلِس * | عَاجِز عَنِ الوَفَاء | a. | insolvent |
 | عَجْز عَنِ | مَكْسُور * | s. f. | Insolvenz |
 | اِنْكَسَار * | اِفْلَاس * | الوَفَاء |
 | insonderheit adv., insonders adv. |
 | لا سِيَمًا | خُصُوصًا |
 | insoweit f. insofern. |
 | اِنْسِپِكْتُور | تَفْتِيْش | s. f. | Inspektion |
 | نِظَار pl. نَظَر | مُفْتَش | s. m. |
 | اَلْقَاء اِلٰهِي | وَحْي | s. f. | Inspiration |
 | اِفْتَش ه و عَن | inspizieren etw. |
 | عَايَن ه | كَشَف i ه | اَفْحَص a عَن |
 | بِالْحَاح | مُلْحًا | insständig adv. |
 | اِمْحَاكَمَة | مُرَافَعَة | s. f. | Instanz |
 | سِلْسِلَة المَرَاتِب | s. m. | -enweg |
 | اِفْطَرَة | تَمْيِيْز طَبِيْعِي | s. m. | Instinkt |
 | صَادِر مِّن التَّمْيِيْز | a. -iv | غَرِيْزَة |
 | الطَّبِيْعِي |

Institut s. n. بِنَاءِ خَيْرِ الْعُمُومِ |
(كَمَدْرَسَةِ الْغ).

instruieren va. in. عَلَّمَ | Instruktion
s. f. تَعْلِيمِ | Instruitor s. m.
مُعَلِّمٍ.

Instrument s. n. آَلَةٌ pl. آَلَاتُ |
آَلَةٌ mus. - | آَدَوَاتُ pl. آَدَاةٌ
-al a. | مَلَاةٌ pl. مِلْهَى | الطَّرْبِ
جَارٍ بِآَلَاتِ الطَّرْبِ.

Insubordination s. f. مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ |
عِصْيَانٍ.

Insulaner s. m. ساكِنُ جَزِيرَةٍ pl.
سُكَّانٍ.

Insurgent s. m. عَصَاةٌ pl. عَاصِيٍ |
Insurrektion s. f. فِتْنَةٌ | عِصْيَانٍ.

intakt a. خَالِصٌ | سَالِمٌ | غَيْرُ مُنْقَصٍ.

Integrität s. f. (einer Sache) صِحَّةٌ |
(einer Person) - | سَلَامَةٌ | كَمَالٌ
إِسْتِقَامَةٌ | خُلُوصٌ.

Intellekt s. m. قُوَّةُ الْإِدْرَاكِ | ذِهْنٌ |
-uell a. عَقْلِيٌّ | ذِهْنِيٌّ.

intelligent a. عَاقِلٌ | Intelligenz s. f.
f. Intellekt.

Intendant s. m. مُفَتِّشٌ | مُدِيرٌ |
-ur s. f. إِدَارَةٌ.

Intensität s. f. شِدَّةٌ | intensiv a.
شَدِيدٌ.

Intention s. f. مَقْصُودٌ | قَصْدٌ pl.
مَقَاصِيدٌ.

interessant a. آخِذٌ بِمَجَامِعِ الْقُلُوبِ |
مُسْتَمِيلٌ | فَتَّانٌ | مُرْغِبٌ | جَادِبٌ

Interesse s. n. مَصْلَحَةٌ pl. مَصَالِحُ |
(Sinsen) - | نَفْعٌ | صَوَالِحٌ pl. صَالِحٌ

inter- | فَائِضٌ الْمَالِ | فَائِدَةُ الْمَالِ
essieren va. in. (angehen) u حَصَّ |
- in. (anziehen) | اِخْتَصَرَ بِهِ

| اِسْتَمَالَ | فَتَّنَ | جَذَبَ |
| اِهْتَمَّ بِ | اِعْتَنَى بِ | sich - für
| اِسْتَنْفَعَهُ | اِلْتَفَتَ اِلَى

interimistisch a. مُوقَّتٌ | وَقْتِيٌّ.

Interjektion s. f. حَرْفُ الْبِدَاءِ gr.
pl. حُرُوفٌ.

international a. جَارٍ بَيْنَ الْأُمَمِ.

Interpellation s. f. اِسْتِئْهَامٌ (في
مَجْلِسٍ).

Interpret s. m. مُفَسِّرٌ | شَارِحٌ |
-ation s. f. تَفْسِيرٌ | شَرْحٌ.

Interpunktion s. f. gr. عِلَامَاتُ
تَقْسِيمِ الْكَلَامِ.

Interregnum s. n. خُلُوُّ الْكُرْسِيِّ
الْمَلُوكِيِّ.

Interrogativpronomen s. n. gr. ضَمِيرٌ
الْاِسْتِئْهَامِ.

intervenieren vn. تَوَسَّطَ | تَدَاخَلَ

- Irrgang s. m., Irrgarten s. m. | Irrig a. | فِيهِ غَلَطٌ | فِيهِ خَطَأٌ | تِيه | Irrglaube s. m., Irrlehre s. f. | مَخَالَفَةٌ إِلَى الْإِيمَانِ الصَّحِيحِ | Irrlicht s. n. | شِهَابٌ بُخَارِيٌّ | كُفْرٌ | pl. | شِهَابٌ غَازِيٌّ | شُهْبٌ | bld. - | Irrsal f. | Irrtum | شَيْءٌ غَارٌّ | Irrsinn s. m. | irrünftig | جُنُونٌ | Irrtum s. m. | ضَلَالٌ | مَجْنُونٌ | a. | غَلَطٌ | im - sein a. | غَرُورٌ | irrtümlich a. f. | irríg | Irrung s. f. f. | Irrtum | Irrwahn s. m. | Irrglaube | Irrweg s. m. | تِيه | Irrwisch s. m. f. | Irrlicht. | Isaaf n. pr. | إِسْحَاقُ. | isabellenfarbig a. | اسْوَسَنِيٌّ | أَشْهَبٌ | أَصْفَرٌ نَاصِعٌ. | Islam s. m. | إِسْلَامٌ | -isch a. | إِسْلَامِيٌّ. | Ismael n. pr. | إِسْمَاعِيلُ. | isolieren va. etw. phys. | جَعَلَ هـ | عَلَى مَا هُوَ غَيْرُ نَاقِلِ الْكَهْرِبَايَّةِ | bld. - jn. u. etw. | هـ | أَفْرَدَ هـ | وَ هـ | فَصَلَ هـ | وَ هـ | إِسْتَفْرَدَ هـ | وَ هـ | Isop s. m. | زَوْفَاءٌ * | إِسْنَانٌ دَاوُدٌ * | Israel n. pr. | إِسْرَائِيلُ | -it s. m. | إِسْرَائِيلِيٌّ. | Isthmus s. m. | بَرَازِحٌ pl. | بَرَزَحٌ.
- Italien n. pr. | بِلَادٌ إِيطَالِيَا | -er s. m. | إِيطَالِيَانِيٌّ | إِسْنَانٌ إِيطَالِيٌّ | -isch a., italisich a. | إِيطَالِيٌّ | إِيطَالِيَانِيٌّ.
- J (Jot)
- الحَرْفُ الْعَاشِرُ مِنْ حُرُوفِ (jot) | الْحِجَاءِ. | ja part. | نَعَمْ | بَلَى | أَيُّوَةٌ * | - sagen zu etw. | اِرْتَضَى بِ | رَضِيَ هـ | ب | يُسْتَعْمَلُ (zur Verstärkung) | حَتَّى. | fogar | حَتَّى. | 3. B. | (لِلتَّأْكِيدِ). | Ja s. n. | الإِيجَابُ. | jach adv. | بَغْتَةً | f. | jäh, jählings. | Jacht s. f. | صَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ لِأَجْلِ | سَفُنٌ pl. | التَّفَرُّجُ. | Jacke s. f. | سَلْطَةٌ * | كُبْرَانٌ * | Jactet s. n. | جَكَّةٌ * | äg. | دَمِيرٌ * | Jaffa n. pr. | يَافَا. | Jagd s. f. | قَنَصٌ | صَيْدٌ | - (Jagdrecht) | auf die - gehen | اِصْطَادٌ | صاد | - machen auf etw. | هـ | اِصْطَادٌ | هـ | i | صاد | هـ | طَارَدَ هـ | jn. | - machen auf jn. | هـ | حِكَايَةُ الصَّيْدِ | -geschichte s. f. | حِكَايَةُ كَلَابَةِ | -horn s. n. | بُوقٌ pl. | كَلْبٌ لِلصَّيْدِ | -hund s. m. | أَبْوَاقٌ |

- pl. كَلَاب | كَلْب سَلَاقِي | -schein
 s. m. تَذَاكِر pl. تَذْكِرَة الصَّيْد |
 قَلْع s. f. -tasche | رُخْصَة الصَّيْد
 pl. كُنْف | كُرْز | قُلُوع pl.
- jagen va. etw. | اصْطَاد ه | صاد i ه
 | تَصَيَّد ه | jn. - aus einem Ort
 جَرَى i - | vn. | طَرَد ه | من مَحَل
 Jäger s. m. | اسْرَع | اسْرِعَا
 قَنَاص | صَيَّادُون pl. صَيَّاد
- jäh a. سَرِيع | فَاجِيء | سَرِيع
 | سَرِيعًا - | adv. | مُنْكَدِر صَعْب
 Jähe s. f. | عَلَى الفُور | بَعْنَةً
 | سَرِيعًا | adv. | jählings | سُرْعَة
 عَلَى الفُور
- Jahr s. n. سَنَة pl. سِنُون u.
 pl. حَوْل | أعوام pl. عام | سنوات
 | عمر | bei -en sein i, u | أحوال
 | في كُلِّ سَنَة - | für - | - aus - ein,
 | تَوَارِيخ pl. | تَارِيخ s. n. | -buch
 | أخبار تُكْتَب سَنَة فَسَنَة
 | دائم مُدَّة سِنِين a
- jähren v. sich | دام u مُدَّة سَنَة | sich
 Jahr-esfrist s. f. | مُدَّة سَنَة | -estag
 | تَذْكَار سَنَوِي | -eswechsel
 | رأس السَنَة s. m. | -eszeit s. f.
 | فُصول pl. | فصل السَنَة
 | -gang s. m. | الصَّيْف - - | schöne
- einer Zeitung الجَرِيدَة | كَلَّ
 | المطبوعة في سَنَة وَاِحْدَة
 | مَحْصُولَات السَنَة كَالْخَمْر (Wein 2c.)
 -gehalt s. m. u. s. n., -geld s. n.
 | مُرْتَب سَنَوِي | -hundert s. n.
 | مُدَّة مِائَة سَنَة | قُرُون pl. قُرْن
 | أَجْيَال pl. | جِيل *
- حَوْلِي | عامِي | سَنَوِي | jährlich a.
 | أسواق pl. سوق | Jahr-marft s. m.
 | مَوَاسِم pl. | مَوْسِم -tausend s. n.
 | مُدَّة أَلْف سَنَة | -zahl s. f. عَدَد
 | السَنَة فِي التَّارِيخ
- Jähzorn s. m. | فَوْرَان | حِدَّة | -ig
 | غَضُوب | فَاثِر a. | شَدِيد الحَمِيَّة
- Jakob n. pr. | يَعْقُوب | -iner s. m.
 | مُتَعَصِب بِثَوْرَة الشَّعْب
- Jalousie s. f. | دَرْفَة * | شَعْرِيَّة
 | شَبَاك pl. | شَبَاكَة
- Jammer s. m. | أَنِين | عَوِيل | نُوح
 | (über einen Toten) | - | نِيَاح
 | (der Klage- | مَنْدَب | رِثَاء
 | وُلُوءَة (Elend) | - | سُوء
 | مَسْكَنَة | ضَيْق | بُؤْس | الحال
 | وَجَع الرُّأْس بَعْد (Kagen-) stud.
 | -leben s. n. | زِيَادَة الشَّرْب
 | مَسْكِينَة
- jämmerlich a. | مَسْكِين

jammern vn. über عَلَى u ناح |
 حَزَنَ a | بَكَى i عَلَى | تَأَسَّفَ عَلَى
 jammer(schade, | رَثَى i إِلَى | عَلَى
 es ist - | إِنَّ فِي ذَلِكَ خَسَارَةً -
 Jammerthal s. n. | يَا خَسَارَةً*
 الدُّنْيَا الْفَانِيَّةُ | وَاِدَى الضِّيقِ
 jammervoll a. f. | جَائِمِرٌ لِحِدِّ
 Janhagel s. m. | أَسَافِلُ النَّاسِ
 Janitschare s. m. | اِنْكُشَارِيَّ pl.
 اِنْكُشَارِيَّةٌ*
 Jänner s. m. f. | جَانُوَارُ
 Januar s. m. | كَانُوْنُ الثَّانِي | يَنَايِرُ*
 Japan n. pr. | بِلَادُ السَّلَا | اَلْيَابُوْنُ
 -er s. m. | رَجُلٌ يَابُوْنِي | اِشِدْ a.
 يَابُوْنِي.
 jappen vn. a | نَجِحَ
 Jafager s. m. | الْمُرْتَضِي بِالْكُلِّ
 Jasmin s. m. bot. | يَاسْمُوْنُ | يَاسْمِيْنُ
 Jaspis s. m. min. | يَصْفُ | يَصْبُ
 نُشْبُ*
 jäten va. Unkraut | اَلْحَشِيْشِى | قَلَعَ
 نَقَّى اَلْحَقْلُ مِنْ اَلْحَشِيْشِى
 Jauche s. f. | مَائِيَّةُ الزَّبْلِ
 jauchzen vn. a | رَجُلٌ - (Frauen
 im Orient) | زَلَّغَطُ* | Jauchzer
 s. m. | رَجَلٌ - (von Frauen)

* زَلَّغَطَةٌ pl. | زَلَّغِيْطُ - ausstoßen
 f. jauchzen.
 Jawort s. n. | اِجَابَةُ الطَّلْبِ | رِضَاءُ
 sein - geben zu | اِرْتَضَى بِ
 je! interject. -! - nun! | آه | أَخْ
 je adv. (jemals) | فِي زَمَانٍ | أَأَبَدًا |
 von -her | دَائِمًا - u. - (jederzeit)
 | بلا اِنْقِطَاعِ | دَائِمًا - u. - (zu-
 weilen) | أَحْيَانًا - nachdem
 | حَسْبَمَا - ... - , - ... desto
 | مَهْمَا | كَلَّمَا
 jedenfalls adv. | عَلَى كُلِّ حَالٍ
 jedennoch conjct. | لِيْنِ | مَعَ هَذَا
 jeder a. | كُلُّ يَوْمٍ | - Tag - | كُلُّ
 | كُلُّ أَحَدٍ | كُلُّ وَاحِدٍ - ein
 | كُلُّ وَاحِدٍ | -mann, -männiglich
 | -zeit adv. | دَائِمًا | كُلُّ أَحَدٍ
 jedesmal adv. | كُلُّ مَرَّةٍ | jedesmalig
 a. | اَلْوَاقِعُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ
 jedoch conjct. | لِيْنِ | مَعَ هَذَا
 jedweder, jeglicher f. | جَدَرُ
 Jelängerjelieber s. n. bot. | زَهْرُ
 | سُلْطَانِ | سُلْطَانِ | اَلْمَجْبَلِ | اَلْعَسَلِ
 اَلْغَابَةِ
 jemals adv. | فِي زَمَانٍ | أَأَبَدًا
 jemand f. | اِحْدَى | أَحَدٌ

jemine! adv Herr -! interject. لا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

jener pron. dem. ذَلِكَ f. تِلْكَ pl.

هَذَا | ذَاكَ | أَوْلَاكَ u. أَوْلَاتِكَ

jenseitig a. الْوَاقِعِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ |

jenseit, jenseits | الْوَاقِعِ مِنْ هُنَاكَ

praep. c. gen. ... مِنْ جِهَةِ الـ

مِنْ | مِنْ هُنَاكَ - | تِلْكَ

تِلْكَ الْجِهَةِ

Jeremiade s. f. شَكْوَى مُكَرَّرَةٌ

Jericho n. pr. أَرِيحَا

Jerusalem n. pr. الْقُدْسُ الشَّرِيفُ |

بَيْتُ الْمَقْدِسِ

Jesuit s. m. kath. يَسُوعِيّ pl.

-isch a. يَسُوعِيَّة u. يَسُوعِيَّونَ

مُخْتَصٌّ بِالْيَسُوعِيَّةِ

Jesus n. pr. (musl.) سَيِّدُنَا عِيسَى |

Christus - | يَسُوعُ الْمَسِيحُ (christl.)

Gesellschaft Jesu | يَسُوعُ الْمَسِيحِ

kath. الْيَسُوعِيَّةِ

jetzig a. جَارِ الْآنَ | حَاضِرٍ | حَالِيّ

jetzo adv. f. jetzt | حَادِثِ الْآنَ

jetzt adv. الْآنَ | فِي هَذَا الْوَقْتِ

هَلَقَ * | فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ

jeweilen adv. أَحْيَانًا

Jobber s. m. مَنْ لَا يَتَّعَاظِي إِلَّا

أَشْغَالَ الْبُورْصَةِ

Joch s. n. نَيْرَان u. أَثْيَار pl. نَيْر

- bld. (Knechtschaft) عِبُودِيَّة

- pl. رُكْنُ الْقَنْطَرَةِ (Brücken-)

- | فَدَّان (Seldmaß) - | أَرْكَان

das | سِلْسِلَةُ الْجِبَالِ (Gebirgs-)

- خَلَعَ نَيْرَ الطَّاعَةِ abschütteln

Jod s. n. chem. يُود *

jodeln vn. غَنَّى بِنُوعِ أَهَالِي التَّيْرُولِ

Johann, Johannes n. pr. يُوْحَنَّا

Johannisbeere s. f. كِشْمِش | رِبَابَس

| عِنَبُ الثَّعْلَبِ | عِنَبُ الذِّئْبِ

Johannisbrot s. n. خَرْوَب

Johannisbrotbaum s. m. شَجَرَةُ

Johannisfest s. n., | الْخَرْوَبِ

Johannistag s. m. christl. عِيد

Johannis- | الْقِدِّيسِ يُوْحَنَّا

würmchen s. n. | حُبَابِج

سِرَاجِ اللَّيْلِ * | يِرَاع

johlen vn. a. زَعَقَ

Jolle s. f. زَوَارِقِ pl. زُورِق

Jonas n. pr. يُونُس

Jongleur s. m. مُشْعَبِد | jonglieren

vn. شَعَبَد

Jordan n. pr. نَهْرُ الشَّرِيعَةِ |

الْأُرْدُنِّ

Joseph n. pr. يُوْسُف

Journal s. n. (Zeitung) جَرِيدَةٌ pl.

- جُرُنَالَات pl. جُرُنَال * | جَرَائِد
 ذِكْر (Tagebuch) - | جَرَائِيل
 تَأْرِيفِج الأَيَّام | الحَوَادِث اليَوْمِيَّة
 مُحَرَّر -ift s. m. | الدَفْتَر اليَوْمِيَّ
 الجَرَائِد.
- jovial a. فَرِحَان.
- Jubel s. m. | زَجَل | غَايَةِ الفَرَح
 زَلْغَطَة (der Frauen im Orient) -
 | فَرِح لِلْغَايَةِ -n vn. | زَلَاغِيَط pl.
 زَلْغَط (Frauen) -- | زَجَل a.
- Jubiläum s. n. عِيد تَذْكَار.
- juch!, juchhe!, juchhei!, juchheidi!,
 juchheifa!, juchheirassaffa! inter-
 ject. نِدَاء الفَرَح.
- Juchtenleder s. n. حَوْر | حَوْر
 سَحْتِيَان * | حَوْرَان
- juchzen vn. f. jauchzen.
- jucken vn. u | حَكَّ | u | أَكَل
 Buckel juckt ihn nach Schlägen
 | لَهُ رَغْبَةٌ فِي أَكَل الضَّرْب
 | جِحَّة | إِكَال | إِكَلَة s. n.
- Zucker s. m. نَوْع مِّن الخَيْل الأَصِيَلَة.
- Jucks f. Zug.
- Judäa n. pr. اليَهُودِيَّة.
- Judas Ischarioth n. pr. يَهُودَا
 | يَوْضَاس | الإِسْخَرِيُوطِيَّ
 تَقْبِيل خَائِن s. m. fuß
- Jude s. m. | رَجُل يَهُودِيَّ | die -n
 تَهُودَ - werden | اليَهُود
- Jüdelei s. f. سُلُوك وَتَكَلَّم بِنَوْع
 | اليَهُود | jüdeln vn. وَتَكَلَّم
 | بنَوْع اليَهُود.
- Juden-frage s. f. مَسْأَلَة أَحْوَال
 | حَارَة اليَهُود -gaffe s. f. | اليَهُود
 | عِدَاوَة لليَهُود -hefte s. f. | -schaft
 | اليَهُود -tum s. n. دين
 | اليَهُود.
- Jüdin s. f. | امْرَأَة يَهُودِيَّة | jüdisch
 | يَهُودِيَّ a.
- Jugend s. f. | شَبُوبِيَّة | شَبَاب
 | صِغَر السِّن (junge Leute) -
 | زُهْرَة الشَّبَاب -blüte s. f. | الشَّبَاب
 | -freund s. m., -gefährte s. m.,
 | خَلْطَاء pl. خَلِيَط s. m. | -gespiele
 | مُنَاسِب a. | أثْرَاب pl. تَرَب
 | -schrift s. f. كِتَاب | الشَّبَاب
 | -streich s. m. | كُتِب pl. للصَّبِيَان
 | -zeit s. f. | مَلْعُوب الشَّبَاب
 Jugend.
- Juli s. m. | يُولِيَّة * | تَمُوز.
- jung a. | صِغِير السِّن - (Bier,
 | جَدِيد (البِيرَة أَو الخَمْر) Wein)
 | شَبَاب | صِغَر Jahre -e
 | شَبَاب pl. فَنَى | شَبَاب Mann

- pl. صَبِيَّةٌ Mädchen -es | فِتْيَانُ
 pl. -es | فِتَاةٌ | شَابَّةٌ | صَبَايَا
 Blut | شَابٌ | فِتَى | شَابٌ
 jüngster Tag | يَوْمُ الدِّينِ
- Junge s. m. | الذَّكَرُ مِنَ الأَوْلَادِ
 | صَبِيَّانِ pl. | صَبِيٌّ | أَوْلَادِ pl. | وَكْدٌ
 تَلْمِيذٌ (-Lehr-) | غِلْمَانِ pl. | غُلَامٌ
 Junge s. n. | تَلَامِيذَةٌ pl. | فِي صِنَاعَةٍ
 | أَجْرٍ pl. | جِرْوُ (von Hunden zc.)
 | أَفْرَاحِ pl. | فَرُخٌ (von Vögeln) -
 - werfen, bekommen, setzen (Tier)
 - | وَضَعْتُ وَوَلَدًا | نَتِجْتُ وَوَلَدًا
 | نَتِجْتُ وَوَلَدًا (المحيونات) (Tier) vn.
 | صَبَوِيٌّ a. -haft | وَضَعْتُ وَوَلَدًا
 - | خَفِيفُ العَقْلِ | -n|streich s. m.
 مَلْعُوبُ الصَّبِيَّانِ
- Jünger s. m. | حَوَارِيٌّ (Christi) pl.
 | رُسُلٌ pl. | رَسُولٌ | حَوَارِيُّونَ
 : تَلَامِيذَةٌ pl. | تَلْمِيذٌ (Schüler) -
- Jungfer s. f. | بَتُولٌ | أَبْكَارٌ pl. | بَكْرٌ
 | عَذَارِيٌّ n. | عَذَارَى pl. | عَذْرَاءُ
 | نَقْلٌ pl. | نِقْلَةٌ | بِنْتُ عَانِسٍ -
 - | مُتَدَلِّلٌ | بَكْرِيٌّ a. -lich
 | حِجَابُ البَكُورِيَّةِ s. n. | حَبَابٌ
 - | بَكَارَةٌ s. f. | -schaft
- Jungfrau s. f. | أَبْكَارٌ pl. | بَكْرٌ (مَرْأَةٌ)
 | عَذَارِيٌّ n. | عَذَارَى pl. | عَذْرَاءُ
- heilige - kath. | العَذْرَاءُ | البَتُولُ
 بُرْجٌ (Sternbild) - | السَّيِّدَةُ
 | العَذْرَاءُ | السُّنْبَلَةُ | jungfräulich
 a. | بَكْرِيٌّ | Jungfrauschaft s. f.
 بَكَارَةٌ.
- Junggesell s. m. | رَجُلٌ أَعْدَبٌ pl.
 عُدْبٌ.
- Jüngling s. m. | شُبَّانٌ pl. | شَابٌ
 - | عُمُرُ الشَّبَابِ s. n. | -salter
- jüngst adv. | مُنْذُ زَمَنٍ قَلِيلٍ | حَدِيثًا
- jüngste a. | أَصْغَرُ السِّنِّ | jung | der
 - | يَوْمُ الدِّينِ | Tag, das - Gericht
- Juni s. m. | حَزْرِيْرَانٌ | يُونِيَهْ *
- Junfer s. m. | شَابٌ شَرِيْفٌ النَّسَبِ
 | شُبَّانِ pl. | -haft a., -lich a.
 | مُتَنَكِّبِرٌ | بِنُوعِ الشُّبَّانِ الشُّرَفَاءِ
 خَشِنٌ وَحَادٌ.
- Jupiter s. m. | المُشْتَرِيٌّ (Planet)
 | البُرْجِيْسِ | الأَحْوَرِ
- Jura f. | Jurisprudenz | juridisch a.
 | شَرْعِيٌّ | Jurisprudenz s. f. | عِلْمٌ
 | فِقْهٌ | فِقْهٌ | الفِقْهِ | Jurist s. m. | فِقْهَاءِ pl.
- Jury s. f. | جَمَاعَةُ القُضَاةِ المُخْتَارِيْنَ
 | مِنَ الأَهْلِ
- just adv. | eben, gerade.
- Justiz s. f. | المُجَالِسِ العَدْلِيَّةِ

- minister s. m. | وزير الحَقَانِيَّة |
 -ministerium s. n. | نِظَارَةُ الحَقَانِيَّة |
 Juwel s. n. | جَوَاهِر pl. | جَوَاهِر pl. | جَوَاهِر pl. |
 -enhändler s. m. | صِيغ pl. | صِيغ pl. | صِيغ pl. |
 pl. صَائِع | جَوَاهِرَجِي * | جَوَاهِرِي |
 | صِيَاغَة s. f. | -enhandlung s. f. | صَاغَة |
 | -enfästchen s. n. | عُلْبَة لِلجَوَاهِر |
 -ier s. m. | -enhändler.
 Jur s. m. | مَزْح.
- K**
- ك الحُرُف الحَادِي عَشْر مِنْ حُرُوف K
 الحِجَاء.
- Kaaba s. f. | كَعْبَة.
- Kabale s. f. | دَسَائِس pl. | دَسَائِسَة pl. |
 Kabbala s. f. | سِحْر | سِيْمِيَاء |
 | سِحْرِي a. | fabbalistisch |
 Kabel s. n. | حِبَال pl. | حَبْل تَحْيِين |
 | قُلُوس pl. | قُلُوس (Anfertau) - |
 | -bericht | سِلْك تِلْغْرَاف البَحْر * |
 s. m. | رِسَالَة بَرْقِيَّة.
- Kabeljau s. m. | نَوْع مِنْ سَمَك البَحْر.
- Kabeln va. | كَتَب u | تِلْغْرَاف البَحْر.
- Kabine s. f. | حُجْرَة النَوْم فِي المَرْكَب.
- Kabinet s. n. | مَقْصُورَة | حُجْرَة صَغِيرَة |
 - geheimes | مَخَادِع pl. | مُخَدَع |
 (Ministerrat) - | يَيْت الأَدَب |
- مَجْلِس | دَوَاوِين pl. | دِيوان
 الوُزَرَاء.
- Kabriolett s. n. | عَجَلَة خَفِيفَة ذَات
 دَوْلَبِيْن.
- Kabul n. pr. | كَابُل.
- Kabyle s. m. | قَبِيلِي | قَبَائِلِي.
- Kachel s. f. | آجُر pl. | آجُرَة مُرَبَّعَة s. f. |
 -ofen | قَرَامِيد pl. | قَرَامِيد مُرَبَّع
 s. m. | أَوْجَاق ذَات آجُر.
- Kaffe -n vn. | خِرَاء | خِرَاء s. f. |
 a خَرِي.
- Kadaver s. m. | جِيْف pl. | جِيْفَة s. f. |
 | جُنْث pl. | جُنْثَة.
- Kadenj s. f. mus. | إِيْقَاع (فِي المَوْسِيْقِي).
- Kadett s. m. | تَلْمِيذ عَسْكَرِي pl. |
 | تَلَامِيذَة.
- Kadi s. m. | قَضَاة pl. | قَاضٍ s. m.
- Käfer s. m. | خَنَافِس pl. | خَنَافِسَاء pl. |
 | جِعْلَان pl. | جِعْل.
- Kaffee (Getränk) s. m. | قَهْوَة s. m. |
 (Bohne) بُن coll. | -baum s. m.
 قَهْوَة s. n. | -haus s. n. | شَجْرَة البُن |
 | إِبْرِيْق s. f. | -fame s. f. | قَهَاوِي pl. |
 | تَنَكَّة * | رَكَوَات pl. | رَكَوَة * | القَهْوَة
 قَهْوَة آسَافِل s. f. | -flappe s. f. | آغ.
 طَاحُونَة s. f. | -mühle s. f. | النَاس |
 | ثَقْل s. m. | -satz s. m. | القَهْوَة

فِنْجَانٌ * f. | tasse s. f. | äg. تَنْوَةٌ *
 قَهْوَجِيٌّ * wirt-s. m. | فناجين pl.
 Kaffer s. m. | كُفَّار pl. | stud. -
 رَجُلٌ بَلِيدٌ.

Käfig s. m. | أقفاص pl. | einen
 Vogel in den - setzen, thun
 قَفَصَ الطَّائِرَ.

Kaftan s. m. | قُفْطَانٌ | (für den
 Sommer) قُمْبَازٌ syr. | (für den
 Winter) جُبَّةٌ.

Kahl a. | قُرْعٌ pl. | قرعاء f. | أقرع
 - | مُجْرَدٌ | عار (bloß) -
 | أقرع s. m. | Popf - | صلع | قرعة
 - | أسلغ | أسلغ | أحص | أصلع
 | قرع pl. | قرعاء f. | أقرع a.
 | صلعاء f. | أصلع | حصاء f.
 | سلحاء f.

Kahn s. m. | زوارق pl. | زورق
 | قوارب pl. | قوارب pl. | فلك
 | فلاك a. | فلاك a. | فلاك a.

Kai s. m. | رَصِيفٌ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ أَوْ بَحْرٍ.

Kain n. pr. | قايين.

kairenser a., kairener a. | مِصْرِيٌّ |
 Kairo n. pr. | مِصْرُ الْقَاهِرَةِ.

Kaiser s. m. | قِيَاصِرَةٌ pl. | قياصرة
 عائلة s. n. | -haus s. n. | إمبراطور
 | قِيَاصِرَةٌ f. | -in s. f. | قِيَاصِرِيَّةٌ

زَوْجَةٌ الْقِيَاصِرِ | إِمْبْرَاطُورَةٌ |
 -frone s. f. | قِيَاصِرِ | قِيَاصِرِيٌّ |
 شاهانِيٌّ * | سُلْطَانِيٌّ | قِيَاصِرِيٌّ |
 -reich s. n., -tum s. n. | هَمَائُونِيٌّ *
 مَمَالِكٌ pl. | مَمْلَكَةٌ | قِيَاصِرِيَّةٌ

fajolieren va. ju. | لَاطَفَ هـ.

Kajüte s. f. | حُجْرَةٌ فِي الْمَرْكَبِ.

Kakadu s. m. zool. | نَوْعٌ مِنَ الْبَبْغَاءِ.

Kakao s. m. | لَوْزٌ هِنْدِيٌّ | -baum
 شَجَرَةُ الْلَوْزِ الْهِنْدِيِّ s. m.

Kaktus s. m. | صُبَّارٌ | صُبَّارٌ.

Kalamität s. f. | مَصَائِبٌ pl. | مُصِيبَةٌ.

Kalb s. n. | عِجَالٌ u. | عِجَالٌ pl. | عِجْلٌ
 طَمِعَ فِي a. | انبتن - goldene
 | نَتَجَتِ الْبَقْرَةُ - en vn. | المال
 | وَضَعَتِ الْبَقْرَةُ.

fälbern vn. a. | لَعِبَ.

Kalb-fell s. n. | جِلْدُ الْعِجْلِ | dem
 - folgen | تَجَنَّدَ | -fleisch s. n.
 لَحْمُ الْعِجْلِ.

Kaldaunen s. pl. | عِصَلُ الْحَيَوَانِ pl.
 مَصَارِبِينَ | أمعاء | أعصال

Kalender s. m. | تَقْوِيمٌ * | رُوزْنَامَةٌ *
 äg. نَتِيجَةٌ *.

kalfatern va. Schiff | جَلَفَطَ الْمَرْكَبِ
 قَلَفَ هـ.

Kali s. n. | قَلِيٌّ | أَشْنَانٌ.

- Kaliber s. n. سَعَة أَنْبُوب | عِيَار | Kalt-herzig a., -sünnig a. فَاتِر | بَارِد |
 Kalif s. m. خَلِيفَة pl. خُلَفَاء | -herzigkeit s. f., -sinn s. m. بُرُودَة |
 -at s. n. حُكْم الخَلِيفَة | خِلَافَة | -wasserheilstalt s. f. فُتُور |
 Kalf s. m. كِلْس | ungelöschter -wasserfur | -wasserfur
 | أَتُون s. f. -brennerei s. f. جِير | مُدَاوَاة بِمَاء بَارِد s. f. |
 -en va. etw. (mit Kalf anstreichen) Kambüse s. f. mar. مَطْبَخ فِي مَرْكَب |
 Kalf s. n. كَلَّاسَة s. f. -grube s. f. | كَلَّس ه | Kamee s. f. حَجَر ثَمِين فِيهِ نُقُوش |
 Kalf s. n. دُو | دُو كِلْس a. -haltig a., -ig a. | دُو كِلْس | -ofen s. m. أَتُون | جِير |
 Kalf s. n. حِسَاب | -ator s. m. | Kamel s. n. جَمَل pl. | آبال pl. (Trampeltier) |
 | قَلَم المَحَاسِبَة s. f. -atur s. f. | مُحَاسِب | (Dromedar) | بُعْرَان pl. بَعِير |
 -ieren va. etw. حَسَب u ه | -stute s. f. | هَجْنَاء pl. هَجِين |
 Kalligraph s. m. خَطَّاط | -ie s. f. | -treiber s. m. | نُوَق pl. نَاقَة |
 | -isch a. | حُسْن الخَطَّ | عِلْم الخَطَّ | مُكَارُون pl. مُكَارٍ | جَمَالَة pl. جَمَال |
 | حَسَن الخَطَّ | مُكَارِيَة * u. |
 Kamerad s. m. رَفِيق pl. رَفَقَاء | Kamerallst s. m. عَالِم بَعِلْم المَالِيَة |
 | -schaft s. f. رِفْقَة | صُحْبَة | رِفْقَة | Kameralwissenschaft s. f. عِلْم |
 | bld. - | قَرَّ | قَارَّ | صَرْد | بَارِد | كَامِرَال mَالِيَة |
 | دُو نُفُور | عَادِم المَيْل | فَاتِر | بَارِد | Kamillenfraut s. n. حَبَق | بَابُونَج * |
 | ihm ist - | بَرْد u الهَوَاء - | es ist - | بَرْد u | -er Schlag | قَتَل u ه | البَقْر |
 | -blütig | صَاعِقَة لَيْسَتْ بِمُحْرِقَة | Kamin s. m. مَدَاخِن pl. مَدَاخِن |
 | بَثَبَات | بَلْغَمِي | فَاتِر | بَارِد a. | -feger s. m. | أُو جَاق * |
 | بُرُودَة s. f. -blütigkeit s. f. | الجَاش | -schirm s. m. | مَنظِف المَدَاخِن |
 | اِطْمِئْنَان | ثَبَات الجَاش | فُتُور | حَاجِز حَدِيد مِن الأُو جَاق |
 | القَلْب | Kamisol s. n. صَدْرِيَة | صُدْرَة |
 | - (kaltes Benehmen) | صَرْد | قَرَّ | بَرْد s. f. | قَمِيص صُوف |
 | فُتُور | بُرُودَة (Benehmen)

Kamm s. m. مُشَط pl. مِشَاط u.
عُرْف (Des Kammes) - | أَمْشَاط
- | أَعْرَاف u. عُرْف pl. الدِّيك
(Des Gebirges) | ذُرَى pl. ذُرُوءَ الجَبَل
| ihm schwillt | قِمَم pl. قِمَمَةُ الجَبَل
| u. تَجَاسَّر - der | مَرُد.

Kämmen va. jn. u. etw. مَشَّط ه و ه
| مَشَّط u ه و ه | تَمَشَّط - | ich

Kammer s. f. مَقْصُورَةٌ | حُجْرَةٌ صَغِيرَةٌ
(Ständeverammlung) | قَلِيَّة
-auflösung | مَجَالِس pl. مَجْلِس
-diener | اِنْجِلَال المَجْلِس s. f.
فَرَّاش s. m.

Kämmerei s. f. مَحَلُّ إِدَارَةِ الوَارِدَات
Kämmerer s. m. فَرَّاش المَلِك
ناظِر وَاِرِدَات مَدِينَةٍ | مُحَافِظ قَصْر

Kammer-frau s. f., -fräulein s. n.
مَحْكَمَةٌ -gericht s. n. | فَرَّاشَةٌ
-herr s. m. | الأَسْتِثْنَا فِي بُرُوسِيَا
| حَاجِب المَلِك (لَقَب) (Titel)
-jäger s. m. صَيَّاد الفِيرَان
-jungfer s. f., -fätzchen s. n. فَرَّاشَةٌ

Kämmerling s. m. | Kämmerer u.
Kammerherr.

Kammer-musik s. f. مُوسِيقَى مِ
-fänger s. m. | بَضَع آلاَت الطَّرَب
| مُغَنِّ مُلُوكِي (لَقَب) (Titel)

-verhandlung s. f. مُبَاخِئَةٌ فِي
-sofe s. f. فَرَّاشَةٌ | مَجْلِس

Kammgarn s. n., Kammwolle s. f.
صُوف مُمَشَّط.

Kampagne s. f. مُحَارَبَةٌ.

Kämpfe s. m. مُحَامٍ | مُبَارِز

Kampf s. m. مَقَاتَلَةٌ | قِتَال
| وَقَادِع pl. وَقِيعَةٌ | وَقَعَةٌ | واقِعَةٌ
| مُجَاهَدَةٌ (Streit, Wettbewerb)
- | مُسَامَاة | مُنَاضَلَةٌ | مُسَاعَاة

Kämpfen vn. gegen jn. قَاتِل ه
| بَارِز ه - gegen ein Übel zc.
- (unter einander) | قَاوَم الشَّرِّ الخ
تَعَارَكَ | تَضَارَب | تَقَاتَل

Kämpfer s. m. كَافُور.

Kämpfer s. m. مُقَاتِل | مُبَارِز

Kampfplatz s. m. مِيدَان الحَرْب
Kampfrichter s. m. | سَاحَةُ القِتَال
حَكَم فِي القِتَال

Kampieren vn. تَخَيَّمَ | تَخَيَّمَ العَسْكَر

Kanaan n. pr. كَنْعَان.

Kanaille s. f. أَسَافِل القَوْم.

Kanal s. m. قَنَاة pl. قُنَى u. قَنَوَات
مِزْرَاب | سَاقِيَّة | ثَرَع pl. ثُرَعَةٌ
pl. جَدُول | قَنَال * | مِزَارِيْب pl.
| جَدَاوِل - bld. (Mittel)
| وَسَائِل pl. وَسِيَلَةٌ | طَرِيقَةٌ

Kanapee s. n. أَرِيكَة | كَنَبِيَّة * pl.
صَقَّة * | تَحُوت pl. | تَحْت | أَرِيك
pl. صِفاف.

Kanarienvogel s. m. كَنَارِي *.

Kanarisch a., -e Inseln الجزائر
الخالِدات.

Kandelaber s. m. شَمْعَدَان كَبِير
مُشَعَّب.

Kandia n. pr. أَقْرِيط | كَرِيْت.

Kandidat s. m. طَالِب وَظِيْفَة pl.
مُرِيْد | طَلَبَة u. | طَلَب u. | طَلَّاب
| طَلَب وَظِيْفَة s. f. -ur | مُتَرَشِّح *
| طَلَب وَظِيْفَة vn. u. | تَرَشِّح *
وَظِيْفَة.

Kandieren va. حَفِظَ الفَوَاكِه
قَنَّدهَا | فِي السُّكَّرِ الْمُصَفَّى

Kandiot s. m. كَرِيْتِي.

Kandiszucker s. m. سُّكَّرِ مُصَفَّى |
قَنَّادِيْد pl. | قَنَّوْد pl. | قَنَّد

Kaneel s. m. دَّار | دَّارِ صِيْنِي *
قَرَف pl. | قَرَفَة | سَلِيْحَة | صُوص

Kanevas s. m. خَيْوُش pl. | خَيْش
جِنْفَاص *.

Kaninchen s. n. أَرَنْب (نُوعٌ صَغِير)
pl. أَرَانِب.

Kanne s. f. أَبَارِيْك pl. | إِبْرِيْق

رجُل مُتَكَلِّم فِي
-gießer s. m. أُمُور السِّيَاسَة بِلا صَوَاب

وَحْشِي مُعْتَدٍ بِلَحْمِ
Kannibale s. m. البَشْر.

Kanoe s. n. زُورَقِ الوَحْشِيَّيْنِ pl.
زُورَاقِ.

Kanon s. m. pl. Kanones قَانُون
| الحَقِّ القَانُونِي | قَوَانِيْنِ pl.
القَوَانِيْنِ الكَنَائِسِيَّةِ.

Kanonade s. f. ضَرْبِ المَدَافِعِ بِتَوَاتُرٍ

Kanone s. f. مَدْفَعِ pl. مَدَافِعِ

مَرَكَبِ Kanonenboot s. n. | طُوب *

Kanonenschuß s. m. | ذُو مَدَافِعِ

Kanonier s. m. | طُوب * | إِطْلَاقِ مَدْفَعِ

s. m. pl. طُوبَجِيَّة *.

Kanonikat s. n. مَنُصِبِ كَاهِنِ قَانُونِي

Kanonikus s. m. كَاهِنِ قَانُونِي

pl. كَاهِنَة | fanonisch a. قَانُونِي

-es Recht f. Kanon.

Kantate s. f. mus. أَغَانِيَّة pl. أَغَانِي

u. مَوَالِيَا | أَغَانِ u.

مَوَاوِيَلِ pl. مَوَال *.

Kante s. f. قُرْن pl. قُرُون *.

pl. قُرْنِ | etw. auf die hohe -

legen | وَفَّر ه * | أَبْقَى ه

allen -n | fantig a. فِي كُلِّ الأَطْرَافِ -n

ذُو قُرْنِ.

- تَرَكَ | مُعَاهَدَةٌ فِي شُرُوطِ التَّسْلِيمِ
Kapitulieren vn. | السِّلَاحُ (عَسْكَرٌ)
عَاهَدَ الْعَدُوَّ فِي | سَلَّمَ قَلْعَةً الْح
تَرَكَ السِّلَاحُ (عَسْكَرٌ) | تَسْلِيمَ قَلْعَةٍ
Kaplan s. m. kath. مُعَاوِنُ الْقِسِّيْسِ
Kappe s. f. قَلَنْسُوءَةٌ pl. | قَلَانِسُ
أَخَذَ u ه | اَتَو. اُفْ سَئِنَه - نَهْمَن
Kappen va. etw. | اَلَى نَفْسِه
Kappfenster s. n. * طَاقَةٌ | اَقْعَ a ه
رَوَاشِنُ pl. | رَوَاشِنُ
Kapsel s. f. حُقَّةٌ صَغِيرَةٌ pl. | حُقُقُ
عُلبَةٌ pl. | عُلبَةٌ
Kapsur | اِكْسَرُ i ه | اَتَو. - مَاحِنُ
اِنْكَسَرُ - اِنْكَسَرُ
Kapuze s. f. قُبْعٌ | اِسْكِيمُ *
اِقْبَاعِ pl. | اِقْبَاعِ
Kapuziner s. m. kath. رَاهِبٌ كَبُوشِي
رُهْبَانُ pl.
Karabiner s. m. * نَوْعٌ مِّنْ | اقْرَابِينَةٍ *
الْبَنَادِقِ
Karaffe s. f. قَنَانِيٌّ pl. | قَنَانِيٌّ
Karat s. m. اَعْبَارٌ | اقْرَابِيطُ pl.
اِقْرَابِيطُ a. | اِقْرَابِيطُ كَذَا
Karausche s. f. نَوْعٌ مِّنْ سَمَكِ النَّهْرِ
Karawane s. f. اقْوَابِلُ pl. | اقْوَابِلُ
اِقْوَابِلُ s. m. | اِقْوَابِلُ
الْقَابِلَةُ
- Karawanferai s. n. * اِحَانَاتُ pl. | اِحَانَاتُ
فُنْدُقُ pl. | فُنْدُقُ
Karbol s. n. قَارْبُولُ
Karbonade s. f. * كَسْتَلَاتَةٌ *
عَجَلٌ اَوْ خِنْزِيرٌ اَوْ غَنَمٌ
Karbunkel s. m. (Edelstein) min.
اِقْوَاتُ جَمْرِيٌّ | اَلْعَلُ * | اِبْهَرْمَانُ
- (Gefchwür) med. * جَمْرَةٌ *
طَعْنَةٌ
Kardamom s. n. اِقَائِلَةٌ | اِقَائِلَةٌ
Kardinal s. m. kath. * كَرْدِينَالُ *
Kardinal (in Zusammensetzungen
die -punkte | اَصْلِيٌّ (فِي التَّرْكِيْبَاتِ
الْخَوَافِقِ | النُّقْطِ الْاَصْلِيَّةِ
Kareffe s. f. مُلَاطِفَةٌ | كَارِئِيْرِنُ
لَاطَفٌ * va. jn.
Karsfreitag s. m. الْجُمُعَةُ الْخَزِيْنَةُ |
جُمُعَةُ الْاَلَامِ
Karsfunkel s. m. f. Karbunkel.
Karg a. اِنْحِيْلُ | اِقْلِيْلُ | اِقَاتِرُ | اِنْحِيْقُ a.
-en vn. | اِقْتَصَدَ فِي | اِقْتَصَدَ فِي
Karglich a. f. Karg. | اِقْلِيْلُ | اِقْلِيْلُ
Karikatur s. f. اِسْتِهْزَائِيَّةٌ |
صَوْرٌ صُوْرًا | اِسْتِهْزَائِيَّةٌ *
اِسْتِهْزَائِيَّةٌ
Karmel (Berg) s. m. n. pr. جَبَلُ
جَبَلُ مَارِ الْاِيَّاسِ | اَلْكَرْمِيْلُ

- r s. m. جَبَان | -handlung s. f.,
-rei s. f. مَجْبَنَةٌ.
- Kajerne s. f. قُشْلَاق | دار العَسَاكِر
قُشْلَةٌ * | العَسْكَر *.
- Käfig a. جُبَيْتِي.
- Kasino s. n. مَقْصَف | مَلَاه pl. مَلَهَى
مُلْتَقَى الضَّبَّاط | مَقَاصِف pl.
- Kaskade s. f. سُقُوط المَاء | سَلَالَةٌ *
شَالُوف *.
- Kaspisch a., -es Meer f. Kaspisee |
Kaspisee s. m. بَحْر جُرْجَان |
بَحْر قَاف | بَحْر الخَزَر.
- Kassation s. f. اِلْغَاء | اِبْطَال شَرْعِي
مَجْلِس تَبْطَل | -shof s. m. شَرْعِي
أَوْ تَثَبَّت فِيهِ الأَحْكَام.
- Kasse s. f. -nan | صُنْدُوق (المال)
weisung s. f., -nbillet s. n.,
-nschein s. m. وَرَقَةُ المَعَامَلَةِ.
- Kasserolle s. f. تَنَاجِر pl. تَنَجِرَةٌ *
مَرَاجِل pl. مَرَجَل.
- Kassienstrauch s. m. bot. خِيَار
شَنْبَر *.
- Kassieren va. اَبْطَل الحُكْم
اَبْطَل | اَلْغَى ه | - in. s i
عَزَل.
- Kassierer s. m. اَمِين الصُّنْدُوق |
خُزَان u. خَزَنَةٌ pl. خَازِن.
- Kastagnette s. f. صُنُوج pl. صَنْج *
مِسْفَقَةٌ *.
- Kastanie s. f. اِنْشَاه بَلُوط * | اَبُو فَرُوتَةٌ *
شَجَرَةٌ -nbaum s. m. | كَسْتَنَا *
الكَسْتَنَا | شَجَرَةٌ الشَاه بَلُوط.
- Kaste s. f. طَوَائِف pl. طَائِفَةٌ
اَصْنَاف pl.
- Kasteien va. den Leib اَذَى الجَسَد
اَمَات النَفْس | قَمَعَ a ه | آلم ه
اِيذاء | اِمَاتة النَفْس | اِيلام | الجَسَد
جِهَاد النَفْس.
- Kastell s. n. قَلْعَةٌ pl. قِلَاع
-an | قُصُور pl. قُصْر | حُصُون pl.
بَوَاب | حُجَّاب pl. حَاجِب s. m.
- Kasten s. m. (großer) صُنْدُوق pl.
عُلب pl. عُلبَةٌ (kleiner) - | صَنَادِيْق.
- Kastengeist s. m. آراء جَمَاعَةٍ.
- Kastrat s. m. طَوَائِشِي | -ion s. f.
طَوَّش s. | كَاسْتِرِيَان va. in. s
تَطْوِيْش.
- Kasus s. m. gr. حال الأَسْم فِي التَّصْرِيف.
- Katafalk s. m. نَعَشِي مُزَيَّن.
- Katafombe s. f. دِمَاسِي pl. دِمَاسِي
سِرْدَاب.
- Katalog s. m. فِهْرِسْت pl. فِهْرِسْت
pl. دَفْتَر * | قَائِمَةُ الكُتُب النَه
دَفَاتِر.

- Sache | عَرْضٌ لِلْبَيْعِ (einer Person) | تَبَرُّطٌ | اِرْتِشَاءٌ.
- Kauf-mann s. m. pl. -leute | تاجِرٌ | pl. | تِجَارِيٌّ | männlich a. | تِجَارٌ | pl. | -mannschaft s. f. | جَمَاعَةُ التُّجَّارِ | -preis s. m., -[schilling s. m. | أَثْمَانٌ pl. | ثَمَنٌ.
- Kaufasus s. m. n. pr. | اَجْبَلُ القَوْاقِسِ | اَجْبَلُ قَافٍ.
- Kaulbarsch s. m. | نَوْعٌ مِنَ السَّمَكِ | نَهْرِيٌّ صَغِيرٌ.
- Kaule s. f. | حُفْرَةٌ pl. | قَعْرٌ | حُفْرٌ pl. | جُورٌ pl. | جُورَةٌ* | قُعُورٌ.
- Kaum adv. (mit Mühe) | بِالْكَادِ* | 3. B. er kann - lesen | *أَنْجَقُ* | (eben erst, vor einem Augenblick) | مِنَ هُنَيْئَةً | 3. B. - ist die Sonne aufgegangen | مِنَ هُنَيْئَةٍ طَلَعَتِ الشَّمْسُ | - hatte er seine Rede beendet, als ... | لَمْ يُتَمِّمْ كَلَامَهُ حَتَّى ...
- Kausal a. | سَبَبِيَّةٌ | -ität s. f. | سَبَبِيٌّ.
- Kautel s. f. | حَذَرٌ.
- Kaution s. f. | كَفَالَةٌ | قِبَالَةٌ | ضَمَانٌ.
- Kautschuk s. n. | لَاسْتِيكٌ* | جِلْدٌ مَرِنٌ | -paragraph s. m. | مَادَّةٌ لَاسْتِيكِيَّةٌ*.
- Kauz s. m. zool. | بُوْمَةٌ صَغِيرَةٌ | bld. drolliger - | رَجُلٌ مُضْحِكٌ.
- Kavalier s. m. | كَافَالِيْرِيٌّ* | وَسَامٌ.
- Kavalkade s. f. | مَوَكِبٌ فُرْسَانٌ pl. | مَوَاكِبٌ.
- Kavallerie s. f. | خَيْالَةٌ | Kavallerist s. m. | خَيْالٌ pl. | خَيْالَةٌ.
- Kaviar s. m. | بَطَارِحَةٌ | بَطَارِحٌ pl. | بَطَارِخٌ.
- Kawaß s. m. | قَوَاسَةٌ pl. | قَوَاسٌ.
- Kebsehe s. f. | تَسْرٌ | -mann s. m. | مُتَسَرٌّ | -frau s. f., -weib s. n. | سَرَارِيٌّ pl. | سُرِّيَّةٌ.
- feck a. | مُتَجَاسِرٌ | جَسُورٌ | -heit s. f. | جَسَارَةٌ | جَرَاءَةٌ | -lich a. | جَسَّارٌ.
- Kegel s. m. | مَخْرُوطٌ pl. | مَخَارِيطٌ | - (Spiel) | أُسْطُوَانَةٌ صَغِيرَةٌ يُلْعَبُ | Kind u. - | أَسَاطِيْنٌ pl. | - schieben a. | لَعِبَ بِهَا | -bahn s. f. | مَحَلٌّ مَجْمُوعُ الْأَسَاطِيْنِ الَّتِي | مَخْرُوطِيٌّ | -förmig a. | يُلْعَبُ بِهَا | -|| vn. | لَعِبَ بِالْأَسَاطِيْنِ | -|| schnitt s. m. | قَطْعٌ مَخْرُوطٌ | -|| تَأْتِي مِنَ قَطْعِ مَخْرُوطٍ.
- Kehl-buchstabe s. m. gr. | حَرْفٌ حَلْقِيٌّ.

- * كَالشَّمْعِ | -licht s. n., -nschein
s. m., -nschimmer s. m. ضِيَاء
الشَّمْعِ.
- Keßel s. m. * خَلَاقِينَ pl. خَلِيقِينَ *
-slicker | قُدُور pl. قُدْر | قَرَان *
s. m. صَفَّار دَوَّار | نَحَّاس دَوَّار
-paufe s. f. mus. دَفَّ pl. دُفُوف |
-treiben | نَقَّارات pl. نَقَّارَةٌ * | طَبْل
s. n. إِحَاطَةٌ بِالصَّيْدِ عِنْدَ التَّتَبُّعِ.
- Kette s. f. سِلْسِلَةٌ pl. سَلَابِل |
زَنَاجِير pl. زَنَاجِير * | قِيُود pl. قَيْد
- (Uhr-) | جَنَازِير pl. جَنُزِير *
| أَوْسْتِيكَ * | كُوسْتَاك *
-n va. ju. صَعَّدَ | قَيْدَ |
| عَلَّقَ | ب an - | jii. | غَلَّلَ |
-nbruch s. m. كَسْرٌ مُتَّصِلٌ pl.
قَنْطَرَةٌ مُعَلَّقَةٌ -nbrücke | كُسُور
pl. قَنَاطِر | -ngebirge s. n. سِلْسِلَةٌ
كَلْب s. m. -nhund | الجِبَال
-npanzer | مَشْدُودٌ فِي الحَوْشِ
s. m. دِرْعٌ.
- Keßer s. m. kath. اِنْسَانٌ مَارِقٌ مِّنْ
هَرَطُوقِي * | رَفِضَةٌ pl. رَافِضٌ | الدِّينِ
مَارِقٌ مِّنْ | -ifdh a. | هَرَاطِقَةٌ pl.
-ei s. f. kath. | الدِّينِ
| التَّحَادِ عَنِ الدِّينِ | بَدْعَةٌ عَنِ الدِّينِ
هَرَطِقَةٌ *.
- keuchen vn. اِنْبَهَرَ | بُهَرَ
husten s. m. سَعَالٌ | شَرْدُوقَةٌ *
Keule s. f. دَبَابِيسِ pl. دَبَابِيسِ
- (eines
Tieres) | فَخْذٌ pl. أَفْخَادٌ s. B.
فَخْذٌ غَنَمٍ -Hammel.
keusch a. عَفِيفٌ | طَاهِرٌ | -heit s. f.
طَهَارَةٌ | عِفَّةٌ.
Khan s. m. خَانَ.
Khartum n. pr. خَرْطُومٌ.
Khedive s. m. خَدِيْوٌ.
Khuva n. pr. خِيْوَةٌ.
Khorasan n. pr. خُرَاسَانَ.
Kichererbse s. f. حِمِّصٌ | حِمِّصٌ *
kichern vn. ضَحِكَ a. خَفِيَّةٌ.
Kiebitz s. m. طَائِرٌ صَغِيرٌ طَوِيلٌ
الرَّجْلَيْنِ.
Kiefer s. m. فُكٌّ pl. فُكُوكٌ.
Kiefer s. f. صَنُوبَرٌ بَرِّيٌّ | -n a.
خَشَبٌ صَنُوبَرٌ.
Kiel s. m. (-feder) قَصَبٌ الرِّيشِ
| خَشْبَةٌ فِي قَعْرِ المَرْكَبِ (-Schiffs-)
-holen | حَيَازِيمِ pl. حَيَزُومِ المَرْكَبِ
| رَمَمَ ه | رَمَّ u المَرْكَبِ Schiff va.
| أَصْلَحَ مَا أَسْفَلَ مِنَ المَرْكَبِ
-wasser s. n. سَيَّرَ المَرْكَبِ
فِي المَاءِ.

Kiemen s. pl. أَدْنَا السَّمَكِ |
 نَحْشُوشَا السَّمَكِ *
 Kien s. m., -holz s. n. خَشَبٌ صَمْفِيٌّ |
 -ruß s. m. سُخَامٌ | سَوَادُ الدُّخَانِ
 Kiepe s. f. قَفَّةٌ pl. قُفَفٌ
 Kies s. m. قَصٌّ | حَصَى | حَصْبَاءُ
 Kiesel s. m. قَصٌّ | صَوَّانٌ pl. صَوَّانَةٌ |
 u. حَصَى pl. حَصَاةٌ (kleiner) -
 صُلبٌ a. -hart | حَصْبَةٌ | حِصِيٌّ
 -stein s. m. f. Kiesel. كَالصَّوَّانِ
 tiefen va. jn. اِخْتَارَ | اِنْتَحَبَ *
 tiefig a. مَرْمُولٌ | حَصِبٌ
 Kilo s. n., -gramm s. n. كَيْلُو *
 مَسَافَةٌ | كَيْلُومِترٌ *
 -meter s. n. أَلْفٌ مِترٌ
 Kind s. n. pl. وِلْدٌ | أَطْفَالٌ pl. طِفْلٌ
 (Knabe) - | أَنْجَالٌ pl. نَجْلٌ | أَوْلَادٌ
 صِبْيَانٌ pl. صَبِيٌّ | غِلْمَانٌ pl. غُلَامٌ
 بَنَاتٌ pl. بِنْتٌ (Mädchen) -
 -bett s. n. | صَبَايَا pl. صَبِيَّةٌ
 نَفْسَاءٌ s. f. -betterin | وِلَادَةٌ | نِيفَاسٌ
 | مَخْلَفَةٌ * | وَالِدَةٌ | نَفْسٌ pl.
 -erfrau s. f. | وُلُودِيَّةٌ s. f. -erei
 -erjahre | حَمَالَةٌ الأَوْلَادِ | حَاضِنَةٌ
 -erlehre s. f. | زَمَانُ الصِّغَرِ pl. s.
 تَعْلِيمُ الأَوْلَادِ فِي الدِّيَانَةِ christl.

سهلٌ a. -erleicht | الْمَسِيحِيَّةُ
 -ermädchen s. n. f. -erfrau | كَثِيرًا
 -ernarr s. m. | مُحِبُّ الأَطْفَالِ
 -erspiel s. n. bld. | أَمْرٌ سَهْلٌ
 -erzucht s. f. | تَرْبِيَّةُ الأَوْلَادِ -es-
 beine s. pl. von - -n an مِمن
 -eskind s. n. | ابْنُ الأَبْنِ الصِّغَرِ
 f. Enkel, Enkelin | -esnöten, in
 - - f. -betterin | -espflicht s. f.
 -esstatt s. f. | وَاجِبٌ عَلَى الوَلَدِ
 | تَبَنَّى * - - an in. an
 -esteil s. n. | اِتَّخَذَ آبَنًا
 -heit | شَرْعِيَّةُ الأَوْلَادِ فِي المِيرَاثِ
 -lich a. | طُفُولِيَّةٌ | صِغَرٌ s. f.
 خَفِيفٌ | صِبْيَانِيٌّ | صَبُورِيٌّ | طِفْلِيٌّ
 | طِفْلِيٌّ | صَبُورِيٌّ a. -lich | العَقْلُ
 -schaft s. f. | تَبَنٍّ s. f. -stopf s. m.
 | إِنْسَانٌ طِفْلِيٌّ bld. | رَأْسُ طِفْلٍ
 -smagd s. f. f. -erfrau | -taufe
 s. f. christl. مَعْمُودِيَّةٌ
 Kinkerlitzen s. n. pl. تَرَهَاتٌ
 Kinn s. n. | أَذْقَانٌ pl. ذَقَنٌ
 s. m. | فُكُوكٌ pl. فَكٌّ s. m.
 -fette s. f. (der Pferde) | ذَقَنٌ *
 -lade s. f. f. -baden. | حَلَقَةُ الفَكِّ
 Kippe s. f., auf der - stehen | أَشْرَفٌ
 | أَشْرَفٌ عَلَى الهَلَاكِ | عَلَى السُّقُوطِ

-n va. etw. ه قطع | vn. - f. auf der Kippe stehen.

Kirche s. f. christl. (Gebäude) كَنِيسَة

pl. | كنائس (Gottesdienst) -

جماعة المسيحيين (Christenheit) -

-n. | إكليروس* (Geistlichkeit) -

bann s. m. | حرم -nbuch s. n.

دفاتر pl. دفتر الجماعة الدينية

-nbusse s. f. توبة في الكنيسة

-ngeschichte s. f. تاريخ الكنيسة

-nigut s. n. | مال الكنيسة -nrecht

الحق | القوانين الكنائسية s. n.

المملكة -nstaat s. m. | القانوني

-nwater | آلتى كانت للبابا سابقا

s. m. | أبو الكنيسة -nucht s. f.

تأديب كنائسي

Kirch-gang s. m. | ذهب إلى الكنيسة

-hof s. m. | مقابر pl. مقبرة

ترب pl. | تربة | مدافن pl. مدفن

كنائسي -lich a. | مزارات pl. مزار

دايرة كنائسية -spiel s. n.

أسقفية -sprengel s. m. | خورنيّة*

برج -turm s. m. | أبرشيّة*

-weih | أبروج pl. أجراس الكنيسة

تكريس | تقديس كنيسة s. f.

كنيسة

Kirmes s. f. f. Kirchweih.

firre a. | مُستأنس | jn. - machen

| أنس a | - werden | أنس ه

-n va. jn. ه أنس.

Kirsch s. m. | شراب من عرق ورب كرز

-baum s. m. | شجرة الكرز

wein s. m. | Kirsch | -e s. f.

-geist s. m., -wasser s. n.

| كرز | Kirsch.

Kissen s. n. (Sofa-) | مسند pl.

- | مرافق pl. مرفق | مساند

وساد | مخاد pl. مخدة (Kopf-)

| خديدة - | وسد pl.

خديديّة*

Kiste s. f. | صندوق pl. صناديق

Kitt s. m. | رباط | ملاط

Kittel s. m. | عباء | جبّة

fitten va. etw. | بالملاط

Kitze s. f. | جدى pl. أجيد

Kitzel s. m. | دغدة | أكل | إكلّة

رغبة - | bld. | زكركة* | حكة

| دغغ ه | vn. | مفرطة

* | Kitzler s. m. | زكرك ه

من ثوتر | fitzlig a. | زنبور المرأة

سريع الاغتياض | bld. | فيه الدغدة

Kladde s. f. | مسودة

flaffen vn. | انشق | انفتح

fläffen vn. | عوى | ا | هبّلب

أَبَان ه | etw. - machen (مَرْكَب)
 صَفَا ه | - fein (Wasser) u أَوْضَح ه
 بَانِ ه | - fein (deutlich) i رَاقِ ه
 تَبَيَّنَ.

Flären va. etw. ه | رَوَّقَ ه | أَصْفَى ه.

Klarheit s. f. (des Wassers) صَفَاءُ
 وَضُوح (Deutlichkeit) - | رَوَّقَ
 إِيضَاح.

Klarinette s. f. زَمَارَةٌ * | كُرْنِيَّةَ *.

Klärung s. f. إِيضَاح | تَرْوِيقَ.

Klasse s. f. دَرَجَاتِ pl. | دَرَجَةَ
 طَبَقَاتِ pl. | طَبَقَةَ | رُتَبِ pl. | رُتْبَةَ
 فِرْقِ pl. | فِرْقَةَ | أَصْنَافِ pl. | صِنْفِ
 صَفِّ (في المَدْرَسَةِ) (in der Schule) -
 Klassifikation s. f. | صُفُوفِ pl.
 تَنْظِيمِ بِطَبَقَاتِ | Klassifizieren va.
 نَظَّمَ ه | بِطَبَقَاتِ etw.

Klassiker s. m. مُؤَلِّفٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ
 مُعْتَمَدٌ a. | كَلِيسِي | في المَدَارِسِ
 عَلَيْهِ في المَدَارِسِ.

Klatsch s. m. تَلْتَلَةٌ | قال وقيل
 -base s. f. | تَقَوَّلَ عَلَى الْغَيْرِ
 هَذَارَةٌ s. f., -weib s. n. | هَذَارَةَ
 مُكْثِرَةَ الْكَلَامِ.

Klatschen vn. (mit den Händen)
 صَفَّقَ | Beifall - | صَفَّقَ
 هَذَرَ u (schwätzen) - | لِلْأَسْتِحْسَانِ

تَقَوَّلَ عَلَى الْغَيْرِ | كَثُرَ الْكَلَامِ
 Klatscherei s. f. | لُبَّابَ *
 Klatsch | Klatschhaft a. | هَذَارَ
 مُكْثِرَ الْكَلَامِ.

Klauben va. etw. ه | نَطَّفَ ه | نَقَّى ه.

Klauberei s. f. تَنْظِيفَ | تَنْقِيَةَ.

Klaue s. f. مَخَالِبِ pl. | مَخْلَبَ
 -nseuche s. f. | حَوَافِرِ pl. | حَافِرِ
 دَاءِ الْحَوَافِرِ (عِنْدَ الْبَقَرِ).

Klaufe s. f. مَنَاسِكِ pl. | مَنَاسِكَ

pl. صَوْمَعَةٍ | مَحَابِسِ pl. | مَحْبَسَةَ
 خَلَوَاتِ pl. | خَلْوَةَ | صَوَامِعِ

Klausel s. f. شُرُوطِ pl. | شَرْطَ.

Klausner s. m. زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا pl.
 نُسَاكِ pl. | نَاسِكَ | زُهَّادِ

Klaviatur s. f. مَجْمُوعَ دَسَاتِينِ.

Klavier s. n. | بِيَانَوُ * | - | سَپِلِي
 ضَرَبَ i بِالْبِيَانَوُ *

Kleben va. etw. ه | لَزَّقَ ه | أَلصَقَ ه

- vn. an | غَرَى ه | بِالْغِرَاءِ

Klebe- | تَعَلَّقَ بِ | التَّصَقَ فِي

mittel s. n., Kleber s. m., Klebe-

stoff s. m. | لَزْبِقُ * | لَزْبِقَاءُ

a. | لَزِقَ | لَزَجَ | لَزِقَ a.

Klecks s. m. شَوَائِبِ pl. | شَائِبَةَ | بَقَعَ

دَهْنِ u | بَلُونٌ غَلِيظٌ | وَسَّخَ -en vn.

خَرْبَشَةُ * -erei s. f. | سَوَدَ الْوَرَقِ

Klee s. m. | حَنْدُقُوَّة | بِرْسِيم
 -blatt s. n. | رَطْبَةٌ | فَصْفِصَةٌ
 عَدَد ثَلَاثَةٌ | وَرَقَةُ الْبِرْسِيمِ

Kleid s. n. | ثِيَاب pl. | ثِيَاب
 pl. | لُبُوس pl. | لُبُوس
 pl. | أَكْسِيَّة | (Frauen-) | أَلْبِسَةُ pl. | لِبَاس
 pl. | فَصْطَان * | بَدَلَةٌ السِّت *
 | مَلَابِس | هُدُوم -er pl. | فَصَاطِين
 | أَلْبَسَ ه | -en va. | جِئ. mit
 | لِبَسَ ا - - | sich | كَسَا ه
 | لاقِ i بِهِ | -in. (gut anstehen) - -
 | فُرْشَةٌ s. f. | -erbürste | وافق ه
 | تِجَارَةٌ s. m. | -erhandel | المَلَابِس
 | erhändler s. m. | -er | الرِّثَاث
 | ermacher s. m. | باعَةٌ pl. | الرِّثَاث
 | خِزَانَةٌ * | -erschrank s. m. | خِيَّاط
 | -ertracht | صِوَان | نُحُوت pl. | تَحْت
 | أَزْيَاء pl. | زِي * | لِبْسَةٌ s. f.
 | -ung s. f. | لائِق (لِبْسٌ) | -am a.
 | ثِيَاب | هُدُوم | لِبْس

Kleie s. f. | نُخَالَةٌ | خَرَاشَةٌ | قُصَارَةٌ
 | خُشْكْرَةٌ * (mit Mehl) - | سُحَالَةٌ
 | خُبْزٌ مِنَ الدَّقِيقِ | -nbrot s. n.
 الثاني.

Klein a. | صِغَار pl. | صِغِير
 (an | - | قَصِير القَامَةُ (Wuchs)
 | الأَطْفَال die -e Welt | قَلِيل (Zahl)

-es Geld f. Kleingeld | -er Finger
 | مِنْ الصِّغَر | von - auf | خِنْصِر
 - fein u. صَغُر | dies ist ihm ein
 -es | هَذَا سَهْلٌ عِنْدَهُ | ein -
 wenig | قَلِيلٌ جِدًّا | -geld s. n.
 | قَطَعَ مِنَ النُّقُودِ | فُرَاطَةٌ * | فَرَط *
 | كُسُورٌ مِنَ النُّقُودِ | -gläubig a.
 | قَلِيلُ الْآعْتِقَادِ | -handel s. m.
 | تِجَارَةٌ بِالتَّقْطِيعِ | تِجَارَةٌ بِالتَّفْرِيقِ
 | صِغَر | صِغَارَةٌ | صِغَر s. f. | -heit
 | شَيْءٌ جُزْئِيٌّ | -igkeit s. f. | القَامَةُ
 | تَرَهَات pl. | تَرَهَةٌ | شَيْءٌ قَلِيلٌ
 | عَدِيم | لَفَاء | -laut a. | قَلَامَةٌ
 | كَمِيد | -lich a. | النِّشَاط
 | دَنِيٌّ | حَقِير | شَرَفُ النَّفْسِ
 | حِقَارَةٌ | -lichkeit s. f. | حِقَارَةٌ
 | صِغَرُ النَّفْسِ | -mut s. m.
 | صِغِيرُ النَّفْسِ | -mütig a.
 | -mut | -od s. n. | -mütigkeit s. f.
 | جَوَاهِر pl. | جَوَاهِر -ien - - pl.
 | مَمْلَكَةٌ صَغِيرَةٌ | -staat s. m.
 | أَحْوَالُ الْمَمَالِكِ الصَّغِيرَةِ | s. f.
 | مَدِينَةٌ صَغِيرَةٌ | -stadt s. f.
 | مُخْتَصٌّ بِأَحْوَالِ الْمُدُنِ | -städtisch a.
 الصَّغِيرَةِ.

كleister s. m. | عَصِيدَةٌ * | غِرَاء | بِالْوُظَّةِ
 -n va. | لَزَقَ ه | بِالْبَالُوْظَةِ * | etw.

Klemme s. f. شِدَّة | ضَيْق -n va.
 etw. ه | ضَيْق ه | شَدَّ u ه
 s. m. نَوْع مِّن النِّظَارَةِ.

Klempner s. m. تَنْكِي | تَنْكِي *
 | سَنَاكِرَةٌ pl. سَنَكْرِي * | تَنْكَارِي *
 -ei s. f. صِنَاعَةُ التَّنَكِي |
 التَّنَكِي.

Klepper s. m. فَرَسٌ بَطَّالٌ.

Klerikal a. kath. كَهَنُوتِي | كَهَنُوتِي
 Kleriker s. m. | بِالْإِكْلِيرُوسِ
 | شَدَايِقَةٌ pl. شِدْيَاق | إِكْلِيرِيكِي *
 Kleriker s. f. | شَمَامِسَةٌ pl. شَمَّاسِ
 s. f., Klerus s. m. | إِكْلِيرُوسِ *
 آل الكَهَنُوتِ.

Klette s. f. bot. قُرْطَب | قُرْطَب
 عَمِي خُدْنِي | مَعَكَ *.

Klettern vn. صَعَدَ | بِجَدَّ
 Kletter-
 stange s. f. صَارَ عَالٍ فِي أَعْلَاهُ
 هَدَايَا يَأْخُذُهَا مَن يَصِلُ إِلَيْهَا
 صَاعِدًا.

Klient s. m. زَبُون | مُحَامِي عَنْهُ
 زُبْنِ pl. الأَفُوكَاتُو.

Klima s. n. pl. مُنَاخِ * | هَوَاءٌ بَلَدٍ
 | أَقَالِيمِ pl. إِقْلِيمِ * | مُنَاخَاتِ
 مُخْتَصِّ بِالْمُنَاخِ | هَوَائِي * a. -fisch.

flimmen vn. صَعَدَ | بِجَدَّ.

flimbern vn. i رَنَّ | i طَنَّ | u دَقَّ
 البِيَانُو بَطَّالًا.

Klinge s. f. | نَصْلَةٌ * pl. نِصَالِ
 in. über die - springen lassen
 u. أَمْرٌ بِقِتْلِهِ بِالسَّيْفِ.

Klingel s. f. | أَجْرَاسِ pl. جَرَسِ
 | جُرَيْسِ -beutel s. m. christl.
 | كَيْسٍ لِلصَّدَقَاتِ فِي الكَنِيسَةِ
 -n vn. u. الجَرَسِ.

flingen vn. i رَنَّ | i طَنَّ | - (in
 den Ohren) | هَوَى | i هَوَى | gut
 zusammen - | اتَّفَقَ | mit -dem
 Spiele | بِصَوْتِ الطُّبْلِ | mit -der
 Münze | نَقْدًا | Klingklang s. m.
 طَنِينِ | رَنِينِ.

Klinik s. f. | مُسْتَشْفَى | تَعْلِيمِ
 الطَّبِّ عِنْدَ المَرَضِي المَضْطَجِعِينَ.

Klinke s. f. | سَقَاطَةُ البَابِ *
 أَكْرَةَ * | زِلَاجِ | äg.

Klinfer s. m. | آجَرَ pl. آجِرَةٌ *
 طُوبِ *.

flipp a., - u. klar | وَاضِحٌ | بَيِّنٌ.

Klippe s. f. (فِي البَحْرِ خُصُوصًا)
 | تَهْلُكَةٌ * | صُخُورِ pl. bld. -

Klippfisch s. m. | نَوْعٌ مِّن سَمَكِ
 البَحْرِ.

flirren vn. i رَنَّ | i طَنَّ | طَطَّقَ |

knacken va. etw. ه | قَرَقَدَه * | قَضَمَ i ه
 | طَطَّقَ | طَقَّ u - | تَكَرَّمَه ه
 | قَرَقَعَ * | Knackmandel s. f. لَوْزَ coll.
 | Knackwurst s. f. لَوْزَةَ - eine
 | knackfen vn. f. نَوْعٍ مِنَ الْمَقَانِقِ
 knacken.
 Knall s. m. | صَوْتٌ إِطْلَاقِ الْمِدْفُوعِ النَحْ
 | -en | بَغْنَةً * | قَرَقَعَةً *
 | طَطَّقَ | طَقَّ u vn.
 knapp a. | ضَيْقٍ | mit -er Not
 | بِالْكَادِ | بِالتَّعَبِ.
 Knappe s. m. | سِلَاحِدَارٍ * pl.
 | (im Bergwerk) | سِلَاحِدَارِيَّةِ
 | فَعَلَةٌ pl. فَاعِلٍ فِي الْمَعَادِنِ
 knappern vn. f. knabbern.
 Knappheit s. f. ضَيْقٍ.
 Knappschafft s. f. جَمَاعَةٌ فَعَلَةٌ
 | الْمَعَادِنِ.
 knarren vn. u | طَطَّقَ | طَقَّ u
 Knaster s. m. نَوْعٌ مِنَ التُّنَنِ.
 knattern vn. لَقَلَقَ | مَعَمَعَ.
 Knäuel s. m. | كَبَّةٌ غَزُلُ pl.
 | لَفِيفَةٌ | بَكَرَةٌ خَيْطٌ * | كُبَّبَ
 | وَصِيْلَةٌ | كَبْتُولَةٌ * | طَابَةٌ * | لَفَائِفُ
 | وَصَائِلُ pl. كَبْكُوبٌ *
 Knaut s. m. | قَبِيْعَةٌ مِنَ السِّيفِ

pl. | قَبَائِعِ السِّيفِ
 | رَأْسُ الْعَمُودِ | تَاجُ الْعَمُودِ

Knaufer s. m. | رَجُلٌ بَخِيْلٌ -ei
 | تَقْتِيْرُ الْبَخِيْلِ s. f. | مُقْتَرٍ -ig a.
 | قَتَّرَ بُحْلًا -ii vn. | بَحْلٍ u.

Knebel s. m. | قُرْمَةٌ pl. | كَاتِبَةٌ
 | أَكْتَابِ pl. (des Kamels=) -
 | غَوَارِبِ pl. -bart s. m. شَارِبِ
 | -ii va. | رَبَطَ u s i, | شَوَارِبِ pl.
 | أَوْثَقَ ه | بِالْوِثَاقِ | قَيَّدَ ه | أَصْفَدَ ه

Knecht s. m. | خَدَّامِ pl. | خَدَّامِ
 | -en va. | رَقِيْقٍ | عَبِيْدٍ pl. عَبْدِ
 | | ذَلَّلَ ه | أَرَقَّ ه | جَمْعُ
 | دَنِيٍّ | عَبْدِيٍّ | خَادِمِيٍّ a. -i
 | -schaft s. f. | ذَلِيْلٍ | عُبُوْدِيَّةِ
 | | دَنَاءَةٌ s. m. | -stimmung s. m. | اسْتِعْبَادِ
 | -ung s. f. | تَذَلُّلٍ | إِخْضَاعِ | تَذَلُّلٍ

knEIFen va. | مَرَزَ u s | قَرَزَ i s
 | قَرَصَ u s | Kneifer s. m. نَوْعٌ
 | | النِّظَارَةِ | Kneifzange s. f. مَلَقَطُ
 | مَلَاقِطِ pl.

Kneipe s. f. | حَوَانِيْتِ pl. | حَوَانِيْتِ
 | | لَوْكُنْدَةٌ * | خَمَارَةٌ | kneipen va. | جَمْعُ
 | | قَرَصَ u s | شَرِبَ a. -stud. vn.
 | | كَثِيْرًا مِنَ الْخَمْرِ أَوِ الْبِيْرَةِ
 | كَثْرَةَ الشُّرْبِ مِنَ الْخَمْرِ أَوِ

- البيرة | Kneipzange s. f. f. Kneif-
zange.
- kneten va. etw. ه i, u عجن.
- Knick s. m. شق pl. شقوق | كسر
-en va. etw. ه i كسر | -er s. m.,
-erei s. f., -erig a., -ern vn. f.
Knauser, Knausererei, knauserig,
knausern.
- Knicks s. m. خضوع | -en vn. vor
jm. خضع له a.
- Knie s. n. ركبّة pl. ركبّات u. ركبّات
auf die - fallen vor jm. تذلّ
| etw. über das - brechen
| -beugung s. f. أسرع ه كنيبرًا
ركبة * - - | ركوع * | سجود
pl. ركعات | -en, -n vn. * a
ركع | -fall s. m. f. Fußfall |
-fällig a. f. fußfällig | -holz s. n.
| غابة أشجار صغيرة
| باطن الركبة | آباط pl. أبض
| داغصة الركبة s. f. |
| صابونة الركبة * | فلكة الركبة
| صورة شخص من | الرأس إلى الركبة
| مكايد pl. مكيده s. m. Kniff
| دسائس pl. دسيسه
- Knirps s. m. رجل قصير القد |
رَجُلٌ قَصِيرُ الْقَدِّ
- knirschen vn. mit den Zähnen u
صَرَفَ | بِالْأَسْنَانِ | بِالْأَسْنَانِ
(Sand) - | كَرَّ i على الأسنان *
قَرَقَعُ * (الرَّمْلُ)
- knistern vn. | أَحْتَمِدُ | مَعَمَعُ
i | كَتَسُ | شَرَقَطُ *
- Knittel s. m. f. Knüttel.
- Knix s. m., knixen f. Knicks, knicksen.
- Knoblauch s. m. ثوم.
- Knöchel s. m. (fuß-) كعب pl.
| كواحل pl. كاحل | كعوب u. كعاب
| مفصل اليد (der Hand) -
| مفاصل pl.
- Knochen s. m. | أعظام u. عظام u. عظم
| فخر | رمة | إكله s. m. -fraß
| knöchern a. | الموت s. m. -mann
| كثير العظام a. | من عظم
- Knödel s. m. * كبة للأكل pl. كبيب.
- Knollen s. m. | غدة | غدة pl. غدد
| نبات -frucht s. f., -gewächs s. n.
| ذو غدد a. | ذو غدد
- Knopf s. m. | زور u. أزوار pl. زر
| قبعة | رمانة السيف (-Degen)
| قبايع pl. | (-Turm) -
| knöpfen va. etw. | كرة | رأس برج
| Knopfloch s. n. | بكل ه * | زر u ه
| عرى pl. عروة

Knorpel s. m. غُرُضُوف pl. اِغْرَاضِيف |
 مُشَاشَة pl. | مُشَاش pl. خَيْشُوم |
 غُرُضُوفِي a. | خِيَاشِيم | knorpelig a.

Knorren s. m. اُبْنَة في سَاق شَجَرَة |
 عَجْرَة | اَحْيَاد pl. | حَيْد | اُبْن pl.
 عَجْر pl. | عَقْدَة | عَجْر pl. |
 شَجَرَة ذات عَقْد a., -er Baum

Knospe s. f. اَتْفِرَة | بَرَاعِم pl. | بُرْعَم
 -n vn. | اَتْفَر | بَرْعَم.

Knoten s. m. عَجْرَة | عَقْد pl. | عَقْدَة
 عَقْدَة - des Dramas | عَجْر pl.
 (Schwierig.) - مدار الرواية | الرواية
 knoten | مُشَاكِل pl. | مُشَكِل (feit)
 va. etw. ه i | عَقْد -punkt s. m.
 bld. مَرَكِز pl. | مَرَاكِز -stoc s. m.
 pl. نَبَّوت * | دَبَايِيس pl. | دَبَّوس
 دُو | دُو عَقْد a. | نَبَايِيت | knotig a.
 عَقْد pl. | عَقْدَاء f. | اَعْقَد | عَجْر
 bld. غَلِيظ | حَشِين.

knuffen va. jn. لَآكَم ه.

knüpfen va. etw. ه | عَقْد i ه |
 رَبَط u ه.

Knüppel s. m. دَبَايِيس pl. | دَبَّوس
 نَبَايِيت pl. | نَبَّوت *.

knurren vn. (Tier) زَمَخْر | زَمَجْر
 (Magen) - | هَمَمَم | هَدَر i | عَجَّ u i.

كثِير a. | فَنُورِيغ | وَبَّخ bld. - | قَرَقَر
 التَّوَيِيغ.

knuspern vn. an etw. ه i قَرَض.

Knute s. f. مَجْلَدَة ذات كَلَايِب |
 مِقْرَعَة.

Knüttel s. m. | Knüppel | -reim
 s. m., -vers s. m. شِعْر شِعْرُور |
 قَافِيَة خَشِينَة.

Koadjutor s. m. kath. مُعَاوِن
 المَطْرَان لَهُ حَقَّ الخِلَافَة.

Koalition s. f. اَحْزَاب pl. | حِزْب
 pl. | تَعَصَّب | تَحَزَّب
 عَصَب.

Kobalt s. m. min. حَجَر الزَّرْنِيغ *.

Koben s. m. مَرَاقِد pl. | مَرَقْد الخَنْزِير
 اِصْطَبِل الخَنْزِير.

Kober s. m. قُفَف pl. | قُفَة.

Kobold s. m. عَفَارِيْت pl. | عَفْرِيْت
 اِنْكَب | اِنْقَلَب (schießen).

Koch s. m. طَبَّاخون pl. | طَبَّاخ
 -buch s. n. | عَشِيَّة pl. | عَشِي *.

-en va. etw. | كِتَاب الطِبَاخَة
 (sieden-) | شَوَّط ه | طَبَّخ u ه

(sieden) etw. ه | سَلَق vn. -
 -end a. | فَاَر u | غَلَى i (sieden)

إِنْسَان -er s. m. | فَوَار | فَاِثْر | غَال
 اِنَاء للطَّبَّخ | طَابِغ.

- Köcher s. m. كِنَائِن pl. كِنَائِنَة.
- Kocherei s. f. طَبَاخَة | طَبُّخ | Koch-
gerät s. n., Kochgeschirr s. n.
آلات pl. آلة الطَّبُّخ.
- Köchin s. f. طَبَّاخَة.
- Kochkunst s. f. طَبَاخَة.
- Köder s. m. (zum Fischen) طُعْم
| جَدَّاب | جَادِب bld. | السَّمَك
-n va. jii. | جَدَّب | أَغْرَى.
- Kodizill s. n. مُلْحَق بَوَصِيَّة مَيِّت.
- Koffer s. m. صُنَادِيْق pl. صُنَادِيْق.
- Kohäsion s. f. التَّحَاق | التَّحَام
| التَّصَاق.
- Kohl s. m. مَلْفُوف | كَرْتَب.
- Kohle s. f. فَحْم coll. | - (Stein-)
pl. جَمْرَة - glühende | فَحْم حَجَر
| جَزَع -n sitzen a | جَمْر
pl. كَانُون -n becken s. n. | هَدَع a
-nberg- | مَنَاقِل pl. مَنَقَل * | كَوَانِيْن
werk s. n. | مَعْدِن الفَحْم -n
brenner s. m. فَحَّام pl. فَحَّامَة
| مَشْكُرَة * | مَفْحَم -nmeiler s. m.
-n Säure | مَعْمَل الفَحْم فِي الغَابَات
s. f. chem. | حَامِض كَرْبُونِي *
-n Schaufel s. f. مِجْرَفَة الفَحْم pl.
-n Stoff s. m. chem. | مَجَارِف
- Köhler s. m. فَحَّام | -glaube s. m.
إِيْمَان البُسْطَاء.
- Kohl-meise s. f. zool. نَوْع مِّن
العَصَافِيْر | -rabi s. m., -rübe s. f.
| الفَت | -[schwarz a., -rabenschwarz
a. | فَحْمِي | فَحْمِي a.
- Koje s. f. مُخَدَّع فِي المَرْكَب pl.
مَخَادِع:
- Kofarde s. f. إِشَارَة | عِلَامَة | وَرْدَة
مِن حَرِيْر.
- Kofett a. مُنْظَرَف | مُتَدَلِّل *
pl. مُتَدَلِّلَة -e s. f. | عِنَادِرَة pl.
| تَدَلِّل s. f. -erie | ذات غُنْج | شِكْل
| تَدَلِّل vn. -ieren | غُنْج | شِكْل
a. غُنْج.
- Kofos-baum s. m. شَجَرَة جَوْز
| جَوْز هِنْدِي s. f. -nuß | الهِنْد
-palme s. f. | -baum.
- Kolben s. m. (von Mais etc.) شَمُوط *
pl. قَضِيْب (-Gewehr-) | شَمَامِيْط
| البُنْدُقِيَّة (-Retorte) chem.
pl. كَرَكَة | أَنَابِيْق pl. | أَنَابِيْق
كَرَكَات.
- Kolibri s. m. طَائِر صَغِيْر الحَاجِم.
- Kolif s. f. med. مَغْص | - (der Tiere)
مَغْص | die - haben a. مَغْلَة.
- Kolfrabe s. m. غُرْبَان pl. غُرَاب.

- Kollationieren va. etw. mit قابل Kolonnade s. f. رُواق pl. أَرْوَاقَة |
 f. vergleichen. ه ب صُفُوف pl. صَفَّ أَعْمِدَة
- Kolleg s. n. دَرَسٌ فِي دَارِ الْفُنُونِ Kolonne s. f. (Soldaten) فِرْقَةٌ عَسَاكِرِ
 pl. دُرُوسٍ. pl. فِرْقٍ.
- Kollege s. m. رَفِيقٌ | زَمِيلٌ pl. Kolophonium s. n. صَمْعُ الْبُطْمِ |
 | حُلَفَاءُ pl. حَلِيفٌ | رَفَقَاءُ قُلُوفَانَةٌ *
- Kollegium s. n. مَجَالِسٌ pl. مَجَالِسِ Koloquinte s. f. حَنْظَلٌ |
 دَرَسٌ فِي دَارِ | مَجَامِعِ pl. مَجْمَعِ قُتَاءِ الْحِمَارِ | عُلُقَمِ
- Kollekte s. f. جَمْعُ الصَّدَقَاتِ Koloratur s. f. mus. اِنْعَمٌ | تَرْتِجٌ
 | جَمَلٌ pl. جُمَلَةٌ | تَنْغِيمِ اَتَدَمْدَمٌ فِي الْغِنَاءِ * | تَهْرَجٌ | تَنْغِيمِ
- Kollektion s. f. جَمْعًا | جامِعِ | جَمَلٌ pl. جُمَلَةٌ Kolorieren va. etw. ه
 | جَمْعًا | جامِعِ | جَمَلٌ pl. جُمَلَةٌ Kolorit s. n. تَلْوِينٌ | خَضَبٌ i ه
 | جَمْعُ الصَّدَقَاتِ | جَمَلٌ pl. جُمَلَةٌ | جَمْعًا | جامِعِ | جَمَلٌ pl. جُمَلَةٌ
- Koller s. m. (Pferdefrankheit) داءٌ رَوْتَقٌ | bld. | اِعْطَاءُ الشَّيْءِ اَلْوَانَهُ
 | حِدَّةٌ - | صَرْعٌ | الفَرَسِ | تَزْوِيقِ الْكَلَامِ | الْكَلَامِ
- Koller s. n. (Kollet) زَيْقٌ مِّنْ جِلْدِ اِنْسَانٍ | اِتِّمَالٌ عَظِيمٌ
 | الجَامُوسِ - | اَوَّ حَيَوَانٍ عَظِيمِ الْجَنَّةِ
- Kollern vn. (im Leibe) قَرَقَرَ | (rollen) واسِعٌ | عَظِيمٌ | جَسِيمٌ
- تَدَخَّرَجٌ
- Kolli s. n. بِالَةِ | رِزْمَةٌ | قَرْدَةٌ Kolportage s. f. نَقْلُ الْبَضَائِعِ مِنْ
 | مَكَانٍ اِلَى آخَرَ وَعَرْضُهَا لِلْبَيْعِ
- Kollision s. f. مُبَارَزَةٌ | تَصَادُمٌ Kolporteur s. m. نَاقِلٌ | دَوَّارٌ
 | البَضَائِعِ | Kolportieren va. Waren
- Kolon s. n. gr. اِسْمُ الْعَلَامَةِ: نَقَلَ u الْبَضَائِعِ وَعَرْضُهَا لِلْبَيْعِ
- Kolonial a. مُسْتَعْمَرِيٌّ | Kolonie s. f. عَمُودٌ
 | مُسْتَعْمَرَاتٌ pl. مُسْتَعْمَرَةٌ Kolumne s. f. (einer Zeitung) اَعْمِدَةٌ
 | مُسْتَعْمَرَةٌ pl. مُسْتَعْمَرَاتٌ (فِي الْجَرِيدَةِ)
- Kolonisieren va. ein Land mit jm. Komet s. m. اَنْجُومٌ pl. نَجْمٌ
 | اِسْتَعْمَرَهُ فِي الْبِلَادِ | نَجْمٌ مُذَنَّبٌ
 | مُسْتَوْتُونٌ

- fommlich a. مُنَاسِبٌ.
- Kommode s. f. خِزَانَةٌ ذات | دُولَابٌ *
بِيرُو * | جَوَارِيرٌ *
- Kommune s. f. مَدِيرِيَّةٌ | إِدَارَةُ الْمَدِينَةِ
عَامِلِيَّةٌ.
- Kommunifant s. m. christl. مُتَقَرَّبٌ *
Kommunion s. f. christl. تَقَرَّبٌ *.
- Kommunismus s. m. الْأَشْتِرَاكِيَّةُ |
Kommunist s. m. إِشْتِرَاكِيٌّ.
- Kommunizieren vn. christl. تَقَرَّبٌ *.
- Komödiant s. m. مُشَخِّصٌ * | مُمَثِّلٌ
bld. - | إِنْسَانٌ مُتْرَاءٌ -
s. f. رِوَايَةٌ مُضْحِكَةٌ.
- Kompagnie s. f., Kompagnon f.
Kompanie, Compagnon.
- Kompakt a. كَثِيفٌ.
- Kompanie s. f. فِرْقَةٌ | mil. شِرْكَةٌ *
فِرْقٌ pl. عَسَاكِرٌ.
- Komparativ s. m. gr. اِسْمُ التَّفْضِيلِ |
أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ.
- Kompaß s. m. بَيْتُ الْإِبْرَةِ | بُوصْلَةٌ *
بُرْكَارٌ * | دَوَّارَةٌ.
- Kompendium s. n. كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ.
- Kompetent a. مَنْ لَهُ الْحَقُّ فِي الْفَحْصِ |
حَقٌّ s. f. كُومْبِتَنْسٌ | وَالْقَضَاءِ
pl. حُقُوقٌ.
- Komplement s. n. تَمَّ | تَمَامٌ | gr. -
eines Nomens اِئْتِمَامٌ |
- eines Verbums مَفْعُولٌ.
- komplett a. كَامِلٌ | نَامٌ.
- Kompliment s. n. اِتْقَرِيظٌ | كَلَامٌ اِلْتِمَامٌ
ohne -e (Verbeugung) | بِلا تَكْلِيفٍ -
تَمَنٍّ | خُضُوعٌ.
- Komplott s. n. تَدْمُرٌ | تَأْمُرٌ | مُوَاَمَرَةٌ.
- Komponieren va. etw. mus. اِقْتَرَعَ
Komponist s. m. mus. اَلْأَلْحَانُ |
Komposition s. f. mus. صِنَاعَةُ الْاَلْحَانِ |
مُقْتَرَعُ الْاَلْحَانِ وَصَانِعُهَا.
- Kompott s. n. مُرَبِّيٌّ * | خَبِيصٌ.
- Kompreffe s. f. عَصَائِبٌ pl. عَصَابَةٌ |
لَفَائِفٌ pl. لِفَافَةٌ.
- Kompromiß s. m. اِتِّفَاقٌ | تَرَاضٍ |
einen - schließen اِتَّفَقَ | تَرَاضَى.
- Komtur s. m. دُوْرُؤْبَةٌ عَالِيَةٌ فِي
الْكَافَلِيْرِيَّةِ.
- Kondylie s. f. صَدَفٌ.
- Kondition s. f. خِدْمَةٌ | وَظِيْفَةٌ *.
- Konditor s. m. اِحْلَوَانِيٌّ * |
-ei s. f. مَخْزَنُ الْحَلْوَانِيِّ.
- Kondolenz s. f. اِتْسَالِيَّةٌ | تَعَزِيَّةٌ |
-brief s. m., -schreiben s. n.
Kondolieren vn. كِتَابُ التَّعَزِيَّةِ
سَلَّى | عَزَّى | im.

- Kondor s. m. zool. رُحّ pl. رِخْحَة | König s. m. مَلِك pl. مُلُوك | سلطان | (im Schachspiel) pl. سَلَاطِين - | شاه | jn. zum - machen s مَلِك | زَوْجَة | سلطانَة | مَلِكَة -in s. f. | وزير (im Schachspiel) | مَلِك | مَلِكِي | مُلُوكِي * -lich a. | فِرْزَان | reich s. n. | لَائِق بِمَلِك | سلطانِي | sferze s. f. | مَمَلِكَة pl. مَمَالِك -swürde s. f. | بُوَصِير | سَكْر الحوت | مَلِكِيَة | مَلِكَة | مُدْك | سُلْطَة s. f. | -tum s. n. f. -swürde.
- Konfekt s. n. حَلْوَى. | Konfession s. f. christl. طَائِفَة | دينِيَّة. | Konfirmation s. f. christl. تَثْبِيْت | مَيْرُون * | (في الدين الْمَسِيحِي) | Konfirmieren va. jn. christl. ثَبَّتْ s. | مَيْرَن * | Konfiskation s. f. ضَبَط الأَمْوَال | بَكْلَكَة * | حَجَز | اِحْتِكَار الأَمْوَال | Konfiszieren va. Vermögen i, u ضَبَط | حَجَر u ه | الأَمْوَال | Konfitüren s. pl. مُرَبَّبات pl. مُرَبَّب | حَلْوَى pl. | مُرَبَّبَات pl. مُرَبَّبِي * | حَلَاوَى. | Konflikt s. m. مُشَاجَرَة. | Konföderation s. f. مُعَاهَدَة | Konföderiert a. مُتَعَاهِد. | Konfrontation s. f. der Zeugen | Konfrontieren va. Zeugen جَمَعَ a يَبْن الشُّهُود | جَمَعَ a يَبْن الشُّهُود | Konfus a. مُتَخْتَلِط | مُتَلَبِّس | مُتَلَبِّس | اِلْتِبَاس | اِحْتِلَاط s. f. | مُرْتَبِك | تَحْيِر | اِرْتِبَاك | هَوَشَة. | Kongress s. m. مُؤْتَمَر.
- pl. مُلُوك | سلطان | (im Schachspiel) pl. سَلَاطِين - | شاه | jn. zum - machen s مَلِك | زَوْجَة | سلطانَة | مَلِكَة -in s. f. | وزير (im Schachspiel) | مَلِك | مَلِكِي | مُلُوكِي * -lich a. | فِرْزَان | reich s. n. | لَائِق بِمَلِك | سلطانِي | sferze s. f. | مَمَلِكَة pl. مَمَالِك -swürde s. f. | بُوَصِير | سَكْر الحوت | مَلِكِيَة | مَلِكَة | مُدْك | سُلْطَة s. f. | -tum s. n. f. -swürde.
- صَنُوبَرِي | مَخْرُوطِي a. math. | Konjektiv s. m. gr. صِبِيغَة اِلْمَكَان. | Konjunktiv s. m. gr. جُوف pl. جُوفَاء f. اَجُوف. | Konjunktio s. f. gr. حَرْف العَطْف. | Konjunktio s. m. gr. صِبِيغَة اِلْمَكَان. | Konjunktio s. m. gr. جُوف pl. جُوفَاء f. اَجُوف. | Konjunktio s. n. kath. تَجْمَع الكَرَادِلَة | لِانْتِخَاب البَابَا. | Konjunktio s. n. kath. عَهْد دِيْنِي | يَبْن البَابَا وَمَلِك. | Konjunktio a. gr. عَيْنِي s. n. pl. | Konjunktio gr. اَسْمَاء pl. اِسْم عَيْن.

Konfubinat s. n. تَسْر | Konfubine
s. f. سَرَارِيَّ pl. سَرَارِيَّ.

Konfurrent s. m. مُجَارٍ | مُجَارٍ
| غُرْمَاء pl. غُرْمَاء | مُعَايِرٍ | مُبَارٍ

Konfurrenz s. f. تَغَايُرِيَيْنِ التُّجَّارِ

Konfurrieren vn. mit jm. سَابِقٌ |
غَايِرٌ.

Konkurs s. m. (Wettbewerb) سِبَاقٍ |
مُسَابَقَةٌ | - eines Kaufmanns

(Bankbruch) اِنْكَسَارٍ | اِفْلَاسٍ تَاجِرٍ
- machen, in - geraten اَفْلَسَ |
اِنْكَسَرَ.

können va. etw. (Kraft haben zu)
طَاقٌ u ه | اِسْتِطَاعَةٌ ه | قَدْرٌ i عَلَى

(möglich sein) اَطَاقٌ | وَعَلَى
es kann sein تَمَكَّنَ مِنْ | اَمْكَنَ
(gelernt haben) etw. يُمَكِّنُ | -

nicht اَحْسَنَ ه | عَرَفَ i ه
er تَعَبَ a | قَصَرَ عَنْ - mehr
kann nicht dafür هَذَا لَيْسَ
بِذَنْبِهِ.

Konnoffement s. n. وَرَقَةُ الشَّحْنِ |
بَوْلِصَّةِ الشَّحْنِ*.

Konsequenz s. f. نَتِيجَةٌ pl. نَتَائِجٌ.

Konservativ a. مُحَافِظٌ.

Konservatorium s. n. mus. مَدْرَسَةٌ
المُوسِيقَى.

Konserve s. f. مَرْبَبٌ pl. مَرْبَبَاتٌ |
مَرْبِيَّاتٌ pl. مَرْبِيَّاتٌ *
Konservieren
va. etw. ه اَحْفَظُ ه | اَبْقَى ه.

Konfistorium s. n., pl. -ien christl.
مَجْمَعُ الكَهَنَةِ.

Konfcription s. f. اِكْتِتَابٌ | تَجْنِيدٌ
قُرْعَةٌ*.

Konsole s. f. مِسْنَدٌ pl. مَسَانِدٌ |
كُونُصُولٌ*.

Konsonant s. m. gr. حَرْفٌ pl. حُرُوفٌ.

Konforte s. m. شَرِيكَ فِي ذَنْبٍ pl.
شُرَكَاءٌ.

Konspiration s. f. تَأْمُرٌ | Konspirieren
vn. تَأْمَرَ.

Konstabler s. m. ضَابِطِيٌّ * pl.
ضَابِطِيَّةٌ.

Konstant a. دَائِمٌ.

Konstantinopel n. pr. اَلْقُسْطَنْطِينِيَّةُ |
اَلْاِسْتِنَانَةُ | اِسْلَامْبُولُ | اِسْتَنْبُولُ
دار السَّعَادَةِ.

Konstatieren va. etw. ه حَقَّقَ ه.

Konstellatation s. f. astr. مَجْمُوعُ نُجُومٍ |
بُرُوجٍ pl. بُرُوجٍ.

Konstituieren va. etw. ه اَنْسَسَ ه |

Konstitution s. f. رَكْبٌ ه | اَقَامَ ه

اَمْرَاجٍ | جِبِلَّةٌ | بِنِيَّةٌ (-Körper-)

قَانُونٌ (-Staatsverfassung) -

- Konstitutionell a. (verfassungsmäßig) موافق القانون الأساسي.
- Konstruieren va. etw. (bauen) بَنَى i ه | gr. - رَكَّب ه | Konstruktion s. f. (Bau) - (des Satzes) gr. تَرْكِيب الْجُمْلَةِ.
- Konsul s. m. قُنَاصِل pl. قُنُصُل * | arisch a. قُنُصِلِي | -at s. n. -atsdiener | كُنْشَلَارِيَّة * | قُنُصْلَاتُو * s. m. قَوَاصِ الْقُنُصْلَاتُو * | -atsdragoman s. m. تَرْجُمان الْقُنُصْلَاتُو *.
- Konsultation s. f. مُشَاوَرَةٌ | استشارة | Konsultieren va. jii. استفتى ه | استشار ه في über.
- Konsum s. m. يَبِع | نِفاق | رَوَاج | -ient s. m. مُشْتَرٍ لِحَاجَتِهِ | -ieren va. etw. ه | أَنْفَض ه.
- Konterfei s. n. صُور pl. صُورَةٌ شَخْصِي | -en va. jii. ه | صُور ه.
- Kontinent s. m. يَبِس | قَارَةٌ | بَرّ.
- Kontingent s. n. حِصَّة pl. حِصَص.
- Konto s. n. حِسَاب | -buch s. n. دَفَاتِر pl. دَفَاتِرِ التَّاجِرِ comm. | تَحَاسِب comm. s. n. -current.
- Kontor s. n. مَكَاتِب pl. مَكْتَب تَاجِرٍ | -ist s. m. مُسْتَحْدِمٌ فِي مَكْتَبِ تَاجِرٍ.
- Kontrahent s. m. مُتَعَاقد | مُشَارِط | Kontrahieren va. Schulden اِسْتَدَانَ | أَوْقِر دَيْنًا.
- Kontrakt s. m. عَهْد pl. عُهُود | اِتِّفَاق | مُعَاهَدَةٌ | عَقْد pl. عُقُود | einen - schließen عَقَدَ i عَقْدًا.
- Kontrast s. m. تَضَادّ | einen - bilden | تَنَاقُض | تَخَالَف | f. Kontrastieren | -ieren vn. تَضَادّ | تَنَاقُض | تَخَالَف.
- Kontravention s. f. مُخَالَفَةُ الشَّرِيعَةِ | تَعَدَّى فِي الشَّرِيعَةِ | مُجَاوِزَةُ الشَّرِيعَةِ.
- Kontrebande s. f. بِضَاعَةٌ مُهَرَّبَةٌ | مِنَ الْكُمُوكِ.
- Kontrebaß s. m. كَمَنَاجَةٌ كَبِيرَةٌ.
- Kontretanz s. m. نَوْعٌ مِنَ الرَّقْصِ.
- Kontribution s. f. (Kriegssteuer) غَرَامَات pl. غَرَامَةٌ تُدْفَعُ لِلْعَدُوِّ.
- Kontrolle s. f. تَفْتِيشُ الْإِدَارَةِ | مُفْتِشٌ s. m. كُونْتَرُولِيرُ | تَحْقِيق | فَحَصَ a عن | فَتَّش ه.
- Kontumaz s. f. تَعْيِيبٌ عَنِ الْمَحْكَمَةِ.
- Konvenienz s. f. مُوَافَقَةٌ | Konvenieren vn. لَاقَ i بِهِ | نَاسَبَ ه | وافق ه jii. | لِيَقَ * |

Konvent s. m. مَجْلِسٌ وَكَلَاءُ الْأُمَّةِ |
في فَرَنْسَا.

Konventikel s. n. جَمَاعَةٌ سِرِّيَّةٌ.

Konvention s. f. عُقُودٌ pl. |
اتِّفَاقٌ | عُهُودٌ pl. عَهْدٌ.

Konvergieren vn. i مال.

Konversation s. f. مُحَادَثَةٌ |
مُخَاطَبَةٌ | -lexikon s. n. دَائِرَةُ
المَعَارِفِ | Konversieren vn. mit
jm. حَادَثَ هـ | حَاوَرَ هـ.

Konversion s. f. (Umwandlung der
Schuld zc.) تَحْوِيلُ الدَّيْنِ مِثْلًا
إِهْتِدَاءٌ (Befehring) - | اسْتِحَالَةٌ
Konver- | إِلَى الْإِيمَانِ الصَّحِيحِ
tieren va. (umwandeln) Schuld
vn. | اسْتِحَالَ هـ | حَوَّلَ الدَّيْنِ
إِهْتَدَى إِلَى (sich befehren) -
الْإِيمَانِ الصَّحِيحِ.

Konver a. مُقَبَّبٌ | مُسَنَّمٌ | مُكَدَّبٌ |
تَقَبَّبَ | حَدِبَ a - sein.

Konvikt s. m. kath. مَدْرَسَةٌ
إِكْلِيرِيكِيَّةٌ*.

Konvulsivisch a. ذُو رِعْشَةٍ | ذُو رَجْفَةٍ |
Konvulsion s. f. رِعْشَةٌ | رَجْفَةٌ |
اضْطِرَابٌ.

Konzentration s. f. ضَمٌّ | جَمْعٌ |
Konzentrieren va. etw. هـ a جَمَعَ |

هـ u ضَمٌّ | Konzentrisch a., -e
Kreise ذات مَرْكَزٍ وَاحِدٍ.

Konzept s. n. مُسَوِّدَةٌ | Das - ver-
lieren, aus dem - kommen تَحْيِيرٌ |
jm. aus dem - bringen هـ حَيَّرَ.

Konzert s. n. (Übereinstimmung)
اتِّفَاقٌ | - mus. نَعْمٌ pl. أَنْعَامٌ |
ein - | نَوْبَاتٌ pl. نَوْبَةٌ* | إِيغَاعٌ
geben f. -ieren | -ieren vn. غَنَى |
أَوَقَعَ فِي نَوْبَةٍ.

Konzession s. f. رُخْصَةٌ | سَمَاحٌ |
مُسَامَحَةٌ | jm. eine - machen in
etw. فِي رَخَّصَ لَهُ | sich gegen-
seitig -en machen تَسَامَعَ.

Konzil s. n. kath. مَجْمَعُ الْأَسَاقِفَةِ.

Kooperation s. f. مُسَاعَدَةٌ | Koope-
rieren vn. mit jm. هـ سَاعَدَ هـ.

Kopal s. m. سِنْدَرُوسٌ.

Körper s. m. نَسِيجٌ مُشَبَّكٌ.

Kopf s. m. رَأْسٌ pl. رُؤُوسٌ | قَادِمٌ
| عَقْلٌ (Verstand) - | قَوَادِمٌ pl.
den - heben اِرْفَعَ رَأْسَهُ a | bld.
| تَشَجَّعَ | er hat einen harten -
| هُوَ عَنِيدٌ | هُوَ ثَقِيلُ الْفَهْمِ
den - hängen lassen a يَيْسَسُ |
jm. den - waschen هـ وَبَّخَ هـ | jm.
den - verdrehen هـ عَنْ أَبْعَدَ هـ

im. | سَلَب u عَقَلَهُ | الصَّوَاب
 etw. in den - setzen في الْقَى ه
 im. in den - steigen | ذِهْنِهِ
 (Wein) | أَسْكِرَهُ (الْخَمْرُ) | sich-über
 in etw. stürzen في | اِقْتَحَمَ | mit
 dem - gegen die Mauer rennen
 wollen | قَصَدَ i | den - ver-
 lieren | عَقَلَهُ | auf seinem
 - bestehen | اِسْتَمَرَّ عَلَى مُرَادِهِ
 meinem-! | عَلَى رَأْسِي | اَعْلَى حَيَاتِي
 aus dem - | ظَاهِرًا * | اَعْلَى الْغَائِبِ
 den - hoch tragen | تَكَبَّرَ | über
 Hals u. - | مُسْرِعًا | -binde s. f.
 عَصَائِبِ pl. | عَصَابَةٌ
 Köpfen va. im. | قَطَعَ a رَأْسَهُ | ضَرَبَ i
 عُنُقَهُ
 Kopf-geld s. n. | جِزْيَةٌ pl. | جِزْيَى
 -hänger | ضَرَائِبِ pl. | ضَرِيْبَةٌ
 s. m. | مُنَافِقِ | -hängerei s. f.
 | مِخْدَةَ s. n. | مُنَافِقَةٌ
 -los | وُسْدِ pl. | وَسَادِ | خُدَيْدِيَّةٌ
 | اَعْدِيمِ النَّامِلِ | اَعْدِيمِ الرَّأْسِ a.
 -nicken s. n. | اِنْجِنَاءِ الرَّأْسِ
 | نَقْفَةٌ * | ضَرْبَةٌ عَلَى الرَّأْسِ s. f.
 -putz s. m. | زِينَةِ الرَّأْسِ
 s. m. | خَسِ | -scheu a.
 | مُجْفِلِ | اَجْفِلِ | schmerz s. m.

-[schütteln] | اَوْجَاعِ pl. | وَجَعَ الرَّأْسِ
 s. n. | هَزَّ الرَّأْسِ | -steuer s. f. f.
 | صَوْتِ حَادِّ وَعَالِ | -stimmes. f. | -geld
 | مَنَادِيْلِ pl. | مَنَدِيْلِ s. n. | -tuch
 | -weh s. n. | -[schmerz].
 Kopie s. f. | نُسْخَةٌ pl. | نُسَخَ
 | نَسَخَ a ه | -ren va. etw. | صَوْرِ pl.
 Kopist s. m. | نَاسِخِ | كَاتِبِ pl.
 مُبَيِّضِ | كُتَّابِ
 Koppe s. f. | قِمَمِ pl. | قِمَمَةٍ
 Koppel s. f. (Degen-) | حِمَالَةُ السَّيْفِ
 | - (Zeit- der Hunde) | حِمَائِلِ pl.
 | - (Hunde, | مِقْوَدِ | حَبْلِ الْكِلَابِ
 Pferde) | اَوْ الْخَيْلِ | زَوْجِ الْكِلَابِ
 | -n va. etw. an | ه ب i, u | رَبَطَ
 | شَدَّ u ه ب
 Kopte s. m. | قِبْطِ coll. pl. | اَقْبَاطِ
 ein - | قِبْطِيّ pl. | قِبْطِيّ
 Kopula s. f. gr. | رَابِطَةٌ | -tion s. f.
 | تَكْلِيْلِ الْمُتَزَوِّجِيْنَ * (Trauung)
 kopulieren va. (trauen) ein Paar
 | كَلَّلِ الْمُتَزَوِّجِيْنَ *
 Koralle s. f. | مَرْجَانِ
 Koran s. m. | قُرْآنِ | das -exemplar
 الْمُصْحَفِ
 Korb s. m. | سَلِّ pl. | سَلَّةٌ
 | زُنْبِيْلِ | قُفْفِ pl. | قُفَّةٌ - großer

- pl. زَنَائِيل | jm. einen - geben
 a رَدَّ u خَائِبًا | رَفَضَ u أَبِي |
 einen - bekommen, sich einen -
 holen رَدَّ خَائِبًا | -flechter s. m.,
 -macher s. m. صَانِعِ السِّلَالِ | سَلَالٍ.
- Kordel s. f. حَبْلٌ pl. حِبَالٌ.
- Kordon s. m. von Soldaten صَفِّ عَسَاكِرِ.
- Koriander s. m. كَرْبُرَةٌ.
- Korf s. m. * فِلِينٌ | -baum s. m.,
 -eiche s. f. سِنْدِيَانٌ | -en va.
 (flasche) u هَمَّ | شَجَبَ u هَمَّ
 | فِلِينَةٌ * | -stöpel s. m. صَمَدٌ هَمَّ
 | -zieher s. m. بَرِيْمَةٌ * | pl. بَرِيْمَةٌ
 | بَرَاغِي.
- Kormoran s. m. zool. قُوُقٌ.
- Korn s. n. حُبُّوبٌ coll. pl. حَبٌّ |
 | حَبَّةٌ - | قَمَحٌ | غَلَاتٌ pl. غَلَّةٌ
 | حِنْطَةٌ سَوْدَاءُ (Roggen) - | قَمْحَةٌ
 | تُوْرَةٌ - | - der flinte
 | نِيْشَانُ البُنْدُقِيَّةِ | etw. auf dem
 | - haben, auf das - nehmen
 | نِيْشَانٌ هَمَّ * | سَدَدُ البُنْدُقِيَّةِ عَلَى
 | - s. m. (-branntwein) | قَصْدٌ i هَمَّ
 | تَرْنَجَانٌ | -blume s. f. bot. عَرَقٌ |
 | -boden | نُوْعٌ مِنَ أَزْهَارِ الحُقُوْلِ
 | -brand s. m. | شُوْنَةٌ الحُبُّوبِ s. m.
- branntwein s. m. عَرَقٌ.
- Kornett s. m. حَامِلُ البَيْرَقِ مِنَ الحَيَّالَةِ.
- Kornett s. n. أَبْوَاقٌ pl. بُوُقٌ.
- körnig a. مُرَكَّبٌ بِحُبُّوبٍ | ذُو حُبُّوبٍ.
- Korn-jude s. m. حَنَاطِائِيَهُوْدِيٌّ |
 -hammer s. f. | -boden | -schnaps
 s. m. | -branntwein | -wucherer
 s. m. حَكِرٌ.
- Körper s. m. phys. أَجْرَامٌ pl. جِرْمٌ |
 | أَجْسَامٌ pl. جِسْمٌ (menschlicher)
 | أَبْدَانٌ pl. بَدَنٌ | أَجْسَادٌ pl. جَسَدٌ
 | جَمْعِيَّةٌ | جَمَاعَةٌ (Körperschaft)
 | -fülle s. f. سَمَانَةٌ | سَمَنٌ | -lich
 | جِسْمِيٌّ | جَسَدَانِيٌّ | جَسَدِيٌّ a.
 | جَمْعِيَّةٌ | جَمَاعَةٌ s. f. | -schaft
 | جَرْحٌ | -verletzung s. f. طَائِفَةٌ
 | الجِسْمِ.
- Korporal s. m. * أَوْنٌ باشِيٌّ türkf.
- Korporation s. f. | Körperschaft.
- Korps f. Corps.
- corpulent a. بَدِيْنٌ | بَادِنٌ | سَمِيْنٌ |
 | غَلِيْظٌ | جَسِيْمٌ | شَخِيْصٌ | سَمِيْكٌ
 | ضَخْمٌ u | سَمِيْنٌ a | - fein | ضَخْمٌ
 | سَمَانَةٌ | سَمَنٌ s. f. | Korpulenz
 | بَدَانَةٌ.

- forreft a. مُدَقِّق | -heit s. f. تَدْقِيق.
- Korrektor s. m. مُصَحِّح | مُصْلِح |
 Korrektur s. f. إِصْلَاح | مُنَقِّح
 Korrekturbogen | تَنْقِيع | تَصْحِيح
 s. m. مُسَوِّدَة.
- Korrespondent s. m. مُرَاسِل | مُكَاتِب
 Korrespondenz s. f. مُكَاتَبَة |
 korrespondieren vn. mit
 jm. ۛ | رَاسَلَ ۛ | كَاتَبَ ۛ | (über-
 einstimmen) وَافَقَ.
- Korridor s. m. مَمَاشِي pl. مَمَاشِي *
 دِهَالِيَز pl. دِهَالِيَز.
- Korrigieren va. etw. ه | أَصْلَحَ ه |
 نَقَّحَ ه.
- Korrumpieren va. jm. u. etw. ه |
 أَسَاءَ ه و ه | أَفْسَدَ ه و ه
 in. (bestechen) ۛ | رَشَا ۛ u
 Korrupzion | بَرَطَل ۛ | رَشَا ۛ u
 s. f. فَسَاد | رَشْو | فَسَاد.
- Korsar s. m. قَرَاصِين pl. قُرْصَان.
- Korsett s. n. قَرُصِيَّة * | مِشْد |
 صُدِيرِي لِلسِّنَات *.
- Korvette s. f. mar. نَوْع مِّن السُّفُن
 نَقَائِر pl. نَقِيرَة * | الحَرِيَّة
- Koryphäe s. f. مَشْهُور فِي صِنَاعَة
 أَوْ فَنٍّ أَوْ عِلْمٍ.
- Kosten vn. mit jm. ۛ | لَاطَفَ ۛ.
- Kosinus s. m. math. سَيْم
 (في الهندسة) pl. سِيَام.
- Kosmetikum s. n. دُهْن لِتَحْسِين
 غُمْرَة | الجِلْد.
- Kosmo-graph s. f. عَالِم بِرَسْم العَالَمِ.
 -graphie s. f. رَسْم العَالَمِ |
 -graphisch a. مُتَخَصِّص بِرَسْم العَالَمِ
 -polit s. m. مُحِبِّت جَمِيع البُلْدَان
 (Weltreisender) - - | وَأَهْلِهَا
 سَائِح | جَوَال.
- Kosmate, Kosäte s. m. قَرَوِي | قَرَوِي
 فَلَاح *.
- Kost s. f. (Essen) | طَعَام | غِذَاء | أَكَل
 مَعِيشَة | مَعَاش | قُوْت.
- Kostbar a. ثَمِين | كَثِير الثَّمَن
 -feit s. f. نَفِيس | مُثْمِن *
 (Wert) | - (kostbare Sache) | قِيَمَة
 نُحْفَة pl. نُحْفَة.
- Kosten va. etw. (probieren) ه | ذَاقَ ه u
 - (wert fein) | بِاعَ ه u. | بِاعَ ه u.
 كَلَّفَ كَذَا | سَاوَى كَذَا | بِكَذَا
 | wie viel kostet das? | قِيَمَتُهُ كَذَا
 نَفَقَة s. pl. كَوَسْتَن | بِكَمْ هَذَا
 | أَخْرَاجَ pl. خَرَجَ | نَفَقَاتَ pl.
 | مَصْرُوفَاتَ u. مَصَارِيْفَ pl. مَصْرُوف *
 | كَلَّفَ pl. كَلَّفَ * | كَلَّفَ *
 | عَلَى كَيْسِهِ * | بِنَفَقَتِهِ - feine

- anschlag s. m. تَقْدِيرُ الْكُلْفَةِ قَبْلَ
رَسْمٍ | تَسْعِيرٍ | مِيزَانِيَّةٍ | الْعَمَلِ
| بِنَاءٍ مَعَ تَقْوِيمِ النِّقَاطِ الْلازِمَةِ
-aufwand s. m. f. Kosten | -frei
a., -los a. مَدْفُوعٌ مَضْرُوفُهُ | مَجَّانًا
Kost-gänger s. m. مُوَدِّي مَالٍ لِلْأَكْلِ
-geld s. n. أَجْرَةٌ الْأَكْلِ | -haus
s. n. بَيْتٌ يَأْكُلُ فِيهِ الْإِنْسَانُ
بِأَجْرَةٍ.
föstlich a. لَذِيذٌ | عَظِيمٌ | جَيِّدٌ.
kostspielig a. f. kostbar.
Kostüm s. n. أَزْيَاءٌ pl. زِيٍّ | لِبْسِي.
Kostverächter s. m. صَعْبُ الْأَرْتِضَاءِ
فِي الْأَكْلِ.
Kot s. m. | خِرَاءٌ | خُرءٌ (Menschen-)
- (von Tieren) | بَعْرٌ (Straßen-)
وَحَلٌ pl. وَحُولٌ.
Kotelett s. n. ضِلْعٌ عِجْلٍ | كَسْتَلَاتَةٌ *
أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ غَنَمٍ.
Köter s. m. دِرْوَأَسٌ | كِلَابٌ pl. كَلْبٌ
pl. دَرَاوِيسِي.
Kothurn s. m. حِذَاءٌ كَانَ يُلْبَسِي فِي
الْمَرَايِسِ.
kotig a. مُوَحَّلٌ * | وَحِلٌ.
Koupee s. n. f. Coupee.
Koupon s. m. f. Coupon.
Kour s. f. f. Cour.
- Kousin s. m., Kousine s. f. f. Cousin,
Cousine.
Kouvert s. n. f. Couvert.
Krabbe s. f. سَرَطَانٌ بَحْرِيٌّ صَغِيرٌ
pl. سَرَاتِيبِيْنٌ | - (scherzhaft) طِفْلٌ
pl. أَطْفَالٌ.
krabbeln vn. u. دَبَّ | دَبَّبَ *
زُكْرَكَ قَلِيلًا * | دَعْدَعٌ.
Krach s. m. | طَقَّ | قَرَقَعَةٌ *
bld. (Bankbruch) اِنْكِسَارٌ | اِفْلَاسٌ.
krächzen vn. i, a. نَعَبَ | Krächzen
s. m. نُعَابٌ.
Kraße s. f. كُدْشٌ pl. كَدِيشٌ *
Kraft s. f. | قُدْرَةٌ | طَاقَةٌ | قُوَّةٌ -
| تَأْثِيرٌ | نَفُوذٌ (Wirkung)
in - setzen | اَنْجَزَ هُ | in - treten
اَنْجَزَ.
kraft praep. c. gen. ... اِبِمُقْتَضَى
-anstrengung s. f.,
-aufwand s. m. مَسَاعٍ pl. مَسَعَى
-brühe s. f. مَرَقَةٌ مُكْرَّرَةٌ | مَرَقٌ
kräftig a. شَدِيدٌ | قَوِيٌّ (Person)
- (Sache) | صُدْبُ الْعَصَا | الْقُوَى
-en va. in. u. etw. | مُؤَثِّرٌ | نَافِذٌ
- - sich | مَكْنَهُ وَهٌ | قَوَى هُ وَهٌ
تَمَكَّنَ | تَقَوَى
kraft-los a. ضَعِيفٌ | -losigkeit s. f.

- | عَصِيدَةٌ * | نَشَاءُ mehl - | ضُعْفُ
 | مِثْيَاسُ قُوَّةٌ * | meſſer s. m.
 | -ſuppe s. f. | -brühe.
- | ياقات pl. | ياقَةٌ * | Kragen s. m.
 | تَلْبِيبٌ | زَبِقٌ | قَبَاتٌ pl. | قَبَّةٌ *
- | زِبْغَانٌ pl. | زَاغٌ s. f. | Krähe s. f.
 | غُرَابٌ صَغِيرٌ | قَيْغَانٌ pl.
 | صاح (الديك) | فرَهِنَ vn. | غُرْبَانٌ
 | زَقَا u | صَقَعَ a | زَقَعَ a
 | خَرَبَشَةٌ * | füße s. pl.
- | آلة لِرَفْعِ الْأَثْقَالِ. | Krahn s. m.
- | مُشَاجِرَةٌ | خِصَامٌ s. m. | Kraheel s. m.
 | خَانِقٌ * | شَاجِرٌ vn. | -en
 | شَرِبِسٌ | خِصَمٌ s. m.
- | مَخَالِبٌ pl. | مِخْلَبٌ s. f. | Kralle s. f.
 | بَرَاثِنٌ pl. | بُرْتِنٌ
 | خَرْمَشٌ * | ظَفَرٌ * | خَلَبٌ i *
- | بَضَائِعٌ | تَسَبُّبٌ * | Kram s. m.
 | دُكَّانٌ بِيَّاعٌ | -bude s. f. | خُرْدَةٌ *
 | بَلْبَلٌ مُفْتِشًا | -en vn. | دَكَكِيْنٌ
 | خَرَبَطٌ مُفْتِشًا.
- | تَجَّارٌ pl. | تَاجِرٌ صَغِيرٌ s. m. | Krämer s. m.
 | خُرْدَجِيَّةٌ pl. | خُرْدَجِيٌّ *
 | مَنْ لَا مَيْلَ لَهُ إِلَّا لِلرُّبْحِ s. f.
 | التِّجَارِيُّ.
- | تِجَارَةٌ صَغِيرَةٌ s. m. | Kram-handel s. m.
 | -laden s. m. | -bude.
- | كُرَّازٌ | تَشَنُّجٌ | شَنَجٌ s. m. | Krampf s. m.
 | رَحَاوَةٌ عِرْقٌ | -ader s. f. | تَعْرِقُلٌ *
 | -en v. | نِجِدٌ | دَوَالٍ pl. | دَالِيَّةٌ *
 | شَنِجٌ | -haft a. | دَوْرَجْفَةٌ a
 | دُوْرِعْشَةٌ.
- | دَجَاجٌ بَرِّيٌّ. | Krametsvogel, Krammetsvogel s. m.
- | رِهَاءٌ pl. | رَهُوٌ s. m. | Kranich s. m.
 | كُرَاكِيٌّ pl. | كُرْكِيٌّ
- | سَقِيمٌ | مَرِيضٌ a. | krank a.
 | -sein od. werden | عَيَّانٌ *
 | -machen | سَقِمَ a | مَرَضَ a
 | -stellen | أَعْلَى * | أَسْقَمَ *
 | -lachen | سِجِدَ | تَمَارَضَ
 | عَلَى الْقَفَا ضِحْكًَا.
- | سَقِمَ a قَلِيلًا. | fränkeln vn.
- | مَرِيضٌ a | سَقِمَ a. | franken vn.
- | شَوَّشٌ بِالْهَاءِ | شَغَلَ a. | fränken va. jii.
 | هَمٌّ u * | أَرْعَجَ * | هَمٌّ u * | بِالْهَاءِ
 | -über | بَ | تَشَغَلَ | سِجِدَ -
 | صَدْرُهُ | بِالْهَاءِ | تَكَدَّرَ | ضَاقَ i
- | فِرَاشٌ الْمَرِيضِ s. n. | Kranken-bett s. n.
 | مُسْتَشْفَى | -haus s. n. | مَرِيضٌ
 | -lager s. n. | -bett | اسْبِتَالِيَّةٌ *
 | مَلْرِيضٌ s. f. | -pflege s. f.
 | حَارِسٌ s. m., -wärtter s. m. | -pfleger
 | مَلْرِيضٌ | خَادِمٌ مَلْرِيضٌ | مَلْرِيضٌ

Frankhaft a. مِمْرَاض | مِسْقَام.

Krankheit s. f. مَرَض pl. أَمْرَاض |

eng. داء | سَقَم | عِلل pl. عِلَّة

lische - كَسَح الأَطْفَال | عَجَز الأَطْفَال -

-sanfall s. m., -szufall s. m.

عارِض pl. عَوَارِض | عِدَاد | دَوْر

نَوْبَة.

fränklich a. مِمْرَاض | مِسْقَام -feit

s. f. حال السَّقِيم.

Kränkung s. f. كَدْر | هَم.

Kranz s. m. أَكْلِيل pl. أَكْلِيل

Kränzchen s. n. أَكْلِيل صَغِير |

- (von Personen) جَمْعِيَّة |

fränzen va. ju. كَلَّل s.

Krapfen s. m. فَطِيرَة pl. فَطَائِر.

Krapp s. m. عُرُوق حُمْر | قُوَّة

عُرُوق الصَّبَاغِين.

Kraß a. قَوِيّ | غَلِيظ.

Krater s. m. فُوَهَة بُرْكَان.

Krätze s. f. جَرَب | die - haben

a جَرَب.

Krazen va. ju. حَكَّ u | خَدَش i s

- (von der Kratze) دَعَكَ a s

خَرَبَش.

Kräger s. m. نَبِيذ دُون.

Kraßfuß s. m. خُضُوع.

fräßig a. جُرْب pl. جُرْبَاء f. أَجْرَب.

Frauen va. f. Krazen.

Kraus a. جَعَد | مُجَعَّد | مُفْلَل | قَط.

Krause s. f. نُخْرِيْمَة فِي مُقَدَّم القَمِيص.

Kräuseln va. جَعَد الشَّعْر Haar

قَصَب ه | زَرْقَن ه | عَكْف ه

fich - (Meer) | تَقَرَّد | نَجَعَد -

إِعْرُورَف البَحْر | تَار i البَحْر

Krausmünze s. f. نَعْنَع | نَمَام.

Kraushaar s. n., Krauskopf s. m. قَط.

Kraut s. n. (grünes) عُشْب pl.

- | خُضْر pl. خُضْرَة | أَعْشَاب

(trocknes) حَشِيئَة coll. | ein -

-junfer | حَشَائِش pl. حَشِيئَة

s. m. رَجُل يَلِيْد شَرِيْف النَسَب

صَاحِب ضِيْعَة.

Kravatte s. f. بِنْبَار * | نَصْبَة لِلْعُنُق

pl. عَصَبَات.

Krawall s. m. هَوْشَة pl. هَوْشَات.

Kreatur s. f. مَخْلُوق pl. مَخْلُوقَات.

Krebs s. m. سَرَطَان pl. سَرَاتِيْن |

-en | سَلَاطِعِيْن pl. سَلْطَعُون *

vn. سَرَاتِيْن i صاد | -gang s. m.

-geschwür s. n., -schaden | قَوْبَقْرَة

s. m. med. آكِلَة | سَرَطَان.

Kredenzen va. ju. Wein له قَدَم

خِرَانَة | Kredenztiſch s. m. الخَمْر

لَأَدَوَات الطَّعَام.

- Kredit s. m. مال للتاجر في الحساب | ما للتاجر في الحساب
| صيت في وفاء الحقوق | كريدتو*
etw. auf - geben, verkaufen
| etw. auf - باع i ه | بالدئين
nehmen, kaufen | اشتري ه | بالدئين
jm. einen - eröffnen | له a | آذن
jm. einen - eröffnen | brief s. m. | في قبض المبلغ كذا
سفتجة | ورقة يُدفع مُبلغُ حاملها
| وثائق pl. | وثيقة* | سفائح pl.
-ieren va. jm. etw. له i ه | باع
| دائن s. m. | -or s. m. | بالدئين
- Kreide s. f. طباشير | -n va. etw.
| كتب u ه | بالطباشير
- Kreis s. m. دائرة pl. دوائر |
| (Bezirk) - | دور pl. | دائرة | أطر pl.
| إقليم* | مقاطعات pl. | مقاطعة
| قضاء (in der Türkei) | أقاليم pl.
-abschnitt s. m. math. | قطعة
| الدائرة pl. | قطع.
- kreischen vn. u | صرخ | i | صاح | a | زعق.
- Kreisel s. m. خذاريق pl. خذروف |
| يرامع pl. | يرمع | دوامة | خرازة
- kreiseln vn., kreisen vn. u | دار |
| u | جال.
- Kreis-lauf s. m. دوران | دور | -stadt
s. f. | عاصمة المقاطعة | -tag s. m.
| مجلس المقاطعة
- kreisen vn. (frau) | كان u في طلق
| كان في منحاض | (امرأة)
- Krempe s. f. (Hut- etc.) حاشية
| حواش pl. | البرنيطة مثلاً
- Krempel s. m. حفش pl. | أحفاش
| أطمار pl. | طمر
- Kreole s. m. مَوْلود في
| أميركا
- krepiereu vn. | تفرر (Tier) u | مات
| (حيوان).
- Krepp s. m. كرىشة
- Kressje s. f. bot. | جرجير |
| قرّة العين | قرّة
- Kreta n. pr. | كريت |
| ناقص البنية | ساء s. m. | كرتين
- Kreuz s. n. صليب pl. | صلبان
| بلايا pl. | بليّة (Unglück) -
| نيشان* (Ordens-) - | Ende
des Rückgrates) | عجب pl. | عجوب
| أصلب pl. | أصلب | أعجاز pl. | عجز
| ورقة البستانة (im Kartenspiel) -
| in. ans - | schlagen
| بستانى
s i | صلب | -band s. n., unter -
| مستقيم للغاية | -brava | في ربطة
-en | بربريش* | bot. s. m. | doru

- va. Arme | شَبَّكَ اليَدَيْنِ - Beine
 | تَرَبَّعَ فِي الجُلُوسِ | den Weg -
 | قَطَعَ a الطَّرِيقِ | die Absicht -
 | عَارَضَ القَصْدَ | vn. - (Schiff)
 | بَلَّطَ * | جال u في البَحْرِ (مَرْكَبٌ)
 -er s. m. (Schiff) | نَوَّعَ مِنَ المَرَاكِبِ (Schiff)
 | مَبْلَطَ * | الحَرِيَّةِ (Münze)
 | مِنَ المَسْكُوكَاتِ الأَمَانِيَّةِ القَدِيمَةِ
 | عُودَ الصَّلِيبِ s. m. -es | stammt
 | تَصَلَّبَ | صَلَّبَ s. m. -estod
 | صَلِيبِيَّةَ pl. صَلِيبِيٌّ s. m. -fahrer
 | مُجَاهِدٌ فِي حَرْبِ الصَّلِيبِ | fahrt
 | - | -zug | -feuer s. n. | إطلاق s. f. |
 | المَدَافِعِ مِنَ جِهَتَيْنِ | fidel a.
 | مَسْرُورٌ جِدًّا | -fragen s. pl.
 | أَسْئَلَةٌ مُتَشَبِّهَةٌ | -gang s. m.
 | رُوقٌ دَبِيرٌ (eines Klosters) | pl.
 | أَرُوقَةٌ u. رُوقَاتٌ | -igen va. jn.
 | صَلَّبَ s | صَلَّبَ s | -igung s. f.
 | ضَنِيكٌ | -lahm a. | تَصَلَّبَ | صَلَّبَ
 | -otter s. f. | عَيَّانٌ * | كَالِ | طَلِيحٌ
 | -ritter s. m. | أَفَاعٍ pl. | أَفْعَى zool.
 | -spinne s. f. zool. | فَارِسٌ صَلِيبِيٌّ
 | -ung s. f. | نَوَّعَ مِنَ العَنُكَبُوتِ
 | مَشْرَعٌ pl. | -weg s. m. | تَشْبِيكٌ
 | مَفَارِقٌ pl. | مَفْرِقٌ | مَشَارِعٌ
 | مَوْضُوعٌ عَلَى شَكْلِ صَلِيبٍ a.
- * حَرْبُ الصَّلِيبِ | zug s. m. | مُصَلَّبٌ
 | جِهَادٌ | حُرُوبٌ pl.
 | تَحَرَّكَ فِي (wimmeln) | فرببلن vn.
 | - (jucken in der Haut) | حَفَلَ
 | نَمِلٌ a.
 | دَبَّ | دَبَّ | دَبَّ | bld. | friechen vn. u
 | تَذَلَّلَ لَهُ - | Kriecher | vor jn.
 | مُتَذَلَّلٌ | Kriecherei s. f. | s. m.
 | تَذَلَّلَ.
 | حَرْبٌ pl. | حُرُوبٌ | Krieg s. m.
 | جِهَادٌ - | هَيْلِجٌ | قِتَالٌ | führen
 | حَارَبَ s | حَارَبَ | mit jn. od. gegen jn.
 | قَاتِلٌ | ein Land mit - überziehen
 | غَزَا u البلاد.
 | اسْتَنَمَ هُ | أَخَذَ هُ | friegen va. etw.
 | قَبَضَ i عَلَى.
 | (Krieg führen) mit jn. | friegen vn.
 | قَاتِلٌ s | حَارَبَ s | unter einander -
 | تَقَاتَلَ | كَرِبٌ | Krieger s. m.
 | مَحَارِبٌ | غَزَاةٌ pl. | غَازٌ | مقاتل | محارب
 | حَرْبِيٌّ | جِهَادِيٌّ | a. | كَرِبِيٌّ | Kriegerisch
 | غَزَوِيٌّ.
 | الحَرْبِ | الحَرْبِ | Krieger-artikel s. m.
 | قَوَانِينٌ | -sbedarf s. m. | لَوَاظِمٌ pl.
 | الحَرْبِ | -sdienst s. m. | الجُنْدِيَّةُ |
 | تَجَنَّدَ | -e nehmen | -serklärung
 | إِشْهَارُ الحَرْبِ | الحَرْبِ | نَصَبُ | s. f.

-sfall s. m. | مُعَالِنَةٌ بِالْحَرْبِ
 -sfuß s. m. | حال الحَرْبِ -sge-
 fangen a. | أُسِيرَ فِي الحَرْبِ pl.
 | أُسْرَاءُ -sgefangenschaft s. f. |
 -sgericht s. n. | مَجْلِسُ حَرْبِيّ
 -sgesetz s. n. f. | -sartifel | -sherr
 s. m. | قَوَادٍ فِي الحَرْبِ pl.
 -sfnecht s. m. | عَسَاكِرِ pl.
 -sfunft s. f. | فَنُّ الحَرْبِ -slist s. f.
 -smacht | حِيَلٌ فِي الحَرْبِ pl.
 s. f. | جَيْشِيّ -sminister s. m.
 وزير الحَرْبِيَّةِ | نُظَّارٌ pl. الحَرْبِيَّةِ
 pl. | وُزَرَاءُ -sministerium s. n. pl.
 | وِزَارَةُ الحَرْبِيَّةِ | -ien
 -srat s. m. | مَجْلِسُ الحَرْبِ
 | مُسْتَشَارُ الحَرْبِ (لقب) (Titel)
 -srecht s. n. | قَوَانِينُ الحَرْبِ
 -schauplatz s. m. | مِيدَانُ الحَرْبِ
 -schiff s. n. | مُقْتَتَلٌ | مَعْزَى
 بَارِجَةٌ | سَفِينَةٌ حَرْبِيَّةٌ pl.
 | بَوَارِجٌ pl. -swesen s. n.
 | الحَرْبِ -swissenschaft s. f. f.
 -sfunft | -szug s. m. | غَزَاةٌ pl.
 غَزَوَاتٌ.

Kriekente s. f. | بَطٌّ بَرِّيّ.

Friminal a., Friminell a. | مُتَعَلِّقٌ
 عَالِمٌ بِالْأَحْكَامِ -ist s. m. | بِالْجِنَايَةِ

-foder s. m. pl. | -fodices
 العَدْلِيَّةُ | مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّةُ.

Kringel s. m. | رِقَاقٌ pl. رِقَاقٌ |
 قَرَاقِيشٌ pl. قَرُقُوشَةٌ *

Krippe s. f. | مِذْوَدٌ pl. مِذَاوِدٌ |
 مَعَالِفٌ pl. مَعَالِفٌ.

Krise s. f., Krisis s. f., pl. -fen
 | عُسْرَةٌ وَقْتِيَّةٌ | ارْتِبَاكٌ وَقْتِيّ
 - med. | عَوَارِضٌ pl. عَوَارِضٌ | بُحْرَانٌ
 قُطُوعٌ *

Kristall s. m. f. | Krytall.

-er | تَنْقَبٌ | اِنْتِقَادٌ *
 Kritis s. f. | اِنْتِقَادِيّ *
 s. m. | مُنْتَقِدٌ *
 fritisch a. | نَقَادٌ * | مُنْتَقِدٌ *
 (gefährlich) | اِنْتِقَادِيّ * | مُنْتَقِدٌ *
 fritisieren va. | عَسِيرٌ | خَطَرِيّ
 | حَكَمٌ u فِي | اِنْتَقَدَ ه *
 etw. | تَنْقَبَ عَن (tadeln) etw.
 دَمَّ u ه.

Krittelei s. f. | عَيْثٌ | fritteln vn.
 | عَيْثٌ | Krittler s. m. | عَابِثٌ.
 friteln vn. | خَرْبَشٌ * | أَسَاءَ الخَطِّ

Krokodil s. n. zool. | تِمْسَاحٌ pl.
 | تَبَاكٍ -sthränen s. pl. | تَمَاسِيحٌ

Krone s. f. | تَاجٌ pl. تَيجَانٌ |
 pl. | أَكْبَالِيْلٌ (Königswürde)
 | مَلَكَةٌ | مُلْكٌ | سُلْطَةٌ
 نَقْدٌ ذَهَبٌ (Münze) - | أَعْلَى الشَّجَرِ

امارك | einer Sache dat. | قِيمَتُهُ
die - aufsetzen ه | تَوَّج ه | كَلَّل ه
| etw. in der - (im Krön-
chen) haben قَلَبًا a سَكِرَ.

krönen va. in. ه | تَوَّج ه | كَلَّل ه
| etw. - ه كَمَّل ه.

Kron-erbe s. m. | وليّ العَهْد -gut
s. n. مال المَلِك pl. | أموال
-leuchter s. m. | ثُرَيَّا pl. | مَنَارَةٌ
وليّ s. m. | مَنَائِر u. | مَنَاور
ZÖGÉ s. f. | العَهْد -prinzeßin
خَزَنَةٌ s. m. | -chat | وليّ العَهْد
| خَزَانَةُ المَلِك | المَلِك

Krönung s. f. | تَتْوِيح | تَكْلِيل.

Kropf s. m. (der Dögel) | حَوْصَل
| حَوَاصِل pl. | سِلْعَةٌ (-geschwulst)
| غُدَد pl. | غُدَّة في العُنُق | سِلْع pl.
-gans s. f. zool. | بَجَع | قُوف
| طَائِر السَّفَا*

Kröte s. f. | ضِفْدَع pl. | ضِفْدَع سَام
| سَامَةٌ

Krücke s. f. | عَكَكِيَز pl. | عَكَاز
| مَحَاجِن pl. | عَصَا s. m.
| مَقَامِع pl. | مِقْمَعَةٌ | مَحَاجِن pl.

Krug s. m. (gr.) | جَرَار pl. | جَرَّة
| أَبَارِيَق pl. | أَبَرِيَق (-kleinerer)
| أَكُوَاز pl. | قُلَّة pl. | قُلَل u.

خان (Dorfwirtshaus) - | قِلَال
| حَوَائِيَت pl. | حَانُوت | خانات pl.

Kruke s. f. | Krug.

Krume s. f. | لُبُّ الخُبْز pl. | لُبُوب
| تَفَّتَت vn. | كَرُمَلَن vn.

Krumm a. | عَوَج pl. | عَوَجَاء f. | أَعْوَج
| عَوَج a | - | مُنْحَن | مُعَوَّج
| عَوَجَاء.

Krümme s. f. | عَوَج | انْحِنَاء -n va.
| عَطَف i ه | حَنَى ه | عَوَج ه
| عَطَف | انْعَطَف | عَوَج a | - | اِنْعَطَف

Krummst. a. | أَقْنَى | Krummstab
| عَصَا pl. | عَصَى s. m. | أَقْنَى
| عَكَكِيَز pl. | عَكَاز

Krümmung s. f. | حِنَايَةٌ | انْحِنَاء
| عَوَج | عَطَف

Krupp s. m. (-husten) | ذُبَّة.

Kruppe s. f. (des Pferdes) | مَوْحَر
| الدَابَّة.

Krüppel s. m. | رَجُل كَسِيح * | مَكْرَسَح *
| مَكْرَسَح * | كَسِيح a. | -haft a., -ig a.

Kruste s. f. | قَشُور pl. | قَشُر (des
| شَوَايَةِ Brodes)

Kruzifix s. n. christl. | المَصْلُوب
| رُسُوم pl. | صَلْبُوب *

KrySTALL s. n. | بَلُّور -en a. | بَلُّور
| تَبَلُّور | تَجَمُّد s. f. | -isieren

- va. etw. ه | أَجْمَدُ ه | بَلُورُهُ * | fīch -- | pl. خَوَابٍ | قَضِيْبَا (-Schlitten-)
- تَبْلُورُ * | تَجْمَدُ | مَرْكَبٌ بِلا عَجَلٍ
- Kübel s. m. قَوَادِيسِ pl. قَادُوسٍ | Küber s. m. خَادِمٌ فِي قَبُو النَّبِيْدِ
- غُرْنَةٌ * | Kugel s. f. كُرَاتٍ pl. كُرَى u. كُرَّةٌ
- Kubif. مُكْعَبٌ | * | كَلَل pl. كَلَّةٌ * | (flinten-, Kanonen-)
- Kubif-meile s. f. مِيلٌ مُكْعَبٌ | | رِصَاصَةٌ * | pl. كَلَّةٌ * |
- meter s. n. مِثْرٌ مُكْعَبٌ | | بِنَادِقٍ u. بِنْدُقٍ pl. بِنْدُقَةٌ * | كَلَل
- s. f. math. جِدْرُ الكَعْبِ | | -ig a. مَرْكَبٌ بِكُرَى | كُرَوَى
- Kubisch a. مُكْعَبٌ | Kubus s. m. | vn. تَدْحَرَجٌ
- كِعَابٌ | كَعْبٌ | Kuh s. f. بَقَرَةٌ pl. بَقَرَاتٍ | -blume
- Küche s. f. مَطْبَخٌ pl. مَطْبَخَاتٍ | | s. f. bot. هِنْدِيْبَاءٌ بَرِيَّةٌ
- طِبَاخَةٌ | طَبَخَ (Kochen) - | * | dreck s. m., -fladen s. m.
- Kuchen s. m. قُرُصٌ pl. أَقْرَاصٌ | | اِرْجُلٌ بَقَرَةٌ - | fuß s. m. | زِبُلٌ بَقَرٌ
- فَطَائِرٌ pl. فَطِيْرَةٌ * | | مُنْدَقِيَّةُ العَسَاكِرِ (-schwarz-)
- bäcker s. m. كَعَكَتٍ pl. كَعَكٌ * | | مُبَرِّدٌ | بَارِدٌ | ذُو بَرْدٍ مُعْتَدِلٍ
- حَلَوَاتِيٌّ | حَلَوَاتِيٌّ | | e s. f. بُرُوْدَةٌ | مُرْتَبٌ
- Küchen-fee s. f. طِبَاخَةٌ | -garten | -en va. etw. ه | بَرْدٌ ه
- s. m. بَسَاتِيْنٍ pl. بُسْتَانٌ | | sein Mütchen - an jm.
- s. m. اَمِيْرٌ المَطْبَخِ | -zettel s. m. | | eimer s. m., -faß
- أَشْكَالُ الاَطْعَمَةِ | | s. n., -gefäß s. n. | اِنَاءٌ لِلتَّبْرِيدِ
- Küchlein s. n. كَتَاكِيْتٍ pl. كَتْكُوتٌ * | | -ung s. f. تَبْرِيدٌ
- أَفْرَاحٌ pl. فَرُخٌ | فَرْرِيجٌ pl. فَرَّوْجٌ | | fühl a. مُتَجَاْسِرٌ | -heit s. f.
- صِيصَانٌ pl. صُوصٌ * | | die - | تَجَاْسُرٌ | جَسَارَةٌ | جَرَاءَةٌ
- Kuckuck s. m. zool. طَاوِيٌّ * | كُوكُوٌ * | | haben تَجَاْسَرٌ | اِجْتَرَأَ | تَجَاْسَرٌ
- Kufe s. f. دِنَانٌ pl. دِنَانٌ | | بِجَرَاءَةٍ
- خَابِئَةٌ | دِنَانٌ pl. كَنٌ | Kuh-pocken s. pl. دَاءُ البَقْرِ يُؤْخَذُ
- reigen s. m., | مِنْهُ مَادَّةُ التَّلْفِيْحِ

- reihen s. m. سَيْرَ البَقَرِ فِي جِبَالِ الألب.
- Kulisse s. f. f. Coulisse.
- fullern vn. f. foffern.
- fulminieren vn. بَلَغَ u أَعْلَى دَرَجَةِ.
- Kult s. m. رُتَبَ دِينِيَّةٍ | عِبَادَةٌ | (Verehrung) | إِحْتِرَامٌ | طُقُوسٌ *
| أَتَّبَ هـ | ivieren va. etw. | إِكْرَامٌ | -ur s. f. | تَمَرَّنَ عَلَى | هَدَّبَ هـ
| زِرَاعَةٌ | حِرَاثَةٌ (Boden-) | تَرْبِيَّةَ النِّبَاتِ (Pflanzen-) | تَمَدَّنَ | عُمُرَانُ (eines Landes)
| نَأْدِيبٌ (Bildung) | -us s. m. | وَزِيرٌ | -usminister s. m. | f. Kult |
| الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالْمَعَارِفِ فِي بُرُوسِيَا.
- Kümmel s. m. عَرَقٌ مِنْ | كَمُونٌ | نَوْعٌ مِنْ | blättchen s. n. | كَمُونٌ | القِمار.
- Kummer s. m. حُزْنٌ | غَمٌّ pl. | غَمٌّ | كَرْبٌ pl. | كَرْبٌ | أَسْفٌ | كَرْوَبٌ pl.
- kümmern a. | مُسْكِينٌ | kummern
va. jn. هـ u غَمٌّ | حَزَنَ هـ | أَحْزَنَ هـ | أَهْتَمَّ بِ | بَالَى هـ | أَوْ بِ | -um | -ich
| كُيْمَمَرْنِسٌ | إِشْتَعَلَ بِأَلْهُ بِ | Kummernis
s. f. f. Kummer.
- kummervoll a. مَعْمُومٌ.
- Kummet s. n., Kunt s. n. زُنَاقٌ.
- Kumpan s. m. رُفَقَاءٌ pl. رَفِيقٌ s. m.
- kund a. شَائِعٌ | مَعْلُومٌ | مَعْرُوفٌ | أَخْبَرَ هـ | jn. etw. - machen, thun
| مَعْلُومٌ a. | -bar | شَاعَ i | -werden | شَائِعٌ.
- Kunde s. m. eines Kaufmanns
مُشْتَرٍ | زُبُنٌ pl. | زُبُونُ التَّاجِرِ *
Kunde s. f. مَعْرِفَةٌ | خَبَرٌ | -haben
von هـ i عَرَفَ.
- künden va. jn. etw. بِ | أَخْبَرَ هـ | أَقَالَ العَقْدَ - Vertrag
- kundig a. eine Sache gen. خَبِيرٌ بِ | eine Sache gen.
- kündigen va. jn. den Dienst هـ أَخْبَرَ هـ | (Dem Mieter oder
Vermieter) - بِإِبْطَالٍ | أَقَالَ - einen Vertrag | الإيجار
| إِخْبَارٌ s. f. | Kündigung | العَقْدَ | إِقَالَه.
- Kundin s. f. زُبُونَةٌ.
- Kundschaft s. f. (die Kunden) | الزُّبُنِ | خَبَرٌ (Nachricht) | - | المُشْتَرُونَ
- einziehen | اسْتَحْبَرَ -er s. m. | جَوَاسِيسٌ pl. | جَاسُوسٌ
- künftig a. قَابِلٌ | آتٍ | مُسْتَقْبِلٌ | قَابِلٌ | فِي المُسْتَقْبَلِ | adv. | قَادِمٌ
- Kunfel s. f. مَغَازِلٌ pl. مِغْزَلٌ s. f. | عَرَانِيسٌ pl. | عَرُنَاسٌ

قَهَقَهُ - laut | أَوْ بَ أَوْ عَلَى
 كَرَّكَرَ | sich krank -, sich halb-
 tot - اسْتَلْقَى عَلَى الْقَفَا مِنْ -
 الضَّحْكَ | sich ins Säufstchen -
 (angenehm a ضِحْكَ | -
 fein) i طَاب | u لَدَّ | Eachen s. n.
 Eacher s. m. | قَهَقَهُ | ضِحْكَ
 ضاحك.

lächerlich a. مُضْحِك | in. od. etw.
 - جعل a ه و ه سُخْرَةً
 ضِحْكَ | سُخْرَةً s. f. - | لِنَاسِ
 لُعبَةٍ.

Eachs s. m. حُوتِ سُلَيْمَانَ |
 صُومُونَ *

Eachtaube s. f. zool. فَاخِتَةٌ pl.
 قَوَاحِتِ.

Eac s. m. صَمَعِ اللِّكِ | -ieren va.
 -mus | طَلَّى ه بِصَمَعِ اللِّكِ
 s. m. | صِبْغِ أَزْرَقِ | -stiefel s. m.
 جَزْمَةٌ جِلْدُهَا مُطَلَّى بِصَمَعِ اللِّكِ.

Eade s. f. صُنْدُوقِ pl. صِنَادِيقِ |
 جَرَّارِ خِزَانَةٍ | صُنْدُوقَةِ خَشَبِيَّةِ.

laden va. etw. ه | حَمَلِ ه
 - | حَشَا u البُنْدُوقِيَّةِ flinte -
 * | دَكَّ u ه | - in. vor Gericht
 | in. - | اسْتَحْضَرَهُ قُدَّامِ الْقَاضِيِ

zu etw. (einladen) إِلَى u ه
 عَزَمَ i ه إِلَى *

Eaden s. m. (Kauf-) دُكَّانِ pl. دُكَّائِينَ |
 - | مَخَازِنِ pl. مَخْزَنٍ -
 (fenster-) | دَرَفَاتِ pl. دَرَفَةٍ *
 -diener | مَصَارِيْعِ pl. مِصْرَاعِ الطَّاقَةِ
 s. m. | مُسْتَحْدَمٍ فِي مَخْزَنِ تِجَارِيٍّ
 -hüter s. m. | فُسَالَةٍ
 ثَمَنِ s. m. | عَفْشِ دُكَّانِ *
 | أَثْمَانِ pl. أَعْتِيَادِيٍّ مِنَ الْبِضَائِعِ
 - | مِصْرَاعِ s. m. (verächtlich
 خَادِمِ دُكَّانِ) | يُسْتَعْمَلُ أَحْتِقَارًا.

Eadestock s. m., Eadstock s. m. | مِدْكٌ *
 | تَحْمِيلِ s. f. | شَيْبِشِ *
 - | حُمُولَةٍ | حِمْلِ | شَحْنِ
 - | دَكَّةٌ * | حَشْوَةٍ (Gewehrs)
 | عَزِيمَةٍ * | دَعْوَةٍ (Einladung)
 Eadungsplatz s. m. der Schiffe
 مَحَلِّ شَحْنِ الْمَرَائِبِ.

Eaffe s. m. | غَنَادِرَةٍ pl. غَنْدُورِ *
 رَجُلٍ قَلِيلِ الذِّكَاءِ وَمُعْجَبِ
 بِنَفْسِهِ.

Eaffette s. f. قَنْدَقِ الْمِدْفُوعِ pl. قَنْدَاقِ |
 جَرَّارِ الْمِدْفُوعِ.

Eage s. f. (Ort) مَوَاقِعِ pl. مَوَاقِعِ |
 - | وَضْعِ (Zustand) - | pl.

- | عالِمِيَّون pl. عالمِيّ s. m. christl. - | حالات pl. حالة | أحوال
 | -nbruder s. m. | عوام pl. عامِيّ
 | رُهَبان pl. راهب خادم kath.
- | ماء مُمَلِّج | رَبّ | مُرِيّ | safe s. f.
 | سَلاموَرَة *
- | خَدّام u. خَدَم pl. خادم s. m. | safei s. m.
 | شراشِف pl. شَرشَف * | safen s. n.
- | مِلايَة *
- | مُحتَصِر | مُوجِز الكلام | lafonisch a.
- | عَرِق السوس | safriße s. f., safrißensaft s. m.
- | اَللن vn. | رَتّ | لِكِن | ا | ثَمَم | fallen vn.
- | لَكِن | رُتَة | تَحْتَخَة | fallen s. n.
- | خِرْفان pl. | خروف s. n. | amm s. n.
- | قُرُقور * | اَحمال pl. | حمل pl.
- | قراقير | ammergeier s. m.
- | كَبير من العقبان | ammes-
- | حِلْم | صَبْر | صَبْر | geduld s. f.
- | حَلِيم | fromm a.
- | قَنَدِيل | لامبَة * | ampe s. f.
- | قناديل pl. | (thönerne) - | قناديل
- | مَصابيح pl. | مصباح | سُرَج | امصابيح pl.
- | عُدَة اللامبَة * | -nbrenner s. m.
- | فَتِيل | -nfuß s. m. | -ndocht s. m.
- | قاع اللامبَة * | -nglocke s. f. | بُرنيطة s. f.
- | لامبَة | -nschraube s. f. | مسمار s. f.
- | حالات pl. حالة | أحوال
 | طبقات pl. طبقة (Schicht)
- | حَجَر (eines Tieres) | Eager s. n.
- | فراش (Bett) | - (Soldaten-)
- | جُنود مُعَسَكِر | مُعَسَكِر
- | مَخازِن pl. | مخزن (-) | Waren-
- | جُملة بضائع | -bestand s. m.
- | مَجْموع البضائع | -bier s. n. | بيرة
- | رَقَد | (Tiere) | -n vn. | قوِيَة
- | نَزَل | i | تَحِيَم (Heer) | - - | نام a
- | اُدْخِر | اُدْخِر | sich - - | (Waren)
- | جَلَس | i | رَقَد | u | نَزَل | i | تَحِيَم
- | حَجَر | -statt s. f., -stätte s. f.
- | مَراقِد pl. | مَرَقَد
- | عُرَج pl. | عَرَجاء f. | اَعْرَج | lahın a.
- | عَرَج | -en vn. | عَرَج | - | اَكْسَع
- | عَرَج | a
- | جَعَل | a | كَسِيحًا | jn. | lähmen va.
- | اَصْعَف | اَعَجَز | اَصَاب | بالفالج
- | اَبْطَل | h | - | etw. | bld.
- | تَكَرُّس * | كَسَح | s. f. | lahınheit
- | تَعَرُّق *
- | اَضْعاف | فالج | med. | lähmung s. f.
- | رَغِفَة pl. | رَغيف | m. | laib (Brot) s. m.
- | اقراص pl. | قرص | رغفان u.
- | سَرَاء | سِرء | -en vn. | laich s. m.
- | تَناسَل | تَكَاثِر (السَمَك) | (Fisch)

*اللامبَة | -nzylinder s. m. زُجاجة
 *اللامبَة.
 Lamprete s. f. سَمَكٌ بَحْرِيٌّ أَسْطُوَانِيٌّ
 الشَّكْل.
 Land s. n. (Erde) | pl. أَرْضٍ
 | يَبْسُ | قَارَةٌ | بَرٌ (-fest) - | تَرَابٌ
 - | رِيفٌ (Gegensatz zu Stadt) pl.
 | خَلَاءٌ * | المَزَارِعُ | الحُقُولُ | أَرْيَافٌ
 - | pl. مَمْلَكَةٌ | بِلَادٌ (pl. Länder)
 - | أَرْضٌ - Das gelobte | مَمَالِكُ
 | فَلَاحٌ - ein Mann vom - | امْبِعَادُ
 | في بِلَادِ الأَجَانِبِ - es - | قَرَوِيٌّ
 | بَرًّا وَبَحْرًا - e - | zu Wasser u. zu
 | نَزَلَ i مِّنَ المَرْكَبِ - steigen - ans
 Landauer s. m. عَجَلَةٌ ذَاتُ أَرْبَعَةٍ
 دَوَالِيْبٍ.
 Land-bau s. m. | حِرَاثَةٌ | فَلَاحَةٌ
 | وَفُودٌ pl. | وَاْفِدٌ s. m. - | زِرَاعَةٌ
 -en | نُوَابٌ pl. | نَائِبٌ | مَبْعُوثٌ
 | أَخْرَجَ هـ مِّنَ المَرْكَبِ va. in.
 | طَلَعَ u مِّنَ المَرْكَبِ - - vn.
 | بَرَزَخٌ s. f. - | خَرَجَ u | نَزَلَ i
 pl. بَرَازِخٍ.
 Länderei s. f. | pl. أَرْضٍ.
 Land-esherr s. m. | pl. مُلُوكٍ
 | -esherrlich | سَلَاطِيْنٌ pl. سُلْطَانٌ
 a. | -eskind s. n. | مُلُوكِيٌّ * | مَلِكِيٌّ

-esmutter | pl. أَبْنَاءُ | ابْنُ البِلَادِ
 s. f. | مَلِكَةٌ - | esüblich a. مُعْتَادٌ
 | في البِلَادِ - | esvater s. m. مَلِكٌ
 | سَلَاطِيْنٌ pl. | سُلْطَانٌ | مُلُوكٌ pl.
 -esverrat s. m. دَسِيْسَةٌ عَلَى
 | طَرْدٌ - | esverweisung s. f. | الوَطَنُ
 | نَفَى | مِّنَ البِلَادِ - | flüchtig a.
 | سِلْمٌ s. m. - | friede s. m. | شَارِدٌ
 | حَرْبٌ وَفِتْنَةٌ - | gericht s. m.
 | مُحْكَمَةٌ مِّنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَّةِ فِي
 | ضِيَاعٍ pl. ضِيْعَةٌ s. n. - | gut s. n. | أَمَانِيَا
 | pl. مُلُوكٍ | عَقَارَاتٌ pl. عَقَارٌ
 | مَصِيْفٌ s. n. - | haus s. n. | مُصْطَافٌ
 | - | parte s. f. | مَزْرَعَةٌ شَمْسِيَّةٌ
 | خَرِيْبَةٌ * | خَارِطَةٌ * | رَسْمٌ بَلَدٌ
 | رَائِحٌ فِي البِلَادِ a. - | läufig a.

نوع من الرقص. Ländler s. m.

معيشة في الأرياف. Landleben s. n.

فضاءى | بَرِّيٌّ | حَقْلِيٌّ a. | ländlich

Land-mann s. m. pl. -leute

pl. | فَلَاحُونَ | قَرَوِيٌّ | - | plage s. f.

pl. | رَزْءٌ | بَلَايَا pl. | بَلِيَّةٌ عَامَّةٌ

- | مَدِيرٌ s. m. - | رَاتٌ | أَرْزَاءٌ

س. م. | مَطَرٌ يَصُبُّ مَسَافَةً وَاسِعَةً s. m.

قَاضٍ مِّنَ | رِخْتِرٌ s. m. - | دِيمَةٌ

pl. | الدَّرَجَةِ الثَّانِيَّةِ فِي أَمَانِيَا

pl. | إِقْلِيمٌ s. f. - | قُضَاةٌ

الْمَنْظُور | وِلَايَات pl. | وِلَايَة | أَقَالِيم
 | مَا يُحِيط بِهِ النَّظْر | مَعًا مِنْ بَدَد
 (Gemälde) -- | مَنَاظِر pl. | مَنظَر
 | أَقْلِيمِيّ a. | -schaftlich | تَصْوِيرِ الْبَدَد
 pl. | بَحْيِرَة s. m. | -see | بَلَدِيّ
 | -gut s. m. | -fitz | بُحَيْرَات
 | جُنْدِيّ رَاغِل فِي | -s knecht s. m.
 | نَوْعٍ مِنْ لَعِب (Spiel) -- | أَلْمَانِيَا
 | بَلَدِيّ | -sleute pl. | -smann | الْوَرَق
 | -smannschaft | إِبْن بَدَد | وَطَنِيّ
 | -stände | جَمَاعَة أَبْنَاء بَدَد s. f.
 | مَجْلِسٍ وَكَلَاءِ الْمَمْلَكَة s. pl.
 | دَرْبِ سُلْطَانِيّ s. f. | -straße
 | مُتَشَرِّد s. m. | -streicher | طُرُق pl.
 | نَاحِيَة s. m. | -strich | طَوَاف pl.
 | جِهَات pl. | -sturm | جِهَة | نَوَاحٍ
 | نِدَاءِ الْمَلِكِ جَمِيعِ الْأُمَّة s. m.
 | مَجْلِسٍ وَكَلَاءِ | -tag s. m. | لِلْحَرْبِ
 | نَزُولٍ مِنْ | -ung s. f. | الْمَمْلَكَة
 | -ungsplatz s. m., -ungs- | الْمُرْكَبِ
 | مَحَلِّ النُّزُولِ مِنَ الْمُرْكَبِ s. f.
 | جُنُودٍ تُنْقَلُ | -ungsstruppen s. pl.
 | -vogt | إِلَى الْجِهَاتِ مِنْ مَرْكَبِ
 pl. | وَالٍ | حُكَّامِ pl. | حَاكِمِ s. m.
 | الْفَلَّاحُونَ s. n. | -volf | وِلَاةِ
 | أَهَالِي الْبَدَدِ الْمُتَجَنِّدُونَ s. f. | -wehr
 | نَبِيذِ s. m. | -wein | رَدِيْفِ * türkf.

رَبِيعٍ مِنْ | -wind s. m. | بَلَدِيّ
 | الْبَرِّ نَحْوِ الْبَحْرِ | -wirt s. m.
 | زِرَاعَة s. f. | -wirtschaft | زِرَاعِ | فَلَاحِ
 | -zunge s. f. | لِسَانِ أَرْضِ | فَلَاحَة
 pl. | شِسْعِ | أَنْشَسَاعِ | أَنْفِ أَرْضِ
 | طَوِيلِ pl. | طَوِيلِ a. | مُمْتَدِّ
 | طَوِيلِ (Zeit) - | كَثِيرًا
 | -e adv. | - | دَائِمِ | مُسْتَمِرِّ
 | مُدَّةِ | مُدَّةِ طَوِيلَة | زَمَنًا طَوِيلًا
 | طَالَمَا | es ist schon - her | مَدِيدَة
 | so - als | مِنْ زَمَانٍ -em | seit
 | - | ما دام | - | sein od. werden u
 | -e finger | إِمْتَدَّ | دام u
 | es ist so u. so - | سَرَقِ | i
 | - | طُولُهُ كَذَا | machen an etw.
 | -atmig a. | طَوَّلَ ه * | أَطَالَ ه
 | -atmigheit s. f. | مُطَوَّلِ
 | إطَالَة | إِمْتِدَادِ | طَوَّلِ s. f. | Länge
 | etw. in | طَوَّلَ | - | geogr. | تَطْوِيلِ
 | أَطَالَ ه | طَوَّلَ ه | - | ziehen | die
 | تَوَانِي فِي | بَطُو فِي | نَأَخَّر فِي
 | نَاول ه | - | im. etw. | - | langen va.
 | إِلَى | إِمْتَدَّ إِلَى | - | vn.
 | كَفَى i
 | الطُّولِ s. m. | دائِرَة الطُّولِ | Längenkreis
 | كَوَائِرِ | Längenmaß s. n. | مِقْيَاسِ
 | الطُّولِ.

Langeweile s. f. مَلَالَة | مَلال | مَلَل |
 -finger s. m. سَرِق pl. سَرِاق u.
 -jährig a. دائِم سِنِين | سَرَقَة
 | دَوامُهُ سِنُون كَثِيرَة | كَثِيرَة
 -lebig a. عُمُرُهُ مَدَّة طَوِيلَة.

länglich a. مُتَطاول | مُسْتَطِيل.

Langmut s. f. سِماح | حِلْم |
 | حَلِيم a. -mütig | صَبْر جَمِيل
 | حَمِير pl. حِمَار s. n. -ohr | صَبُور

längs praep. c. gen. ... عَلَى جَانِبِ الـ.

langsam a. مُتَمَهِّل | بَطِيء | مُتَأَنِّ |
 | بَتَانٍ | عَلَى مَهْلٍ | مَهْلًا adv.
 | تَمَهَّل | بَطُوءَ | - | رُوْبَدًا
 | تَمَهَّل | مَهْلٍ | تَأَنِّ | -heit s. f.
 | بُطُوء.

Langschläfer s. m. نَوْمَان | نَوُوم |
 | نَوَام | رُقْدَة.

längst adv. -ens adv. | مِنْ زَمَان |
 | لا بَعْدَهُ.

lang-stielig a. f. -weilig | -stieligkeit
 s. f. f. -weiligkeit | -weile s. f.
 f. -eweile | -weilen va. jn. s. |
 | ثَقَل عَلَيْهِ | أَوْ عَلَيْهِ
 | -weilig | تَكَدَّر | ضَجِر | a | بَرِم a
 | -weiligkeit s. f. | مُثَقِّل | مُمِل a.
 | مَدِيد | طَوِيل a. -wierig | إِمْلال

-wierigkeit s. f. | مُسْتَمِر | دائِم
 | كَوام | طُول.

Langze s. f. حَرْبَة | رِماح pl. رُمَح |
 | حِرَاب | eine - brechen mit jn.
 | جَادَل | | قاتَل *
 | دافع عَنْهُ | نَحَزَب لَهُ | für jn.

Langzette s. f. مَشَارِط pl. مِشْرَط |
 | رِبِشَة * | مَفاصِد pl. مِقصَد

Lapis lazuli s. m. لَازُورْد *.

Lappalie s. f. جُرْثِيَّات pl. جُرْثِيَّة |
 | سَفَساف | شَيْء لا طائِل فِيهِ
 | عَبَث.

Lappen s. m. خِرْقَة pl. خِرَق |
 | شَرطُوطَة | قِطْع pl. قِطْعَة
 | شَراطِيط | durch die - gehen
 u. هَرَب.

Lapperei s. f., Läpperei f. Lappalie |
 | جَمَع a ه تَدْرِيجًا | läppern va. etw.

läppisch a. ما يُضادُّ | أَحْمَق | بَلِيد |
 | العَقْل والصَّواب.

Lärche s. f., -nbaum s. m. شَرِيْبِين |
 | لاريس * | عَرَعَر بَرِيء

Lärm s. m. قَرَقَعَة | وَفَع | ضَجَّة |
 | طَرَح a | أَرَجَف | - | جَلَبَة
 | أَجْلَب | قَرَقَع en vn. | الصَّوت *

Larve s. f. | وَجْه يُلبَس | - (der

- Insekten) **دُودَة** الحشرات pl. **دُود** u. **دِيدَان**.
- lassen va. jn. u. etw. (verlassen) | **أَبْقَى** هـ وهـ | **تَرَكَ** هـ وهـ | **فَارَقَ** هـ وهـ - (zulassen) etw. هـ | **خَلَّى** هـ - (erlauben) (befehlen) | **أَذِنَ** له في | **اَمْرَ** u. **بِ** - sich gehen | **تَغَافَلَ** عَنْ - sich fallen - | **لَمْ يَقْهَرْ** نَفْسَهُ - **رَضِيَ** ا ب - etw. gut sein | **سَقَطَ** u. **تَرَكَ** هـ - etw. bleiben | **اِرْتَضَى** ب | **أَذِنَ** له في الدُخُول - jn. vor sich - wissen sich vor Freude nicht zu - **طَارَ** i **فَرَحًا** | es läßt sich thun | **دَعْنَى** أَفْعَلُ | **ظَاهِرُهُ** | es läßt schön | **يُمْكِنُ** عَمَلُهُ | **مُرْتَاة** البال a. gelassen a. | **جَمِيل** | **مُعْتَدِل** | **مُطْمَئِن**.
- lässig a. | **مُتَغَافِل** | **كَسْلَان** - **فَيت** s. f. | **تَغَافَلَ** | **كَسَلَ**.
- East** s. f. | **حُمُولَة** u. **أَحْمَال** pl. | **حِمْل** | **حَمَال** (Steuer) - | **أَنْقَالَ** pl. | **ثَقُلَ** | jn. zur - **فَالَلَن** pl. | **وَزَنَ** u. | **ثَقُلَ** - en vn. u. | **عَلَيْهِ** | auf jn. - - | **ثَقَّلَ** عَلَيْهِ - - | **خَالِصٌ** مِنْ **حَمَال** a.
- Easter** s. n. | **رَذَائِل** pl. | **رَذِيْلَة** pl. | **قَبَاخَة** | **عُيُوب** pl.
- Ästerer** s. m. | **نَمَام** | **نَمَّ** - **سَقَّار** | **مُجَدِّف** (-Gottes) -
- lasterhaft** a. | **مَعْيُوب** | **رَذِيْل** | **رَذِيْلَة** s. f.
- lästerlich** a. | **فَاحِش** | **شَنِيع** | **لَاسْتَر** maul s. n. | **نَمَام** | **لَاسْتَرَن** va. jn. | **طَعَنَ** ا | **شَتَمَ** هـ | **سَبَّ** هـ | **عَدَفَ** - **لَاسْتَرَة** | **جَدَّفَ** - **لَاسْتَرَة** s. f. | **طَعَنَ** بِالْقَوْلِ | **لَاسْتَرَة** s. f. | **نَمَائِمَة** | **نَمَائِم** pl. | **نَمِيْمَة** s. f. | **تَجْدِيْف** (-Gottes) - | **شَتَائِم** pl. | **نَمَام** s. f. | **لَاسْتَرَة** zunge s. f.
- lästlich** a. | **عَسِيْر** | **ثَقِيْل** | **صَعْب** | **مُنْتَعِب** | **مُنْتَقِل** | jn. - **فَالَلَن** | **عُسْر** s. f. | **ثَقَّلَ** عَلَيْهِ | **ضِيْق**.
- East-tier** s. n. | **كَوَاب** pl. | **دَابَّة** | **حَمَال** | **زَوَامِل** - **تَرَاغِر** s. m. | **عَتَالَة** pl. | **عَتَال** | **حَمَالُون** pl. | **عَجَلَة** الحِمْل s. m. | **كُرُو*** | **حَمَالَة***.
- Easur** s. f. | **لَا زُورْد***.
- Eatein** s. n. | **اللُغَة** اللَاتِيْنِيَّة | **لَاتِيْنِي** a.
- Eaterne** s. f. | **لَاتِيْنِي** (Straßen- von Glas)

läufig a. (Hündin) طَالِبَةُ التَّعْشِيرِ (كَلْبَةٌ).

Lauf-Käfer s. m. نَوْعٌ مِنَ الْجِعْلَانِ |
-paß s. m., jm. den - - geben
s u طَرَدَ | -schritt s. m. سَبْرٌ مُسْرِعٌ |
-zeit s. f. (der Tiere) زَمَنٌ تَعْشِيرٍ
الْحَيَوَانَاتِ.

Lauge s. f. مَاءُ الرَّمَادِ أَوْ الْقَلِيّ |
غَسَلَ i ه | -n va. etw. مَاءٌ صَفْوَةٌ *
بِمَاءِ الْقَلِيّ.

läugnen va. f. leugnen.

Laugheit s. f., -igkeit s. f. قُتُورٌ |
-ig a., -lich a., -licht a. فَاتِرٌ.

Laune s. f. لَطَشَةٌ * | أَهْوَاءٌ pl. هَوَىّ |
إِنْشِرَاحٌ - gute | مُرَادٌ دُونَ دَاعٍ
مَمْلٌ - schlechte, üble | بَشَاشَةٌ
مَدْلُوعٌ * | تَابِعٌ هَوَاةٌ -haft a. | زَعَلَةٌ
مُلُهُ | مَزَّاجٌ a. | مَلْطُوشٌ *
launisch a. f. launenhaft.

Laus s. f. قَمْلَةٌ coll. | eine -
Läuse suchen i فَلَىّ.

Lauschen vn. تَنَصَّتْ * | أَنْصَتْ |
Lauscher s. m. | اسْتَرَقَ السَّمْعَ
مُتَنَصِّتٌ * | مُنْصِتٌ.

Läusekrankheit s. f. med. دَاءُ الْقَمْلِ |
Lausen va. jm. رَأَسَهُ | فَلَىّ i

sucht s. f. med. دَاءُ الْقَمْلِ | läufig
a. مُقَمِّلٌ | قَمِلَ.

laut a. | خَارِقٌ | حَادٌّ | عَالٍ (صَوْتٌ) |
أَذَاعَ ه | etw. - werden lassen | صَاحٌ
| laut praep. c. gen. | أَفْشَى ه
| عَلَى حَسَبِ ... | بِمُقْتَضَى ...
| laut s. m. صَوْتٌ pl. أَصْوَاتٌ |
einen - von sich geben | صَدَى
-bar a., - - werden | كَوَىّ | صَاتٌ u
إِنْتَشَرَ | ذَاعَ i | شَاعَ i

Laute s. f. mus. عُودٌ pl. أَعْوَادٌ u.
صَنْجٌ ذُو أَوْتَارٍ | عِيدَانٌ (مُوسِيْقَى)

lauten vn. u. | صَاتٌ | es lautet so
مَضْمُونُهُ كَذَا.

läuten vn. دَقَّ u. الْجَرَسِ.

Lautespieler s. m. عَوَّادٌ.

lauter a. | صَافٍ | خَالِصٌ |
-heit s. f. | خُلُوصٌ.

läutern va. etw. ه | خَلَّصَ ه |
تَحْلِيصٌ s. f. | صَفَّى ه
تَصْفِيَةٌ | تَنْظِيفٌ.

lautlos a. | سَاكِتٌ | بِلا صَوْتٍ.

lauwarm a. فَاتِرٌ.

Lava s. f. حَجَرٌ بُرْكَانِيٌّ سَائِلٌ.

Lavendel s. m. | خُزَامَىّ |
لَوْنْدَا *.

lavieren vn. (Schiff) طَوَّفَ لَهَايَاً

- slicht s. n. نُور الحَيَاة | jm. das | lechzen vn. nach شَدِيدًا a عَطِشُ |
 - - ausblasen & اَمَات | & u قَتَلَ | a غَلَّ | رَغِبَ a فِي | لَهَبِ a | غَلَّ |
 -smal s. m. شَبَاب | -smittel lecf a., - sein (Schiff) المَرْكَبِ u ما |
 s. n. قُوت pl. اَقْوَات | رِزْقُ pl. | lecf s. m. | كَحَلِ u المَرْكَبِ المَاءِ |
 اَسْبَاب | مُونَ pl. مُونَةٌ | اَرزاق | ثَقَبَ يَدْخُلُ بِهِ المَاءِ |
 -smilde a., -sfatt a. | العَيْشِ | lecfen va. etw. هـ a | لِحْسِ | - vn. |
 -sunterhalt | مُسْتَقْرِفٍ مِنَ الحَيَاةِ | جَرَى | سَالَ | i | نَضَعَ a | تَقَطَّرَ |
 اَسْبَاب | مَعاشِ | مَعِيشَةٍ s. m. | lecfen a. | لَذِيذِ | عَذْبِ | -biffen s. m., |
 -swandel s. m. | سُلُوكِ | العَيْشِ | -ei s. f. | حَلَاوِي pl. | حَلَاوِي |
 -sweife s. f. | عَيْشَةٍ s. f. | عَذْبِ | لَذِيذِ | -haft a. | اَكَلَ لَذِيذِ |
 Eber s. f. كَبِدِ pl. اَكْبَادِ | frei von | شَرَّهُ عَلَى لَذِيذِ | لِحُوسِ (Person) |
 der - weg sprechen | تَكَلَّمَ بِحُرِّيَّةِ | اِنْسَانِ s. n. | -maul | الأَطْعِمَةِ |
 -blümchen s. n. bot. | نَوْعِ مِنَ | لِحُوسِ |
 -fleck s. m. | شَفَائِقِ النُّعْمَانِ | Eder s. n. | جِلْدِ pl. | جُلُودِ | -n a. |
 -wurf | نَمَشَةٍ | شَامَاتِ pl. شَامَةٌ | | من جِلْدِ | - - stud. (langweilig) |
 s. f. | مَقَانِقِ مِنَ كَبِدِ الخِنْزِيرِ | مُمِلِّ |
 Ebe-wesen s. n. | دُو حَيَاةِ | ledig a. (leer) | خَالٍ | فارغٍ | فاضٍ * |
 | وِدَاعِ s. n. | -wohl | حَيَوَانَاتِ pl. | - einer Sache gen. (frei von) |
 | وِدَاعِ & | sagen - - | jm. - - | (unverheiratet) |
 lebhaft a. | نَشِيْطِ | حَالًا | غَيْرِ | عَزْبِ pl. | عَزْبَاءِ f. | اَعَزَبَ |
 | حَمِيَّةِ s. f. | -igkeit | نَشِطِ | a | لِحِ | | مُتَزَوِّجِ (اِمْرَاةٍ اَوْ شَابٍ) |
 | نَشَاطِ | | لَيْسَ اِلَّا | لا غَيْرِ | فَفَقَطِ | تَمَامًا adv. |
 Leb-fuchen s. m. | مَعْجُونِ مِنَ طَحِيْنِ | See s. f., Seeseite s. f. mar. | غَيْرِ |
 | مَيِّتِ a. | -los | وَعَسَلِ وَتَوَابِلِ | | جِهَةِ الرِّيْحِ |
 | -tag, mein - - | | leer a. | خَالٍ | فارغٍ | فاضٍ | - sein |
 | -zeit, bei seinen - -en | | u | تَخَلَّى | اَخْلَا | -e s. f. |
 | فِي عَهْدِهِ | فِي عَصْرِهِ | فِي زَمَانِهِ | | -en va. etw. هـ | اَخْلَى | خَلَاءِ |

-heit | أَفْضَى هـ | أَفْرَغَ هـ | أَخْلَى هـ
s. f. f. -e.

See-seite s. f. f. See | -wärts adv.

في غَيْرِ جِهَةِ الرِّيحِ

Seife s. f. شِفَاةَ pl. شَفَوَاتِ (Der
Wunde) حَاقَّةَ الجُرْحِ

legal a. شَرْعِيٌّ.

Segat s. m. رَسُولٍ مِنْ طَرَفِ البَابَا
pl. رُسُلٍ.

Segat s. n. هِبَاتٍ pl. هِبَةٌ بِالْوَصِيَّةِ
- (frommes) pl. وَقُفٍ u.

ionsrat s. f. سِفَارَةٌ | -ion s. f. | وَقُوفٍ
s. m. مُسْتَشَارِ السِّفَارَةِ (Titel)
كاتبِ s. m. ionssekretär | -ionssekretär (لقب)
السِّفَارَةِ.

Segehenne s. f. بَوَائِضٍ pl. بَائِضٍ

legen va. etw. هـ | وَضَعَ a هـ | حَطَّ u هـ

Eier - i باضٍ | etw. zurecht -

etw. bei رَتَّبَ هـ | جَهَّزَ هـ

Seite - هـ | وَفَّرَ هـ * | اسْتَبَقَى هـ -

die Hand - an etw. اِبْتَدَأَ فِي

die Hand - auf etw. عَمِلَهُ

اِسْكَنَ u | قَلَّ - i | اسْتَوَلَى عَلَى

اسْتَعْلَبَ بٍ | auf etw. | نام a

sich schlafen - a نام.

Legende s. f. أَحَادِيثٍ pl. حَدِيثٍ

قِصَصٍ pl. قِصَّةٍ مَنقُولَةٍ

Segezeit s. f. زَمَانِ البَيْضِ s. f.

Seigion s. f. (Soldaten) فِرْقَةٌ عِنْدَ

كُتَائِبِ pl. كَتِيبَةٌ | الرُّومَانِيَّينِ

عَدَدٌ كَبِيرٌ (gr. Zahl) -

Seigitation s. f. تَحْقِيقِ شَرْعِيٍّ

- (-spapier) | تَصْدِيقِ شَرْعِيٍّ

- (eines unehelichen Kindes) | وَرَقِ التَّحْقِيقِ

الإقْرَارِ شَرْعًا بِأَبْنِ

حَقَّقَ | legitimieren va. etw. | الحَرَامِ

ein | صَدَّقَ عَلَيْهِ شَرْعًا | هـ شَرْعًا

Kind - أَقْرَرَ بِالأَبْنِ شَرْعًا -

Sehen s. n. إِقْطَاعَاتٍ pl. إِقْطَاعَةٌ

jm. etw. zu | إِخَاذَاتٍ pl. إِخَاذَةٌ

etw. | أَعْطَى هـ إِقْطَاعَةً - geben

u مَلَكَ هـ إِقْطَاعَةً - tragen zu

sherr s. m. مُعْطَى الإقْطَاعَةِ

smann s. m., -sträger s. m.

صَاحِبِ إِقْطَاعَةٍ.

Sehm s. m. طِينٍ | -boden s. m.

-ig | أَرْضِ طِينِيَّةٍ | تُرَابِ طِينِيٍّ

طِينِيٍّ a.

Sehne s. f. مُنْحَدَرِ الجَبَلِ des Berges

إِظْهَرَ الكُرْسِيِّ (-) (Stuhl-) (-) (Hinter-)

يَدِ (-) (Seiten-) | مُوَحَّرِ الكُرْسِيِّ

-n va. etw. an | أَيْدِ pl. الكُرْسِيِّ

إِسْتَنَدَ - an | اسْتَدَّ هـ إِلَى

Sehn. | اِعْتَمَدَ عَلَى | تَوَكَّأَ عَلَى | إِلَى

fessel s. m., Lehnstuhl s. m. كُرْسِيّ

كُرْسِيّ pl. ذُو يَدَيْنِ

Lehr-anstalt s. f. مَدْرَسَة pl. مَدَارِسْ

-begriff s. m. مَذْهَب pl. مَذَاهِبْ

-brief s. m. بَرَاءَة التَّلْمِذَة فِي

كِتَاب تَعْلِيم -buch s. n. | صِنَاعَة

-e s. f. | تَدْرِيسْ | تَعْلِيم

pl. | دُرُوسْ | عِلْم (Wissenschaft)

pl. | تَعَلَّمَ (im Handwerk) | عُلُومْ

-en va. in. | تَلْمِذَة | فِي صِنَاعَة

etw. | gelehrt | دَرَسَ هـ | عَلَّمَ هـ

| مَدْرَسِ | مُعَلِّمْ -er s. m. | عَالِمْ

-erin s. f. | أَسَاتِذَة pl. | أُسْتَاذْ

أَجْرَة -geld s. n. | مَدْرَسَة | مُعَلِّمَة

-haft a. | التَّلْمِذَة فِي صِنَاعَة

تَلْمِيزْ فِي -ling s. m. | تَعْلِيمِيّ

pl. | صَانِعْ * | تَلَامِذَة pl. | صِنَاعَة

pl. | أُسْتَاذْ -meister s. m. | صُنَاع

-faß | مُفِيدْ a. -reich | أَسَاتِذَة

pl. | عَقَائِدْ pl. | عَقِيدَة s. m.

كُرْسِيّ المَدْرَسِ -stuhl s. m. | قَوَاعِدْ

pl. كُرْسِيّ

Leib s. m. (Körper) جِسْمْ pl.

بَدَنْ | أَجْسَادْ pl. | جَسَدْ | أَجْسَامْ

pl. | بَطْنْ (Bauch) - | أَبْدَانْ pl.

| كَلَّا | bei leibe nicht! | بَطُونْ

jm. zu -e gehen, jm. | لا مُطْلَقًا

auf den - rücken عَلَيْهِ u. هَجَمْ |

-arzt s. m. الطَّبِيبِ الخَاصِّ pl.

-chen s. n. (einer Frau) | أَطِبَّاءْ

| صُدَيْرِيّ لِلْسِتَاتِ * | اقْرَصِيَّة * | مِشَدَّ

-eigen a. | رَقِيقْ pl. | أَرْقَاءْ

pl. | مَمْلُوكْ | مَمَالِيكْ -eigenschaft s. f. | رِقْ

-en vn., - - u. leben a. | حَيِيّ

-farbe s. f. (Lieblings-) | لَوْنْ

-garde s. f. | أَلْوَانْ pl. | مَحْبُوبْ

-gedinge | الخَاصَّة | حَرَسْ المَلِكْ

s. n. | إِقْطَاعَاتْ pl. | إِقْطَاعْ

s. n. | أَكَلْ مَحْبُوبْ -haft a.,

-haftig a. | ذَاتِيّ | جَسَدِيّ

-lich a. | جَسْمِيّ | جَسَدِيّ

| رُقْبِيّ -rente s. f. | جَسَدَانِيّ

| مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ المَرءُ فِي مَدَى الحَيَاةِ

ثَوْبْ | جَكَّة مَقْطُوعَة * -rock s. m.

-schmerz s. m., | ذُو رَفْرَقَيْنِ

-schneiden s. n. | مَغْصْ -wache

s. f. | الخَاصَّة | حَرَسْ المَلِكْ

s. n. | مَغْصْ

Leich, Leichen f. Laich, Laichen.

Leichdorn s. m. سِلْعَة pl. | سِلْعْ

| مَسَامِيرْ pl. | مِسْمَارْ * | شَتُونَة

ag. | عِيُونْ pl. | عَيْنْ سَمَكْ *

Leiche s. f. جِيْفَة pl. | جِيْفْ u.

| جُنْثْ pl. | جُنْثَة | أَجْيَافْ (-n)

leider adv. لِسُوءِ الْحَظِّ.

leidig a. صَعْبٌ | شَاقٌّ | مُكَدِّرٌ | مُغِمٌّ.

leidlich a. مُعْتَدِلٌ | مُتَوَسِّطٌ.

leid-voll a. -wesen | حَزِينٌ | حَزِينٌ
s. n. غَمٌّ | أَلَمٌ | وَجَعٌ.

Leier s. f. mus. (مُوسِيقَى) عُودٌ pl.

| صَنْجٌ ذُو أَوْتَارٍ | عِيدَانٌ u. أَعْوَادٌ

| أَرْغَنٌ صَغِيرٌ مُنْتَقِلٌ s. m. -fasten

| دَقٌّ u. الأَرْغَنُ الصَّغِيرُ -n vn.

bld. - كَرَّرَ الْكَلَامَ.

Leih-amt s. n. f. -haus | -bibliothek

s. f. مَكْتَبَةٌ تُسَلَفُ كُتُبُهَا

-en va jm. etw. | لِلْمُشْتَرِكِينَ

| أَعَارَهُ هـ | أَقْرَضَهُ هـ | أَسْلَفَهُ هـ

etw. von jm. -- مِنْهُ هـ | اسْتَعَارَهُ

| اسْتَقْرَضَهُ هـ | اسْتَسَلَفَهُ هـ مِنْهُ

. يَيْتُ الرَّهْنِ s. n. -haus | مِنْهُ

Leim s. m. -en va. etw. | غِرَاءٌ

-rute | غَرَى هـ | أَلْصَقَ هـ بِالْغِرَاءِ

s. f. دَابُّوقٌ | دَبُّقٌ.

Lein s. m. كَتَّانٌ.

Leine s. f. حَبْلٌ pl. حِبَالٌ

pl. أَرْسَانٌ u. أَرْسُنٌ.

leinen a. | من كَتَّانٍ Leinenen s. n.,

Leinenzeug s. n. كَتَّانٌ pl. نَسِيَجٌ

pl. أَقْمِشَةٌ | قَمَاشٌ كَتَّانٌ | نُسُجٌ.

Leinöl s. n. زَيْتٌ حَارٌ.

Leinwand s. f. f. Leinen | Leinweber

s. m. نَسَّاجٌ.

leise a. بِصَوْتٍ خَفِيضٍ | بِصَوْتٍ وَاطٍ

-r Schlaf | تَرْنِيْقٌ | غِمَاضٌ

-treter s. m. | غِرَارُ النَّوْمِ | كَرَى

pl. دَوَاسِيْسِيْ دَاسُوْسٍ.

Leiste s. f. (von Metall) قَضِيْبٌ

(von - | شِلْفٌ * | قُضْبَانٌ pl. حَدِيدٌ

(am Holz) - | قَضْبَةٌ خَشَبٌ (am

Körper) حَالِبٌ | كَالَاةٌ.

Leisten s. m. قَالِبُ الرَّجْلِ.

leisten va. etw. هـ | أَنْجَزَهُ | عَمِلَ هـ

Leisten-beule s. f. الكَالَاةُ فِي

pl. دَمَامِلٌ | -bruch s. m. أَدْرَةٌ

الكَالَاةُ.

Leistung s. f. أَنْجَازٌ | عَمَلٌ.

Leitartikel s. m. نُبْدَةٌ فِي أَوَّلِ

| قاد u. هـ | الجَرِيْدَةُ | leiten va. jm.

(Tiere) - | هَدَى i هـ | أَوْصَلَ هـ

etw. (ver- | سَاقٌ u. الْحَيَوَانَاتِ

walten) sich - | أَدَارَهُ هـ | دَبَّرَهُ

lassen von jm. أَنْقَادَ لَهُ.

Leiter s. m. مُدَبِّرٌ | مُدِيرٌ

pl. قُوَادٌ | مُرْتَشِدٌ | فَوَادٌ

جِرْمٌ نَاقِلٌ الْكَهْرَبَائِيَّةِ -Wärme

أَوْ الْحَرَارَةِ.

Leiter s. f. سَلَامٌ pl. سَلَامٌ مَنْقُولٌ

- مُتَقَدِّم | ماضٍ | سابق (vorig) -
 pl. الوَصِيَّة Wille -e der | ذِكْرَةٌ
 | وصايا | die -e Hand an etw.
 | أَيْمًا ه | zu guter- |
 | أَيْمًا ه | -ens adv. |
 | أَيْمًا ه | -hin adv. | في الآخر
 | -e | | مُخْتَصَّ بِالْوَصِيَّة a. -willig
 | مَوْصَى بِهِ | Verfügung
- Feu s. m. | Löwe.
 Leuchte s. f. | نور | - der Wissen-
 | leuchten vn. | نور العلم
 | لاح u | لامع a | أضاء | ضاء
 | leuchtend | نور له | ضوءاً له | -jm.
 | Leuchter | لامع | مضيئ | منير a.
 | شمعدانات pl. | شمعدان * s. m.
 | مسارج pl. | مسرجة | شماعة u.
 Leucht-feuer s. n. mar. | منارة pl.
 | فنارات pl. | فنار * | مناور u. | منائر
 | -fäfer | غاز للتنوير s. n. | -gas
 | يراع | قطرب | حجاب s. m.
 | سراج الليل * | -turm s. m. | f.
 | -feuer.
 leugnen va. etw. | أنكره | نفى i ه
 | مُنْكَر s. m. | Leugner | جحد a ه
 Leumund s. m. | صيت | دكر عند
 | سماع | الناس
 Leute s. pl. | قوم | أناس | ناس
- الخدام (Dienstboten) - | أهل | die
 | جَهْرًا | جَهْرًا -n | vor allen
 | نَشْر ه | etw. unter die - bringen
 | ظالم | -schinder s. m. | أشاع ه
 | ظلماء pl.
- مُلَاذِم عَسْكَرِيّ s. m. mil. Leutnant
 | أَتَيْس | أَتَيْس | بشوش a. leutselig
 | أَنْس | أَنْس | بشاشة s. f.
- مَشْرِق | مَشْرِق | شرق s. f. Levante
 | وَبَّغ | وَبَّغ | die -en lesen s. m., jm. Levit
 | مَشْتُور | مَشْتُور | خيريّ s. f. bot. Levkoje
 | قَوَامِيْس | قَوَامِيْس | قاموس * pl. s. n. Lexikon
 | كِتَاب لُغَة
- لُبْنَان s. m. n. pr. Libanon
 | نَوْع مِّنَ الْفَرَاشِ s. f. Libelle
 | مُتَحَرِّب بِالْحَرْبَةِ الْمَدْنِيَّة a. liberal
 | -ismus s. m. | إِبَاحِيّ | وإلدينيّة
 | سَخَاوَة | سَخَاوَة | ität s. f. | إِبَاحِيَّة
- ضَوْء | ضَوْء | أنوار pl. Licht s. n.
 | شَمْعَة (Kerze) - | ضياء | أضواء
 | ضَرَّ | ضَرَّ | u | - stehen s. m. jm. im
 | خَدَع | خَدَع | a | - führen s. hinter das
 | فَحَصَ | فَحَصَ | عن a | -e besehen s. etw. bei
 | مُنْبِر | مُنْبِر | نير | مضيئ a. licht
 | صُورَة | صُورَة | بواسطة النور s. n.
 | فُوتُوغْرَافِيَّة * | -druck s. m. |
 | نُحْتُ | نُحْتُ | أو نُقِشَ | بواسطة النور

حَلَّ - en va. Anfer u | والحوامض
 قَلَّلَ عَدَدَ Wald - - | المرساة
 -erloh a. | الأشجار في الغابة
 -gießer s. m. | مُشْتَعِلٌ | مُلْتَهَبٌ
 -meß s. f. | صايع الشمع | شَمَاع
 -putze | عِيدَ تَطْهِيرِ العُدْرَاءِ kath.
 s. f., -putz[s]cher s. f. | مِقْصَ الشَّمْعَةِ
 pl. قُوَّةَ النُّورِ | -[s]acht s. m.
 | لَمَعَانَ النُّورِ | -[s]chein s. m. | فُوَهَات
 | -[s]chere s. f. | -[s]chou a. | -[s]chou s. f.
 | خَائِفٌ مِنَ النُّورِ | -[s]chimmer s. m.
 | خَوْفٌ مِنَ النُّورِ | -[s]chirm s. m. | -[s]chein s. f.
 | ما يَقِي | -[s]chirm s. m. | العِيُونَ مِنَ النُّورِ
 | -[s]eite s. f. | قَوَائِدُ pl. فَائِدَةٌ (Nutzen) bld.
 pl. شُعَاعِ النُّورِ | -[s]trahl s. m.
 مَحَلَّ فَارِغٍ | -[s]ung s. f. | أَشْعَّةُ
 bld. | مُضِيٌّ a. -voll | في الغابة
 | -[s]zieher s. m. | وَاضِحٌ | ذُو دَآءِ
 شَمَاع.

أَجْفَانُ pl. جَفْنُ (-Augen) Eid s. n.
 u. أَجْفُنُ u. جُفُونُ u.

حَبِيبٌ | مَحْبُوبٌ | عَزِيزٌ | lieb a.
 الله | الله الجواد der -e Gott
 kath. | المرأة unsere -e Frau | الحنان
 | أَحَبُّ -er | سَيِّدَتُنَا العُدْرَاءِ
 | أَحَبُّ s. haben - | jn. | أَعَزُّ

تَعَلَّقَ بِهِ مَحَبَّةً - gewinnen
 غَمَزَ i إِلَيْهِ - äugeln vn. mit jm.
 - äugeln s. n. | لَاحِظٌ | بِالْعَيْنِ
 -chen s. n. | لِحْظَةٌ | عَمْرَةٌ
 | مُغْرَمَةٌ | عَوَاشِقُ pl. عَاشِقَةٌ
 (Titel) -den, Erw. - - | حَبِيبَةٌ
 حَضْرَتِكَ (لَقَّبَ بَعْضُ الأَشْرَافِ)

وِدَادٌ | وِدٌّ | مَحَبَّةٌ | حُبٌّ | Liebe s. f.
 | عِشْقٌ (Verliebtheit) - | مَوَدَّةُ
 | غَرَامٌ | هِيَامٌ | هَوَى | شَغَفٌ
 | رَجُلٌ | رَجُلٌ مُرَاضٍ a. -diener
 | مُرَاضٍ a. -dienerisch | مُتَمَلِّقٌ
 | عاشقٌ s. - | In vn. mit jm. | مُتَمَلِّقٌ
 تَعَاشَقَ.

أَحَبُّ s. وه | lieben va. jn. u. etw.
 | اسْتَحَبَّ | حَبٌّ | i | وَدٌّ | هَوَى a
 (leiden- | تَعَلَّقَ بِ | مال | i إِلَى
 | شَغِفٌ a بِهِ | عَشِيقٌ a s. (schafftlich)
 | -swert a., -swürdig | أولع بِ
 | -swürdigkeit | لَطِيفٌ | أَنِيسٌ a.
 | مُوَانَسَةٌ | أَنَسٌ | لَطَافَةٌ | لُطْفٌ s. f.

أَحْسَنُ | أَوْلَى | أَحَبُّ | lieber adv.
 | قُوَّةٌ * | بِنَادُورَةٌ | Liebes-äpfel s. m.
 | -handel s. m. | Liebschaft | -leute
 | -leid | العاشق والعاشقة s. pl.
 | -paar s. n. | غَزَالِيَّةٌ | غَزَلٌ s. n.
 | -leute | -mahl s. n. | وَلِيْمَةٌ s. f.

وَلَايِم pl. النَّصَارَى الْأَوَّلِينَ |
 وَلِيْمَة الضُّبَّاط فِي الْجَيْشِ الْأَمَانِيِّ
 | الوَلْد | رَهْن الْمَحَبَّة s. n. -pfand
 عَمَل مَحَبَّة s. n. -werk | النَّجْل
 الْقَرِيب.

liebepoll a. مُحِب | وَدِيد | رَقِيق
 الْقَلْب.

Liebhaver s. m. (eines Mädchens)
 (der) - | مُعْرَم | عُشَّاق pl. عاشِق
 Künste 2c.) | رَاغِب فِي | مُوَلَعِبِ
 | رَغْبَة فِي | تَوَلِّيعِ بِ -ei s. f. | هُو
 مَيْل إِلَى.

lieb-Pofen va. jn. لَاطَفَ s. | -Pofung
 s. f. | لَطِيف a. | مُلَاطَفَة s. f.
 | لَذِيذ | لَذِيْفَة s. f. | مَقْبُول
 | لُطْف | لِيْنَة | حَلَاوَة | عُدْوَبَة
 | مَحْبُوب | عِلْق | عَزِيْز s. m. -ling
 عَادِم a. | نُدْمَاء pl. نَدِيم
 | -lofigkeit | قَاسِي الْقَلْب | الرِّقَة
 | قَسَاوَة الْقَلْب | صَلَابَة s. f.
 | -reich a. f. | لِيْبَة | عَدَم الرِّقَة
 | كِيَاْسَة | ظَرَاْفَة | لَطَاْفَة s. m. -reiz
 | جَاذِب الْقَلْب a. | رِيْزَنْد | مَلَاْحَة
 | -schaft | سَالِب الْقَلْب | قَتَان
 | -ste s. m. | مُوَالْفَة غَزَالِيَّة s. f.
 | -s. f. | عَاشِقَة s. f. | العَاشِق
 pl. عَوَاشِق pl.

AGANİ pl. اُغْنِيَّة | غِنَاء s. n. Lied
 نَعْم | اَلْحَان pl. لَحْن | اُغَان u.
 | مَوَالِيَات pl. مَوَالِيَا | اَنْعَام pl.
 - der Vögel | مَوَاوِيل pl. مَوَال *
 | غَرْد الطِّيُور | das Ende vom -e
 عَاقِبَة الْأَمْر.

liederlich (nachlässig) اِعْفَلَان |
 - (auschweifend) | فَاْسِد | فَاْسِق
 | عَاهِر | -feit s. f. (Nachlässigkeit)
 | تَعَاْفَل | تَكَاْسَل | - - (Auschweifung)
 | فِسْق | عِيْر.

Lieferant s. m. | مَجْهِيْز | مَائِن
 lieferbar a. | مَقْدُوْر التَّسْلِيْم
 liefern va. jm. etw. | سَلَّمَ ه لَه
 | جَهَّز ه لَه | قَدَّمَ ه لَه | اَتَى i ه بِ
 | - Schlacht | دَبَّر ه لَه | مَانَ a ه لَه
 | فَتَحَ a الْقِتَال | شَرَعَ a الْحَرْب
 | تَسْلِيْم s. f. | لِيْغَة | بَاشَر ه
 | كُرَاس pl. | جُزْء كِتَاب | تَجْهِيْز
 كَرَارِيْس.

liegen vn. | اِضْطَجَعَ | وُضِعَ | وَقَعَ a
 | وَقَف | بَلِيْبِن i | كَان u.
 | تَرَكَ | لَافَّفِن u ه | glegen an
 | وَاِقَعَ فِي مَحَلَّ | كَاثِن فِي
 | مُوَاْفِق (passend) | مَنَاسِب
 | es ist mir daran gelegen, es liegt
 | يَلْمِنِي هَذَا | mir daran

es liegt | أبالي به | مُهِمَّ عِنْدِي
-schaft s. f. | هُوَ ذَنْبِي | an mir
| أَرْضٍ pl. | ضِيَاعٍ pl. | ضِيَعَةٌ
| مُلْكٍ pl. | عَقَارَاتٍ pl. | عَقَارٍ

lieutenant s. m. | Leutnant.

Eifer s. m. عَرَقٌ.

Eila a. مِنْ لَوْنٍ | مِنَ لَوْنِ اللَّيْلِكَ
الزَّنْزَحَتْ.

Eilie s. f. bot. زَنْبَقٌ | سَوْسَنٌ.

Simonade s. f. | لَيْمُونَاذَةٌ *
لَيْمُونٌ * | لَيْمُونَةٍ * | سِيمُونَةٍ *
coll. | eine -

lind a. عَذْبٌ | حُلُوٌّ | لَيْنٌ.

linde s. f., -nbaum s. m. زَيْزْفُونٌ |
-nblüte s. f. زَهْرُ الزَيْزْفُونِ.

lindern va. etw. ه | لَيْنٌ ه | آلَانٌ ه
| سَكَنٌ ه | خَفَّفٌ ه
s. f. تَسْكِينٌ | نَحْفِيفٌ | تَلْيِينٌ.

lindwurm s. m. تَنَانِينٌ pl. تَنِينٌ
تُعَابِينٌ pl. تُعْبَانٌ.

lineal s. n. مَسَاطِرٌ pl. مَسْطَرَةٌ
مَخْطٌ.

linie s. f. سَطْرٌ | خُطُوطٌ pl. خَطٌّ
| أَسْطُرٌ u. سَطُورٌ pl. (Reihe)
| خَطُّ النَّسَبِ | صُفُوفٌ pl. صَفٌّ
| سِكَّةٌ حَدِيدِيَّةٌ (-Eisenbahn) -

متاريس pl. منراس (-Festungs-)
| خَطُّ الْأَسْتِوَاءِ (Äquator) - die
-nblatt s. n. | قَدَدٌ pl. قَدَّةٌ -n Schiff
| نَوْعٌ مِنَ السُّفُنِ الْحَرْبِيَّةِ s. n.
| جُنُودِ النِّظَامِ s. pl. -ntruppen
| خَطَّطَ الْوَرَقَ Papier liniieren va.
سَطَّرَ ه *.

linf a. أَشْأَمٌ | أَيْسَرٌ | شِمَالِيٌّ
| الشِّمَالِ die -e Hand | شُومَى
| اليُسْرَى | المَيْسَرَةَ die -e Seite
| الشِّمَالِ s. f. | -s | -er Hand f.
| شِمَالًا -s adv. | اليُسْرَى | المَيْسَرَةَ
| عَلَى الْيَسَارِ | عَلَى الشِّمَالِ | يَسَارًا
| خُرْقٌ pl. خُرْقَاءٌ f. | أَخْرَقَ a. -iſch
| خَرِقٌ u. - - - | رَفْلَاءٌ f. | أَرْقَلَ
u. رَفُلٌ.

linnen s. n., linnenzeug s. n. f.
Leinen, Leinenzeug.

linse s. f. bot. عَدَسٌ coll. | eine -
| زُجَاجٌ مُحَدَّبٌ (Glas) - | عَدَسَةٌ
| عَدَسِيٌّ a. -nförmig | عَدَسَةٌ *
| الشُّكْلُ -ngericht s. n. مُحَدَّرَةٌ.

lippe s. f. شِفَاةٌ pl. شَفَوَاتٌ u.
| شِفَاهٌ | dicke, aufgeworfene -
| شِفْتَرَةٌ * | شِفَّةٌ صَحْمَةٌ -nbuch
| حَرْفٌ شَفِيهِيٌّ gr. s. m. stabe.

Liquidation s. f. | تَصْفِيَّةٌ (-Recht)

nung) حساب | liquidieren va.
 etw. ه | صَحَّحَ ه | نَقَّى ه | صَفَّى ه
 lispeln vn. هَمَسَ | صَوْتَهُ | تَكَلَّمَ هَمَسًا
 هَمَّاس | Eisper s. m. هَمَّاس | تَوْشُوشُ *
 مَوْشُوشُ * | الصَّوْتُ
 Eist s. f. حَيْلَةٌ pl. حَيْل | مَكْرُ |
 مَكَايِد pl. مَكِيدَةٌ
 Eiste s. f. قَائِمَةٌ * pl. قَائِمَات u.
 تَقْوِيم * | دَفَاتِر pl. دَفْتَر | قَوَائِم
 pl. لَوَائِح pl. لَائِحَةٌ * | تَقَاوِيم pl.
 listig a. مَكَّار | مُحْتَال | مَكَّار
 Eitanei s. f. kath. وَرْد | وَرْدَةٌ * |
 eine lange - دِكْر طَوِيل -
 Eiter s. n. لِيْتْرَات pl. لِيْتْر *
 Lithograph s. m. طَابِع الْمَرْسُومِ عَلَى
 طَبْع الْمَرْسُومِ عَلَى -ie s. f. | حَجَر
 الْمَطْبُوع | حَجَر
 litterarisch a. ادَبِيّ | Literatur s. f.
 (litte- | عِلْمُ الْاِنْشَاء | عِلْمُ الْاَدَبِ
 rarische Werke) كُتُبْ اَدَبِيَّة
 Liturgie s. f. christl. تَرْتِيبْ اُمُور
 لِيْتْرُجِيَا * | طَقْسْ كَنْسِيّ | الْعِبَادَةُ
 Eize s. f. قَيْطَانَةٌ * | خَيْطُ بَرِيم
 Eivree s. f. لِبْسُ الْخَادِمِ | هُدُومُ الْخَادِمِ
 Eob s. n. تَنْنِيَّة | ثَنَاء | مَدْح
 - | Gott | حَمْدُ (Gottes) - | اِثْنَاء
 | loben va. in. s. a. مَدَحَ | اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

مَجْدٌ ه | اَتْنَى عَلَيْهِ | تَنَى عَلَيْهِ
 | حَمْدُ a الله - Gott | اَمَجْدٌ ه
 -swert a., -swürdig a., lobesam
 a. مَمْدُوح | مَكْمُود | حَمِيد
 Lobeserhebung s. f. f. Lob.
 Lob-gedicht s. n., -gesang s. m.
 | مَدْح زَائِد s. f. تَقْرِيبُ
 | مَدْح a زَائِدًا | هُدَلْن vn. تَمَلَّقَ
 | مَادِح زَائِدًا | هُدَلْر s. m. تَمَلَّقَ
 | مُتَمَلِّق
 löblich a. مَمْدُوح | مَكْمُود | حَمِيد
 Lob-lied s. n. تَقْرِيبُ | -preisen va.
 in. f. loben | -rede s. f. خِطَاب
 صَاحِبْ | -redner s. m. تَقْرِيبِيّ
 | -spruch s. m. خِطَابْ تَقْرِيبِيّ
 f. Lob.
 Loch s. n. ثُقُب pl. ثُقُوب
 pl. بُحُش * | اَعْيُن u. عِيُون pl.
 pl. خَرَقُ (im Kleide) - | اَبْحَاش
 | حُقْرَةٌ (in der Erde) - | خُرُوق
 pl. مَشْقُوب | löcherig a. حُفْر pl.
 مَبْحُوش * | مَخْرُوق | مَنقُوب
 Zöpfen s. f. خُصَلَةٌ pl. خُصَل
 pl. نَاصِيَّة (Stirn-) | زَرَاغِيْن pl.
 pl. نَوَاصِي
 lofen va. in. s. | جَدَّبَ | اِجْتَدَبَ |
 | اَغْرَى ه | فَتَنَ ه | اَمَالَ ه

locher a. (loſe) | رَحُو | مُرْتَخ |
 (liederlich) | فاسِق | -n va. etw.
 هَ أَرَحَى .

lochig a. | دُو زَرَفِين | دُو خُصَل |
 دُو شَعْر مُزْرَقِن .

Lochmittel s. n., -speise s. f., -ung
 s. f. | جَوَادِب | طُعْمَة * | جَادِب pl.
 pl. | رَامِج | -vogel s. m. | طُعْم pl.
 مَلَاوِيج pl. | مِلْوَاِح | رَوَامِج .

Loeden s. m., Loedentuch s. n., Loeden-
 zeug s. n. | جُوح خَشِن .

lodern vn. | اِسْتَعَل | اِلْتَهَب .

Loeffel s. m. | مَلَاعِق pl. | مِلْعَقَة .
 des Hasen | اُذُن الَّارْتَب pl. | اَذَان .

Loog s. n. | آَلَة يُقَاس بِهَا سَيْر المَرْكَب .

Logarithmus s. m., pl. -en | الغَارِيْتَمَة *
 اَنْسَاب الاعداد pl. | نَسَب عَدَد .

Loge s. f. (im Theater) | مَقَام فِي
 (frei- | مَنظَرَة | مَنظَر | اِلْتِيَاثَرُو
 maurer-) | جَمْعِيَّة المَسُونِيَّين .

Logik s. f. | عِلْم المَنْطِق | logisch a.
 مَنطِقِي .

loh a. | مُشْتَعَل | مُلْتَهَب |
 s. f. (zum Gerben) | عِطَان | قِشْر
 (flamme) | - | البَلُوط مَسْحُوق للَدَبْغ
 | lohnen vn. | اِلْتَهَب | لَهِيْب
 | Lohverber s. m. | دَبَاغ | اِسْتَعَل .

Lohn s. m. | اَلْجُرَة (لِلْعَمَلَة مِثْلًا)
 pl. | اَجْر (Belohnung) - | كِرَاء
 | مُكَافَاة | ثَوَاب | آجَار u. | اَجُور
 -arbeiter s. m. | اَجِير pl. | اَجْرَاء
 -en vn. jm. für etw. | كَافَاة بِ
 | اَجْر هَ عَلَى | es lohnt nicht, es
 lohnt sich nicht | يَذْكُر هَذَا اَمْر لَآ
 | اَو لَآ يُعْتَد بِه | es lohnt der
 Mühe nicht | لَآ يُحْرَز هَذَا شَيْء
 -futsche s. f. | عَجَلَة كِرَاء pl. | عَجَل
 u. | عِجَال | -futscher s. m. | سَوَاق
 | -tag s. m. | عَجَلَة كِرَاء | يَوْم تُدْفَع
 فِيه الَّجُرَة .

Lohnung s. f. | اَجْرَة . | كِرَاء .

Loſal s. n. | مَحَل | (Restaurant)
 | لُوكَنْدَة | مَحَل الَّأَكْل والشَّرْب .

Loſomotive s. f. | اَوْبُور * | آَلَة التَّحْرِيك
 | والتَّنْقِيل فِي السِّكِّ الحَدِيدِيَّة .

Loſch s. m. zool. | دَنْقَة | زَوَان
 | زَوَان .

London n. pr. | لُنْدُن | لُنْدَرَا .

Loſbeer s. m. bot. | غَار | زُنْد |
 bld. - | ظَفَر | اِكْبِيل الظَّفَر |
 -baum s. m. | شَجَر الغَار | فرانس
 s. m. | اِكْبِيل الظَّفَر .

Loſnette s. f. | نَظَارَة صَغِيرَة .

Los s. n. | قُرْعَة | قُرْعَة | سَهْم pl.

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| أَقْتَرَعَ das - ziehen أسهام | كَسَبَ i المال Geld - أَرْخَى ه |
| bld. - نصيب pl. (Schicksal) | إِرْتَخَى انْحَلَّ انْفَكَ - sich |
| glückliches - نُصِبَ u. أَنْصَبَةٌ | إِنْقَضَ عَلَيْهِ los-fahren vn. auf jn. |
| trauriges - نَحَسَ بَحَثَ حَظَّ | -geben va. jn. هَجَمَ u. عَلَيْهِ |
| (frei مَحْلُولٌ مَفْكُوكٌ los a. | -gehen vn. خَلَصَ ه أَطْلَقَ ه |
| von) خَالِصٌ مِنْ مُخَلَّصٌ مِنْ | (Gewehr) - انْفَكَ انْحَلَّ |
| etw. - sein, werden تَخَلَّصَ مِنْ | أَطْلَقَتِ الْبُنْدُوقِيَّةَ auf jn. - - |
| was ist -? ما الْخَبْرُ los! interject. | فِدَاءِ s. m. هَجَمَ u. عَلَيْهِ |
| يَا لَهِ * هَلُمَّ جَرًّا هَيَّا هَيَّا | فَدَى i ه فَاوْفَى - فَاوْفَى va. jn. |
| lösbar a. قَابِلُ الدَّوْبَانِ مُمَكِّنُ حَلَّتِهِ | تَخَلَّصَ نَجَا u تَخَلَّصَ - kommen vn. |
| losbinden va. etw. ه فَكَّ ه u ه | أَطْلَقَ ه وه أَطْلَقَ - lassen va. jn. u. etw. |
| إِنْشَاشٌ * وَرَقٌ نَشَافٌ Lösch-blatt s. n. | كَفَّ u عَنِ - - etw. أَرْخَى ه وه |
| أَحْمَدَهُ أَطْفَأَ النَّارَ -en va. Feuer | لَوَسَّ لَوَسَّ لَوَسَّ lösen va. f. lösen |
| نَضَمَ a قَتَلَ u الْعَطَشَ - Durst | حَلَّ u ه -machen va. etw. ه u ه |
| شَفَى i الْغَلِيلَ الْعَطَشَ - - | فَكَ u ه - - jn. u. etw. von |
| مَحَا u الْمَكْتُوبَ - Schrift | خَلَصَ ه وه مِنْ sich - - von |
| أَنْزَلَ الْبَضَائِعَ مِنْ Schiffsladung | تَخَلَّصَ مِنْ -reißen va. etw. |
| الْمَرْكَبِ -papier s. n. f. -blatt. | فَكَعَ a ه نَزَعَ i ه نَزَعَ - - von |
| lose a. مَحْلُولٌ مَفْكُوكٌ lose | تَخَلَّصَ مِنْ -sagen v. sich von |
| خَبِيثٌ (schlecht) - (schelmisch) - | تَنْزَلَ عَنِ رَجَعَ i عَنِ عَنِ etw. |
| كَيْسٍ. | أَطْلَقَ الْبُنْدُوقِيَّةَ -schießen vn. |
| Lössegeld s. n. فِدَى فِدَى für | إِنْقَضَ - - auf jn. ابْتَدَأَ bld. |
| jn. - bezahlen ه i فِدَى. | فَدَى -schlagen va. Waren |
| lösen vn. تَقَارَعَ تَسَاهَمَ lösen | بَاعَ i الْبَضَائِعَ vn. - - auf jn. |
| قَارَعَ ه سَاهَمَ ه - | ضَرَبَ i ه -schlagen va. etw. |
| لَوَسَّ لَوَسَّ لَوَسَّ lösen va. jn. ه i فِدَى | حَلَّ حَلَّ حَلَّ -sprechen va. jn. |
| فَكَ u ه حَلَّ u ه - etw. | بَرَّأَ ه |

Loſung s. f. شِعَار | - des Wildes
زِبْل الصَيْد.

Loſung s. f. حَل | فَك | اِنْجِلَال |
كَوْبَان.

Loſungswort s. n. شِعَار.

Loſziehen va. etw. ه u حَل | فَك ه
وَبَّغ ه | شَتَم ه u.

Loſ s. n. مَرَاجِيس pl. مِرْجَاس
مِقْيَاس (Maß) - | مَسَابِر pl. مِسْبَر
سَبَر u | رَجَس u | رَجَس u - en | قَدِيم

Loſſe s. m. دُوْمَنْجِي * | فِلَاوُز *
كَيْدُبَان المَرْكَب *.

Loſter-bett s. n. مَرْتَفَقَات pl. مَرْتَفَق
bube s. m. - | سُدَد pl. سُدَّة | مَتَكَأ
رَجُل خَيْيْث.

löten va. etw. ه u اَلْحَم | اَلْحَم ه.

lotrecht a. عَمُوْدِيّ.

Loſterie s. f. لُعْبَة | لُعْبَة بِالنَّصِيْب
Lotto | لُوْتَرِيَا * | اِسْتِهَام | بِالْقُرْعَة
s. n. لُوْتُو *.

Lotus-baum s. m. مَيْس | -blume
عَرَائِس | نُوْفَر * | نَيْلُوْفَر *
النَيْل.

Löwe s. m. اَسُوْد u. اَسُوْد pl. اَسُوْد
اَبُو الحَارِث | سِبَاع pl. سَبَع *
مَا يُحَاصّ s. m. -nantel | غَدْنُفَر
النَّفْسِيهِ المَرءِ جَوْرًا مِّنَ الْقِسْمَة

-nhündchen s. n. نُوْع مِّنَ الْكِلَاب

نوْع | الصَّغِيْرَة -nmaul s. n. bot.

نوْع | مِّنَ الْأَزْهَار -nzahl s. m. bot.

اِهْنَدِبَاء بَرِّيَّة | سِنَّ الْأَسَد *

Loſwin s. f. اَسَدَة.

Loſch s. m. zool. فَهْد pl. فَهُوْد
u. اَفْهَد.

Loſche s. f. ثُقُب pl. ثُقُوب | خَرْق

اَنْقَاب pl. ثُقُب | خُرُوق pl.

اِفْضَاء | اِحْلَال u. اِحْلَال pl. خَلَّة

eine - ausfüllen | نَقْصَان | اِحْلَاء

-nbüßer s. m. | سَدَّ u. اِحْلَال

-nhaft a. | اِمْتِلَاء | تَطْوِيْل | اِحْشُو

دُو نَقْصَان | دُو اِحْلَال

Loſder s. n. جِيْفَة pl. جِيْف u.

اِرِمَم pl. رِمَة | مِيْتَة | اَجِيَا

leben s. n. | اِمْرَاة فَاحِشَة bld.

فُجُوْر | فِسْق.

lüderlich a. f. liederlich.

Luſt s. f. اَهْوِيَّة pl. هَوَاء

(bewegte) - | اَنْفَاس pl. نَفْس

frische - schöpfen, an die

اِتْنَزَة | شَمَّ u. اَلهَوَاء | - gehen

اِحْلَاص ه | اِحْلَاص | - machen

ballon s. m. -ballon | تَخْلَص

-dicht a., - -er Verſchluß | سَدَّ

مُحْكَم.

lüften va. *Simmer* *هُوَى الْحُجْرَةَ |
Kleider - | جَدَّدَ الْهَوَاءَ فِي الْحُجْرَةَ
Hut - | عَرَضَ i الثِّيَابَ لِلْهَوَاءِ
رَفَعَ a البرُّنَيْطَةَ.

luft-ig a. هَوَاءِي | مَعْرُوضٌ لِلْهَوَاءِ
نافذة s. n. -loch | شَرِحَ * | جَوِي
pumpe s. f. | طاقة * | نَوَافِدُ pl.
röhre - | مِغْرَاغُ | آلَةٌ مُفَرِّغَةٌ الْهَوَاءِ
السُّبُوبِ الرِّثَّةِ | قَصَبَةُ الرِّثَّةِ s. f.
رِثَّةِ | قَتَّحَ قَصَبَةَ s. m. -röhrenschnitt
مُسَافِرٍ فِي s. m. -schiffer | الرِّثَّةِ
أَوْهَامِ pl. وَهْمِ s. n. -schloß | مُنْتَطَادِ
قَفْزَةٍ s. m. -sprung | رَجَاءِ pl.
وَتْبَاتِ pl. وَتْبَةٌ | قَفْزَاتِ.

Lüftung s. f. تَرَوُّحٌ.

Luft-ziegel s. m. لِبْنَةٌ | zug s. m.
رِيحِ pl. رِيحٍ.

Lug s. m. f. Lüge.

Lüge s. f. كَذِبٌ | بُهْتَانٌ | كَذَّبَ s.
ju. -n strafen

lügen vn. u أَبْصَرَ | نَظَرَ.

lügen vn. i كَذَّبَ | كَذَّبَ i
-haft a. كَاذِبٌ | بُهْتَانِي | كَاذِبٌ
s. n. f. Lügner.

Lügner s. m. كُذَّابٌ pl. كَاذِبٌ | كَذَّبَ u.
كُذُوبٌ | كَذَّابٌ - großer | كَذَبَةٌ
-isch a. f. lügenhaft.

Rösch s. f. نَوَافِدُ pl. نَوَافِدَةٌ |
طَاقَةٌ | رَوَاشِنِ pl.

Rümmel s. m. رَجُلٌ غَلِيظُ الطَّبَعِ |
-ei s. f. خُشُونَةُ الطَّبَعِ -haft a.
سَلَكَ u. vn. -n | غَلِيظُ الطَّبَعِ
بِخُشُونَةِ الطَّبَعِ.

Sump s. m. صَعَالِيكَ pl. صُعْلُوكُ |
خُبَيْثَاءِ pl. خَبِيثٌ | ذَنِي الطَّبَعِ
لَمْ يُقْتِرْ -- lassen v., sich nicht --
شَرْطُوطَةٌ * | خِرْقٌ pl. خِرْقَةٌ s. m. -en
تُرْهَةٌ s. n. -ending | شَرَاطِيظِ pl.
لَفَاءِ | قُلَامَةٌ | تُرْهَاتِ pl. -en
أَسَافِلِ s. n., -enpacß s. n. -engefindel
خِرْقِي s. m. -ensammler | القَوْمِ
تُرْهَةٌ pl. -erei s. f. | لَقَاطِ الخِرْقِ
إِبَالِ a. -ig | لَفَاءِ | قُلَامَةٌ | تُرْهَاتِ
إِمْسِكِينَ | رَثِيثِ الثِّيَابِ | خَلَقِ
ذَنِي.

Sunge s. f. رِثَّةٌ pl. رِثَاتٌ |
entzündung s. f. التَّيْهَابُ الرِّثَّةُ |
-nflügel s. m. قِسْمُ الرِّثَّةِ
pl. أَقْسَامِ | -n[schwindsucht s. f.,
-nsucht s. f. دَاءُ السِّلِّ | سِلِّ s. f.

luntern vn. a تَكَاسَلٌ | كَسِلٌ.

Lunte s. f. شَعِيْلَةٌ pl. شَعِيْلٌ u.
أَذْرَكَ riefen - | نُوبِسَةٌ * | شُعْلٌ

اِسْتَدْرَكَ الدَّخَائِلِ | اَلْمَقْصِدِ اَلْخَفِيِّ
وَالدَّفَائِنِ.

Eupe s. f. نَظَارَةٌ مُكْبِرَةٌ.

Eupine s. f. bot. باقلاء | ثَرْمُوسِ
مِصْرِيَّةٍ.

Eust s. f. اِقْرَحَ | اِنْبِساط | سُرُور
(Begierde) - | لَذَاتِ pl. لَذَّةٌ | خَاطِرِ
بِصْغَاءِ - mit | شَهَوَاتِ pl. شَهْوَةٌ
| seine - befriedigen, stillen,
büßen | اَهْوَاءُهُ | اَرْضَى اَهْوَاءَهُ
| اِسْتَهَى هـ | رَغِبَ a في | haben zu
| لَعِبَ | تَسْلِيَّةٍ s. f. barkeit -
| اِبْنَةٌ s. f. dirne - | نَزْهَةٌ | لَهْوِ
| فَاجِرَاتِ pl. فَاجِرَةٌ | اَلْخَطَا
شَرَامِيطِ pl. شَرْمُوطَةٍ *

lüsten v., es lüstet mich nach etw.
اِنِّي رَاغِبٌ فِي

lüstern a. nach | رَاغِبٌ فِي | -heit s. f.
اِسْتِهَاءِ | شَهْوَةٍ | رَغْبَةٍ.

Eust-garten s. m. حَدِيقَةٌ | رَوْضَةٌ
-ig a. | جُنَيْنَةٌ | حَدَائِقِ pl.
| مُلِهِ (Sache) - | فَرْحَانِ | مَسْرُورِ
| مَضْحِكِ | مَلَّةِ | sich - - machen
über | اِسْتَهْزَأَ بَ | -igkeit s. f.
فَرَحِ | اِنْتِشِرَاحِ | سُرُورِ | اِنْبِساطِ

Eüstling s. m. رَجُلٌ شَهْوَانِيٌّ
رَجُلٌ مُحِبُّ اللَذَاتِ.

اَقْتُلْ لِاِرْوَاءِ الشَّهْوَةِ. Eust-mord s. m.
اِقَاتِلْ لِاِرْوَاءِ الشَّهْوَةِ. -mörder s. m.
اَلدَّاءِ اَلْمُبَارَكِ. -feuchte s. f. med.
-mandeln | حَبِّ | اَلْمَرَضِ اَلْاَفْرَنْجِيِّ
تَفَرَّجَ * | شَمِّ i اَلْهَوَاءِ | تَنَزَّهُ vn.

Eutheraner s. m. رَجُلٌ لُوتِيْرِيٌّ
lutherisch a. | رَجُلٌ بُرُوتِسْتَانِيٌّ
Euthertum | بُرُوتِسْتَانِيٌّ | لُوتِيْرِيٌّ
s. n. مَذْهَبُ اَلْبُرُوتِسْتَانِ.

lutschen vn. u مَصَّ.

Euv s. f., Euvseite s. f. mar. جِهَةٌ
الرَّيْبِ.

Eurus s. m. زَهُو | فَخْرُ
فَيْضٌ | مُفْرِطَةٌ.

Euzerne s. f. bot. بِرْسِيْمِ.

Eybien n. pr. اَللُّبَّةِ | لَوْبَةٌ
lybisch a. | لُوبِيٌّ | لَابِيٌّ.

Eymphe s. f. مَادَّةٌ | خِلْطٌ مَائِيٌّ
مَائِيَّةٌ.

Eyra s. f. mus. (اَلْمُوسِيْقَى) pl. عُودِ
صَنْعٌ دُوْ اَوْتَارِ | عِيْدَانِ u. اَعْوَادِ.

Eyris s. f. اَلْقَصَائِدِ غِنَائِيَّةِ -er s. m.
| شَاعِرِ قَصَائِدِ غِنَائِيَّةِ | lyrisch a.
غِنَائِيٌّ.

Eyzium s. n., pl. -een مَدْرَسَةٌ
مَدَارِسِ pl. تَجْمِيْزِيَّةِ.

٢١٦

المَرْفُ الثَّالِثُ عَشْرَ مِنْ حُرُوفِ
الْحِجَاءِ.

Mache s. f. شَيْءٌ | شَيْءٌ صِنَاعِيٌّ

| عَمِلَ a ه | machen va. etw. ه | مُصَنِّعٌ

was - | صَنَعَ a ه | فَعَلَ a ه

etw. gut - | كَيْفَ حَالِكَ Sie?

أَصْلَحَ ه | أَحْسَنَ ه | أَحْكَمَ ه

Feuer - | أَسَاءَ ه | etw. [schlecht

زَتَبَ الْفِرَاشَ - | أَوْقَدَ النَّارَ

in. zu | وَسَّعَ لَهُ - | im. Platz

etw. - | جَعَلَ a ه شَيْئًا - | sich viel

aus etw. - | اِعْتَبَرَ ه | بَالَى ه أَوْ بٍ -

| اِنْتَصَرَفَ | ذَهَبَ a - | sich davon

| بَاشَرَ ه أَوْ بٍ - | sich an etw.

- | سَرَعَ a ه | sich darüber her

gemacht (künstlich) | سَرَعَ a ه

ein ge- | غَيْرَ طَبِيعِيٍّ | مُتَّصِنِعٌ

Machen- | رَجُلٌ تَامٌّ | machter Mann

| دَسَائِسٍ pl. | دَسِيسَةٌ s. f. | schaft

| اَعْمَالٍ | صَنَاعٍ | Macher s. m.

| اَعْمَلُ الصَّانِعِ | Macherlohn s. m.

شُغْلَةٌ *

| يَدٍ | سُلْطَةَ | قُدْرَةَ | Macht s. f.

| سَادَ u عَلَيْهِ | haben über in.

| وَلَى ه | تَسَلَّطَ عَلَيْهِ | in. - geben über

اِسْتَوَى | etw. in seine - bringen | عَلَى

pl. | اَمْرٌ ظُلْمِيٌّ | -gebot s. n. | عَلَى

صَاحِبِ الْاَمْرِ | -haber s. m. | اَوَامِرِ

pl. | اَصْحَابِ وَالنَّهْيِ

مَاحِثٌ a. | قَوِيٌّ | قَدِيرٌ | قَادِرٌ

gen. - | اِقْتَدَرَ | sein einer Sache

u | سَادَ عَلَى | - sein | عَلَى | seiner selbst

adv. | تَسَلَّطَ عَلَى نَفْسِهِ | نَفْسِهِ

جِدًّا (sehr).

machtl-los a. | عاجِزٌ | -losigkeit s. f.

| حُكْمٌ مُطْلَقٌ | -spruch s. m. | عَجْزٌ

-vollkommenheit s. f. | سُلْطَانٌ

| -wort s. n. | مُطْلَقٌ | -spruch.

Machwerk s. n. | عَمَلٌ.

Madam s. f. | سَيِّدَةٌ | سِتٌّ.

Mädchen s. n. | ابْنَةٌ pl. | بَنَاتٌ

| صَبَايَا pl. | صَبِيَّةٌ | بَنَاتٌ pl. | بِنْتٌ

- | فَتَيَاتٌ pl. | فَتَاةٌ - | junges

| خَوَادِمٍ pl. | خَادِمَةٌ (-Dienst)

| جَوَارٍ pl. | -jäger s. m. | طَالِبٌ

| -stube s. f., -zimmer | البَنَاتِ

s. n. | حُجْرَةٌ لِلْخَادِمَةِ

Madre s. f. | دُوْدَةٌ pl. | دِيدَانٌ u.

Mädel s. n. | Mäddchen.

madig a. | مُدَوِّدٌ | دَائِدٌ

Madonna s. f. kath. | السَّيِّدَةُ مَرْيَمُ

العَدْرَاءِ.

Magazin s. n. مَخْزَن pl. مَخَازِن.

Magd s. f. خَادِمَة pl. خَوَادِم |

إِماء pl. أُمَّة | جَوَارِ pl. جَارِيَة

u. أَمَوَات.

Mägdlein s. n. f. Mädchen.

Magen s. m. مِعْدَة | - (der Tiere)

-bitter s. m. كُرُوش pl. كِرُوش

-frampf s. m. عَرَق لِتَقْوِيَة المِعْدَة

تَشْتَج المِعْدَة.

mager a. نَحِيْف | نَحِيْل | هَزِيْل |

هَزُول | نُحُول | نَحَافَة s. f. -feit

Magie s. f. سِحْر | رُقِيَة | رَقِي | سِحْرِي

a. مُخْتَصِّ بِالرُقِيَة | سِحْرِي a.

Magister s. m. مُعَلِّم | مُدَرِّس.

Magistrat s. m. الحُكَّام | بَلَدِيَّة * |

البَلَدِيَّة.

Magnat s. m. رَجُل شَرِيْف النَسَب

فِي بِلَاد المَجْر.

Magnet s. m. حَجَر مَغْنَطِيْس |

-isch a. جَوَادِب pl. جَابِ

-ismus s. m. جَابِ | مَغْنَطِيْسِي

-nadel s. f. خَوَاص المَغْنَطِيْس

إِبْرَة مَغْنَطِيْسِيَّة.

Magnolie s. f. bot. نَبَات مِن أَمِيرِيكا

بَهِي الأَزْهَار.

Mahagoni s. n., Mahagoniholz s. n.

خَشَب كَابِلِي.

Mahd s. f. حَصَاد | حَشِي | جَزّ

Mähder s. m., Mähderin s. f. f.

Mäher, Mäherin.

mähen va. etw. ه | حَشِي u ه | جَزّ u ه

Mäher s. m. حَصَد u, i ه

Mäherin s. f. حَصَاد | جَزَّاز | حَشَّاش

s. f. حَصَادَة | جَزَّازَة | حَشَّاشَة

Mahl s. n. عَزُومَة * | وِلَائِم pl. وِلِيْمَة

mahlen va. etw. ه | طَحَن ه | طَحَن a ه

دَقَّ u ه.

Mahlzeit s. f. عَشَاء | غَدَاء | أَكَل s. f.

عَزُومَة * | وِلَائِم pl. وِلِيْمَة

Mähne s. f. عُرْف | ذَوَائِب pl. ذَوَابَة s. f.

mahnen va. jn. an etw. ه | ذَكَر ه

طَالَب - um Geld | نَبَه ه عَلَى

Mahner s. m. مُنَبِّه | ه المَال

Mahnung s. f. مُطَالِب | طَالِب

مُطَالِبَة | تَنْبِيه.

Mähre s. f. كَدِيْبَش * | أَفْرَاس pl. فَرَس

pl. كُدَش.

Mai s. m. -blume | نَوَّار | أَيَّار | مَائُو * |

s. f. bot. نَوْع مِن السَّوسَن.

Maid s. f. f. Mädchen.

Mai-glöckchen s. f. f. -blume | -käfer

s. m. خُنْفَسَاء | جِعْلَان pl. جُعَل

pl. خَنَافِس.

Mais s. m. ذُرَّة.

Maitranf s. m., Maiwein s. m.

شَرَابٍ مِنْ خَمْرٍ وَخَشْنَاءِ.

Majestät s. f. الْحَضْرَةُ | جَلَالَةُ الْمَلِكِ

| عِزَّةٌ | جَلَالَةٌ | الْمُلُوكِيَّةُ

| ذُو جَلَالَةٍ | جَلِيلٌ a. -ifdh | هَيْبَةٌ *

brechen s. n. | -sbeleidigung s. f., -sver-

brechen s. n. | جِنَايَةٌ عَلَى الْمَلِكِ

| إِهَانَةُ الْمَلِكِ

Major s. m. mil. | بِنْبَاشِيٌّ *

Majoran s. m. bot. | حَبَقُ الْفَتَى

| مَرْزَنْجُوشٍ | مَرْدَقُوشٍ | حَبَقُ الْفَيْلِ

Majorat s. n. | رِزْقٌ يَتَوَارَثُ خَلْفًا

| عَنِ سَلَفٍ

majorenn a. | -ität | رَشِيدٌ * | بَالِغٌ

s. f. | رُشْدٌ * | بُلُوغٌ

Majorität s. f. | أَكْثَرُ الْأَرَاءِ | أَغْلَبِيَّةٌ

Mafel s. m. | وَسَخٌ | نَجَاسَةٌ | بَقَعٌ

pl. | أَوْسَاحٌ

mäfelu vn. | وَبَّغٌ | لَامٌ u | اِنْتَقَدَ

Mafler, Mäfler s. m. | سِمْسَارٌ pl.

(Tadler) | - | دَلَالٌ | سَمَاسِرَةٌ

| لَائِمٌ | مُنْتَقِدٌ

Mafrele s. f. | سَمَكٌ بَحْرِيٌّ مُبَقَّعٌ

Mafrone s. f. | حَلْوَى فِيهَا لَوْزٌ وَسُكَّرٌ

| لَوْزِبَنْجٌ *

Mafulatur s. f. | وَرَقَةٌ مَطْبُوعَةٌ

| يُعْطَى بِهَا

Mal s. n. | مَرَّةٌ pl. | مَرَّاتٌ u. | مِرَارٌ |

(Seichen) | - | تَارَةٌ | كَرَّةٌ | دَفْعَةٌ

| رُسُومٌ pl. | رَسْمٌ | عِلَامَاتٌ pl. | عِلَامَةٌ

| سِمَاتٌ pl. | سِمَةٌ | وَسُومٌ pl. | وَسْمٌ

- | شَامَةٌ (Körper) - | شَامٌ pl. u.

| شَامَاتٌ

malen va. etw. | صَوَّرَ هـ | رَسَمَ u هـ

| مُصَوِّرٌ s. m. | مَالِرٌ | نَقَشَ u هـ

| Malerei s. f. | دَهَانٌ (Stuben-) -

| مُصَوِّرَةٌ s. f. | مَالِرِيْنٌ | تَصْوِيرٌ

Malta n. pr. | مَالِطَةٌ

Malter s. m. | مُدٌّ pl. | أَمْدَادٌ

| مِنَ الْأَكْبِيَالِ لِلْحُبُوبِ

Malve s. f. bot. | مَلُوكِيَّةٌ | اِخْبَازِيٌّ

| خُبَيْزَةٌ * | خُبَّازَةٌ

Malz s. n. | شَعِيرٌ تُصْنَعُ بِهِ الْبِيْرَةُ

an ihm ist Hopfen u. - verloren

| لَا يُصْلَحُ

Mama s. f. | مَامَا * | أُمِّيٌّ

Mameluck s. m. | مَمْلُوكٌ pl. | مَمَالِيْكٌ

Mammon s. m. | مَالٌ | كَنْزٌ

Mamsfell s. f. | سَيِّدَةٌ (لَقَبٌ) | اِسْتٌ

| خَوَاتِيْنٌ pl. | خَائُونٌ *

man pr. | النَّاسُ

mancher a. | مُخْتَلِفٌ a. | -lei a. | بَعْضٌ

Manchetten s. pl. | اِزْبِنَةٌ أَكْمَامِ الْقَمِيصِ

| - haben a. | خَافٌ

- manchmal adv. | أَوْقَاتًا | أَحْيَانًا |
 طَوْرًا | نَارَةً | مِرَارًا | بَعْضَ الْأَحْيَانِ
- Mandarine s. f. | يُوْسُفُ أَفْنِدِي * |
 نَوْعٌ صَغِيرٌ مِنَ الْبُرْتُقَانِ
- Mandat s. n. | تَفْوِيضٌ | مَأْمُورِيَّةٌ |
 أَمْرٌ بِدَفْعِ مَبْلَغٍ | وَكَالَةٌ
- Mandel s. f. | لَوْزٌ coll. | eine - |
 لَوْزَاتٌ pl. | لَوْزَةٌ * (am Hals) -
 مِقْدَارُ خَمْسَةِ عَشَرَ (Eiermaß) -
 -baum s. m. | (مِقْيَاسُ الْبَيْضِ)
 لَوْزِيٌّ a. | -förmig - | شَجَرَةُ اللَّوْزِ
 حَلِيبُ اللَّوْزِ s. f. | -milch - | الشِّكْلُ
 زَهْيَرِيَّةٌ s. n. | -öl - | مُسْتَحْلَبُ اللَّوْزِ
 لَوْزِيْنَجٌ * | لَوْزِيَّةٌ s. f. | -torte
- Mandoline s. f. mus. | طُنْبُورٌ صَغِيرٌ
- Mangel s. m. | قِلَّةٌ | نُقْصَانٌ | عَدَمٌ |
 هَابِنٌ, لَعِيْنٌ - | عِيُوبٌ pl. | عَيْبٌ
 اِخْتِيَاجٌ إِلَى | اِخْتِيَاجٌ إِلَى | اِفْتَقَرُ إِلَى
- Mangel s. f. | مِصْقَلُ الْأَقْمِشَةِ
- mangelhaft a. | مَعِيْبٌ | عَائِبٌ | نَاقِصٌ |
 نُقْصَانٌ -igheit | سَاقِطٌ | مَعِيُوبٌ
 عَيْبٌ
- mangeln vn. u | قَصَرَ | عَدِمَ | اِنْقَصَ |
 اِعْتَدَمَ | اِخْتِيَاجٌ إِلَى | اِفْتَقَرُ إِلَى
 اِعْتَدَمَ | اِخْتِيَاجٌ إِلَى | اِفْتَقَرُ إِلَى
- mangeln va. | مَاقِشَةٌ u |
 الْغَسِيْلُ
- Manichäer s. m. stud. | دَائِنٌ |
 غُرْمَاءٌ pl.
- Manier s. f. | طَرِيْقَةٌ pl. |
 عَوَائِدٌ pl. | عَادَةٌ | مَنَاهِيْجٌ pl. | مِنْهَاجٌ
 -lich a. | أَدِيْبٌ -
- Manifest s. n. | اِعْلَانٌ مَلِكٌ أَوْ حِزْبٌ
- Mann s. m., pl. | مَنَّاْمِرٌ pl. |
 زَوْجٌ (-Ehe) - | اِمْرُؤٌ | مَرءٌ | رِجَالٌ
 pl. | مَنَّاْمِنٌ - | بَعْلٌ | اَزْوَاجٌ pl.
 eine Ware an | صَاحِبٌ اِقْطَاعَةٌ
 den - bringen | اِبْيَاعَةٌ اِلَى
 eine Tochter an den - bringen
 زَوْجٌ بِنْتًا
- Manna s. n. | مَنَّ
- mannbar a. | اِبْلَغٌ سِنِّ الزَّوْجِ (بِنْتٌ) |
 بُلُوْغٌ سِنِّ الزَّوْجِ (بِنْتٌ) s. f. -
- Männchen s. n. (von Tieren) | ذَكَرٌ
 ذُكُوْرٌ pl. | اَلْحَيَوَانَاتِ
- Mann-esalter s. n. | رُجُلَةٌ |
 -esraft | سِنُّ الرُّجُوْلَةِ | رُجُوْلِيَّةٌ
 s. f., -esmut s. m. | مَرْوَةٌ | مَرْوَةٌ s. m.
 -heit | ذُو مَرْوَةٍ a. | -haft a. | حَمَاسَةٌ
 s. f. | مَرْوَةٌ | رُجُوْلَةٌ s. f.
- mannig-fach a., -faltig a. | مُخْتَلِفٌ

-nspiel s. n. | كَرَكُوزْ * | -nspieler
s. m. كَرَكُوزَاتِي.

Mark s. f. (Münze) | مَارَكْ * (نَقْدَ أَمَانِي) |
| أَوْزَنْ رُبْعَ الْأَقَّةِ تَقْرِيْبًا (-) (eine feine
- | نَحْمُ | حُدُودِ pl. | حَدِّ (Grenze) -
- | نَحُومِ pl. | بَعْضِ الْبِلَادِ (Ge-
markung einer Stadt) | جَوَارِ مَدِينَةٍ
| مَارَكْ s. n. (der | رَبَضِ مَدِينَةٍ
Knochen) | مَخَاخِ pl. | مَتِّ (Knochen)
| لُبِّ (der Pflanzen) - | لُبُوبِ |
قَلْبِ.

Marke s. f. (Zeichen) | عِلَامَةٌ pl.
| سِيْمَاتِ pl. | سِيْمَةٍ | عِلَامَاتِ
| وَسْمِ الْبُوسَطَةِ * (Brief-) -
وَسْمِ الْبَرِيدِ.

Markfetender s. m. | بَيْعِ الْمُوْتَةِ
لِلْعَسْكَرِ.

Markgraf s. m. | لَقَبِ بَعْضِ الْأَمْرَاءِ
فِي أَمَانِيَا.

markig a. | قَوِيٌّ | كَثِيْرُ الْمَتِّ.

Markise s. f. | وِقَايَةٌ مِنَ الشَّمْسِ
(قماتش).

marklos a. | ضَعِيْفٌ.

Markfcheider s. m. | مُكْنَدِسٌ فِي
الْمَعَادِنِ.

Markstein s. m. | عِلَامٌ u. | عِلَامِ pl.
| أَنْصَابِ pl. | نَصَبِ.

Markstück s. n. | مَارَكْ * (نَقْدَ أَمَانِي).

Markt s. m. | أَسْوَاقِ pl. | سُوقِ
-en vn. | بَازَارْ * | مَوَاسِمِ pl. | مَوْسِمِ
mit jm. über den Preis * | عَالَجٌ
بَلَدِ | بَلَدَةٍ s. m. | فِلْعَانِ - | فِي الثَّمَنِ
-gängig | قَصَبَةٍ | بُلْدَانِ u. | بِلَادِ pl.
| بَازَارْ * s. f. | رَائِحِ (بِضَاعَةٍ) a.
-platz | حَزَامِ الْبِضَائِعِ s. m. | هِلْفَرِ s. m.
| سُوْقِ s. m. | -schreier s. m. | تَاجِرِ
فَشَّارِ.

Marmel s. m., Marmelstein s. m.
f. Marmor.

Marmelade s. f. | مَرْبِيٍّ مِنَ فَوَائِدِ *
pl. مَرْبِيَّاتِ.

Marmor s. m. | مَرْمَرٌ | رُخَامِ -brust
s. f., -busen s. m., -herz s. n.
لَوْنٌ هـ | -ieren va. etw. | قَلْبِ قَائِسِ
مِن رُخَامِ a. -n | يَلُوْنُ الرُّخَامِ.

Maroffaner s. m. | مَرْابِيٍّ | مَرَاكِشِيٍّ
pl. مَعَارِبَةٍ | maroffanisch a.
| مَرْابِيٍّ | مَرْابِيٍّ | مَرَاكِشِيٍّ
مَرَاكِشِ.

Marone s. f. | كَسْتَنَاءِ.

Maronit s. m. | مَارُونِيٍّ pl. | مَوَارِنَةٍ.

Mars s. m. astr. | كَوْكَبِ الْمَرْبِيْعِ
- mar. | فِي أَعْلَى الصَّارِيِ pl. | -

- Marsfelgel s. n. mar. قَلْع | سَطُوح | صَارِ ذِي سَطْح.
- Marsch s. m. مَشَى | مَسِير | سَيْر.
- Marsch s. f., pl. -en | أَرْض غَمِيْقَة | مُسْتَنْقَع.
- Marschall s. m. | مُشِير | مارشال * | -amt s. n. | أَكْبَر قَوَاد الجَيْش | -würde | عَصَا المُشِير | -stab s. m. | -amt. s. f. f.
- marschieren vn. i | سَار | مَشَى | Marschlinie s. f., Marschordnung s. f. | طَرِيق | نِظَام المَشَى.
- Marseille n. pr. مَرْسِيْلِيَا.
- Marsfall s. m. | اصْطَبَل مَلِك أَوْ | أَخُوْر | أَمِير *.
- Marter s. f. (Folter) | تَنْكِيْل | دَهَق | عَذَابَات pl. | عَذَاب (Qual) - | مَرْكَبَة حَدِيْدِيَّة s. f. | -bank | آعْدَبَة | آذَى * | -n va. | لِلتَنْكِيْل | عَذَب *.
- martialisch a. | حَمَاسِي | حَرْبِي.
- Märtyrer s. m. | شُهَدَاء pl. | شَهِيْد | Martyrium s. n. | شَهَادَة.
- März s. m. | آذَار | مَارْس *.
- Marzipan s. m. | مَعْجَنَة مِّن لُّوز | وَسْكَر.
- Masche s. f. | عُقْدَة pl. | حَلْقَة | عَيْن pl. | حَلَقَات u. | حَلَق pl. | فَرْج pl. | فَرْجَة | عِيُون u. | أَعْيُن | maschig a. | زَرْدَات pl. | زَرْدَة * | دُو حَلَق.
- Maschine s. f. | مَآكِنَة * | آلات pl. | آَلَة | (الوَابُور مَثَلًا) | Maschinist s. m. | صَانِع آلَات | مُدَبِّر آَلَة.
- Masfer s. f. (im Holz) | بَقَع فِي | -ig a., gemasert a. (Holz) | الحَشَب | أَبَقَع.
- Masfern s. pl. med. | حَصْبَة | دَشِيْشَة *.
- Maske s. f. | وَجْه | وَجْه يُلبَس | مَسَاخِر pl. | مَسْخَرَة * | مُسْتَعَار | -rade s. f. | ظَاهِر كَاذِب - | جَمَاعَة المَسَاخِر | تَمَسْخَر * | أَلْبَس * | مَسْخَرَة | masfieren va. | تَمَسْخَر * | -n | sich.
- Masculinum s. n., pl. -na gr. | مُذَكَّر.
- Massacre s. n. | قَتْل | ذَبْح.
- Masse s. f. (von Personen) | جَمَاعَة | - (von Sachen) | كُوم pl. | كُومَة | - (Kapital) | رَأْس مَال | -nhaft a., -nweise a. | مَادَة pl. | مَوَاد | -nhaft a., -nweise a. | تَقِيْل | massig a. | بِالْجُمْلَة | وَاْفِر.

massiv a. مَلَان | صَمَد | أَصَمَّ
 Mast s. m. صارٍ pl. صَوَارٍ | Mast
 s. f. تَسْمِين | رَبِيع | سُمْنَة
 -baum s. m. صارٍ pl. صَوَارٍ |
 -darm s. m. المَعَى المُسْتَقِيم
 mästen va. jn. رَبَعَ | سَمَّنَ |
 sich - تَسَمَّنَ
 Mastig s. m. صَمْعُ المِصْطَكِي
 Mast-forb s. m. سَطْحٌ فِي أَعْلَى الصَّارِي
 pl. سُطُوح | -ochse s. m. ثَوْر
 خِنْزِير s. n. -schwein | مُسَمَّن
 مُسَمَّن
 Mästung s. f. تَسْمِين
 Mastwerk s. n. صَوَارِي المُرْكَب
 Maß s. n. قَدْر - (bei Stoffen)
 (Getreide-) | مِقْيَاس | قِيَاس
 (Mäßigung) | - | أَكْيَال pl. كَيْل
 | وَاغْرًا -e in hohem | اِعْتِدَال
 | ohne -en, über die -en | غَزِيرًا
 | للغَايَة | لا حَدَّ لَهُ | فَوْق القِيَاس
 | kōma لا يَخْفَى -en | مَعْرُوف
 | لِيْتْر (مِن البِيْرَة) (Bier) s. f.
 - | نِسْبَة | nach - | نِسْبَة
 - | بِمُقْتَضَى | gebend a., -geblich a.
 مَن لَهُ الحَقّ | مُوجِب | مُجْبِر
 mäßig a. مُتَوَسِّط | مُعْتَدِل (Sache)
 - | قَنُوع | قَانِع (Person) -

jn. u. etw. عَدَل | و ه | sich -
 - | مَلَك | عَلَى نَفْسِهِ | اِعْتَدَل
 s. f., -ung s. f. اِقْتِصَاد | اِعْتِدَال
 اِنْصَاف.

Maß-fanne s. f., -frug s. m. اِنَاء
 | اَوَانٍ u. اَنِية pl. ضِمْنُهُ لِيْتْر
 -liebchen s. n. bot. زَهْر اللُّوْلُو
 -los a. لا حَدَّ لَهُ |
 -losigkeit s. f. اِعْدَم الحُدُود | -nahme
 s. f. | -regel | -regel s. f. تَدْبِير
 اِتَّخَذَ -n ergreifen | - | تَدَابِير pl.
 -regeln va. jn. | دَبَّر | تَدَابِير
 -stab s. m. | حَصَرَ | i, u | بِنْتَدْبِير
 -voll a. مُعْتَدِل | قِيَاس

Material s. n., pl. -ien | لَوَازِم
 | مَوَادَّ pl. مَادَّة | -ismus s. m. phil.
 مَذْهَب المَادِّيِّين

Materie s. f. مَادَّة pl. مَوَادَّ | -ll a.
 مَادِيّ

Mathematis s. f. اِعْلَم الرِّيَاضِيَّات
 | عالمِ الرِّيَاضِيَّات -er
 رياضيّ a. مَاطِيّ

Matraße s. f. فُرُوش pl. فُرُوش
 | فُرُوش * | فِرَاش pl. فِرَاش

Matrifel s. f. قَائِمَة اَسْمَاء pl. قَائِمَات
 | سَجَلَات pl. سَجَل

Matrone s. f. امْرَأَةٌ ذاتِ اَعْتِبَارٍ |
* pl. خَوَاتِيمٌ خاتون*

Matrose s. m. بَحْرِيَّةٌ pl. |
* pl. نُوتِيٌّ | مَلَّاحُونَ pl. مَلَّاحٌ
نُوتِيَّةٌ.

matshig a. (Obst) مَعْصُورٌ (فَوَاكِه)

matt a. اِعْدَمُ النِّشَاطِ | تَعْبَانٌ | ضَعِيفٌ
- (Farbe) كَامِدٌ | - (im Schach-
spiel) الشَّاهُ مات

Matte s. f. (von Stroh 2c.) حَصِيْرَةٌ |
pl. حَصَائِرٌ | - (Wiese) مَرْجٌ pl.
مُرُوجٌ.

Matt-heit s. f. اِعْيَاءٌ | تَعَبٌ
a. اِعْيَافٌ | جَبَانٌ | قَلِيْلُ العَزْمِ a.
s. f. | -heit.

Matze s. f. خُبْزٌ فَطِيْرٌ.

Mauer s. f. حَائِطٌ pl. حِيْطَانٌ |
(einer Stadt) جِدَارٌ pl. | جُدْرٌ
حِمَارٌ قَبَانٌ s. f. | سورٌ مَدِيْنَةٌ
آلَةٌ s. m. | -brecher | حُمُرٌ pl.
كَبْشٌ | تُضْرَبُ بِهَا الحِيْطَانُ
| عَمْرٌ u ه | بَنَى i ه | -n va. etw.
- (Schwalbe s. f. zool. | نوعٌ مِنْ
| عِمَارَةٌ s. n. | -werf | السُّنُوْنُو
بِنَايَةٌ.

Maul s. n. اَفْوَاهٌ pl. فَمٌ (الحَيَوَانِ)
| داس | حَنْكٌ * | حُلُوْقٌ pl. حَلْقٌ *

- halten u سَكْتٌ | Mäulchen
| آبَلَهٌ s. m. | -affe s. m. | قُبْنَةٌ | بُوْسٌ
| تَبَهَّلٌ | -n feil haben | مَبْهُوْلٌ *
| شَجَرَةُ التُّوتِ s. m. | beerbaum
| تُوْتٌ s. f. | beere.

Mäulchen s. n. | Maul.

maulen vn. | تَشَزَّرٌ * | بُوَزٌ.

Maul-esel s. m. بَغْلٌ pl. بِغَالٌ |
-held s. m. | مُوجِزُ الكَلَامِ a. | -faul
| كِمَامَةٌ | كِمَامٌ s. m. | -forb | فَشَّارٌ
| لَطْسَةٌ | صَفْعَةٌ | سَفْقَةٌ s. f. | -schelle
| tier s. n. | ضَرْبَةٌ بِالْكَفِّ | لَطْمَةٌ
| tiertreiber s. m. | بِغَالٌ pl. | بَغْلٌ
| -trommel | مُكَارُونَ pl. | مُكَارٌ | بَغَالٌ
| تَوْعٌ مِنْ آلاَتِ الطَّرَبِ s. f. mus.
| حَنْكٌ * | كَثْرَةُ الكَلَامِ s. n. | -werf
| حُلُودٌ pl. | خُلْدٌ s. m. | -wurf
| -wurfshaufen s. m., -wurfshügel
| ما رَفَعَهُ الخُلْدُ مِنَ التُّرَابِ s. m.
كُوْمَةٌ.

Mauere s. m. مَغْرِبِيٌّ pl. مَغَارِبَةٌ.

Maurer s. m. بِنَاءٌ pl. بِنَاوُونَ |
-meister | مِعْمَارِيَّةٌ pl. | مِعْمَارِيٌّ *
s. m. | اُسْتَاذُ البِنَائِيْنَ.

Maus s. f. فَارٌ coll. pl. فِئْرَانٌ |
| فَاْرَةٌ | فَاْرَةٌ - | فِيرانٌ pl. | فار

Mauschel s. m. (pop.) يَهُودِيّ pl.

تَكَلَّمَ كَالْيَهُودِ -n vn. | يَهُودِ

Mausfalle s. f. مِصِيدَةُ لِلْفِئْرَانِ

pl. مَصَايِدِ | mausen vn. i صاد

الْفِئْرَانِ | va. - etw. (stehlen)

سَرَقَ i هـ

Mauser s. f. تَغْيِيرُ الشَّعْرِ أَوْ الرِّيشِ

Mausergewehr s. n. نَوْعٌ مِنَ

الْبُنْدُقِيَّةِ مَنْسُوبٌ إِلَى رَجُلٍ

أَسْمُهُ مَوْزِرٌ

mausern vn., sich - غَيَّرَ الشَّعْرَ أَوْ -

الرِّيشَ

Mauseloch s. n. جُحْرُ الْفَأْرِ | mausel-

tot a. مَيِّتٌ لَا أَثَرَ لِلْحَيَاةِ فِيهِ

mausig a., sich - machen a. سَفِهَ

a. وَقِهَ

Mausoleum s. n., pl. -een مَزَارٌ pl.

تُرْبَةٌ | مَدْفِنٍ pl. مَدْفِنٍ | مَزَارَاتِ

pl. تُرْبٍ

Maut s. f. كُمْرُكٌ * pl. كَمَارِكٌ | -ner

s. m. كُمْرُكِيٌّ *

Maximgeschütz s. n. مِدْفَعٌ مَنْسُوبٌ

pl. إِلَى رَجُلٍ أَسْمُهُ مَاكْسِيمٌ

مَدْفَعٌ

Maximum s. n., pl. -ma | الغَايَةُ

الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا

Mechanik s. f. عِلْمُ الْحَيْلِ | عِلْمٌ

صَانِعِ -er s. m. | القُوَى الْمُحَرِّكَةُ

mechanisch a. | مُدِيرِ الْآلَاتِ | المَاكِنَاتِ *

pl. مَصْنُوعٌ بِالْيَدِ

Mechanismus s. m., pl. -en

تَرْكِيْبٌ

meckern vn. | صَوْتٌ (المُعْزُ) meckern

بِصَوْتِ مُرْتَجٍّ

Medaille s. f. نَيْشَانٌ * | مِدَالِيَا *

Medikament s. n. pl. دَوَاءٌ pl. أَدْوِيَّةٌ

Medina n. pr. المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ

Medizin s. f. (Heilkunst) عِلْمُ الطِّبِّ

-er | أَدْوِيَّةٌ pl. دَوَاءٌ (Arznei) -

s. m. طَالِبٌ | أَطِبَّاءٌ pl. طَبِيبٌ

| طَلَبَةٌ u. طَلَّابٌ pl. عِلْمُ الطِّبِّ

-isch a. طِبِّيٌّ

Meer s. n. بَحْرٌ pl. بَحَارٌ u. بُحُورٌ

u. طَمْطَامٌ - das hohe | أَبْحُرٌ u.

خُلُجٌ pl. خَلِيْجِ البَحْرِ -busen s. m.

u. -enge s. f. | جُونٌ | خُلْجَانٌ

-esarm s. m. بُوغَازٌ pl. بُوَاغِيْزٌ

-esstille s. f. هُدُوٌّ | سُكُونُ الرِّيحِ

| نَوْعٌ مِنَ القُرُودِ -fatze s. f. | الرِّيمِ

-rettich s. m. | فُجْلٌ بَرِّيٌّ -schwein

s. n. نَوْعٌ مِنَ الأَرَانِبِ

Megäre s. f. امْرَأَةٌ شَرِسَةٌ

Mehl s. n. | طَحِيْنٌ | دَقِيْقٌ -brei

- s. m. عَصِيدَةٌ | -icht a., -ig a.
 -speise | كَثِيرِ الدَّقِيقِ | دُو دَقِيقِ
 s. f. آكل دُو دَقِيقِ | -tau s. f.
 s. m. آفة الزُّرْعِ | سوس الزُّرْعِ
 -wurm s. m. دود في الدَّقِيقِ pl.
 دودة - - | ein | ديدان
 mehr | أكثر | nichts - بالزيادة
 - | en va. | تَقْرِيْبًا
 - | oder weniger
 etw. | أَمْي ه | كَثْر ه | زاد i ه
 sich - - | تَكَثَّر - | enteils adv.
 غالبًا | زائد | مُكْتَبِر s. m. -er | أغلبيًا
 | رُبَّمَا adv. -fach | بعض ere - | مُنِم
 | أغلبيَّة s. f. | كثيرًا ما
 | بعض malig - | أكثرية الآراء
 - | mal adv. | غير مرة | مرارًا
 - | ung s. f. | ذو مقاطع شتى a.
 | تَكْثِير | zahl s. f. (Mehrheit)
 | أغلبيَّة | أكثرية -- gr. (Plural)
 جمع.
 meiden va. jn. u. etw. | تَجَنَّب ه و ه
 | حاد i عن | اجتنب ه و ه
 مال i عن
 Meier s. m. | خَمَّاس * | مُرَابِع * | خائِل
 | صانع الرُّبْدَة والجُبْن | -ei s. f., -hof
 s. m. | مَزْرَعَة * | جَفْتَلَك *
 الرُّبْدَة والجُبْن
 Meile s. f. | أميال pl. | ميل
 deutsche - | أَرْبَعَة أميال -nstein
 s. m. | علامة الأميال
 Meiler s. m. | مَشْحَرَة * | مَفْحَم
 | مَعْمَل الفَحْمِ في الغابَة
 mein pr. poss. | z. B. - | friend
 صاحبي
 Meineid s. m. | حَلْف | حَلْف زور
 | حَلْف i زورًا | einen - | كاذب
 - | ig a. | حالف كذبًا | حالف زورًا
 - - | حَلْف i زورًا | werden
 meinen va. etw. | حَسِب i ه | ظَن u ه
 | أَعْنَى ه (bedeuten) - | رأى a ه
 - | قصد i ه (im Sinne haben)
 | ما تُقْصِد بهذا? - Sie damit
 | wellmeinend, wellgemeint
 سليمة
 النية
 meinetwegen, meinetwegen, um
 meinetwillen | بِسَبَبِي
 pr. poss., der -e | لي
 Meinung s. f. | ظَن | آراء pl. | رأى
 | وافق ه | ظنون pl. | der - | sein
 | رأيًا | anderer - | sein mit jm.
 | خالف ه | رأيًا
 Meiran s. m. bot. | f. | Majoran.
 Meise s. f. zool. | نوع من العَصافير
 meist, die -en | الأغلب | الأكثر
 | المزاييد s. m. | غالبًا adv.

- ens adv., -enteils adv. غَالِبًا | Melkeimer s. m. مَحْلَب pl. مَحَالِب |
 -gebot s. n. عَرْضُ الْمُزَايِدِ. | melken va. مَحْلَب pl. مَحَالِب |
 Meister s. m. أَسَاتِذَةٌ pl. أُسْتَاذٌ | Melker s. m. حَلَبُ i البَقْرَةَ كُح |
 | خَالِصٌ | كَامِلٌ a. -haft | مَعْلَمٌ | حَلَابٌ | حَالِبٌ |
 | مُعَلِّمَةٌ a. f. -in | في غَايَةِ الْإِتْقَانِ | Melodie s. f. أَلْحَانٌ pl. لَحْنٌ |
 | لِحْ a. f. -lich | زَوْجَةُ الْمُعَلِّمِ | pl. أَنْعَامٌ | melodios a., melodisch a.
 | قَمَعَ a. ه | قَهَرَ a. ه | نَعْمِيٌّ | لِحْنِيٌّ | مُطْرِبٌ |
 | سِيَادَةٌ a. f. -schaft | Melone s. f. بَطِيخٌ | (Wasser-) |
 | -stück s. n. f. -werk | بَطِيخٌ | (Zucker-) |
 | عَمَلٌ فِي غَايَةِ الْكَمَالِ | -werk s. n. | شَمَامَةٌ - eine | شَمَامٌ | أَصْفَرٌ |
 | طُرْفٌ pl. طُرْفَةٌ | بُدْعٌ pl. بَدِيعٌ | Meltau s. m. f. Meltau. |
 | مُلْحَةٌ pl. مَلَحٌ. | Memme s. f. جَبَانٌ. |
 Meißel s. m. مَنَاقِيشٌ pl. مَنَاقِشٌ | Memoiren s. pl. تَذَاكِرُ حَوَادِثٍ |
 | مَنَاقِشٌ pl. مَنَاقِشٌ | اِزْمِيلٌ pl. | مُخْتَصَّةٌ بِالْمَوْلَفِ أَوْ بِزَمَانِهِ |
 | نَقَشَ u ه | نَقَشَ u ه | etw. -n | memorieren va. | حَفِظَ a ه |
 | بِالْمَنَاقِشِ. | غَيْبٌ ه * |
 Mecca n. pr. مَكَّةُ (الْمَكْرَمَةُ) | -ner Memphis n. pr. مَنَفٌ. |
 | مَكِّيٌّ | ساكِنٌ مَكَّةُ s. m. | -nisch | مَكِّيٌّ | Menge s. f. (von Personen) | قَوْمٌ |
 | مَكِّيٌّ a. | (von Sachen) | كَثْرَةٌ | كَثُرَ |
 Melancholie s. f. سَوْدَاءٌ | Melancholischer s. m. سَوْدَاوِيٌّ | melancholisch | mengern va. | جُمْلَةٌ | جُمِلَ |
 | سَوْدَاوِيٌّ a. | وُفُورٌ | وَفَرَ |
 melden va. jm. etw. أَخْبَرَ ه ب | | مزج u ه ب | خَلَطَ u ه ب |
 | أَخْبَرَ ه بِالْحُضُورِ | sich - bei jm. | sich | اِخْتَلَطَ - | لَحَبَطَ ه * |
 Meldung s. f. ذِكْرٌ | إِخْبَارٌ | in etw. | تَدَاخَلَ فِي | Mengel s. n. | خِلْطٌ. |
 Melisse s. f. bot. بَقْلَةٌ | تَرْبِجَانٌ | Mennig s. m. | زَنْجْفُرٌ * | سَلْتُونٌ. |
 | مَلِيسَا * | بادِرْ نَجْوِيَّةٌ * | الصَّبُّ | Mensch s. m. | اِبْنُ آدَمَ | اِنْسَانٌ |
 | pl. -en | نَاسٌ | اِنْسَانٌ |

- Mensch s. n. امْرَأَةٌ | بشر | أنام
 ابنة الخطاء | (يستعمل احتقارًا)
 pl. -er | شرابيطة pl. شرموطة*
 قرن pl. قرون | enalter s. n.
 -enfeind s. m. | أجبيال pl. جيل*
 enfresser s. m. | نافر من الناس
 -enfrend | معتد بلحم البشر
 محسن إلى | محب البشر s. m.
 -enfrendlich a. | محب الناس
 -enfrendlichkeit | إنسانيتي | البشر
 إنسانية | محبة البشر s. f.
 -engeschlecht s. n. | البشر
 -enfenner s. m. | عارف الناس
 -enfennnis s. f. | معرفة الناس
 -enliebe s. f. | إنسان | إنسان
 -enmöglich | إنسانية | محبة البشر
 -enrecht | ممكن للناس a.
 حقوق pl. حق طبيعى s. n.
 -enschou a. | نافر من البشر
 -enschlag s. m. | جنس من الناس
 -ensohn s. m. christl. | أجناس pl.
 ناس s. f. | هيت | المسيح | ابن آدم
 إنسانيتي a. | -lich | أنام | بشر
 -lichkeit s. f. | شقوق | بشرى
 -werdung s. f. | شفقة | إنسانية
 نجسد | تأس christl.
 Menstruation s. f. | عادة النساء | حيض
- Menuett s. n. نوع من الرقص
 Mergel s. m. تراب كلسي ممزوج
 بصلصال.
 Meridian s. m. دائرة نصف النهار
 دوائر pl.
 merkbar a. | ممكن إدراكه بالحواس
 merken va. etw. | يشعر به
 sich | أحس ب | شعر u ب
 ذكر u ه | حفظ a ذكرة -
 etw. | تنكر به | lassen
 sich nichts - | أعطى البال ل | بالي ب
 - auf etw. merklich a. | يشعر به
 Merkmal | سيممة | علامات pl. علامة s. n.
 سمات pl. سمة | وسوم pl. ونم
 Merkur s. m. astr. عطارد
 merkwürdig a. | غريب | عجيب
 -feit s. f. | عجائب pl. عجيبة
 غرابة.
 Merkzeichen s. n. f. Merkmal.
 Mesopotamien n. pr. البلاد بين
 الموصلان | الجزيرة | النهرين
 messbar a. | ممكن قياسه
 يكال | يقاس | كيئه
 Messbuch s. n. kath. كتاب القداس
 دكان في | Messbude s. f. | قنفاق*
 Messe s. f. | دكاكين pl. الموسم
 سوق | مواسم pl. موسم (Markt)

- Meter s. n. مِتر pl. أَمْتار.
- Methode s. f. طَرِيقَة pl. طَرَائِق | pl. أَسْلُوب | pl. مَنَاهِيج | pl. مَنَهَاج | pl. نِمَاط | pl. نَمَط | pl. أَسَالِيب.
- Metrik s. f. عِلْمُ العَرُوض | Metrum s. n., pl. -tra, -tren بَحْرُ الشِّعْر pl. بُحُور.
- Mette s. f. kath. صَلَاةُ السَّكَّر.
- Mettwurst s. f. نَوْعٌ مِنَ المَقَانِقِ.
- Metze s. f. (Maß) نَوْعٌ مِنَ المَقاييسِ | pl. عَاهِرَة (Eure) - | القَدِيمَة | pl. شَرَامِيط | pl. شَرْمُوطَة * | عَوَاهِر.
- Mezelei s. f. قَتْلٌ | ذَبْحٌ.
- Mezger s. m. قَصَّابٌ | جَزَّارٌ.
- meucheln va. ju. قَتَلَ u ه | فَتَكَ بِهِ | Meuchelmord s. m. اِفْتَكٌ | غِيْلَةٌ | Meuchelmörder s. m., قَتَلَ | Meuchler s. m. اِفْتَاكٌ pl. فَاتِكٌ | meuchlerisch, meuchlings adv., ju. - اِفْتَاكٌ بِهِ فَتَكَ | قَتَلَ u ه | غِيْلَةٌ.
- Meute s. f. سِرْبٌ كِلَابٍ صَيْدٍ pl. اِعْنَادٌ | اِعْصِيَانٌ -rei s. f. اَسْرَابٌ | اِعْصَاةٌ pl. عَاصٍ -rer s. m. | قَوْمَةٌ -risch a. | -n vn. gegen ju. عَانَدٌ ه | قَامَ u عَلَيْهِ | عَاصَى ه
- قَدَّاسَاتِ pl. قَدَّاسِ kath. - | اَسْوَاقِ | اَقَامَ القَدَّاسِ lesen - | قَدَادِيسِ u. قَدَّسِ.
- messen va. etw. ه i قَاسَ | - (von Getreide) ه i كَالٌ | gemessen مُدَقَّقٌ | صَرِيحٌ.
- Mesſer s. m. وِزَانٌ | كَيْالٌ.
- Mesſer s. n. سَكَكِيْنٌ pl. سَكَاكِيْنٌ | سَكَّانٌ s. m. -schmied | مَطْوَى | سَكَكِيْنِيٌّ.
- Mesſias s. m. المَسِيحِ.
- Mesſing s. n. نَحَّاسٌ اَصْفَرٌ -blech | صَفِيحَةٌ مِنَ نَحَّاسِ اَصْفَرٍ s. n. | سِيْلُكَ مِنَ نَحَّاسِ -draht s. m. اَصْفَرٌ.
- Mesſner s. m. kath. خَادِمٌ كَنِيْسَةٍ | قَنَدَلْفَتٌ * | سَكْرِسْتَانِيٌّ *.
- Mesſopfer s. n. kath. ذَبِيْحَةٌ القُدَّاسِ.
- Mesſtize s. m. خِلَاسِيٌّ مَوْلَدٌ | مُخْضَرَمٌ.
- Met s. m. شَرَابُ العَسَلِ.
- Metall s. n. مَعَادِنٌ pl. مَعَادِنٌ | مَعْدِنِيٌّ a. -is ch a. -en a.
- Metamorphose s. f. اِسْتِحَالَةٌ.
- Metapher s. f. اِسْتِعَارَةٌ | مَجَازٌ | اِسْتِعَارِيٌّ | مَجَازِيٌّ a. metaphoriſch.
- Meteor s. n. شَهَابٌ pl. شُهَبٌ | عِلْمُ الحَوَادِثِ الجَوِّيَّةِ -ologie s. f.

Miasma s. n., pl. -en عَفْوَنَة | عَفْن

Miau s. n. مَوَاء | نَوَى * -en vn.
u نَوَى * | ماء

Mieder s. n. مِشَدَّ | قُرْصِيَّة *
صَدِيرِي لِلْسِتَات *

Miene s. f. سِيَمَاء | ظَاهِرِ الْوَجْهِ
هَيْئَة

Miete s. f. -n | أَجْرَة الْبَيْت | كِرَاء
va. etw. تَكَرَى | اسْتَأْجَرُه | آجَرُه
-r s. m. | اسْتَكْرَى | اكْتَرَى
مُسْتَكْرٍ | مُسْتَأْجِر

Miet-frau s. f. امْرَأَة | امْرَأَة مُوَجَّرَة
-Kontrakt s. m. f. -vertrag | مُكَارِبَة
-futsche s. f. عَجَلَة كِرَاء | -ling
s. m. | أَجْرَاء pl. أَجِير
s. m. | عَقْد الِايْجَار s. m. -wagen
f. -futsche | -zins s. m. كِرَاء

Mieze s. f. قِطَة

Mikroskop s. n. نَظَّارَة مُكْبِرَة
لا يُرَى إِلَّا -ifch a. | مِكْرَسُكُوب *
بِالنَّظَّارَة الْمُكْبِرَة

Milbe s. f. zool. حَشْرَات pl. حَشْرَة
عُثَّ pl. عُنَّة | سِيْسَان pl. سُوس
u. عُثَّت

Milch s. f. - (von
Fischen) | حَلِيب | لَبَن
saure | مَخَّ السَّمَك
| dicke - لَبَن * | صَرْب
| رَثِيئَة

لَبِن a. - | رَائِب | خَائِر

- | دَبَّة s. m. | البَتْن | -bart

(junger Mann) | آدَب | غَرِير

-brot s. n. | رَغِفَة pl. رَغِيف رَطْب

-bruder s. m. | رُضِع pl. رَضِيع

-en vn. a | الَبَن | لَبِن -er s. m.

بِيَّاعَة s. f. | سَمَك دُو مَخَّ -frau

-geflcht s. n. | لَبَّانَة * | الَبَن

-haaar s. n. | دَبَّة | لَبِن الْوَجْهِ

-ig a. | لَبِنِي s. f. | بَقْرَة

-fur s. f. | تُفَات لِأَجَل لَبِنِهَا

-mann s. m. | مُدَاوَاة بِاللَبِن

-reis s. m. | لَبَّان * | بِيَّاع الَبَن

اِكْيَلُوس * | آرَز مَعَ لَبِن -saft

-[chwester s. f. | رَضِيْعَة

اُمَّ | اُمَّ السَّمَاء | المَجْرَة s. f. astr.

-weiß a. | دَرَب التَّبَانَة * | النُّجُوم

-wirtschaft s. f. | أَيْبِض كَاللَبِن

-zahn s. m. | مَعْمَل الزُّبْدَة وَالْجُبْن

رَوَاضِع pl. رَاضِعَة

اِرْقِيْق القَلْب | لَبِن | لَطِيْف mild a.

- | لَذِيْد (von Geschmack)

اَوُقُوف u. اَوُقَاف pl. وَقْف Stiftung

رَقَّة | لُطْف | حِلْم | لِيْنَة s. f. -e

اَلَبِن ه | -ern va. etw.

اِخْفَف ه | عَدَّل ه | اَلَان ه

اِتْخْفِيْف | تَلْيِيْن s. f. -erung

-herzig a. رَقِيقُ الْقَلْبِ | -herzig-
 feit s. f. رِقَّةُ الْقَلْبِ | -thätig a.
 -thätigkeit | مُحْسِنٌ إِلَى الْقَرِيبِ
 s. f. إِحْسَانٌ إِلَى الْقَرِيبِ.
 Militär s. m. عَسْكَرِيَّةٌ pl. عَسْكَرِيٌّ |
 - s. n. عَسْكَرٌ | -isch a.
 عَسْكَرِيٌّ.
 Miliz s. f. أَهْلِي الْبَدَدِ الْمُتَجَنِّدُونَ.
 Milliarde s. f. أَلْفٌ أَلْفٌ أَلْفٌ |
 مِليَارٌ * | أَلْفٌ مِليُونٌ *
 Milli-gramm s. n. الْجُزْءُ الْأَلْفِيُّ مِنَ
 الْجُزْءِ الْأَلْفِيِّ | -meter s. n. | -الغرام
 مِليْمِترٌ * | من المِترِ
 Million s. f. أَلْفٌ أَلْفٌ * |
 pl. صَاحِبٌ -är s. m. | مِلايِينِ
 مِكْثِرٌ جِدًّا | مِليُونٌ *
 Milz s. f. طِحَالٌ pl. طِحَالٌ | -brand
 السَّهَابُ الطِّحَالِ (داء) s. m. |
 سَوْدَاءُ s. f. | -sucht s. f. | الماشِيَّةُ
 سَوْدَاوِيٌّ a. -füchtig
 Mime s. m. مُشَخِّصٌ.
 Minaret s. n. مَأْدَنَةٌ pl. مَأْدِنٌ |
 مَنَائِرٌ pl. مَنَارَةٌ.
 minder a. | -heit s. f. الْعَدَدُ الْأَقْلُّ
 قَاصِرٌ a. | -jährig a. | (من الآراء مثلاً)
 قُصُورٌ s. f. | -jährigkeit s. f. | غَيْرٌ بَالِغٌ
 | أَقَلُّ هـ | قَلَّلَ هـ | -n va. etw. هـ

-ung s. f. إِقْلَالٌ | تَقْلِيلٌ
 s. f. | -heit.

Mindest-betrag s. m. الْمَبْلَغُ الْأَقْلُّ |
 -ens adv. عَلَى الْقَلِيلِ
 -gebot s. n. | ما يَكُونُ
 الْمُنَاقِصُ.

Mine s. f. لُغُومٌ pl. لُغُومٌ *.

Mineral s. n., pl. مَعْدِنٌ pl. -lien
 -bad | جَمَادَاتٌ pl. جَمَادٍ | مَعَادِنٌ
 مَعْدِنِيٌّ a. | -isch a. | مَاءٌ مَعْدِنِيٌّ s. n.
 -ogie s. f. | عِلْمُ الْمَعَادِنِ وَالْجَوَامِدِ
 -reich s. n. | مَوْلِدُ مَعْدِنِيٌّ s. n. |
 مَاءٌ مَعْدِنِيٌّ s. n.

Minister s. m. وَزِيرٌ pl. وَزَرَاءٌ |
 pl. نَظَّارٌ | -ium s. n., pl. -ien
 -präsident s. m. | وَزَارَةٌ | نِظَارَةٌ
 رَئِيسُ الْوَزَرَاءِ.

Minne s. f. هَوَىٌّ | حُبٌّ |
 -n va. jn. هـ | أَحَبَّ هـ |
 شَاعِرٌ s. m. | -fänger s. m. | أَعْرَمَ بِهِ
 minnig | جَائِلٌ فِي الزَّمَنِ الْقَدِيمِ
 a., minniglich a. | مَحْبُوبٌ.

minorenn a. | -ität | غَيْرٌ بَالِغٌ | قَاصِرٌ
 s. f. قُصُورٌ.

Minute s. f. دَقِيقَةٌ pl. دَقَائِقٌ.

Münze s. f. | Münze.

Mirabelle s. f. خَوْحٌ صَغِيرٌ coll. |
eine - خَوْحَةٌ صَغِيرَةٌ.

Mirte s. f. | Myrte.

Misanthrop s. m. نَافِرٌ مِنَ الْبَشَرِ.

Misch-ehe s. f. زَوَاجٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ

-en va. etw. | مُخْتَلَفِي الدِّينِ

mit مزج u ه ب | خَلَطَ u ه ب

| مُخْضَرَمٌ -ling s. m. | لَحَبَطَ ه *

| مَوْلُودٌ مِنْ جِنْسَيْنِ | خِلَاسِيٌّ مَوْلِدٌ

-misch s. m., -ung s. f. | خَلَطَ

| لَحَبَطَةٌ * | مزاج

miserabel a. شَقِيٌّ | حَقِيرٌ | دَنِيٌّ

| مِسْكِينٌ.

Mispel s. f. زَعَارِيرٌ pl. زُعُرُورٌ

-baum s. m. شَجَرَةُ الزُّعُرُورِ.

miß-achten va. jn. u. etw. اِحْتَقَرَ

| اِحْتِقَارٌ s. f. | -achtung s. f. | ه و

-behagen s. n. | -fallen | -bildung

s. f. | قَبَاحَةٌ | شَنَاعَةٌ | دَمَامَةٌ s. f.

-billigen va. etw. | اِسْتَقْبَحَ ه

-billigung s. f. | اِسْتِقْبَاحٌ | -brauch

s. m. | -brauchen | سُوءُ الْاِسْتِعْمَالِ

va. jn. u. etw. | اَسَاءَ اِسْتِعْمَالَهُ

| ما فِيهِ ا. | -bräuchlich a. | تَعَدَّى فِي

| مُخَالِفِ الشَّرْعِ | سُوءُ الْاِسْتِعْمَالِ

| -deuten va. etw. | اَسَاءَ تَفْسِيرَهُ

| نَسَبَ ه إِلَى سُوءِ الْغَرَضِ

كَفَّ u | اَمْسَكَ عَنِ

| اِسْتَفْنَى | حَرَمَ i نَفْسَهُ ه | عَنِ

| اِمْتَنَعَ عَنِ | عَنِ

Miß-erfolg s. m. | سُوءُ الْعَاقِبَةِ

-ernte s. f. قَحْطٌ.

Miße-that s. f. | جُرُومٌ pl. جُرْمٌ s. f.

| قَبِيحَةٌ | جَنَايَا pl. | جِنَايَةٌ | اَجْرَامٌ

| مُجْرِمٌ s. m. | -thäter s. m. | قَبَائِحٌ pl.

| جُنَاةٌ pl. | جَانٍ | مُذْنِبٌ

miß-fallen vn. | لَمْ يُعْجِبْ | es miß-

fällt mir | اَسْتَقْبِحَ ه | -fallen s. n.

| بَزَعَلِيٌّ * a. | -fällig a. | زَعَلَ * | رَغَمٌ

| دُو لُونٌ | دُو لُونٌ قَبِيحٌ a. | -farbig a.

| مِسْخٌ * | طَرَحٌ s. f. | -geburt s. f. | مَكْرُوهٌ

| زَعْلَانٌ a. | -gelaunt a. | مُسُوخٌ pl.

| مُصِيبَةٌ | سُوءُ الْحَظِّ s. n. | -geschick s. n.

| -gestalt s. f. | مَصَائِبٌ pl.

| -bildung | -glücken vn. | مَا اَفْلَمَ

| -gönnen vn. | jn. etw. | مَا نَجَحَ

| غَارٌ a | حَسَدٌ i, u ه اَوْ عَلَى

| -griff s. m., einen - - thun | مِنْهُ

| حَسَدٌ s. f. | -gunst s. f. | غَلِطَ a

| حَسُودٌ | حَاسِدٌ a. | -günstig a.

| اَسَاءَ ه | -handeln va. | jn.

| -handlung s. f. | اَسَاءَ ه بِسُوءٍ | ظَلَمَ i ه

| -heirat s. f. | سُوءُ الْمُعَامَلَةِ

| زَوَاجٌ غَيْرٌ | زَوَاجٌ بِغَيْرِ النَّظِيرِ s. f.

- رَقَّة | مَرْحَمَةٌ | رَحْمَةٌ | حُنُو
 mit jm. - - haben عَلَيْهِ a شَفِقَ |
 تَحَنَّى | تَحَنَّنَ | حَنَّ عَلَيْهِ i
 -leidig a. رَقَّ لَهُ | رَجِمَ ه
 -menschl s. m. حُنُونٌ | شَفِيقٌ
 -nehmen va. كَلَّ بَشَرَ | القَرِيبِ
 - - jm. أَخَذَ u ه مَعَهُ
 (Krankheit) أَضْعَفَ ه (مَرَضٌ)
- Mitrailleuse s. f. بِمَجْمُوعِ
 بَوَارِيدِ.
- mit-sammt praep. c. dat. مَعَ |
 -schuld s. f. اِسْتِشْرَاكَ فِي ذَنْبٍ |
 -schuldig a. شَرِيكَ فِي ذَنْبٍ pl.
 رَفِيقٌ فِي -schüler s. m. شُرَكَاءُ |
 رُفَقَاءُ pl. الدَّرُوسِ
- Mittag s. m. نِصْفُ النَّهَارِ | ظَهْرٌ |
 قِبْلَةٌ * | جَنُوبٌ (Süden) -
 Mittag s. n. (-essen) عَدَاءُ pl.
 تَغَدَّى zu - essen | أَغْدِيَّةُ
 mittägig a., mittäglich a. جَنُوبِيٌّ.
- Mittag-sbrod s. n., -essen s. n.
 -skreis s. m. عَدَاءُ pl. أَغْدِيَّةُ |
 دَوَائِرُ pl. دائِرَةٌ نِصْفُ النَّهَارِ
 -smahl s. n., -smahlzeit s. f.
 -ruhe s. f., -schlaf s. m. عَدَاءُ |
 مِسِجْرُنُو * | قَيْلُولَةٌ | قَائِلَةٌ
 -halten | تَقَيَّلَ -stisch s. m. عَدَاءُ.
- Mitte s. f. وَسَطٌ pl. أَوْسَاطُ |
 نِصْفٌ (Hälfte) - | مُنْتَصَفٌ
 mit-teilen va. jm. etw. أَخْبَرَ ه ب
 -teilsam | أَشْرَكَ ه فِي | عَرَّفَ ه ه
 a. سَهْلُ الْمُنَاجَاةِ | سَهْلُ الْمُبَايَنَةِ a.
 -teilung s. f. سَهْلُ الْمَسَارَةِ
 pl. إِعْلَامٌ | تَعْرِيفٌ | أَخْبَارٌ pl.
- Mittel s. n. وَسَائِطٌ pl. |
 طَرِيقَةٌ pl. | وَسَائِلٌ pl. | وَسِيَلَةٌ
 - | سُبُلٌ pl. | سَبِيلٌ | طَرَائِقُ
 pl. - | أَدْوِيَّةٌ pl. دَوَاءٌ (-Arznei)
 sich | سَعَةٌ | ثَرْوَةٌ | مالٌ (-Geld)
 ins - legen فِي تَدَاخَلَ |
 وَسَطِيٌّ f. أَوْسَطٌ a. mittel | يَبِينُ
 | وَسْطَانِيٌّ * | وَسَطٌ f. أَوْسَطٌ pl. m.
 | العَصْرُ الْمُتَوَسِّطُ s. n. -alter
 -bar a. | الأَجْيَالُ الْمُتَوَسِّطَةُ
 | بِوَأَسِطَةٍ s. n. (-ding | zwischen
 | وَسَطٌ (بَيْنَ شَيْئَيْنِ) (zwei Dingen)
 | الإصْبَعُ الوُسْطَى s. m. -finger
 | جِبَالٌ مُتَوَسِّطَةٌ s. n. -gebirge
 | مُشْطُ اليَدِ s. f. -hand | العُلُو
 -ländisch a., -es Meer s. n.
 | البَحْرُ الأَبْيَضُ | البَحْرُ الْمُتَوَسِّطُ
 | عَادِمُ الْمَالِ a. -los | بَحْرُ الرُّومِ
 | مُعْتَدِلٌ | مُتَوَسِّطٌ a. -mäßig
 -mäßig | دُونَ | دَنِيٌّ | وَسْطَانِيٌّ

- feit s. f. | دَنَاةٌ | اِعْتِدَالٌ | تَوَسُّطٌ |
 -meer s. n. f. | -ländisches Meer |
 -punkt s. m. | مَرَكِزٌ pl. |
 -s praep. c. gen. | بِوَاسِطَةِ |
 -schule s. f. | مَدْرَسَةٌ تَجْهِيْزِيَّةٌ pl. |
 -smann s. m., -sperfon | مَدَارِسٌ |
 s. f. | مُصْلِحٌ بَيْنٌ pl. |
 -stand s. m. | حَالٌ مُتَوَسِّطٌ | -| وَسَطَاءٌ |
 -straße s. f., -weg s. m. | التَّرْوَةُ |
 -wort s. n. gr. | اِسْمُ الْفَاعِلِ | -| وَسَطٌ |
 .وَأَسْمُ الْمَفْعُولِ |
 mitten in, mitten unter | فِي وَسَطِ |
 .بَيْنِ |
 Mitter-nacht s. f. | نِصْفُ اللَّيْلِ |
 -- (Norden) | -nächtig a., |
 -nächtlich a. | مُخْتَصِّصٌ بِنِصْفِ اللَّيْلِ |
 -- (nördlich) | شَمَالِيٌّ |
 Mittfasten s. n. kath. | اَلْيَوْمُ الْوَاقِعُ فِي |
 مُنْتَصَفِ | وَسَطِ الصَّوْمِ الْكَبِيْرِ |
 الصَّوْمِ الْكَبِيْرِ |
 Mittler s. m. (Der-) | مُصْلِحٌ بَيْنٌ |
 | وَسَطِ pl. | وَسَطَاءٌ pl. | وَسِيْطٌ |
 Gott u. Menschen) | شَفِيْعٌ pl. |
 | mittlere a. f. | mittel | شُفْعَاءٌ |
 mittlerweile adv. | فِي اَثْنَاءِ ذَلِكَ |
 | فِي غُضُوْنِ ذَلِكَ |
 mittschiffs adv. | فِي وَسَطِ الْمَرْكَبِ |
- Mittwoch s. m. | يَوْمُ الْاَرْبَعَاءِ |
 mit-unter adv. | اَحْيَانًا | -welt s. f. |
 | الْمُعَاصِرُوْنَ | -wirken vn. bei etw. |
 | سَاعِدٌ فِي عَمَلِهِ | -wirkung s. f. |
 | اِعَاْنَةٌ | -wissenschaft |
 | مَعْرِفَةٌ s. f. | -wiffer s. m. eines |
 | مُشْتَرِكٌ فِي السِّرِّ | Geheimnisses |
 | اَخْلَاطٌ pl. | خِلْطٌ مَائِعٌ s. f. |
 | مَنَمُونِيْفٌ s. f., | Mnemotechnik s. f. |
 | طَرِيْقَةٌ تَسْهِيْلًا لِلذِّكْرِ |
 | pl. - | اَثَاثٌ pl. | أثاث |
 | مَفْرُوشَاتٌ |
 mobil a. | مُتَحَرِّكٌ | -es Heer جيش |
 | -ien s. pl. | غَيْرٌ مَاكِثٌ بِمَكَانٍ |
 | الْمَنْقُولَاتِ (bewegliches Eigentum) |
 | الْمَفْرُوشَاتِ | الأثاث (Möbel) -- |
 | اِسْتِدْعَاءٌ s. f. | اِسْتِدْعَاءُ |
 | اِسْتِدْعَى الرَّدِيْفِ اِلَى الْجَيْشِ | -isieren va. |
 | اِسْتِدْعَى الرَّدِيْفِ اِلَى الْجَيْشِ | Heer |
 | اَثَّتْ الْحِجْرَةَ | möblieren va. Zimmer |
 | - (mit Teppichen u. Polstern) |
 | فَرَشَ u ه |
 | زِيٌّ * | مُوَدَّةٌ * (Kleider-) |
 | عَادَةٌ (Sitte) - | اَزْبَاءٌ pl. |
 | قَوَاعِدٌ pl. | قَاعِدَةٌ | قُدُوَّةٌ s. n. |
 | اَمْتِلَةٌ * | اَمْتِلَةٌ pl. | مِثَالٌ |
 | مَسَاطِرٌ pl. | مَسْطَرَةٌ * | دَسَاتِيْرٌ |

sich etw. zum - nehmen اِقْتَدَى
-ieren va., modeln va. etw. بِه
شَكْل هـ.

Moder s. m. عَفَنَ | عَفُونَةٌ | -ig a.

عَفِنَ | عَفِنٌ | مُعَفَّنَ | عَفِنَ | تَعَفَّنَ.

modern a. جَدِيدٌ | حَدِيثٌ | عَلَى
عَلَى زِيٍّ | modisch a. زِيٍّ العَصْر
امْرَأَةٌ صَانِعَةٌ | Modistin s. f. العَصْر
أَزْبَاءُ النِّسَاءِ.

Modulation s. f. تَلْحِينٌ.

mögen va. (wollen, lieben) etw.
(können) - | أَحَبَّ هـ | أَرَادَ هـ
| جاز u لَهُ (dürfen) - | قَدَرَ i
ich mag يَجُوزُ لِي.

möglich a. مُمْكِنٌ | مُمْكِنٌ es
عَسَى أَنْ | يُحْتَمَلُ | يُمَكِّنُ - ist
| مَكَّنَ هـ مِنْ | machen | jm. etw. -
| عَلَى قَدْرِ الإِمْكَانِ - | soviel wie
- | أَكْثَرَ مَا يَكُونُ - | feit s. f.
| عَلَى قَدْرِ الإِمْكَانِ - | nach | إِمْكَانٌ.

Mohammed n. pr. مُحَمَّدٌ | -aner

s. m. مُسْلِمٌ pl. مُسْلِمُونَ | -anisch

a. مُسْلِمٌ | -anismus | إِسْلَامِيٌّ

s. m. إِسْلَامٌ.

Mohn s. m. خَشِخَاشٌ | أَبُو النُّومِ.

Mohr s. m. مَغْرَبِيٌّ (Maure) pl.

| سُودَانِيٌّ (Neger) - | مَغَارِبَةٌ
| زُنُوجٌ pl. | لُوبِيٌّ | لُوبِيٌّ
| زَنْجِيٌّ pl. (Neger(flave)) - | زَنْجِيٌّ
عَبِيدٌ.

Mohr s. n. كَرْمَسُوتٌ * (Seug) | كَمْخَا*.

Möhre s. f., Mohrrübe s. f. جَزَرٌ
coll. | eine - جَزْرَةٌ.

Moffa n. pr. مُخَا | der - القَهْوَةُ.

Molch s. m. zool. سَمَنْدَرٌ | عَرُوسٌ
الشِّتَاءِ*.

Mole s. f. رَصِيفٌ حِجَارَةٌ فِي مِيناءِ.

Molke s. f., -n s. m. u. s. n. مَصْلٌ
-rei s. f. مَعْمَلُ الرُّبْدَةِ وَالْجُبْنِ.

Moment s. m. (kleiner Zeitteil)
- | لَمْحَةٌ بَصَرٌ | لَحْظَةٌ
وَقْتٌ | حِينٌ.

Monarch s. m. مَلِكٌ pl. مُلُوكٌ |
-ie s. f. | سَلْطِينٌ pl. سُلْطَانٌ
-isch a. | دَوْلَةٌ | سَلْطَنَةٌ | مَمْلَكَةٌ
سُلْطَانِيٌّ | مَلِكِيٌّ.

Monat s. m. شَهْرٌ pl. أَشْهُرٌ u.

-e - | شَهْرِيٌّ a. -lich | شَهْرٌ

Reinigung, das -e حَيْضٌ -

| حَيْضٌ s. m. -fluß | النِّسَاءِ

-sgeld s. n., -slohn | عَادَةُ النِّسَاءِ

s. m. | ماهِيَّة * | شَهْرِيَّة *
adv. شَهْرِيًّا.

Mönch s. m. kath. راهِب pl. رُهْبَان |
- werden | تَرَهَّب | -isch a. رُهْبَانِيّ |
-swesen s. n., -tum s. n. أحوال
الرُهْبَان.

Mond s. m. قَمَر pl. أَقْمَار | - poet.
(Monat) pl. أَشْهُر | Voll-
Neu-, erstes Viertel, Halb-
خُسُوف s. f. -finsternis | هِلَال
| السَّنَةِ الْقَمَرِيَّة s. n. -jahr | القَمَر
-halb s. n. | جَنِين | -licht s. n.
-phasen s. pl. | إِقْمَار | ضَوْء الْقَمَر
-schein s. m. | أحوال وُجُوهُ الْقَمَر
حال السائِر s. f. -sicht | -licht s. f.
-süchtig a. | والمُتَكَلِّم فِي النُّوم
-wechsel | سائِر ومُتَكَلِّم فِي النُّوم
s. m. دَوْر الْقَمَر.

Moneten s. pl. دَرَاهِم * | فُلُوس *.

Monolog s. m. مُحَادَثَةٌ الْإِنْسَان |
نَفْسُهُ.

Monopol s. n. | اِمْتِيَاذٌ فِي | اِلْتِزَام *
التِّجَارَةِ.

Monstranz s. f. kath. مِعْرَاض |
مِصْمَد * | شُعَاع *.

Montag s. m. | يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ | blauen

انْكَفَّ عَنِ الشُّغْلِ يَوْمَ
الْاِثْنَيْنِ.

montieren va. etw. جَعَّزَهُ.

Moor s. n. | مُسْتَنْقَع. -ig a. مُسْتَنْقَع.

Moos s. n. | شَيْبَةُ الْعَجُوزِ | اُسْنَةٌ *
-ig a. كَثِيرِ الْاُسْنَةِ *.

Mops s. m. كَلْبٌ صَغِيرٌ اَفْطَسٌ.

Moral s. f. | عِلْمٌ الْاَدَابِ |
| مَعْنَى (einer fabel) | الْاَخْلَاقِ
- | آدَابِيّ a. -isch | مَغْرَاة
فاضِل | صَالِح (Person).

Morast s. m. | مُسْتَنْقَع. (Lehm)
| مُسْتَنْقَع. a. -ig | طِين | وَحْل
وَحْل.

Morchel s. f. bot. نَوْعٌ مِنَ عُنْثٍ
الْغُرَابِ.

Mord s. m. | قَتْلٌ اِنْسَانٍ |
| مُسَبِّبٌ حَرِيْقٍ s. m. -brenner
قَتْلٌ u. s. in. va. -en | مُشْعَلٌ
قَتْلٌ u. بِهِ | غِيْلَةٌ.

Mörder s. m. | قُتَالٌ pl. قَاتِلٍ u.
-grube | قُتَاك pl. قَاتِك | قَتَلَةٌ
s. f. | مَهَالِك pl. مَهْلِكَةٌ s. f.
شَدِيدٌ جِدًّا (vulg.) | -lich a. | قَاتِلٌ.

Mord-geschichte s. f. | قِصَّةٌ قَتْلٍ |
شَرِيْبِك s. m. | -gesell s. m. | قِصَّةٌ غَرِيْبَةٌ
-gier s. f. | شُرَكَاء pl. | قَتْلٌ فِي

- lust s. f. سَفْك الدِّمَاءِ | -gierig
a., -lustig a. سَفَّاح الدِّمَاءِ | سَفَّاك
| -mäßig a. f. mörderlich |
-spektakel s. m. ضَجَّة قَوْبَة |
-sucht s. f., -süchtig a. f. Mord-
gier, mordgierig | -that s. f.
فَتْك | قَتْل.
- Morea n. pr. مُورَة.
- morganatisch a., -e Ehe زَوَاج بَيْنِ
شَخْصَيْنِ غَيْرِ مُتَسَاوِيَيْنِ النَّسَبِ.
- morgen adv. بَاكِرًا | فِي الْغَدِ | غَدًا |
Morgen s. m. بَاكِر تَأْرِيخِهِ
| ضَحَى | ضَحُو | صُبْح | صَبَاح
s. m. - | مَشْرِق | شَرْق (Osten) -
- | alle - | امْ - | صَبَاحًا
jeden - | jm. | كَلَّ يَوْمٍ صَبَاحًا -
guten - | sagen, wünschen صَبَّحَ
| باخِير Morgen s. m. (feldmaß)
| صَلَاة السَّحَرِ s. f. - | فَدَّان
- | جَرِيدَة تُنْشَرُ صَبَاحًا s. n. -blatt
- | a., morgendlich a. f. morgig |
- | دämmerung s. f. فَجْر | - | frisch a.
- | gebet s. f. مَهْر | - | gabe s. f. صَبِيح
s. n. | صَلَاة الْفَجْرِ s. n. - | land s. n.
- | länder | مَشْرِق | بِلَاد الشَّرْقِ
s. m. | رَجُل شَرْقِيّ | - | ländisch a.
- | rot s. n., -röte s. f. | شَرْقِيّ
- الزُّهْرَة s. m. - | stern s. m. | فَلَق | فَجْر
نَحْو | -wärts adv. كَوَكَب الْفَجْرِ
الشَّرْقِ.
- الْبَاكِر | الْغَدِ a. morgig
- سَرِيْع | مُعَقَّن | عَفِنِ a. morsch
سُرْعَة | عَفِنِ s. f. - | هَيْت | الْاَنْكِسَارِ
الْاَنْكِسَارِ.
- أَجْرَانِ pl. s. m. Mörser
| هَاوُن | مَهَارِيْسِ pl. مِهْرَاسِ
| مَرَامِ pl. مَرَمَى الْقَنَابِرِ (Geschütz) -
- مِلَاط | مُوْنَة لِلْبِنَاءِ * s. m. Mörtel
| زُرْبِقَاءِ.
- مَرْكَب | فُسَيْفِسَاءِ * s. n. Mosais
| بِحِجَارَة مُتَلَوْنَة.
- دَاس | يَهُودِيّ | مُوسَوِيّ a. mosaisch
- | التَّوْرَاةِ s. f. -e Gesetz.
- جَامِعِ (große) s. f. Moschee pl.
| جَوَامِعِ | - | مَسْجِدِ (kleine) pl.
مَسَاجِدِ.
- مِسْك | nach - riechen s. m. Moschus
| تَطْيِبِ بِالْمِسْكِ | - | ratte s. f. فَاْر
| فِئْرَانِ pl. الْمِسْكِ.
- مُوسَى n. pr. Moses.
- نَوَامِيْسِ pl. ناموس * s. m. Moskito
| نَامُوسِيَّة * s. n. - | بَرْعَشِ
- مُسْطَارِ | سُلَافِ s. m. Most
| الْعِنْبِ.

Moftert s. m., Moftrich s. m. خَرْدَل.

Motette s. f. غِنَاءٌ دِينِيّ pl. أَغَانٍ.

Motiv s. n. دَاعٍ | بَوَاعِث pl. بَوَاعِث | دَوَاعٍ pl.

Motte s. f. سَيْسَان pl. سُمُوس | حَلَمٌ | عُنْت pl. عُنْتَةٌ | دِيدَان pl. دُودٍ

Motto s. n. حِكْمَةٌ pl. حِكَمٌ | قَوْلٌ

Möve, Möwe s. f. zool. نَوْعٌ مِنَ الطُّيُورِ الْبَحْرِيَّةِ.

Mucke s. f. لَطَشَةٌ | أَهْوَاءٌ pl. هَوَى

Mücke s. f. نَوَامِيسٍ pl. نَامُوسٍ * | بَرَعَنْشٍ | نَامُوسِيَّةٌ * s. n. -mück

Mucker s. m. مُدَارٍ | مُرَاءٍ -ei s. f., مُدَارَاةٌ | مُرَاءَاةٌ s. n. -tum

mucksen vn., nicht - لَمْ يَفْعْهُ بِيْنْتٌ - شِفَةٌ

müde a. تَعِبٌ | تَعَبَانٌ - sein od. werden a تَعِبٌ | ju. - machen * أَتَعَبٌ | Müdigkeit s. f. عِيَاءٌ | تَعَبٌ

Muff s. m. فَرَوَةٌ لِلْيَدَيْنِ.

muffig a., müffig a. عَفِنٌ.

Muhammed, Muhammedaner, muhammedanisch, Muhammedanismus s. مُحَمَّدٌ zc.

Mühe s. f. كَلْفَةٌ | أَتْعَابٌ pl. تَعِبٌ | سِخٌ - geben وَسَعَهُ u, i بَذَلَ

in a جَعَدَ | sich die - machen

in a كَلْفٌ خَاطِرُهُ فِي - wert لا يُحْرَزُ * | لا يُذَكَّرُ

in a سَهْلٌ | بِلا تَعَبٍ | تَعْنَى | أَغْيَا | أَتْعَبُ نَفْسَهُ | مُتْعَبٌ a. -voll | اجْتَهَدَ

Mühle s. f. طَاحُونَةٌ pl. طَوَاحِينٌ |

- | أَرْحَاءٌ pl. رَحَى | طَاحُونٌ | جَوَارِيْشٍ pl. جَارُوشٍ * (Hand-)

-nrad s. n., Mühlrad s. n. عَجَلَةٌ

pl. دُولَابٌ طَاحُونٌ * | طَاحُونٌ | فَرَّاشٌ طَاحُونٌ | دَوَالِيْبٌ

Mühlstein s. m. حَجَرٌ طَاحُونٌ |

حَاجِزٌ s. n. -wehr | فَيَالِيْخٌ pl. فَيَالِيْخٌ | سَدٌّ الْمَاءِ | الْمَاءِ لِطَاحُونٍ

Muhme s. f. خَالَةٌ | عَمَّةٌ (Tante) |

قَرِيْبَةٌ | ابْنَةُ الْعَمِّ (Base) -

Müh-fal s. f. أَتْعَابٌ pl. تَعِبٌ |

-fam a., -felig a. مُتْعَبٌ | -feit s. f. | -fal | -waltung s. f. |

إِعْتِنَاءٌ | عِنَايَةٌ

Mulatte s. m. وَكْدٌ مِنْ خِلَاسِيٍّ |

Mulattin s. f. خِلَاسِيَّةٌ | أَبَوَيْنِ أَبْيَضٍ وَأَسْوَدٍ

Mulde s. f. قَوَادِيْسٍ pl. قَادُوسٍ |

غُرْنَةٌ *

Mull s. m. شَاشٌ مُوَصِّلِيٌّ * | مُوَصِّلِيٌّ

Müll s. m. f. Gemüll.

Müller s. m. طَحَّان | طاحِن pl.

طِحَانَةٌ | -ei s. f. طاحِنون

Multiplikandus s. m. arith. العَدَد

المضروب | Multiplikation s. f.

arith. ضرب عَدَد في غَيْرِهِ

Multiplikator s. m. arith. العَدَد المضروب

multiplizieren va. eine Zahl

mit einer andern عَدَدًا i

ضرب في غَيْرِهِ

Mumie s. f. موميًا *

Mumme s. f. نَوْع مِنَ البِيرَةِ

Mummen[schanz] s. m., Mummerei s. f.

تَمَسُّخُر *

Mund s. m. فَم pl. أفواه

pl. فوهة | von - zu - gehen (Nach-

richt) | der - | اشتَهَرَ (الخَبْر)

| يَرغَب فِيهِ | wässert ihm darnach

| كَتَم u السِّر | reinen - halten

art s. f. لَهجَة pl. لهجات

لغات pl. لغَة

Mündel s. n. أَيْتَام pl. يتيم قاصر

munden vn. im. (Essen) أعجَب *

(الأكل)

münden vn. (fluß) أنصَب في (النهر)

Mund-fäule s. f. فساد الدَم | قلاع

مُناسِب | مُناسِب الفَم -gerecht a.

الذوق.

mündig a. بالغ | رَشِيد * | -feit s. f.

رُشد * | بُلوغ

Mund-foch s. m. طَبَّاح خاص المَلِك

-lad s. m. بُرْشان لِلنَّخْتَم *

mündlich a. شِفاهِي

Mund-schenf s. m. ساقِي خاص pl.

-stück s. n. (der | سَقَاء u. سَقَاءَة

Trompete zc.) | فَم البوق الخ

-tot a. مَحْرُوم شَرْعًا

-tuch | قاصِر | فوط pl. فوطَة s. n.

Mündung s. f. فَم pl. أفواه -

مصاب pl. مصاب (eines flusses)

Mund-voll s. m. لُقْمَة pl. لُقَم

-vorrat s. m. مُونَة pl. مُون

-wasser | زاد | أسباب العَيْش

s. n. | ماء لِتَنْظِيف الفَم

s. n. كَثْرَة الكلام

Munition s. f. لَوازِم الحَرْب

munkeln vn. تَكَلَّمَ خَفِيَّةً

Münster s. n. كَنِيْسَة أُسْقِفِيَّة

كَنْدَرِيَّة *

munter a. نَشِيط | فَرِحَان | فَرِح

| يَنْظَن | يَنْظَن (wach) - | سَرِيع

-feit s. f. نَشَاط | فَرِح

Münzamt s. n. دار السِكَّة | دار

Münze s. f. نُقْد pl. | الضَرْبُ
 | مَسْكُوكَةٌ * | سِكِّك pl. سِكَّة | نُقُود
 | مُعَامَلَات pl. مُعَامَلَةٌ * | عُمَّلَةٌ *
 - | دار | دار السِّكَّة (Münzamt) -
 | الضَرْبُ | -n [schlagen, prägen
 سِكَّة - | ضَرْبُ | i السِّكِّك
 | سِكَّة مُزَوَّرَةٌ | jn. mit
 | زَائِفَةٌ |
 كَال لَه بِكَيْلِه - bezahlen - gleicher

Münze s. f. bot. (Minze) نَعْنَع.

münzen va. ضَرْبُ i النُّقُود.

Münz-fälscher s. m. f. Falschmünzer |
 -freiheit s. f., -gerechtigkeit s. f.
 | الحَقِّ لِضَرْبِ السِّكِّك | -fuß s. m.
 | عِيَارَات pl. عِيَار | cabinet s. n.,
 | مَجْمُوع النُّقُود | s. f. -sammlung
 | حَكَّاك | s. m. -wardein

Muräne s. f. مَرِينَةٌ * | نَوْع من
 | السَّمَكِ البَحْرِيِّ

mürbe a. سَرِيع | لَيْسَ | نَاعِم
 | الأَثْكِسَار

Murmeltier s. n. zool. يَرُبُوع يَنَام
 | فِي الشِّتَاء

murmeln vn., murren vn. تَدَمَّر |
 | دَمْدَم | مَرَمَر

mürriſch a. شَرِيس | ثَقِيل | بِلْدَام
 | مُسْتَوْحِش

Murrkopf s. m. رَجُل شَرِيس |
 | رَجُل مُسْتَوْحِش

Mus s. f. خَبِيسَة | خَبِيس
 | مِنْ فَوَاكِه

Muschel s. f. صَدَف pl. أَصْدَاف
 | صَدَفَات pl. | eine - صَدْفَةٌ - coll.

Muse s. f. الهَيَّة الشِّعْرِ عِنْد
 | بَنَات الأَدَب -n die | اليونَانِيِّين
 | عَرَائِسِ الشِّعْر | bld. - قَرِيحَةٌ
 | الشَّاعِر

Muselman s. m. مُسْلِمُون pl. مُسْلِم
 | مُسْلِمُون | اسلامیّ | muselmännisch a.

Musensohn s. m. stud. تَلْمِيذ فِي دار
 | تَلْمِيذَةٌ pl. الفُنُون

Museum s. m., pl. -een مَعْرُض
 | أُنْتِيكِنَاة * | الصَّنَائِعِ والفُنُون

Musik s. f. مُوسِيقَى | -alien s. pl.
 | تَأْلِيفِ مُوسِيقِيَّة | -alisch a.

| نُوبَاتِي * | -ant s. m. | مُوسِيقَى a.
 | مُطْرِبِ مِنْ أَهْلِ | عَالِمِ بِالمُوسِيقَى

| -bande s. f., -fapelle
 | السِّمَاع s. f. نُوبَةٌ | -er s. m., -us s. m.

| مُوسِيقَانْت | musizieren vn.
 | ضَرْبِ i بِالمُوسِيقَى

Muskatnuß s. f. جَوْز الطَّيِّب

Muskatellerwein s. m. خَمْرٍ مِنْ
 | عِنَبِ لَه رَائِحَةٌ المِسْك

Musfel s. m. عَضَلَةٌ pl. عَضَلٌ u.
عَضَلَاتٌ.

Musfete s. f. بُنْدُفِيَّةٌ تُطْلَقُ بِفَتِيْلَةٍ |

Musketier s. m. عَسْكَرِيٌّ حَامِلٌ
تِلْكَ الْبُنْدُفِيَّةِ.

Muß s. n. ضَرْوْرَةٌ | غَضَبٌ | جَبْرٌ.

Muße s. f. عَطْلَةٌ | وَقْتُ الْفَرَاغِ.

Muffelin s. m. شَاشٌ مُوَصِّلِيٌّ |
مُوَصِّلِيٌّ*.

müssen v. (Pflicht) وَجَبَ i عَلَيْهِ |
- (Notwendigkeit) & a لَزِمَ | er
muß وَجَبَ i عَلَيْهِ |
لَزِمَ a & | يَنْبَغِي لَهُ | لَا بُدَّ لَهُ مِنْ

mußfieren vn. u. أَرْبَدٌ | أَرْغَى | رَغَا |
ذُو رَغْوَةٍ | مُزِيدٌ a. -د.

müßig a. مُعَطَّلٌ | عَاطِلٌ | بَطَّالٌ |
عَيْشَةُ الْبَطَّالِ -es Leben | فَارِغٌ
-en v., sich gemüßigt sehen a رَأَى
| بَطَالَةٌ s. m. -gang | نَفْسُهُ مُضْطَرًّا
-gänger s. m. | كَسَلٌ | عَطْلَةٌ
كَسْلَانٌ.

Muster s. n. قَوَاعِدٌ | قُدُوَّةٌ |
مَسْطَرَةٌ* | عَيْنِيَّةٌ* | عَيْنَةٌ* | نَمُوْنَجٌ*
pl. مَسَاطِرٌ | sich etw. zum -
nehmen بِهٍ | اِقْتَدَى بِهٍ | bild s. n.
| كِتَابُ الْمَسَاطِرِ* -buch s. n. | قُدُوَّةٌ

-gültig a.,
| كِتَابُ الْعَيْنِيَّاتِ*
| مَا يُقْتَدَى بِهٍ | نَمُوْدَجِيٌّ* -haft a.
-n va. etw. | فَتَّشَ هُ وَعَنْ
-[chuf] | كَشَفَ i هُ (Heer) - | عَنْ
| حِفْظٌ شَرْعِيٌّ لِلدَّسَائِرِ s. m.
| تَفْتِيْشٌ | كَشَفَ s. f. -ung
رَسَّامٌ s. m. -zeichner | فَحْصٌ
دَسَائِرِ.

Mut s. m. مُرُوَّةٌ | جَسَارَةٌ | شَجَاعَةٌ |
| سَجَّعَ & - machen | مَرُوَّةٌ | jm.
- fassen | تَشَجَّعَ | den - sinken
lassen, den - verlieren u. خَمَدَ
| يَيْئِسُ a | فَشِلَ a | نَشَاطُهُ
- (Gemüt) | خَاطِرٌ | wie ist ihm
zu -e | خَاطِرُهُ | sein Mütchen
an jm. fühlen مِنْهُ | اِنْتَقَمَ مِنْهُ
-ig | جَسُوْرٌ | شَجْعَانٌ pl. شَجَاعٌ a.
-los a. | يَئِيسٌ | قَانِطٌ | -losigkeit
s. f. | خُمُوْدُ الْهَيْمَةِ | قُنُوْطٌ s. f.
va. etw. | ظَنَّ u. بٍ | خَمَّنَ عَلَى
-maßlich a. | مَظْنُوْنٌ | تَخْمِيْنِيٌّ
| ظَنَّ s. f. -maßung | مُحْتَمَلٌ
تَخْمِيْنٌ.

Mutter s. f. اُمٌّ pl. اُمَمَاتٌ u. اُمَمَاتٌ |
- Gottes kath. | وَالِدَاتٌ pl. وَالِدَةٌ
| رَجِمَ (-Gebär-) | - | الْعَدْرَاءُ
| ثَقَبَ الْبُرْغِيَّ (-Schrauben-) -

-land s. n. | أُمَّ مُسْتَعْمَرَةٌ | وَطَنَ
 -leib s. m. | بَطْنُ الْأُمِّ | رَحِمَ.
 mütterlich a. | وَالِدِيَّ | أُمِّيَّ.
 Mutter-mal s. n. | سِيَمَةٌ فِي بَدَنِ
 | أُمُومَةٌ | أُمِّيَّةٌ -|schaft s. f. | المَوْلُودِ
 -|choß s. m. f. | -leib | -|seelenallein
 adv. | وَكِدٌ | -|öhndchen s. n. | مُنْفَرِدًا
 | وَكِدٌ مُخَمَّجٌ | الأَخْلَاقِ | مُدَلَّلٌ
 -|sprache s. f. | لُغَةٌ | البَدَدِ | -|teil s. n. | الوَطَنِ
 مال مَوْرُوثٌ | -|witz s. m. | تَرْكَةُ الْأُمِّ | مِنَ الْأُمِّ
 عَقْلٌ طَبِيعِيٌّ.
 Mutwille, Mutwillen s. m. | كِبَاسَةٌ |
 | mutwillig a. | تَلَاعِبٌ | شَيْطَنَةٌ
 شَيْطَانٌ | كَيْسٌ.
 Mütze s. f. | قَلَانِسٌ | pl. قَلَنْسُوءَةٌ
 | wollene - | كُمَمٌ | pl. كُمَّةٌ -
 | طَرَايِيشٌ | pl. طَرُبُوشٌ (fez) -|قُبْعَةٌ
 | طَرُطُورٌ - | spitze u. | lange
 Myriade s. f. | رِبُوءَةٌ | عَشْرَةٌ | آلاَفٌ
 Myrrhe s. f. | مَرٌّ مَكَّةٌ | مَرٌّ صَافٍ
 Myrte s. f. bot. | رَنْدٌ | آسٌ |
 مَرْسِيْنٌ * | هَدَسٌ
 Mysterien s. pl. | أَسْرَارٌ
 Mystik s. f. | تَصَوُّفٌ | (muslim.) -er
 | صُوفِيٌّ s. m.
 Mythe s. f. | اِقْصَةٌ فِي دِيْنِ | اليُونَانِيِيْنِ

bld. | وَهْمٌ | اِقْصَةٌ مُنْقُولَةٌ
 | مُخْتَصٌّ بِقِصَصِ | اليُونَانِيِيْنِ a.
 | وَهْمِيٌّ s. f. | Mythologie
 | آِلَهَةٌ | اليُونَانِيِيْنِ.

27

الحَرْفُ الرَّابِعُ عَشْرَ مِنْ حُرُوفِ n
 | الحِجَاءِ.

Mabe s. f. | وَسَطُ الدُّوَلَابِ |
 | قَلْبُ الدُّوَلَابِ | الدُّوَلَابِ

Mabel s. m. | سُرَّرٌ | pl. سُرَّةٌ -bruch
 | -|schmur s. f., -|strang
 | حَبْلُ السُّرَّةِ s. m.

nach praep. c. dat. (Ort, Richtung)

(ge- | - | بَعْدَ (seit) - | نَحْوًا | إِلَى
 | وِرَاءَ (hinter) - | بِحَسَبِ (maß)
 - u. -, - gerade | تَدْرِيجًا | wie
 | اِنْقِيَادٌ s. f. | دائِمًا | vor
 | -|ähmen va. etw. | قَدَدٌ -
 | -|ähnen va. etw. | قَدَدٌ

-ähmung | اِقْتَدَى بِ | تَمَثَّلَ بِ
 | -arten vn. | تَقْلِيدٌ s. f.
 | حَاكِيٌّ | شَابِهٌ | جَانِسٌ
 | مَائِلٌ | شَاكِلٌ

Nachbar s. m. | جِيرَانٌ | pl. جِيرَانٌ u.
 | -lich a. | جَارَةٌ | -in s. f. | جِيرَةٌ
 | مُجَاوِرَةٌ | جَوَارٌ | -|schaft s. f. | مُجَاوِرٌ
 | - - | (benachbarte Orte) | قُرْبٌ

أَمَّا كِن مُجَاوِرَةٌ | -- (die Nachbarn)
الجيران.

nach-bessern va. أَصْلَحَ هُ فِيمَا بَعْدَ |
-beten va. j_m. etw. أَعَادَ قَوْلَهُ |
-bezahlen va. etw. كَرَّرَ كَلَامَهُ |
-bilden va. etw. دَفَعَ ا ه مُتَأَخِّرًا |
| قَلَّدَ ه | نَقَلَ u ه | نَسَخَ ا ه
-bleiben vn. تَأَخَّرَ | -blicken vn.
j_m. نَظَرَ u وَرَاءَهُ .

nachdem conjct. بَعْدَ أَنْ | بَعْدَ مَا |
- adv. حَسْبَمَا - , je - | لَمَّا |
فِيمَا بَعْدَ | بَعْدَهُ .

nach-denken vn. تَأَمَّلَ فِي | über
تَأَمَّلَ | -denken s. n. تَفَكَّرَ فِي |
-druck | مُتَأَمِّلٌ | -denklich a. تَفَكَّرَ |
s. m. | -- eines | تَعَاظَمَ | تَفْخِيمٌ | قُوَّةٌ |
| تَرْوِيرٌ | طَبْعُ الْكِتَابِ |
-drucken va. | بُوْرٌ | طَبْعُ |
| قَوِيٌّ | -drücklich a. | الْكِتَابِ |
| أَقْتَدَى | -eifern vn. | j_m. | مُتَعَاظِمٌ |
| جَرَى | وَرَاءَهُ | j_m. | -eilen vn. | بِهِ |
: رَكَضٌ u وَرَاءَهُ .

Nachten s. m. قَوَارِبٌ | pl. قَارِبٌ |
فُلُوكَةٌ * | فُلُكٌ | زَوَارِقٌ | pl. زَوْرُقٌ
pl. فَلَاثِكٌ .

Nach-folge s. f. تَتَابَعٌ | خِلَافَةٌ |
| تَبِعَ ا ه | -folgen vn. | j_m. | إِقْتِدَاءٌ |

إِقْتَدَى بِهِ | خَلَفَ i ه | عَاقَبَ ه
| نَخَفَ | -folger s. m. | لَاحَقَ ه
| اسْتَخْبَرَ عَنَ | nach | -forschen vn.
| بَحَثَ ا عَنَ | فَحَصَ ا عَنَ |
| -forschung s. f. | اسْتَفْصَى فِي |
| بَحَثَ | اسْتِفْصَاءٌ | اسْتِخْبَارٌ |
| اسْتِخْبَارٌ | سُؤَالٌ | طَلَبٌ | -frage s. f.
-fragen vn. | einer Sache dat.
| تَأَخَّرَ | -frist s. f. | اسْتَخْبَرَ عَنَ |
| ارْتَحَى | -geben vn. | مَهْلٌ ثَانٍ |
| va. - - | j_m. | خَسَفَ i | هَبَطَ u
| تَرَكَ u ه | كُهُ | تَنَزَّلَ عَنَ |
-geboren a. | مَوْلُودٌ يَنْبِيئًا | geburt
s. f. | مَشِيْمَةٌ | بُرُنْسُ الْجَنِيْنِ |
-gehen vn. | j_m. | ه ا | تَبِعَ ه |
| تَأَخَّرَ (السَّاعَةُ) | - (Uhr) | -- | لَاحَقَ ه
-gerade adv. | تَدْرِيجًا | -geschmack
s. m. | خُلْفَةٌ | -giebig a. | رَخَصَ |
-giebigkeit | سَهْلُ الْخُلُقِ | لَيِّنٌ |
s. f. | سَهْوَةٌ | الْخُلُقِ | لَيِّنَةٌ | رَخَاصَةٌ |
-grübeln vn. | über | فِي | دَقَّقَ |
s. m. | رَنِيْنٌ | -hallen vn. | صَدَى |
| مُسْتَمِرٌ | دَائِمٌ | -haltig a. | رَنٌ | i
-hängen vn. | einer Sache dat.
| سَلَّمَ نَفْسَهُ لِ | -helfen vn. | j_m.
| فِيمَا بَعْدَ | بَعْدَهُ | -her adv. | سَاعَدَهُ ه
-herig a. | الْكَاثِنِ | بَعْدَهُ | -holen

| أضاف ه | jm. eine Beleidigung
 - - | ذَكَرَ u إِهَانَةً | -träglich a.
 | ذَيْلًا | موَحَّرًا - | adv. | ذَيْلِي
 | قَدَّ ه | اِقْتَدَى بِهِ | vn. jm.
 | مُقَلِّدٌ | تَبِعَ | treter s. m. | أثره
 | رُقَادٌ | راحة الليل | Nacht-ruh s. f.
 | ثَلْثَانٌ | -|schatten s. m. bot. | نَوْمٌ
 | -|schlafend a., -e | عِنَبِ الثَّعْلَبِ
 | -|schwärmer | زَمَنَ النُّومِ Zeit
 | جَوَّالٌ فِي اللَّيْلِ | s. m.
 | -|seite s. f. | جِهَةِ السُّوءِ | اللَّيْلِ
 | كُرْسِيٌّ فِيهِ قَصْرِيَّةٌ | -|stuhl s. m.
 | مَائِدَةٌ لِإِلْوَازِمِ | -|tisch s. m. | مَنْصَعٌ
 | -|geschirr | -|topf s. m. | اللَّيْلِ
 | طَائِرٌ يَصْطَادُ لَيْلًا | -|vogel s. m.
 | جَوَّالٌ فِي (|schwärmer) - | bld.
 | سَكَّرَ | أَرَقَ | -|wache s. f. | اللَّيْلِ
 | حَارِسٌ فِي | -|wächter s. m. | يَقْظَةٌ
 | حَرَسَةٌ u. حُرَّاسٌ | pl. | اللَّيْلِ
 | سَائِرٌ فِي النُّومِ | -|wandler s. m.
 | ثِيَابٌ | -|zeug s. n. | -|wäsche s. f.
 | النُّومِ.
 | أَوْجَاعٌ بَعْدَ الْوِلَادَةِ | pl. | Nach-wehen s.
 | -|weis s. m. | نَتَائِجُ السُّوءِ - | bld.
 | بَرَاهِينٌ | بَرُهَانٌ | pl. | إِشَارَةٌ
 | -|weisen va. | إِثْبَاتٌ | pl. | إِثْبَاتٌ
 | دَلٌّ u عَلَى | jm. etw. | أَشَارٌ

| أَنْبَتَ ه | بَرُهَنَ ه | إِيَّهِ بِ |
 | مُثَبَّتٌ | مُبْرُهَنَ | -|weislich a.
 | -|welt s. f. | الأَجْيَالِ | مُمَكِّنٌ يَبَانُهُ
 | -|wirfen vn. | الأَتِيَّةِ | أَثَرٌ مُتَأَخِّرًا
 | -|wuchs s. m. | خَاتِمَةٌ | wort s. n.
 | -|zählen va. | -|kommenschaft |
 | دَفَعَ ه | مُتَأَخِّرًا | etw. | -|zählen
 | عَدَّ ه u ثَانِيًا | -|ziehen
 | جَدَّبَ ه | وِرَاءَهُ | va. etw. | vn.
 | تَبِعَ ه | - | jm. | - | zügler s. m.
 | مُتَأَخِّرٌ مِنَ الْجُنُودِ.

| أَقْفِيَّةٌ | قَفَاءٌ | قَفَا | s. m. | Nachen
 | رِقَابٌ u. رِقَابَاتٌ | pl. | رَقَبَةٌ
 | أَرْقُبُ.
 | عَارٍ | عُرْيَانٌ | nachend a., nackt a.
 | مُعْرَى | مُجَرَّدٌ | Nachtheit s. f. | مُعْرَى
 | عَوْرَةٌ (|Schamteile) - | عُرْيَةٌ.

| إِبْرٌ | pl. | إِبْرَةٌ (-|Näh-) | Nadel s. f.
 | دَبَابِيْسٌ | pl. | دَبَّوسٌ * (-|Stech-) |
 | مِسَلَاتٌ | pl. | مِسَلَةٌ (-|Pack-) |
 | مَسَالٌ | die - der Kleopatra
 | مِسَلَةٌ كَلْيُوبْتَرًا | (-|Haar-)
 | قَرَامِلٌ | pl. | قَرْمَلٌ | (-|Strich-)
 | صِنَائِيرٌ | pl. | صِنَارَةٌ | -n der fichte
 | بِيْحْسَةٌ | s. f. | بِيْحْسَةٌ | büchse
 | مَآبِرٌ | pl. | مَآبِرٌ | -|geld s. n.
 | السِّتَاتُ لِشِرَاءِ الزَّبِينَةِ | -|holz s. n.

الأشجار من طائفة الصنوبر
مغرز الإبر. - fiffen s. n. والسرو
ثقبه. - öhr s. n. والدبايس
غرزة. - stich s. m. | ثقب pl. الإبرة
إهانة قليلة - - | bld. - | غرز pl.
صانع الإبر. Nadler s. m. | التأثير
والدبايس.

Nagel s. m. مسامير pl. |
ظفر (der finger od. sehen) -
pl. أطفار | das Weiße unter dem -
اسمر i, u | -n va. etw. ه | فوف
-neu a. | مسمر ه * | سمر ه
-schmied s. m. | جديد تمامًا
مساميري.

Nager | قرض i ه | an etw. vagen
s. m., Nagetier s. n. طائفة من
الحيوانات كالآرانب والفئران الخ.
قرنفل. Nägelein s. n. bot.

nah, nahe a. مجانب | مجاور | قريب
adv. | قريبًا | بالقرب
- | im. | بالقرب من | في جانب
einander | جانب ه | قارب ه
- | bringen, | etw. - | تجاور
setzen, rücken | دنى ه | قرب ه
einer Sache dat. - | kommen
im. zu | اقترَب إلى | قرب u من

- treten ه | آهان ه | dies geht mir -
هذا يكمنى.

Nähe s. f. قرب | مجاورة.

nahen vn. im., sich - im. u قرب
| اقترَب إليه | تقرب إليه | منه
دنا u منه.

nähen va. etw. ه | خاط ه.

Nählerin s. f. خياطة.

näheru va. etw. ه | قرب ه
sich - einer Sache dat. u قرب
| تقرب إلى | دنا u من | من
| اقترَب إلى.

Näh-garn s. n. خيط | nadel s. f.
إبر pl. إبرة.

nähren va. im. mit ب ه u | قات
| غذا u ه | ب | أطعم ه | ب
sich | أرضع الطفل (Säugling) -
| تغدى ب | اقتات ب | von
عاش i من | اغتدى ب

nährhaft a. ناجع | مغدّ.

Nähr-mutter s. f. مريض | -stand
| طائفة الصناعات والعملة
مواد pl. مادة غذائية s. m. -stoff

Nahrung s. f., -smittel s. n. قوت
| أطعمة pl. طعام | أقوات pl.

Nacht s. f. خياطة.

Nählerin s. f. خياطة.

- مَنخَرٌ * | مَنَاخِرٌ pl. | مَنخَرٌ od. مَنخَرٌ
 pl. مَنَاخِيرٌ.
- näseln vn. | خَمَخَمَ | حَنَّ | حَنَّ | i
- Nase-nbein s. n. | عَظْمُ الْأَنْفِ -n.
 bluten s. n. | رُعَافٌ -nflügel
 s. pl. | الحَنَابَتَانِ -nlaut s. m.
 مَنخَرٌ | مَنخَرٌ s. n. | -nloch
 od. مَنخَرٌ | مَنخَرٌ od. مَنخَرٌ
 pl. مَنَاخِرٌ | -nring s. m.
 | مَنَاخِيرٌ pl. مَنخَرٌ *
 | خَزَائِمٌ pl. | خَزَامٌ (für Kamel)
 -nspitze s. f. | أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ -nflüber
 s. m. | مَتَدَاخِلٌ a. -weis | نَقْفَةٌ *
 s. m. | weisheit s. f. | فِيمَا لَا يَعْنيهِ
 تَدَاخِلٌ فِيمَا لَا يَعْنيهِ.
- nasführen va. | اِسْتَهْزَأَ بِهِ | in.
 غَسَّ u.
- Nashorn s. n. | كَرَكَدَنْ * | خَرْطِيطٌ *
 وَحِيدُ الْقَرْنِ | مِرْمِيسٌ.
- naß a. | مَرْطَبٌ | مَرْطَبٌ | مَبْلُولٌ a.
 | مَعْرُورِقَةٌ | دَامِعَةٌ (Nuge) -
 - machen etw. | بَلَّ u. ه. | Naß
 s. n. poet. | مَادَّةٌ مَائِعَةٌ | مَوَائِعٌ pl.
 مَوَائِعٌ.
- Nässe s. f. | رُطُوبَةٌ | نَدَى -n va.
 etw. | بَلَّ u. ه. | رَطَّبَ ه. | بَلَّلَ ه. | نَافِثٌ a. | رَطَّبَ وَبَارِدٌ.
- Nation s. f. | أُمَّةٌ pl. | أُمَّةٌ
 | خَاصٌّ بِالْأُمَّةِ a. -al | شُعُوبٌ pl.
 | وَطَنِيَّةٌ s. f. | وَطَنِيَّةٌ | Nation
 -alökonomie s. f. | اِقْتِصَادٌ سِيَاسِيٌّ
 تَوْفِيرٌ سِيَاسِيٌّ.
- Nativität s. f. | طَوَالِعٌ pl. | طَوَالِعٌ.
- Natron s. n. | نَطْرُونٌ.
- Natter s. f. | حَيَّاتٌ pl. | حَيَّاتٌ
 pl. | أَصْلَالٌ.
- Natur s. f. | طَبِيعَةٌ - (Naturell)
 pl. | شَمِيئَةٌ | أَخْلَاقٌ pl. | خُلُقٌ
 - | شِيمٌ pl. | شِيمَةٌ | شَمَائِلٌ
 | المَخْلُوقَاتِ (das Geschaffene)
 | الكَوْنِ | المَوْجُودَاتِ | الكَائِنَاتِ
 | أَدْخَلَ ه. فِي | اِسْتَعْدَادٌ طَبِيعِيٌّ
 -anlage s. f. | اِسْتَعْدَادَاتٌ pl.
 طَبِيعَةٌ -ell s. n. | اِسْتَعْدَادَاتٌ pl.
 | أَخْلَاقٌ pl. | طَبَائِعٌ pl.
 -ereignis s. n., -erscheinung s. f.
 | حَوَادِثٌ pl. | حَادِثٌ طَبِيعِيٌّ
 -erzeugnis s. n. | مَحْصُولُ الْأَرْضِ
 | اِثْمَارٌ pl. | ثَمَرٌ | مَحْصُولَاتٌ pl.
 | غَلَّتْ pl. | غَلَّتْ pl. | غَلَّةٌ
 -forschung s. f. | اِسْتَعْدَادَاتٌ
 | عِلْمُ الطَّبِيعِيَّاتِ
 -anlage | -geschichte s. f. | مَعْرِفَةٌ

الحيوانات والنباتات | -funde s. f.,
 -lehre s. f. |. Naturforschung.
 natürlich a. | فِطْرِيّ | طَبِيعِيّ | -
 | غَيْرُ مُتَّصِنِعٍ | بَسِيط (einfach)
 | نَعْلٍ | اِبْنِ حَرَامٍ -es Kind
 adv. - طَبْعًا.

Natur-recht s. n. | الناموس الطَّبِيعِيّ |
 -reich s. n. | مَوْلِد (حَيَوَانِيّ, نَبَاتِيّ) |
 | مَعْدِنِيّ | -spiel s. n. | مَوَالِد pl. (مَعْدِنِيّ)
 | غَرَائِب pl. غَرِيبَةِ الطَّبِيعَةِ | trieb
 | فِطْرَةٌ | تَمْيِيز طَبِيعِيّ s. m.
 | مُضَادَّ الطَّبِيعَةِ | -widrig a. | غَرِيبَةٌ
 | عِلْمِ الطَّبِيعِيَّات s. f. | -wissenschaft
 | غَيْرُ مُتَّصِنِعٍ | طَبِيعِيّ a. | -wüchsig

Nazarener s. m. | نَاصِرِيّ | Nazareth
 n. pr. | النَاصِرَةُ.

Neapel n. pr. | نابُولِيّ.

Nebel s. m. | ضَبَاب pl. ضَبَابَةٌ |
 -haft a., -ig, neblig a. | كَثِير
 | مُغَيِّمٍ | مُضِبِّ | الضَّبَاب -horn
 | بُوْق يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الضَّبَاب s. n.

neben praep. c. dat. u. acc. | بِجَانِبِ |
 | عِنْدٍ | بِقُرْبِ | بِجَنْبِ -gericht
 | نُقُولَات u. نُقُول pl. | نَقْل s. n.
 | بِالْقُرْبِ | جَانِبًا -her adv.
 | مُسَابِقٍ | مُبَارٍ | مُجَارٍ s. m.
 | خُصُوم pl. | خُصْمٍ | غُرْمَاء pl. | غَرِيمٍ

لاحِق | تَوَابِع pl. | تَابِع s. n. -ding
 | لَوَاحِق pl. | -frau s. f. | سُرِّيَّة pl.
 | سَرَارِيّ | -mann s. m. | جَار pl.
 | القَرِيب s. m. | -mensch | جِيرَان
 | -sache s. f. | -ding | كَلِّ بَشَرِ
 | جُمَّة تَابِعَةٌ | -faß s. m. gr.
 | جُمَّة مُتَعَلِّقَةٌ | -stube s. f.,
 | حُجْرَةٌ مُجَاوِرَةٌ | -zimmer s. n.

neblig a. | مُغَيِّمٍ.

nebst praep. c. dat. | مَعَ.

necken va. ju. | مَازَح s. | أَضْرَس s.
 | مُمَازِحَةٌ s. f. | نَعْدَرِيّ | أَزْعَج s.
 | نَعْدِيّ a. | نَعْدِيّ | دَلَال | مَزَاح
 | مَزَاح.

Neffe s. m. (Bruderssohn) | اِبْنُ الْأَخِ
 | (Schwestersohn) | - | أَبْنَاء pl.
 | اِبْنُ الْأَخْتِ.

Neger s. m. | سُودَانِيّ pl. | سُودَان
 | زُنُوج pl. | زُنْجٍ | لَابِيّ | لُوبِيّ
 | عَبِيد pl. | عَبْد (Sflave) | - | زَنْجِيّ
 | - | - | - | سُودَانِيَّة s. f. | -in (Sflavin)
 | عَبْدَةٌ.

nehmen va. etw. | أَخَذَ u. ه | قَبِضَ
 | jm. etw. | - | مَسَكَ i ه | i عَلَى
 | أَخَذَ ه مِنْهُ | Speisen zu sich -
 | etw. auf sich - | تَنَاوَلَ الطَّعَامِ
 | jm. etw. übel - | تَكَلَّفَ ه

آخِذْ | Nehmer s. m. | آخِذْ فِي
مُشْتَرٍ.

غَيْرَةٌ مِنْ خَيْرٍ | حسد s. m. |

القَرِيبِ | -en va. jm. etw.

حَسَدٌ | -enswert a. | هُوَ وَعَلَى

مُشْتَهَى | مرغوب -er s. m.,

-hammel s. m., -fragen s. m.

حُسَدٌ u. حُسَادٌ pl. حاسِدٍ

حَسَدَةٌ | -isch pl. حُسُودٌ | حَسَدَةٌ

حَسُودٌ | حاسِدٌ a. -voll a.

بَقَايَا pl. بَقِيَّةٌ | باقي s. f. |

هَبَطَ u. | انْحَطَّ | auf die - gehen

حَنِىَ | حنى i ه | neigen va. etw.

أَمَالَ | vn. - | عَطَفَ | عطف i ه

انْحَنَى | مال i إلى - | Neigung

(eines Berges) - | انْحِنَاءٌ s. f.

مُنْحَدَرٌ | bld. - zu etw. | حَدَرٌ

تَعَطَّفَ | مَيَّلَ إِلَى

كَلَّا | لا | nein part.

تَرْجَمَةٌ مَيَّتٌ | Nefrolog s. m.

شَرَابِ آلِهَةٍ | Nektar s. m.

كُوْتَرٌ | تَسْنِيمٌ | اليُونَانِيِّينَ

قُرْنُفُلٌ coll. | -nöl | Nelfe s. f. bot.

خُلَاصَةٌ قُرْنُفُلٌ s. n.

سَمَى هُوَ | nennen va. jm. u. etw.

لَقَّبَهُ هُوَ | ذَكَرَ u. | دَعَا هُوَ هُوَ

أَبَانَ اسْمَهُ - | نَحَى | اسْمَهُ

سَمَى | دُعِيَ (heißten) - | sich

اسْمُهُ كَذَا | قال لَهُ | Tenner

مَقَامِ كَسْرٍ | مَخْرَجِ كَسْرٍ s. m.

تَسْمِيَّةٌ | ذَكَرَ الاسْمَ | Tennung s. f.

قِيَمَةُ اسْمِيَّةٍ | Tennwert s. m.

قِيَمَةُ حَرْفِيَّةٍ.

أَعْصَابٌ pl. عَصَبٌ | Nerv s. m.

-enfieber s. n., -enfrankheit s. f.

-ensystem s. n. | دَاءُ الأَعْصَابِ

عَضَلٌ a. -ig | مَجْمُوعُ الأَعْصَابِ

مَتِينِ الأَطْنَابِ | شَدِيدِ الأَطْنَابِ

مُتَشَنِّجِ الأَعْصَابِ | -ös a.

تَشَنُّجِ الأَعْصَابِ s. f.

تَعَلَّبَ المَاءَ | Nerz s. m. zool.

كَلْبِ المَاءِ.

بَنَاتِ النَارِ | أَنْجُرَةٌ | Nessel s. f. bot.

قُرَّاصٍ | قُرَيْصٌ * | -fieber s. n.,

حُمَيْرَاءِ | حَصْبَةٌ | -fucht s. f.

-tuch s. n. | Musselin.

عِشَائِشٌ pl. عُنْشٌ | Nest s. n.

بَيْتِ ضَيْقٍ - | bld. | وَكُورٌ u. أَوْكَارٌ

مَدِينَةٌ صَغِيرَةٌ.

يُشَدُّ بِهِ الصُّدْرِيَّةُ | Nestel s. f.

شَدَّ هُوَ بِبَيْرِيمٍ | -n va. etw.

-häfchen s. n., -küchlein s. n.,

عَقِيبِ الفُرُوحِ أَوْ -ling s. m.

الأَوْلَادِ.

nett a. مَلِيح | لَطِيف | ظَرِيف |
 * كَوَيِّس | -heit s. f., -igkeit s. f.
 مَلَاحَة | لَطَاة | ظَرَاة
 Netz s. n. شَبَاك u. شَبَاك pl. شَبَاكَة
 -en va. etw. mit رَشَّ u ه ب
 أَسْقَى ه ب | سَقَى i ه ب
 -haut s. f. (Des Auges) أَلْيَاف
 العَيْنِ الشَّبَاكِيَّة
 neu a. ثَانٍ | حَدِيث | جَدِيد
 - sein i جَدَّ | u حَدَّث | die -e
 Welt vON -em, | بِلَادِ أَمِيرِيكَا
 aufs -e ثَانِيَا * | مِّنْ جَدِيد *
 -bau s. m. بِنَاء | بِنَاءِ جَدِيد
 حَدِيثًا | -erdings adv. حَدِيث
 -erer s. m. | مُنذُ زَمَن قَلِيل
 -erlich adv. f. | مُبَدِع | مُحَدِّث
 -erdings | -ern va. أَحَدَّث |
 إِحْدَاث | إِبْدَاع s. f. -erung | أَأْبَدِع
 إِحْدَاث pl. | حَدَّث | بَدَع pl. بَدَعَة
 -gebadeu a. جَدِيد | حَدِيث
 -geboren a. مَوْلُود | مَوْلُودِ حَدِيثًا
 -gier s. f., -gierde | مُنذُ قَلِيل
 رَغْبَة فِي النِّظَرِ وَالْمَعْرِفَة s. f.
 رَاغِب فِي النِّظَرِ a. -gierig | فَضُول
 -heit | نَقَاف | فَضُولِي | وَالْمَعْرِفَة
 الجُدُد | أَحْدَاث pl. | حَدَّث s. f.
 خَبَر s. f. -igkeit | مِّنِ البَضَائِعِ

pl. رَأْس | -jahr s. n. | أَحْبَار
 كُلَّ عَامٍ وَأَنْتَ -! - profit | السَّنَة
 عَمَّا | حَدِيثًا | -lich adv. | بِخَيْر
 -licht s. n. f. -mond | قَلِيل
 -ling s. m. | مُبْتَدِي | حَدِيث
 -modisch a. | مُوَافِق ذَوْقِ العَصْرِ
 -mond s. m. | هِلَال
 neun num. | تِسْع f. | تِسْعَة
 s. n. | تاسِع a. | -te | سَمَكِ بَحْرِي
 -tel s. m. | تَسْع pl. | أَتْسَاع
 adv. | تاسِعًا | -töter s. m. zool.
 | تِسْعَة عَشْر | -zehn num. | صَفْر
 -zig num. | تِسْعُون
 neutral a. | مُحَايِد | -ität s. f. | حِيَاد
 مُحَايَدَة
 Neutrum s. n., pl. -a gr. | إِسْم لَيْسَ
 مُجَرَّد | بِمَذَكَّرٍ وَلَا بِمَوْتَّ
 Neuzeit s. f. | العَصْر الحَدِيث
 Nicäa n. pr. | أَزْنِيك
 nicht part. | لَيْسَ - | لَمْ | لَا | مَا
 mit -en | كَلَّا
 Nichte s. f. (Bruderstochter) | ابْنَة
 (Schwester- | بِنْتِ الأَخ | الأَخ
 tochter) | ابْنَة الأَخْت | الأَخْت
 الأَخْت
 nichtig a. | باطل | etw. null u. -

machen | أَبْطَلَ هـ | -feit s. f. بُطْلُ |
 بُطْلَانُ.
 nichts | لا شَيْءَ | es ist -, thut - لا
 خَائِبًا - | für | مَا هُوَ شَيْءٌ | بَأْسُ
 | نُرْهَةٌ | Zichts s. n. زُبَالَةٌ | مَجَانًا
 مَعَ | destoweniger - | لَفَاءُ | قَلَامَةٌ
 | غَيْرَ أَنْ | إِلَّا أَنْ | مع ذَلِكَ | هَذَا
 | إِنْسَانٍ نَكِدٍ | -nutz s. m. | لَكِنْ
 | هَدْرٍ | -nutzig, -nützig a. | إِنْسَانٍ هَدْرٍ
 | هَدْرٍ | -fagend a. | مُنَاكِدٍ | نَكِدٍ
 | إِنْسَانٍ | -thuer s. m. | عَادِمِ الْمَعْنَى
 | -thun s. n. | إِنْسَانٍ بَطَّالٍ | كَسْلَانٍ
 | -würdig a. | بَطَالَةٌ | كَسَلٍ s. n.
 | -würdigkeit s. f. | دَنِيٍّ | رَذِيلٍ
 | دَنَاءَةٌ | رَذَالَةٌ.
 Zickel s. f. | عَاهِرَةٌ * | شَرْمُوطَةٌ pl.
 شَرَامِيْطُ.
 Zickel s. n. | مَعْدِنِ أَبِيْضٍ.
 nicken vn. mit dem Kopf i | حَنَى
 | طَاطَأَ | رَأْسَهُ.
 nie | لا... | لا... أَصْلًا | لا... أَبَدًا
 قَطْعًا.
 nieder a. | سَافِلٍ | دَنِيٍّ | وَطِيٍّ
 adv. - | - mit ihm! | إِلَى تَحْتِ -
 | لِيُعْزَلَ | لِيُعْذَمَ | لِيُعْزَلَ
 | - gehen | تَرَدَّدَ | -beugen va. jn.
 | أَتْعَبُ هـ | أَضْعَفُ هـ | نَزَلَ هـ

| أَطْرَقَ | -blicken vn. | أَعْيَى هـ
 | -drücken va. jn. | -beugen |
 | -fahren vn. i | نَزَلَ | -fallen vn.
 | نَزُولٍ s. m. | سَقَطَ |
 | نَزَلَ | -gehen vn. i | انْحَطَّ
 | قَنِطَ | -geschlagen a. | يَأْسُ
 | قَنِطَ | -geschlagenheit s. f. | يَأْسُ
 | عَنْ النُّهُوضِ | -halten va. jn. | مَنَعَ هـ
 | بِالضَّرْبِ | -hauen va. jn. | قَتَلَ هـ
 | جَثَا | *a | رَكَعَ
 | mit einem Kinde | -kommen vn.
 | وَلَدَتْ الْمَرْأَةَ | -funft | وَلَدًا (frau)
 | وَلاَدَةٌ | -lage s. f. (Waren-) s. f.
 | مَخَايِزِ | - (eines | مَخْزَنِ
 | انْكَسَرَ | انْكَسَارِ (جَيْشِيٍّ) | Heeres)
 | انْكَسَرَ | -erleiden - - | انْهَزَامِ
 | انْهَزَامِ | (جَيْشِيٍّ).
 die - | بَدَدِ وَطِيٍّ | Niederland s. n.
 | هُنْدَةٌ | Niederländer s. m. s. pl.
 | رَجُلٍ هُنْدِيٍّ | niederländisch a. | هُنْدِيٍّ.
 | أَنْزَلَ | nieder-laffen va. etw. هـ
 | نَزَلَ | - | نَزَلَ | - | نَزَلَ | -
 | انْزَالٍ | -laffung s. f. | انْزَالٍ
 | مُسْتَعْمَرَةٌ | -legen va. etw. | مُسْتَعْمَرَةٌ
 | رَمَى | - | رَمَى | - | رَمَى | -
 | أَنْزَلَ | - | أَنْزَلَ | - | أَنْزَلَ | -
 | عِنْدَهُ | - | عِنْدَهُ | - | عِنْدَهُ | -

إِسْتَعْفَى | - - | اِسْتَوْدَعَ ه |
 -machen va. jn. | نام a - - | sich

ذَبَحَ ه | a | -meßeln va. jn. | قَتَلَ ه u

قَتَلَ ه u | -reißen va. etw. | قَتَلَ ه u
 هَدَمَ ه | رَمَى ه | اِسْقَطَ ه |
 قَتَلَ ه u | بِالسَّيْفِ | -fäbeln va. jn.

رُسُوبَ | -schlag s. m. chem. |
 مَوَادِعَ نَازِلَةَ كَالْمَطَرِ | -schläge pl.

اِسْقَطَ ه | -schlagen va. jn. | والثَّلَجُ
 اَعْيَى ه | قَتَلَ ه u | رَمَى ه |

Rechts- | - - | اَطْرَقَ (الضُّلُوعِ) | - -
 -geschlagen | اَزَالَ الدَّعْوَى | streit

ياشس | -schmettern va. | قَتَلَ ه
 - - - | اِسْقَطَ ه | بِقُوَّةٍ | etw. jn.

اَشْرَبَ | -schreiben va. etw. | اَعْيَى ه
 اَنْزَلَ ه | -setzen va. etw. | قَيَّدَ ه

جَلَسَ | - - | sich | وَضَعَ ه |
 -sitzen vn. | جَلَسَ | -steigen vn. |

اِسْقَطَ ه | -stoßen va. jn. | نَزَلَ ه |
 سَقَطَ ه u | -stürzen vn. | قَتَلَ ه u

اِسْقَطَ ه | -tracht s. f. | رَدَالَةٌ | -trachtig
 اِسْقَطَ ه | -trachtigheit s. f. | رَدِيلٌ | a.

-tracht.
 بَلَدٌ سَافِلٌ | بَلَدٌ وَطِيٌّ | Niederung s. f.

رَمَى ه | اِسْقَطَ ه | niederwerfen va. jn.
 اَعْيَى ه |

صَغِيرٌ | ظَرِيفٌ | مَلِيحٌ | niedlich a.

ظَرِيفَةٌ | مَلَاخَةٌ | -Feit s. f. | وَلَطِيفٌ
 لَطَافَةٌ |

دَنِيٌّ | سَافِلٌ | وَطِيٌّ | niedrig a.
 - | دَلِيلٌ | حَقِيرٌ | دَنِيٌّ | fein

-Feit s. f. | دَلَّ | دَنُوٌّ | سَفَلٌ |
 دِلَّةٌ | دَنَاءَةٌ | سَفَالَةٌ |

أَبَدًا | لا... أَصْلًا | لا... أَبَدًا | niemals adv.
 لا... قَطْعًا |

أَحَدٌ | لا... | واحدٌ | لا... | niemand

كُلُّوَةٌ | كُتُوَاتٌ | pl. | كُلِّيٌّ | pl. |
 pl. | كُلِّيٌّ |

عَطَسَ | نِيسَنٌ | niesen vn. u, i |
 عَطَسَ |

خَرِيْقٌ | نِيسْوَرِيقٌ | Nieswurz s. m.

تَصَرَّفَ فِي كَخَلٍ | نِيسْبِرَاوْحٌ | Nießbrauch s. m.
 تَمَتَّعَ بِ | den - | تَمَتَّعَ بِ |
 von etw. haben | تَصَرَّفَ فِي |
 تَمَتَّعَ بِ |

سَهْمٌ بِلَا | نِيتَةٌ | (einer Lotterie) s. f.
 كَسَبٌ (فِي النَّصِيبِ) |

بَشَّمَ ه * | بَجَّنَ ه * | nieten va. etw.

مِسْمَارٌ مُبَجَّنٌ * | نِيتِنَاوِلٌ | Nietnagel s. m.
 مِسْمَارٌ مُبَشَّمٌ * |

بَحْرٌ نَبِيلٌ | النِّبِيلُ | Nil s. m. n. pr.
 البَحْرُ الأَبْيَضُ - | der weiße |
 البَحْرُ الأَزْرَقُ - | blaue |

-messer |

- s. m. مِقْيَاسُ النِّيلِ | -pferd s. n. | نون s. f. رَاهِبَةٌ pl. رَاهِبَاتُ |
 فَرَسُ الْمَاءِ | فَرَسُ الْبَحْرِ. | -nraupe s. f. نَوْعٌ مِنَ الدُّودِ.
- nimmer, -mehr, nun u. - adv. | Nord s. m., -en s. m. الشَّمَالُ |
 لا... | لا... أَصْلًا | لا... أَبَدًا | der Nord الرِّيحُ الشَّمَالِيَّةُ |
 رَجُلٌ لَا يَشْبَعُ. | -fatt s. m. | -isch a., nördlich a. شَمَالِيٌّ |
 الشَّمَالُ الشَّرْقِيُّ |
 نينوى n. pr. نَيْنَوَى. | s. m., -osten |
 nippen vn. شَرِبَ | a قَطْرَةً قَطْرَةً | der Nordost الرِّيحُ الشَّمَالِيَّةُ |
 تَرَمَّقَ فِي الشَّرْبِ. | قطب s. m. -pol |
 Nippfache s. f. حَاجَةٌ صَغِيرَةٌ pl. | الشَّرْقِيَّةُ |
 حَوَائِجُ. | -stern s. m. |
 nirgend, nirgends ما مَحَلٌّ لَا فِي | نجمَةُ القُطْبِ |
 Nische s. f. مِشْكَاةٌ | كُوَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ | شَمَالِيٌّ |
 Nisse s. f. صَوَابٌ pl. صَوَابَةٌ | -wärts adv. |
 nisten vn. (Vogel) عَشَّشَ (الطَائِرُ) | نحو الشَّمَالِ |
 دَتَّنَ | دَتَّرَ. | s. m., -westen s. m. |
 Nix s. m. جِنُّ الْمِيَاهِ. | الشَّمَالُ الْغَرْبِيُّ |
 Nixe s. f. جِنَّةُ الْمِيَاهِ. | der -west |
 Noah n. pr. نُوحٌ. | رِيحٌ شَمَالِيَّةٌ. |
 noch adv. | بَعْدُ | لِأَنَّ | إِلَى الْآنِ |
 weder ... - | Nörgelei s. f. |
 -malig a. مُكْرَرٌ | تَدَمَّرَ |
 من جَدِيدٍ* | تَكَرَّرًا | ثَانِيًا. | Nörgler s. m. |
 Tomade s. m. | بَدَوِيَّونَ pl. | أَفْرَطُ فِي الْأَنْتِقَادِ |
 Tomen s. n., pl. -mina gr. | اِسْمٌ |
 اِسْمِيٌّ nominal a. | مُتَدَمِّرٌ. |
 رَفُعٌ Rominativ s. m. gr. | حَرْفِيٌّ |
 الِاسْمِ. | -al a. |
 قانونِيٌّ | قِيَاسِيٌّ. |
 Not s. f. | حَاجَةٌ | شِدَّةٌ | ضَيْقٌ |
 نوز s. m. f. | نوز. |
 Not s. f. | حَاجَةٌ | شِدَّةٌ | ضَيْقٌ |
 فقر | عَوَزٌ | حَوَائِجٌ u. | حَاجَاتٌ |
 | لُزُومٌ (Notwendigkeit) |
 - sein, thun | اِقْتِضَاءٌ | وَجُوبٌ |
 | u | حَاجٌ | - | لَزِمٌ |
 | أَفْقَرٌ | أَفْزَرٌ. |
 Nota s. f. | تَنْبِيْهُ (Bemerkung) |

- | قَائِمَةٌ | حِسَاب (Rechnung) -
-bene s. n. | حَاشِيَةٌ * | صَحَّحَ |
notam, sich etw. ad - nehmen
إِنْتَبَهَ.

Notanker s. m. | مِرْسَاةٌ فِي حَالِ الضِّيقِ
bld. - مَلْجَأٌ.

Notar s. m. | مَكْتَبٌ شُرْعِيٌّ | كَاتِبٌ شُرْعِيٌّ
مَنْصِبٌ s. n. | -iat | الْمُقَاوَلَاتِ
الكَاتِبِ الشَّرْعِيِّ.

Not-behelf s. m. | مَلْجَأٌ | -durft s. f.
| حَاجَةٌ | ضَرُورَةٌ | seine - - ver-
richten | حَاجَتُهُ | قَضَى i | -dürftig
a. | مَا كَادَ يَكْفِي | ضَرُورِيٌّ a.

Note s. f. | حَاشِيَةٌ pl. | حَوَاشِيٌّ -
| قَائِمَةٌ | حِسَاب (Rechnung)
| لَوَائِحُ pl. | لَائِحَةٌ * - (diplomatische)
| عِلْمٌ | عِلْمٌ | حُنْ - (musikalische)
pl. | أَلْحَانٌ | -naustausch s. m.
| تَبَادُلُ اللُّوَائِحِ | -nblatt s. n.,
-buch s. n., -nheft s. n. | كِتَابٌ
| الأَلْحَانِ | -nwechsel s. m. f. | -naus-
tausch.

Not-erbe s. m. | مَنْ لَهُ حَقٌّ لِقِسْمَةِ
| المِيرَاثِ الشَّرْعِيَّةِ | -fall s. m.
| حَالِ الضَّرُورَةِ | -gedrungen a.
| مُسَاعِدٌ s. m. | -helfer | مُجْبَرٌ بِالضَّرُورَةِ
مُنَجَّحٌ فِي الضِّيقِ | فِي الضِّيقِ

notieren va. etw. | بِالْكِتَابَةِ | قَيَّدَ هـ

notig a. | لَازِمٌ | ضَرُورِيٌّ | - fein

a | لَزِمَ | i | وَجَبَ | etw. - haben

| اِفْتَقَرَ إِلَى | عَازِ u هـ | اِحْتِاجٌ إِلَى

etw. nicht - haben | اسْتَعْنَى عَنِ

| اَلَزَمَ هـ | أَوْ بِ | -en va. in. zu

den | -- | أَجْبَرَ عَلَى | اِضْطَرَّ بِ

ung s. f. | كَلَّفَ الضَّيْفِ | Gast

. | تَكْلِيفٌ | قَهْرٌ | غَضَبٌ | جَبْرٌ

Notiz s. f. | تَذَكُّرَةٌ | ذَاكِرَةٌ s. f.

pl. | حَوَاشِيٌّ | von etw. - nehmen

| بَحَثٌ a عَنْ | أَخَذَ u | تَذَكُّرَةٌ لِ

. | مَحْفَظَةٌ s. n. | -buch | اِهْتَمَّ بِ

Not-lage s. f. | حَالِ الضَّرُورَةِ

-leidend a. | مُحْتَاجٌ | -lüge s. f.

| كِذْبٌ بَيْنِيَّةٌ الرِّضَى أَوْ النِّفْعِ

-nagel s. m. bld. | مَلْجَأٌ.

notorisch a. | مَشْهُورٌ | مَعْلُومٌ

Not-pfennig s. m. | مَا يُدْخَرُ مِنْ

حَالِ | -stand s. m. | الدَّرَاهِمِ

| -taufe s. f. | الضَّرُورَةِ | christl.

| عِمَادٌ بِدُونِ الرُّتْبَةِ الأَعْتِيَادِيَّةِ

| -wehr s. f. | الضَّرُورَةِ | -wehr

| -wendig a. | حِمَايَةٌ | مُدَافَعَةٌ

| لَزِمَ a | - - | لَازِمٌ | ضَرُورِيٌّ

| ضَرُورَةٌ s. f. | -wendigkeit | اِضْطَرَّ

| فَضَحَ s. f. | -zucht | اِقْتِضَاءٌ | لُزُومٌ

- züchtigen va. Mädchen a فَصَح
الْبِنْتُ.
- November s. m. | تَشْرِين | نُوفِمْبِر *
الثَّانِي.
- Novize s. m. u. s. f. kath. | مُبْتَدِي فِي
مُبْتَدِيَّة f. التَّرَهَّب.
- Nu s. m., in einem - | فِي لِحْظَة -
Nubien n. pr. | نُوبِيَة | بلاد النُوب
s. m. | نُوبِي | رَجُل نُوبِي pl.
نُوبِي | nubisch a. نُوبِيَّة.
- nüchtern a. | عَالِم | عَلَى الرِّيق | صَائِم
-heit | بارد | تَفَه | السُّكَّر
s. f. | حال الصَائِم.
- Nudel s. f. | اطْرِيَّة | شَعِيرِيَّة *
-n va. Gänse 2c. | سَمَن | الاَوْز مثلاً
Null s. f. | اصْفَار | صِفْر pl.
null, - u. nichtig | اِنْسَان | بلا قِيَمَة
نُقْطَة | تَجَمَّد s. m. | -punkt
الماء عِنْد التَّرْمُومِثْر.
- numerieren va. etw. | رَقَم u ه
| عَدَدِي a. | numerisch a. | نَمَّر ه *
Numeros s. f. | رَقَم | انْمَرَة * pl.
Numismatif s. f. | عِلْم | المَسْكُوكَات
القَدِيمَة.
- Nummer s. f. | رَقَم pl. | انْمَرَة *
| اَرْقَام pl. | اَعْدَاد pl. | عَدَد
-un part. (jetzt) | اَلْوَقْت | اَلْآن
- في الحال | حالاً (gleich) - | الحَاضِر
| مِنَ الْآن | von - an | والحَالَة هَذِهِ
- u. nimmer | لا... اَبَدًا -
| مِنَ الْآن | mehr adv. | هَيَّا
- Nuntiaturs. f. | سِفَارَة | البَابَا
s. m., pl. | سَفِير | البَابَا pl.
سَفَرَاء.
- nur adv. | بَس | لا غَيْر | قَطَّ
| لَيْسَ قَطَّ | nicht nur | لَيْسَ اِلَّا
- Nuß s. f. (Wal-) | جُوز coll. | eine -
(Hasel-) | جُوزَات pl. | جُوزَة
| eine harte - | بِنْدُق pl. | بِنْدُق
-baum s. m. | مُشْكِل | اَمْر صَعْب
| مُرْضَاع s. m. | شَجَرَة | الجُوز
| مَنَاقِد pl. | مَنَقَدَة | اَفْهَار pl. | فِطْر
-öl s. n. | دُهْن | الجُوز s. f. | -öl
مَرْكَب صَغِير | قِشْرَة | الجُوز
Münster s. f. | مَنَحْر | الفَرَس
الفَرَس.
- Nutz, Nute s. f. | طُول | فُرْضَة فِي
| فُرْض pl. | الخَشَب
- nutzen vn. u مَصَّ.
- nutz, nützig a. | نَافِع | sich etw. zu -
-an- | اِنْتَفَع بِ | و مِنَ
wendung s. f. | فَايْدَة | عَمَلِيَّة s. f.
-bar a. | نَافِع | etw. - - machen

- بارفایت s. f. | اِنْتَفَعَ بِ و مِنْ
مَنْفَعَةٌ.
- Nutzen s. m. | مَنَافِعُ pl. | مَنْفَعَةٌ | نَفَعُ s. m.
| اَرْبَاحٌ pl. | رُبْحٌ | فَوَائِدُ pl. | فَايِدَةٌ
- haben, ziehen von و اِنْتَفَعَ بِ و
| nutzen, nützen vn. zu etw. | مِنْ
| Das wird | صَلِحٌ u لِ | نَفَعٌ a بِ
| هذا لا يُجْدِيكَ نَفْعًا - Dir nichts
| أفادَ s | نَفَعٌ a لَهُ | nutzen jm.
- Nutz-garten s. m. | بُسْتَانٌ pl.
| حَشَبٌ s. n. | -holz | بَسَائِيْنٌ
| للصَّنَائِعِ.
- nützlich a. | نَافِعٌ | مُفِيدٌ | jm. - sein
| نَفَعٌ s. f. | أفادَ s | نَفَعٌ a لَهُ
| فَايِدَةٌ | مَنْفَعَةٌ.
- nutz-los a. | غَيْرٌ مُفِيدٌ | غَيْرٌ نَافِعٌ
| -losigkeit s. f. | عَدَمُ النِّفْعِ | -nießung
| اسْتِثْمَارٌ * | تَصَرَّفَ فِي | تَمَتَّعَ بِ s. f.
| تَمَتَّعَ بِ | اِنْتِغَاعٌ s. f. | -ung
| مَحْصُولَاتٌ pl. | مَحْصُولٌ * | نَحْلٌ
| مَحَاصِيْلٌ.
-
- الحَرْفُ الخَامِسُ عَشَرَ مِنْ حُرُوفِ ٥
الهِجَاءِ.
- o! interject. | آ | يَا | آيْتُمْهَا f. | آيْتُمْهَا
- o daß doch! | يَا لِلْعَجَبِ | وَى | وَا
يَالَيْتَ.
- Obse s. f. | واحَةٌ u. واح | واحات pl.
ob conjct. | هَلْ | إِذَا | إِنْ | هَلْ | كَأَنَّ
فَوْقُ ob praep. u. adv. (veraltet)
(bes. in Zusammensetzungen s. B.
| لا سِيَّما في التَّرْكِيباتِ مِثْلًا
-gemeldet, -genannt, -befagt
المُشَارِ | المَرْقُومِ | أَعْلَاهُ | المَذْكُورِ | أَعْلَاهُ
-acht s. f. | المُوَمَّا | إِلَيْهِ | إِلَيْهِ
etw. in -- nehmen, -- auf etw.
geben | اِعْتَنَى بِ
Obdach s. n. | مَلْجَأٌ.
- Obelisk s. m. (فَقَطُ مِنَ الأَثَارِ).
مَسَلَّةٌ
pl. مَسَلَّاتٌ u. مَسَالٌ.
- oben adv. | فَوْقُ | von - nach unten
- erwähnt | مِنْ فَوْقٍ إِلَى تَحْتِ
| فَوْقُ adv. | -an | المَذْكُورِ | أَعْلَاهُ
| -auf adv., - - sein | فِي الصَّدْرِ
u | فاق | -drein adv., -ein adv.
| عِلَاقَةٌ عَلَى ذَلِكَ | ما عَدَا ذَلِكَ
| سَطْحِيًّا | ظَاهِرًا | -hin adv.
- ober a. | عُلْيَا f. | أَعْلَى | فَوْقَانِي
| عَظْمِي f. | أَعْظَمَ | كُبْرَى f. | أَكْبَرَ
| أَقْرَبَ إِلَى مَنبَعِ نَهْرٍ (flußlauf)
| قَلْبِ ه | das -ste zu unterst kehren

-e Schulen | مَدَارِسٌ نَجْمِيَّةٌ
 -e s. m. رُوَسَاءٌ pl. رَئِيسٌ
 -ägypten n. pr. صَعِيدٌ مِصْرُ
 -arm | الوَجْهُ الْقِبْلِيُّ | الصَّعِيدُ
 s. m. أَعْضَادٌ pl. عَضُدٌ u. عَضُدٌ
 -aufseher s. m. نَظَّارٌ pl. نَظَّارٌ
 -aufsicht s. f. تَفْتِيْشٌ | نِظَارَةٌ | نَظْرٌ
 -befehl s. m. الأَمْرُ الأَعْلَى عِنْدُ
 سَطْحٌ s. f. | العَسَاكِرُ | -fläche
 | وَجْهٌ | سَطُوْحٌ pl. (الأَرْضُ مِثْلًا)
 | الظَاهِرُ bld. | بَسَائِطٌ pl. بَسِيْطَةٌ
 واقِفٌ | ظَاهِرٌ | سَطْحِيٌّ a. -flächlich
 -flächlichkeit s. f. | فِي ظَاهِرِ الشَّيْءِ
 -halb | وَقُوْفٌ عَلَى ظَاهِرِ الشَّيْءِ
 praep. c. gen. عَلَى | فَوْقُ
 -hand s. f., die - - be-
 kommen, erhalten, gewinnen über
 تَفَوَّقٌ | غَلَبٌ i s | فاق u s
 pl. رَئِيسٌ s. n. | هَاطِطٌ | عَلَيْهِ
 -haus s. n. | قَوَادٍ pl. قَائِدٌ | رُوَسَاءُ
 مَجْلِسِ الأَشْرَافِ | مَجْلِسِ الشُّيُوخِ
 -hemd s. n. | (فِي إِتِكَلْتَرَا مِثْلًا)
 -herrschaft | قَمِيصٌ يُلْبَسُ نَهَارًا
 s. f. | سِيَادَةٌ مُطَلَقَةٌ | -in s. f. kath.
 | فَوْقُ الأَرْضِ | -irdisch a. | رَئِيسَةٌ دَيْرٌ
 | أَوَّلُ الخُدَّامِ فِي | -kellner s. m.
 | أَعْلَى الجِسْمِ s. m. | -körper s. m. | لُوَكْنَدَةٌ

-leder s. n. | فَرَعَةٌ | -leib s. m. f.
 -körper | -lippe s. f. الشَّفَّةُ العُلْيَا
 pl. | شَفَوَاتٌ | -präsident s. m. وَا
 pl. | وِلَاةٌ | -priester s. m. رَئِيسٌ
 | فَخْذٌ pl. | -schenkel s. m. | الكَهَنَةُ
 أَفْخَادٌ.

Oberst s. m. | مِيرَالَى * | -leutnant
 s. m. | وَكِيْلُ المِيرَالَى.

Ober-stube s. f. | عُرْفَةٌ pl. | غَرْفٌ
 bld. - | رَأْسٌ (سَاحِرٌ) | -welt
 s. f. | الدُّنْيَا | الأَرْضُ.

obgleich conjct. | مَعَ أَنْ | وَكَلَوَ وَإِنْ.

Obhut s. f. | حِفْظٌ | etw. in
 seine - nehmen | حَفِظَ a
 | صَانٌ u ه.

obig a. | المَشَارُ إِلَيْهِ | المَذْكُورُ أَعْلَاهُ.

Objekt s. n. (Gegenstand) | مَوْضُوعٌ
 pl. | مَوَاضِيْعٌ | -gr. | مَفْعُولٌ
 | مَفْعُولٌ | indirektes - | مَفْعُولٌ بِهِ -
 | سَطْحُ النِّظَارَةِ | -iv s. n. | لَهُ أَوْ مِنْهُ
 | وَجْهُ النِّظَارَةِ.

Oblate s. f. | بُرْشَانٌ *.

obliegen vn. | جَبَّ i عَلَيْهِ | jm.
 | -heit s. f. | قَرِضٌ عَلَيْهِ | لَزِمَ a s
 pl. | قَرِضٌ | واجِبَاتٌ pl. | واجِبٌ
 | قُرُوضٌ.

Obligation s. f. صَكّ pl. صُكُوك u.
صِصَاك.

Obmacht s. f. السِّيَادَة العُلْيَا.

Obmann s. m. رُؤَسَاء pl. رُؤَسَاء
رَبِّيس pl. رُؤَسَاء
حَكَم.

Obriegkeit s. f. أَرْبَاب | الولاية | الحُكَم
مُحْتَصِّ بِالْحُكَم a. -lich | الولاية

Obriſt s. m. f. Oberſt.

obſchon conjct. وَلَوْ | وَإِنْ | مَعَ أَنْ.

obſcön a. فَاحِشَة s. f. -ität | فَاحِش
فَوَاحِش pl.

obſiegen vn. u. ظَفِر a | غَلَب i | فاق u.

obſkur a. دَنِيءٌ | مَجْهُولٌ.

Obſt s. n. -baum | فَوَاكِه pl. فَاكِهَة

s. m. -frau | شَجَرَة ذات فَوَاكِه

s. f. -garten | بَقَالَة | فَاكِهَانِيَة *

s. m. -bäuerin | بَسَاتِين pl. بُسْتَان

-händlerin s. f. f. -frau | -wein

s. m. -zucht s. f. | شَرَاب الفَوَاكِه

تَرْبِيَة الأشْجَار ذات فَوَاكِه

obwalten vn. كان u. | وَجَد.

obwohl, obzwar conjct. مَعَ أَنْ
وَلَوْ | وَإِنْ.

Occident s. m. بِلَاد الغَرْب | مَغْرِب

-al a. مَغْرِبِي | غَرْبِي.

Ocean s. m. f. Ozean.

Ochs s. m., -e s. m. ثَوْر pl. ثَوْرَان

اِسْتَفْعَلَ كَثِيرًا. -en vn. stud. | بَقَّر

عَيْن s. n. -enauge | طَالَعَ الكُتُب

. بَيَّضَ مَقْلِي (Segeier) | ثَوْر

Ocker s. m. طِين أَصْفَر أَوْ أَحْمَر

. نَوْع مِنَ التُّرَابِ الحَدِيدِي

Odde s. f. أَغَانِي u. أَغَانِيَة pl.

. قَصَائِد pl. قَصِيدَة

öde a. خَاوٍ | خَالٍ | مُقْفِر | قَفْر

Öde s. f. اِنْفِرَاد | صَحْرَاء.

Odem s. m. نَفْس.

oder conjct. - | أَوْ (in der Doppel-

frage) | وَالْآ (sonst) - | أَمْ

Ofen s. m. أَوْجَاق * | مَوَاقِد pl. مَوْقِد

تَنُور | كَوَانِين pl. كَانُون | وَجَاق *

مَنْقَل * (tragbarer) - | تَنَانِير pl.

| فُرْن (-Bad-) - | مَنَاقِل pl.

-schirm s. m. حَاجِز لِلنَّار pl.

حَوَاجِز.

offen a. (leer) - | مَكْشُوف | مَفْتُوح

(zugänglich) - | فَاضِي * | فَاْرِغ

مَدِينَة غَيْر e Stadt - | سَهْل

إِنْسَان سَرِيح er Kopf - | مُحْصَنَة

بَطْن غَيْر er Leib - | الإِدْرَاك

إِسْلِيم القَلْب (bld.) - | مُحْتَبِس

إِتْنَبَه e Augen haben | خَالِص

إِنْتَبَه mit -en Armen | يَقْط a

إِبْيَن | وَاضِح a. -bar | بِتْرَحَاب

- - sein | مَعْلُوم | ظاهر | مُبِين
 i | بان | تَبَيَّن | -baren va. etw.
 | كَشَفَ i ه | أَبَانَ ه | أَظْهَرَ ه
 - - jm. (von Gott) | أَوْحَى بِهِ
 | أَنْزَلَ كَلَامَهُ عَلَيْهِ | -barung s. f.
 | - (von Gott) | كَشَفَ | إِظْهَرَ
 | إِهْلَام | إِنْزَالَ | أَوْحِيَّةَ pl. وْحَى
 | -heit s. f. | -herzigkeit | -herzig
 | مُخْلِص | سَلِيمَ الْقَلْبِ | صَادِقَ a.
 | صِدْقَ | -herzigkeit s. f. | خَالِصَ
 | إِخْلُوصَ | إِخْلَاصَ | سَلَامَةَ الْقَلْبِ
 | -fundig a. | -bar.
 offensiv a. | صَالِحَ لِلدُّجُومِ | -allianz
 s. f. | مُعَاهَدَةَ لِلدُّجُومِ عَلَى الْعَدُوِّ
 öffentlich a. | عُمُومِيَّ | عامَّ | -feit s. f.
 | شُؤْرَةَ | جِهَارًا | جَهْرًا
 | جُمُورًا
 offiziell a. | رَسْمِيَّ
 Offizier s. m. | ضَابِطَ pl. ضَابِطُ *
 öffnen va. etw. ه a | فَتَحَ | jm. die
 Augen - ه | فَطَنَ | jm. sein Herz -
 | أَبَانَ لَهُ | أَسْرَارَ الْقَلْبِ | sich -
 | انْشَقَّ | انْفَتَحَ | انْفَتَحَ | فَتِحَ
 | ثُقُبَةَ | ثُقُوبَ pl. ثُقُبَ | فَتُوحَ
 | فَمَ pl. | فُرُوجَ pl. | فُرُجَ | ثُقُبَ pl.
 | فَتَحَ (das Öffnen) | - | أَفْوَاهَ
 | تَشْرِيعَ (einer Leiche) | - | إِفْتِتَاحَ
 - des Leibes | بِرَازَ | keine - haben
 | حَبَسَ الْبَطْنَ
 | كَثِيرًا مَا | فِي الْغَالِبِ | غَالِبًا oft adv.
 | مُتَكَثِّرًا | öfter a. | تَكَرَّرًا
 | الْوُقُوعَ | öfters adv., oftmals adv.
 | f. oft.
 oh! interject. | f. o!
 Oheim s. m., Ohm s. m. (Vaters-
 bruder) | عُمُومَةَ pl. عَمَّ (Mutter-
 bruder) | خَالَ pl. أَخْوَالَ
 Ohm s. n. | مُدَّ pl. أَمْدَادَ
 ohne praep. c. acc. | بِلا | دُونَ |
 | دُونَ أَنْ | - daß | بَدُونَ |
 | -das, -dem, -dies, -hin adv.
 | عَلَى كُلِّ حَالٍ
 ohnegleichen | بِلا تَظْيِيرَ
 ungefähr adv. | f. ungefähr.
 Ohnmacht s. f. | غُشْيَانِ | غُشْيَ |
 ohnmächtig a. | مَغْشِيَّ عَلَيْهِ |
 | - zu etw. | غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى | - werden
 | غُشْيَ عَلَيْهِ
 oh! | قَفْ
 Ohr s. n. | أُذُنَ pl. آذَانَ | - (Gehör)
 | سَمِعَ | ganz - sein | كُلَّ
 | الإصْغَاءَ | jm. etw. | ins - sagen
 | هَامِسَ ه | وَشْوَشَ ه | ein gutes,
 | حَسَنَ u | كَانِ | feines - haben

السَّمْع | jm. zu -en kommen
 نَصَّب | die -en spitzen | بَكَغْ s u
 اِنتَبَه | اِذْنَيْهِ | jz. - haben u فاز
 بِثِقَّتِهِ | sich auf das - legen
 ا نام.

Ohr s. m. ثُقْبَةٌ اِبْرَةٌ pl. ثُقُبْ |
 سِمَام u. سُمُوم pl. سُمَّ

Ohren-beichte s. f. kath. اِعْتِرَاف
 اِنَّمَام -|bläser s. m. |الاذن القسيس
 اِبْلَافِري -| مُتَمَلِّق | وُشَاة pl. وائش
 brausen s. n. | تَمَلَّق | نَمِيمَة s. f.
 مُتَمَلِّق s. m. | -diener | دَوَى
 -|ausen s. n. | تَمَلَّق | -dienerei s. f.
 وَاَسَمَ الِاذْنَ s. n. | -[chmalz | دَوَى
 -[chmaus s. m. | سِمَخْ * | اَفْ
 -zeuge s. m. | شَيْءٌ حَسَنٌ سَمِعُهُ
 -[chmerz s. m. | سَامِعُونَ pl. سامِع
 -zwang s. m. | وَجَعَ الِاذْنَ.

Ohrfeige s. f. صَفْعَةٌ | سَفْعَةٌ
 -| ضَرْبَةٌ بِالْكَفِّ | لَطْسَةٌ | لَطْمَةٌ
 اَصْفَعْ a | ضَرْبٌ i | بِالْكَفِّ va. jm.
 لَطَمَ i.

Ohrlappen s. m., -läppchen s. n.
 -ring s. m. | حَجَّةٌ | شَحْمَةٌ الِاذْنَ
 pl. شَنْفٌ | خِرْصَانٌ pl. خِرْص
 -wurm | اَقْرَاطٌ pl. قُرْطٌ | شُنُوفٌ

s. m. اَبُو مَقَصْ | حَرْشِش pl. حَرْش
 -zipfel s. m. | -lappen.

Ökonom s. m. وَاِكِيل | مُدِير | خَائِل
 اِمُقْتَصِدْ a. -|اِحْ | المَصْرُوف
 -ie s. f. اِقْتِصَاد | اِتْدَبِير المَصْرُوف
 اِدَارَة المَصْرُوف.

Octav s. n. اَطْلَحِيَّةٌ 1/8 | قَطْعْ -e
 السَّمْعِ الثَّامِنِ بَعْدَ غَيْرِهِ s. f. mus.

Oktober s. m. اَكْتُوبِرْ * | تَشْرِيبِن
 الاَوَّل.

Octogon s. n. math. شَكْلٌ مُثَمَّنٌ
 الزَّوَايا.

Oftroi s. m. اَتَسْرِيْمٌ | مَكْسٌ رَفْتْ *
 اَطْعَمَ الشَّجْرَةَ Baum va. ofulieren

Öl s. n. زَيْتٌ pl. زُبُوتٌ | دُهْنٌ
 اَخْلَاصَةٌ (Effenz) - | اَذْهَانٌ pl.
 - | ins Feuer gießen bld. | رُوح
 -baum s. m. | هَيْجٌ الشَّهَوَاتِ
 زَيْتُونٌ | شَجْرَةُ الزَّيْتُونِ coll. | زَيْتُونٌ
 - | ein - - | عُنْمٌ coll. - - wilder
 -berg s. m. (bei | عُنْمَةٌ | زَيْتُونَةٌ
 Jerusalem) | جَبَلُ الطُّورِ -bild
 s. n. صُورَةٌ بِدِهَانٍ.

Oleander s. m. دِفْلِي | دِفْلِي.

Ölen va. etw. ه u هُنْ | طَلَى i ه
 زَيْتٌ ه * | مَسَحَ a ه | بِالزَّيْتِ

Ölfarbe s. f. دِهَانَاتٌ pl. دِهَانٌ

- frucht s. f. زَيْتُون | -gemälde s. n. f. -bild | -götte s. m. رَجُل دُهْنِي | زَيْتِي -ig a. | بَلِيد
- Olive s. f. زَيْتُون coll. | eine - زيتونة | -nbaum s. m. زَيْتُون coll. | شَجَرَةُ الزَيْتُون.
- Öl-fuchen s. m. الْمَعْصُور مِنَ الزَّيْتِ | -presse s. f. مَطْرُوف pl. | -ung s. f. kath. مَسْحَةُ الْمَرْضَى | letzte - - | المَسْحَةُ الْأَخِيرَةَ - - zweig s. m. | فَرْعٌ مِنَ الزَّيْتُون. الصُّلْح.
- Omelette s. n. عَجَّة.
- Omen s. n. أَقْوَالٌ u. فُؤُولٌ pl. قَالٌ.
- Omnibus s. m. عَرَبَةٌ | عَجَلَةٌ عَامَّةٌ * عُمُومِيَّةٌ.
- Onanie s. f. اسْتِمْنَاءٌ.
- Onkel s. m. (Vatersbruder) عَمٌ pl. | (Mutterbruder) خَالَ - | عُمُومَةٌ pl. | أَخْوَالٌ.
- Onyx s. m. min. عَقِيقٌ | حَجَرٌ يَمَانِيٌّ يَمَانِيٌّ.
- Opal s. m. min. نَوْعٌ مِنَ الْحِجَارَةِ الثَّمِينَةِ.
- Oper s. f. رِوَايَةٌ مُفْتَرَنَةٌ بِنَوْبَةٍ.
- Operateur s. m. | جَرَّاحٌ | Operation s. f. med. عَمَلِيَّةٌ طَبِيبِيَّةٌ | operieren va. jn. عَمِلَ فِي الْمَرِيضِ عَمَلِيَّةً.
- Opfer s. n. | فِدَاءٌ | قَرَابِينٌ pl. | قُرْبَانٌ | ضَحِيَّةٌ pl. | ذَبَائِحٌ pl. | ذَبِيحَةٌ | زُهْدٌ فِي | تَرْكٌ - | ضَحَايَا -gabe s. f. f. Opfer.
- opfern va. jn. u. etw. قَرَّبَ هُوَ وَهِيَ | ضَحَّى بِ | ذَبَحَ هُوَ | (لِلهِ قُرْبَانًا) | عَدَلَ i عَنِ | حَرَّمَ i نَفْسَهُ هُوَ | jn. etw. -, etw. für | زَهَدٌ فِي | أَفْنَى هُوَ | بَدَّلَ هُوَ لِأَجْلِهِ - | بَدَّلَ هُوَ لِأَجْلِهِ | sich - für jn. u. | حَبَسَ i | نَفْسَهُ دُونَهُ أَوْ عَنْهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ.
- Ophir n. pr. أَوْفِيرٌ.
- Opium s. n. أَفْيُونٌ.
- Opponent s. m. | مُعَارِضٌ | Opposition s. f. | مُخَالَفَةٌ | مُعَارَضَةٌ | مُضَادَّةٌ | jn. - machen هُوَ عَارِضٌ.
- Optik s. f. | عِلْمُ النُّورِ وَالْبَصَرِ -er s. m., -us s. m. | صَانِعُ النِّظَارَاتِ.
- Optimismus s. m. | اسْتِحْسَانٌ كُلُّ مُسْتَحْسِنٍ | Optimist s. m. | شَيْءٌ كُلُّ شَيْءٍ.
- optisch a. | بَصَرِيٌّ | نظريٌّ.
- Orafel s. n. | جَوَابٌ أَوْ هُتَافٌ الْإِلَهِيَّةُ

| هَاتِفِ الْغَيْبِ | عِنْدَ الْوَثْنِيِّينَ
 -n vn. كَهَاتِفِ الْغَيْبِ u قال.
 Orange s. f. | بَرْتَقَانِ coll. | نارَنْجِ
 coll. | eine - بَرْتَقَانَةٌ -
 -nbaum s. m. | شَجَرَةُ الْبَرْتَقَانِ
 -rie s. f. | مَحَلُّ أَشْجَارِ الْبَرْتَقَانِ
 Orchester s. n. mus. | جَمَاعَةٌ
 | نَوْبَةٌ | الْمَوْسِيقِيِّينَ
 Orden s. m. (-szeichen) * نَيْشَانِ
 pl. | نَيْشَانِيْنَ | (Mönchs-) kath.
 | أَخَوِيَّةٌ | -szeichen s. n.
 | رُهْبَانِيَّةٌ | نَيْشَانِ
 ordentlich a. | قِيَاسِيٌّ | مُرْتَبٌ | مُنْتَظِمٌ
 | أَحْسَنُ السُّلُوكِ (Person) - | مَضْبُوطٌ
 | عَادِيٌّ (gewöhnlich) - | مُسْتَقِيمٌ
 | كَثِيرًا (sehr, gut) - | اِعْتِيَادِيٌّ
 | جَيِّدًا | جَيِّدًا
 ordinär a. | دَنِيٌّ | عَادِيٌّ | اِعْتِيَادِيٌّ
 ordnen va. etw. ه | نَظَمَ i ه | رَتَّبَ ه
 Ordner | صَفَّ ه | صَفَّ u ه
 s. m. | تَرْتِيبٌ | Ordnung s. f. | مُرْتَبٌ s. m.
 | رُتْبَةٌ (Rang) - | اِنْتِظَامٌ | نِظَامٌ
 | etw. in | صُفُوفٌ pl. | صَفَّ | رَتَّبَ
 - bringen | رَتَّبَ | etw. aus der
 - bringen * | خَرَّبَطَ ه | ordnungs-
 gemäß a., ordnungsmäßig a.
 | مُوَافِقُ التَّرْتِيبِ | Ordnungsliebe

s. f., Ordnungssinn s. m. مَحَبَّةٌ
 | ordnungswidrig a. | مُخَالِفٌ
 | التَّرْتِيبِ | Ordnungszahl s. f. gr. | تَرْتِيبِيٌّ
 | أَعْدَادٌ pl.
 Ordre s. f. komm. | أَمْرٌ pl. | أَوَامِرُ
 Organ s. n. | آلَةٌ pl. | آلَاتٌ
 | تَرْتِيبٌ | -isation s. f. | أَعْضَاءُ
 | عَضُوعٌ | آلِيٌّ a. | -isch
 | رَتَّبَ ه | رَتَّبَ ه | -isieren va.
 | -ismus s. m. | -ist s. m.
 | ضَارِبُ الْأَرْغُنِ * mus.
 Orgel s. f. mus. | أَرْغُنٌ pl. * | أَرَاغِنُ
 | آلَةٌ الطَّرَبِ | -punkt s. m. mus.
 | وَقْفَةٌ الْأَرْغُنِ فِي النِّعَمِ
 Orgien s. pl. | اِفْرَاطٌ فِي الْأَكْلِ
 | وَالشَّرْبِ
 Orient s. m. | مَشْرِقٌ | بِلَادُ الشَّرْقِ
 -ale s. m. | اِنْسَانٌ شَرْقِيٌّ | -alisch a.
 | شَرْقِيٌّ | -alist s. m. | عَالِمٌ بِاللُّغَاتِ
 | -ieren v. sich über | الشَّرْقِيَّةُ
 | اِطَّلَعَ عَلَى | تَبَصَّرَ وَجُوهَهُ | etw.
 Original s. n. | أَصْلٌ | مَتْنٌ | نَصٌّ
 | اِنْسَانٌ (sonderbarer Mensch) -
 | أَصْلِيٌّ | original a. | غَرِيبٌ
 | غَرِيبٌ a.
 Orkan s. m. | زَوْبَعَةٌ pl. | زَوَابِعُ

- Ornament s. n. زِينَةٌ فِي النَّقْشِ .
- Ornat s. m. kath. حُتَّةُ الْكَاهِنِ
pl. حُكَل .
- Ort s. m. مَحَلٌّ pl. مَحَلَّاتٌ u. مَحَالٌّ |
مَوْضِعٌ | أَمْكِنَةٌ u. أَمَاكِنٌ pl. مَكَانٌ
| مَطَارِحٌ pl. مَطْرَحٌ * | مَوَاضِعٌ pl.
| قُرَى pl. قَرْيَةٌ | بَلَدٌ (-schaft) -
aller -en فِي كُلِّ مَحَلٍّ .
- orthodox a. مُسْتَقِيمُ الرَّأْيِ فِي الدِّينَانَةِ .
| حَنِيفٌ الْمِلَّةُ | قَوِيمٌ الْمَذْهَبُ
-ie s. f. اسْتِقَامَةُ الرَّأْيِ فِي الدِّينَانَةِ .
- Orthographie s. f. ضَبْطُ الْكِتَابَةِ |
وَضْعَةُ الْكِتَابَةِ | قِيَامُ الْكِتَابَةِ
orthographisch a. مُخْتَصِرٌ بِضَبْطٍ
الْكِتَابَةِ .
- örtlich a. بَلَدِيٌّ | مَحَلِّيٌّ | -heit s. f. بَلَدِيَّةٌ .
- Ort-sangabe s. f. ذِكْرُ الْمَحَلِّ | -arme
s. m. اِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُتَقِيمٌ فِي بَلَدٍ .
| قُرَى pl. قَرْيَةٌ | بَلَدٌ (-schaft) s. f.
| مَعْرِفَةُ الْمَحَلَّاتِ s. m. -sinn
| مَعْرِفَةُ الْاطِّلَاعِ عَلَى الْمَحَلِّ
-sborsther s. m. شَيْخُ الْبَلَدِ pl. شَيْخُونَ .
- Öse s. f. ثُقْبٌ | عُرْوَةٌ pl. عُرَى |
أَبْحَاشٌ pl. بَحْشٌ * | عِيُونَ pl. عَيْنٌ .
- Ost s. m., Osten s. m. شَرْقٌ |
الرِّيحُ الشَّرْقِيَّةُ der Ost | مَشْرِقٌ .
- Osterei s. n. بَيْضَةٌ مُتَلَوَّنَةٌ | Oster-
fest s. n. f. Ostern .
- Osterlamm s. n. الْحُرُوفُ الْفِصْحِيُّ .
österlich a. فِصْحِيٌّ .
- Ostern s. pl. christl. الْعِيدُ | فِصْحٌ
عِيدٌ | الْكَبِيرُ عِنْدَ النَّصَارَى
الْقِيَامَةُ .
- Österreich n. pr. بِلَادُ النَّمْسَا *
رَجُلٌ -er s. m. | أَوْسْتَرِيَا *
نَمْسَاوِيٌّ * -isch a. | نَمْسَاوِيٌّ *
östlich a. شَرْقِيٌّ .
- Östreich, Östreicher, östreichisch f.
Österreich .
- Ostwind s. m. رِيحٌ شَرْقِيَّةٌ .
- Otter s. f. (Fisch-) ثَعْلَبُ الْمَاءِ |
أَفْعَى (Schlange) - | كَلْبُ الْمَاءِ
pl. أَفَاعٍ .
- oval a. عَلَى شَكْلِ بَيْضَةٍ | بَيْضِيٌّ
إِهْلِيلِيٌّ .
- Ozean s. m. الْبَحْرُ الْمُحِيطُ * | أَوْقِيَانُسُ *
großer - | الباسيفيك * -ien n. pr.
أَوْقِيَانِيَا * | جَزَائِرُ الْبَاسِيفِيكِ .
- Ö
- الحَرْفُ السَّادِسُ عَشَرَ مِنْ حُرُوفِ
الْحِجَاةِ .
- Paar s. n. (الذَكَرُ وَالْأُنْثَى) .

اِثْنَتَانِ f. اثنان (zwei) - ein | اَزْوَاجٍ

ein - (einige) | بَعْضٍ | zu

-en treiben jn. | اَخْضَعَ | paar

(Gegenteil = unpaar) | عَدَدٌ يَنْقَسِمُ

-en va. jn. mit | عَلَى اِثْنَيْنِ

اِقْرَنَ u | قَرْنٍ | زوج | بِ

عَشْرٍ (الطُيُورِ) | sich - - (Vögel)

اجْتِمَاعٍ | اِزْدِوَاجٍ | زوج | -ung s. f.

-- der | تَقْرِبِينَ | قَرْنٍ | اِثْنَيْنِ

weife adv. | تَعَشِيرِ الطُيُورِ

مَنْنَى | ثَنَاءٍ

اِسْتِئْجَارٍ | اِيجَارِ اَرْضٍ | acht s. f.

عَهْدٍ | اِلْتِزَامٍ | اِسْتِئْجَارٍ | اِكْرَاءٍ

اَجْرَةَ اِسْتِئْجَارٍ (-geld) - | اِيجَارِ

etw. in - | مالِ اِلْتِزَامٍ | اَرْضٍ

geben jn. | اَكْرَى | كَارَى | هـ

-en | -en | in - nehmen etw. f.

اِسْتِئْجَارِ | اِسْتِئْجَارِ اَرْضًا

اَجْرَهُ | تَكَرَّى | هـ

اِسْتِئْجَارِ | مُسْتَكْرٍ | متكارٍ s. m.

اِسْتِئْجَارِ | ضَامِنٍ * | مُكْتَرٍ

اَرْضِ مُسْتَأْجَرَةٍ | Pachtung s. f.

جَفْتَلَكَ * | مَزَارِعٍ | مَرْعَةٍ *

اِحْتِجَابِ | حُرْمَةٍ | Pafet s. n.

اِحْتِجَابِ | طُرُودَةٍ | طُرْدٍ * | رِزْمٍ | رِزْمَةٍ

اِحْتِجَابِ | فَرْدَةٍ | بَالَةٍ * | رِبْطَاتٍ | رِبْطَةٍ *

-en | اَسَافِلِ القَوْمِ (-Menschen)

s. m. f. Paf | -en va. jn. | مَسْكٍ | i, u

i, u | قَبْضٍ | - - | حَزْمٍ | عَلَيْهِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ | اِحْتِجَابِ

- Palais s. n., Palaſt s. m. قَصْر pl. سَرَايَات pl. سَرَايَة * | قُصُور
- Palästina n. pr. بِلَادِ الْفِلِسْطِينِ
- Paletot s. m. بِالْطَوِ *
- Palette s. f. لَوْحَة الْمَصَوِّرِ
- Pallasch s. m. سَيْفِ الْفَارِسِ pl. سَيْوْفِ
- Pallisade s. f. حَائِطٌ مِنْ خَوَازِيقِ
- Palm-baum s. m., -e s. f., -enbaum s. m. نَخْلٌ coll. | نَخِيلٌ | eine -e نَخْلَة | Palme bld. (Sieg) نَصْر | زَيْتِ النَّخْلَة s. n. -öl | اِئْتِصَارِ الْبَائِيَّةِ s. m. christl. -sonntag s. m. | يَوْمِ السَّبَاسِبِ | أَحَدِ الشَّعَائِينِ نَبِيذِ | مَائِعِ النَّخْلِ s. m. -wein | النَّخْلِ
- Palmyra n. pr. تَدْمُرُ
- Pandekten s. pl. مَجْمُوعُ فِتَاوٍ
- Paneel s. n. أَلْوَاخٌ يُخَشَّبُ بِهَا
- Panier s. n. رَايَة | أَعْلَامٌ pl. عِلْمٌ | رَايَاتِ
- Panif s. f. فَرْعٌ بِلَا | رُعْبٌ بِلَا دَاعٍ | panisch a., -er Schrecken s. f. Panif.
- Panorama s. n. تَصْوِيرُ الْأَشْيَاءِ فِي دَائِرَة
- Panter s. m. نَمِرٌ pl. عُسْبُرٌ | عُسْبُرٌ | فَعْدٌ pl. عَسَابِرِ
- Pantine s. f., Pantoffel s. m. * بَابُوجِ * | سَرَامِيَجِ pl. سَرْمُوجَة * | بَوَابِيَجِ pl. unter dem Pantoffel stehen, Pantoffelheld sein تَدْبِيرِ الدَّارِ لِزَوْجَتِهِ
- Pantomime s. f. رِوَايَة أَوْ نَشْخِيصٌ بِالْإِيْمَاءِ
- Panzer s. m. أَدْرَعٌ u. دُرُوعٌ pl. دِرْعٌ | -handschuh s. m. سَرَابِيِلِ pl. سِرْبَالِ | قَفَافِيَزِ pl. قَفَازِ مِنْ حَدِيدِ s. m. -hemd | كُفُوفِ pl. كَفِّ حَدِيدِي * | سَرْدٌ | دِرْعٌ | زُرُودِ pl. زَرْدٌ s. n. -n va. jn. * | -schiff s. n. | مَرَاكِبِ pl. مَرَكَبِ مُدْرَعِ s. f. تَدْرِيعِ
- Papa s. m. أَبٌ | بَابَا * | أَبُوي *
- Papagei s. m. بَبَغَاءٌ | دُرْرٌ pl. دُرَّة *
- Papier s. n. قِرْطَاسٌ | أَوْرَاقٌ pl. وَرَقٌ | ein - | كَاغِدٌ * | كَاغِدٌ * | قَرَاطِيْسِ pl. | قَبِيْدٌ ه | etw. zu - bringen | وَرَقَة | مِنْ وَرَقِ | كَتَبَ u ه | -en a. | مَعْمَلِ وَرَقِ s. f. -fabrif | كَوَاعِدِ مَالِيَّةِ * | وَرَقِ مُعَامَلَة s. n. | -forb s. m. | سَرَاكِي pl. سَرِكِي *

- mühle s. f. | سَلّ للأوراق الباطنة
 مَعْمَل وَرَق.
- Papist s. m. خاضِع لِلْبَابَا.
- Pappe s. f. | وَرَق مُقَوَّى | كَرْتُون *
- Pappel s. f., -baum s. m. | حَوْر * | حَوْر.
- päppeln va. Kind أَطْعَم الطِّفْل.
- pappen a. | مِّن كَرْتُون * | -deckel s. m.
 f. Pappe.
- Papst s. m. البابا pl. البابوات |
 | باباوى | بابوى | päpstlich a. | الحَبْر
- Papsttum s. n. بابوية.
- Papyrus s. m. | كُولان | كُولان | بَرْدِي.
- Para s. m. | مِصْرِيَّة | بارات pl. بارّة *
 pl. مِصَارِي.
- Parabel s. f. | رَمَز | أمثال pl. مَثَل
 pl. رُمُوز.
- Parade s. f. | كَشَف عَسْكَرِي | mit
 etw. - machen f. paradieren |
 paradieren vn. mit اِفْتَحَرِب.
- Paradies s. n. | جَنَّة pl. جَنَّات u.
 | فراديس pl. فِرْدَوْس | جِنان
 (im Theater) المَحَلّ الأَعْلَى في
- | -feige s. f. bot. مَوْز coll. | التِّياترو
 | فِرْدَوْسِي a. | مَوْزَة - - eine
 طائر s. m. | لَدِيد | عَدْب
 هِنْدِي طَوِيل وَدَقِيق الرِّيش.
- paradox a. | مُخَالِف الرِّأْي العام.
- Paragraph s. m. | مَوادّ pl. مادّة s. m. |
 فُصُول pl. فُصْل | بُنُود pl. بِنْد *
- parallel a. math. | مُتَوَازٍ | -e s. f.
 | حَظّ مُتَوَازٍ | bld. - - (Vergleich)
- | - - (im Krieg) mil. | مُقَابَلَة
- | خَنَدَق pl. خَنَائِق | -freis s. m.
- | دائِرَة مُتَوَازِيَّة لِحَظّ الأَسْتِواء
- | -ogram s. n. math. مُسَطَّح مُرَبَّع
- | مُتَوَازِي الأَضلاع المُتَقَابَلَة.
- Paralyse s. f. كَسَح.
- Parasit s. m. | مُتَطَفِّل | طَفِيْلِي.
- parat a. | مُسْتَعِدِّ | حاضِر لِ | zu
 | تَجَهَّز لِ | sich - machen zu
- Parchent s. m. f. Barchent.
- Pardel s. m., Parder s. m. f. Panter.
- Pardon s. m. | العَفُو - | عَفُو.
- Parenthese s. f. | جُمْلَة مُعْتَرِضَة |
 | بَيْن قَوْسَيْن (...). | in - | حَشُو
 | بَيْن هِلَالَيْن.
- Parforcejagd s. f. | الصَّيْد على ظَهْر
 الفَرَس.
- Parfum s. n. | طيب | عَطُور pl. عَطْر
 pl. | أَطْيَاب u. طَيُوب | -ieren va.
 | طَيَّب ه و ه | عَطَّر ه و ه | in. u. etw.
 | تَعَطَّر - - , parfümiert sein |
 تَطَيَّب.
- parieren va. (einen Schlag) دَفَع

Paß s. m. (Reise-) **إِذْنٌ فِي الْعُبُورِ** | **بَزْبُورَت*** | **بَسَابُورَت*** | والسَّفَرِ
 (Gebirgs-) - | **تَذَاكِرِ** pl. **تَذْكِرَةٌ**
 | **مَمَرٌ فِي الْجَبَلِ** | **مَضَائِقِ** pl. **مَضِيق**
 - | **رَهْوَنَةٌ*** | **رَهُو (-gang)** -
 جاء i في **رَهُوَن** * | **zu - kommen**
 جاء i في **وَقْتِهِ** | **مَحَلِّهِ**
 Passage s. f. **عُبُور** | **مُرُور** | **مَحَلٌّ**
 pl. **رَاكِب** | **Paßagier** s. m. | **العُبُور**
 | **مُسَافِرُونَ** pl. | **مُسَافِر** | **رُكَّاب**
 Paßant s. m. **عَابِر**.
 Paßatwind s. m. **رِيح كُورِيَّة**.
 paßen va. etw. auf **يَبْنِي** | **طَابَقَ**
 | **أَحْكَمَ** ه في | **vn. - jm. od. zu**
 | **لَاءَمَ ه** | **وَأَفَقَ ه** | **نَاسَبَ ه** | **jm.**
 (warten) - | **طَابَقَ ه** | **لَاقَ i بِهِ**
 | **مُنَاسِبَ a. d-** | **إِنْتَظَرَ ه** | **auf jm.**
 . | **لَاثِقٌ** | **مُلَائِمٌ** | **مُؤَافِقٌ**
 Paßgänger s. m. **رَهُوَان**.
 passieren vn. (geschehen) u **حَدَّثَ** |
 u **حَصَلَ** | - durch einen Ort
مَرَّ u **بَبَدَدَ**.
 Passion s. f. **عَاطِفَةٌ** | **مَيْلُ النَّفْسِ**
 | **آلَامُ الْمَسِيحِ** Christi - | **النَّفْسِ**
 Passiv s. n., Passivum s. n. gr. **مَفْعُولٌ**
 | **passiv a.** | **صِيغَةُ الْمَجْهُولِ**
 - | **er Gehorsam** | **غَيْرَ عَامِلٍ** | **فِيهِ**

Passiva s. pl. **طَاعَةٌ عَمِيَاءَ** |
مَا عَلَى التَّاجِرِ مِنْ جَمِيعِ الدُّيُونِ
الْمَالِ.

Paßwort s. n. **شِعَار**.

Paßtete s. f. **فَطِيرَةٌ** pl. | **فَطَائِر**
 pl. **أَقْرَاصُ**.

Pastinake s. f. bot. **جَزَرٌ أَيْبِضٌ**.

Pastor s. m. christl. **قَسِيْس** pl.
 | **وَأَعِظَ** | **أَقْسَةً** u. **قَسِيْسُونَ**.

Pate s. m. christl. **إِشْبِيْن*** | **شْبِيْن***
 | **-n** stehen bei | **كَفِيْل** في **الْمَعْمُودِيَّةِ**
 | **jm.** | **كَانَ شْبِيْنُهُ** | **Patin** s. f.
 | **كَفِيْلَةٌ** | **شْبِيْنَةٌ*** | **Pate** s. m.,
Patentkind s. n., **Patchen** s. n.
فَلْيُون* | **إِبْنٌ أَوْ ابْنَةٌ بِالْمَعْمُودِيَّةِ**
فَلْيُونَةٌ f.

Patent s. n. **بَرَاءَةٌ** | **شَرِيْفٌ** |
 pl. **فَرَامِيْن** * | **فَرْمَان***

Pater s. m. kath. **أَب (لَقَبُ الرُّهْبَانِ)**
 pl. **أَبَاءٌ**.

Paternoster s. n. kath. **الصَّلَاةُ الرَّبَّانِيَّةُ** |
أَبَانَا.

Pathologie s. f. med. **عِلْمُ الْأَمْرَاضِ**.

Pathos s. n. **شَفْشَقَةٌ** | **تَفْخِيْمِيَّةُ الْكَلَامِ**.

Patient s. m. **الْمَرِيضُ**.

Patriarch s. m. kath. **بَطْرِكٌ** pl.
 | **بَطَارِكَةٌ** - (des alten Testaments)

- * | جَلْدٌ i | -n va. ju. s | كِرْبَاجٌ | قَمِشَّةٌ *
 s u | ساط | bld. (Regen etc.)
 ضَرَبَ i (المَطْرُ)
- Pelikan s. m. zool. | قَوْفٌ | بَجَعٌ
 طَائِرُ السَّفَا*
- Pellkartoffeln s. pl. | بَطَاطِسُ مَطْبُوحٌ
 فِي قِشْرِهِ
- Pelz s. m. | ثَوْبٌ | فِرَاءٌ pl. | قَرُوءَةٌ | قَرُوءٌ
 | جِلْدٌ يُفَرِّقُ بِهِ | مُبْطَنٌ بِقَرُوءِ
 -händler s. m. | قَرَاءٌ | -werf
 s. n. قَرُوءٌ.
- Pendant s. n. | النَّظِيرُ | الْأَخُ لِغَيْرِهِ
 لِغَيْرِهِ
- Pendel s. n. | ذَبَابٌ pl. | ذَبْدَبَةٌ
 - رَقَاصُ السَّاعَةِ der Uhr
- Pension s. f. | أُجْرَةٌ | سُكْنَى وَأَكْلٌ
 مَحَلٌّ يَسْكُنُ | السُّكْنَى وَالْأَكْلُ
 (Art - | وَيَأْكُلُ فِيهِ إِنْسَانٌ بِأُجْرَةٍ
 (-s) - | مَدْرَسَةٌ دَاخِلِيَّةٌ (Schule
 gehalt) معاشٍ | رَوَاتِبٌ pl. رَاتِبٌ (at s. n. سَنَوِيٌّ
 مَدْرَسَةٌ (Schule) | وَالْأَكْلُ بِأُجْرَةٍ
 عَيْنٌ -ieren va. ju. | دَاخِلِيَّةٌ
 لَهُ رَاتِبًا
- Pentateuch s. m. | أَسْفَارُ | التَّوْرَاةُ
 مُوسَى الخَمْسَةَ
- Pergament s. n. | رُقٌّ pl. | رُقُوقٌ
- Periode s. f. | بُرْهَةٌ | مُدَّةٌ مِنَ الزَّمَنِ
 | حَيْضُ | وَقْتُتٌ | - der Frauen
 جُمْلَةٌ (Sat) - gr. | عَادَةُ النِّسَاءِ
 pl. | جَمَلٌ | periodisch a. دَوْرِيٌّ.
- Peripherie s. f. math. | مُحِيطُ الدَّائِرَةِ
 أَوْ الكُرَّةِ
- Perle s. f. | لُؤْلُؤٌ coll. | دُرٌّ coll. | eine -
 | لَآلِيَةٌ pl. | لُؤْلُؤَةٌ | دُرٌّ pl. | دُرَّةٌ
 kostbare - | فَرِيدَةٌ pl. | فَرَائِدٌ -n
 vn. (Wein) | اِحْتَدَمَ (الخَمْرُ) | كَثَّشَ i
 a | غَوَّاصٌ -nfisher s. m. | بَهَا
 وِشَاحٌ s. n. | -nhalsband - | الدَّرُّ
 pl. | وُشْعٌ.
- Perl-graue s. f. | الْمُقَسَّمُ تَمَامًا وَالْمُدَوَّرُ
 كَجَاجٍ s. n. | -huhn | مِنَ الشَّعْبِيرِ
 -mutter | غِرْغِرٌ | كَجَاجٍ بَرِّيٍّ | فَرْعَوْنٌ
 s. f. | عِرْقُ اللُّؤْلُؤِ | -schrift s. f.
 | -sucht | الْأَصْغَرُ مِنَ حُرُوفِ الطَّبَعِ
 s. f. | مَرَضُ السِّلِّ عِنْدَ البَقْرِ.
- permanent a. | دائمٌ | Permanenz
 s. f. | دَوَامٌ.
- Perrücke s. f. | شَعْرٌ | شَعْرٌ صِنَاعِيٌّ
 مُسْتَعَارٌ
- Perser s. m. | فَارِسِيٌّ | رَجُلٌ عَجَمِيٌّ
 pl. die - | العَجَمُ | الفُرْسُ -
 n. pr. | بِلَادُ الفُرْسِ | بِلَادُ العَجَمِ
 persisch a. | فَارِسِيٌّ | عَجَمِيٌّ.

- Person s. f. شَخْصٌ pl. أَشْخَاصٌ | ذات |
 pl. نَفُوسٌ u. نَفْسٌ | ذَوَاتٌ pl.
 die erste | أَنْفَارٌ pl. نَفَرٌ* | أَنْفُسٌ
 | الْمُخَاطَبُ - die zweite - gr. | الْمُتَكَلِّمُ -
 die dritte - | الْغَائِبُ | juristische -
 | جَمَاعَةٌ لَهَا حُقُوقٌ مَدَنِيَّةٌ | jur.
 | قِطَارٍ لِنَقْلِ الْأَشْخَاصِ | -enzug s. m.
 -heit | ذَاتِيٌّ | شَخْصِيٌّ | persönlich a.
 | ذَاتِيَّةٌ | شَخْصِيَّةٌ | s. f.
- Perspektiv s. n. نَظَارَةٌ | فن s. f. -e
 | تُرْسَمُ بِهِ الْأَشْيَاءُ بِحَسَبِ رُؤْيَةِ
 الْعَيْنِ.
- Pertinenzien s. pl. التَّوَابِعِ | اللَّوَاحِقِ.
- Peru n. pr. بِيْرُو.
- Pest s. f. طَاعُونٌ | وَبَاءٌ | bld. - كُلٌّ
 | شَيْءٌ مُفْسِدٌ | die - hole ihn!
 | لِيَهْمِكَ! - artig | daß ihn die -!
 | طَاعُونِيٌّ | -beule s. f. دَبْلٌ pl. a.
 | طَعْنَةٌ* | نَارَةٌ* | جَمْرَةٌ* | دُبُولٌ
 | مَضْرَّةٌ | آفَاتٌ pl. آفَةٌ | bld.
 | بُخَارٌ وَبَائِيٌّ | -hauch s. m. | مَضَارٌّ
 | -ilenz s. f. f. Pest | -ilenzialisch a.
 | وَبَائِيٌّ | طَاعُونِيٌّ.
- Peter n. pr. بَطْرُسٌ | -filie s. f. bot.
 | -spennig s. m. kath. | بَقْدُونَسٌ
 | صَدَقَةٌ لِلْبَابَا.
- Petroleum s. n. كَازٍ | زَيْتُ الْكَازِ |
 | نَفْطٌ | زَيْتُ الْغَازِ.
- Petrus n. pr. بَطْرُسٌ.
- Petschaft s. n. خَاتَمٌ pl. خَوَاتِمٌ |
 | مُهْرٌ* | طَوَابِعٌ pl. طَابِعٌ.
- Petz, Meister - (scherzhaft) الدَّبُّ.
- Pfad s. m. طَرِيقٌ ضَيِّقٌ pl. طُرُقٌ
 | قَدُومِيَّةٌ* | طُرُقَاتٌ u. -
 | سِرَاطٌ.
- Pfaffe s. m. (يُسْتَعْمَلُ اسْتِهْزَاءً)
 | -ntum s. n. | أَقْسَةٌ pl. قِسِّيْسٌ
 | pfäffisch | أَحْوَالُ الْأَقْسَةِ وَالرُّهْبَانِ
 | رُهْبَانِيٌّ | قُسُوسِيٌّ a.
- Pfahl s. m. وَتَدٌ pl. أَوْتَادٌ | خَازِقٌ*
 | مَجْمُوعٌ | -bau s. m. | خَوَازِيقٌ pl.
 | pfählen va. | أَوْتَادٌ فِي الْمَاءِ
 | خَوَزِقٌ* | رَفَعٌ a | عَلَى الْخَازِقِ
 | -bau. | Pfahlwerk s. n. f.
- Pfalz s. f. قَصْرُ الْمَلِكِ قَدِيمًا | -graf
 | لَقَبٌ بَعْضُ الْأَمْرَاءِ فِي أَلْمَانِيَا | s. m.
 | قَدِيمًا.
- Pfand s. n. رَهْنٌ pl. رُهُونٌ u.
 | رَهْمِينُ (das Verpfändete) | - | رِهَانٌ
 | مَرْتَمِنٌ | im. etw. zum - setzen
 | رَاهِنٌ | رَهْنٌ a | ه |
 | اسْتَحْلَصَ ه | فَكَّ u. الرَهْنِ | lösen
 | رَهْنٌ عَلَى عَقَارٍ | -brief s. m.

pfänden va. jn. oder seine Sachen

ضَبَطَ هـ | حَجَزَ u أموَالَهُ

Pfandhaus s. n., -leihe s. f. بَيْتٌ

سَنَدُ الرَّهْمِينِ | -schein s. m. | الرهن

Pfändung s. f. حَجَزُ الْأَمْوَالِ.

Pfanne s. f. مِشْوَاةٌ | مِقْلَايَةٌ pl.

كِنَافَةٌ | Pfannfuchen s. m. مَشَاوٌ

pl. | مَعْمُولَةٌ * | كِنَافَاتٌ pl.

(Eierfuchen) عُجَّةٌ.

Pfarramt s. n., -e s. f. christl.

مَنْصِبُ الْقِسْيِسِ | مَنْصِبُ الْخُورِيِّ

bezirk s. m., -ei s. f. | دار الخوري

-er s. m. | قَرْيَةٌ يَخْدُمُهَا خُورِيٌّ

christl. خُورِيٌّ pl. | خَوَارِنَةٌ

pl. | أَقْسَةٌ.

Pfau s. m. zool. طَاوُوسٌ pl.

pfauen vn. f. fauchen.

Pfauenauge s. n. zool. نَوْعٌ مِّنْ

نَوْعٍ مِّنِ الْفَرَافِيرِ | الْفَرَاشِ

Pfeffer s. m. | بَهَارٌ | فُلْفُلٌ | indischer,

spanischer - | فُلْفُلٌ أَحْمَرٌ - baum

s. m. | شَجَرَةٌ الْفُلْفُلِ | -büchse s. f.

-gurke | حُقُقٌ pl. | حُقَّةٌ لِلْفُلْفُلِ

s. f. | خِيَارٌ مُقْلَقٌ | -fuchen s. m.

f. | Leb-fuchen | -minze s. f., -münze

s. f. bot. | نَمَامٌ | -n va.

etw. هـ | بَهَّرَ هـ * | فُلْفُلٌ هـ

إِغَالٍ (teuer) | ge-t bld. | بِالْفُلْفُلِ

-fact s. m. | تَاجِرٌ (اسْتِهْزَاءً) pl.

-staude s. f., -strauch s. m.

f. Pfefferbaum.

Pfeife s. f. (musikal. Instrument)

مِزْمِيرٌ pl. | مِزْمَارٌ | زَمَارَةٌ | صَفَارَةٌ

(zum Rauchen) türkische lange

مَوَاسِيرٌ pl. | مَاسُورَةٌ * | قَصَبَةٌ

شِيشَاتٌ pl. | شِيشَةٌ (-Wasser-)

أَرْجِيَّةٌ * | أَرْجِيَّةٌ * | نَارِجِيَّةٌ *

pl. | صَفَرٌ i. vn. | -n | أَرَاكِلٌ pl.

aus dem letzten Loch --

va. | eine | كان في غاية الضيق

u, i | نَعْمَةٌ صَافِرًا -- Melodie

رَأْسٌ | رَأْسُ الشِيشَةِ s. m. | -kopf

ضَارِبٌ | صَافِرٌ s. m. | -r | الأَرْجِيَّةُ

بِالزَّمَارَةِ.

Pfeil s. m. | سَهَامٌ pl. | سَوْمٌ

pl. | مَرْمِيٌّ | نِبَالٌ pl. | ein -

نَبْلَةٌ | سَوْمَةٌ.

Pfeiler s. m. | أَعْمِدَةٌ pl. | عَمُودٌ

pl. | أَرْكَانٌ | رُكْنٌ | عَوَامِيدٌ

pfeil-geschwindigkeit a., -schnell a. | سَرِيعٌ

s. n. bot. | كَالسَّهْمِ | -frucht

جِدْرُ النَّبَاتِ s. f. | -wurzel | الماء

النَّازِلُ عَمُودِيًّا فِي الْأَرْضِ.

Pfennig s. m. نَقْدَ أَلْمَانِي مِنَ النُّحَاسِ |

-fuchser s. m. رَجُلٌ بَنَجِيلٌ.

Pferd s. m. حَظِيرَةٌ | حَظَرٌ | -en

va. ju. in u حَظَرٌ | u زَرَبٌ |

حَوْشٌ |

Pferd s. n. خَيْلٌ pl. خِيُولٌ | فَرَسٌ

pl. حِصَانٌ (Hengst) - | أَفْرَاسٌ pl.

-e | رَاكِبًا | sich zu -e | أَخْصِنَةٌ

setzen, ein - besteigen a رَكِبَ |

-arbeit s. f. شُغْلٌ مُتْعَبٌ جِدًّا |

-ebremse s. f., -esfliege s. f. قَمْعَةٌ

pl. رَجُلٌ الْفَرَسِ s. m. -efuß | قَمَعٌ pl.

pl. رَجُلٌ الشَّيْطَانِ | أَرْجُلٌ pl. bld.

-ehandel s. m. | خَبَائِثَةٌ خَفِيَّةٌ

بَائِعٌ s. m. -ehändler | يَبِيعُ الْخَيْلَ

| جَنْبَازِيٌّ * | دَلَالٌ الْخَيْلِ | الْخَيْلِ

-efnecht s. m. pl. سَائِسٌ | سَائِسَةٌ

-ezucht s. f. تَرْبِيَّةُ الْخَيْلِ.

Pfiff s. m. صَفِيرٌ | صُفَارٌ | (Liff)

مَكْرٌ | حَيْلٌ pl. حِيَلَةٌ.

Pfifferling s. m., das ist keinen -

wert هَذَا الشَّيْءُ لَا قِيَمَةَ لَهُ.

pfiffig a. مَكْرٌ | مُحْتَالٌ | -feit s. f.

شَطَارَةٌ * | مَكْرٌ.

Pfingstblume s. f., Pfingstrose s. f.

bot. وَرْدُ الْحَمِيرِ | عُودُ الصَّلِيبِ

فاويا.

Pfingsten s. pl., Pfingstfest s. n.

christl. عِيدُ الْعَنْصَرَةِ |

Pfirfich s. m. خَوْحٌ coll. | الْخُمْسِيْنَ

دُرَّاقَةٌ | خَوْحَةٌ - ein | دُرَّاقٌ coll.

-baum s. m. شَجَرَةُ الْخَوْحِ |

الدَّرَّاقِ.

Pflanze s. f. نَبَاتٌ pl. نَبَاتَاتٌ |

pl. غِرَاسٌ | غَرَسٌ | أَغْرَازٌ pl. غُرُزٌ

-n va. etw. ه i | غَرَسَ * | ه i

-nlehre s. f. عِلْمُ النَّبَاتَاتِ | -nreich

s. n. زَرَّاعٌ s. m. -r | مَوْلِدُ نَبَاتِيٍّ

pl. زَرَّاعُونَ u. زَرَّاعَةٌ pl.

مَزْرَعَةٌ.

Pflanz-schule s. f. مَزْرَعَةٌ | غِرَاسٌ

-stätte | مَزْرَعَةُ التَّلَامِيذَةِ | مَغْرَسٌ

s. f. مَزْرَعَةٌ | مُسْتَعْمَرَةٌ | -ung s. f.

مَزَارِعٌ pl. مَزْرَعَةٌ | زَرَعٌ | غَرَسَ

Pflaster s. n. (für Wunden) لَزَقَةٌ |

(Straßen-) - | مَرَاهِمٌ pl. مَرَهَمٌ

-n va. | مُبَلِّطٌ s. m. -er | بَلَّاطٌ

etw. ه | بَلَّطَ ه | بَلَّطَ u ه

-treter s. m. | بَلَّاطَةٌ s. m. -stein | بِلَّاطٌ

s. m. الكَسْلَانِ الدَّوَارِ فِي الشَّوَارِعِ.

Pflaume s. f. | خَوْحٌ * | إِجَّاصٌ coll.

syр. | eine - | بَرْقُوقٌ * | بَرْقُوقٌ coll. äg.

-n | بَرْقُوقَةٌ * | خَوْحَةٌ * | إِجَّاصَةٌ

baum s. m. شَجَرَةٌ | شَجَرَةُ الْإِجَاصِ
 شَجَرَةُ الْبُرْقُوقِ | الْحَوْخِ
 Pflege s. f. قِيَامٌ بـ | الْتِيفَاتُ | عِنَايَةٌ
 - eines Kranken مُدَاوَاةُ الْمَرِيضِ
 | تَعَهَّدَ الْمَرِيضُ | خِدْمَةُ الْمَرِيضِ
 - eines Minderjährigen وَصَايَةٌ
 | وكالة القاصر
 Pflanzen تَرْبِيَّةُ الْأَوْلَادِ وَالنَّبَاتَاتِ
 - eltern s. pl. وَالِدَانُ بِالذَّخِيرَةِ
 - kind s. n. رَابْنٌ مُتَبَنَّ
 pflegen va. jii. - Kranken
 | دَارَى الْمَرِيضَ | etw. od. einer
 Sache gen. | التَّنَفَّتْ إِلَى | تَعَهَّدَ هـ
 Rats - mit jni. | شَاوَرَهُ | Umgang
 - mit jni. | عَامَلَ هـ | عاشَرَ هـ
 Ruhe - pflegen vn. | اسْتَرَاحَ
 | er pflegt zu thun | اعْتَادَ | تَعَوَّدَ
 | Pfleger s. m. | عَادَتُهُ أَنْ يَفْعَلَ
 eines Kranken | مُدَارَى الْمَرِيضِ
 - eines Minderjährigen وَصِيٌّ
 | Pflegerin s. f. | القاصِر
 Kranken | مُدَارِيَّةُ الْمَرِيضِ
 Pfleg- | القاصِر
 ling s. m. | Pflegschaft
 s. f. | وَصَايَةُ الْقَاصِرِ
 Pflicht s. f. für jni. | الْوَاجِبُ عَلَيْهِ
 pl. | فُرُوضٌ | فَرَضَ | واجِبَاتُ
 | قام u | بَوَاجِبَاتِهِ
 seine -en erfüllen

-gemäß a., -getreu a., -mäßig a.,
 -[schuldig a., -treu a. مُوَافِقٌ
 -teil s. n. | كَمَا يَجِبُ | الْوَاجِبَاتُ
 -ver- | حِصَّةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي الْمِيرَاثِ
 gessen a. | مُخَالِفُ الْوَاجِبَاتِ
 Pflod s. m. | وَتَدٌ | pl. | أَوتَادٌ
 pflücken va. etw. هـ | قَطَفَ هـ
 Pflug s. m. | مَحَارِيثُ | pl. | مِحْرَاثُ
 pflügen va. etw. هـ | حَرَثَ هـ u
 Pflugchar s. f. | سَكَّةُ الْمِحْرَاثِ | pl.
 Pflugsterz s. m. | كَابُوسٌ | سِكْكَ
 * | pl. | كَوَائِيسُ الْمِحْرَاثِ
 Pforte s. f. | أَبْوَابٌ | pl. | بَابٌ | die
 hohe - | الدُّوْلَةُ | البابِ الْعَالِيِ -
 الْعُثْمَانِيَّةِ
 Pfortner s. m. | بَوَّابٌ | - anat. | فَمٌ
 | -in s. f. | بَوَّابَةٌ | الْمِعْدَةُ
 Pfosten s. m. | خَشَبَةٌ قَائِمَةٌ
 | - | عِمَدٌ | pl. | عِضَادَةُ الْبَابِ (Thür-) -
 | سَيَّارُ الْبَابِ
 Pfote s. f. | رِجْلُ (الْحَيَوَانِ مِثْلُ الْكَلْبِ)
 | pl. | أَرْجُلٌ
 Pfriem s. m., Pfrieme s. f., Pfriemen
 s. m. | مِخْرَزٌ | pl. | مِخْرَازٌ * | سُنْبُكٌ
 | pl. | سَنَابِكٌ
 Pfropf s. m., -en s. m. * | فَلَينَةٌ |
 -en va. | لَقَعَ هـ | طَعَمَ الشَّجَرَ

- us s. m., pl. -ci | بِالطَّبِيعِيَّاتِ
 pl. أَطِبَّاءُ | طَبِيبُ الْحُكُومَةِ
 Physiognomie s. f. | مَرَأَةٌ | مَرَأَى
 هَيْئَةٌ | مَنظَرٌ | سِيمَاءٌ | زِي
 physisch a. | طَبِيعِيٌّ
 Pianino s. n. | نَوْعٌ مِنَ الْبِيَانُو*
 Pianist s. m. | ضَارِبٌ بِالْبِيَانُو*
 piano ital. mus. | بِصَوْتٍ وَاطِيٌّ
 Piano s. n., Pianoforte s. n.
 بِيَانُو*
 Diaſter s. m. türkf. | غُرُوشٌ pl. غُرُوشِ
 قُرُوشٌ pl. قُرُوشِ*
 pichen va. etw. | زَقَّتْ هـ | vn. -
 التَّصَقَ
 Dicke s. f., Dickel s. m. | مَنكاشٌ pl.
 -Iflöte s. f. | مَنكُوشٌ* | مَنَاكِيشِ
 | مَزَامِيرٌ pl. مَزَامِيرٌ | زَمَارَةٌ صَغِيرَةٌ
 -Ihaube s. f. | بِيُضَةٌ | مِغْفَرٌ | خُوْدَةٌ
 -Ihering s. m. | هَارِجٌ* | مُهْرَجٌ*
 picken vn. (Vögel) | نَقَرَ
 Picknick s. n. | أَكَلَةٌ يَدْفَعُ فِيهَا كُلُّ
 وَاحِدٍ حِصْنَهُ
 Piedestal s. n. eines Denkmals
 قَوَاعِدٌ pl. قَاعِدَةُ التَّمثالِ
 piepen vn., piepsen vn. (Vögel)
 نَبَسَ u | تَصَاىَ | صَوَّتَ (الْفَرُخُ)
 Pigment s. n. | مَادَّةٌ لَوْنُ الْجِلْدِ الْبَشَرِيِّ
- pilant a. | حَامِضٌ | حَادٌّ
 Pife s. f. | حَرَبَةٌ pl. حِرَابٌ
 Pilger s. m. | حُجَّاجٌ pl. حُجَّاجٍ
 | حَجٌّ s. f. | زَائِرُونَ pl.
 | حَجٌّ u | حَجٌّ u | حَجَّةٌ | زِيَارَةٌ
 Pilgrim s. m. | Pilger.
 Pille s. f. med. | حَبٌّ pl. حُبُوبٌ
 | حَبَّاتٌ pl. حَبَّةٌ - eine | (فِي الطِّبِّ)
 jm. die - vergolden, verfüßen,
 verzußern | حَلَى لَهُ الْعَمَلُ
 dreher s. m. (يُسْتَعْمَلُ اسْتِهْزَاءً)
 صَيْدَلَانِيٌّ | أَجْرَائِيٌّ*
 Pilot s. m. | مُدَبِّرُ الْمَرْكَبِ
 | دَوْمَنْجِيٌّ* | دَيْدُبَانُ الْمَرْكَبِ*
 قِلَاوُزٌ*
 Pilz s. m. | فِطْرٌ | عُنَّسُ الْغُرَابِ
 Pinasse s. f. mar. | مَرْكَبٌ صَغِيرٌ
 طَوِيلٌ وَضَيِّقٌ
 Pinguin s. m. zool. | طَائِرٌ بَحْرِيٌّ
 قَصِيرُ الْجَنَاحَيْنِ
 Pinie s. f., -nbaum s. m. | صَنُوبَرٌ
 coll. | eine - صَنُوبَرَةٌ
 Pinscher s. m. zool. | نَوْعٌ مِنَ الْكِلَابِ
 الصَّغِيرَةِ
 Pinſel s. m. | أَقْلَامٌ pl. قَلَمٌ الْمُصَوِّرِ
 | فِرْشَايَةٌ* | مَنَاقِشٌ pl. مَنَقِشٌ
 | رَجُلٌ بَلِيدٌ (Dummkopf) -

- ei s. f. | بِلَادَةٌ | لِحْبَطَةٌ * | -n vn.
 *مُلْحِبٌ | Pinsler s. m. | لِحْبَطَةٌ *
 Pionier s. m. mil. مَمَّيْدُ الطَّرْقِ
 لِلجَيْشِ.
 pipen vn. |. piepen.
 Pips s. m. جِلْدَةٌ بِيضَاءٌ فِي لِسَانِ
 الطَّائِرِ.
 Pirat s. m. قُرَاصِبِينَ pl. قُرَاصِنَ.
 Pirol s. m. zool. نَوْعٌ مِنَ العَصَافِيرِ.
 Pirsch, pirschen |. Birsch, birschen.
 Pifang s. m. مَوْزَةٌ coll. | ein - مَوْزَةٌ.
 Pisse s. f. | بَوْلٌ | -n vn. u | بال
 * | u | شَخٌّ | Piffoir s. n., Piff-
 winkel s. m. مَبَالِ.
 Distazie s. f. فُسْتُقٌ.
 Distazienbaum s. m. شَجَرَةُ الفُسْتُقِ.
 Distole s. f. * | فُرُودٌ pl. فُرُدٌ * |
 | طَبَنُجَاتٌ pl. | عَدَّارَاتٌ pl. عَدَّارَةٌ * |
 نَوْعٌ مِنَ نُقُودِ الذَّهَبِ (Münze) -
 القَدِيمَةِ.
 placfen va. |. | آذَى * | أَعْيَى * |
 | أَنْعَبَ نَفْسَهُ - | أَنْعَبَ * |
 Placerei s. f. | أَدِيَّةٌ | نَعَبٌ.
 Plage s. f. | عَذَابٌ | نَعَبٌ | -geist
 | | أَنْسَانٌ مُثْقَلٌ | رَجُلٌ مُزْرَعٌ s. m.
 | | أَنْعَبَ * | عَذَّبَ * | -n va. |. |
- | sich | ثَقَّلَ عَلَيْهِ * | أَرْعَجَ *
 أَنْعَبَ نَفْسَهُ.
 Plagiat s. n. | تَنَحَّلَ قَوْلٌ أَوْ شِعْرٌ
 الغَيْرِ.
 Plaid s. n. * | شَالٌ.
 Plafat s. n. | إِعْلَانٌ مُعَلَّقٌ فِي حَيْطَانِ
 البُيُوتِ.
 Plan s. m. (Ebene) | سُطُوحٌ pl. سَطُوحٌ |
 (Grundriß) - | سَطُوحٌ pl. سَطُحٌ
 | bld. - (Absicht) | رُسُومٌ pl. رَسْمٌ
 -en va. | مَقْصِدٌ | قَصْدٌ
 | قَصَدَ i ه.
 Planet s. m. astr. | سَيَّارَاتٌ pl. سَيَّارَةٌ
 | كَوَكَبٌ مُتَحَيِّرٌ -ensystem s. n.
 مَجْمُوعُ السَيَّارَاتِ.
 planieren va. | سَوَّى ه. | سَهَّلَ ه. |
 مَمَّيْدَ ه.
 Planimetrie s. f. math. | مِسَاحَةٌ
 السُّطُوحِ.
 Planke s. f. mar. | لَوْحٌ مَرَكَّبٌ pl.
 | أَمَاسِيحٌ pl. | أَلْوَاحٌ.
 Plänkelei s. f. | مَنَاوِشَةٌ | نِزَالٌ | كِفَاحٌ |
 | plänkeln vn. | وَقَائِعٌ pl. وَقِيعَةٌ
 | تَوَاقِعٌ | تَنَاوِشٌ | تَنَاوَلٌ | تَكَافَحٌ
 Plänkler s. m. | مُتَكَافِحٌ.
 plan-los a. | عَادِمٌ النَّمَلِ | -losigkeit

s. f. عَدَم التَّأْمَل | -gemäß a.,
-mäßig a., -voll بالتَّأْمَل.

plappern vn. بَقَّبَق | لُبَّب * |

Plappermaul s. n., Plappertasche

s. f. عَلَكَ * | بَقَّاق | كَثِير الكَلَام.

plärren vn. عَيَّط | أَكْثَر العِيَاط.

Plastik s. f. نِقَارَةٌ | نِقَاشَةٌ |

plastisch a. قَابِل التَّشَكُّل.

Platane s. f. bot. دَلْب coll. | eine -
دَلْبَةٌ.

Platin s. n. ذَهَب أَيْبِض | بِلَاتِين * |

Plato n. pr. أَفْلَاطُون | -nisch a.

حُبِّ بلا Liebe - - | أَفْلَاطُونِي

لَذَات جَسَدِيَّة.

plätschern vn. حَرَّ (الماء) i, u |

platt a. عَادِم المَلَاحَةَ | مُسْتَوٍ | مُسَطَّح |

Platt s. n. f. -deutsch | -deutsch a.,

اللُّهْجَةُ المُسْتَعْمَلَةُ - - e Sprache

في أَلْمَانِيَا السُّفْلَى.

Platte s. f. pl. كَوَّح | صِفَاح pl. صَفْح |

المُسَطَّح مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ | الأَوْح

- (Stein-) | بلاطَةٌ - (mit Kaffee,

Thee) | صِينِيَّة * | أَطْبَاق pl. طَبَق (Thee)

- (auf dem Kopfe) | صَلْعَةٌ | صَلْعَةٌ

Plättchen s. n. pl. مَكَاوٍ | مَكَاوَةٌ * |

plätten va. etw. ه i كَوَّى.

platterdings adv. كَلْبِيَّا.

Plätterin s. f. كَوَّازَةٌ.

Platt-form s. f. سَطْحٌ | سَطْحٌ يَبِيَّت | -fuß

s. m. أَرْحٌ | -füßig a. قَدَم رَحَاء |

-heit s. f. bld. عَدَم المَلَاحَةَ | -ieren

va. etw. ه بِصَفِيحَةٍ | صَفَّح ه.

-näßig a. فَطْسَاء f. أَفْطَس.

Platz s. m. (Ort) مَكَان | مَحَلٌّ |

إِسَاحَات pl. سَاحَةٌ - freier | مَوْضِع

pl. رَحْبَةٌ | مِيَادِين pl. مِيَدَان

| مَقَام (Ort, Stelle) - | رَحَاب

pl. وَظِيْفَةٌ | مَنَاصِب pl. مَنَصِب

| der erste - الصَّدْر | وَظَائِف

letzte - الذَّيْل | (Handels-)

pl. قَلْعَةٌ - fester | بِنَادِر pl. بَنَدَر

| قَعَد u | جَلَس i nehmen | قِلَاع

| أَوْسَع لَهُ | وَسَّع لَهُ machen | im.

الطَّرِيق | أَوْسَع المَحَلَّ! - | رَحَّب بِهِ

| انْفَرَز * | تَفَرَز en vn. | الطَّرِيق

إِسْتَلْقَى عَلَى القَفَاء - vor Sachen

pl. مِيَدَان | مَقَام (Ort, Stelle) - | رَحَاب

pl. وَظِيْفَةٌ | مَنَاصِب pl. مَنَصِب

| der erste - الصَّدْر | وَظَائِف

letzte - الذَّيْل | (Handels-)

pl. قَلْعَةٌ - fester | بِنَادِر pl. بَنَدَر

| قَعَد u | جَلَس i nehmen | قِلَاع

| أَوْسَع لَهُ | وَسَّع لَهُ machen | im.

الطَّرِيق | أَوْسَع المَحَلَّ! - | رَحَّب بِهِ

| انْفَرَز * | تَفَرَز en vn. | الطَّرِيق

إِسْتَلْقَى عَلَى القَفَاء - vor Sachen

Dodge s. f. ضِفْدَع pl. ضِفَادِع.
 Dofal s. m. قَدَح كَبِير pl. أَقْداح |
 كُووس pl. كَاس.
 Döfelfleisch s. n. لَحْم مُمَلَّح | pöfeln
 va. etw. مَلَّه ه.
 populieren vn. شَرِب كَثِيرًا مِّن
 النَّبِيد.
 Pol s. m. أَقْطاب u. قُطُوب pl. قُطْب |
 -arbär s. m. zool. دُبَّ أَيْبُض |
 -arstern s. m. نَجْمَةُ القُطْب.
 Pole s. m. بُلُونِيّ.
 Polemik s. f. مُجَادَلَةٌ بِالقَلَم | pole-
 misch a. جِدَالِيّ.
 Polen n. pr. بِلاد اللّاه | بُلُونِيَا *.
 Polier s. m. مُفْتِش عِنْد البَنائِيّين.
 polieren va. etw. ه u. صَقَل ه |
 جَلَا ه u. صَقَل ه |
 مَلَّس ه.
 Politik s. f. سِياسَةٌ | -er s. m.
 أَهْل السِّياسَةِ pl. رَجُل سِياسِيّ
 politisch a. سِياسِيّ.
 Politur s. f. صِقَال | صَقَل | جَلَاء.
 Polizei s. f. ضابِطِيَّة * | بُولِيْس *
 -hauptmann s. m. ضَبَّاط pl. ضابِط |
 -soldat s. m. مُخْتَصِّ بِالبُولِيْس *
 ضابِطِيَّة pl. ضابِطِيّ *
 | كَرَاكُول * s. f. -wache | بُولِيْس *

مَحَلّ البُولِيْس | مَحَلّ الضابِطِيَّة
 Polizist s. m. f. Polizeisoldat.
 polnisch a. بُولُونِيّ.
 Polonaise s. f. نَوْع مِّن الرِّقْص.
 Polster s. n. مِسْنَد pl. مَسانِد |
 فُرُوش pl. فَرُش | مَرافِق pl. مِرْفَق
 -n va. etw. | لُبَادَةٌ | فُرُش pl. فِرَاش
 نَجْدَه | أَلْبَدَه | لَبْدَه | حَشَا u ه
 Polterabend s. n. اللَّيْلَةُ قَبْل العُرْس |
 Polterer s. n. بَطْرِير |
 poltern vn. u. لَغَط | مَعْرِبِد | صَخَّاب
 | أَجْجَب | أَجْجَب | بَاش
 لَغَط a.
 Polygamie s. f. مُضارَّة | ضُرّ.
 Polygon s. n. math. شَكْل دُو زَوَايا
 وَأَضلاع شَتَّى.
 Polyp s. m. (Tier) * | أَخْطِيُوط *
 (Krankheit) داء السَّرطان.
 Polytechnikum s. n. مَدْرَسَةٌ
 الرِّياضِيَّات وَالكَنَدَسَة.
 Polytheismus s. m. عِبَادَةٌ | شِرْك
 لِإِلِهَةٍ شَتَّى.
 Pomade s. f. بُوْماضَةٌ * pl. دُهْن
 | مَرَاهِم pl. مَرَهَم | أَدهان
 es ist mir - هُوَ سِوَا عِنْدِي -
 pomadig a. مَتَّانٍ | بَطِيّ a.

- Pomeranze s. f. بُرْتَقَانِ حَامِضٌ coll. |
eine - بُرْتَقَانَةٌ حَامِضَةٌ.
- Pomp s. m. | جَاهٌ | اِحْتِفَالٌ | فَخْرٌ |
| فَاخِرٌ a. -haft a., -ös a. | عَظْمَةٌ
| دُوٌّ جَزَالَةٌ | دُوٌّ عَظْمَةٌ | دُوٌّ جَاهٌ
- ponceau a. أَحْمَرٌ دُوْدِيٌّ.
- Pony s. n. فَرَسٌ صَغِيرٌ.
- Popanz s. m. | مِجْدَارٌ | خَيَالٌ | فَرَاعَةٌ.
- populär a. | مَرْضِيٌّ | مَحْبُوبٌ لِلشَّعْبِ |
| Popularität s. f. | اِسْتِمَالَةٌ | للشَّعْبِ
| قُلُوبِ النَّاسِ
- Pore s. f. | ثُقْبٌ pl. | ثُقْبَةٌ فِي الجِلْدِ |
| مَنَفَسٌ * | مَنَاتِحٌ pl. | مَنْتِجٌ | نَافِذَةٌ
| مَنَافِسٌ pl.
- porös a. | مَسَامِيٌّ | Porosität s. f.
| مَسَامِيَّةٌ.
- Porphyr s. m. رُخَامٌ سُمَاقِيٌّ.
- Port s. m. | مِينَا | مَرْفَأٌ | مَرَسِيٌّ.
- Portal s. n. | بَابٌ كَبِيرٌ.
- Portemonnaie s. n. | كَيْسُ الفُلُوسِ |
| جِزْدَانِ المَصَارِيِ * | أَكْبِيَّاسٌ pl.
| جُزْلَانِ الفُلُوسِ *
- Portier s. m. | بَوَّابٌ.
- Portiere s. f. | سِتَارَةٌ فِي البَابِ.
- Portion s. f. | وَحْدَةٌ الأَكْلِ | حِصَّةٌ
| جَرَايَةٌ | قِسْمَةٌ طَعَامٍ | طَعَامٌ
- Portos. n. | أُجْرَةٌ البَرِيدِ | أُجْرَةٌ البُوسُطَةِ.
- Portrait s. n. | صُورَةٌ pl. | تَصْوِيرٌ
| تَصَاوِيرٌ pl.
- Port Said n. pr. | بُرْتُ سَعِيدٌ.
- Portugal n. pr. | بِلَادِ بُرْتُوْغَالِ |
| Portugiese s. m. | رَجُلٌ بُرْتُوْغَالِيٌّ |
| portugiesisch a. | بُرْتُوْغَالِيٌّ.
- Portulak s. m. bot. | بَقْلَةٌ | رِجْلَةٌ.
- Porzellan s. n. | صِينِيٌّ | -en a.
| مِّنْ صِينِيٍّ
- Posamentier s. m. | صَانِعٌ وَبَائِعٌ
| الشَّرَائِطِ العِ
- Posaune s. f. | نَاقُورٌ | أَبْوَابٌ pl. | بُوْقٌ
| أنْفَارٌ pl. | نَوَاقِيرٌ pl. |
| die | الرَاجِفَةُ | des jüngsten Gerichts
| die - | بَلَّاسَنِ | بُوْقٌ -n vn. |
| نَقَّرَ u فِي البُوْقِ
- Pose s. f. (feder-) | رِيْشٌ الإَوْزِ coll. |
| وَضْعٌ (Stellung) - | رِيْشَةٌ - eine
| هَيْئَةٌ | حَطٌّ | نَصْبٌ
- positiv a. | مُحَقِّقٌ | إِيجَابِيٌّ.
- Positur s. f. | حَطٌّ | نَصْبٌ | وَضْعٌ.
- Posse s. f., Poffen s. m. | مَسْخَرَةٌ *
| هَرَجٌ * | أَضْحُوكَةٌ | دُعَابَةٌ | مَزْحٌ
| رَوَايَةٌ (-Theater) | Poffe | تَهْرِيْجٌ *
| دَعَبٌ a | مَزْحٌ | -n reißen a | مُضْحِكَةٌ
| اِحْوَالٌ | im. einen -n spielen * | هَرَجٌ *
| -nhaft a. | دَعَبٌ | مُضْحِكٌ | -nreifer

- s. m. * مُسَرِّج | postierlich a. Postskriptum s. n. (abgefürzt P. S.)
مُضِحِك.
- Post s. f. | بَرِيد | بوُسْطَة | (-amt) Postulat s. n. مَطْلُوب.
- مَحَلَّ البَرِيد | مَحَلَّ البُوْسْطَة | Potentat s. m. مَلِك pl. مُلُوك |
عَجَلَة للمُسَافِرِينَ (-wagen) سلَاطِين pl. سُلْطَان.
- ament s. n. f. Piedestal | -amt Potenz s. f. math. قُوَّة | die zweite -
s. n. مَحَلَّ البُوْسْطَة | -beamter القُوَّة الثَانِيَة.
- s. m. مَوْظَف البُوْسْطَة | -bote Pottasche s. f. مِلْح القَلِي |
سَعَاة pl. سَاع s. m. Pottfisch s. m. حُوت pl. حَيْتَان.
- Posten s. m. (Ort) مَحَلَّ | مقام | post! interject. وَالله | -tausend!
مَوْضِع | مَوْضِع | مَوْضِع | مَكَان interject. مَا شَاءَ اللهُ.
- (Amt) pl. وِظِيْفَة | مَنَاصِب pl. مَنُصِب | Präbende s. f. kath. دَخَلَ الكَاهِن
كِرَاكُول * | كِرَاكُون * mil. - | وظَائِف القَانُونِي.
- خالص أُجْرَة البُوْسْطَة | post-frei a. Präcedenzfall s. m. سَوَابِق pl. سَابِقَة.
- صَاحِب خَيْل s. m. -halter Pracht s. f. فَخْر | بَهَاء |
مَحَلَّ -haus s. n. | البُوْسْطَة | prächtig a., prachtvoll a. فَاخِر |
بُوق سَائِق s. n. -horn | البُوْسْطَة | عَظِيم.
- خَيْل البُوْسْطَة | Prädetermination s. f. theol. اِخْتِيَار
وَضَعَ a ه و ه | postieren va. jtt. u. etw. اِصْطِفَاء مُنْذُ الأَزَل | مُنْذُ الأَزَل.
- مَجْمُوع مَوَاعِظ | Postille s. f. christl. مُسْنَد | خَبَر s. n. مُسْنَد.
- لَا سْتَعْمَال العَائِلَة | Präfekt s. m. حَاكِم pl. حُكَّام |
سَائِق خَيْل البَرِيد | Postillion s. m. | سَائِق | وِلَاة pl. عُمَال pl. عُمَال.
- عَرَبَجِي البُوْسْطَة * | prägen va. Münzen اِضْرَبَ | السِّكِّك |
تَذَكِرَة البُوْسْطَة | Post-farte s. f. | تَذَكِرَة | طَبَعَ a ه - |
لِيَطْلَب | -lagernd adv. | تَذَاكِر | prahlen vn. اِفْتَخَرَ * | اِفْتَخَرَ * |
فِي مَحَلَّ البَرِيد (مَكْتُوب فِي ظَرْفِ | Prahler s. m. | صَلِف a |
الخطاب) | صَلِف | جَحَاف | مُتَحَدِّق | اِفْتَخَرَ * |

- pl. صُكْفَاء | Prahlerci s. f. اِفْتِخَار |
 | صَلْف | جُحْف | تَحَذُّق | فُشَار*
 prahlerisch a. مُفْتَنِحِر | Prahlhans
 s. m. f. Prahler.
- Prahm s. m. مَرْكَب مُسَطَّم القَعْر
 Praktiker s. m., Praktikus s. m.
 عمليّ a. عمليّ | رَجُل عمليّ
 Prälat s. m. kath. أسقف pl.
 أَحْبَار pl. حَبْر | أساقفة
- Präliminarien s. pl. المَصَادِرَات لِأَمْر
 تَوَطُّة لِعَقْد الصُّلْم
 prall a. سَمِين | مَرِن | عَلِك | لَزَج
 Prall s. m. صَدْمَة - ein | صَدْم
 -en vn. i صَدَم
- präludieren vn. mus. دَوَزَن آلة
 Präludium s. n. mus. الطَّرَب
 دَوَزَنَة
 Prämie s. f. مُكَافَأَة
 Prämisse s. f. log. قَضِيَّة (في القِيَاس)
 prangen vn. u لَمَع a | بَهَا u | لاح
 Pranger s. m. عَمُود لِلْمُدْنِيِين
 | غَلَّ u | stellen an den
 غَلَّ s
 Pranke s. f. رَجُل (الأسد مثلاً)
 pl. أَرْجُل
 pränumerando adv. etw. - bezahlen
 دَفَع a ه سَلَقَا
- Präposition s. f. gr. حَرْف الجرّ .
 Präsent s. n. هَدَايَا pl. هِدَايَة
 -ieren va. jm. etw. قَدَّمَ ه لَهُ
 | عَرَض i ه لَهُ | jn. jn. -- قَدَّمَ ه لَهُ
 -ierteller s. m. صِينِيَّة*
 pl. أطباق
 Präsident s. m. رُوَسَاء pl. رَيْس
 -schaft s. f. رِثَاسَة | präsidieren
 vn. u رَأْس | Präsidium s. n.
 رِثَاسَة
 prasseln vn. مَعْمَع | قَرَقَع | اِحْتَدَم
 prassen vn. أَفْرَط في الأَكْل والشُّرْب
 Prasser s. m. مُفْرِط في الأَكْل
 والشُّرْب
 Prätendent s. m. المَدْعَى بِكُرْسِي
 | اِذْعَاء s. f. Prätension | الملْك
 مَدْعَى
 Praxis s. f. عَمَلِيَّة
 predigen vn. jn. u | وَعَظ i s
 Prediger s. m. واعظ pl. (christl.)
 (musl.) - | واعظون u. وَعَظَاء
 Predigt s. f. خُطْبَاء pl. خُطْب
 | مَوَاعِظ pl. مَوَعِظَة | وَعَظ (christl.)
 - (musl.) خُطْبَة pl. خُطْب
 Preis s. m. سِعْر | أَمْنَان pl. ثَمَن
 | قِيمَة pl. قِيمَة | أسعار pl. -
 (Belohnung) - | ثَمَن مُعَيَّن

Prior s. m. kath. رَيْس دَيْر.

Prise s. f. (Tabak) | أَخْذَة | نَشْقَة *

(cr. beutetes Schiff) | أَخْذَة عَاطُوس | سَعُوط
مَرْكَب العَدُوّ | مَأْخُوذ فِي الحَرْب

Prisma s. n., pl. -en | مَوْشُور pl.

مَوْشُورِي الشَّكْل | -tisch a. | مَواشِير

Pritsche s. f. (Lager) | فِرَاش بَسِيط

سَوَط صَغِير (Art Pritsche) -

privat a. | أَحَاص | أَهْلِي | -ier s. m.

عِيشَة | -leben s. n. | -mann f.

-mann s. m. | الإِنْسَان فِي بَيْتِهِ

رَجُل مُنْفَرِد عَن الوِظَائِف

Privileg s. n., -ium s. n., pl. -ien

-ieren va. | إِمْتِيَاذَات pl. | إِمْتِيَاذ

أَعْطَى هُ امْتِيَاذًا | مَيَّز هُ in.

probat a. | مُجَرَّب.

Probe s. f. | إِمْتِحَان | تَحْقِيق | تَجْرِبَة

pl. | مَسْطَرَة * | عَيْنِيَّة * (Muster) -

مَسَاطِر | in. auf die - stellen

هُ | جَرَّب هُ | -blatt s. n., -bogen s. m.

سَنَة | -jahr s. n. | مُسَوَدَة الطَّبَع

| التَّجْرِبَة لِطَالِب التَّوْظِف

طَالِب التَّوْظِف | -kandidat s. m.

pl. | طَلَبَة.

proben va., probieren va. etw.

Probierstein s. m. | جَرَّب هُ | مَحَك

فَتَانَة | مِصْدَاق

Problem s. n. | مُشْكِل pl. | مَشَاكِل

-atisch a. | مَسَائِل pl. | مَسْأَلَة

مَشْكُوك فِيهِ.

Produkt s. m. arithm. | حَاصِل pl.

مَحْصُول | - der Erde | حَواصِل

pl. | مَحْصُولَات pl. | الأَرْض *

أَنْمَار.

profan a. (weltlich) | دُنْيَوِي | عَالِمِي

إِتْدَانِيَسِي (heiligumschänderisch) -

-ation s. f. | تَدْنِيَس | إِنْجَاس

إِسْوَاء اسْتِعْمَال الأَشْيَاء الثَّمِينَة

إِنْجَس هُ | دَنَس هُ | -ieren va. etw.

إِسْتَعْمَل هُ سُوَاءًا.

Profession s. f. | صِنَاعَة pl. | صِنَائِع

pl. | طَرِيقَة | حِرْف pl. | حِرْفَة

طَرَائِق.

Professor s. m. | أُسْتَاذ pl. | أَسَاتِذَة

Profil s. n. | رَسْم الوَجْه مِن جَانِبِهِ

Profit s. m. | رِبْح | كَسْب | نَفْع

-ieren vn. von od. bei etw.

إِنْتَفَع مِن أَوْ بِ.

Programm s. n. | بَرُوجْرَام * | بَيَان

إِعْلَان.

Projekt s. n. | قَصْد | صَدَد | -ieren

- va. etw. ه | قَصَدَ i -il s. n.
 مَرَامٍ pl. مِرْمَى | مَرْمَى بِهِ
- Prolog s. m. | فَاحِحة | مُقَدِّمَةٌ | اسْتِهْلَال
- Prolongation s. f. | إطالة | prolongieren
 va. etw. ه | أطال ه
- Promenade s. f. | تَمَشُّرٌ | دَوْرَانٌ | دَوْرٌ
 | شَمَّ الهَوَاءِ * | تَنَزَّهَ * | مُنْتَزَهَةٌ *
 eine - machen f. promenieren |
 promenieren vn. u | تَمَشَّى | جال
 شَمَّ الهَوَاءِ * | تَفَسَّحَ * | تَنَزَّهَ *
- Promotion s. f. | تَرْقِيَّةٌ (لِرُتْبَةِ الدُّكْتُورِ)
 promovieren va. in. | خُصُوصًا
 رَقِيَ ه | لِرُتْبَةِ الدُّكْتُورِ
- Pronomen s. n. gr. (Personal-) ضَمِيرٌ
 pl. ضَمَائِرُ | (Demonstrativ-) اِسْمٌ
 | الإِشَارَةُ | (Interrogativ-) اِسْمٌ
 | الأَسْتِفْهَامِ | (Relativ-) اِسْمٌ
 | المَوْصُولِ
- Prophet s. m. | أَنْبِيَاءٌ pl. نَبِيٌّ
 المُدَّعَى - | رُسُلٌ pl. رَسُولٌ
 (Vorausager der Su- | بِالنُّبُوَّةِ
 funft) | المُخْبِرِ بِالمُسْتَقْبَلِ -in
 s. f. | نَبِيَّاتٌ pl. نَبِيَّةٌ -ilch a.
 نَبَوِيٌّ
- prophezeien va. etw. ه | أَخْبَرَ بِشَيْءٍ
- Prophezeiung s. f. | قَبْلَ الحُدُوثِ
 أَنْبَأَ pl. نَبَأٌ
- Proportion s. f. | نِسْبَةٌ pl. انْسَبٌ
 مُنَاسِبَةٌ
- Probst s. m. christl. | رَئِيسٌ كَبِيرٌ
 لَقَبَ بَعْضُ الأَقِسَّةِ
- Prosa s. f. | نَثْرٌ (ضِدَّ النِّظْمِ) -ilch
 عَادِيٌّ | دَنِيٌّ bld. | نَثْرِيٌّ a.
- Profelyt s. m. | دُخْلَاءٌ pl. كَخِيْلٌ *
- Profit! interject. (beim Niesen)
 - | عَافَكَ اللهُ | رَحِمَكَ اللهُ
 (beim Trinken) صَحَّتْكَ
- Profodie s. f. | عِلْمُ العَرُوضِ
- Prospekt s. m. | اِعْلَانٌ | بَيَانٌ
 prosperieren vn. u | أَفْلَحَ | عَمَّرَ
 حَظًّا a
- Prostitution s. f. | مُبَاغَاةٌ | بَغَاءٌ
 تَسْلِيمِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا للَعَاهَرَةِ
- Protektor s. m. | وَاقٍ | حَافِظٌ
- Protest s. m. | مُخَالَفَةٌ | مُعَارَضَةٌ
 - | عَارَضٌ gegen in. ه
 بُرُوتْسْتَانِيٌّ * -ant s. m. | خَالَفَ ه
 pl. بُرُوتْسْتَانِ | -antisch a.
 -antismus s. m. | بُرُوتْسْتَانِيٌّ *
 -ieren vn. | مَذْهَبُ البُرُوتْسْتَانِ *
 gegen etw. ه | عَارَضٌ ه
 خَالَفَ ه
- Protokoll s. n. | مَحَاضِرٌ pl. مَحَاضِرٌ
 (الجَلْسَةُ مَثَلًا)

- Proß s. m. | اِنْسَانٌ مُفْتَخِرٌ بِمَالِهِ |
 -en vn. mit Geld | اِفْتَخَرَ بِمَالِهِ |
 -enhaft a., -ig a. | مُفْتَخِرٌ بِمَالِهِ |
- Proviant s. m. | مَوْوَنَةٌ | مَوْوَنَةٌ |
 -meister s. m. | اَسْبَابُ الْعَيْشِ |
 مَوَانُ الْجُنُودِ |
- Provinz s. f. | وِلَايَةٌ | pl. وِلَايَاتٌ |
 مُخْتَصٌّ a. | -ial | pl. اِيَالَةٌ |
 بَلَدِيٌّ | اقْرَوِيٌّ s. m. | -iale | | بِالْوِلَايَةِ |
- Provisor s. m. | وِكَيْلُ الْاَجْزَائِيِّ |
 وَقْتِيٌّ | حِينِيٌّ a. | -isch |
- Prozent s. n. | بِاِلْمِائَةِ | فِي الْمِائَةِ |
- Prozeß s. m. jur. | دَعَاوٍ | pl. دَعَاوَى |
 | مُمَارَسَةٌ (chemischer) | - | دَعَاوَى |
 einen - gegen jn. anstrengen
 | رَافَعَ هـ اَمَامَ الْقَاضِيِ | اِدَّعَى عَلَيْهِ |
 -ieren vn. mit jn. | اِدَّعَى عَلَيْهِ |
- Prozession s. f. kath. | دَوْرَانٌ |
 زَيَّاحَاتٌ | pl. زَيَّاحٌ * | اَحْتِفَالِيٌّ |
- prüfen va. etw. h. | اِمْتَحَنَ هـ | a. |
 | مُمْتَحِنٌ | Prüf- | -der s. m. | اِمْتَحِنٌ |
 ling s. m. | مُمْتَحِنٌ | Prüfstein
 s. m. f. | Probierstein | Prüfung s. f.
 | اِمْتَحَانٌ | - | اِبْلَغَ، بَعَثَ |
 | اَدَّى الْاِمْتِحَانَ | bestehen |
- Prügel s. m. | دَبَابِيْسٌ | pl. دَبَابِيْسٌ |
 ضَرْبٌ - | pl. | نَبَايِيْتٌ | pl. نَبُوْتٌ * |
- ضَرْبَاتٌ | eine Tracht - | بِالنَّبُوْتِ |
 -n va. | مُضَارَبَةٌ | -ei s. f. | مُتَوَاتِرَةٌ |
 ضَرْبٌ i هـ | ضَرْبًا شَدِيْدًا | jn. |
- Prunf s. m. | اِحْتِفَالٌ | جَاهٌ | اَبَّهَةٌ |
 | اِفْتَخَرَ بِ | -en vn. mit | عَظْمَةٌ |
 | دُو جَاهٌ | دُو اَبَّهَةٌ a. | -haft |
 دُو عَظْمَةٌ |
- Psalm s. m. | زُبُرٌ | pl. زُبُوْرٌ |
- Pseudonym s. n. | اِسْمٌ اِسْتِعَارِيٌّ |
- Psychologie s. f. | عِلْمُ النَّفْسِ |
- Pubertät s. f. | بُلُوْغٌ |
- Publikation s. f. | اِشْهَارٌ | تَعْمِيْمٌ |
 | اِشْهَارٌ بِالطَّبْعِ (durch Druck) - |
 | اِسْمٌ | pl. تَالِيْفٌ | Publikum s. n. |
 | الْعُمُوْمُ | اَلنَّاسُ | اَلشَّعْبُ | اَلْجُمُهوْرُ |
 | عَمَّمَ هـ | etw. | publizieren va. |
 | اَشْهَرَ الْكِتَابَ بِالطَّبْعِ | Buch - |
 اَلْفَ الْكِتَابِ |
- Pudding s. m. | اَقْرَاصٌ | pl. قُرُصٌ |
- Pudel s. m. zool. | كَلْبٌ وَدْبٌ | -narrisch
 a. | مَجْنُوْنٌ كَالْجُرُوْ |
- Puder s. m. | ذَرُوْرٌ | -n va. etw. h. |
 | نَشَرَ الذَّرُوْرَ عَلَى |
- Puff s. m. (Schlag) | ضَرْبَةٌ | pl. ضَرْبَاتٌ |
 | -ärmel s. pl. | طَاوِلَةٌ * (-[spiel) - |
 | اَكْمَامٌ | -en va. | jn. |
 | اَلَّةٌ يَلْنَعُ | -er s. m. | ضَرْبٌ i هـ |

- الصدِّم في عَرَبَاتِ السِّكَّةِ الْحَدِيدِيَّةِ |
-spiel s. n. *طاوَلَة.
- Puls s. m. نَبْضٌ | jm. den - fühlen
شَرِيَان | -ader s. f. جَسْرٌ u نَبْضُهُ
pl. شَرَايِين | -ieren vn. i خَفَقَ |
-schlag s. m. نَبْضٌ.
- Pult s. n. قِمَطْرٌ pl. قِمَاطِرَةٌ | *بِيرُو*
مَكْتَبٌ | مِغْرَأٌ | مَائِدَةٌ لِلْكِتَابَةِ.
- Pulver s. n. med. سَفُوفٌ | - (Schieß-)
er hat das - nicht erfunden
دَقَّقَ | -isieren va. etw. هُوَ بَلِيدٌ
-kammer s. f., -magazin
s. n. مَخْزَنُ الْبَارُودِ pl. مَخْازِينُ.
- Pump s. m. stud. إِسْلَافٌ | etw.
auf - nehmen, einen - anlegen
ه | اِقْتَرَضَ | تَسَلَّفَ ه.
- Pumpe s. f. اِثْرُمْبَةٌ | آَلَةٌ لِرَفْعِ الْمَاءِ
غَرَفَ i ه | -n va. مِضْحَةٌ | طُلْمْبَةٌ *
أَعَارَ ه | -jm. etw. stud. اِبَالِثْرُمْبَةَ
- etw. von jm.
stud. اِسْتَعَارَ ه | تَسَلَّفَ ه مِنْهُ
اِقْتَرَضَ ه مِنْهُ | مِنْهُ.
- Pumpernickel s. m. نَوْعٌ مِنَ الْخُبْزِ
الْأَسْوَدِ.
- Pumphose s. f. f. Pluderhosen.
- Punkt s. m. نُقْطَةٌ pl. نَقَطٌ | - gr.
مَسْأَلَةٌ - | bld. اِسْمُ الْعَلَامَةِ (.)
- pl. مَسَائِلٌ | auf dem -e sein,
stehen zu thun اَوَّشَكَ | كَادَ يَفْعَلُ
السَّاعَةُ - | أن يَفْعَلُ
-ieren va. etw.
اِنْقَطَ ه (diakritische Punkte setzen)
ضَبَطَ | *ه i, u (Vokalzeichen
setzen) | شَكَلَ | u ه
صِنَاعَةُ ضَرْبِ الرَّمْلِ.
- اِمْضَبُوطٌ * | مُتَقَنَّ | مُدَقَّقٌ |
-feit s. f. دِقَّةٌ | تَدْقِيقٌ |
ضَبَطٌ * | تَدْقِيقٌ | دِقَّةٌ |
شَرَابٌ مِنَ تَيْبِذٍ وَعَرَقٍ |
وَسُكَّرٍ.
- سَنَابِكٌ pl. سُنْبِكٌ * |
بُؤْبُؤٌ | اِنْسَانُ الْعَيْنِ
الْعَيْنِ.
- لُعْبَةٌ pl. لُغْبَةٌ | صُورَةٌ لِلْعَبِّ
- (der
اِشْرَانِيقٌ pl. شَرْنَقَةٌ (Seidenraupe)
- (des Schmetterlings) |
فَيْلَجَةٌ.
- خالصٌ.
- نَظْفٌ | اَسْهَلٌ |
الْبَطْنِ.
- اِبْرِفِيرٌ | اَرْجُوَانٌ |
- bld. اِثْوَبٌ اَرْجُوَانِيٌّ (-gewand)
اِرْتَبَةُ الْكَرْدِينَالِ | رُتْبَةُ الْمَلِكِ

-farbe s. f. | لَوْنٌ أَرْجَوَانِيّ -n a.,
-rot a. | أَرْجَوَانِيّ.

Pürsche s. f., pürschen vn. f. Birsch,
birschen.

Purzelbaum s. m. f. Burzelbaum.

purzeln vn. u. سَقَطَ.

Pustel s. f. | بَشْرٌ pl. | بُثُورٌ pl.
دَمَائِلٌ.

pusten vn. | نَفَخَ بِفِيهِ.

Pute s. f. | دَجَاجٌ هِنْدِيّ | دَجَاجٌ
| دِيكٌ هِنْدِيّ -r s. m. | رُومِيّ
| دِيكٌ رُومِيّ.

Putsch s. m. | ضَوْضَاءٌ | ثَائِرَةٌ | جَلْبَةٌ.

Puß s. m. | زِينَةٌ (المَلَابِسِ مِثْلًا) |
| جَنَحٌ | حِلْيَةٌ pl. | زُخْرَفَةٌ *
- (Mauer-) | مِلَاطٌ -en va. etw.

| زُخْرَفٌ هـ | زَبْنٌ (المَلَابِسِ مِثْلًا)

etw. -- | تَزْخُرَفٌ | تَزَيَّنَ -- sich

| مَسَحَ a هـ | نَطَفَ هـ (reinigen)

| سَنَ i الأَسْنَانَ -- sich die Zähne

-händ. | مُنَظَّفٌ -er s. m. | قَلَعَ هـ

صَانِعَةٌ s. f., -macherin s. f. | لَيرين s. f.,

ig a. | وَبَائِعَةٌ أَزْيَا النِّسَاءِ

المَيْلُ إِلَى s. f. | مُضِحِكٌ

مَائِلٌ إِلَى a. | -süchtig a. | التَزْخُرَفُ

التَزْخُرَفُ.

Pyramide s. f. | أَهْرَامٌ pl. | هَرَمٌ -n.
förmig a. * | هَرَمِيّ الشَّكْلِ.

Pythagoras n. pr. | فَيْثَاغُورُسٌ.

Q

الحَرْفُ السَّابِعُ عَشْرَ مِنْ حُرُوفِ q
السِّجَاءِ.

Quacksalber s. m. | مُتَطَبِّبٌ | دَوَّارٌ
-n | مُمَخْرِقٌ | مُدَّعٍ بِعِلْمِ الطِّبِّ
vn. | مَخْرَقٌ | تَطَبَّبَ.

Quader s. f., -stein s. m. | جَنْدَلٌ
| حَجَرٌ مُرَبَّعٌ مَنُحَوْتٌ | جَنَادِلٌ pl.

Quadrat s. n. math. | مُرَبَّعٌ -fuß
s. m. | أَفْدَامٌ pl. | قَدَمٌ مُرَبَّعٌ s. m.
-meter | مِثْرٌ مُرَبَّعٌ s. m. | wurzel s. f.
math. | جَنْدَرٌ المُرَبَّعِ.

Quadrille s. f. | نَوْعٌ مِنَ الرَّقْصِ.

quäfen vn., quäfen vn. i | نَقَّقَ | نَقَّقَ.

Quäfer s. m. | طَائِفَةٌ دِينِيَّةٌ عِنْدَ
الْأَنْكَلِيرِ.

Qual s. f. | عَذَابٌ | آلامٌ pl. | أَلَمٌ

quälen va. in. | أَوْجَاعٌ pl. | وَجَعٌ

| ثَقَلَّ عَلَيْهِ | آذَى | أَلَمٌ | عَذَّبَ هـ

إِزْعَاجٌ s. f. | Quälerei s. f. | أَزْعَجَ هـ

أَرْجُلٌ مُزْعِجٌ s. m. | Quälgeist s. m. | ثِقَلَةٌ

رَجُلٌ مُثَقِّلٌ.

Qualität s. f. | كَيْفِيَّةٌ | صِفَةٌ pl.

- صفات | - komm. جنس pl. | صِفَات
أَجْنَاس.
- Qualle s. f. zool. حَيَوَان | رِبَّةَ الْبَحْرِ
بَحْرِي عَادِمِ الْفِقْرَاتِ.
- Qualm s. m. -en vn. | دُخَانٌ كَثِيفٌ
a, u دُخْنٌ | -ig a. دُو دُخَانٍ
كَثِيفٌ.
- qualvoll a. | مَوْجِعٌ | مَوْلِمٌ.
- Quantität s. f., Quantum s. n. | قَدْرٌ | مَقَادِيرٌ pl. | مِقْدَارٌ | كَمِيَّةٌ
pl. | أَقْدَارٌ.
- Quappe s. f. zool. | نَوْعٌ مِنْ سَمَكٍ
الْأَنْهَرِ.
- Quarantäne s. f. | كَارَنْتِينَةٌ *
كَرَّتَنٌ * halten - | صِحِّيٌّ
- Quarf s. m. | شَيْءٌ | رَوْبٌ | رَثِيئَةٌ
لا طَائِلَ فِيهِ.
- Quart s. n. | مِقْيَاسٌ قَدِيمٌ مِنْ | رُبْعٌ
قَطْعٌ رُبْعٌ الطَّلْحِيَّةِ (-band) - | المَائِعِ
- Quarta s. f. | الصَّفِّ الرَّابِعِ فِي الْمَدَارِسِ
التَّجْهِيْزِيَّةِ.
- Quartal s. n. | مُدَّةٌ ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٌ.
- Quartaner s. m. | تَلْمِيْذٌ فِي الصَّفِّ
الرَّابِعِ pl. | تَلَامِيْذَةٌ.
- Quartier s. n. (Wohnung) | سُكْنَى
- | حَارَاتٌ pl. | حَارَةٌ (Stadtviertel) -
مَحَلَّاتٌ pl. | مَحَلَّةٌ | أَحْيَاءٌ pl. | حَى
- Quarz s. m. min. | صَوَّانَةٌ pl. | صَوَّانٌ.
- Quaste s. f. | شَرَابِيْبٌ pl. | شَرَابَةٌ *.
- Quecksilber s. n. min. | زَيْبَقٌ | زَيْبَقٌ
-n a. | مِنْ زَيْبَقٍ.
- Quell s. m., -e s. f. | عَيْنٌ ماءٌ pl.
يَنْبُوعٌ | نَبْعٌ * | أَعْيُنٌ u. عَيْوُنٌ
pl. | يَنْابِيْعٌ -en vn. (hervor-)
a, i, u نَبْعٌ | - - (auf-) | اِنْتَفَحَ.
- Quendel s. m. bot. | حَاشَا * | سَعْتَرُ الْحَمِيْرِ
- Quentschen s. n. | دَرَاهِمٌ pl. | دِرْهَمٌ.
- quer a. | مَارٌّ بِالْعَرَضِ | مَعْتَرِضٌ
- adv. | مُنْكَرِفًا | تَعْرِِيْضِيًّا
- balken s. m. | خَشْبَةٌ عَارِضَةٌ -e s. f.
- - | اِنْحِرَافٌ | اِنْحِرَافٌ | عَرِضٌ
اَعْتَرِضَ | ضَادَّةٌ | عَارِضٌ & fommen
| يَبِيْنُ الْحُقُوْلُ -feldein adv. | لَهْ
-holz s. n. f. | عَلَى غَيْرِ طَرِيْقٍ
-balken | -fopf s. m. | رَجُلٌ غَرِيْبٌ
-straße s. f. | رَجُلٌ مُعْتَرِضٌ لِلْكَلِّ
شَارِعٌ | شَوَارِعٌ pl. | شَارِعٌ قَاطِعٌ
| حَطَّ مُعْتَرِضٌ -strich s. m. | عَارِضٌ
- - durch die Rechnung | عَائِقَةٌ pl.
-treiberei | مَوَانِعٌ pl. | مَوَانِعٌ | عَوَائِقُ
s. f. | دَسَائِسٌ pl. | دَسِيْسَةٌ
s. m. f. | Querstraße.
- quetschen va. etw. * | رَضَّ u. هَضَّ

- Quetschung | خَدَشَ i ه | رَضَضَ ه *
 s. f. | أَثَرَ الخَدَشَ | رَضَضَ *
- Queue s. n. | قَضَيْبٌ تُصْرَبُ بِهِ كُرَاتُ
 Queue s. f. | قَضْبَانُ pl. عَاج
 - bilden (النَّاسُ) مُنْتَظِرًا
 quiefen vn., quiefsen vn., quiefschen
 vn. | كَصَوْتِ الخَنْزِيرِ صَاتُ u
- Quinta s. f. | الصَّفِّ الخَامِسِ فِي المَدَارِسِ
 تَلْمِيذٌ فِي -ner s. m. | التَّجْهِيزِيَّةِ
 تَلَامِيذَةٌ pl. الصَّفِّ الخَامِسِ
- Quintessenz s. f. | خُلَاصَةٌ
- quitt a. | بَرِيٌّ | خَالِصٌ مِنَ الدَّيْنِ
 الذِّمَّةِ
- Quitte s. f. | سَفَرَجَلُ pl. سَفَرَجَلِ
 -nbaum s. m. | شَجَرَةُ السَّفَرَجَلِ
- quittieren va. jm. etw. | كَتَبَ u عَلَيْهِ
 | أَعْطَى ه الوَصْلَ * | الإِقْرَارِ بِالدُّوْعِ
- Quittung s. f. | الإِقْرَارِ بِوَصُولِ مَبْلَغٍ
 | وَصْلٌ * | سَنَدٌ مُشْعِرٌ بِقَبْضِ المَبْلَغِ
 وَوَصُولِ *
- Quote s. f. | حِصَّةٌ pl. حِصَصٌ
- Quotient s. m. arithm. | خَارِجُ القِسْمَةِ
- R
- r | الحُرْفُ الثَامِنُ عَشْرُ مِنَ حُرُوفِ
 الحِجَاءِ
- Raa s. f. f. | Rahe.
- Rabatt s. m. | اِنْحِطَاطُ السِّعْرِ
 رُخْصٌ | السِّعْرِ
- Rabbiner s. m. | رَبَّانِيٌّ pl. رَبَّانِيَّوْنَ
 حاخامِيَّةٌ pl. حاخام
- Rabe s. m. | اَغْرَبَةٌ pl. غُرَابُ
 -neltern s. pl., -nmutter s. f., -nwater s. m.
 وَالِدَانِ عَادِمًا الرَّحْمَةَ لِابْنَيْهِمَا
- Rabulist s. m. | مَمْحِكٌ | مَمَاحِكُ
- Rache s. f. | اِنْتِقَامٌ | تَأْرٌ
 an jm. f. | سِخِ الرَّحْمَنِ an jm. |
 -durst s. m. f. | رَاحِسُوحَةٌ
- Rachen s. m. | اَفْوَاهٌ pl. فَمٌ
 رَاحَنُ va. | اِخَذَ | اِخَذَ مِنَ الشَّامِ
 | اِنْتَقَمَ مِنْهُ | اَخَذَ u التَّارَ مِنْهُ
 - | اَخَذَ لَهُ | اَخَذَ لَهُ تَأْرَهُ - |
 Rächer s. m. | اِنْتَقَمَ لَهُ | حَقَّهُ
 آخَذَ التَّارَ | مُنْتَقِمٌ
- Rachsucht s. f. | غُلٌّ | غَلِيلٌ
- Racker s. m. | رَجُلٌ خَبِيْثٌ -n vn.
 اَتَعَبَ نَفْسَهُ
- Rad s. n. | عَجَلَةٌ pl. عَجَلٌ u. عِجَالٌ
 (Schöpf- | كَوَالِيْبٌ pl. نُوْلَابٌ *
 zur Bewässerung) | نَوَاعِيْرٌ pl. نَاعُوْرَةٌ
 | بِيْسِيْكِيْتٌ * | عَجَلَةٌ (-Fahr-) -
 | نَوْعٌ مِنَ (Art Todesstrafe) -
 | - | اِخْلَاجٌ بِدُوْلَابِ

- (Pfau, Truthahn) بَسَطَ u رَيْشَى |
 محور العَجَلَة - achse s. f. | زِمِّه
- Radau s. m. ضَجَّة.
- Raddampfer s. m. باخِرَة ذات عَجَل
 pl. بَوَاخِر.
- Rade s. f. حَبَّة | الحَبَّة السَّوْدَاء
 شُونِيز | البَرَكَة
- radebrechen va. eine Sprache أَعْجَمَ
 جَمَعَمَ الكَلَام | الكَلَام
- Rädelsführer s. m. einer Revolte
 فَاتِن | مُحَرِّك الفِئْتَة
- Rademacher s. m. صَاوِع العَجَل
- rädern va. in. عَدَّبَ e بِالذُّوْلَاب |
 er ist | كَسَرَ i عِظَامَه بِالذُّوْلَاب
 wie gerädert هُوَ تَعْبَان جِدًّا
- Räderwerk s. n. einer Maschine
 مَجْمُوع دَوَالِيب آلَة
- Radfahrer s. m. إِنْسَان رَاكِب عَلَى
 عَجَلَة
- radieren va. etw. هـ | مَحَا u هـ
 هـ | حَكَ u هـ - etw. (mit der Radier-
 nadel) هـ | نَقَرَ u هـ | نَقَشَ u هـ
- Radierer s. m. نَقَّار | نَقَّاش
- Radierkunst s. f. صِنَاعَة النَّقَّار |
 Radierung s. f. نَقْشَة | نَقَّاشَة
 pl. نُقُوش.
- Radies s. m., Radieschen s. n.
 فُجَل أَفْرَنْجِي
- radikal a. غَرِيبِي | أَصْلِي
- Radius s. m., pl. -ien math. نِصْف
 قَطْر الدَّائِرَة
- Radler s. m. f. Radfahrer.
- Radmantel s. m. شَمْلَة مُدَوَّرَة
- raffen va. etw. هـ | أَخَذَ u هـ | نَزَعَ i هـ
- Raffinerie s. f. مَحَلَّ التَّنْقِيَة
 مَعْمَل (Sugar-) | مَحَلَّ التَّنْقِيَة
 | صَفَّى هـ | raffinieren va. etw. هـ | السُّكَّر
 | مُصَفَّى a. | raffiniert a. | نَقَّى هـ
 مَكَّار (schlau) - | دَقِيق | مُنَقَّى
- ragen vn., in die Höhe - | ارْتَفَعَ |
 اِنْتَصَب
- Ragout s. n. | يَخْنَى * | يَخْنَة *
 طَعَام مُتَبَّل
- Rah s. f., Rahe s. f. mar. دَقَل |
 عَوَارِض pl. عَارِضَة الصَّارِي | دَوَقَل
- Rahm s. m. رَغْوَة * | قِشْطَة *
- Rahmen s. m. | اِطَار | بَرَاوِيز pl. بَرَوَاز *
 rahmen va. بَرَّوَز الصُّورَة
- Rain s. m. مَرُوج pl. مَرُج
- Rafete s. f. سِهَام pl. سَهْم نَارِي
 فُتَيْشَة * | نَارِيَة
- Ramme s. f. اِفْطَايِيس pl. فِطِّييس
 آلَة المَبْلِط (Hand-) - | شَاوُوف *

rammeln vn. عَشَّرَ (بَعْضَ الْحَيَوَانَاتِ كَالْأَرَانِبِ).

rammen va. عَرَزَ الْأَوْتَادَ بِفِأْلِهِ.

Rammler s. m. نَيْسٌ.

Rampe s. f. نَزْلَةٌ * | طَلْعَةٌ * | دَرَبَيْنِ الدَّرَجِ.

Ramsch s. m., im - بِالْجُمْلَةِ.

Rand s. m. حَوَاشٍ pl. حَاشِيَّةٌ | احَاقَاتِ pl. حَاقَةٌ | اطْرَافِ pl. طَرْفٌ - (eines Kleides) كُفِّ pl. كُفَّةٌ - (eines flusses) شَطِّ pl. شَوَاطِيءٌ | شَطُوطِ pl. شَوَاطِيءٌ.

Randal s. m. ضَجَّةٌ.

Randbemerkung s. f., Randglosse s. f. حَوَاشٍ pl. حَاشِيَّةٌ.

Rang s. m. رُتْبَةٌ | رُتَبٌ pl. رُتَبَةٌ | رُتَبَةٌ pl. رُتَبَةٌ | شُؤُونِ pl. شَأْنٌ | مَرَاتِبِ pl. | طَبَقَاتِ pl. طَبَقَةٌ | مَنَزِلَةٌ | مَقَامِ - | دَرَجَاتِ pl. دَرَجَةٌ | jm. den - | حَصَلَ u. عَلَى التَّفْضِيلِ | اَبْلَاوَنَ عَلَيْهِ.

Ränge s. f. وَحْشِيٌّ.

Rang-erhöhung s. f. تَقَدُّمٌ فِي الرُّتْبَةِ | نِظَامِ s. f., -ordnung s. f. | الطَّبَقَاتِ | -streit s. m. خِصَامٌ فِي | رُتَبِ pl. رُتْبَةٌ | -stufe s. f. | التَّصَدُّرِ | دَرَجَاتِ pl. دَرَجَةٌ.

Ranke s. f. عَرَانِيْسٌ pl. عَرْنَامِسٌ *.

Ränke s. pl. دَسَائِسٌ.

ranken v. تَعَلَّقَ كَالْعَرَانِيْسِ فِيهِ.

Ränkeschmied s. m. صَاحِبُ دَسَائِسٍ.

Ranunkel s. f. bot. حَوْذَانٌ | صَفِيْرٌ | كَفِّ السَّبْعِ.

Ranzen s. m. أَجْرِبَةٌ pl. جِرَابٌ.

ranzig a. ذُو رَائِحَةِ الْحَمِيْتِ | ذُو رَائِحَةِ الزَّرْنَجِ.

Rappe s. m., Rappen s. m. حِصَانٌ أَدْهَمٌ.

Rappel s. m. جُنُونٌ | -föpflich a. | -n vn., es -t bei ihm | مَجْنُونٌ | هُوَ مَجْنُونٌ.

Rappier s. n. سَيْفٌ لَا حَدَّ لَهُ.

Rapport s. m. إِخْبَارٌ.

Raps s. m. - bot. سَلْجَمٌ | جُنُونٌ -.

Rapunzel s. f., Rapünzchen s. n. قَمْعُ القَاقِ.

rar a. قَلِيْلُ الوُجُودِ | نَادِرٌ | -ität s. f. | نُحْفٌ pl. نُحْفَةٌ | نَوَادِرِ pl. نَادِرَةٌ.

rasch a. سَرِيْعٌ | -eln vn., der Wind | هَبَّتِ الرِّيحُ فِي السَّاعِبِ | سُرْعَةٌ s. f. | الوَرَقِ.

rasen vn. اِغْتَاظَ | حَنِقَ | هَاجَ | - (lärmen) | جَنَّ - (rasend sein) | جَلَّبَ | بَاشَ u.

Rafen s. m. عَشَب | خُضْرَة | خَضَرَ
pl. أَعْشَاب.

rafend a. مَجْنُون | Raferei s. f. جُنُون |
هَيْجَان الغَيْظ.

rasieren va. jin. حَلَقَ i | زَبَّنَ ه |
- Festung هَدَمَ i | دَمَّرَ القَلْعَة

Rasiermesser s. n. أمواس pl. موسى.

rasig a. خَضِر.

Raspel s. f. مِحْك | مِبْرَش * |
etw. حَكَّ u | بَرَشَ u * | Süßholz - -
تَغَزَل.

Rasse s. f. (مِنَ النَّاسِ وَالْحَيَوَانَاتِ)
pl. أَجْناس جنس.

raffeln vn. تَقَعَّقَ | طَقَطَقَ.

Raffepferd s. n. فَرَسٌ أَصِيل.

Raft s. f. -en vn. إِسْتِرَاحَة | رَاحَة |
لا يَتَعَبُ a. -los | إِرتَاح * | إِسْتِرَاح
-tag s. m. يَوْمَ الرَاحَة.

Rat s. m. إِسْتِشَارَة | مُشَاوَرَة |
آراء pl. رَأَى | شُورَى | مَشُورَة
- | نَصَائِح pl. نَصِيحَة -
طَرِيقَة | سَبِيل | حِيلَة (Ausweg)
(Ratsversammlung) - | واسِطَة
(Mitglied des -s) - | دِيوان | مَجْلِسُ الشُّورَى
عَضُو مَجْلِسِ الشُّورَى (s) -
pl. أَغْضَاء | - | مُسْتَشَار |
- | s pflegen | تَشَاوَر | jin. zu -e ziehen,

jin. um - fragen, - einholen bei
jm. إِسْتِشَارَة | mit jm. über
etw. zu -e gehen إِسْتِشَارَة |
jm. einen guten -
geben, erteilen لَهُ ا نَصَحَ | etw.
zu -e halten ه اِقْتَصَدَ * |
وَقَّرَه *.

Rate s. f. حِصَّة pl. حِصَص |
pl. أَقْسَام | eine Summe in -n
zahlen قَسَطَ المَبْلَغَ.

raten va. jin. etw. لَهُ ا نَصَحَ |
- Rätsel u اللُّغْز | حَلَّ u | حَزَرَ i, u |
geraten a. مُفِيد | نَافِع.

Rat-geber s. m. مُسْتَشَار | -haus
s. n. دار الحُكُومَة المَدَنِيَّة.

Rätin s. f. زَوْجَة مُسْتَشَار.

Ration s. f. حِصَّة مِن المَأْكُولَاتِ |
| جَرَايَة | حِصَص pl. والمَشْرُوبَاتِ
| أَرْزَاق pl. رَرُق | رَوَاتِب pl. رَاتِب
- (für Tiere) عُلُوفَة.

Rationalismus s. m. مَذْهَبُ نَاكِرِي
Rationalist s. m. نَاكِرِ
| الوَحَى | الوَحَى.

rätlich a. مُنَاسِب | نَافِع |
rat-los a. مُتَحَيِّر | -losigkeit s. f.
- | مَفِيد | نَافِع a. - | نَحِيْر
s. m. نَصِيحَة pl. نَصَائِح | - |
vn. mit jm. تَشَاوَر مَعَهُ | - |

- s. m. قَضَاء pl. أَقْضِيَّة | حَتْم pl. حَاتِم | -sdiener s. m. خَادِم مَجْلِس | حُتُوم الشُّورَى.
- Rätsel s. n. لُغْز pl. أَلْغَاز | -haft a. مُعَمَّى | مُلَغْز | لُغْزَى.
- Rat-sherr s. m. عَضُو مَجْلِس الشُّورَى pl. أَعْضَاء | -versammlung s. f. مَجْلِس الشُّورَى | -swage s. f. مِيزَان عُمُومِي فِي بَلَد.
- Ratte s. f. فَار pl. فِئْرَان | جِرْدَان * | جِرْدَان pl. جُرْدَا | فِيران | فَارَةٌ | فَارَةٌ - eine | جِرَادِيْن pl. مِصِيد لِّلْفِئْرَان | -nfalle s. f. جُرْدَاة | صِيَاد | -nfänger s. m. مَصَائِد pl. نَوْع مِّن (Hund) - - | الفِئْرَان | -ngift s. n., -ntod s. m. الكِلَاب | بَعْض | -nfönig s. m. سَم الفَار | الفِئْرَان المْتَعَلِّقَة بِذُنُوبِهَا.
- Ratz s. m., Ratze s. f. f. Ratte.
- Raub s. m. سَلْب | خَطْف | اِخْتِطَاف | غَنِيْمَة (Beute) - | نَهَب pl. فَرَائِس pl. فَرِيْسَة | غَنَائِم | -en | خَطِفَ a ه | نَهَبَ a, u ه | اِخْتِطَفَ ه | أَخَذَ u ه | اِسْتَلَبَ ه | اِسْتَلَبَ u ه | -er s. m. حَرَمَ ه - -
- Räuber s. m. قَطَاع الطَّرُق pl. لَيْص | حَرَامِيَّة pl. حَرَامِيَّة * | لُصُوص | -bande s. f. جَمَاعَة اللُّصُوص | -ei s. f. قَطْع الطَّرُق | -isch a. خَاطِف | -hauptmann s. m. قَائِد اللُّصُوص | -höhle s. f. مَغَارَة اللُّصُوص.
- Raub-mord s. m. قَتْل مَعَ السَّلْب | -mörder s. m. قَاتِل و سَالِب | -tier s. n. مَرَكَب قُرْصَان | حَيَوَان كَاسِر | حَيَوَان ضَارٍ s. n. طَائِر جَارِح | -zeug s. n. الجَوَارِح الصَّغِيرَة.
- rauch a. f. rauh.
- Rauch s. m. بُخَار | دُخَان | in - auf-gehen | ذَهَبَ a هَدْرًا | -en va. شَرِبَ a الدُّخَان | - - vn. | -en s. n. | دَخَنَ | دَخَنَ a, u (Ofen) | -er | تَدَخِين | شَرِبَ الدُّخَان | شَرَاب الدُّخَان s. m.
- räucherig a. مُسَوَّد بِالدُّخَان | مُدَخَّن | Räucherfammer s. f. مَحَلَّ تَدَخِين | räuchern va. فَلَاحَ | اللِّحْم | - etw. (mit Wohlgerüchen) | طَيِّبَ ه | بَخَّرَ ه | عَطَّرَ ه | مَبَاخِر pl. مَبْخَرَة s. f. | مَجَامِر pl. مَجْمَرَة | -er s. n. بَخُور.
- Räuber s. m. قَطَاع الطَّرُق pl. لَيْص | حَرَمَ ه - -

- Rauch-fang s. m. مَدَاخِن pl. مَدَخْن |
 -fleisch s. n. لَحْمٌ مُدَخَّن | -ig a.
 f. räucherig | -tabak s. m. * دُخَان |
 -waren s. pl., -werk f. تَتْنَن * | تَبْع *
 s. n. فِرَاء | -zimmer s. n. حُجْرَةٌ
 لِشُرْبِ الدُّخَانِ.
- Räude s. f. جَرَب | die - haben
 a. جَرِب | rüdig a. جَرْبَان |
 f. جُرْب pl. جَرْبَاء.
- Raufbold s. m. رَجُلٌ مُحِبُّ الْقِتَالِ |
 مُسَايِف.
- Raufe s. f. مَعَالِف pl. مِعْلَف |
 مَدَاوِد pl. مَدُود.
- raufen va. etw. ه | نَزَعَ i ه | قَلَعَ a ه
 - vn., sich - mit jm. ه نَزَعَ ه
 ه | mit einander -, sich -
 ه نَشَاجَرَ | تَهَارَشَ | تَنَازَعَ
 s. m. f. Raufbold | Rauferei s. f.,
 Raufhandel s. m. مُشَاجَرَةٌ |
 مُنَازَعَةٌ * | مُنَازَعَةٌ.
- rauh a. أَخْشَب | خَشِن (في اللُّمْسِ)
 f. خَشْبَاء | - (Weg) |
 - (Stimme) | دُو بَحْح | مَبْحُوح |
 - (Charakter) | خَشِن | شَدِيد
 -heit s. f. f. -igkeit | -en
 va. etw. ه | خَشِن | -frost s. m.
 f. -reif | -igkeit s. f. خُشُونَةٌ |
- reif s. m. صِرٌّ | صَقِيح | جَلِيد |
 -waren s. pl., -werk s. n. f.
 Rauchwaren, Rauchwerk.
- Raum s. m. (Ort) مَكَان | مَحَلٌّ
 | مَسَافَةٌ (Entfernung) - | مَطْرَح
 leerer - (zwischen Häusern) فُسْحَةٌ
 pl. فُضَاء | فُضَاء | - (bestimmter
 Teil des -es) سَعَةٌ | - (Zimmer)
 | - des Schiffes | أَسْفَلُ حُجْرَةٍ
 | einer Bitte - geben | أَجَابَ
 الْمَرْكَبِ | الطَّلَبِ.
- räumen va. etw. ه | أَخْلَى ه |
 نَظَّفَ البُئْرَ | - Brunnen | نَزَعَ i ه
 etw. bei Seite - | نَحَى ه |
 dem Wege - | أَهَكَ ه |
 ein Hindernis aus dem Wege -
 | أَزَالَ العَائِقَ | eine Schwierigkeit
 aus dem Wege - | حَلَّ u. المَشْكِـلَ.
- räumlich a. مَكَانِيٌّ | مَحَلِّيٌّ
 -heit a. مَحَالٌّ u. مَحَلَّات pl. مَحَلٌّ.
- Räumung s. f. نَحْيَةٌ.
- raunen vn., jm. etw. ins Ohr -
 | تَكَلَّمَ هَمْسًا | هَمَسَ i صَوْتَهُ
 * تَوَشَّوَشَ *.
- Raupe s. f. دُودُ الفَرَّاشَةِ coll. |
 eine - | دُودَةٌ - | -nfraß s. m. فَسَادٌ
 بِالدُّودِ.

- Kausch s. m. نَشْوَةٌ | خُمَارٌ | سُكَّرٌ |
 bld. - جُنُونٌ | عَمَى الْقَلْبُ - |
 -en vn. (Wasser) | خَرَّ (الماء) i |
 -- (Bäume) | حَفَّ (الشَّجَرِ بِالرَّيْمِ) |
 -en s. n. | خَرِيرٌ (الماء) |
 | ضَاغٌ a. -end (الشَّجَرِ بِالرَّيْمِ) |
 | فَاخِرٌ (prächtigt) -- | ضَبَّاجٌ | مُضِجٌّ |
 räuspern v. sich | تَنَحَّجٌ | تَنَحَّجٌ |
 i, u نَفَثٌ.
- Raute s. f. bot. | خَيْلٌ | حَرْمَلٌ |
 | مُعَيَّنٌ math. - | سَدَابٌ |
- reagieren vn. | عَكَسَ i | فَعَلَ جِرْمٌ |
 | Reaktiön s. f. | رَدَّ u | فَعَلَ جِرْمٌ |
 | رَجَعَةٌ | رَدَّ فَعَلَ | عَكَسَ فَعَلَ جِرْمٌ |
 | كَشَفَ صِفَاتٍ chem. - | فَعَلَ |
 | مُرَادَةٌ bld. - | مَادَّةٌ بِمَادَّةٍ أُخْرَى |
 | مُقَاوَمَةٌ | مُضَادَّةٌ |
- Realgymnasium s. n., pl. -ien, Real-
 schule s. f. | مَدْرَسَةٌ تَجْهِيذِيَّةٌ |
 | خُصُوصًا لِعُلُومِ الطَّبِيعَةِ |
- Rebe s. f. * دَالِيَّةٌ pl. | جَفْنٌ | كَوَالٍ |
 pl. | جُفُونٌ |
- Rebell s. m. | عَصِيٌّ | عَصَاةٌ pl. | عَاصٍ |
 pl. | -ieren vn. | أَعْصِيَاءٌ u. | عَصِيَّوْنَ |
 | عَاصَى s | عَصَى i s | gegen jn. |
 | -ion s. f. | مَرَدٌ u | عَلَيْهِ | عَانَدَةٌ |
 | عَاصٍ a. | -ifch | ثَوْرَةٌ | فِتْنَةٌ | عِصْيَانٌ |
- Rebensaft s. m. | خَمْرٌ | نَبِيدٌ |
- Reb-huhn s. n. | حَجَلٌ pl. | حِجْلَانٌ |
 -laus s. f. | آفَةٌ الْكَرْمِ |
 -stocf s. m. f. | Rebe. | مُوَدِّيَّةٌ لِلْكَرْمِ |
- Recensent s. m., recensieren vn.,
 Recept s. n., Recept s. m. f.
 Rezensent, rezensieren, Rezept,
 Recept.
- Rechen s. m. | مُشْطُ الْبُسْتَانِيِّ pl. |
 -auf- | جَارُوفَةٌ * | مِجْرَفَةٌ * | مِشْطٌ |
 gabe s. f., -exempel s. n. | مَسْأَلَةٌ |
 -fehler s. m. | مَسَائِلٌ pl. | حِسَابِيَّةٌ |
 عِلْمٌ s. f. | -kunst | غَلَطٌ فِي الْحِسَابِ |
 قُرَيْصٌ s. m. | -pfennig | الْحِسَابِ |
 | شَمْسَةٌ نُحَاسٌ | نُحَاسٌ |
 | -schaft s. f. | أَحْجَارٌ pl. |
 von jn. -- fordern, jn. zur --
 ziehen s | حَاسَبٌ | jn. -- geben,
 ablegen | تَحَاسَبٌ مَعَهُ |
- rechnen vn. u | أَحْصَى | حَسَبَ |
 u | عَدَّ | va. - jn. zu, unter s u |
 | اِعْتَمَدَ عَلَى | vn. auf etw. | بَيَّنَّ |
 | اِسْتَنَدَ إِلَى | اِتَّكَلَ عَلَى |
 s. m. | حَاسِبٌ | Rechnung s. f.
 | قَائِمَةٌ الْحِسَابِ | الْحِسَابِ |
 | عَلَى كَيْسِي - | jn. -
 | حَاسَبٌ s | ablegen

مَعَهُ | sich auf etw. - machen
إِسْتَنَدَ إِلَى.

recht a. (richtig) صَوَابِي | صَحِيح
حَقٌّ | حَقِيقِي | مُوَافِقٌ | مُنَاسِبٌ
يَمِين (Gegenteil: links) - | أَكِيدُ
-er | يَمِينًا -en | يُمْنِي f.
زاوية | زاوية قائمة Winkel
حَقٌّ | حَقٌّ | صَحٌّ | حَقٌّ | مُسْتَقِيمَةٌ
es ist ihm - | رَضِيَ بِهِ - thun
بِالتَّمَامِ | تَمَامًا - adv. | أَحْسَنُ
جِدًّا | كَثِيرًا.

Recht s. n. حَقٌّ pl. حُقُوقٌ (-s.
wissenschaft) | عِلْمُ الْفِقْهِ (-s.
system) | شَرَائِعُ pl. شَرِيْعَةٌ (-s.
sprechen) | قَضَى i (القاضي) haben
| الْحَقُّ بِيَدِهِ | مَعَهُ الْحَقُّ | لَهُ الْحَقُّ
ein - haben auf في | لَهُ حَقٌّ في
| حَكَمَ لَهُ | جَم. - | إِسْتَحَقَّ هُ
mit - | حَقًّا - | von -s wegen
بِحَسَبِ الْحَقِّ.

Rechte s. f. | الْيَمِينِ | الْيَدِ الْيُمْنِي
| الْجِهَةِ الْيُمْنِي فِي مَجْلِسِ النُّوَابِ.

Rechte s. (pl. von Recht) عِلْمُ الْفِقْهِ.

Rechteck s. n. مُسَطَّحٌ مُسْتَطِيلٌ.

rechten vn. mit jm. | جَادَلَ هُ | ذَاكِرُهُ
| خَاصَمَ هُ | ذَاكِرُهُ.

recht-fertigen va. jm. | بَرَّرَ هُ | بَيَّنَّ

حَقَّقَ هُ | بَرَّرَ هُ | - - etw. هُ | وَجَّهَهُ
| بَيَّنَّ وَجْهَهُ | تَبَرَّرَ - - | sich
-fertigung s. f. | تَبَرُّرَةٌ
-gläubig a. | مُسْتَقِيمٌ الرَّأْيِ فِي
حَنِيفٍ | قَوِيمٌ الْمَذْهَبِ | الدِّيَانَةِ
إِسْتِقَامَةٌ s. f. | الْمِلَّةُ -gläubigkeit
-haberei s. f. | الرَّأْيِ فِي الدِّيَانَةِ
-haberrisch a. | مُنَاقِرَةٌ | مُمَاحِكَةٌ
-lich a. (Sache) | مُنَاقِرٌ | مُمَاحِكٌ
- (Person) - | قَانُونِيٌّ | شَرْعِيٌّ
-lichkeit s. f. | صَالِحٌ | مُسْتَقِيمٌ
-- | صِحَّةٌ شَرْعِيَّةٌ (einer Sache)
-los a. | إِسْتِقَامَةٌ (einer Person)
- (Person) - | غَيْرٌ شَرْعِيٌّ (Sache)
-losigkeit | عَادِمٌ حِمَايَةُ الشَّرِيْعَةِ
s. f. | عَدَمٌ حِمَايَةُ | مُضَادَّةُ الشَّرِيْعَةِ s. f.
| شَرْعِيٌّ -mäßig a. | الشَّرِيْعَةُ
| صِحَّةٌ شَرْعِيَّةٌ s. f., -mäßigkeit
ذات | مِنَ الْيَمِينِ | يَمِينًا -s adv.
-sanwalt s. m., -sbeistand | الْيَمِينِ
وَكِيلُ الدَّعَاوِي | مُحَامٍ فِي الْمَحَاكِمِ
pl. | وَكَلَاءٌ -| schaffen a. | مُسْتَقِيمٌ
| فَاضِلٌ | صَادِقٌ | صَالِحٌ | فِي عَمَلِهِ
-- | صَالِحٌ u | صَالِحٌ -| schaffenheit s. f.
| صِدْقٌ | صِلَاحٌ | إِسْتِقَامَةٌ فِي الْعَمَلِ
| ضَبُطٌ s. f. | -| schreibung s. f. | فَضْلٌ
وَضْعَةٌ | قِيَامُ الْكِتَابَةِ | الْكِتَابَةِ

عِلْمٌ | sgelehrsamkeit s. f. | الْكِتَابَةُ
 -s. | فَقِيهٌ | sgelehrt a. | الْفِقْهُ
 | دَعَاوٍ pl. | دَعْوَى s. m. | hande
 -sfunde | قُوَّةٌ شَرْعِيَّةٌ | s. f. | -skraft
 | عِلْمٌ الْفِقْهُ | s. f. | -spruch s. m.
 | أَقْضِيَّةٌ pl. | قَضَاءٌ | أَحْكَامٌ pl. | حُكْمٌ
 | دَعَاوٍ pl. | دَعْوَى s. m. | -streit
 | مُخَالِفٌ الشَّرِيعَةِ | a. | -widrig
 | عِلْمٌ الْفِقْهُ | s. f. | -wissenschaft
 | ذُو زَاوِيَةٍ قَائِمَةٍ | a. | -winkelig
 | الْحَادِثُ فِي الْوَقْتِ | a. | -zeitig
 الْمُعَيَّنُ.

غِنَاءٌ غَيْرٌ | Recitativ s. n. mus.
 أَنْشَدَ | recitieren va. Verse | مَوْزُونٌ
 الْأَبْيَاتُ.

آلَةٌ لِرِيَاضَةِ الْجِسْمِ | Red s. n.

بَطْلٌ | جَبَابِرَةٌ pl. | جَبَّارٌ s. m. | Redde
 أَبْطَالٌ pl.

مَدَّ u ه | rechnen va. etw.

مُدِيرٌ جَرِيدَةٍ | Redakteur s. m.
 مُصَنِّفٌ | Redaktion s. f. | مُنْشَى
 تَصْنِيفٌ | إِنْشَاءٌ | إِدَارَةُ جَرِيدَةٍ

تَكَلَّمَ | Kلام (Sprechen) | Rede s. f.
 | أَقْوَالٌ pl. | قَوْلٌ (Gespräch)
 | أَحَادِيثٌ pl. | حَدِيثٌ | feierliche -
 | خُطَبٌ pl. | خُطْبَةٌ | خطاب
 | نَظْمٌ | ungebundene -
 bundene

أَلْقَى | eine - halten vor jm.
 | أَجَابَ u | jm. - stehen | الْمُخُطَبَةُ عَلَيْهِ
 | عَمَلٌ | die in - stehende
 | مَوْضُوعُ الْكَلَامِ | -blume s. f. | Sache
 | زِينَةُ الْكَلَامِ | -fluß s. m. | كَثْرَةٌ
 | غَزَارَةُ الْكَلَامِ | -kunst s. f. | الْكَلَامُ
 | تَكَلَّمَ ه | -n va. etw. ه | عِلْمُ الْبَلَاغَةِ
 | قَالَ u ه | نَطَقَ i ه | تَلَفَّظَ بِ
 | - - von, über etw. | -تَحَدَّثَ - vn.
 | قَالَ u فِي أَوْ عَنْ | تَكَلَّمَ فِي | jm.
 | قَطَعَ كَلَامَهُ - - | darein | von sich
 | عَمَلًا يَتَحَدَّثُ - - | machen
 | عِنْدَهُ النَّاسُ | mit sich - - | lassen
 | انْقَادٌ لِلصَّوَابِ | nicht mit sich - -
 | عِنْدَ u | -nsart s. f. | عِبَارَةٌ
 | كَلَامٌ فَارِغٌ | عبارات | -rei s. f. pl.
 | كَلَامٌ فَارِغٌ | -strom s. m. f. | -fluß
 | جُزْءُ الْكَلَامِ | -teil s. m. gr. | pl.
 أَجْزَاءُ.

إِصْلَاحٌ | مُسْتَقِيمٌ فِي عَمَلِهِ | redlich a.
 | صَادِقٌ | -feit s. f. | إِسْتِقَامَةٌ فِي
 | صِدْقٌ | صلاح | الْعَمَلِ

خُطْبَاءٌ pl. | Redner s. m.
 | مَنَابِرٌ pl. | مَنْبَرٌ s. f. | -bühne
 | -gabe s. f., -kunst s. f., -talent
 | بَلِيغٌ | بَلِيغٌ | إِسْدٌ | -ifch a. | بَلَاغَةٌ s. n.
 خُطْبِيٌّ.

Redoute s. f. mil. مِتْرَاسِ pl. | مِتْرَاسِ
- مَحَلُّ الرِّقْصِ (Ballfest)

redselig a. كَثِيرِ الكَلَامِ | -feit s. f.
كَثْرَةُ الكَلَامِ.

Reduktion s. f. تَقْلِيلٌ | تَنْقِيسٌ
reduzieren va. etw. هـ | نَقَّصَ هـ
قَلَّلَ هـ.

Reede s. f. مِينَاءِ pl. | مَوَانٍ u.
صَاحِبِ مَرْكَبٍ r s. m. | مَوَانِي
| مُجَهِّزِ مَرْكَبٍ | أَصْحَابِ pl.
rei s. f. | نَوَاحِذَةٌ pl. | نَاخِذَاةٌ*
شِرْكَةٌ لِتَجْهِيْزِ مَرَاكِبِ.

reell a. (Sache) | حَقِيقِيٌّ (Person)
أَمِينٌ.

Referat s. n. إِخْبَارٌ | Referendar s. m.
Referent s. m. | مَلَازِمِ المَحْكَمَةِ
referieren vn. über etw. | مُخْبِرٌ
أَخْبَرَ بِ.

reffen va. Segel u الْقُلُوعِ | كَمٌّ.

Reflex s. m. اِنْعِكَاسٌ | اِنْعِكَاسِ
-ion s. f. | تَأَمَّلْ | -iv a.,
-es Verbum s. n. gr. الفِعْلُ الوَاقِعُ
عَلَى الفَاعِلِ.

Reform s. f. اِصْلَاحَاتٍ pl. | اِصْلَاحِ
-ation s. f. | اِصْلَاحِ الكَنِيسَةِ
-ator s. m. | مُصْلِحٌ | -ieren va.
etw. هـ | -ierte s. m. | تَابِعٌ

تَبَعَةٌ pl. | كَلْفِيْنِ مِنَ البُرُوْتِسْتَانِ.

Regal s. n. (Bücher-) دَفٌّ (للکُتُبِ النَحِ)
pl. | أَلْوَاحٍ pl. | دُفُوفٍ pl. (Recht
des Königs) حَقُّ المَلِكِ.

rege a. مُتَحَرِّكٌ | bld. صَاحِبِ هِمَّةٍ
| حَرَّكَ هـ | etw. - machen هـ | نَشِيْطٌ
- werden تَحَرَّكَ.

Regel s. f. قَاعِدَةٌ pl. | قَوَاعِدِ
pl. | قَوَانِيْنِ pl. | قَانُونِ | أَقْيَسَةٌ pl.
- der frauen | حَيْضِ | عَادَةُ النِّسَاءِ
in der - | غَالِبًا - | عَادَةٌ | -los a.
-lofig. | غَيْرِ مُنْتَظَمِ | غَيْرِ قِيَاسِيٍّ
feit s. f. | عَدَمِ النِّظَامِ | -mäßig a.
| قِيَاسِ | -mäßigkeit s. f. | قِيَاسِيٍّ
| رَتَّبَ هـ | -n va. etw. | نِظَامِ | تَرْتِيبِ
-recht a. | -mäßig. | نَظَّمَ هـ

regen va. etw. هـ | حَرَّكَ هـ | sich -
تَحَرَّكَ.

Regen s. m. مَطَرٌ pl. | أَمْطَارٌ * | شِتَاءِ*
-bogen s. m. | قَوْسِ قُرْحٍ | -bogen-
haut s. f. | دَائِرَةُ بُوْبُوْءِ العَيْنِ | بُوْبُوْءِ
-messer | مُشَمِّعٌ | -mantel s. m.
s. m. | -pfeifer s. m. | مِقْيَاسِ لِلْمَطَرِ
| نَوْعٌ مِنَ الطُّيُورِ الطَّوْبِلَةِ الأَرْجُلِ
-schirm | رَشَّةٌ | مَطْرَةٌ s. m. | -schauer
s. m. | مِظَلَّةٌ مِنَ المَطَرِ | شَمْسِيَّةٌ *
pl. | مِظَالٌ.

Regent s. m. وَكَيْل | نَائِبُ الْمَلِكِ |
 -schaft s. f. نِيَابَةُ الْمَلِكِ | الْمَلِكِ
 وكالة الْمَلِكِ.

Regen-wasser s. n. ماء الْمَطَرِ | -wurm
 s. m. نُوْعٌ مِنَ الدُّودِ | zeit s. f.
 زَمَنُ الْأَمْطَارِ.

regieren va. ju. ارْعَى هـ | حَكَمَ u عَلَى هـ
 | دَبَّرَ الْمُرْكَبَ Schiff - | دَبَّرَ هـ
 تَعَدَّى إِلَى gr. Kasus - | أَدَارَ هـ
 مَفْعُولٍ.

Regierung s. f. دَوْلَةٌ | حُكُومَةٌ pl.
 أَهْلُ (die Regierenden) - | دَوْلِ
 مُلْكٍ | عَهْدٌ (-szeit) - | الْحُكُومَةَ
 | unter der - des Königs
 سَلْطَنَةِ | santritt s. m.
 | فِي عَهْدِ الْمَلِكِ
 -sbezirk | جُلُوسٍ فِي كُرْسِيِّ الْمَلِكِ
 s. m. türkf. | مُتَصَرِّفِيَّةٌ -spräsident
 s. m. مُسْتَشَارٍ -srat s. m. مُتَصَرِّفٍ
 الْحُكُومَةَ.

Regiment s. n. mil. | أَلْيَاتٌ pl. | أَلْيٌ *
 | مُلْكٍ | حُكُومَةٌ (Regierung) -
 سَلْطَنَةٌ.

Region s. f. جِهَةٌ | أَقْطَارٌ pl. قَطْرٌ
 pl. نَوَاحٍ pl. نَاحِيَّةٌ | جِهَاتٌ pl.

Register s. n. قَائِمَةٌ * | دَفَاتِرٌ pl. دَفْتَرٌ
 pl. سَجَلٌ | قَوَائِمٌ u. قَائِمَاتٌ pl.
 | قَهَارِسٍ pl. | فِهْرِسْتٍ | سَجَلَاتٍ

registrieren va. etw. هـ | وَقَعَهُ
 دَوَّنَ هـ | سَجَّلَ هـ.

regnen vn., es regnet أَنْزَلَ | الْمَطْرُ
 | أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ | هَطَلَ i الْمَطْرُ
 | هَطَلَتِ السَّمَاءُ | مَطَرَتِ السَّمَاءُ
 | حَصَلَ u بِكَثْرَةٍ | كَثُرَ bld. u
 regnerisch a. كَثِيرُ الْمَطَرِ | مَطِرٌ.

Regreß s. m. رُجُوعٌ عَلَى الضَّامِنِ.
 regsam a. | نَشِيْطٌ | ذُو هِمَّةٍ
 s. f. هِمَّةٌ | نَشَاطٌ.

regulär a. |. regelmäufig | regulieren
 va. etw. هـ | رَتَّبَ هـ.

Regung s. f. حَرَكَاتٌ pl. حَرَكَةٌ
 عَادِمٌ a. -slos | تَأَثَّرَ فِي النَّفْسِ
 الْحَرَكَةَ.

Reh s. n. zool. تَيْسٌ جَبَلِيٌّ pl.
 تَيْسُوسٌ.

Rehposten s. m. رِصَاصٌ | خُرْدُوقٌ
 لِلصَّيْدِ.

Reibeisen s. n. | مِحْكٌ * | مِبْرَشٌ
 | طَرَابِيلٌ pl. | طَرَابِيلٌ pl. reiben va.
 etw. هـ | دَعَكَ a هـ | حَكَ u هـ
 | مَسَمَ a هـ | ذَلِكَ u هـ (mit der Hand)
 | sich - an einander
 | sich - an jm. | تَمَرَّسَ | إِحْتَنَكَ
 | قَاوَمَ هـ | عَارَضَ هـ | gerieben (schlau)

مَكَار | Reiberei s. f., Reibung s. f.
 خُصُومَةٌ - | دَلَك | دَعَا
 reich a. (an Geld) | غَنِي | مُتَمَوِّل
 | جَزِيل | وَاغِر (reichlich) - | مُكْتَبِر
 - an etw. ... | كَثِير ال...
 Reich s. n. | دَوْلَةٌ pl. | دَوْل
 (Natur-) | مَمَالِك pl. | مَمْلَكَةٌ
 مَوَالِد pl. | مَوْلِد
 reichen va. jnt. etw. (geben) | نَاوَل ه
 | قَدَم ه لَهُ - | قَدَم ه لَهُ
 | حَصَلَ u عَلَى | أَدْرَكَ ه
 bis - | أَمْتَدَّ إِلَى (sich ausdehnen)
 (hinreichend sein) | كَفَى
 reichhaltig a. | وَاغِر | جَزِيل | كَثِير
 | وَفُور s. f. | كَثْرَةٌ -
 reichlich a. | وَاغِر | جَزِيل | كَثِير
 Reich-sapfel s. m. | كُرَّة المَلِك
 -sfanzler s. m. | صَاحِب خَاتَم
 -s- | كِنَشِيلِير * | مُهْرَدَار | المَمْلَكَةُ
 بلاد | تَابِعَةٌ للمَمْلَكَةِ
 | الأَمَانِيَّة وَهِيَ الأَزَاس وَلُورِين
 | إِقْطَاعَةُ المَمْلَكَةِ
 -slehen s. n. | مارِك (نَقْد أَلْمَانِي)
 -smarf s. f. | البُوسَطَةُ المَلُوكِيَّة
 -sposft s. f. | مَدِينَةُ مُلُوكِيَّة وَهِيَ
 -sftadt s. f. | تَابِعَةٌ لِلْقَيْصَرِ الأَلْمَانِي فَقَط
 -stags s. m. | مَجْلِس النُّوَاب (فِي بَعْضِ)

نُوع مِّن | -sthaler s. m. | المَمَالِك
 | النُّقُود الأَلْمَانِيَّة (يُسَاوِي ٣ مارِك)
 تَابِع لِلْقَيْصَرِ a. -unmittelbar
 تَحْتَ أَمْرِ القَيْصَرِ | الأَلْمَانِي فَقَط
 نَائِب s. m. | -sverweser
 فقط | مُعَامَلَةٌ s. f. | -währung
 | المَلِك | المَمْلَكَةُ
 Reichtum s. m. | غِنَاء | غِنَى | ثُرُوءَةٌ
 | وَفُور | نِعْمَةٌ | كَثْرَةٌ
 reif a. (Obst) | مُسْتَوٍ * (فَوَاكِهِ)
 | رَاطِب (Dattel) - | بَالِغ | نَضِيج
 | رَزِين (Person) - | مُرْطَب
 bld. - | - sein od. werden | s. reifen | die
 Sache ist - | وَقْت إِجْرَاء الأَمْرِ -
 Reif s. m. (Reifen) | أَطَر pl. | إِطَار
 Reif | أَطَوَاق pl. | طُوق | طَارَةٌ *
 s. m. (gefrorener Thau) | صَقِيع
 | جَلِيد
 Reife s. f. | يُنُوع | نَضِج | إِسْتَوَاء *
 | بُلُوغ العَقْل | بُلُوغ (Des Alters) -
 | أَنْضَج ه | - bringen zur
 | أَطَاب ه | - gelangen zur | reifen
 | نَضِج | نَضِج | a | يَنْع | -n vn. a
 | إِسْتَوَى * | أَرْطَب | bld. - | i
 | نَزَلَ i الصَّقِيعُ (es reift) -
 Reifen s. m. | إِطَار * | طَار | طُوق | طَارَةٌ *
 reiflich a. | بِنَامَل | بِنَرَوَّ

Reigen s. m. رَقْص.

Reihe s. f. صَفَّ pl. صُفُوف | دُور |
pl. أَدْوَار | - math. سِلْسِلَة pl.
| هُوَ دُورِي | die - ist an mir | سَلَسِل
-n va. etw. ه | صَفَّ u ه |
| اصْطَفَّ -- | sich | نَظَّم ه | رَتَّب ه
-n s. m. رَقْص | -nfolge s. f. صَفَّ |
-nweise adv. | تَتَابَع | سِلْسِلَة
| بالتتابع.

Reiher s. m. zool. مَالِك | بَلَشُون
| الحزيرين.

Reim s. m. قَافِيَة pl. قَوَافٍ | -en
vn. | كان u دا قَافِيَة | bld. sich zu-
sammen - | تَطَابَق | تَنَاسَب -
s. f. سَجْع | - | schmied s. m. شَعْرُور |
| مُتَشَاعِر.

rein a. نَقِيّ | نَقِيّ | (lauter)
| رَائِق | صَافٍ | خَالِص
ohne Fehler | نَقِيّ | طَاهِر | etw.
- machen ه | نَظَّف | etw. ins -
bringen ه | رَتَّب | etw. ins -
| يَبِيض | -en Mund
halten über etw. | سَكَت u عَن
| قال -en Wein einschenken u
| لَهُ حَقِيقَة الْأَمْر
bld. u | صَلَّم | - adv. (ganz u. gar)
| -heit | مُطْلَقًا | بِالْكَلِّ

- - s. n. الْمَبِيَّض | -ertrag s. m.,
-gewinn s. m., -gewinnst s. m.
| نَظَافَة s. f. | نَظْف | دَخَلَ صَافٍ
| نَقَاء | خُلُوص | صَفَاء | طَهَارَة
| نَقَّى ه | نَظَّف ه | etw. -
| نَقَّى | نَظَّف -- | sich | طَهَّر ه
| تَطْهِير | تَنْظِيف s. f. |
-igung s. f. | تَخْلِيف | تَنْقِيَة
| الحَيْض | -lich a. -
| نَظَافَة s. f. | نَظِيف

Reis s. m. رُزَّ | أَرَزَّ.

Reis s. n. شَجَرَة | فُرْبَع | -bündel s. n.
| حَزْمَة حَطَب.

Reise s. f. سَفَر pl. أَسْفَار | رِحْلَة |
| سِيَاحَة | سَيْر | إِرْحَال | رَحِيل
auf -n gehen, sich auf die -
| أَخَذ u فِي السَّفَر | die
große - machen u مات | -fertig
a. | مُسْتَعِدَّ | للسَّفَر s. m.,
-handbuch s. n. | دَلِيل الْمَسَافِر
| سَافِر | -n vn. | دَلِيل السَّائِمِ
| سَار | - | إِرْتَحَلَ | رَحَلَ a
| سَرَى | -nder s. m. (bei
Nacht) | سَائِح u سَائِحُون pl. | مَسَافِر
| رُكَّاب pl. | رَاحِل pl. | رَاحِل
-paß s. m. | بَزْبُورَت * |
| تَذَاكِر s. m., | تَذَاكِر pl. | السَّفَر

-tasche s. f. | شُنْطَة * | جِرَاب pl. |
 خُرْج (des Reiters) - - | أَجْرِبَة
 لوازم s. pl. | أَخْرَاج pl. |
 السَّفَر.
 Reifig s. n., -bündel s. n. | حُرْمَة
 مِنْ أَغْصَان صَغِيرَة
 Reifige s. m. | فُرْسَان pl. |
 Reifaus s. m., - nehmen i | قَرَّ
 u | أَذْبَر | هَرَب
 Reifbrett s. n. | لَوْح لِلرَّسْم
 reißen va. etw. (weg-) | قَلَعَ a
 | جَرَّ u | نَزَعَ i
 | أَجْتَذَب | جَذَب i
 | فَرَس i | مَرَّق ه -
 Stücke - zu Boden - | طَرَح a
 | رَمَى i |
 Poffen, Toten - |. Poffen, Toten |
 vn. - | انْكَسَرَ -
 | تَمَرَّق | انْشَقَّ |
 | تشاجر في |
 | رَمَق i | مَغْص s. n. med.
 | ضار | مُفْتَرَس (Tier) a. |
 | سَيُول pl. | سَيْل der Fluß |
 | كاسر |
 | طَيَّار * | عَزُوم *
 Reif-feder s. f. | أَقْلَام pl. |
 | مَسَاطِر pl. | مَسْطَرَة s. f. |
 | بَيْت لِلرِّكَّار s. n. |
 Reit-bahn s. f. | مِيدَان لَتَدْرِيب
 | رَكِب a | مِيدَان pl. |

va. - - ein Pferd | فَرَسًا a | رَكِب |
 -en s. n. | رُكُوب الخَيْل | -er s. m.
 راكِب | فَوَارِس u. | فُرْسَان pl. |
 | خَيْالَة pl. | خَيْال | رُكَّاب pl.
 -erei s. f. | خَيْالَة | -ersmann s. m.
 | سائِس pl. | -er | -fnecht s. m.
 -funst s. f. | خَادِم الخَيْل | سائِسَة
 -peitsche | خَيْوَلَة * | فُرُوسَة | فَراسَة
 s. f. | قَمْشَة * | سَوَط الرَّاكِب s. f.
 | فَرَس s. n. | تِيَر s. n. | يَرْكَب
 | مَطَايَا pl. | مَطِيَّة | نَوَّاب pl.
 | عُدَّة الفَرَس | جِهاز الفَرَس s. n.
 Reiz s. m. med. | تَحْرُك | تَأَثَّر
 | جاذِب (was ergötzt) | - | انْفِعال *
 | حُسْن | جَمال | جاذِبِيَّة -bar a.
 | نَزِق | سَرِيع | الحِدَّة -barfeit s. f.
 | سُرْعَة التَّأَثَّر | اسْتِعْدَاد لِلْحِدَّة
 | أَثَّر في | أَثَّر في -en va. med. etw.
 | هَيَّج | - - | جَذَب (angenehm) - - |
 | هَيَّج ه |
 | سَلَب قَلْبَهُ | قَلْبَهُ |
 | - - | (seine Leidenschaft wecken) - - |
 | أَغْضَب ه | أَغَظ ه | -end a. |
 | جَمِيل جِدًّا | القَلْب -los a.
 | غَيْر جاذِب | -mittel s. n. |
 | تَأَثَّر s. f. | -ung | مُقَوِّ
 | -voll a. | -end. |

refognoszieren va. | تَحَقَّق أَنَّهُ هُوَ |

- eine Gegend mil. اِكْشَفَ | نَاحِيَّةٌ
 اِسْتَنْقَضَ هـ | فَتَشَ هـ
 Rekonvaleszent s. m. مُتَعافٍ |
 Rekonvaleszenz s. f. تَعافٍ |
 Refrut s. m. عَسْكَرِيٌّ جَدِيدٌ |
 Rektor s. m. رَئِيسُ مَدْرَسَةٍ |
 Refurs s. m. f. Regreß.
 relegieren va. jn. طَرَدَ u هـ مِّنْ
 دارُ الغُنُونِ |
 Religion s. f. دِيانَةٌ | اَدْيَانٌ pl. دِينٌ |
 طَوَائِفٌ pl. طَائِفَةٌ | مِلَلٌ pl. مِلَّةٌ |
 -sgesellschaft s. f. مَذْهَبٌ pl. |
 تَقْوَى | دِينِيٌّ | رَلِغِيُوسٌ | مَذاهِبٌ |
 تَقْوَى | رَلِغِيُوسِيَّتٌ s. f. تَقْوَى |
 Reliquie s. f. kath. دَخِيْرَةٌ * pl. |
 بَقايا اَجْسادِ الْاَوْلِياءِ | دَخائِرٌ |
 Reminiszenz s. f. تَذْكارٌ | ذِكْرٌ |
 Remise s. f. (Wagen-) مَحَلٌّ لِلْعَرَباتِ |
 Remonte s. f. mil. خَيْلٌ جَدِيدٌ |
 تُعْطَى لِلخَيْالَةِ |
 Remter s. m. kath. مَحَلُّ السَّفَرَةِ |
 فِي دَيْرٍ |
 Rendezvous s. n. مَعْهَدٌ | مُلْتَقَى |
 مَواعِيِدٌ pl. مِيعادٌ | مَعاهِدٌ pl. |
 Renegat s. m. مُرْتَدٌّ |
 Rennbahn s. f. مِيدانٌ لِسِباقِ |
 رَنْنِ | مِيايِدِينِ pl. الخَيْلِ النَحِ

u | عَدَا | جَرَى | i | رَكَضٌ | an
 einander - | تَصادَمٌ | va. jn. den
 Degen durch den Leib - طَعَنَ هـ |
 بِالسَّيْفِ | Renner s. m., Renn-
 pferd s. n. جِوادٌ pl. | Renn-
 platz s. m. f. Rennbahn.
 Renntier s. n. اِبْئَلٌ شَمالِيٌّ |
 renommieren vn. * | فَشَرَ * | فَشَرَ * u
 renommiiert a. مَشْهُورٌ | Renom-
 mist s. m. فَشَّارٌ |
 Rent-amt s. n. مَكْتَبُ اِقْلَمِ المَالِيَّةِ |
 دَخَلَ سَنَوِيٌّ -e s. f. | المَالِيَّةِ |
 دُو دَخَلَ -ier s. m. | اِيرادِ سَنَوِيٍّ |
 اَتَى -i - | -ieren v., سَنَوِيٍّ |
 -meister s. m. | اَكْسَبٌ | بَرْبُوحٌ |
 -ner s. m. f. -ier. | مُفْتَشِ المَالِيَّةِ |
 Reparatur s. f. تَصْلِيحٌ | اِصْلاحٌ |
 reparieren va. etw. هـ | اَصْلَحَ هـ |
 صَلَّحَ هـ |
 repartieren va. etw. هـ | وَزَعَ هـ |
 repetieren va. etw. هـ | اَعادَ هـ |
 Repetition s. f. اِعْادَةٌ | تَكَرَّارٌ |
 تَكَرُّبٌ |
 Replik s. f. جَوابٌ |
 Repräsentation s. f. اَبْهَةٌ لا بُدَّ مِنْها |
 النَّفَقَةُ s. pl. -skosten | فِي مَنْصِبِ |
 المَطْلُوبَةُ فِي مَنْصِبِ |

Repressalien s. pl. مُقَابَلَةُ الشَّرِّ بِمِثْلِهِ.

Reproduktion s. f. إِحْدَاثٌ.

Reps s. m. f. Rips.

Republik s. f. حُكْمٌ | جُمْهُورِيَّةٌ *

aner s. m. | جُمْهُورِيٌّ | الجُمْهُور

anisch a. | تَابِعِ حُكْمِ الجُمْهُور

جُمْهُورِيٌّ.

Requiem s. n. kath. تَرْتِيلٌ لِأَجْلِ

المَوْتَى.

Reseda s. n. bot. بَلِيحَاءٌ | إِسْلِيحٌ

فَاغِنَةٌ.

Reserve s. f. mil. فِرْقَةٌ | الرَّدِيْفُ *

تُسْتَبْقَى إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ

reservieren va. etw. هَ أَبْقَى هَ

حَفِظَ هَ | اسْتَبْقَى هَ

Reservoir s. n. أَحْوَاضٌ pl. حَوَاضٌ

حِيَاضٌ u.

Residenz s. f. مَقَرُّ الْمَلِكِ.

Reskript s. n. أَوَامِرٌ pl. أَمْرٌ | مَنشُورٌ

Respekt s. m. اِعْتِبَارٌ * | اِحْتِرَامٌ

Rest s. m. بَقَايَا pl. بَقِيَّةٌ | بَاقٍ

فَضْلَةٌ | فَاضِلٌ * | فُضُولٌ pl. فَضْلٌ

arithm. - | سَائِرٌ | فَضَلَاتٌ pl.

im. den - geben | بَاقِي الطَّرْحِ

قَتَلَ u هَ | أَهَكَ هَ

Restaurant s. n. رِيسْتَاوْرَاسِيُونٌ | لُوكَنْدَةٌ *

tion s. f. (Wiederherstellung)

رُجُوعٌ (des Königtums) - | إِصْلَاحٌ

سَلَالَةٌ مَلِكِيَّةٌ إِلَى كُرْسِيِّ الْمَلِكِ

(Restaurant) - | بَعْدَ حُكْمِ الجُمْهُورِ

لُوكَنْدَةٌ *

restieren vn. a بَقِيَ.

Resultat s. n. حَاصِلٌ pl. أَحْوَاصِلٌ |

عَوَاقِبٌ pl. عَاقِبَةٌ.

Retirade s. f. (Abtritt) بَيْتُ الْأَدَبِ |

رُجُوعُ الْجَيْشِ إِلَى وِرَاءِ - mil.

Retorte s. f. أَنْبِيْقٌ pl. أَنْبِيْقَاتٌ

كِرَكَاتٌ pl. كِرَكَةٌ *

Retourbillet s. n. تَذَكِرَةُ الذَّهَابِ

وَالْإِيَابِ.

retten va. jm. هَ | أَنْقَذَ هَ

أَنْجَى هَ | أَنْجَى هَ | خَلَّصَ هَ | أَنْجَى هَ

rette sich | سَلِمَ | أَنْقَذَ

wer kann! | الفِرَارِ الفِرَارِ | Retter

مُخَلِّصٌ | مُنَجِّ | مُنَجِّ | مُنَقِّذٌ s. m.

Rettich s. m., Rettig s. m. bot.

فُجْلٌ.

Rettung s. f. اِنْقَادٌ | نَجَاةٌ | خَلَاصٌ |

sboot s. n. | سَلَامَةٌ | تَخْلِيصٌ

قَارِبٌ يُسْتَعْمَلُ لِتَخْلِيصِ النَّاسِ

قَوَارِبٌ pl. مِنَ الغَرَقِ.

Reue s. f. تَنْدَمٌ | نَدَمٌ | نَدَامَةٌ

reuen va. a نَدِمَ | es reut ihn

seine That عَلَى فِعْلِهِ | Reu-

- geld s. n. مَبْلَغٌ مَعْلُومٌ بَيْنَ الْمُتَعَاهِدَيْنِ يَدْفَعُهُ الَّذِي يَرْجَعُ عَنْ قَوْلِهِ | reuig a., reumütig a. تَائِبٌ | نَدْمَانٌ | نَادِمٌ.
- Reuses. f. نَوْعٌ مِنَ السِّلَالِ يُصْطَادُ بِهَا السَّمَكُ.
- Reverenz s. f. خُضُوعٌ | اِحْتِرَامٌ.
- Revier s. n. اَقَالِيمٌ pl. اَقَالِيمٌ | نَوَاحٍ pl. نَاحِيَةٌ.
- Revision s. f. فَحْصٌ | تَفْتِيْشٌ.
- Revisor s. m. مُفْتِشٌ.
- Revolte s. f. ثَوْرَةٌ | فِتْنَةٌ | عِصْيَانٌ | عَصَى i ه. | revoltieren vn. gegen jn. عَصَى i ه.
- Revolution s. f. اِنْقِلَابٌ (فِي الدَّوْلَةِ (مثلاً).
- Revolver s. m. رِفْلْفِيرٌ *.
- Revue s. f. mil. كَشْفٌ عَسْكَرِيٌّ | literarische - مَجَلَّةٌ.
- Rezensent s. m. | rezensieren * مُنْتَقِدٌ | va. etw. * اِنْتَقَدَ ه. | Rezension s. f. اِنْتِقَادٌ *.
- Rezept s. n. med. وَصْفٌ طَبِيبٌ.
- Rezeß s. m. اِتِّفَاقٌ شَرْعِيٌّ.
- Rezitativ s. n. | Recitativ | rezitieren va. | recitieren.
- Rhabarber s. m. bot. رَوْنَدٌ | راوَنَدٌ.
- Rhede s. f., -r s. m., -rei s. f. f. Reede, Reeder, Reederei.
- Rhein s. m. n. pr. نَهْرُ الرَّيْنِ.
- Rhetorik s. f. عِلْمُ البَلَاغَةِ.
- Rheumatismus s. m. دَاءُ المَفَاصِلِ | رِيْبٌ * | رَثِيَّةٌ | دَاءُ العَضَلِ.
- Rhinozeros s. n. zool. * كَرَكَدَنْ * وَحِيدٌ | مِرْمِيسٌ | اِغ. خَرْطِيطٌ * القَرْنِ.
- Rhododendron s. n. bot. دِفْلَى.
- Rhombus s. m. math. مُعَيَّنٌ.
- rhythmisch a. | Rhythmus | وَزْنِيٌّ | s. m., pl. -men | وَزْنٌ pl. اَوْزَانٌ.
- Richt-banf s. f. | محْكَمَةٌ | -beil s. n. قُرْمَةٌ | فَاْسٌ السِّيَافِ | -bloß s. m. السِّيَافِ.
- richten va. etw. | اَدَارَ ه. | صَرَفَ i ه. | seine Blicke | وَجَّهَ ه. | اَمَالَ ه. | اِلَى | نَظَرَ u اِلَى | اَدَارَ بَصْرَةً اِلَى | - auf | تَوَجَّهَ اِلَى | seine Schritte - nach | اِغْتَنَى بِ | seine Gedanken - auf | خَاطَبَ ه. | an jn. | etw. in die Höhe - | نَصَبَ i ه. | etw. zu Grunde - | اَهْلَكَ ه. | sich | - nach | اِنْقَادَ لِ | - vn. (urteilen) | اِحْكَمَ u بِ | اِقْضَى i فِي | über etw. | حَتَمَ i بِ.

Richter s. m. قاضٍ pl. قضاة | حاكم |
 pl. حكام | - (Schieds-) حكم | -lich
 a. مختص بالقاضي | spruch s. m.
 قضاء | حتم | أحكام pl. حكم
 محكمة | كرسي القاضي s. m. -stuhl
 richtig a. شرعي | صوابي | صحيح
 - sein i صح | nicht - gehen (einer
 Frau) أسقطت الجنين (امرأة)
 den -en Weg führen jn. هدى i
 -e Wegführung | ارشاد | هدى
 den -en Weg gehen اهتدى |
 -feit s. f. صحة | دقة | تدقيق
 ضبط*
 Richt-maß s. n. معيار pl. معايير |
 -maß s. m. مقياس | مكيال |
 -schur s. f. مطمار | مشنقة
 -statt | زبيج* | امام | خيط البناء
 s. f., -stätte s. f. | -platz | -steig
 s. m. | -weg | -ung s. f. جهة
 pl. نواح | ناحية | جهات
 -weg s. m. | طريق ضيق |
 زقيلة.

Ricke s. f. عنز الجبل pl. عناز.
 riechen va. etw. استشمه | شم u ه
 Riech- | استنشق ه | استروح ه
 fläschchen s. n. قمام pl. قمام
 حناجير pl. حنجور*

Ried s. n. مستنقع.
 Riege s. f. صفوف pl. صفوف.
 Riegel s. m. مترس | درباز*
 Riemen s. m. سير (من جلد) pl.
 pl. اسار | علائق pl. علاقة | سيور
 (Ruder) - | بنود pl. بند | أسر
 zeug s. n. (des Pferdes) | مقذاف
 Riemer s. m. صانع | جهاز الفرس
 الرناير pl. صناع.
 Ries s. n. Papier ورق pl. ماغون
 معاوين.
 Riese s. m. جبارة pl. جبار.
 rieseln vn. i جري | i | i ساب |
 i ساح.
 Riesen-arbeit s. f. شغل جسيم |
 -groß a., -haft a., -mäßig a.
 -schlange s. f. | جسيم | جباري
 -schritt s. m. | ثعابين pl. ثعبان
 riesig a. | riesengroß. | خطوة طويلة
 Riff s. n. صخر تحت وجه البحر
 pl. صخور | ein - | صخور.
 Rind s. n. بقر.
 Rinde s. f. قشر الشجرة pl. قشور.
 Rinder-braten s. m., Rindsbraten
 s. m. لحم بقر مشوي | herde s. f.
 -marf s. n. | بغير | قطع البقر
 -talg s. m., Rindstalg | مع البقر

- s. m. شَحْمُ البَقَرِ | -zunge s. f.,
 Rindszunge s. f. لِسَانُ البَقَرِ |
 Rindfleisch s. n. لَحْمُ البَقَرِ | Rind-
 leder s. n. جِلْدُ البَقَرِ | Rindvieh
 s. n. بَقَرٌ | bld. إِنْسَانٌ بَلِيدٌ
 Ring s. m. (finger-) | دِبْلَةٌ * (ohne
 Stein) | خَاتَمٌ (mit Stein) * مَحْبَسٌ *
 pl. حَلَقَةٌ (Ohr-) | - | خَوَاتِمٌ pl.
 (Bein-) | - | حَلَقَاتٌ u. حَلَقٌ
 (Nasenfür Kamel) | خَزَائِمٌ pl. خِزَامٌ
 - | دَوَائِرٌ pl. دَائِرَةٌ (Kreis) -
 Ringel s. f. حَلَقَةٌ pl. حَلَقٌ u.
 أَفْحُوَانٌ | -blume s. f. bot. | حَلَقَاتٌ
 -locke s. f. | عَيْنٌ صَفَاءٌ | أَصْفَرٌ
 -n va. Haar | خُصَلَةٌ pl. خُصَلَةٌ
 | عَكَّسَ الشَّعْرَ | زَرَفَنَ الشَّعْرَ
 | نَوْعٌ مِنَ الحَيَّةِ s. f. | -natter
 -reigen s. m., -tanj s. m. | رَقَصَ
 | حَمَامٌ بَرِيٌّ | -taube s. f. | في دَائِرَةٍ
 | يَمَامَةٌ - - | تَرْغُلٌ * | يَمَامٌ
 ringen va. die Hände | تَضَوَّرَ تَوَجَّعًا
 | تَصَارَعَ بِالْيَدِ - | vn. | التَّاعَ تَوَجَّعًا
 - mit jm. | بارزٌ | صارعٌ *
 dem Tode - | أَشْرَفَ عَلَى المَوْتِ -
 Ringer s. m. | مُبَارِزٌ | مُصَارِعٌ
 مُقَاتِلٌ.
- Ring-finger s. m. | بِنَصِيرٍ | -Fampf
 s. m. | مُبَارَزَةٌ | مُصَارَعَةٌ | صِرَاعٌ
 -Fämpfer s. m. | Ringer | -mauer
 s. f. | سُورٌ pl. أُسْوَارٌ.
 rings; ringsum, ringsherum adv.
 مِنْ كُلِّ جِهَةٍ | حَوْلٌ.
 Rinne s. f. | جَدْوَلٌ pl. جَدَاوِلُ |
 | سَوَاقٍ pl. سَاقِيَةٌ | مَجَارٍ pl. مَجْرَى
 | مِزْرَابٌ (Dach-) | - | قَنَوَاتٌ pl. قَنَاةٌ
 | مِيَازِيْبٌ pl. مِيَازِيْبٌ | مَزَارِيْبٌ pl.
 | جَرَى i المَاءِ قَلِيْلًا | rinnen vn.
 | جَدْوَلٌ s. n. | Rinnfal | سال i
 | رِيْنِسْتاين s. m. | سَاقِيَةٌ | مَجْرَى
 | مِيَازِيْبٌ pl. مِيَازِيْبٌ.
 Rippe s. f. | ضِلْعٌ pl. ضُلُوعٌ u.
 | دَفْعَةٌ s. m. | -stoß | أَضْلَاعٌ
 | رِيْسِكُو s. n. | مُخَاطِرَةٌ | خَطَرٌ
 | أَخْطَرُهُ | خَاطَرِبٌ | va. etw.
 | رِيْسٌ s. m. | تَمَرَّقٌ | شَقٌّ
 | pl. | رُسُومٌ pl. رَسْمٌ (Zeichnung)
 | -e | ضَرْبٌ | vulg. | (Prügel)
 kommen | انْشَقَّ | vulg. | u. أَكَلٌ
 | دُو شَقُوْقٌ | مَشَقُوْقٌ a. | -ig | الضَرْبُ
 | مَصْدُوْعٌ.
 Rist s. m. (des Pferdes) | حَارِكٌ |
 | أَكْثَابٌ pl. كَاتِبَةٌ.
 Ritt s. m. | رُكُوبٌ الخَيْلِ | -er s. m.

Röhre s. f. قَصِيْبَةٌ | أَنْبُوبٌ | قَصَبٌ
 pl. قَسَائِبُ | قَسَطِرٌ * pl. قَسَائِبُ | قَصَائِبُ
 pl. لَوَائِبُ | لَوَائِبُ pl.

röhren vn. (Hirsch) صَوَّتَ (الْإَيْل)

Rohr-feder s. f. أَقْلَامٌ | قَلَمٌ عَرَبِيٌّ

-flöte s. f. mus. مِزْمَارٌ | زَمَارَةٌ

مِزْمِيرٌ

Röhricht s. n. مَقْصَبَةٌ

Rohr-pfeife s. f. | -flöte | -post s. f.

-spatz | نَقْلُ الْمَكَاتِيْبِ فِي قَصَائِبِ

نَوْعٍ مِنْ -| sperling s. m.

عِصِيٌّ | عَصَا s. m. | -stock s. m. | العَصَافِيرُ

Rohr-seide s. f. قَزٌّ * pl. قَزُوْزٌ | -stoff

s. m. | -material | -zucker s. m.

سُكَّرٌ غَيْرٌ مُصَفًّى

Rolle s. f. دَوَائِبُ | دَوَالِبٌ صَغِيرٌ

| أَطْوَاءٌ pl. طَوَى | بَكْرٌ pl. بَكْرَةٌ

دَرَجٌ (Papier) - | مَطَاوٍ pl. مَطَوَى

pl. (Wäsche-) | وَرَقٌ مُدْرَجٌ | أَدْرَاجٌ pl.

- eines Schauspielers | مِصْقَلٌ

| دَوْرُ الْمُشَخَّصِ فِي رِوَايَةِ

لَهُ يَدٌ طَوِيْلَةٌ فِي - | spielen in, bld.

rollen va. Wäsche | صَقَلَ u. الغَسِيْلُ

- Papier | دَخْرَجَ هـ | دَوْرَ هـ - | etw.

| لَفَّ u هـ | طَوَى هـ | أَدْرَجَ هـ - | sc.

| جَرَى i دَائِرًا | تَدَخْرَجُ - | vn.

تَحْرَكُ مِنْ جَانِبِ (Schiff) - | دار u

(Donner) - | إِلَى جَانِبِ (المَرْكَبِ)

رَجَسَ u (الرَّغْدِ)

Roll-geld s. n. ثَمَنٌ نَقْلُ البَضَائِعِ

كُرْسِيٌّ | -stuhl s. m. | بِالْعَجَلَةِ

-wagen s. m. | كَرَّاسِيٌّ pl. يُنْقَلُ

عَجَلَةٌ لِنَقْلِ البَضَائِعِ

Rom n. pr. رُومَةٌ

Roman s. m. pl. حِكَايَةٌ خَيَالِيَّةٌ

رِوَايَةٌ | قِصَصٌ pl. قِصَّةٌ | حِكَايَاتٌ

pl. مِنْوَالُهُ | -haft a. | رِوَايَاتٌ pl.

الحِكَايَاتِ الخَيَالِيَّةِ

romanisch a. مُشْتَقٌّ مِنَ اللَاتِيْنِيِّ

romantisch a. شَبِيهِ بِالحِكَايَاتِ

نَوْعٍ مِنْ Romanze s. f. | الخَيَالِيَّةِ

المَوَالِيَاتِ

Römer s. m. pl. رُومَانِيُّونَ

| أَقْدَاحٌ pl. قَدَحٌ (Weinglas) -

römisch a. رُومَانِيٌّ

Ronde s. f. | Patrouille.

rosa a., rosafarben a., rosafarbig a.

أَحْمَرٌ زَاهِرٌ | وَرْدِيٌّ اللَوْنُ

Rose s. f. bot. pl. أَوْرَادٌ | eine -

زَهْرٌ | وَرْدٌ السِّيَاحِ - | وَرْدَةٌ

- | جُلْنِسْرِيْنٌ * | النِسْرِيْنِ

حُمُوٌّ med. | كَفٌّ مَرِيْمٌ Jericho -

-nfarb a., -nfarben | وَوَرَمٌ الجِلْدِ

| وَرْدِيٌّ اللَوْنُ a., -nfarbig a.

- nfohl s. m. نَوْعٌ مِنَ الْكَرْتَبِ | rösten va. etw. هـ | حَمَسٌ هـ u شَوَى هـ i
 -nfranz s. m. kath. مِسْبَحَةٌ pl. | حَمَسٌ هـ (Kaffee) - | عَلَى الْمِشْوَاةِ
 خلاصَةٌ -nöl s. n. | مِسْبَحَةٌ | مسابح
 -nrot a. وَرْدِي اللَّوْنِ | rostig a. صَدِيٌّ | صَادِيٌّ
 -nstock s. m., -nstrauch s. m. rot a. حُمُرٌ pl. حُمَرَاءُ f. أَحْمَرٌ
 -nwasser s. n. | شَجَرَةُ الْوَرْدِ | - werden أَحْمَرٌ | - färben etw.
 جَلَابٌ | جَلَابٌ | - أَخْجَلٌ * | - machen هـ | حَمَّرَ هـ
 جَلَابٌ. | -bart s. m. أَشْقَرُ اللَّحْيَةِ
 Rosette n. pr. رَشِيدٌ.
 Rosette s. f. زِينَةٌ عَلَى شَكْلِ وَرْدَةٍ | Röte s. f. | أَحْمَرَارٌ | حُمْرَةٌ
 نَقْشٌ عَلَى شَكْلِ وَرْدَةٍ. | -In s. pl. | مَغْرَةٌ | طِينٌ أَحْمَرٌ
 roficht a., rofig a. وَرْدِي اللَّوْنِ. | med. دَشِيشَةٌ | حَصْبَةٌ | حُمَيْرَةٌ
 Rosine s. f. زَيْبٌ. | röten va. etw. هـ | حَمَّرَ هـ | sich -
 Rosmarin s. m. bot. إِكْلِيلُ الْجَبَلِ | Rot-fuchs s. m. فَرَسٌ أَشْقَرٌ أَوْ
 عَبِيثْرَانٌ | عَبِيثْرَانٌ | أَصْهَبٌ | -haarig a.
 Roß s. n. f. Pferd | -arzt s. m. | أَكْلَفٌ | أَصْهَبٌ | شُقْرٌ pl. شُقْرَاءُ
 بِيَّاطِرَةٌ pl. | -fleisch s. n. | -haut s. f. | هِنْدِيٌّ مِنْ أَمِيرِيكَا
 سَيْبٌ | -haar s. n. | هِنْدِيَّوْنَ | -fehlchen s. n.
 -famm s. m., -händler s. m., | zool. طَائِرٌ صَغِيرٌ أَحْمَرُ الصَّدْرِ
 -täuscher s. m. | دَلَالٌ | بَائِعُ الْخَيْلِ | -fohl s. m. | كَرْتَبٌ أَحْمَرٌ
 فَاسْتَانِيَّةٌ s. f. | - | الحَيْلِ | * | الحَيْلِ
 -schweif s. m. | تُورْفٌ | كَسْتَنَاءٌ * | *
 طَوْغٌ *
 Rost s. m. (des Eisens) | - des | نَبِيذٌ أَحْمَرٌ
 دَاءٌ الْقَمَرُ يُشْبِهُ الصَّدَأَ | Rotspohn s. m. | نَبِيذٌ أَحْمَرٌ
 مَشَاوٌ pl. مِشْوَاةٌ (zum Braten) - | Rotte s. f. | جَمَاعَةٌ أَشْقِيَاءُ
 مَصْبَعٌ pl. | مَصْبَعَاتٌ | -en vn. | عَصَبَاتٌ pl.
 فَسَدٌ | - - i, u | bld. | - | صَدِيٌّ a
 Rot-wein s. m. | -welsch | نَبِيذٌ أَحْمَرٌ
 -wild | s. n. | اصطلاحات الحرامِيَّةِ

s. n. حَيَوَانَات لَوْنُهَا الشُّقْرَةُ أَوْ
| الصُّحْرَةُ كَالْأَيَّائِلِ وَالطِّبَاءِ النَّهْ
-wurst s. f. مَقَانِقُ * | فَصِيدُ

Rotz s. m. (Nasenschleim) ذَنَانُ |
| (Pferdekrankheit) - | مُخَاطُ | رُعَامُ
-ig a. | سَقَاوَةٌ * | حُنَانُ | حَنْبُ
| رَاعِمُ | خَانِبُ | أَدْنُ

Rübe s. f. جَزْرَةٌ coll. | eine -
| سَلْجَمُ | فُجْلُ | لِفْتُ (weiße) -
- | شَمَنْدَرُ (rote) -

Rubel s. m. نَوْعٌ مِنَ نُقُودِ رُوسِيَا

Rubin s. m. min. يَاقُوتٌ أَحْمَرٌ

Rüböl s. n. زَيْتٌ مِنَ بِنْرِ السَّلْجَمِ
Rübsamen s. m., Rübsen بِنْرُ
السَّلْجَمِ

ruchbar a. مَعْلُومٌ | شَائِعٌ | جَاهِرِيٌّ

ruchlos a. -igkeit | خَبِيثٌ | شَقِيٌّ
s. f. خَبَاثَةٌ | خُبْتُ

Ruch s. m. هَزٌّ | رَجْفَةٌ

Rück-antwort s. f. -blich | جَوَابُ
s. m. نَظَرٌ إِلَى وَرَاءِ

rücken va. etw. h. | vn. von
der Stelle - | تَقَدَّمَ - | نَحَرَكَ

Rücken s. m. | ظُهُورُ pl. ظَهْرُ -
| مَوْخَرٌ | ظَهْرُ (einer Sache)
-wenden | أَدْبَرَ | jm. den -wenden
s. | خَيْطُ الرَّقَبَةِ s. n. -marf | فَارَقَ

wirbel s. m. فُقْرَةٌ | شَلِيلٌ | نُحَاعُ
pl. فُقْرَاتُ u. فُقْرٌ

Rück-erinnerung s. f. f. Erinnerung

-fahrkarte s. f. تَذَكُّرَةُ الذَّهَابِ

-fahrt s. f. | تَذَاكِيرُ pl. وَالْإِيَابِ

-fall s. m. (bei

Krankheiten) رُدَاعٌ | مُعَاوَدَةُ الْمَرَضِ

-- (bei Verbrechen) | هَيْضَةٌ | نَكَاسٌ

تَكَرَّرَ الذَّنْبُ | رُجُوعٌ إِلَى الْخَطَاةِ

وَاقِعٌ ثَانِيًا فِي ذَنْبٍ a. -fällig

-frage s. f. | مُشَاوَرَةٌ | -gabe s. f.

-gang s. m. | إِعَادَةٌ | إِرْجَاعٌ | رَدٌّ

-gängig a., etw. -- | انْحِطَاطٌ

أَبْطَلَ هـ | رَجَعَ i عن machen

-grat s. m. | صُلْبٌ | سِلْسِلَةٌ

ارْتَكَنَ | عَضُدٌ | -halt s. m. | الظُّهْرُ

بِخُلُوصٍ | مُخْلِصٌ -- | سَنَدٌ | ohne

-fauf s. m. | الشِّرَاءُ ثَانِيًا

s. f., -funft s. f. | رُجُوعٌ | -läufig a.

عَلَى | -lings adv. | رَاجِعٌ إِلَى وَرَاءِ

fallen -- | عَلَى قَفَاةٍ | ظَهْرُهُ

-nahme s. f. | إِسْتَنْقَى عَلَى الْقَفَاةِ

إِرْتِدَادٌ | -prall s. m. | إِرْجَاعٌ

-reise s. f. | انْعِكَاسٌ | الصَّدْمَةُ

إِرْتِدَادٌ | -schlag s. m. | إِيَابٌ | رُجُوعٌ

عَوَاقِبُ pl. عَاقِبَةٌ -- | الصَّدْمَةُ | bld.

pl. خَطْوَةٌ إِلَى وَرَاءِ | -schritt s. m.

خطوات | bld. - | تَأَخَّرَ - | schrittler
 s. m. | المَتَأَخَّرِ فِي آرَائِهِ | -schrittlich
 a. | مُرَاعَاةَ | -sicht s. f. | مُتَأَخَّرَ |
 | اِعْتِبَارِ | auf jn. - -
 | رَاعَى | aus - - auf
 | اِعْتِبَارًا لِ | -sichtlich
 | بِنَاءٍ عَلَى | praep. c. gen. | بِخُصُوصِ |
 | مُرَاعَاةَ | -sprache
 | مُحَادَثَةٍ | s. f. | مُشَافَهَةٍ |
 | حَادَثٍ | mit jn. - - nehmen &
 | قَاوِلٍ | stand s. m. | شَافَهُ &
 | بَقِيَّةِ | بَقِيَّةِ | (مِنِ الدِّينِ خُصُوصًا)
 | تَأَخَّرَ | ständig
 | بَقِيَّةِ | (مِنِ الدِّينِ خُصُوصًا)
 | -prall | -tritt s. m.
 | اِسْتِعْفَاءِ | (عَنِ الوَظِيْفَةِ) (vom Amt)
 | اِلَى الخَلْفِ | -wärts adv.
 | رُجُوعِ | -weg s. m. | -wirfen vn.
 | اِعْكَسَ | اِعْكَسَ | رَدَّ | u | فِعْلٍ جِرْمِ
 | رَدَّ | -wirkung s. f. | فِعْلٍ جِرْمِ
 | اِعْكَسَ | -zug s. m. | فِعْلٍ جِرْمِ
 | رُجُوعِ.

Rüde s. m. pl. كَلْبٍ كَبِيْرٍ لِلصَّيْدِ
 كِلَابِ.

rüde a. غَلِيْظٌ | خَشِيْنٌ.

Rudel s. n. جَمَاعَةٌ مِنْ
 الأيَّامِ العِ.

Ruder s. n. pl. مِقْدَافٍ |
 (Steuer-) | مَجَادِيْفٍ | pl. مَجْدَافِ
 | تَوَلَّى | am - fein, sitzen | يَدِ الدَّفَّةِ
 | زَوْرَقٍ | boot s. n. | زِمَامِ الحُكْمِ
 | زَوَارِقِ | pl. مَقَادِيْفِ | -er s. m.,
 | قَدَّافِ | -fuecht s. m. | قَدَّافِ |
 | جَذَفَ | -pinne | جَذَفَ | i | قَذَفَ | i
 | قَبْضَةَ الدَّفَّةِ | يَدِ الدَّفَّةِ | s. f.

Ruf s. m. | دُعَاءِ | نِدَاءِ | (Stimme)
 | صُرَاخِ | (Schrei) | هَتَافِ | صَوْتِ
 | صِيَاخِ | (Seemund) | صَرَخَةٍ
 | دِكْرٍ عِنْدِ النَّاسِ | صِيْتِ
 | دَعَا | u | نَادَى | ندا & u
 | نَدَى | zu Hilfe -
 | اِسْتَنْغَاثِ | Gott hat ihn
 | تَوَقَّاهُ | - vn. | الله | zu sich gerufen
 | صَاخِ | i | صَرَخِ | u | زَعَقِ | a
 | مُنَادٍ | s. m.

Rüffel s. m. pl. مَلَامَةٌ |
 | وَبَّغَ | u | تَبَيَّكَيْتِ | -n va. jn. &
 | بَكَّتْ | &

Rüge s. f. f. | -n va. etw.
 | وَبَّغَ | u | هِ | هِ

Ruh, Ruhe s. f. | اِسْتِرَاحَةٌ | رَاحَةٌ |
 | اِسْكُونِ | sich zur | اِسْتَعْفَى |
 | اِسْتَعْفَى | - setzen | عَنِ الوَظِيْفَةِ
 | اِسْتَعْفَى | - laß mich in | اِسْتَعْفَى |

|فِر. | تَدَشُّ * | تَجَشُّوْء | جُشَاءة
 تَدَشُّ * | تَجَشَّأ | -en vn. | تَقَرَّع *
 |فِر. | تَقَرَّع * äg.
 Rum s. m. عَرَقِ السُّكَّر *.
 Rummel s. m. | ضَجَّة * | عَفْشَة
 عَفْشَة.
 Rumor s. m. | ضَجَّة | -en vn. قَرَقَع.
 Rumpel-kammer s. f. | عَرَضِيّ | -fasten
 s. m. | عَجَلَة قَدِيْمَة رَدِيْعَة | -n vn.
 قَرَقَع.
 Rumpf s. m. | بَدَن (بِلا الأَعْضَاء والرَّأْس) |
 pl. | أَلْوَح (Schiffs-) | - | أَبْدَان pl.
 المَرْكَب.
 rümpfen va. die Nase, das Maul
 | تَشْرُر | بَوَز * | اِكْفَهَر | عَيْس a | تَشْرُر
 rund a. | اِسْتَدَار | تَدَوَّر | - | مُدَوَّر |
 | -herum | حَوْل | -heraus | تَكْلِيْف |
 | - | حَوْل | بِخُلُوص.
 Runde s. f. | تَدَوَّر | | أَدْوَار pl. | دَوْر |
 | دَائِرَة pl. | دَوَائِر | - | f. Patrouille |
 in die -, in der - | دَوْرًا | -.
 runden v., sich | تَدَوَّر - sich.
 Rund-gefang s. m. mus. | اَغْنِيَة ذات
 | أَدْوَار | -fahrt s. f., -gang s. m.,
 -reise s. f. | جَوْلَان | جَوْل فِي بَدَد |
 | مُدَوَّر (Sache) | -lich a. | فِي بَدَد
 | بَدِيْن | سَمِيْن (Person) | - | قَلِيْلًا

-[schreiben s. n. | مَنشُور | -[schrift
 s. f. | خَط مُدَوَّر مُسْتَقِيْم | -um
 adv. | حَوْل | -ung s. f. | تَدَوَّر |
 -weg | كَرْوِيَة | اِسْتِدَارَة | تَدَوِيْر
 adv. | بِخُلُوص | بِلا تَكْلِيْف.
 Runen s. pl., Runenschrift s. f. | خَط
 قَدِيْم الجُرْمَانِيِيْن.
 Runfelrübe s. f. | شَمَنْدَر.
 Runzel s. f. | خُدَّة pl. | شَنْج |
 | -n va. (Stirn) | غُضُون pl. | غُضْن
 | runzlig a. | كَرَش ه | قَطَب ه
 | مُغَضَّن | مُشَنْج | مُخَدَّد.
 Rüpel s. m. | رَجُل غَلِيظ | غَيْبِيّ pl.
 | فِعْل الغَيْبِيّ | -ei s. f. | اَغْيِيَاء
 -haft a. | غَلِيظ الطَّبْع.
 rupfen va. | رِيْش الطَائِر | نَزَع |
 | سَفَع a - s | -n. bei den Haaren |
 | غَشَّ u - s | bld. | بِنَاصِيْتِه
 ruppig a. | رَثِيْث الثِيَاب | بَال |
 | بُخَل s. f. | -feit | بَخِيْل | دُون.
 Ruß s. m. | سِنَاج.
 Russe s. m. | مُسْكُوْبِيّ | رُوْسِيّ pl.
 مُسْكُوْب.
 Rüssel s. m. | خُرْطُوْم pl. | خَرَاطِيْم.
 ruffen vn. | سَوَّد | بِالسِّنَاج | ruffig a.
 مُسَوَّد | بِالسِّنَاج.

russisch a. | مُسْكُوبِي | رُوسِي

land n. pr. | رُوسِيَا | بلاد المُسْكُوبِ

Rüste s. f., zur - gehen (Sonne)

غَرَبَتِ الشَّمْسُ

rüsten va. etw. | هَيَّأَ ه | جَهَّزَ ه

| تَجَهَّزَ لِ | sich - zu | أَحْضَرَ ه | أَعَدَّ ه

| in. - mit | تَهَيَّأَ لِ | اسْتَعَدَّ لِ

| sich - | قَدَّ ه | بِالسِّلَاحِ | سَلَّحَ ه | ب

تَسَلَّحَ

Rüster s. f. bot. | دَرْدَارِ | شَجَرَةُ البَقِّ

بُوقِيصَا*

rüstig a. | قَوِيَّ | نَشِيْطِ | مُنْتَبِهِ

| قُوَّةَ | نَشَاطِ | -feit s. f. | شَدِيدِ

شِدَّةِ

Rüstfammer s. f. | مَخْزَنِ | الأَسْلِحَةِ

Rüstung s. f. (das Rüsten) | اسْتِعْدَادِ

(Waffen) | - | تَسَلَّحَ | اسْتِعْدَادَاتِ

أَسْلِحَةِ | pl. | سِلَاحِ

Rute s. f. | قَضْبَانِ | pl. | قَضِيْبِ | أَعْيَدِ

| مِقْرَعَةَ | (zum Züchtigen) | - | غَيْدِ

| - | (männliches Glied) | مِئْمَرَةَ

| قَضِيْبِ | (Maß) | - | دُكُورِ | pl. | ذَكَرِ

(مُقْيَاسِ قَدِيمِ)

rutschen vn. i | زَلِقَ | نَزَلَ | زَلِقَ

rütteln va. in. | هَزَزَ ه | هَزَّ ه

S

الحَرْفُ التَّاسِعُ عَشْرَ مِنْ حُرُوفِ | الحِجَاءِ

Saal s. m. | قَاعَاتِ | pl. | قَاعَةٌ*

| حُجْرٍ | pl. | حُجْرَةٍ | واسِعَةً | الأَسْتِقْبَالَ

مَقَاعِدِ | pl. | مَقْعَدِ

Saat s. f. | بَذُورِ | بَذَارِ | زَرَعِ

| مَزْرُوعَاتِ | -feld s. n., -land s. n.

| مَزْرَعَةٍ | pl. | مَزَارِعِ | -getreide s. n.,

-forn s. n. | Saat | -zeit s. f.

زَمَانِ الزَّرْعِ

Sabbat s. m. | سَبْتِ | نَهَارِ السَّبْتِ

Säbel s. m. | سَيْفِ | pl. | سَيْوْفِ

حُسامِ | مَنَاصِلِ | pl. | مُنْضَلِ

fachdienlich a. | مُنَاسِبِ

Sache s. f. | - | أَشْيَاءِ | pl. | شَيْءِ

(Angelegenheit) | مَصْلِحَةٍ | أُمُورِ | pl. | أَمْرِ

دَعْوَى | (Rechtsstreit) | - | مَصَالِحِ | pl.

| عَفْشِ | (Gepäck) | -n | pl. | دَعَاوِ | pl.

تَكَلَّمَ فِي | zur - kommen | حَوَائِجِ

نَفْسِ الأَمْرِ

Sach-enrecht s. n. | حُقُوقِ المَرْءِ فِي

| مُنَاسِبِ الأَمْرِ | -gemäß a. | مُلْكِ

-femmer s. m. | خَبِيرِ بِالأَمْرِ

-femtnis s. f., -funde s. f. | خِبْرَةَ

-fundig a. | خَبِيرِ | -lage s. f.

- sachlich a. gr. | حالة | حال الأشياء
 | موافق الموضوع | مناسب الأمر
 | مُحْتَصٍ بِالْمُلْكِ.
- Sächlich a. gr. | مُجَرَّدٌ | لا مُذَكَّرٌ ولا مُؤنَّثٌ.
- Sachregister s. n. | فِهْرِسْتُ | المواضيع
 pl. | فِهَارِسْ.
- sacht adv. | بِهَدْوٍ | بِخِفَّةٍ
 (leise) | - | بِصَوْتٍ خَفِيفٍ
 (langsam) | - | شَوِيَّةٌ شَوِيَّةٌ* | رُوَيْدًا | مَهْلًا.
- Sach-verhalt s. m. | -lage | -ver-
 ständiger s. m. | أَحَدُ أَهْلِ الْخَبْرَةِ
 | -walter s. m. | أَحَدُ أَهْلِ الثِّقَةِ
 pl. | وَكَلَاءِ.
- Sack s. m. | أَكْيَاسِ | pl.
 | زَكَائِبِ | pl. | زَكِيْبَةٌ* - (großer)
 | جِرَابِ | pl. | (lederner, Reise-)
 | جَيْبِ | (Tasche) | - | شَنْطَةٌ* | أَجْرِبَةٌ
 pl. | جُيُوبِ.
- Säckel s. m. | أَكْيَاسِ | pl.
- Sack-gaffe s. f. | رَدْبٌ | زُقَاقٌ لا يُنْفَذُ
 | أَحْسَنُ جِدًّا | -grob a. | أَزِقَّةٌ | pl.
 | -leinen s. n., -leine- | غَلِيظٌ جِدًّا
 | جَنْفَاصٌ* | خَنِيفٌ | wand s. f.
 | مَزْمَارٌ بِقَرْبَةٍ | -pfeife s. f. | خام*
 | حَمَّالٌ | -träger s. m. | مَزَامِيرِ | pl.
 | مَحَارِمِ | pl. | مَحْرَمَةٌ* | -tuch s. n.
 | مَنَادِيلِ | pl. | مَنَادِيلِ.
- Säemann s. m. | زَارِعٌ | pl. | زُرَاعٌ | u.
- Säemaschine s. f. | زَارِعُونَ | زَرَّاعٌ |
- | زَرَعٌ | a. | ه | väen va. | مِدْرَّةٌ |
- | بَدْرٌ | u.
- Saffian s. n., Saffianleder s. n.
- | جِدُّ | المَعَزِ | المَدْبُوعِ | | سِخْتِيَانِ*
- Safran s. m. | زَعْفَرَانٌ | | etw. mit -
 | زَعْفَرٌ | ه | färben.
- Saft s. m. (der fruchte) | ماءُ الفَوَاكِهِ |
- | - | (des fleisches) | زُومٌ* | عَصِيرِ
- | ماءٌ | (allgemein) | - | مَرَقَةٌ | مَرَقٌ
- | -ig | سَوَائِلِ | pl. | سَائِلِ | مِيَاهِ | pl.
- | كَثِيرِ | الماءِ | (الفَوَاكِهِ) | (Obst 2c.) | a.
- | - | (stark zweideutig) | دَسِيمِ | bld.
- | باردٌ | - | bld. | تَفَهُ | a. | -los | فَاخِشِ
- | -reich a., -voll a. | بلا مَلَاحَةٍ |
- | كَثِيرِ | العَصِيرِ | كَثِيرِ | الماءِ.
- Sage s. f. | نَقْلٌ | | تَسَامُعٌ | | رِوَايَةٌ.
- | أَحَادِيثِ | pl. | حَدِيثٌ | | تَبْلِيغٌ | عَنِ
- | سَمْعِيَّاتِ.
- Säge s. f. | مَنَاشِيرِ | pl. | مَنَشَارٌ | -fiſch
- | نَوْعٌ | مِنَ | سَمَكِ | بَحْرِيٍّ | s. m.
- | -mühl s. f. | نَشَارَةٌ | -mehl s. n.
- | مَنَشَرٌ.
- sagen va. etw. | ه | u | قال | man sagt
- | يُقَالُ | | was sagst Du dazu? | مَا
- | etw. - wollen | رَأَيْكَ فِي هَذَا

- i ھ | عَنِى | Dank - jm. ۛ u شَكَرَ | Salamander s. m. zool. سَمَنْدَرُ |
 gut - für jn. تَكْفَلُ عَنْهُ | bei عَرُوسِ الشِّتَاءِ *
 sich -, zu sich - فى نَفْسِهِ - u قال | Salat s. m. * | خَسْ | سَلَاطَةٌ *
 es hat nichts zu - هَذَا لَيْسَ - | هذا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 لا طَائِلَ فِيهِ | بِمِهِمَّ | KENNIGER | كَثِيرُ الْكَلَامِ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 fägen va. etw. ھ u نَشَرَ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Sagen-forschung s. f. عِلْمُ الْأَحَادِيثِ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 -haft a. مَنقُولٌ | نَقْلِيٌّ | سَمَاعِيٌّ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 -funde s. f. f. -forschung. هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Sägespäne s. pl. نُشَارَةٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Sago s. m. اَلْبَبُ نَخْلُ الْهِنْدِ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 نَخْلٌ | كَثِيرَةٌ * | äg. | -palme s. f. نَخْلٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 نَخْلَةٌ - coll. eine | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Sahara s. f. n. pr. صَحْرَاءُ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Sahne s. f. رَغْوَةٌ * | قِشْطَةٌ * | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Saison s. f. مَوْسِمٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Saite s. f. وَتْرٌ | pl. أَوْتَارٌ | -nstrument | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 s. n. مَزْهَرٌ | pl. مَزَاهِرٌ | عُودٌ | pl. | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 u. عِيدَانٌ | -nspiel s. n. | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 نَقُّ عُودٍ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Sakrament s. n. christl. سِرٌّ (الِدِينِ) | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 pl. أَسْرَارٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Sakristan s. m. christl. خَادِمُ كَنِيسَةٍ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 | وَاوْفَهُ | قَنْدَلْفَتْ * | سَكْرِسْتَانِي * | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Sakristei s. f. christl. خِزَانَةٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 سَكْرِسْتِيَا * | كَنِيسَةٍ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salomon s. m. zool. سَمَنْدَرٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 عَرُوسِ الشِّتَاءِ * | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salat s. m. * | خَسْ | سَلَاطَةٌ * | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salbader s. m. كَثِيرُ الْكَلَامِ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 -ei s. f. هَذَا لَيْسَ - | -n vn. هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salbe s. f. مَرَاهِمٌ | pl. مَرَاهِمٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 pl. أَذْهَانٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salbei s. f. شَالِبِيَّةٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 النَاعِمَةُ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 salben va. jn. mit ۛ u دَهْنٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 | مَسَّحَ | die Gesalbten des | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Herrn | المَلُوكِ وَالْكَهَنَةِ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salbung | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 s. f. دَهْنٌ | مَسَّحَ | bld. - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 الِينِ الْكَلَامِ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 عُدُوبَةُ الْكَلَامِ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Saldo s. n. الفَرْقُ بَيْنَ مَا عَلَى التَّاجِرِ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 رَصْدٌ * | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Saline s. f. مَعْمَلُ الْمِلْحِ | مَلَّاخَةٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 salisch a., -es Gesetz شَرِيعَةٌ تَمْنَعُ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 النِّسَاءِ مِنْ كُرْسِيِّ الْمَلِكِ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salm s. m. حُوتٌ سُلَيْمَانٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 pl. صَوْمُونٌ * | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salmiak s. m. -geist s. m. | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 رُوحُ النُّشَادِرِ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salomo n. pr. سُلَيْمَانٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salon s. m. f. Saal. | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |
 Salonichi n. pr. سَلَانِيكٌ | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - | هَذَا لَيْسَ - |

- Sarazene s. m. | سَمْعِيْلِي | sarazenisch
a. | سَمْعِيْلِي |
- Sardelle s. f., Sardine s. f. * | سَرْدِيْن |
سَمَكٌ بَحْرِيٌّ صَغِيْرٌ | سَارِدِلًا *
- Sarg s. m. | تَوَابِيْت | pl. تَوَابِيْت
صُنْدُوْقٌ | تَوَاوِيْس | pl. تَوَاوِيْس
صَنَادِيْقٌ | pl. المِيْت
- Sarkasmus s. m. | سَخْرِيَّة | sarkastisch
a. | سَخْرِيٌّ |
- Sarkophag s. m. | ضَرِيْحٌ | pl. ضَرِيْحٌ
تَوَاوِيْس | pl. تَوَاوِيْس
- Satan s. m. | شَيْطَانٌ | pl. شَيْطَانِيْنَ
شَيْطَانِيٌّ | a. | اِبْلِيْسِي |
- Satin s. m. | نَسِيْجٌ خَرِيْرٌ اَطْلَسٌ
- Satire s. f. | اَهْجِيَّةٌ | pl. اَهْجِيَّةٌ | اَهْجُوَّةٌ
هَجَائِيٌّ | هَجَائِيٌّ | a. | هَجْوِيٌّ | satirisch
- Satisfaktion s. f. | اِسْتِغْفَارٌ | تَكْفِيْرٌ
- Satt a. | شَبْعَانٌ | f. شَبْعِيٌّ
اَلْوَنٌ مُشْرَبٌ | اَلْوَنٌ مُشْبَعٌ - e farbe
- sein od. werden, sich - essen
a | تَشْبَعٌ | in. - machen
s | اَشْبَعٌ | sich an etw. nicht -
sehen können | مِّنْ يَشْبَعُ مِّنْ رُّوَيْتِهِ
- Sattel s. m. | سَرْجٌ | pl. سُرُوْجٌ
- | اَرْحُلٌ | pl. اَرْحُلٌ | (Kamel-)
- | بَرْدَعَةٌ | pl. بَرْدَعَةٌ | (Maultier-, Esel-)
- Sandboden s. m. | -boden s. m. | كُوْمَةٌ | pl. كُوْمَةٌ رَمْلٌ
مِرْمَلَةٌ | -büchse s. f. | رَمْلَةٌ
- Sandelholz s. n. | صَنْدَلٌ
- Sand-faß s. n. | مِرْمَلَةٌ | -ig a. | كَثِيْرٌ
- torte | رَمْلَةٌ | -form s. n. | الرَّمْلُ
-uhr s. f. | اَنْوَعٌ مِّنَ الْفَطَائِرِ | s. f.
سَاعَةٌ رَمْلِيَّةٌ
- (von Charakter) | - | اَلِيْنٌ | نَاعِمٌ | sanft a.
لَطِيْفٌ | اَنْيْسٌ | حَلِيْمٌ
- Sänfte s. f. | مَحْمَلٌ | pl. مَحَامِلٌ
| حَدَائِجٌ | pl. حَدَاجَةٌ | نَحْتٌ رَوَانٌ *
هَوَاجٌ | pl. هَوَاجٌ | (Kamel-) -
- Sanftheit s. f. | لَطَافَةٌ | | حِلْمٌ | اَلِيْنٌ |
- | اَلَانَ ؤ | اَلِيْنٌ ؤ | in. va. | fänftigen
| fänftlich a., | fänftiglich a. | لَطْفٌ ؤ
f. | sanft.
- Sanft-mut s. f. | حِلْمٌ | اَلِيْنٌ | النَّفْسِ
حَلِيْمٌ | اَلِيْنٌ | النَّفْسِ | a. -mütig
- Sang s. m. | غِنَاءٌ
- Sänger s. m. | مُغَنِّيَةٌ | -in s. f. | مُغَنِّيٌّ
- Sanguifer s. m. | اِنْسَانٌ دَمَوِيٌّ
| sanguinisch a. | دَمَوِيٌّ
- Sanitätsrat s. m. | مُسْتَشَارٌ (Titel)
الصِّحَّة (لقب)
- Sanskrit s. m. | لُغَةٌ الْبَرَاهِمَةِ
- Saphir s. m. | يَاقُوْتٌ اَزْرَقٌ | min.
لاَزُوْرُدٌ | صَغِيْرٌ

Schabernack s. m., jm. einen - thun,
spielen & خَادَع.

schäbig a. (Kleid) | بال (ثوب) |
| بَخِيل (geizig) - | رَثِيث | مُتَلَف
-feit s. f. | رَثَائَة -- | بُخَل (Geiz).

Schablone s. f. قالب pl. قَوَالِب.

Schabracke s. f. جُلّ pl. أَجْلَال |
شُعْر pl. شِعَار.

Schach s. n. شِطْرُنْج | Schach dem
König! كِشْر الشاه | jm. im -
halten | مَنَع a & عَنِ الْعَمَل | jm.
- bieten & قَاوَم | عَارِض & -brett
s. n. رُقْعَة الشِطْرُنْج.

Schacher s. m., Schacherei s. f.
أَسْحَات pl. سُحِت.

Schächer s. m. لُصُوص pl. لَصّ |
حَرَامِيَة pl. حَرَامِيّ *

schachern vn. a. | سَحِت | سَحِت.

schachmatt a. | مات الشاه | bld. -
ضَعِيف.

Schacht s. m. فُوهَات pl. فُوهَة المَعْدِن.

Schachtel s. f. حُقَّة | عُلْب pl. عُلْبَة |
| عَجُوز - eine alte | حُقَق pl.

دَنْب | دَلْبُوْث s. m. bot. -halm

حَشِيْشَة الطُوغ | الخَيْل.

schächten va. Tier | دَبَح a الحيوان

Schächter s. m. | في طَرِيْقَة اليَهُود
جَزَار عِنْد اليَهُود.

schade! interject. * | يا خَسَارَة | Schade

s. m., Schaden s. m. | ضَرَّر | أَذِيَّة

jm. - | خُسْرَان | خَسَارَة | ضَرَاء

| خَسَّر & | ضَار & | ضَرَّ & thun

| تَضَرَّر مِن | an etw. - leiden

أَذَى a | ب | خَسِر a مِن

Schädel s. m. جُمُجْمَة pl. جَمَاجِم.

schaden vn. jm. & | ضَرَّ & | ضَارَّ &

| تَعْوِيض s. m. -ersatz | آذَى & | سَاء &

| مُعَاوَضَة | عَوْض | -freude s. f.

شَامِت a. -froh | شَمَاتَة.

schadhaft a. | مُتَلَف * | مُعْطَل | مُخَرَّب

igfeit s. f. | تَلَف | يَيْد | خَرَاب.

schädigen va. jm. & | ضَرَّ & | أَضَرَّ &

Schädigung s. f. ضَرَر.

schädlich a. | مُضِرّ | ضَارّ | مُؤْد | -feit

s. f. ضَرَر.

Schädling s. m. | مُضِرّ | حَيَوَان أَوْ نَبَات

عَوْض | schadlos a., jm. - halten für

-haltung | عَاوِض & | مِّن | & مِّن

س. f. مُعَاوَضَة | تَعْوِيض.

Schaf s. n. | خِرْفَان pl. | خُرُوف pl. غَنَم

شَاة | نِعَاج pl. | نَعْجَة | أَغْنَام pl.

شِيَاه u. شَاء pl.

Schäfer s. m. | رَاع pl. | رَعَاة | غَنَام |

- gedicht s. n. قَصِيدَةٌ فِي عَيْشَةٍ
 -hund s. m. | قَصَائِدُ pl. الرُّعَاةُ
 -in s. f. رَاعِيَةٌ | نَوْعٌ مِنَ الْكِلَابِ
 -stunde s. f. زَمَانٌ | رَاعِيَاتُ pl.
 العِشْقُ.
- schaffen va. (erschaffen) jm. u. etw.
 | عَمِلَ a هـ | خَلَقَ هـ و هـ
 (bringen) - | اِشْتَفَلَ | فَعَلَ a هـ
 | اَحْضَرَ هـ | اَتَى i بٍ | etw.
 | اَنَالَ هـ هـ - | etw. viel zu -
 | اَثَعَبَ هـ | ثَقَّلَ عَلَيْهِ | machen
 هذا - | لا يَعْصِنِي | لا يَخْصِنِي
 damit habe ich nichts zu
- Schaffner s. m. | مُسْتَوِفٍ | مُكْصِلٍ |
 (Eisen- | مُدَبِّرٍ | وُكَلَاءُ pl. وَاكِلٍ
 -in s. f. | كُمْسَارِيَّ الوَابُورِ * (Eisen-
 | مُدَبِّرَةٌ | مُسْتَوِفِيَةٌ | مُكْصِلَةٌ
 bahu-)
- Schafgarbe s. f. bot. | حَزَنْبَلٌ |
 القَنْدِيلُ.
- Schafott s. n. | مَشَانِقُ pl. | مَشْنَقَةٌ
 Schafskopf s. m. | رَجُلٌ بَلِيدٌ
 Schaft s. m. einer Säule | سَاقٌ عَمُودٍ
 | سِيقَانٌ u. | سُوقٌ pl. |
 | جَزُمَاتُ pl. | جَزْمَةٌ
- Schafzucht s. f. | تَرْبِيَّةُ الْغَنَمِ
 hafal s. m. zool. | اِبْنُ آوَى pl.
- وَعَاوَى pl. | وَعَوَعٌ | بَنَاتُ آوَى
 | وَاوَى *
 | هَارِجٌ * | مَارِحٌ | لَعُوبٌ s. m. Schäfer
 | تَهْرِيجٌ * | مُزَاخٌ | -ei s. f.
 | هَاوَلٌ هـ | مَارَحٌ هـ | mit jm.
 باردٌ | عَادِمٌ الطَّعْمِ | تَفِهٌ a. | schal
 قِشْرٌ s. f. (von Früchten) | Schale
 | قِشْرَةٌ | قَشُورٌ pl. | كَأْسٌ (-Trink-)
 | كُؤُوسٌ pl. | فَنِجَانٌ (-Kaffee-)
 | فَنَاجِيْنٌ pl. | كِفَّةٌ (-Wag-)
 | كِفَافٌ u.
 قَشَّرَ هـ | قَشَّرَ u هـ | schälen va. etw.
 | رَجُلٌ كَيْسٌ | شَيْطَانٌ s. m. Schalf
 | خَبِيثٌ | كَيْسٌ a. -haft
 | هَارِجٌ * | مُكْرَجٌ * | snarr s. m.
 | صَدَى | صَوْتُ s. m. Schall
 | صَاتٌ u | رَنَّ | رَنَّ | رَنِينٌ
 | لَهْرَةٌ s. f. | طَنَّ | دَوَى | عِلْمُ السَّمَاعِ
 | وَالْأَصْوَاتِ
 مَزَامِيرٌ pl. | مَزَامِرَةٌ s. f. Schalmei
 | تَصَرَّفَ فِي | تَصَرَّفَ vn. mit etw.
 | مَكْتَبٌ (البُوسَطَةُ العِ) | Schalter s. m. (Post-, Eisenbahn-)
 | حَيَوَانٌ ذُو قِشْرٍ s. n. Schaltier
 | سَنَةٌ كَيْسِيَّةٌ s. n. Schaltjahr
 | زَوَارِقُ pl. | زَوْرَقٌ s. f. Schaluppe
 | فَلَائِكٌ pl. | فُلُوكَةٌ *

- Scham s. f. حَيَاءُ | خَجَلٌ | حِشْمَةٌ | Schandfleck s. m., Schandmal s. n. مَعَابٌ | عَيْبٌ.
- alle - verloren haben | سِئْرٌ | عِذَارٌ | عَوْرَةٌ (-teile) - | خَلَعٌ a العِذَارُ | فِضِيحٌ | شَنِيعٌ | قَبِيحٌ | schändlich a. عَارٌ s. f. - | مَرْدُولٌ | فَاحِشٌ | فَضَائِحٌ pl. | فَضِيحَةٌ | رَذُلٌ | فَضَاحَةٌ | قَبَائِحٌ pl. | قَبِيحَةٌ.
- Schämen v. sich einer Sache gen. | اسْتَكْبَى بَ أَوْ مِنْ | od. über etw. | اسْتَكْبَى بَ أَوْ مِنْ | Schand-maul s. n. | نَمَامٌ | -pfahl | عَمُودٌ | لِمُذْنِبِينَ s. m., -säule s. f. | فَوَاحِشٌ pl. | فَاحِشَةٌ s. f. - | قَبَائِحٌ pl. | قَبِيحَةٌ.
- Schamhaft a. | خَجَلٌ | حِشْمَةٌ | مُسْتَكْبِيٌّ | خَجَلٌ | خَجْلَانٌ | حَيَاءٌ s. f. | -igkeit s. f. | عِذَارٌ | حِشْمَةٌ | خَجَلٌ.
- Schamhaft a. | حِشْمَةٌ | عِذَارٌ | حِشْمَةٌ | Schamlos a. | سَفَاهَةٌ | وَقَاحَةٌ | سَفَاهَةٌ | وَقَاحَةٌ.
- Schamrot a. | أَحْمَرٌ | حَيَاءٌ | - werden | أَحْمَرٌ | حَيَاءٌ | Schamröte | أَحْمَرٌ | الْوَجْهُ | حَيَاءٌ | Schamteile | أَحْمَرٌ | حَيَاءٌ | s. f. | عَوْرَاتٌ pl. | عَوْرَةٌ s. pl.
- Schandbar a. | آتٍ | بَعِيْبٌ | فَاضِحٌ | آتٍ | بَعَارٌ | Schandbube s. m. | رَجُلٌ | آتٍ | بَعَارٌ | حَبِيْثٌ.
- Schande s. f. | عَارٌ | عَيْبٌ | etw. zu | عَارٌ | عَيْبٌ | -n machen | أَفْسَدَ هُ | أَتْلَفَ هُ | zu -n werden | عَابَ | i | تَلَفَ | ا | فَسَدَ | u.
- Schänden va. etw. | عَيَّرَ هُ | أَعَابَ هُ | عَيَّرَ هُ | عَيَّرَ هُ | - in. | فَضَحَ | هُ | شَنَّعَ هُ | - | فَضَحَ | هُ | آبْنَةً | chen | فَضَحَ | هُ | آبْنَةً | chen.
- Schar s. f. | جَمَاعَةٌ | | - (Soldaten) | فِرْقَةٌ | pl. | - (von Tieren) | رَسَلٌ | pl. | أَرْسَالَ.
- Scharade s. f. | لُغْزٌ | pl. | أَلْغَازٌ.
- Scharbock s. m. med. | فَسَادُ الدَّمِ.
- Scharen va. Leute | جَمَعَ | ا | جَمَاعَةً | | -weise adv. | اجْتَمَعَ | - | أَرْسَالَ.

scharf a. (vom Messer) قاطع | - (v. Speisen) حادّ | - (vom Wind zc.)

قاسٍ (streng) | - | شديد | قوى

-es Gesicht, Blick عَيْنٌ بَصِيرَةٌ

| حازق (Verstand) | - | عَيْنٌ بَارِقَةٌ

-blick s. m. ذكاء | فِرَاسَةٌ

-blickend a. ذكىّ | فِطِنٌ

Schärfe s. f. (des Schwertes) حَدّ

| حَمَز (der Speisen) | - | السيف

(Strenge) | - | حُدُودَةٌ * | حَرَاةٌ

| سُرْعَةُ الْحَوَاسِ der Sinne | - | جَفَاءٌ

-n va. etw. ه | حَدّ ه | سَنّ ه

قَوَى ه

Scharf-richter s. m. سَيِّفَةٌ pl. سَيَافٍ

pl. قَوَاسٍ | -schütze s. m. | جَلَادٌ

-sicht | - | صَيَّادٌ بِالْبُنْدُقِيَّةِ | قَوَاسَةٌ

s. f., -sichtigkeit s. f. | -sinn |

ذكىّ | بعيد البصر a. -sichtig

-sinn s. m., -sinnigkeit s. f. | ذكاء

فِطِنٌ | ذكىّ a. -sinnig | فِطْنَةٌ

Scharlach s. m. لَوْنُ الْقَرْمِزِ | -

-en a., | حُمَى حَصْبِيَّةٌ (-fieber)

-rot a. | قِرْمِزِيّ | -fieber s. n.

حُمَى حَصْبِيَّةٌ

Scharmügel s. n. pl. وِقِيعةٌ | كِفَاحٌ

وَقَائِعٌ

Scharnier s. n. pl. مُفَصَّلَاتٌ * | مُفَصَّلَةٌ

Schärpe s. f. | - | اَوْشَمٌ pl. | اَوْشَاحٌ (Armbinde) | علائق pl. | علاقة

سcharren vn. | - | حَرَكَ رِجْلَهُ | - | اَحَثَّ

فَحَصَّ a. | - | التُّرَابُ (الدجاج) | التُّرَابُ | مثلاً

Scharte s. f. (eines Messers) ثَلْمٌ

| - | خَلَّةٌ | ثَلْمَةٌ | السِّكِّينِ | خَلَّ

pl. | فُلُولٌ pl. | فَلَ

Schartefe s. f. | شَيْءٌ قَدِيمٌ | شَيْءٌ

عَتِيقٌ

schartig a. | - | مَثْلُومٌ | اَفَلَّ | دُوْ خَلَّ | مَثْلُومٌ

مَفْلُولٌ

Scharwache s. f. | طَائِفٌ | عَاسٌ pl.

كِرْمُونٌ * | عَسَّاسٌ | عَسَسَ

Scharwerf s. n. سُحْرَةٌ

Schatten s. m. | ظِلٌّ pl. | ظِلَالٌ u.

-bild | - | اِثْرٌ | ظَاهِرٌ - | اَطَّلَالٌ

-gang s. n. | - | اَحْيَلَةٌ pl. | خِيَالٌ

s. m. | -haft a. | شُورَةٌ مُظَلَّلَةٌ

رَسْمٌ دَائِرَةٌ ظِلٌّ | -riß s. m. | بِظَلٍّ

شَبَحَ | سُدُوفٌ pl. | سَدَفٌ | الوَجْهَ

pl. | -seite s. f. | اَشْبَاحٌ

| - | اَشْبَاحٌ | - | اَشْبَاحٌ pl.

| - | اَشْبَاحٌ | - | اَشْبَاحٌ pl.

| - | اَشْبَاحٌ | - | اَشْبَاحٌ pl.

| - | اَشْبَاحٌ | - | اَشْبَاحٌ pl.

| - | اَشْبَاحٌ | - | اَشْبَاحٌ pl.

- تَنَوُّع اللُّون | اِخْتِلَاف اللُّون |
فَرَق لا يَكاد يُدْرَك.
- [schattig a. مُظَلَّ | مُظَلَّ | مُتَظَلِّل |
ظَلِيل.
- Schatulle s. f. صُنْدُوق الدَّرَاهِم |
فُونِغِلِيْخَة - صُنْدُوق المَلِك.
- Schatz s. m. خَزَائِن pl. خِزَانَة |
pl. دَخِيْرَة | خَزْنَة | كُنُوز pl. كُنُز
(Geliebter, Geliebte) - | دَخَائِر
-amt s. n. | المَحْبُوبَة | المَحْبُوب
بَيْت مال المَمْلَكَة | خِزَانَة المَمْلَكَة.
- [schätzbar a. مُحْتَرَم | أَهْل لِلأَعْتِبَار.
- [schätzen va. etw. ه | سَعَّرَه | خَمَّن ه
| اِحْتَرَم ه (hoch-) | jn. - | ثَمَّن ه
حَسِب a - sich glücklich | اِعْتَبَرَ ه *
-swert a. f. | نَفْسُهُ سَعِيدًا
[schätzbar.
- Schatz-kammer s. f. f. -amt | -meister
s. m. خَرَاج s. f. | خَزْنَدَار -ung s. f.
ضَرَائِب pl. ضَرِيْبَة.
- Schätzung s. f. تَسْعِيْر | تَحْمِيْن
| اِحْتِرَام (-) | تَحْمِيْن
| اِعْتِبَار *.
- Schau s. f. عَرَض | مَنظَر | نَظَر
| مَعْرِض | etw. zur - stellen ه | أَرَى ه
| عَرَض i ه | etw. zur - tragen
- bühne s. f. | تَظَاهَرِب | أَظْهَرَ ه
مَرَايِح pl. مَرَسَح *.
- Schauder s. m. قَشَعْرِيْرَة |
مُرْعِب a. -haft | اِرْتِعَاد | اِرْتِعَاش
| اقْشَعَرَ -n vn. | مُخِيْف | هَائِل
| اِرْتِعَش | اِرْتَجَف | -voll a. f. -haft.
- [schauen va. jn. u. etw. ه و ه a رَأَى
نَظَرَ u إِلَى.
- Schauer s. m. (Schauder) قَشَعْرِيْرَة |
رَشَّة | مَطْرَة (-) | رَعِشَة -
| مَحَلَّ لِلعِجَال النح (-) |
| هَائِل | مُرْعِب a. -lich a. -ig a.,
| اقْشَعَرَ -n vn. | مُخِيْف.
- Schaufel s. f. مِجَارِف pl. مِجْرَفَة |
جَرَف u. -n vn. | جَوَارِف pl. جَارُوفَة.
- Schaufenster s. n. شَبَّاك لِعَرَض
شَبَائِيك pl. البَضَائِع.
- Schaukel s. f. مَرْجِيْحَة كَبِيْرَة * |
مَرْجُوحَة | رَجَّاحَة | أَرْجُوحَة
| هَزَّ u ه و ه | -n va. jn. u. etw.
| اِرْتَجَج | تَرَجَّج - - , sich - -
-vn. | اهْتَزَّ | فَرَس s. n. | تَمَائِل
| مِّن خَشَب لِلعِب الأَطْفَال
| كُرَاسِي pl. كُرَاسِي هَزَّاز s. m. -stuhl
- Schaum s. m. رَغْوَة | زَبَد.
| اَرغَى | اَزْبَد |
Schaum-gold s. n. مُصَفَّغ لِامِع

- wasser s. n. ماء الفِضَّة | -weg s. m. مَفَارِقِ الطَّرِيقِ pl. مَفَارِقِ.
- Scheidung s. f. تَفْرِيقِ | - (von einer Frau) طَلَاقِ.
- Scheiß s. m. شَيْوُخِ pl. شَيْوُخِ.
- Schein s. m. لَمَعِ | ضَوْءِ (Licht) | الظاهر (Anschein) - | نور | لمعان
etw. zum - thun ب | تظاهر |
- komm. سَنَدَاتِ pl. سَنَدِ.
- Scheingeld (Papiergeld) | اوراق pl. ورَقِ المعاملة (Papiergeld) | وصل * | اقرار بالقبض
-bar a. مُمَوَّهَ | مُصَنَّعِ | ظاهر |
scheinen vn. لَمَعِ a | اضاء | ضاء |
u لاح | - (den Anschein haben)
a ظاهر | تظاهر | es scheint mir
يَظْهَرُ لِي.
- scheinheilig a. مُنَافِقِ | مُدَارِ | مُرَاءِ |
-heit s. f. مُدَارَاةِ | مُرَاءَاةِ | رِثَاءِ |
مُنافَقَة.
- Scheinkauf s. m. شِرَاءِ مُصَنَّعِ | -tot
a. مَيِّتِ فِي الظاهرِ.
- Scheiße s. f. خُرَاءِ | خِرَاءِ | scheißen
vn. a خَرَّى | Scheißer s. m. خَرَاءِ.
- Scheit s. n. حَطَبَاتِ pl. حَطَبَة وَحَطَبِ.
- Scheitel s. m. مَفْرِقِ | اَعْلَى الرَّأْسِ |
-n va. Haar pl. الشَّعْرِ
-punkt s. m. سَمْتِ | فرق u الشَّعْرِ
- Scheiterhaufen s. m. كَوْمَة حَطَبِ
pl. كُومِ.
- scheitern vn. (Schiff) مَسَّ a قَعَرَ
| bld. - | اِنْكَسَرَ | البَجْر (مَرْكَبِ)
i فَشَلَ * a | تَخَيَّبِ | خَابِ |
- scheel a. f. scheel.
- Schellack s. m. صَمَغِ اللِّكِ.
- Schelle s. f. اَجْرَاسِ pl. جَرَسِ | -n
vn. دَقَّ u الجَرَسِ.
- Schellfisch s. m. نَوْعِ مِنَ السَّمَكِ
الْبَحْرِيِّ.
- Schelm s. m. اُخْبَثَاءِ pl. خَبِيثِ
| اَكْبِيَّاسِ pl. كَيْسِ | اُخْوَانِ pl. خَائِنِ
-enstreich s. m., -enstück s. n.,
-erei s. f. اِخْتِلَ | اِخْدَاعِ |
| اِخْبِيثَة s. f. -in | مَكْرِ | غِشِّ
| اِخْبِيثِ a. -isch | كَيْسَة | خَائِنَة
كَيْسِ.
- Schellsucht s. f., schellsüchtig a. f.
Scheelsucht, scheelsüchtig.
- Schelte s. f. -n va. | اِعْتَابِ | تَوْبِيخِ
| عَاتَبِ s | وَبَّغِ s (tadeln) |
s u لام | بَكَتِ s | - (schimpfen)
u | سَبَّ u | شَتَمِ |
s. n. شَتِيْمَة | سَبَّ | تَوْبِيخِ
شَتَائِمِ.
- Schema s. n. دَسَاتِيْرِ pl. دُسْتُوْرِ *.

Schemel s. m. مَوَاطِيءُ pl. مَوَاطِئُ |
إِسْكَمَلَةٌ * | مَنَاصِبِ pl. مَنَاصِبِ
| yr. | * تَرْجِيلِ äg.

Schemen s. m. طَيْفِ.

Schenke s. f. حَائُوتِ pl. حَائُوتِ |
خَمَّارَةٌ.

Schenkel s. m. أَفْخَالِ pl. أَفْخَالِ | - des
Winkels أَضْلَاعِ pl. أَضْلَاعِ الزَّاوِيَةِ
| -bein s. n., جَوَانِبِ pl. جَوَانِبِ
-knochen s. m. عَظْمِ الْفَخْذِ.

schenken va. jm. etw. هَبَّ i ه لَهْ |
أَنْعَمَ ه | أَعْطَى ه | رَزَقَ ه ه
(Getränke) - | عَلَيْهِ أَوْ ه بِ
صَبَّ u الْمَشْرُوبَاتِ فِي الْقَدَحِ.

Schenk-stube s. f. حُجْرَةٌ فِي حَائُوتِ |
مَائِدَةٌ عَلَيْهَا مَشْرُوبَاتِ |
-tisch s. m. مُمْتَلِفَةٌ.

Schenkung s. f. هِبَاتِ pl. هِبَاتِ |
أَعْطِيَّةِ pl. عَطَاءِ | هَدَايَا pl. هَدِيَّةِ.

Schenkwirt s. m. خَمَّارِ | -schaft s. f.
f. Schenke.

Scherbe s. f. شَقْفَةٌ pl. شَقَفِ |
كِسْرَةٌ pl. كِسْرَةٍ.

Scherbet s. m. شُرْبَاتِ *.

Schere s. f. مِقْصِ pl. مِقَاصِ | -n va.
| سَبَدُ ه | قَصَّ u الشَّعْرَ |
das Haar | سَبَدُ ه | قَصَّ u
das | schert mich nicht | هَذَا لَا

يَعْنِينِي | sich - -, sich fort - -
a | أَنْصَرَفَ | اذْهَبْ a
-rei s. f. | شَحْلًا | مُحَدِّدِ | مُسْتَنِّ
نِكَايَةٌ * | تَعْنِيفِ | إِزْعَاجِ.

Scherflein s. n. دِرْهَمِ pl. دَرَاهِمِ |
فِضَّةٌ *.

Scherge s. m. ضَابِطِيَّةِ pl. ضَابِطِيَّةِ |
قَوَاسَةٍ pl. قَوَاسِ *.

Schermesser s. n. مَوْسَى pl. مَوَاسِي.

Scherz s. m. أَضْحَاحِيَّةِ pl. أَضْحَاحِيَّةِ |

- bei Seite | هَزَلٌ | مُزَاحٌ | مَزُحٌ
| بِالْمَزْحِ a | - verstehen | بِلا مَزْحِ
| ضَحِكِ a | فَكِهْ a | مَزْحِ a
-en vn. | مَازِحٌ ه | mit jm. - - | هَزَلِ i
| مُضْحِكِ a. -haft | فَاكِهْ ه

schien a. شَارِدِ | نَافِرِ | خَائِفِ | (Pferd)

schien a. شَارِدِ | نَافِرِ | خَائِفِ | (Pferd)
| حَوْفِ s. f. | مُجْفِلِ | جَافِلِ
| مَخَافَةٍ - | تَرَاغِي ا.

schienchen va. jm. ه | حَوْفِ ه |
طَرَدَ u ه.

schienchen va. etw. | - vn. | خَافَ a | مِنْ
u جَفَلَ u | شَرَدَ | نَفَرَ u
| خَافَ a | مِنْ | sich - vor

Scheuer s. f. أَنْبَارِ pl. زَبْرِ |
شُونَةٍ * | شُونِ pl. شُونِ äg.

schuern va. etw. | نَطَّفَ ه | مَسَحَ a ه

Scheuerfrau s. f., Scheuerweib
s. n. امْرَأَةٌ مُنْظِفَةٌ.

Scheuflappe s. f., Scheuleder s. n.
حَاجِبٌ مِنْ جِلْدٍ لِعَيْنَيْ الْفَرَسِ
pl. حَوَاجِبٌ.

Scheune s. f. | Scheuer.

Scheusal s. n. مَهَالٍ | مَهِيلٍ | هَوْلٌ
| شَخْصٌ مُخِيفٌ | شَيْءٌ مُخِيفٌ
| scheufelig a., scheußlich a. شَنِيعٌ
| Scheufeligkeit s. f., Scheuß-
lichkeit s. f. شِنَاعَةٌ | قَبَاحَةٌ
| قَبِيحَةٌ pl. قَبَائِحٌ.

Schicht s. f. طَبَقَةٌ pl. طَبَقَاتٌ |
- (von Sand 2c.) اسَافَاتٌ pl. سَافَةٌ
- (der Bergleute) شُغْلٌ يَوْمٌ فِي
| تَرَكَ u. الشُّغْلُ - machen | مَعْدِنٌ
- en va. etw. نَضَّدَ | نَضَّدَ i ه
| رَثَّدَ u ه.

Schick s. m. نِظَامٌ | تَرْتِيبٌ.

schicken va. jn. u. etw. أَرْسَلَ ه و ه
| لَاقَ i - | بَعَثَ a ه و ه
| اِرْتَضَى بٍ | sich - in etw.
| وَاَفَقَ ه | sich - zu etw.
| اِكْتَفَى بٍ | نَاسَبَ ه.

schicklich a. مُوَافِقٌ | مُنَاسِبٌ | لَائِقٌ
| مُوَافَقَةٌ s. f. - | اَدِيبٌ | مُلَائِمٌ
| اَدَبٌ | لِيَاقَةٌ * | مُلَائِمَةٌ | مُنَاسِبَةٌ.

Schickjal s. n. (fatum) قَدَرٌ pl.
| دَهْرٌ | مُقَدَّرٌ | تَقْدِيرٌ | أَقْدَارٌ
- | قِسْمٌ pl. قِسْمَةٌ (-) (Einzel-)
| أَنْصِبَةٌ pl. نَصِيبٌ.

Schickung s. f. قَدَرٌ pl. أَقْدَارٌ | تَقْدِيرٌ.

schieben va. etw. كَرَّكَ ه | دَفَعَ a ه
| وَضَعَ a ه | جَرَّ u ه
| رَفَعَ a ه | etw. in die
Höhe - | نَحَى ه | etw. auf die lange
Bank - | آخَرَ ه | Schieber s. m.
مَجَارٍ pl. مَجَرَى.

Schieb-farren s. m. | Schubfarren |
-lade s. f. | جَارُورٌ * | جَرَّارٌ *
| دُولَابٌ *.

Schieds-gericht s. n. تَحْكِيمٌ | -mann
s. m., -richter s. m. | حَكَمٌ | -spruch
s. m. تَحْكِيمٌ.

schief a. مُعَوِّجٌ | عَوَّجَاءٌ f., أَعْوَجٌ
| مُنْكَرِفٌ | مُنْكَرِفٌ | jn. - anfehen
| نَظَرَ u إِلَيْهِ شَزْرًا
| تَشَزَّرَ - | أَسَاءَ | gehen
| تَخَيَّبَ | etw. - nehmen
| اِنْجَرَفَ | اِنْجِنَاءٌ - | آخَذَ ه بٍ
| عَوَّجٌ.

Schiefer s. m. min. | آرْدُوَازٌ *
| مُسَقِّفٌ s. m. - | اَسْوَدٌ | وَأَزْرَقٌ

اَقْلَمَ الأَرْدُوَازِ * -stift s. m. | بَارْدُوَازِ *
-tafel s. f. | لَوْحَ الأَرْدُوَازِ *.

Schiefheit s. f. f. Schiefe.

schielen vn. a حَوَلَ | -d a. أَحْوَلَ,
f. حَوْلَاءِ, pl. حَوْلٍ.

Schienbein s. n. عَظْمُ السَّاقِ الأَكْبَرِ |
القَضْبَةُ الكُبْرَى.

Schiene s. f. قَضِيبُ سِكَّةِ الحَدِيدِ |
pl. قُضْبَانٍ | -stang s. m., -weg
s. m. سِكَّةُ حَدِيدِيَّةٍ.

schier adv. تَقْرِيْبًا.

Schierling s. m. bot. نَبَاتٌ | شَوْكِرَانٌ |
السَّم.

Schießbedarf s. m. لَوَازِمُ الحَرْبِ |
schießen va. etw. أَطْلَقَ الرِّصَاصَ |
ضَرَبَ i ه بِالبُنْدُقِيَّةِ أَوْ | عَلَى
رَمَى i السَّهْمِ (mit Pfeil) - | بِالمِدْفَعِ
nach etw., auf etw. - صَوَّبَ -
نَحْوَ | in. tot, über den
Haufen - قَتَلَ u ه بِالبُنْدُقِيَّةِ -

vn. - (sich stürzen) | او بِالمِدْفَعِ
| أَلْقَى نَفْسَهُ | رَمَى i نَفْسَهُ
| اِنْدَلَقَ | تَصَبَّبَ (Wasser) - | اِنْتَقَصَ
| كَفَّ u عن | أَطْلَقَ ه - lassen etw.

Schießerei s. f. إِطْلَاقُ البَوَارِيدِ |
Schießgewehr | أَوْ المَدْفَعُ بِتَوَاتُرٍ
s. n. | بُنْدُقِيَّةٍ | Schießpulver s. n.

مَرْمَى | Schießscharte s. f. | بَارُودٍ
مَرَامٍ pl. فِي أَسْوَارِ القِلاعِ.

Schiff s. n. مَرَاكِبٍ pl. |
سُفُنٍ u. سَفَائِنٍ pl. | سَفِينَةٍ
فَلَائِكٍ pl. | فُلُوكَةٍ * | فُلُكٍ.

Schiffahrer s. m. بَحْرِيٌّ pl. |
مَلَّاحُونَ pl. | مَلَّاحٌ | بَحَّارَةٌ pl. | بَحَّارٍ.

Schiffahrt s. n. | مِلاحةٌ |
عِلْمٌ s. f. | -sfunde | البَحْرُ والنَّهْرُ
حَبِيرٌ بِعِلْمٍ a. | -sfundig | المِلاحةُ
المِلاحةُ.

schiff-bar a. | صَالِحٌ لِسَيْرِ المَرَاكِبِ |
-barkeit s. f. | صِلَاحٌ لِسَيْرِ المَرَاكِبِ |
-bau s. m. | بِنَاءُ المَرَاكِبِ |
-bruch s. m. | غَرَقَ المَرَكَبِ |
-brüchig a. | غَرِيقٌ |
leiden a. | غَرِقَ |
قَنْطَرَةٌ s. f. | -brücke | غَرَقَى pl.
pl. مَرَكَبَةٌ مِنْ قَوَارِبٍ مُلتَصِقَةٍ
قَنَاطِرٍ.

Schiffchen s. n. (Weber-) مَكْوَكٌ *
pl. آلَةُ المَدَائِكِ | مَكَاكِيكٍ.

schiffen vn. | سَافَرَ فِي البَحْرِ أَوْ النَّهْرِ |
(harnen) - | أَبْحَرَ | رَكِبَ a البَحْرَ
vulg. u | شَخَّ u | بال
s. m. | بَحْرِيٌّ pl. | بَحَّارٍ
pl. | مَلَّاحُونَ pl. | مَلَّاحٌ | بَحَّارَةٌ
نُوتِيَّةٍ pl. | نُوتِيٌّ.

Schiff-sjunge s. m. صَبِي نُوتِي pl.

-skapitän s. m. رَيْس | صِبْيَان

رُبَّان | قَبْطَان * | رُوَسَاء pl. مَرْكَب

pl. رِبَابِنَة | -smannschaft s. f.

-svolf s. n. قَوْم المَرْكَب | -sraum

s. m. أَسْفَل المَرْكَب | -swerft

s. f. مَعْمَل المَرْكَب pl. مَعَامِل

وَرُشَة *

Schifane s. f. مُنَاقِرَة | مُمَاحِكَة

| schifanieren va. ju. مَاحَك &

نَاقِر &

Schild s. m. (Schutzwaffe) ثُرْس pl.

(von Eeder) - | ثُرُوس u. أَثْرَاس

etw. im -e führen | أَثْرَاق pl. دَرَق

Schild s. n. عِلَامَة | قَصْد i ه

pl. لَتِجَارَة أَوْ صِنَاعَة

رَجُل -bürger s. m. | أَزْمَا *

pl. مَحْرَس -erhaus s. n. | بَلِيد

مَحَارِس.

| وَصَف i ه etw. va. schildern

Schilderung s. f. وَصْف.

Schild-knappe s. m. سَلَاخْدَار pl.

| -frot s. n. | سَلَاخْدَارِيَة

| سُلُخْفَاء | سُلُخْفَاء s. f. -fröte

-laus s. f. | نِرْسَة (-Nil) - -

قِشْر s. n. | -patt s. n. | دُوْدَة القِرْمِز

| -träger s. m. | السُّلُخْفَاء

-wache s. f. حَارِس pl. حُرَّاس |

| دَيْدَب * | رُقْبَاء pl. رَقِيب

دَيْدَبَان.

Schilf s. n., -rohr s. n. قَصَب

| -ig a. | بُوَص فِي المَاء * | فَارِسِي

قَصَب فَارِسِي.

schillern vn. نَلَوْن.

Schimmel s. m. (weißes Pferd)

| - (Modor) | حِصَان أَيْبُض

| -ig a., schimmelig a. | عَفِن

| -ii vn. a. | مُتَعَفِن

Schimmer s. m. لَمَع | ضَوْء قَلِيل

| -ii vn. | ضَاء | سَنَاء | بَهَاء | مَعَان

لَمَع | u. | أَضَاء

Schimpf s. m. عَيْب pl. عِيُوب

| -en va. ju. | إِهَانَات pl. إِهَانَة

| u. | سَبَّ | شَتْم u. | od. auf ju. &

| آتٍ بَعِيْب | فَاضِح | -lich a. | أَهَان &

| -name s. m. | أَنْبَاز pl. نَبَز

s. n. شَتَائِم pl. شَتِيْمَة

Schindanger s. m. مَسَالِح pl. مَسْلُخ.

Schindel s. f. لَوْح فِي السَّقْف pl.

أَلْوَاح.

| جَلَف i ه | سَلَخ | schinden va. ju. & a, u

| - ju. bld. | ظَلَم i ه | -

نَفْسُهُ.

Schinder s. m. | -ei s. f. | إِزْعَاج

gaul s. m. f. Schindmähre | ظُم |
-farren s. m. عَجَلَة السِّيَاف |
حَمَّالَة السِّيَاف.

Schindmähre s. f. فَرَس دُون.

Schinken s. m. فَخْذ الخِنْزِير مُمَلَّح |
فَخْذ (Schenkel) - | جَمْبُون *

Schippe s. f. مَجْرَفَة pl. | مَجَارِف -n
vn. u جَرَف.

Schirm s. m. (Regen-, Sonnen-)

مِظَال pl. | مِظَلَّة | شَمْسِيَّة *

حَوَاجِز pl. | حَاجِز (Ofen) -

مُحَامَاة | حِمَايَة | حِغْظ (Schutz) -

دِفاع | دَاح s. n. | رُفْرَف -en va.

حَامِي لَهُ | حَمَى i | وَقَى i s. m.

دَافِع عَنْهُ | حَفِظ a s. m.,

حَامٍ | حَامٍ s. m., -vogt s. m.

حَافِظ pl. | حَاجِز s. f. | -wand

حَوَاجِز.

Schisma s. n. christl. شِقَاق فِي

الكَنِيْسَة الْمَسِيْحِيَّة.

Schlacht s. f. مَعْرَكَة | مُقَاتَلَة | قِتَال

pl. | وَقِيْعَة | واقِعَة | مَعَارِك pl.

مَجْزِر | مَذْبَح s. f. | بانف - | وَقَائِع

بَيرِحت - | فَاس الجَزَار s. n. | -beil

en va. | إِخْبَار بِالْقِتَال s. m.

جَزْر u | ذَبَح a | الحَيَوَان Tier

مُصَوِّر s. m. | نَحَرَ a s. m. -enmaler
الْوَقَائِع.

Schlächter s. m., -meister s. m.

hاند- | لَحَام | قَصَاب | ذَبَاح | جَزَار

قِصَابَة | جِزَارَة s. f. | -ei s. n.,

Schlacht-feld s. n. مَيْدَان الحَرْب pl.

haus - | سَاخَة القِتَال | مِيَادِين

linie s. f. | مَجْزِر | مَذْبَح s. n.

ذَبِيْحَة s. n. | -opfer s. n. | خَط التَّوَجَّه

ordnng s. f. | ذَبَائِح pl.

وَعَى s. m. | -ruf s. m. | الجَيْش للقِتَال

schiff s. n. | بارِجَة pl. | بَوَارِج

tag s. m. | يَوْم القِتَال | -tag

الذَّبْح.

Schlacke s. f. | خَبَث مَعْدِن

تُوبَال * | مَعْدِن

Schlackerwetter s. n. هَوَاء كَثِير المَطَر

Schlackwurst s. f. نَوْع مِنَ المَقَانِق

Schlaf s. m. | نُوم | مَنَام | رُقَاد | in

- fallen, verfallen, sinken a نام |

- der | نَعَاس (Schlāfrigkeit)

ewige - | المَوْت - (Schlāfe) صُدْغ

pl. | أَصْدَاغ.

Schlāfe s. f. صُدْغ pl. | أَصْدَاغ.

schlafen vn. a نام | u رَقْد | sich -

legen, - gehen a نام | -gehen s. n.

نُوم | رُقَاد | رَقْد.

Schläfer s. m. | نَائِم | نَوْمٍ | -ig a.
 | غَفْلَان | | خَامِد | bld. | نَعْسَان
 - - werden a, u | نَعَس | -igkeit
 s. f. | نَعَس | | حُمُود | غَفْلَةٌ | -ii v.
 es schläfert ihn a, u | نَعَسَ .

[schlaff a. | مُسْتَرَخ | مُرْتَخ | رَخُو |
 bld. | ضَعِيفٌ | كَسْلَان | أَقْلِيلُ الْعَزْمِ -
 - werden a | ارْتَخَى | رَخَى |
 | ارْتِخَاء | ارْتِخَاءٌ | -heit s. f. | اسْتَرَخَى
 قِلَّةٌ | bld. | رَخَاوَةٌ | اسْتِرْخَاءٌ
 | كَسَلٌ | الْعَزْمُ .

[schlaf-los a. | آرِقٌ | عَادِمُ النَّوْمِ |
 -feit s. f. | آرَقٌ | عَدَمُ النَّوْمِ |
 s. n. | دَوَاءٌ مُنَوِّمٌ | -mütze s. f.
 | عَرَقِيَّةٌ * | قَلَنْسُوَّةُ اللَّيْلِ
 | إِنْسَانٌ كَسْلَانٌ (träger Mensch) .

[schläfrig a., Schläfrigkeit s. f. f.
 | schläferig, Schläferigkeit.

Schlaf-rock s. m. | مَبْدَلٌ | pl. | مَبْدَالٌ
 | -schuh s. m. | بَابُوجٌ | pl. | بَوَابِيَجٌ
 | -stube | سَرَامِيَجٌ | pl. | سَرْمُوجَةٌ *
 s. f. f. | -zimmer | -sucht s. f. | سُبَاتٌ
 | سُباتِيٌّ | -süchtig a. | سُخُوَصٌ
 | سُخُوَصِيٌّ | -trunk s. m. | سُخُوَصِيٌّ
 | نَعْسَانٌ | -trunken a. | مُنَوِّمٌ
 | -trunkenheit s. f. | نَعَسٌ | -wagen
 s. m. | عَجَلَةٌ | فِيهَا فُرْشٌ | -zimmer

s. n. | مَضْجَعٌ | | حُجْرَةٌ النَّوْمِ | pl.
 مَضَاجِعُ .

Schlag s. m. | ضَرْبٌ | - (faust-)
 | رَجْسُ الرَّعْدِ (Donner-) | - لَطْمَةٌ
 - der Vögel | غِنَاءُ الطُّيُورِ | ein -
 Menschen | جِنْسٌ مِنَ النَّاسِ |
 | أَبْوَابٌ | pl. | بَابٌ عَجَلَةٌ (Wagen-) -
 ein - ins Wasser | سَعَى لَا طَائِلَ
 | مُصِيبَةٌ (Unglücks-) | - | فِيهِ
 | مَرَضٌ (-fluß) | - med. | مَصَائِبٌ
 | -ader s. f. | دَاءُ النُّقْطَةِ * | الْغَالِجُ
 | -anfall s. m. | شَرَايِيِنٌ | pl. | شَرِيَانٌ
 | -baum | دَاءُ النُّقْطَةِ * | مَرَضُ الْغَالِجِ
 s. m. | حَاجِزٌ | سُدٌّ .

Schlägel s. m. | مِدْقٌ | pl. | مِدَاقٌ
 | - | أَفْخَاذٌ | pl. | فَخْذٌ (Keule) -

[schlagen va. in. u. etw. | ضَرَبَ | هِ و ه
 | هَزَمَ | هِ | غَلَبَ | الْعَدُوَّ | den feind
 | - | مِئِنِجِن | - | قَتَلَ | هِ u (im Schach)
 | زَنَدٌ | - u | ضَرَبَ | السِّكِّ | Feuer
 | دَقٌّ | u | السَّاعَاتِ (Stunden, Uhr)
 | أَوْقَعَ | بِالْقَضِيْبِ | mus. | تاقت
 | خَفَقَ | (Herz) | i, u | دَوَّزَنَ | vn.
 | دَقٌّ | u | (السَّاعَةُ) (Uhr) | - | (الْقَلْبُ)
 | - | غَنَّى | (الطُّيُورِ) (Vögel) | -
 | هِنَ | | صَفَّقَ | بِالْجَنَاحِيْنِ | - flügeln
 | - | وَقَعَ | u | سَقَطَ | aus der Art -

adv. مُطْلَقًا | -igkeit s. f. شَرٌّ |
 | سُوءٌ | رَدَاءَةٌ | خَبَائِثَةٌ | خُبْتُ
 -weg adv. مُطْلَقًا.
 Schlecker s. m. إِنْسَانٌ لِحُوسٍ.
 Schlegel s. m. f. Schlägel.
 Schlehdorn s. m. bot. شَجَرَةُ الخَوْخِ
 Schlehe s. f. | البَرِّيُّ ذاتُ أشْوَكَ
 bot. خَوْخٌ بَرِّيٌّ.
 |schleichen va., u. sich | خَفِيئَةً -
 | دَخَلَ u. خَفِيَ * | دَغَلَ a | اِنْتَرَبَقَ | تَدَخَّلَ
 Schleicher s. m. | مُنَافِقٌ | مُرَاءٍ
 مُتَمَلِّقٌ.
 Schleich-handel s. m. تَهْرِيْبٌ
 | تجَارَةٌ مَمْنُوعَةٌ | البَضَائِعِ
 | مُهْرَبِ البَضَائِعِ s. m. | -weg s. m.
 | دَسَائِسِ pl. دَسِيْسَةٌ bld.
 Schleie s. f. zool. شَبَابِيْطٌ pl. شَبَّوْطٌ.
 Schleier s. m. | حِجَابٌ | سِتْرٌ pl.
 | بَرَائِعِ pl. بُرُقَعِ (-) | سِتْوَرِ
 | نُقْبِ pl. نِقَابِ | خُمُرِ pl. خِمَارِ
 | طَرْحَةٍ * | einen - werfen über
 bld. | ضَرَبَ i صَفْحًا عَنِ
 nehmen (Frau) kath. تَرَهَّبَتِ
 | بُومِ أَيْبِضِ s. f. | الأَمْرَأَةِ
 -flor s. m. | نَسِيْجِ خَفِيْفِ
 | خَفِيٍّ | مَخْبُوءِ | مَحْجُوبِ a.

نَسِيْجِ | نِقَابِ s. n. | مَكْتُومِ
 خَفِيْفِ.
 Schleife s. f. | أَنْشُوْطَةٌ pl. |
 | رِبْقِ pl. رِبْقَةٌ | نَشُوْطَةٌ *
 |schleifen va. | السِّكِّينِ u. حَدِّ
 | أَجْلَاهِ (Edelstein, Glas) | - | سَنَّ هِ
 | هَدَمَ (Festung) | - | صَقَلَ u. هِ
 | - | دَمَّرَ هِ | خَرَّبَ هِ | القَلْعَةَ
 | اِنْسَحَبَ | اِنْجَرَّ - | جَرَّ u. هِ
 Schleifer s. m. | مُسِّنِ
 | حَجَرِ | مَسَانِ pl. مِسْنِ
 مُوَيْدِ *
 Schleim s. m. | بَلْغَمِ | -blütig a.
 | كَثِيْرِ البَلْغَمِ | -ig a. | بَلْغَمِيٍّ
 | حَيَّوَانِ عَادِمِ الفَقَارِ s. n. | -tier
 | أَفْرَطَ فِي الأَكْلِ vn. |schlemmen
 | مُفْرَطِ s. m. | والشُّرْبِ
 | فِي الأَكْلِ والشُّرْبِ |schlemmerei
 | إِفْرَاطِ فِي الأَكْلِ والشُّرْبِ s. f.
 | تَمَشَّى بِالتَّأَنِّيِ vn. |schlendern
 | العَمَلِ عَلَى s. m. | Schlendrian
 | سَبِيْلِ العَادَةِ.
 |schlenkern vn. mit den Armen,
 | هَزَزَ الذِّرَاعِيْنَ العِ s. c. | Beinen
 | كَدَلٌ.
 | باخِرَةٌ سَاحِبَةٌ s. m. |schlepp-dampfer
 | -e s. f. | مَرْكَبًا

الثُّوب pl. ذُيُول | -en va. etw.
 ه a سَحَب | ه u جَرَّ | -er s. m.
 السَّاحِب | -- (Schleppdampfer)
 باخِرة ساجِبَة مَرَكَبًا | -schiff s. n.
 مَرَكَب ساجِب غَيْرَة.

Schleuder s. f. مِقْلَاع pl. مَقَالِيع |
 -er s. m. رامٍ بِالْمِقْلَاع | -n va. etw.
 ه i رَمَى | vn. - - komm. i باع
 بِخَسَارَة.

schleunig a. سَرِيع.

Schleuse s. f. هُوَيْس.

Schlich s. m. حَيْلَة pl. حَيْل.

schlicht a. بَسِيط | -en va. den Streit
 zwischen صالح | أزال الخِصام بَيْنَ
 | بَساطَة s. f. | أصلح بَيْنَ | بَيْنَ
 -ung s. f. مُصالِحَة بَيْنَ.

Schlicf s. m. | وَحَل | طِين | -erwetter
 s. n. f. Schlackewetter.

schließbar a. | مُمْكِن | إِغْلَاقُهُ | schließen
 va. | أَغْلَقَ الباب | - (mit
 Vorlegeschloß) ه | أَقْفَلَ | - etw.
 | خَتَمَ a | ه | كَمَلَ ه | (beenden)
 | خَلَصَ ه | أَنْجَزَ ه | أَتَمَ ه | - kluge
 | أَطْبَقَ اليَدَ | - غَمَضَ العَيْنَ
 | - | عَقَدَ i | الاتِّفاق | Vertrag -
 | أَحْكَمَ الصُّلْحَ | Frieden | in. in seine
 | عانقَ ه | etw. in sich -
 Arme -

إِنْتَهَى | أَغْلِقَ - | إِشْتَمَلَ عَلَى
 | التَّحَمَ (Wunde) | نَمَّ | sich
 | أَنْطَبَقَ (Blumen, Hand) | sich
 | إِنْتَهَى | نَمَّ | i | أَغْلِقَ - | vn.
 | التَّصَقَ | - auf etw. (folgen)
 | اسْتَنْتَجَ ه | اسْتَدَلَّ عَلَى | Schließer
 | سَجَّانَ | بَوَّابَ | schließlich
 | أَخِيرًا | في النِّهاية | adv.
 | إِغْلَاقَ | انْتِهاء | Schließung s. f.
 | - | عَقْدَ | - eines Vertrages
 | إِحْكامَ الصُّلْحِ | Friedens.

Schliff s. m. | صَقْلَ | صِقال | bld.
 - | أَدَبَ (Lebensart).

ضارٌّ | شَرِيرٌ | سَوُّءٌ | رَدِيٌّ | schlimm a.
 | وَعَرَ | صَعْبٌ | مُضِرٌّ | mir wird -
 | إِئْتَى مَشَوَّشٌ.

سحْلِينَة s. f. | أَنْشُوطَة pl. | أَناشِيط
 | رِبْقَة | رِبْقَة | نَشُوطَة *
 | حَبائِلَ | Schlingel s. m. | وَلد
 | خَشِنَ | schlingen va. etw. in ein-
 | شَبَكَ i | ه | حَبَكَ u | ه | ander
 | التَّحَوَّى | التَّحَوَّى | إِشْتَبَكَ - | sich
 | بَلَعَ a | ه | (schlucken) | - etw.
 | تَرَدَّدَ مِنْ (Schiff) | schlingern vn.
 | إِلَى جانِبِ | جانِبِ (مَرَكَبِ) | -
 | سحْلِينَة s. n., Schling-
 | نَباتَ عارِشَ | pflanze s. f.

- bart s. m. رَأْسُ الْمِفْتَاحِ | سِنَّ |
 -bein s. n. anat. تَرْقُوةُ | الْمِفْتَاحِ |
 pl. تَرَاقِي u. تَرَائِقِ | blume s. f.
 bot. زَهْرُ الرَّيْبَعِ | bund s. m.
 -loch s. n. ثُقْبُ | حُرَيْمَةُ الْمَفَاتِيحِ |
 -ring s. m. | ثُقُوبُ pl. القُفْلُ |
 حَلْقَةُ فِيهَا مَفَاتِيحُ.
- Schlußfolgerung s. f. نَتِيْجَةُ | قِيَاسِ |
 pl. نَتَائِجِ.
- schlüssig a., sich - machen, - werden
 عَزَمَ i عَلَى | أَزْمَعَ عَلَى.
- Schlußstein s. m. (des Gewölbes)
 أَغَالِيْقِ u. أَغْلَاقِ pl. غَلَقِ.
- Schmach s. f. عَارُ | مَعَابُ | عَيْبُ s. f.
 schmachten vn. a | ذَبِلَ - vor Hunger
 u. Durst | ضَنِيَّ a جُوعًا وَعَطَشًا
 - nach etw. | اِسْتَأَقَ إِلَى | رَغِبَ a فِي.
- schmächtig a. نَحِيْفُ | نَحِيْلُ | نَحِيْفُ s. f.
 نَحُوْلُ | نَحَافَةٌ s. f.
- Schmachtlappen s. m. اِنْسَانٌ نَحِيْلُ |
 فَتِيْرُ.
- schmachvoll a. مَعْيُوبُ | مَعِيْبُ s. f.
 فَاضِحُ.
- schmachhaft a. | لَذِيْدُ | عُدْبُ | -igkeit
 s. f. عُدُوْبَةٌ s. f.
- schmähen va. jn. s u | سَبَّ s u | سَتَمَ s u |
 schmäh-lich a. | آتٍ بِعَيْبٍ | فَاضِحُ a.
- rede s. f. شَتِيْمَةٌ pl. شَتَائِمُ |
 -schrift s. f. تَأْلِيْفُ هِجَائِيٍّ |
 s. f. | ثَلْبُ | نِمِيَةٌ | طَعْنُ بِالْقَوْلِ s. f.
 -süchtig a. | ثَالِبُ | نَمَالُ |
 s. f., -wort s. n. شَتِيْمَةٌ pl. شَتَائِمُ.
- schmal a. | ضَيْقُ (mager) - |
 نَحِيْلُ.
- schmälen va. jn. s u | وَبَّغَ s u.
- schmälern va. etw. | أَقَلَّ ه |
 Schmälerung s. f. | نَقَصَ ه | أَصْغَرَ ه
 s. f. | تَقَلَّلَ | تَنْقِيصُ.
- Schmal-hans, bei ihm ist -- Küchen-
 meister | هُوَ فِي الضِّيْقِ | هُوَ مَسِيْكِيْنُ |
 -heit s. f. | تَضَيَّقَ | ضَيْقُ s. f.
 | وَكَلَدَ الْغَزَالَةَ - tier s. n. | الْعَرَضُ
 | أَرْشَاءُ pl. رَشَاءُ | شَادِنُ.
- Schmalz s. n. | قَوْرَمَةٌ | صُهَارَةٌ s. n.
 ذَائِبُ.
- Schmant s. m. | رَعْوَةٌ * | قَشْطَةٌ *.
- schmarotzen vn. | تَطَقَّلَ | Schmarotzer
 s. m. طَفِيْلِيٌّ.
- Schmarre s. f. | نَدْبَةٌ فِي الْوَجْهِ s. f. pl.
 | شِجَاجُ pl. شِجَّةٌ | نُدُوبُ.
- Schmatz s. m. vulg. | بُوْسُ | قُبْلَةٌ pl.
 | قَبَّلَ | باسَ u. -en vn. | قَبَلُ.
- schmauchen va. | شَرِبَ a دُخَانًا | Tabak.
- Schmaus s. m. | وَلاِيْمَةٌ pl. | وَلاِيْمُ

-en vn. بِالسُّرُورِ u أَكَلٍ | -erei
s. f. f. Schmaus.

schmecken va. etw. ه u ذاق |
تَلَذَّذَ هِ أَوْبٍ | diese Speise schmeckt
mir أَسْتَطَعِمِ هَذَا الطَّعَامَ.

Schmeer f. Schmer.

Schmeichelei s. f. تَمَلَّقَ | schmeichel-
haft a. مُرَضٍ | مُفْتِنٍ | Schmeichel-
-fäße s. f. bld. مُتَمَلِّقٍ |
schmeicheln vn. jm. لَهُ u وَلَهُ |
عَلَّ | sich - mit etw. لَاطَفَ u
Schmeichler s. m. نَفْسَهُ بِ
schmeichlerisch a. | إِنْسَانٍ مُتَمَلِّقٍ
مُتَمَلِّقٍ.

schmeißen va. etw. ه i رَمَى.

Schmelz s. m. مِينَا نُزَيِّنَ بِهِ المَعَادِنَ |
- der Zähne بِيَاضِ الأَسْنَانِ |
- der Blumen تَلَوْنِ الأزْهَارِ |
-e s. f. مَسَابِكٍ pl. | -en
va. etw. ه | أَدَابٍ ه | ذَوَّبَ ه
Metall - - | أَمَاعَ ه | سَيَّلَ ه
| صَبَّ u ه | سَبَكَ i المَعْدِنِ
| سال i | ذاب u - - | أَفْرَغَ ه
| انْصَبَّ (Metall) - - | مَاعٍ i
| انْسَكَبَ.

Schmer s. m. شَحْمٍ | دُهْنٍ | -bauch
s. m. بَطْنِ سَمِينٍ.

Schmerz s. m. أَلَمٍ pl. | آلامٍ |
وَجَعٍ | أَوْجَاعٍ | - empfinden, fühlen
حُزْنٍ - (geistiger) | تَوَجَّعَ | تَأَلَّمَ
pl. | غَمٍّ pl. | أَحْزَانٍ pl. | -en va.
| أَوْجَعَهُ | آلَمَهُ | أَلَمَهُ u
(geistig) u غَمَّ | -ensgeld s. n.
| دَرَاهِمٍ مَدْفُوعَةٍ عِوَضَ عَن وَجَعٍ
-enskind s. n. | مَسْتَبِبِ الغَمِّ
| عَوِيلٍ | -ensschrei s. m. | اللوَالِدَيْنِ
| أَلِيمٍ a. | -haft a., -lich a. | تَعْوِيلٍ
مُغَمِّمٍ | مُحْزِنٍ (geistig) | مُوَجِّعٍ | مُؤَلِّمٍ.

Schmetterling s. m. فَرَّاشٍ coll. ein -
بَشَارَةَ | فَرَّاشِيرٍ pl. | فَرْفُورٍ * | فَرَّاشَةَ

schmetterln va., jm. zu Boden -
| أَلْقَى u عَلَى الأَرْضِ | طَرَحَ u
vn. - u | بَوَّقَ | صَاتَ | نَقَرَ.

Schmied s. m. حَدَّادٍ (Grob-) |
- | بِيَاطِرَةَ pl. | بِيَّاطَرٍ (-Huf-) |
s. f. دَكَائِبِنٍ pl. | دُكَّانِ حَدَّادٍ |
-ehandwerk s. n., -ekunst s. f.
| طَرَّقَ ه | -en va. etw. ه | حَدَادَةَ
حَدَّادٍ * | مَطَّلَ u ه | قَانَ i ه

schmiegen v. sich - an | التَّصَقَّ بِ |

schmiegsam a. | لَيِّنٍ | رَخُوصٍ |
| لَيِّنٍ | رَخَاصَةً s. f. | الأَخْلَاقِ
لَيِّنَةٍ.

Schmiere s. f. دَنْثَةً | دُهْنٍ |

- طَوَّشَ Tier - - | قَطَّ u ه | قَلَمَ i ه |
 نَفَرَ u مِنْهُ in. - - | الحَيَّوان |
 etw. in Stücke, entzwei - - | قَطَّعَ ه |
 -en s. n. (Leib--)| جَزَّأَ ه | فَصَّلَ ه |
 شَدِيدَ | حَادًّا | قَاطِعَ a. -end | مَغْصَ |
 Schneider s. m., -meister s. n. | حَيَّاطَ |
 -ei s. f., -handwerk s. n. | حَيَّاطَةَ |
 -in s. f. | حَيَّاطَةَ | -n vn. i | خَاطَ |
 *خَيَّطَ.
 | ذُو حِدَّةٍ | ذُو مُرْوَةِ | schneidig a.
 حِدَّةٍ | مُرْوَةٍ | مُرْوَةٍ | -feit s. f.
 | تَلَجَّتِ السَّمَاءَ | schneien vn., es schneit
 نَزَلَ i التَّلْجُ | أَتَلَجَّتِ السَّمَاءَ |
 | سُرْعَةَ e s. f. | سَرِيعَ a. schnell
 | رَمَى i السَّهْمَ | -en va. Pfeil
 | رَجَعَ i إِلَى حَالِهِ بَعْدَ التَّمَدُّدِ --vn.
 | اِرْتَفَعَ -- | in die Höhe
 | سَرِيعَ الجَرَى a. -fügig
 | سُرْعَةَ الجَرَى s. f. -fügigkeit
 | لَزَجَ | لَزَجَ s. f. | سُرْعَةَ | -kraft
 | مَرَانَةَ | -läufer s. m. | سَاعٍ
 | عُدَاةٍ pl. | عَادٍ | سَعَاةٍ pl. | -zug
 | سَرِيعَ | قطار سريع s. m.
 | دَجَاجَ الحَقْلِ أَوِ الغَابَةِ s. f. Schnepfe
 | schneuzen vn. | schmäuzen.
 | سَفْسَفَةً | بَلْبَلَةً s. m. Schnick[schnack
 الكَلَامَ.
- schneiegeln v., geschneiegelt sein | تَزَيَّنَ |
 تَشَوَّفَ.
 Schnippchen s. n., jm. ein - | schlagen
 | مُحْتَقِرٍ a. | تَلَاعَبَ بِهِ |
 مُسْتَهْزِئٍ.
 Schnitt s. m. | جَدْمَ | (-wunde)
 | جُرُوحٍ pl. | جُرْحٍ بِالْقَطْعِ | (Kleider-)
 | تَفْصِيلَ الثُّوبِ | - eines Buches
 | حَاقَةَ الكِتَابِ | einen - bei etw.
 | رَبِيعَ a | bohne s. f. |
 | حُنْبُلٍ | لُوبِيَاءَ | äg. | فَصُولِيَّةَ *
 | قِطْعَةٍ pl. | شِقَّةٍ pl. | -e s. f.
 | حَاصِدٍ pl. | حَاصِدِ er s. m. | شِثْقٍ
 | حَاصِدَةٍ s. f. | -erin | حُصَادٍ u.
 | لَوْحٍ s. m. bot. | نَوْعٍ مِنَ الثُّومِ |
 | بِيضَاعَةَ ثُبَاعٍ بِالذِّرَاعِ s. f. | -ware
 | جُرُوحٍ pl. | جُرْحٍ بِالْقَطْعِ s. f. | -wunde
 Schnitzarbeit s. f. | | Schnitzwerk.
 Schnitzel s. n. (Papier-) | قُصَاصَةَ |
 | قُصَاةٍ | (Wiener -) | حَمَّ العِجْلِ
 | مَشْوِيٍّ مَقْطُوعٍ | -n va., | schnitzen
 | قَطَّعَ a | نَحَّتَ i, u |
 | نَقَشَ u ه |
 | نَقَّاشَ | Schnitzer s. m. | نَقَّاشَاتٍ -
 | غَلَطَ | (fehler) | حُنَّ pl.
 | أَلْحَانَ | Schnitzwerk s. n. | نِحَاتَةٍ |
 نِقَاشَةٍ.

ſchnöde a. مُحْتَنَر | دَنِى | دَنِى | دُون
 Schnörkel s. m. زِينَة (فِي الْكِتَابَةِ مَثَلًا)
 ſchnorren vn. *ا شَحَذ | u طَلَب | Schnorrer s. m. شَحَّاد | الصَّدَقَة
 Schnorrerei s. f. شِحَاذَة
 ſchnüffeln v. a, u تَشَمَّم | شَمَّ | تَشَمَّم *
 Schnupfen s. m. رَشْم * | نَزَلَة | زَكَم |
 den - haben, bekommen زَكَم |
 ſchnupfen vn. شَمَّ عَطُوسًا | تَرَشَّح *
 Schnupftabaſ s. m. | أَخَذ u نَشُوقًا
 سَعُوط | عَطُوس | عَطُوس | نَشُوق
 Schnupftabaſsdoſe s. f. عُبَّة
 Schnupf- | حُقَّة عَطُوس | عَطُوس
 tuch s. n. *مَحْرَمَة pl. | مَحَارِم
 مَنَادِيل pl. | مَنَادِيل
 ſchnuppern vn. شَمَشَم * | تَشَمَّم
 Schnur s. f. خَيْط pl. | خَيْط u. | (fei-
 dene) - قِيَابِين pl. | قِيَابِين *
 - (Perlen-) سُلُوك pl. | سُلُوك -
 (Dicke) - حَبَال pl. | حَبَال | Schnur
 s. f. (Schwiegertochter) كَنَّة pl.
 كَنَائِن
 Schnürbruſt s. f. قُرْصِيَّة * | مِشَد
 ſchnüren va. | صَدِيرِي لِلسِّتَات *
 وَصَل ه | شَبَك ه | شَدَّ ه u, i ه etw.

شَبَكْت (Frau) - ſich | بَبْرِيم
 وَوَصَلَتْ ثِيَابَهَا بِبَبْرِيم
 ſchnurgerade adv. | رَأْسًا * | دُغْرِي *
 Schnür-leib s. m. ſ. -bruſt | -loch
 s. n. | عَيْن pl. | عِيُون * | بَخَش
 pl. | أَبْخَاش
 Schnurr-barts. m. | شَوَارِب pl. | شَارِب
 | أَبُو شَارِب a. | شَنَب *
 | أَبُو شَارِب a. | شَنَب *
 | دُو شَارِب
 Schnurre s. f. | لَطَائِف pl. | لَطِيفَة
 ſchnurren vn. | دَوَى | دَن * | دار
 | مُضْحِك a. | ſchnurrig a. | (عَجَلَة)
 Schober s. m. | حَيْو من الحَشِيش
 pl. | عُرْمَة | كَوْم
 Schock s. n. | سِتِّين
 ſchofel a. | دَنِى | دَنِى | دُون
 Schöffe s. m. | مُعَاوِن القَاضِي
 Schokolade s. f. | شُوكُولَاتَة *
 Scholar s. m. | تَلْمِيذ pl. | تَلَامِيذ
 Scholle s. f. (Erd-) | مَدْرَة pl. | مَدْر
 - | سَمَك مُوسَى (fiſch)
 ſchon adv. | قَدْ | سَابِقًا | قَبْلًا | الآن
 | فِي ذَلِكَ الزَّمَان | فِي هَذِهِ السَّاعَة
 ſchön a. | جَمِيل | حَسَن | ظَرِيف
 | die -en Künſte | كُؤَيْس * | مَلِيح
 | die -en Wiſſen- | نَوَاضِر الفُنُون
 ſchaften | العُلُوم الأَدَبِيَّة | ſein

schrill a., schrillend a. حَادَّ الصَّوْتُ

Schrippe s. f. رَغِيفٌ pl. أَرْغِفَةٌ

Schritt s. m. خَطْوَةٌ pl. خَطَوَاتٌ u.

خطاء | einen - machen, thun

u. اِخْتَطَى | den ersten - thun

مَشَى | im - gehen i

مَشَى | اِبْتَدَأَ بِ |

مَشَى | عَلَى مَهْلٍ

س. m. آلة يُقَاسُ بِهَا الْمَشَى |

خطوة بعد خطوة |

تَدْرِيجًا

schröff a. (steil) عَمُودِيٌّ | ذُو مُنْحَدَرٍ

(-rauh) | وَعَرٌّ حِدًّا | صَعْبٌ حِدًّا

مُنْحَدَرٌ صَعْبٌ | -heit s. f. خَشِنٌ

خَشُونَةٌ | وَعُورَةٌ | وَعَارَةٌ

schröpfen va. jn. s u حَجَمَ | - bld.

Schröpfkopf s. m. مَحَاجِمٌ pl. مَحَاجِمٌ

Schrot s. n. (Blei-, Hagel-) خُرُوقٌ |

قَمَحٌ (Getreide-) | رِصَاصٌ لِلصَّيْدِ

ein Mann von altem -

und Korn رَجُلٌ شَهِيرٌ الْفَضِيلَةَ

-en va. Getreide دَقَّقَ الْقَمَحَ

schrubben va. etw. ه a مَسَحَ |

مَحَاكٌ | Schrubber s. m. نَظَّفَ ه

مَقْحَطَةٌ | مِكْشَطٌ | مَحَاكٌ pl.

Schrulle s. f. لَطْشَةٌ * | مُرَادٌ نُونٌ دَاعٍ

pl. لَطْشَاتٌ | -haft a. لَطْشَاتٌ pl.

schrumpfen vn. انْحَصَرَ | i قَلَصَ |

u. كَمَشَ

Schrunde s. f. شُقٌّ pl. شُقُوقٌ |

فُلُوعٌ pl. فُلُوعٌ | فُلُوعٌ pl. فُلُوعٌ

-(an Händen u. Lippen) * اقْتَشَبَ |

schrundig a. مَشُقُوقٌ | ذُو شُقُوقٍ

مَسْلُوعٌ

Schub s. m. دَفْعٌ | jn. auf den -

bringen s u طَرَدَ | -fach s. n. f.

-lade | -farren s. m. عَجَلَةٌ بِيَدٍ

دُولَابٌ * | -lade s. f. عَرَبَةٌ بِيَدٍ *

pl. جَارُورٌ * | جَرَّارٌ * | دَوَالِيْبٌ pl.

-fach s. m. جَيْبٌ pl. جِيُوبٌ

schüchtern a. مُسْتَعِجٌ | خَائِفٌ |

s. f. حَيَاءٌ | خَوْفٌ

Schuft s. m. رَجُلٌ خَبِيثٌ | -en

vn. vulg. اِسْتَعْلَ كَثِيرًا | -ig a.

مِسْكِينٌ | خَبِيثٌ

Schuh s. m. أَحْذِيَّةٌ pl. حِذَاءٌ |

ag. شِبْشِبٌ * | خِفَافٌ pl. خَفَافٌ

صِرْمَايَةٌ * | مَرَاكِيْبٌ pl. مَرَكُوبٌ *

pl. نَعْلٌ | كُنْدُرَةٌ * | صِرَامِيٌّ pl.

خَفَافٌ | -macher s. m. نِعَالٌ

كُنْدُرَجِيٌّ * | شِبْشِبِيٌّ * | اِسْكَافٌ

اِمْسَاحُ الْأَحْذِيَّةِ s. m. -pußer | خَرَّازٌ

-riemen s. m. سَيْرٌ pl. سِيُورٌ |

نَعْلٌ s. f. | شُرْكٌ pl. | شِرَاكٌ
pl. نِعَالٌ.

Schuhu s. m. نَوْعٌ مِنَ الْبُومِ.

Schulbuch s. n. كِتَابٌ مَدْرَسِيٌّ.

Schuld s. f. ذَنْبٌ pl. ذُنُوبٌ | خَطِيئَةٌ
pl. جُرْمٌ (Verbrechen) - | خَطَايَا pl.

pl. أَجْرَامٌ (Verbindlichkeit) -

(Geld-) | واجبٌ | التَّزَامُ | ذِمَامٌ

- ausstehende | دِيُونٌ pl. دَيْنٌ

دِيُونٌ - | schwebende | دَيْنٌ لَهُ

| مَمْلَكَةٌ يَلْزَمُ وَفَاؤُهَا عَنْ قُرْبٍ

| اسْتَدَانَ | تَدَيَّنَ -en machen

| أَلْقَى هُ عَلَيْهِ - geben jm. etw. -

-en | نَسَبَ هُ إِلَيْهِ | sich etw. zu

kommen lassen a | زَلَّ | خَطِيَ

an etw. - | سَبَّبَ | سَبَّبَ هُ

die - der Natur bezahlen u | مَاتَ

اسْتَدَانَ | سَنَدَاتٌ pl. | سَنَدٌ دَيْنٌ s. m. -brief

وَتَيْقَةٌ * | تَمَسَّكَتْ pl. | تَمَسَّكَ

دَفْتَرُ التَّاجِرِ s. n. | وَثَائِقٌ pl.

كان | دَفَاتِرٌ pl. -en va. jm. etw. u

عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْهِ لَهُ | مَدْيُونًا لَهُ

خالصٌ a. -enfrei | كان مَمْنُونًا لَهُ

الذَّيْنِ s. f. | الدَّيُونُ -entilgung

s. f. | وَفَاءُ الدَّيْنِ -forderung

دَيْنٌ لَهُ | حَقُّ الْمَدْيِينِ عَلَى الْمَدْيُونِ

السِّجْنُ الْمَدْيُونِينَ s. n. -gefängnis

ig a. | مُجْرِمٌ | مُذْنِبٌ - eines Ver-
brechens - sein, sich - machen

إِرْتَكَبَ الْجَرِيمَةَ | einer Strafe -

إِسْتَوْجَبَ | وَقَعَ a فِي الْقِصَاصِ

مَلْزُومٌ (verpflichtet) - | الْقِصَاصِ

أَجْبَرَ عَلَى | مُنْتَزِمٌ | jm. etw. - sein

مَدْيُونٌ (Geld) - | التَّزَمَ بِ

عِنْدَهُ أَوْ - | eine Summe - - sein

مَدْيُونٌ s. m. | عَلَيْهِ لَهُ مَبْلَغٌ

غَرَمَاءُ pl. | غَرِيمٌ | دائن

قَرَضٌ pl. | واجبات pl. واجب

أَدَمَةٌ pl. | ذِمَامٌ | فُرُوضٌ -ist adv.

كُلُّوَاجِبٍ | كَمَا يَجِبُ | كَمَا يَنْبَغِي

غَيْرٌ مُذْنِبٌ | بَرِيٌّ -los a.

غَرِيمٌ | دائن | مَدْيُونٌ s. m.

سَنَدٌ دَيْنٌ - | غَرَمَاءُ -schein s. m.

تَمَسَّكَتْ pl. | تَمَسَّكَ | سَنَدَاتٌ pl.

تُرْمٌ s. m. | وَثَائِقٌ pl. | وَتَيْقَةٌ

السِّجْنُ لِلْمَدْيُونِينَ -verschreibung

s. f. | -schein.

Schule s. f. (niedere) كُتَّابٌ pl.

مَكَاتِبٌ pl. | مَكْتَبٌ | كِتَابِيَّةٌ

مَدَارِسٌ pl. | مَدْرَسَةٌ - (höhere)

إِدَارَةُ الْفُنُونِ | الْمَدْرَسَةُ الْكُبْرَى - hohe

مَذْهَبٌ (Lehrmeinung) | كَلِيَّةٌ pl.

مَذَاهِبٌ - | كَرَسَ - halten

نَ va. jm. | صَارَ i قُدْوَةً لِاتِّبَاعِهِ

- | تَدْرِيب | تَدْرِيس s. f. Schulung s. f. | عَالِم | geschult | عِلْم | دَرَس | خَبِير
 | أَحْوَال | المَدَارِس s. n. Schulwesen s. n.
- | شُبُوح | pl. شَيْخ | البَلَد s. m. Schulze s. m.
- | قَوَانِين | المَدَارِس s. f. Schul-zucht s. f. | التَّزَام | بِزِيَارَةِ s. m. -zwang
 | المَدَارِس |
- | سَحْمُور | s. n., -stunde s. f. Schummerlicht s. n.,
- | شَفَق |
- | شَيْء | لا طَائِل فِيهِ s. m. Schund s. m.
- | أَسْفَاط | pl. سَفَط s. f. Schuppe s. f. | فُلُوس | pl. فُلْس | السَّمَك
 | نَزَع | i fish | -n va. حَرَاشِف | pl. فُلُوس | السَّمَك
- | مَحَطَّ | لِلْعَجَلَات | الح s. m. Schuppen s. m. | سُقُوف | pl. سَفَف | عَلَى | عَوَامِيد
- | ذُو | فُلُوس | ذُو | قُشُور s. a. schuppig a. | (سَمَك).
- | قَصَّ | الشَّعْر (لِلْحَيَّوَان) s. f. Schur s. f.
- | سَعَرَ | ه | أَجَّ | النار | Feuer va. schüren va. | شَعَلَ | ه | أَسَعَرَ | ه
- | حَفَرَ | i | فِي | المَعْدِن vn. schürfen vn.
- | ثَقَلَ | عَلَيْهِ | أَزَعَج | ه | jn. va. schurigeln va.
- | خُبْنَاء | pl. خَبِيث s. m. Schurke s. m. | خُبْتُ | s. f. -n | s. m. -n | s. f. -rei
- | خَبِيث | | schurfisch a. | خَبَائِث
- | تَرَحَّلَق | * | زَلِق | a vn. schurren vn.
- | تَلَامِيذَة | u. pl. تَلْمِيذ s. m. Schüler s. m. | طَلَبَة | u. طَلَّاب | pl. طَالِب | تَلَامِيذ
 | عَائِب | | فِي | مَنُوَال | تَلْمِيذ s. a. -haft
 | ابْنَة | دَارِسَة s. f. -in s. f. | غِر | pl. بَنَات
- | مَغَطَّرِف | | مَتَغَطَّرِس s. m. Schul-fuchs s. m. | مَنظُوم | | قَانُونِي s. a. -gerecht
 | تَلَامِيذ | u. pl. تَلَامِيذ s. m., -find s. n., -fnabe s. m. | مُعَلِّم | s. m. -lehrer s. m., -meister s. m. | أُسَاتِذَة | pl. أُسْتَاذ | مُدَرِّس
 | دَرَس | ه | jn. va. -meistern | اسَاتِيد | واجب s. a. -pflichtig | انتقد s. a. -rat
 | عَلَيْهِ | التَّدْرِيس | فِي | المَدْرَسَة s. m. | مَجْلِس | شُورَى | المَعَارِف s. m. | مَجْلِس | شُورَى | (Person) --
 | أَغْضَاء | pl. المَعَارِف s. f. -stunde s. f. | دُرُوس | pl. دَرَس
- | أَكْتَف | | pl. كِتْف s. f. Schulter s. f. | عَظْم | العَضُد s. n. -bein s. n. | مُشَط | الكِتْف s. n. | -n va. | Gewehr mil. | رَفَع | a | السِّلَاح
- | شَيْخ | البَلَد s. m. Schultheiß s. m. | شُبُوح

Schurz s. m. (der Wilden) فُوطَة
فُوط pl. الوَحْشِيِّينَ

Schürze s. f. مِحْرَم | وِزْرَات pl.
مَمْلُوك* | نُطْق pl. نِطَاق | مَحَازِم pl.
مَمَالِيك pl.

Schurzfell s. n. وِزْرَة مِّن جِدْد pl.
وِزْرَات

schürzen vn. einen Knoten i عَقَدَ
عَقْدًا

Schuß s. m. إِطْلَاق بُنْدُقِيَّةٍ أَوْ مِدْفَعٍ
جُرْح مِّن إِطْلَاق (-wunde) -
pl. جُرْح مِّن إِطْلَاق (-wunde)
jm. in den - kommen
لَقِيَ a في وَقْتِهِ

Schüssel s. f. صُكُون pl. صُكُون
große - صِينِيَّة | أَطْبَاق pl. أَطْبَاق -
جَفَنَة pl. جَفَنَان

schuß-fest a. لا يُجْرَح | -linie s. f.
غَلْوَة s. f. -weite | حَظَّ الرَّمِي
جُرْح مِّن -wunde s. f. رَمِيَّة
جُرْح pl. إِطْلَاق

Schuster s. m. f. Schuhmacher.

Schutt s. m. خِرْبَة | نُقْض | رَدْم

Schüttelfrost s. m. رَعْشَان بَرْد*
| schütteln va. jn. u. etw. هَزَّ u هَو ه
Medizin - هَزَّهَزَّ u هَو | هَزَّهَزَّ u هَو
Kleid - خَصَّخَصَّ الدَّوَاء

نَقَّض الثُّوب | schütten va. etw.
كَبَّ u هَو | سَكَب u هَو | صَبَّ u هَو

Schutthaufen s. m. كَوْمَة الرَّدْم pl.
خِرْب pl. خِرْبَة | كَوْم

Schutz s. m. دِفَاع | حِمَايَة | حِفْظ
| مَحَامَاة | jn. u. etw. in -
nehmen f. schützen | zu - u. Truß
-befohlenen | في الدِفَاع وَالْحُجُوم
s. m. f. -genosse | -blattern s. pl.
f. -pocken | -brief s. m. وِرْقَة أَمَان
أَمَان | أَمْن

Schütze s. m. قَوَاسَة pl. قَوَاس
صِيَاد pl. صِيَادُون | schützen va.
حَفِظ a i حَمَى

Schutzengel s. m. الْمَلَاك الْحَارِس

Schützer s. m. حَافِظ | حَام

Schutzgeist s. m. f. -engel | -genosse
s. m. حَمِيَّة* | مُحَامَى عَنْهُ
pl. حَمِيَّة* | مُحَامَى عَنْهُ
-heiliger s. m. kath. حَمَايَا
الْقِدِّيس الْمُحَامَى عَن شَخْصٍ أَوْ
شَفِيْع الشَّخْصِ أَوْ الْبَدَد | بَدَد
-herr s. m. حَافِظ | حَام

Schützling s. m. مُحَامَى عَنْهُ

Schutzmann s. m., pl. -leute ضَابِطِي*
pl. ضَابِطِيَّة* | بُولِيْس*
-mannschaft s. f. الضَابِطِيَّة*
-patron s. m. f. -heiliger | -pocken s. pl.

دَاءُ البَقْرِ | pochenimpfung s. f.
 med. * | تَلْقِيحٌ | Töpferei s. f.
 pl. مِتْرَاسٍ | سور | متاريس pl.
 ضَرْبَةٌ | zoll s. m. | حِفْظٌ | أسوار
 عَلَى البَضَائِعِ الأَجْنَبِيَّةِ لِحْفَظِ
 ضَرَائِبِ pl. البَضَائِعِ البَلَدِيَّةِ.

Schwabe s. f. | سِيسَانِ pl. سُوَسِ
 عُنْتٌ u. عُنْتٌ pl. عُنْتَةٌ.

(von schwach a. | عاجزٌ | ضَعِيفٌ
 مُفْرَطٌ فِي | قَلِيلِ العَزْمِ (Charakter)
 | قَلِيلِ (an Zahl) | - | التَّسَاهُلِ
 - | ضَعْفٌ u. ضَعْفٌ | die -e Seite
 | الضَّعِيفِ مِنْ شَيْءٍ | einer Sache
 | غُشِيَ عَلَيْهِ - | es wurde ihm

إِفْرَاطٌ | عَجْزٌ | ضَعْفٌ | Schwäche s. f.
 (Ohnmacht) | - | فِي التَّسَاهُلِ
 -n va. | جِن. u. | عَشِيَانِ
 | قَتْلٌ هـ وَهـ | أَضْعَفُ هـ وَهـ
 | ضَعْفٌ u. - | سِجْ | نِهْكَ هـ
 | ضَعْفٌ | - | بِنْتًا - | ein Mädchen

Schwachheit s. f. | Schwäche | -kopf
 s. m. | رَجُلٌ قَلِيلُ العَقْلِ.

Schwächlich a. | ضَعِيفٌ | Schwächling
 s. m. | رَجُلٌ ضَعِيفٌ | رَجُلٌ
 قَلِيلُ العَزْمِ.

Schwachsinns s. m. | رَكَكَةٌ | صِغَارٌ

اِرْكَيكَ a. | -ig | قِلَّةُ العَقْلِ | النَفْسِ
 قَلِيلِ العَقْلِ | صَغِيرِ النَفْسِ.

Schwächung s. f. | إِضْعَافٌ |
 - | eines Mädchens | الأَبْنَةُ
 | بُخَارٌ مُضَرَّرٌ (Dunst) | Schwaden s. m.
 - | حُرْمَةُ القَمْحِ | Getreide

Schwadron s. f. | خَيْالَةٌ | mil.
 -eur | كِتَابَةٌ pl. | كَتِيبَةٌ | فِرْقٌ pl.
 s. m. * | فَشَّرَ * | -ieren vn. | فَشَّارٌ *.

Schwager s. m. (Mann der Schwester)
 | أَصْهَارٌ pl. | صِهْرٌ | زَوْجُ الأَخْتِ
 | - | (Bruder des | نَسِيبٌ *
 Mannes) | pl. | سِلْفٌ | أَخُو الزَّوْجِ
 | - | (Bruder der Frau) | أسلاف

Schwägerin s. f. | أَخُو الزَّوْجَةِ
 (Schwester des Mannes od. der
 Frau) | أَخْتُ الزَّوْجِ أَوْ | الزَّوْجَةِ (Frau
 des Bruders) | - | سِلْفَةٌ

كِنَائِنٌ pl. | كَنَّةٌ | زَوْجَةُ الأَخِ
 | مُصَاهَرَةٌ s. f. | Schwägerschaft
 | مُقَارَبَةٌ | Schwäher s. m. |
 Schwiegervater.

Schwalbe s. f. | سُنُونُوٌ coll. | خَطَّافٌ
 | سُنُونُوءَةٌ - | eine | خَطَّاطِيفٌ pl.
 سُنُونِيَّةٌ.

Schwall s. m. (des Meeres zc.) | تَلَاطَمٌ

اغزارة (Menge) - | (الأمواج مثلاً)
كثرة.

Schwamm s. m. اسْفنج | سَفنج coll. |
ein - | اسْفنجة | سَفنجة -
إِسْفنجِيّ a. -ig | فطر

Schwan s. m. أرادف pl. أرذف* |
-en vn., es schwant mir daß
-engesang | يُكَدِّتْنِي قَلْبِي بِأَن
آخر المنظومات s. n. -enlied
لشاعر.

Schwang s. m., im -e sein له u كان
أعتبار عند الناس

schwanger a. حبالى pl. حبالى |
حامل - | sein od. werden, sich -
fühlen (Frau) حَبَلَتِ الأَمْرَأَةُ |
حَمَلَت | bld. mit etw. - gehen
schwängern va. | قَصَدَ i ه | تَأَمَّلَ فِي
va. Mädchen حَبَلُ البِنْتِ | bld.
etw. - mit ه | أَشْرَبَ ه ه |
Schwangerschaft s. f. حَبَل |
Schwängerung s. f. البَطْنِ |
إشباع | إشرب | bld. تحبيل

Schwanz s. m. لطيفة | مزاح pl.
schwanz | رواية مضحكة | لطائف
a. متمايل | سهل الثنى والطى
schwanz vn. | ارتج | تمايل

اضطرب - | (in seinen Entschlüssen)
تَحَيَّرَ فِي أَمْرِهِ.

Schwanz s. m. ذنب pl. أذنان |
schwänzeln | أذبال u. ذبول pl. ذبل
vn. | حَرَكَ ذَنْبَهُ | bld. - | تَمَلَّقَ |
schwänzen va. die Schule a. ذهب
إلى اللعيب لا إلى الدرس

schwapp! schwapps! interject. صوت
الساقط.

Schwären s. m. دمل pl. دمايل |
جراحات pl. جراح

schwären vn. i قاح | تقيع.

Schwarm s. m. (Bienen od. Vögel)
| أسراب pl. سرب (نحل أو طائر)
| جمع - | سرب pl. سربة
schwärmen vn. | كثرة | جموع
u. | تَكَرَّكَرَ | رَفَرَفَ | حام
| هام i | تَعَجَّبَ مِنْهُ غَايَةَ التَّعَجُّبِ
Schwärmer s. m. نوع من الأسهم
سريع (Mensch) - | النارية
| متعصب (في الدين) | التعجب
| حمية s. f. | Schwärmerei | خصوصاً
schwärmerisch a. | تعصب | هيام
| متعصب | سريع التعجب
Schwarmgeist s. m. رجل متعصب
(في الدين خصوصاً)

Schwarte s. f. جِلْدٌ غَلِيظٌ (الْحِنْزِيرِ) |
خُصُوصًا.

schwarz a. سُودٌ f. سَوْدَاءُ pl. |
حَالِكٌ | دُهُمٌ pl. دَهْمَاءُ f. أَدْهَمُ
- sein od. werden a. سَوِدَ |
سَوَّدَ | etw. - machen |
sich - machen | تَسَوَّدَ |
لَوْحٌ أَسْوَدٌ | das - e Brett |
السِّحْرُ | عَلَيْهِ إِعْلَانَاتٌ فِي دَارِ الْفُنُونِ
- auf weiß | نُحْرِبِرًا |
- braun a. |
- brot | سُمُرٌ pl. سَمْرَاءُ f. أَسْمَرُ
s. n. | عَيْشَى أَسْوَدٌ * |
خُبْزٌ أَسْوَدٌ s. n. |
مَرْكَزُ الْوَدْفِ s. n. - e

Schwärze s. f. |
إِسْوَدَادٌ | سَوَادٌ f. |
- n |
va. etw. هُ | سَوَّدَ |
- - |
Waren
هَرَّبَ الْبَضَائِعِ.

Schwarzer s. m. (Neger) |
سُودَانِيٌّ |
pl. |
سُودَانٌ |
der Schwarze (Teufel)
السَّيْطَانِ.

Schwärzer s. m. |
مُهَرَّبَ الْبَضَائِعِ.

Schwarzkünstler s. m. |
سَاحِرٌ pl. |
سُحَّارٌ u. سَحْرَةٌ u. سَاحِرُونَ.

schwärzlich a. |
أَدْكَنُ | مُشْرَبُ السَّوَادِ |
f. دَكْنَاءُ, pl. دُكْنٌ.

Schwarz-seher s. m. |
الْمُنْذِرُ بِأُمُورِ |
قَرَاعٌ | -specht s. m. zool. |
مُحْزَنَةٌ |
-wild s. n. zool. |
نَقَّارٌ أَسْوَدٌ |
أَسْوَدٌ

-wurzel s. f. bot. |
الْحِنَازِيرُ الْبَرِّيَّةُ |
فُقُبُولٌ أَسْوَدٌ.

Schwarz s. m. f. |
Geschwätz | -en vn. |
لَبْلَبٌ * | خَرَطَ * u |
أَكْثَرَ الْكَلَامِ |
- - (aus- -) |
أَفْشَى السِّرِّ

Schwätzer s. m. |
هَذَّارٌ * |
فَشَّارٌ * |
عَلَاكَ |
-ei s. f. f. |
Geschwätz.

schwatzhaft a. |
كَنْبِيرُ الْكَلَامِ |
هَذَّارٌ |
كَثْرَةٌ s. f. |
مُفْشَى السِّرِّ -igkeit |
إِفْشَاءُ السِّرِّ |
تُرْتَرَةٌ |
الْكَلَامِ

Schwebe s. f., in der - sein |
تَعَلَّقَ |
-n vn. in der Luft |
حَامٌ u |
فِي الْجَوِّ |
أَصْبَحَ فِي خَطَرٍ -- |
تَعَلَّقَ |
in Gefahr -- |
مُتَعَلِّقٌ a. -er |
Gang |
مِشْيَةٌ -nd |
-e Schuld |
دَيْنٌ يَلْزَمُ |
خَفِيفَةٌ |
وَفَاؤُهُ عَنْ قَرِيبٍ.

Schwede s. m. |
إِنْسَانٌ سُويِدِيٌّ |
-n n. pr. |
بِلَادِ السُّويِدِ |
بِلَادِ أَسْوَجٍ |
schwedisch a. |
سُويِدِيٌّ.

Schwefel s. m. chem. |
كِبْرَيْتٌ |
-bande s. f. |
جَمَاعَةُ الْأَشْفِيَاءِ |
-blume s. f., -blüte s. f. chem.

-dampf |
الْمُصْعَدُ مِنَ الْكِبْرَيْتِ |
-faden |
بُخَارُ الْكِبْرَيْتِ s. m.

-holz s. n., |
خَيْطٌ مُكْبَرَتٌ s. m. |
-hölzchen s. n. |
كِبْرَيْتٌ * |
شَحَّاطَةٌ * |
-ig a. |
وَلَعَةٌ * |
شَحَّاطَاتٌ pl.

- كَبُرَتْ هـ | -n va. etw. | كِبْرِيَّتِي
 -quelle s. f. | طَلَى i هـ | بالكِبْرِيت
 -säure s. f. chem. | عَيْن كِبْرِيَّتِي
 | رُوح الزاج | حَامِض كِبْرِيَّتِي
 | -wasserstoff s. m. chem. | اِذْرُوجِيْن
 . كِبْرِيَّتِي
- Schweif s. m. | اَذْنَاب pl. | ذَنْب
 . اَذْيَال u. | ذُيُول pl. | ذَيْل
- schwefeln vn. | طاف u | جال | u
 | مُحَدَّب | مُقَبَّب | geschweift
- schwefwedeln vn. | حَرَكَ الذَّنْب | اذنب
 . تَمَلَّق | bld.
- schwweigen vn. | صَمَت u | سَكَت | u
 - | سَكَت u | - | stille - | von, über etw. -
 | لَمْ يُعَارِضْ هـ - | zu etw. | سَكَت u | عَن
 | سَكُوت | سَكُوت | Schweigen s. n. | سَكَت
 | اَسَكَّت | zu - bringen | صَمَت | in.
 | كَفَّ u | عَن السُّكُوت | - brechen | das
 | رَجُل سَكُوت | Schweiger s. m. | سَكُوت
 . سَكَّيت
- schwweisam a. | سَاكُوت | سَكُوت | a.
 | سَكُوت s. f. | - | سَكَّيت | - | feit
 . صَمَت | سَكَت
- Schwein s. n. | خِنَازِير pl. | خِنَازِير
 | رَجُل قَدْر - | bld. | خِنَازِير -
 | خِنَازِير مَشْوِي | - | ebraten s. m. | - | بَرِّي
 | - | لحم الخنزير s. n. | - | effleisch
- s. m. | رَجُل مَلْعُون - | erei s. f.
 | قَوَاجِحْش pl. | فَاِحِشَة | أَقْدَار pl. | قَدْر
 - | اِصْطَبُل الخِنَازِير | - | estall s. m.
 - | قَدْر | igel s. m. | - | ewirtschaft s. f.
 | رَجُل دَرِن | رَجُل قَدْر | - | ifch a.
 . فَاِحِش | دَرِن | قَدْر
- Schweiß s. m. | عَرَق | bld. | (Mühe)
 | دَم الإَيْل (Hirschblut) | - | تَعَب
 - | مَعَرِّق | - | befördernd a. | en va.
 | لَحْم هـ | لَحْم | الحديد | das Eisen
 | فَرَس | فَرَس | أَشْقَر | - | fuchs s. m.
 | ضِرْو pl. | - | hund s. m. | - | أَصْهَب
 | عَرْقَان * | عَارِق | - | ig a. | ضِرَاء
 | دَوَاء مَعَرِّق | - | mittel s. n. | pl. | أدْوِيَة
 | مَعَرِّق | - | treibend a. | - | triefend a.
 . عَرْقَان * | عَارِق
- Schweiz s. f. n. pr. | بِلَاد سُويْسَرَا | ا
 | سَفِيْسَرَا | - | er s. m. | اِسْوِيْسَرَا
 | رَجُل سُويْسَرِي | سَفِيْسَرِي | ا
 | - | erisch a. | - | بَوَاب (Portier) -
 . سَفِيْسَرِي | سُويْسَرِي
- schwelen vn. | دَخَن | دَخَن | a, u
 | اَفْرَط فِي الأَكْل وَالشُّرْب | schwelgen vn. | اَفْرَط فِي الأَكْل وَالشُّرْب
- Schwelger s. m. | مُفْرِط فِي | اِنْسَان
 | اَفْرَاط فِي الأَكْل وَالشُّرْب | Schwelgerei s. f.
 | اَفْرَاط فِي الأَكْل وَالشُّرْب | schwelgerisch a.
 . مُفْرِط فِي الأَكْل وَالشُّرْب

Schwelle s. f. عَتَبَات pl. عَتَبَات (الباب) u. عَتَب.

schwellen va. etw. ه | وَرَمَ ه | نَفَخَ u ه
 | وَرَمَ ا | اِنْتَفَخَ - | زاد i ه
 | اِنْتِفَاخ s. f. | تورم | تورم
 | وَرَمَ ا | نَفْحَة .

Schwemme s. f. تَغْسِيل الخَيْل في
 غَسَلَ الخَيْل -n va. | الماء
 عَوَمَ الخَشَب Holz - - | في الماء

Schwengel s. m. مِدْق (Glocken-) | الجرس

schwenken va. etw. ه | دَلَدَل ه | هَزَّ u ه
 - | انْقَلَب | Schwenkung
 s. f. | انْقِلَاب | هَزَّ .

schwer a. (zu thun) عَسِر | صَعِب
 | ثَقِيل (von Gewicht) - | عَسِير
 - | صَعِب u | sein od. werden
 | ثَقُل u | عَسِر | عَسِر u
 | ثَقُل s. f. | -e | اسْتَصْعَب ه
 | رَجُل طَائِش enöter s. m. | ثِقَالَة
 | رَجُل -- | liebenswürdiger | خَفِيف
 | بَطِيْ ا. | -fällig | أنيس للنساء
 | عادِم الذكاء | ثَقِيل الدَم | الحركة
 | عَدَم | ثَقُل | بَطء s. f. | -fähigkeit
 | ثَقِيل السَّمْع a. | -hörig | الذكاء
 | -kraft | ثَقُل السَّمْع s. f. | -hörigkeit
 s. f. phys. | انْجِذَاب الأَجْرَام بَعْضُهَا

-lich | مَيْل الأَجْرَام | إِلَى البَعْض
 | بِنْتَعِب | بِكِد | بِصُعُوبَة
 -mut s. f. | سَوْدَاء -mütig a.
 | سَوْدَاوِيّ -punkt s. m. math.
 مَرَكَز الثِقَل .

Schwert s. n. سَيْف pl. سِيُوف |
 | حُسام | mit Feuer u. - verwüsten
 | أَحْرَق و ذَبَح a ه | feger
 | صَيَاقِلَة pl. | صَقَال s. m. | fisch
 | نَوْع مِّن سَمَك البَحْر s. m. zool.
 | نَوْع مِّن السُّوسَن s. f. bot. | lillie
 | ضَرْب بالسَيْف s. m. | -streich
 | بلا قِتال - - ohne

Schwester s. f. أُخْت pl. أَخَوَات |
 | شَقَائِق pl. | شَقِيْقَة (Nonne)
 | رَاهِبَات pl. | رَاهِبَة kath. | -lich a.
 | مُخْتَصِر بِالْأُخْت | موافق الأخت

Schwibbogen s. m. رِوَاق pl. رِوَاقَات
 u. أَرْوَقَة .

Schwieger s. f., -mutter s. f. حَمَاة
 | أمّ الزَّوْج أو الزَّوْجَة | حَمَوَات pl.
 | أَصْهَار pl. | صِهْر s. m. | -ohn
 | أَخْتَان pl. | -tochter s. f. | خَتَن
 | كَنَائِن pl. | كَنَة | امْرَأَة الآبِن
 | حَمُوء | حَمُو s. m. | -vater

Schwiele s. f. شَثْنَة | شَثْن

schwül a. | وَمِد | مُقَطَّس * | -e s. f.

وَمَدَّة | وَمَد

Schwulst s. m. (des Stils) جَزَالَةٌ
تَبَهُّجٌ | الكَلَامُ

schwülstig a. | ذُو جَزَالَةٍ |
-feit s. f. | Schwulst.

Schwung s. m. | سَطْوَةٌ | وَثْبٌ | نَزُقٌ |
| حَرَارَةُ النَّفْسِ | حَمِيَّةٌ - | نِزَاءٌ
| brett s. n. | اِرْتِفَاعٌ إِلَى الْمَعَالِي
| kraft s. f. | لَوْحٌ يَثْبُ بِهِ الْوَثَابُ
| phys. قُوَّةٌ دَافِعَةٌ | bld. إِلَى
| عَجَلَةٌ لِلتَّحْرِيكِ | -rad s. n. | الْمَعَالِي
| ذُو حَمِيَّةٍ - | voll

Schwur s. m. | حَلْفٌ | أَقْسَامٌ pl. | قَسَمٌ |
-ge- | أَيْمَانٌ u. | أَيْمُنٌ pl. | يَمِينٌ
مَجْلِسُ الْقَضَاةِ الْمُخْتَارِينَ | gericht s. n.
مَجْلِسُ الْمُحْلَفِينَ | مِنَ الْأَهَالِي

sechs num. | سِتَّةٌ | f. | سِتٌّ | -ed s. n.
-er s. m. | مُسَدَّسُ الزَّوَايَا وَالْأَضْلَاعِ
| من | erleit a. | نَقْدٌ مِنْ نَحَاسٍ
| -fach a., -fältig a. | سِتَّةٌ أَنْوَاعٍ
| -mal | ذُو سِتَّةِ أَضْعَافٍ | مُسَدَّسٌ
| -tel | سَادِسٌ | -te a. | سِتُّ مَرَّاتٍ
s. n. | أَسْدَاسٌ pl. | سُدَّسٌ |
adv. | سَادِسًا

sechzehn num. | سِتَّةٌ عَشْرٌ | f. | سِتٌّ
| سِتُّونٌ | sechzig num. | عَشْرَةٌ

See s. m. | كَيْسٌ pl. | أَكْيَاسٌ

See s. m. | بُحَيْرَاتٌ pl. | بُحَيْرَةٌ s. f.

| أَبْحُرٌ u. | بُحُورٌ u. | بَحَارٌ pl. | بَحْرٌ

بَدَدٌ | اِسْتِحْمَامٌ فِي الْبَحْرِ | -bad s. n.

بَحْرِيٌّ | -fahrer s. m. | يُسْتَحَمُّ فِيهِ

| -fahrt s. f. | مَلَّاحٌ | بَحَّارٌ | بَحْرِيَّةٌ pl.

سَمَكٌ | -fish s. m. | سَفَرٌ فِي الْبَحْرِ

| -gang s. m. | سَمَكَةٌ بَحْرِيَّةٌ | coll. | بَحْرِيٌّ

| -gefecht s. m. | حَرَكَةٌ أَمْوَاجِ الْبَحْرِ

| -hafen s. m. | قِتَالٌ فِي الْبَحْرِ s. n.

| مِينَاءٌ | مِينَا | مَرَايِ pl. | مَرَسَى

شَيْخِ الْبَحْرِ | -hund s. m. | zool.

مُصَابٌ بِدَوَارٍ | -krank a. | شَيْوُخٌ pl.

| دَوَارِ الْبَحْرِ | -krankheit s. f. | الْبَحْرِ

دَوْحَةٌ * | تَشْوِيشُ الْبَحْرِ

Seele s. f. | نَفْسٌ pl. | أَنْفُسٌ u.

(Person, | - | أَرْوَاحٌ pl. | رُوحٌ | نَفُوسٌ

Einwohner) | أَنْفَارٌ pl. | نَفَرٌ | نَفْسٌ

| -nhirt s. m. | سَكَّانٌ pl. | سَاكِنٌ

واعظٌ | أَقْسَةٌ pl. | قَسِيْسٌ | christl.

| علمٌ | -lehre s. f. | وَعِظَاءٌ pl.

| رَاحَةٌ الْبَالِ | -ruhe s. f. | النَّفْسِ

مَبْسُوطٌ | -nvergnügt a. | سَكِينَةٌ

| -n- | ذُو حَمِيَّةٍ | -nvoll a. | جِدًّا

wanderung s. f. | تَنَاسُخٌ | seelisch a.

مُخْتَصِرٌ بِالنَّفْسِ | نَفْسِيٌّ

Seelöwe s. m. | زَوْعٌ مِنَ الْهَيْتَانِ | zool.

Seelforger s. m. f. Seelenhirt.

See-mann s. m., pl. -leute بَحْرِيّ

pl. -meile | مَلّاح | بَحّار | بَحْرِيَّة

s. f. ميل pl. أميال | -raub s. m.

قُرْصَان * | -räuber s. m. * | قُرْصَانَة *

pl. | قُرْصَانَة * | -räuberei s. f. | قَراصِين

-reise s. f. | سَفَر فِي الْبَحْر | -schlacht

s. f. | قِتال فِي الْبَحْر | -stadt s. f.

-treffen | مَدِينَة عَلَي شَطِّ الْبَحْر

s. n. | قِتال فِي الْبَحْر | -wärts adv.

أَحْوال | -wesen s. n. | نَحْو الْبَحْر

رِيح | -wind s. m. | الْبَحْر وَالْمِلاحة

-zunge s. f. | مِنْ جِهَة الْبَحْر

zool. | سَمَك مُوسَى.

Segel s. n. | قِلْع pl. | قُلُوع u. | قِلاَع

(Schiff) | - | أَشْرَعَة u. | شُرْع pl. | شِراع

pl. | سَفِينَة | مَرابِب pl. | مَرَكَب

-boot | أَقْلَع | - | gehen - | سَفْن | سَفْن

s. n. | زَوارق pl. | زَوْرَق ذُو قِلاَع

- | مُسْتَعِدّ لِلاَقْلَع | - | vn. | -fertig a.

- | سافِر فِي الْبَحْر | - | أَقْلَع | Schiff s. n.,

Segler s. m. | مَرَكَب ذُو قِلاَع.

Segen s. m. | بَرَكات pl. | بَرَكة (Das

Segnen) | نافع a. | سَراة | - | مُباركة (Segnen)

- | دُعا لَهُ | - | سَراة s. m. | - | أَدْعِيَة pl.

تَهانِيء pl. | تَهانِيء.

Segment s. n. math. | قُطْعَة الدائِرَة

pl. | قِطْع.

segnen va. | بَارَك فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ | in.

gesegeten Leibes, | صَلَّى عَلَيْهِ

in gesegeten Umständen (Frau)

das Zeitliche - | حَامِل | حَبْلِي

u | مات | Segnung s. f. | مُباركة

sehen va. | رَأَى | u. | etw. | و ه

أَبْصَرَ | نَظَرَ | إِلَى | شاف u | و ه *

mit eigenen Augen - | شَاهَدَهُ

auf etw., nach etw. - | عَاينَهُ

in. | etw. - | لَاف | إِعْتَنَى بِ

أَظْهَرَ | شَوَّفَهُ * | أَرَى ه ه

أَظْهَرَ | أَرَى نَفْسَهُ | - | لَاف

vn. | سَراة - | نَفْسَهُ

in. | أَشابه ه - | أَشابه ه

أَطَلَّ | على (الدار) | (Haus 2c.)

- | سَراة a., - | سَراة a. | مُسْتَحِقّ

نادِر | عَجيب | غَرِيب | النَظَر

- | سَراة s. f. | غَرِيبَة pl. | - | سَراة

نَوادر pl. | نادرَة | عَجائب pl. | عَجيبَة

Seher s. m. | أنْبِياء pl. | نَبِيّ

s. f. | نَبِيّات pl. | نَبِيَّة

Sehkraft s. f. | قُوَة البَصَر.

Sehne s. f. | أطراف pl. | طرف العَضَلَة

(Des Bogens) | - | أطناب pl. | طُنْب

أوتار pl. | وَتَر (القوس)

sehnen v., sich - nach | اِسْتَنَقَ إِلَى

Sehnen s. n. | اِسْتِنْيَاقٌ | شَوْقٌ

seh'nig a. | دُوْ اَطْنَابٍ | طُنْبِيٌّ

seh'n-lich a. | شَدِيدٌ | حَارٌّ | مُشْتَقٌ

-sucht s. f. | شَوْقٌ | -füchtig a.

f. -lich.

sehr adv. | جَدًّا | كَثِيرًا

seichen vn. u | بَالَ | شَخَّ | بَوَّلَ *

seicht a. | قَلِيلٌ | قَلِيلٌ | الْعُمُقُ | وَطِيٌّ

heid s. f., | سَطْحِيٌّ - | bld. | الماء

-igkeit s. f. | قَلَّةٌ | قِلَّةٌ | وِطَاءٌ | وِطَاءٌ

heid s. f. | سَطْحِيَّةٌ - - | bld. | الْعُمُقُ

Seide s. f. | حَرِيرٌ | (-Roh-) * قَرَّ

Seidel s. n. Bier | كُبَّايَةٌ | الْبَيْرَةُ *

seiden a. | فَابْرِكٌ | حَرِيرٌ | حَرِيرِيٌّ

s. f. | فَابْرِكَانْتٌ | مَعْمَلُ | الْحَرِيرِ

s. m., -händler s. m. | حَرَّارٌ

-papier s. n. | وَرَقٌ | رَفِيعٌ | جَدًّا

-raupe s. f. | دُوْدُ | الْقَرَّ * | دُوْدُ | الْحَرِيرِ

-spinnerei s. f. | ف. | فَابْرِكٌ | -stoff

s. m. | نَسِجٌ | نَسِجٌ | نَسِجٌ | حَرِيرِ

s. m. | نَسَائِجٌ | -wurm s. m. | ف. | -raupe.

Seife s. f. | صَابُونٌ * | ein Stück -

صَبَّانٌ | فِيدِرٌ s. m. | صَابُونَةٌ

مَصْبَنَةٌ | فِيدِرِيٌّ s. f. | صَابُونِيٌّ

Seihe s. f. | مِصْفَاةٌ | -n va. etw.

أَجْرِيٌّ هـ | بِالْمِصْفَاةِ | أَصْفَى هـ

Seil s. n. | حَبْلٌ pl. | حِبَالٌ | -er s. m.

مَعْمَلُ | الْحِبَالِ | -erarbeit s. f., -erhandwerk s. n.

-erarbeit s. f., -erhandwerk s. n.

-tänzer s. m. | صِنَاعَةٌ | الْحِبَالِ

بُهْلَوَانٌ *

Seim s. m. | لَزَجٌ | مَائِعٌ | لَزَجٌ

seim, -ig pron. poss. | ُ | -Buch | كِتَابُهُ

-ethalben, -etwegen, um -etwillen

بِسَبَبِهِ

seim v. aux. u | وَجِدَ | كَانُ | er ist

groß | لَيْسَ - | هُوَ | كَبِيرٌ

zu thun - | لَزِمَ | ا | فِعْلُهُ -

Sein s. n. | وَجُودٌ | كَوْنٌ

seit praep. c. dat. | مُنْذُ | مُنْذُ

- conjct. | مُنْذُ | -ab adv. | جَانِبًا

-dem adv. | مُنْذُ | مِنْ | ذَلِكَ | الْحَيْثُ

مُنْذُ

Seite s. f. | جَانِبٌ pl. | جَوَانِبٌ

جِهَةٌ pl. | جُنُوبٌ pl. | جَنْبٌ

von | أَطْرَافٌ pl. | طَرَفٌ | جِهَاتٌ

seiner - | مِنْ | جِهَتِهِ | مِنْ | قِبَلِهِ -

von dieser - | مِنْ | هَذَا | الْقَبِيلِ -

- (eines Buches) | صَحِيفَةٌ pl.

صَفْحَاتٌ pl. | صَفْحَةٌ | صَحَائِفٌ

etw. bei - legen, stellen | أَبْقَى هـ

unblick s. m. | وَقَرَّ هـ * | اِسْتَبْقَى هـ

Seitengewehr s. n. | اَلْحَاظُ pl. | حَرْبَةٌ

- pl. | حِرَاب | -nlang a. طُولُهُ صَفْحَةٌ
 -nlinie s. f. | أَوْ بَعْضُ الصَّفَحَاتِ
 (Der familie) | حَظُّ الْقَرَابَةِ غَيْرِ
 -ns praep. c. gen. | الْمُسْتَقِيمِ
 -n[schmerz s. m., | مِنْ جِهَةِ ال...
 -nstechen s. n. | جُنَابِ | بِرُسام
 -nstück | ذاتِ الْجُنُبِ | شَوْصَةَ | موم
 s. n. (zu einem andern) | الْأَخِ
 -nver- | النِّظِيرِ لِغَيْرِهِ | لِغَيْرِهِ
 wandte s. pl. | الْأَعْمَامِ وَالْأَحْوَالِ
 -nzahl s. f. eines Buches | وَبَنُوهُمْ
 عَدَدُ صَفْحَاتِ كِتَابِ
 -lich | مُنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ | seit-her adv.
 | كَائِنٍ عَنِ جَانِبِ | جَانِبِيَّ a.
 | عَنِ جَانِبِ | -wärts adv. | مُتَطَرِّفِ
 جَانِبًا.
 Sefante s. f. math. | حَظُّ قَاطِعِ.
 Sekretär s. m. | كَاتِبُونَ pl. | كَاتِبِ سِرِّيَّ
 u. | كَتَبَةٌ u. | كُتَّابِ u. (Staats-)
 (Schreibtisch) | - | وَزَرَاءِ pl. | وَزِيرِ
 Sekretariat s. n. | مَائِدَةٌ لِلْكِتَابَةِ
 مَنَصِبِ الْكَاتِبِ السِّرِّيِّ.
 Sekt s. m. | . | Champagner.
 Sekte s. f. | طَائِفَةٌ دِينِيَّةٌ
 pl. | شَيْعِ.
 Sektion s. f. med. | - | تَشْرِيبِ (Teil)
 pl. | أَجْزَاءِ pl. | جُزْءِ

- Sektierer s. m. | تَبِعَةٌ pl. | شَيْعَةٌ
 Sekunda s. f. | الصَّفِّ الثَّانِي فِي
 -ner s. m. | الْمَدَارِسِ التَّجْهِيذِيَّةِ
 تَلَامِيذَةٌ pl. | تَلْمِيذِ الصَّفِّ الثَّانِيِ
 Sekundant s. m. | مُسَاعِدٌ فِي الْمُبَارَاةِ
 Sekunde s. f. | ثَوَانٍ pl. | ثَانِيَّةٌ
 sekundieren va. | سَاعَدَ jm. s.
 selber, selbst | عَيْنِ | نَفْسِ (لِلتَّأْيِيدِ)
 | أَنَا بِنَفْسِي | أَنَا نَفْسِي - | ich | ذاتِ
 | أَنَا بِذَاتِي | أَنَا بِعَيْنِي | von -
 | تَلْقَاءِ نَفْسِهِ
 selbständig a. | مُسْتَقِيلٌ | مُسْتَبِدٌّ
 - | اسْتِقْلَالِ | - | اسْتَقْلَلِ | -
 | اسْتَبْدَادِ.
 Selbstbeherrschung s. f. | ضَبْطُ النَّفْسِ
 -bewußtsein s. n. | قَهْرُ النَّفْسِ
 -eigen a. | . | eigen | عُنْجِبِ | زَهُوِ
 -erkenntnis s. f. | مَعْرِفَةُ النَّفْسِ
 -gefällig a. | دُوْ عُنْجِبِ | -gefällig
 -ge- | الإِحْسَاسِ بِقُدْرِهِ | -ge-
 | مُخَاطَبَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ | - | نَفْسَهُ
 -herr s. m., -herrscher s. m.
 -hilfe s. f., -hülfe | مَلِكِ مُطْلَقِ
 s. f. | أَخْذِ حَقِّهِ بِيَدِهِ | -laut s. m.
 | حَرْفِ مُصَوِّتِ | (arab.) | حَرْكَةٌ
 pl. | حَرْكَاتِ | -liebe s. f. | مَحَبَّةٌ
 -los a. | أَنَانِيَّةٌ * | الذَّاتِ

- | fengerig | خَرَبَ الْبِلَادَ فِي الْحَرْبِ
 a, -er Geruch شِيَاطِ.
 Senior s. m. الْأَكْبَرُ عُمَرًا.
 Senf-blei s. n. امْرَاجِيسِ pl. مِرْجَاسِ
 -e s. f. اِنْحِطَاطِ | اِنْحِطَاطِ | el s. m.
 -en va. | بَرِيمِ يَنْشُدُ بِهِ الصُّدْرَةَ
 etw. هَبَطَ u ه | وَطَأَ ه | أَنْزَلَ ه
 sich - - | اِنْحَبَطَ | اِنْحَطَّ - -
 s. f. | بَوَالِيَعِ pl. | بَلْوَعَةَ
 هُبُوطِ | اِنْحِطَاطِ s. f. | -ung
 Senn s. m., -e s. m., -hirt s. m.
 pl. رَاعِي الْبَقَرِ فِي جِبَالِ الْأَلْبِ
 -hütte | رَاعِيَةً s. f. | رُعَاةِ
 s. f. كُوخِ الرُّعَاةِ فِي جِبَالِ الْأَلْبِ
 pl. أَكْوَاخِ.
 Senfal s. m. سَمَاسِرَةَ pl. سِمُسَارِ
 Seuse s. f. مَحَاشِ pl. مِحَاشِ
 mann s. m. الْمَوْتِ.
 Sentenz s. f. حِكْمَةٌ pl. حِكَمِ.
 separat a. مَخْصُوصِ | خَاصِّ.
 September s. m. | سِبْتِمْبِرِ *
 Septima s. f. الصَّفِّ السَّابِعِ فِي
 -ner s. m. | الْمَدَارِسِ التَّجْهِيْزِيَّةِ
 pl. تَلْمِيْذَةِ الصَّفِّ السَّابِعِ
 Sequester s. n. | حَجَزِ *
 Serail s. n. | سَرَايَةِ *
 pl. سَرَايَاتِ.
- Seraph s. m. | سَارُوفِ
 Serenade s. f. mus. نَوْبَةٌ لَيْلِيَّةٌ.
 Sergeant s. m. mil. | أَوْنِ بَاشِي *
 pl. قُوَادِ | قَائِدِ عَسْكَرِ تَحْتَانِيَّ
 Serpentin s. m. min. حَجَرِ الْحَيَّةِ.
 Serviette s. f. فُوطَةٌ pl. فُوطِ.
 servil a. | دَنِيَّ | دَنِيَّ | عَبْدِيَّ
 -ität s. f. | دَنَاءَةٌ
 Servitut s. n. حَقِّ الْأَسْتِخْدَامِ
 Sefam s. m. | سِمْسِمِ s. n. | سِيرِجِ
 شِيرِجِ.
 Sessel s. m. | كُرْسِيِّ pl. | كَرَايِيِّ
 pl. مَقَاعِدِ | مَقْعَدِ.
 festhaft a. | مُقِيمِ | سَاكِنِ
 Session s. f. | جَلْسَةِ pl. | مَجْلِسِ
 مَجَالِسِ.
 Setzeier s. pl. | بَيْضِ مَقْلِيَّ | setzen
 va. etw. ه | وَضَعَ a ه | حَطَّ u ه
 - in. | أَجْلَسَ ه | in. auf den
 Thron | أَجْلَسَ ه فِي كُرْسِيِّ الْمَلِكِ -
 - Bäume | غَرَسَ i الْأَشْجَارِ
 etw. in den Kopf - | أَلْقَى ه
 - in. | in die Welt -
 | وَكَدَ i ه | das Leben daran -
 | فَرَضَ i - | خَاطَرَ بِنَفْسِهِ
 sich - | جَلَسَ i - | sich
 | رَاقِ u | (المَائِعِ) (الْفُلُوفِيَّةِ)

vn. - über einen Fluß | قَطَعَ a نَهْرًا
 - (springen) i | وَثَبَ | gesetzt a. وَقَارَ
 | gesetzt daß | فَرَضْنَا أَنْ | رَزِين
 صَقَاف | Setzer s. m. | فَرَضْنَا أَنْ
 | Setzling s. m. | عَرَسَ pl. | الحُرُوف
 . شَتْل * | أَعْرَاس u. | غِرَاس
 Seuche s. f. | وَأَبَاء pl. | أَوْبِئَةٌ
 مَرَضٍ | سَارٍ | مُعَدِّ
 Seufzen vn. | تَنَهَّد | u. | نَاح
 Seufzer s. m. | تَنَهَّد .
 Sevilla n. pr. | إِسْبِيلِيَّة .
 Sexta s. f. | الصَّفِّ السَّادِسِ فِي الْمَدَارِسِ
 تَلْمِيذٍ | -ner s. m. | التَّجْهِيزِيَّةِ
 الصَّفِّ السَّادِسِ .
 Sextant s. m. | سُدُسُ الدَّائِرَةِ
 تُقَاسُ بِهِ الزَّوَايَا .
 Shawl s. m. | شَال | شَالَات pl. | شَالَةٌ
 Shlips s. m. | عَصَبَةُ العُنُقِ | بِنْبَار *
 عَصَبَات pl. .
 Sichel s. f. | مَنَاجِل pl. | مَنَجَل
 مَجَاز pl. | مَجَزَّ | مَحَاصِد pl. | مَحْصَد
 sicher a. (Person) | آمِن | آمِين
 لا شَكَّ | حَقِيقِي | يَقِين (Sache) -
 | - einer Sache | أَكِيد | مُوَكَّد | فِيهِ
 | - sein a. | آمِن | مُتَيَقِّن مِن
 -er Ort | مَآمِن | تَيَقَّن مِن
 | - adv. | وَرَقَةٌ آمِنٍ | آمَان Geleit

| أَكِيدًا (gewiß) - | بِلا خَطَرٍ | بِأَمَانٍ
 | آمَان | آمِن s. f. | -heit | لا شَكَّ
 - - (Bürgschaft) | ضَمَان - - (Gew
 wigheit) | تَأْكِيد - -
 (sicherer Ort) | مَآمِن | sich in - -
 bringen | التَّجَاءُ إِلَى مَآمِن
 s. n. | مَنَفَذٍ لِلْبُخَارِ الزَّائِدِ pl.
 | لا شَكَّ | أَكِيدًا | -lich adv. | مَنَافِذِ
 -n va. | جِن. u. | عَتْو. | وَه
 -ung s. f. | تَأْكِيد .

Sicht s. f. | إِطْلَاع | auf -
 | in - sein, kommen | عِنْدَ الإِطْلَاعِ
 | مَرِيٌّ | -bar a. | ظَهَرَ
 كَوْنٌ | -barkeit s. f. | وَاضِحٌ | ظَاهِرٌ
 | -bar. | الشَّيْءَ ظَاهِرًا أَوْ مَنظُورًا
 | -en va. | -bar | a. f. | عَتْو.
 | نَقَى ه - | نَخَلَ u | ه | غَرَبَلَ ه
 | مَرِيٌّ | -lich a. | رَتَّبَ ه
 | تَنَبَّع | مَصَل u. | تَنَبَّع vn. | سِخْرِن

Sidon n. pr. | صَيْدَاء .
 | هُم pl. m. | هِيَ | هُمُ pron. pers. f.
 | هُمَا - | هُنَّ f. .
 | أَنْتَ (يُسْتَعْمَلُ) | سِي pron. pers. | أَنْتِ | أَنْتُمَا
 | أَنْتُمْ | أَنْتِ | أَنْتِ | أَحْتِرَامًا
 . أَنْتِن .
 | غَرَابِيل pl. | غُرْبَال s. n. | سِيَب
 | مَسَرِد pl. | مَسَرِد * | مَنَاجِل pl. | مَسَارِد

- Silbe s. f. gr. * مَقْطَعُ كَلِمَةٍ | هِجَاءٌ * pl.
 -nfall s. m., -nmaß s. n. | مَقَاطِعُ
 -nstecher | عَرُوضٌ | أَوْزَانٌ pl. | وَزْنٌ
 -nstecherei | مَفَاحِصُ الْكَلِمَاتِ s. m.
 s. f. | مُفَاخَصَةُ الْكَلِمَاتِ s. f.
- Silber s. n. | فِضَّةٌ (-) (-geschirr)
 نُقُودٌ مِنْ (-) (-geld) | أَوَانٌ فِضِّيَّةٌ
 الشَّيْبُ | دَاسٌ - des Alters | فِضَّةٌ
 -geld s. n. | تَبْرٌ | -barren s. m.
 -geschirr s. n. | نُقُودٌ مِنْ فِضَّةٍ
 -grube s. f. | أَوَانٌ فِضِّيَّةٌ
 -haar s. n. | مَعَادِنٌ | pl. الفِضَّةُ
 -hochzeit s. f. | شَيْبٌ | عِيدٌ تَذْكَارًا
 -ig a. | لِلزَّوْاجِ بَعْدَ ٢٥ سَنَةً
 -ling s. m. | pl. دِرْهَمٌ | بِالْفِضَّةِ
 -n a. | مِنْ فِضَّةٍ | دَرَاهِمٌ | -pappel s. f. bot.
 حَوْرٌ أَيْبِضٌ | نُقْدٌ مِنْ (-) | حَوْرٌ رُومِيٌّ
 -zeug s. n. | pl. أَوَانٌ | فِضَّةٌ
 فِضِّيَّةٌ.
- Silhouette s. f. | رَسْمٌ دَائِرَةٌ ظِلٌّ
 | سُدُوفٌ | pl. | سَدْفٌ | الوَجْهُ
 pl. | أَشْبَاحٌ.
- simpel a. | بَيْبِدٌ | بَسِيطٌ.
- Sims s. n. | نَقْشٌ | خِرَاطَةٌ * pl.
 | إِطَارٌ (-Thür-, -fenster) | نَقُوشٌ
 | حَاجِزٌ * | البابُ أَوْ الشُّبَّاكُ pl.
- pl. مَلْبَنٌ * | صُنْدُوقٌ * | حَوَاجِزٌ
 | أَفَارِيزٌ | pl. | إِفْرِيزٌ | مَلَابِنٌ
 pl. | طُنُوفٌ.
- simulieren va. etw. | ب | اتَّصَنَعَ
 | تَظَاهَرَ بِ.
- Sinai s. m. n. pr. | جَبَلُ مُوسَى
 | طُورُ سَيْنَا.
- sine qua non lat., Bedingung -
 | شَرْطٌ لَا بُدَّ مِنْهُ.
- singbar a. | يَصْلُحُ | لِلغِنَاءِ
 | غَنَى ه | fingen va. etw. | لِلتَّلْحِينِ
 | لَحْنٌ ه | تَرْتَمٌ | غَرْدٌ (Vögel)
 | Singen s. n. | غِنَاءٌ | (الطُّيُور)
 - der Vögel | تَغْرِيدُ الطُّيُورِ.
- Singrün s. n. bot. | نَوْعٌ مِنَ النِّبَاتِ.
- Sing-sang s. m. | غِنَاءٌ رَكِيءٌ | -spiel
 | رِوَايَةٌ مُقْتَرَنَةٌ بِنُوبَةٍ s. n.
 s. f. | دَرَسُ الغِنَاءِ.
- Singular s. m., Singularis s. m. gr.
 | صِبْغَةٌ الْمُفْرَدُ | الْمُفْرَدُ.
- Sing-vogel s. m. | طَائِرٌ مُغْرَدٌ pl.
 | لَحْنٌ pl. | -weise s. f. | طُّيُورٌ
 | أَنْحَطَ | سَقَطَ | نَزَلَ | i
 | غَرِقَ | - im Wasser a | انْهَبَطَ
 | أَنْزَلَ ه | أَسْقَطَ ه | - lassen etw.
- Sinn s. m. (die fünf Sinne) | حَاسَّةٌ
 | حَوَاسُّ pl. | (-Geschmack, -Gefühl)

- für etw. - haben | إِحْسَاسٌ | ذَوْقٌ
 (Be- | مالٌ | إلى | رَغِبٌ | في
 deutung) | مَعَانٍ | pl. مَعْنَى (Ge-
 danken) | قَصْدٌ | رَأَى | فُكْرٌ | بال
 etw. im -e haben | قَصْدٌ | هـ | i
 anderen -es werden | غَيْرَ رَأْيِهِ
 von -en fein | جُنَّ | عَلَيْهِ |
 wieder zu -en kommen | اسْتَفَاقَ
 مِنَ الْغَشِيَّةِ.
- Sinnbild s. n. | رُمُوزٌ | pl. رَمَزٌ
 -lich | اسْتِعَارِيٌّ | مَجَازِيٌّ | رَمَزِيٌّ
 a.
- finnen vn. über etw. | تَأَمَّلْ | في
 | قَصْدٌ | هـ | i | auf etw. - | تَفَكَّرْ | في
 | ذَوْقٌ | قَصْدٌ | ذَوْنِيَّةٌ |
 wohl | خَالِصٌ | النِّيَّةِ |
 | رَدِيٌّ | النِّيَّةِ |
 | حُبُّ | اللَّدَاتِ | الجَسَدِيَّةِ |
 | تَلَذُّدٌ |
- Sinnesänderung s. f. | تَغْيِيرُ | الرَّأْيِ |
 | خُلُقٍ | طَبْعٍ | -art s. f. | تَغْيِيرُ | النِّيَّةِ |
- Sinngedicht s. n. | قَصِيدَةٌ | تَنْتَهَى |
 | بِحِجَاةٍ |
- finnig a. | كَثِيرٌ | الْمَعْنَى |
- finnlich a. | شَهْوَانِيٌّ | | مُتَلَذِّدٌ |
 | تَلَذُّدٌ | | حُبُّ | اللَّدَاتِ | الجَسَدِيَّةِ |
 | الشَّهَوَاتِ |
- finnlos a. | مَجْنُونٌ | -igkeit s. f. | جُنُونٌ |
- finn-reich a. | كَثِيرٌ | الْمَعْنَى |
 | بَدِيْعٌ | | -spruch s. m. | حِكْمَةٌ | pl.
 | -voll a. | f. | -reich. | حِكْمٌ |
- sintemal, sintemalen conjct. | بِمَا أَنَّ |
 | بِحَيْثُ أَنْ | | بِحَيْثُ |
- Sinter s. m. | مَا | يَتَحَجَّرُ | مِنَ | الْمَاءِ | فِي |
 | مَصَلٌ | u | تَنْبَعٌ | -n vn. | الْمَغَاوِرِ |
- Sintflut s. f. | طُوفَانٌ |
- Sinus s. m. math. | جَيْبٌ | (فِي | الرِّيَاضَةِ |)
 | جَيُوبٌ | pl.
- Siphon s. m. | أَنْبُوبٌ | أَعْقَفٌ | مِمَّصٌ *
 | أَنْبَابٌ | pl.
- Sippe s. f., Sippschaft s. f. | قَرَابَةٌ |
 | الْأَقْرِبَاءِ |
- Sirius s. m. astr. | الْأَبْرَقُ | مِنَ | نَجُومِ |
 | الشَّعْرَى | الْيَمَانِيَّةِ |
- Siroffo s. m. | شُلُوقٌ * | سَمُومٌ |
- Sirup s. m. | شَرَابٌ | مُشْبَعٌ | عَسَلٌ |
 | سَكَّرًا |
- Sitte s. f. | عَادَاتٌ | u. عَوَائِدٌ | pl. عَادَةٌ |
 | أَخْلَاقٌ | | خَصَائِلٌ | | آدَابٌ | -n pl.
 | حُسْنُ | الْأَخْلَاقِ | -n |
 | شَرُّ | الْأَخْلَاقِ | -n |
 | رَدِيٌّ | الْأَخْلَاقِ | -n |
 | فَاسِقٌ | | فَاحِشٌ |
 | فَسَادٌ | | رَدَاءَةٌ | الْأَخْلَاقِ | -n |

- s. m., -nrichter s. m. مَوَدَّب | Sizilien n. pr. صِقْلِيَّة.
- nverderbnis s. f. دَعَاة | فساد. Skalspel s. n. مِشْرَاط pl. مَشَارِبُط.
- Sittlich s. m. zool. بَبَغَاء. Skandal s. m. ضَجَّة | فضيحة pl. فضائح.
- sittig a. مَوَدَّب | مُهْدَّب | عَفِيف | أَدَب s. en va. in. - | دُو حِشْمَة | هَدَّب s.
- sitt-lich a. قَائِم بِمُقْتَضَى | أَدَبِيّ | العظام. Skelett s. n. مَجْمُوع العِظَام.
- sitt-lichkeit s. f. | الأَدَب | عِلْم الآداب - | Skeptiker s. m. رَجُل مُتَشَكِّك | مُتَشَكِّك a. | skeptisch a. | Skeptik s. f. (Mal-) رَسْم pl. رُسُوم | مُسَوَّدَة (-Literatur) - | تَخْطِيط | تَلْخِيس | skizzieren va. etw. | سَوَّد ه | حَطَط ه | رَسَم ه u | لَخَّص ه.
- Sitz s. m. مَقْعَد | كُرْسِيّ pl. كُرْسِيّ | Sklave s. m. رَقِيق pl. رِقَاق | عَبِيد pl. عَبِيد (schwarzer) - | مَمَالِيك pl. مَمْلُوك (weißer) - | nändler s. m. بَيْع العَبِيد | مَقَاع pl. مَوَاضِع | مَوْضِع pl. مَوَاضِع | محال pl. مَحَال - (einer Behörde) | مَقَرّ | مَرَاكِز pl. مَرَكِز | جَلَس | مَوْخَر | إِسْت | كان (im Gefängnis) u | قَعَد u | وافق s (passen) -- | في السِّجْن | تَرَكَ u | لَافَّس -- | نَاسَب s | ما تَزَوَّجَتْ (frau) - - | bleiben (auf sich) -- | lassen (إِمْرَأَة) | قُعُود | جُلُوس s. n. - | انْفَضَح | اسْتَمَرَّ - - | هَابَن | مَحَلّ pl. مَحَلّ - | پلاس s. m. | مَجْلِس pl. مَجْلِس - | ung s. f. | الجُلُوس | مَجَالِس | جَلَسَة | - - | هَالَتَن | مَجَالِس | تَجَالَس.
- Sforbut s. m. med. فَسَاد الدَّم.
- Sforpion s. m. zool. عَقْرَب pl. عَقَارِب.

- Strofen s. pl. | داء الخنازير | strofulös
 a. مُبْتَلَى بِدَاءِ الْخَنَازِيرِ.
- Stripel s. m. | وَسْوَاسٍ | اثرَدَدِ الضَّمِيرِ.
- Skulptur s. f. | نِقَاشَةٌ | نِقَاشَةٌ.
- Slave s. m. | صَقْلَبِي | إِنْسَانٍ سَقْلَبِي.
 pl. die -n | الصَّقْلَبِ | السَّقْلَبِ.
- slavisch a. | صَقْلَبِي | سَقْلَبِي.
- Smaragd s. m. | زُمُرْدٌ * | -en a. مِنْ
 أَخْضَرَ كَالزُّمُرْدِ * | زُمُرْدٌ *.
- Smyrna n. pr. | إِزْمِيرٌ.
- so adv. | بِهَذَا | هَكَذَا | كَذَا | كَذَلِكَ.
 so wie | عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ | الْمِقْدَارِ
 | كَذَا وَكَذَا | so u. | مِثْلَمَا | كَمَا
 | فِي أَوْسَطِ الْحَالِيَيْنِ | بَيْنَ بَيْنٍ | so
 | إِلَى أَنْ | حَتَّى أَنْ | حَتَّى | so daß
 | so lange, so lange als | ما دام
 | pl. | الَّتِي | f. | الَّتِي | so conjct. (wenn)
 | إِذَا | إِنَّ.
- sobald conjct., - als | عِنْدَمَا | حَالَمَا.
- Socfe s. f. | قَلَاشِيْنِ | pl. قَلَشِيْنِ *
 | سِحٌّ | اُفِ الدِّى | شَرَابَاتِ | pl. شَرَابِ *
 -n machen u | هَرَبَ | u | قَامَ.
- Soda s. f. | مِلْحُ الْقَلِي.
- sodann adv. | حِينئِذٍ.
- Sodbrennen s. n. | حُرْقَةٌ فِي الْمِعْدَةِ.
- Sodom n. pr. | سَدُومٌ | -ie s. f. | لَوَاطَةٌ
- it s. m. | لَوَاطٌ | لَوَاطِي.
 لَوَاطَةٌ.
- soeben adv. | مُنْذُ | فِي الْحَالِ | حَالًا
 زَمَنٌ قَلِيلٌ.
- Sofa s. n. | أَرِيكَةٌ | pl. أَرِيكٍ
 pl. صُفَافٍ | pl. صُفَّةٍ | تُخَوْتُ.
- sofern conjct. | إِذَا | إِنَّ | كَانِ | إِذَا
 - adv. | فِي هَذَا الْحَالِ.
- sofort adv. | فِي الْحَالِ | حَالًا.
- sofar adv. | أَيْضًا | حَتَّى.
- sogleich adv. | فِي الْحَالِ | حَالًا.
- Sohle s. f. | - (Der | آسْفَلُ الْقَدَمِ
 Stiefel) | نَعْلٍ | pl. نَعَالٍ.
- Sohn s. m. | ابْنٌ | pl. أَبْنَاءٍ | u. | بَنُونَ
 | pl. | أَنْجَالٍ | pl. | نَجَلٍ | pl. | وُلْدٍ
 der verlorene - christl. | الْوَلَدِ
 الشَّارِدِ.
- Sofrates n. pr. | سُقْرَاطٌ.
- solange conjct., - als | مَا دَامَ.
- solch, solcher, solcherlei | مِثْلُ ذَلِكَ
 مِنْ هَذَا الْجِنْسِ | كَهَذَا.
- Sold s. m. | - (der Soldaten) | أُجْرَةٌ
 | فَرَضٌ | مَاهِيَّةٌ * | عُلُوفَةٌ *.
- Soldat s. m. | عَسْكَرِيَّةٌ | pl. عَسْكَرِيَّيْنِ
 | pl. -en | عَسَاكِرٍ | pl. | جُنْدِيَّةٌ | pl. | جُنْدِيَّيْنِ
 | ein ge- | تَجَنَّدَ | -werden | جُنُودِ
 meiner - | أَنْفَارٍ | pl. | نَفَرٍ -

a. | من دَابُّ الجُنْدِيِّ -eska s. f.
 | زُمْرَةٌ جُنُودٌ غَيْرُ مَهْدَبَةٍ -ich a.
 | من دَابُّ الجُنْدِيِّ.
 | أَجِيرٌ Söldling s. m., Söldner s. m.
 | أَجْرَاءُ pl.
 | ماءٌ مُمَلِّحٌ | ماءٌ مَالِحٌ Sole s. f.
 | بَيْضٌ مَطْبُوعٌ فِي المَاءِ Soleier s. pl.
 | المَالِحِ.
 | مَا كُنَّ | ثَابِتٌ (Sache) solid a.
 | مُلْتَزِمٌ -arisch a. | رَزِينٌ (Person) -
 | بِالصَّمَانِ عَن غَيْرِهِ -ität s. f.
 | مَكْنَةٌ | مَتَانَةٌ (einer Person)
 | رَزَانَةٌ.
 | مَا عَلَى التَّاجِرِ فِي Soll s. n. komm.
 | الحِسَابِ.
 | وَجَبَ i (verpflichtet sein) sollen v.
 | يَجِبُ عَلَى ich soll thun | عَلَيْهِ
 | قِيلَ (man sagt) - | أَنْ أَفْعَلَ
 | يُقَالُ أَنَّهُ er soll gestorben sein
 | مَاتَ.
 | مَسْكِينٌ نَحْتِ سَقْفِ Söller s. m.
 | الدَّارِ.
 | وَلِذَلِكَ somit conjct.
 | أَصْيَافٌ pl. صَيْفٌ Sommer s. m.
 | إِصْطَافٌ | صَافٌ | den - zubringen i
 | مُصْطَافٌ | مَصِيفٌ | -aufenthalt s. m.
 | مُخَاطُ الشَّيْطَانِ -faden s. m.

| نَمَشَى -flect s. m., -flecken s. m.
 | أَنْمَشَى a. -flechtig a. | -frische s. f.
 | قَيْظٌ | -hitze s. f. | مُصْطَافٌ | مَصِيفٌ
 | -lich a. | صَيْفِيٌّ | -sprosse s. f.
 | أَنْمَشَى a. | -sprossig a. | نَمَشَى f.
 | نَمَشَاءُ.
 | وَلِذَلِكَ sonach conjct.
 | نَوْعٌ مِّن نَّعَمٍ Sonate s. f. mus.
 | آلاتِ الطَّرَبِ.
 | مِسْبَارٌ | مِحْجَاجٌ | مِحْجَسٌ Sonde s. f.
 | مِيلٌ pl. | مِيلٌ | كَاشِفٌ *
 | مِنْ غَيْرِ | بِلَا (ohne) sonder praep.
 | خُصُوصِيٌّ | مَخْصُوصٌ | خَاصٌّ sonder a.
 | (وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ التَّرْكِيبَاتِ)
 | غَرِيبٌ (فِي القَوْلِ أَوِ العَمَلِ) -bar a.
 | -heit s. f. | غَرَابَةٌ | -barkeit s. f.
 | غَرِيبٌ a. -lich | - | خُصُوصًا - in -
 | (فِي القَوْلِ أَوِ العَمَلِ) adv.
 | جِدًّا | كَثِيرًا (sehr) - - | خُصُوصًا
 | -ling s. m. | غَرَابَةٌ | -lichkeit s. f.
 | رَجُلٌ غَرِيبٌ.
 | بَلْ sondern conjct.
 | - | فَرَّقَ ه | sich - sondern va. etw.
 | انْفَصَلَ | انْفَرَقَ.
 | - | سَامِتٌ u. | خُصُوصًا | -sonders adv.
 | جَمِيعُهُمْ | الجَمِيعِ.

Sonderung s. f. اِفْتِرَاق | تَفْرِيق | اِنْفِصَال.

fondieren va. etw. ه رَجَس | ه اِسْتَبَطَن | ه جَس | ه u جَس | ه

Sonett s. n. نَوْعٍ مِنَ الْقَصَائِدِ.

Sonnabend s. m. يَوْمٌ | السَّبْتِ | السَّبْتِ.

Sonne s. f. شَمْسٌ pl. شُمُوسٌ | شَمْسٌ pl. شُمُوسٌ

unter der - | في هَذِهِ الدُّنْيَا -

va. etw. ه | تَشَمَّسُ -- | شَمَّسَ ه

-naufgang s. m. شُرُوقِ الشَّمْسِ

| طُلُوعِ الشَّمْسِ | شَرْقِ الشَّمْسِ

-nbahn s. f. سَمْتِ الشَّمْسِ

-nblume s. f. bot. رَقِيبِ الشَّمْسِ

نَوْعٍ | دَوَارِ الشَّمْسِ * | عَبَادِ الشَّمْسِ

| سَقْرَةَ - | nbrand s. m. | مِنَ النِّبَاتِ

-nferne s. f. البُعْدِ الأَقْصَى عَنِ

كُسُوفِ - | nfinsternis s. f. | الشَّمْسِ

السَّنَةِ - | njahr s. n. | الشَّمْسِ

واضِحِ كَضُوءِ - | nklar a. | الشَّمْسِيَّةِ

ضُوءِ - | nlicht s. n. | الشَّمْسِ

أَقْرَبِ مَحَلٍّ - | nmähe s. f. | الشَّمْسِ

قُرْصِ - | nscheibe s. f. | مِنَ الشَّمْسِ

ضُوءِ - | nschein s. m. | الشَّمْسِ

- | nstich | نُورِ الشَّمْسِ | الشَّمْسِ

لَفْحَةٍ | لَذْعَةِ الشَّمْسِ s. m.

- | nstrahl | رَعْنَةً | صَحْدَةَ | الشَّمْسِ

s. m. أَشْعَّةٌ pl. شُعَاعِ الشَّمْسِ

-nuhr s. f. سَاعَةِ شَمْسِيَّةِ

untergang s. m. غُرُوبِ الشَّمْسِ

-nwende s. f. اِنْقِلَابِ الشَّمْسِ

مَيْلِ الشَّمْسِ الأَعْظَمِ.

fonnig a. مُشَمَّسٌ.

Sonntag s. m. يَوْمُ الأَحَدِ.

sonst adv. (früher) - | غَيْرًا | وَإِلَّا

غَيْرِ a. -ig | قَدِيمًا

Sopha s. n. f. Sofa.

Sophist s. m. مُغَالِطٍ -erei s. f.

| تَدْقِيقِ مُفْرِطٍ فِي البَرَاهِينِ

فِيهِ أَغَالِيطٌ a. -isch | مُحَاوَلَةٌ

Sopran s. m. mus. الدَّرَجَةُ العَالِيَّةُ

مِنَ الصَّوْتِ النِّسَائِيِّ

Sorbett s. m. شَرَابٍ pl. أَشْرِبَةٌ

شَرِبَاتٍ pl. شَرِبَةٌ *

Sorge s. f. (Besorgnis) هَمٌّ pl. هُمُومٌ

اهْتِمَامٍ pl. هِمَّةٌ | اِسْتِغَالِ البَالِ

اهْتِمَامٍ | اِعْتِنَاءٍ | عِنَايَةٍ (Sorgfalt) -

- haben um, sich - اِلْتِنَافَاتِ

machen um | اِهْتَمَّ بِ | für etw.

- tragen | اِعْتَنَى بِ |

- | اِلْتَفَتَ إِلَى - | اِلْتَفَتَ إِلَى

اِلْتَفَتَ إِلَى | اِهْتَمَّ بِ | اِعْتَنَى بِ

-- um jn., sich - -- um jn. a خَافَ

اِطَارِدِ الهُمُومِ - | nbrecher s. m. | اِعْلِيَهُ

eine -- Zeit مُدَّة | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

Spar-büchse s. f. حَقَّة لِحْفُظ

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

Spargel s. m. bot. جُنْجُل | هِلْيُون

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

Spar-geld s. n., -gut s. n. دُخْر pl.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

spärlich a. قَلِيل | طَفِيف | دَقِيق

sparpfennig s. m. f. Spargeld.

Sparren s. m. رَاوِدَة pl. رَوَاوِد |

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

sparsam a. مُقْتَصِد | مُوقِر *

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

Spaß s. m. مَزْح | مَزَاح

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

Spat s. m. (der Pferde) وَرَم فِي

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

spat adv. poet. f. spät.

spät a. u. adv. مُتَأَخِّر | بَطِيء

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

Spatel s. n. chir. مِلْعَقَة الْأَجْزَائِي

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

Spaten s. m. مِحْفَر pl. مَحَاوِر

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

u. ه | شَدَّ | -- | -en va. etw.

Spätling s. m. حَيَوَان مَوْلُود مُتَأَخِّرًا

Spaß s. m. عَصْفُور pl. عَصَافِير |
دُورِي.

[spazieren-fahren vn. تَفَسَّحَ رَاكِبًا فِي |
تَمَشَّى -gehen vn. | العَجَلَة *
| شَمَّ الحَوَاء * | تَنَزَّهَ | تَفَسَّحَ *
| تَفَسَّحَ رَاكِبًا * -reiten vn. | جال u

Spazier-fahrt s. f. تَفَسَّحَ رَاكِبًا فِي |
| تَنَزَّهَ -gang s. m. | العَجَلَة *
| مُتَنَزِّهٌ s. m. | تَفَسَّحَ *
| تَفَسَّحَ رَاكِبًا s. m. | مُتَفَسِّحٌ *
| -stocf s. n. | عَلَى ظَهْر الفَرَس *
| عَصِي pl. | عَصَا لِلتَّفَسُّحِ *

Specht s. m. zool. نَقَّار | قَرَاع (طَائِر).

Species | مَخْصُوص | خَاصّ
s. f. أنواع pl. | die vier -
قَوَاعِدَ أَعْمَالِ الأَعْدَادِ مِنْهَا الجَمْعُ
| speci- | والطَّرْحُ وَالضَّرْبُ وَالقِسْمَةُ
-es | مَخْصُوص | خَاصّ
Gewicht سَمَاكَةٌ وَكثَافَةٌ.

Speck s. m. شَحْمُ الحِنْزِيرِ.

[spedieren va. etw. هَ | بَعَثَ
مُرْسِلٌ s. m. | أَرْسَلَ هَ
| إِرسَالٌ s. f. | البَضَائِعُ
نَقْلُ البَضَائِعِ | بَعَثَ.

Speer s. m. رُمْحٌ | حِرَابٌ pl. حَرَبَةٌ |
رِمَاحٌ pl.

Speiche s. f. (des Rades) ذِرَاعٌ

عَارِضَةُ العَجَلَة | أَذْرُعٌ pl. العَجَلَة
| عَوَارِضٌ pl.

Speichel s. m. | بُصَاقٌ | بُزَاقٌ |
لَوزَةٌ s. f. | -drüse | رِيْقٌ | تُفَالٌ
| سَيْلَانُ الرِيْقِ s. m. | -fluß | الرُّضَابُ
| -lecker s. m. | مُتَمَلِّقٌ | -leckeri
s. f. | تَمَلَّقَ.

Speicher s. m. شُونٌ pl. شُونَةٌ |
مَخْزَنٌ | حَوَاصِلٌ pl. حَاصِلٌ * | أَنبَارٌ
pl. مَخَازِنٌ.

speien vn. u | بَصَقَ u | بَزَقَ u |
تَفَلَّ.

Speise s. f. | أَطِعمَةٌ pl. طَعَامٌ |
مَأْكُولَاتٌ pl. | مَأْكُولٌ | مَأْكَلٌ pl. مَأْكَلٌ
-haus s. n. | لُوكُنْدَةٌ | -kammer s. f.
| أَكَلَ u vn. | -n | كَرَارٌ * | بَيْتُ المُوْتَةِ
| إِغْتَدَى | تَغَدَّى | تَنَاوَلَ الطَّعَامَ
| قَاتٌ u | أَطَعَمَ | - - in. va.
| إِعْلَانٌ أَشْكَالٌ s. f. | -nfarte | غَدَى هَ
pl. | الرُّوْحَةُ | الأَطِعمَةُ
| مَسَارِطٌ pl. | مِسْرَطٌ | زَرْدَمَةٌ | بَلَاعِمٌ
| سَفْرَةٌ s. f., -tisch s. m. | -tafel
s. m. | سِمَاطٌ pl. | -vorrat
s. m. | لُوكُنْدَةٌ s. f. | -wirtschaft | زاد

Speisung s. f. إِطْعَامٌ.

Speistafel s. m. | ضَجَّةٌ | -n vn. * | قَرَّقَعَ.

Spekulant s. m. كُومِنٌ.

[spefulieren vn. | تَقْوِيمَاتٌ تِجَارِيَّةٌ

- komm. | حَمَن تَقْوِيمَاتِ تِجَارِيَّةٍ |
auf etw. - اِعْتَمَدَ عَلَى .
- Spelt s. m. | نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ .
- Spelunke s. f. | اَكْوَاخُ pl. كُوخٌ .
- Spelz f. | Spelt .
- Spende s. f. | صَدَقَاتٌ pl. صَدَقَةٌ .
-n va. jm. | حَسَنَاتٌ pl. حَسَنَةٌ .
etw. | اَعْطَى ه ه | وَهَبَ i ه لَهُ .
jm. | اَنْعَمَ ه عَلَيْهِ اَوْ ه ب |
mosen -- | اَحْسَنَ اِلَيْهِ -- .
fall -- | اِسْتَحْسَنَ ه -- .
-r s. m. |
مُعْطٍ | وَاِهَبَ .
- spendieren va. f. | spenden .
- Spengler s. m. | تَنْكَارِيٌّ | تَنْكِيٌّ |
سَنْكَرِيٌّ * .
- Sperber s. m. zool. | بَيْزَانٌ pl. بَأَزٌ .
باشِقٌ | بِيْزَانٌ pl. باز .
- Sperling s. m. | عَصَافِيرٌ pl. عَصْفُورٌ .
دُورِيٌّ .
- sperrangelweit a. f. | sperrweit .
- Sperre s. f. | تَحْرِيْمٌ | مُحَاجَزَةٌ | حَجَزٌ .
| sperren va. den Weg | نَهَى | مَنَعَ
| einen Ort | - | سَدَّ u الطَّرِيقِ
| den | - | مَنَعَ a الدُّخُولِ فِي بَلَدٍ
| die | حَرَّمَ التِّجَارَةَ الِحْ .
Beine auseinander - | فَرَشَهُ | jm.
| sich | سَجَنَ u - | ins Gefängnis
- gegen etw. ه | عَارَضٌ ه |
Sperrung s. f. | سَدٌّ | sperrweit a.
مَفْتُوحٌ كَثِيْرًا .
- Spesen s. pl. | نَفَقَاتٌ .
- Spezerei-ens. pl. | العَقَاقِيْرُ | العِطْرِيَّاتُ |
-händler s. m. | عَطَّارٌ |
-waren s. pl. f. -en .
- speziell a., Spezies s. f., spezifisch a.
f. | spesiell, Species, spezifisch .
- Sphäre s. f. | كُرَاتٌ pl. كُرَةٌ .
bld. - | سَعَةٌ الطَّاقَةُ اَوْ العِلْمُ .
- Sphinx s. f. | اَبُو العَيْنِ * .
- spicken va. etw. | شَحَّمَ ه | يَقْطَعُ الشَّحْمُ
den Beutel mit Geld - | كَثَّرَ
- | jm. (be- | الدَّرَاهِمَ فِي الكَيْسِ
stechen) ه | بَرَطَلَ .
- Spiegel s. m. | مِرَاةٌ pl. مِرَاءٌ u.
- des Schiffes | مِرَايَةٌ * | مَرَايَا
صُورَةٌ فِي .
-bild s. n. | مَوْخَرُ المَرْكَبِ
| eier s. pl. | بِيضٌ مَقْلِيٌّ | المِرَاةُ
-farphen | تَصَنَّعٌ | -farphen
s. m. zool. | نَوْعٌ مِنَ الشَّبَّوْطِ
-n v. sich | تَرَأَى | تَرَأَى *
-scheibe s. f. | لَوْحٌ زُجَاجٌ لِلْمِرَاءِ .
- Spiel s. n. | لَعِبٌ | لِعْبٌ |
- (Karten-) | لَعِبُ الوَرَقِ (-) |
das | قِمَارٌ (-) | الشَّدَّةُ * .

- rühren mil. طَبَّل | mit flin-
gendem - بِضْرَبِ الطُّبْلِ | das
Leben aufs - setzen بِنَفْسِهِ |
mit etw. - treiben f. spielen |
-art s. f. ضَرْبٌ مِنْ جِنْسٍ | ball
s. m. كُرَّةٌ لِلْعَبِّ pl. كُرَاتٌ | ein
- - des Glücks sein تَلَاعَبَ بِهِ
بَنُوكِ يُلْعَبُ s. f. بانف | الدهرُ
-en va. | بُنُوكِ pl. فِيهِ بِالْقِمَارِ
ein Spiel اَلْعَبُّ بِالْعَبِّ
- - ein Glücksspiel mit jm. قَامَرَهُ
- - mit Worten اَلْبَسَى اَلْكَلَامَ
- - ein Musikinstrument u دَقَّ
- - im ضَرْبِ اِهْ | آلة الطَّرْبِ
amثال | اشَّخَصَ فِي التِّيَاتَرُو * Theater
den Betrübten - - تَطَاهَرَ بِالْحُزْنِ
jm. einen Poffen - - غَسَّى u
-er s. m. ضَارِبٌ | لَعَابٌ | لاعِبٌ
-erei s. f. | مُقَامِرٌ | آلة الطَّرْبِ
-gefährte s. m., -gefelle
s. m. | مَلَاعِبٌ | -haus s. n., -hölle
s. f. | دَارٌ يُلْعَبُ فِيهَا بِالْقِمَارِ
-mann s. m., pl. -leute mus.
-marfe | نَوْبَاتِي | مُطْرِبٌ | آلَاتِي
s. f. | قُرْبَيْصٌ نَحَاسٍ | حَجَرُ اللِّعْبِ
مَلْعَبٌ | -platz s. m. | شَمْسَةٌ نَحَاسٍ
| -raum s. m. | سَعَةٌ | مَلَاعِبٌ pl.

قَاعَةٌ يُلْعَبُ -| faal s. m. | اِمْتِدَاد
-fachen s. pl., | فِيهَا بِالْقِمَارِ
-waren s. pl., -zeug s. n. لَعْبُ
الْأَطْفَالِ.

Spiere s. f. mar. زَافِرَةٌ الْمُرْكَبُ pl.
زَوَافِرُ.

Spieß s. m. (Waffe) حَرَبَةٌ pl. حِرَابٌ |
سَفُود (-Brat-) - | رِمَاحٌ pl. رُمُحٌ
| أَسْيَاخٌ pl. سِيخٌ شَكَّ * | سَفَافِيدٌ pl.
رَجُلٌ | -bürger s. m. | شَيْشٌ *
-en va. | بَسِيطٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدْنِ
jn. | رَفَعَ a هِ عَلَى | طَعَنَ هِ بِحَرَبَةٍ
jn. | -er s. m. f. | -bürger |
-gefelle s. m. | شَرِيكٌ فِي ذَنْبٍ pl.
| -rute s. f., - -n laufen
أَسْتَهْرِي.

Spill s. n., Spille s. f. آلَةٌ لِجَرِّ
الْأَثْقَالِ.

Spinat s. m. | إِسْفَانَاخٌ | إِسْبَانَاخٌ *.

Spind s. n. | خَزَائِنٌ pl. خِزَانَةٌ.

Spindel s. f. | مَغْزَلٌ pl. مَغَازِلٌ |
سَاقٌ | -bein s. n. | مَبَارِمٌ pl. مَبْرَمٌ
| سَاقٌ نَحِيْفَةٌ | عَلَى شَكْلِ مَغْزَلٍ
-dürr a. | نَحِيْفٌ جِدًّا.

Spinne s. f. | عَنَاكِبٌ pl. عَنَكَبُوتٌ |
große schwarze - | رُتِيْلَاءٌ * |
-feind | -feind | شِبْنَانٌ ag. | شَبْتٌ *

- a., jm. - - | أْبْغَضَ عَلَيْهِ | -n
 va. etw. | غَزَلَ | - - | Seide
 نَسِيج | -ngewebe s. n. | حَلَّ الحَرِيرِ
 -r | غَزَّال | -r s. m. | العَنْكَبُوتِ
 s. f. | غَزَّالَة | -rei s. f. | مَعْمَلِ الغَزْلِ
 pl. | حَلَّالَة | -webe s. n. | مَعَامِلِ
 f. | -ngewebe.
- spintifizieren vn. über | تَفَكَّرَ فِي.
- Spion s. m. | جَوَاسِيسِ pl. | جَاسُوسِ
 -ieren vn. | تَجَسَّسَ.
- Spirale s. f. | حَظَّ حَلَزُونِيَّ.
- Spiritismus s. m. | مَذْهَبِ المَدَّعِينِ
 Spiritist | بِمُحَادَثَةِ نَفُوسِ المَوْتَى
 s. m. | أَعْضَاءِ pl. | عَضُوهَا المَذْهَبِ.
- Spirituosen s. pl. | الأَشْرِبَة الكُحُولِيَّةِ
 Spiritus s. m. lat. | إِسْبِرْتُو *
 رُوحِ العَرَقِ | الكُحُولِ *.
- Spital s. n., Spittel s. n. | مُسْتَشْفَى
 إِسْبِتَالِيَّةِ *.
- spitz a. | حَادٌّ | مَسْنُونِ | حَادٌّ
 -er Winkel | حَادَّةَ زاوِيَةِ.
- Spitz s. m. zool. | نَوْعِ مِنَ الكَلَابِ
 -bube | نَشُوءَ | سُكْرَ (scherzhaft) -
 s. m. | مَكَارِ | مُحْتَالِ | نَشَّالِ
 pl. | خَائِنِ | خُبْنَاءِ pl. | خَبِيثِ
 | خَائِنَة | -bübin s. f. | خَوَّانِ
- مَكَارِ | مُحْتَالِ a. | بُبِيْشَة
 خَائِنِ.
 pl. | سِتِّ | حُدُودِ pl. | حَدِّ
 | أَشْوَاكِ pl. | شَوْكِ | أَسِنَّةِ u. | أَسْنَانِ
 - | رُؤُوسِ pl. | رَأْسِ
 | مُقَدَّمِ الرَّجْلِ | - | قِمَّةِ
 | قِمَمِ pl. | الجَبَلِ | an der - | سَتَهِنِ
 | تَرَأْسِ عَلَى | jm. | die - | بِيْعِنِ
 | عَارِضِ | (gefloppte -) | قَاوِمِ | عَارِضِ *
 | تَخْرِيْمَاتِ pl. | تَخْرِيْمَة *
 | جَوَاسِيسِ pl. | جَاسُوسِ
 | حَادِّ هـ | حَادِّ هـ u. | حَادِّ هـ
 | سَنَّنِ هـ | سَنَّنِ هـ | die Ohren -
 | نَصَبِ الأَدْنِيْنِ | اِعْتَنَى bld.
 | دَقِيْقِ | دَقِيْقَةِ | بِالِغِ فِي الدِقَّةِ
 | دِقَّةِ | دِقَّةِ s. f. | مُدَقِّقِ | بِرْهَانِ
 | مُبْتَلَمِ | بَرَاهِيْنِ pl. | هَادَّةِ
 | مِشْكَاشِ pl. | -haue s. f. | مِشْكَاشِ s. f.
 | مَسْنُونِ | -iga | مَنَكُوشِ * | مَنَاكِيْشِ
 | -maus s. f. zool. | لَادِعِ - - | bld.
 | فَارِ طَوِيْلِ | فَخْرَانِ pl. | فَارِ السَّمِّ
 | لَقَبِ s. m. | -name | الفَمِ
 | كُنُوَّةِ | كُنَى pl. | كُنْيَةِ | أَلْقَابِ
 | أَنْبَازِ pl. | نَبَزِ | -winkelig a. | نَوْ
 زاوِيَةِ حَادَّةِ.
 | لِحَاءِ s. m. | Splint
 | شَطِيَا pl. | شَطِيَّةِ s. m. | Splitter

- | Spott-luft s. f. المَيْلُ إِلَى الْأَسْتِهْزَاءِ |
 -name s. m. أَنْبَازُ pl. نَبَزٌ | -preis
 s. m. f. -geld | -[schlecht a. رَدِيءٌ
 | -[schrift s. f. أَهْجَوَةٌ pl. جِدَا
 | -[ucht s. f. f. -[uft. أَهْجِيَّةٌ | أَهْجِيٌّ
- | Sprache s. f. لِسَانٌ | لُغَاتٌ pl. لُغَةٌ
 | لُحْجَةٌ | أَلْسُنٌ u. أَلْسِنَةٌ pl.
 lebende - لُغَةٌ جَارِيَةٌ - tote -
 | قَوْلٌ | كَلَامٌ (Rede) - | لُغَةٌ مُمَاتَةٌ
 | etw. zur نُطْقٌ | تَكَلَّمَ | تَلَفَّظَ | لَفْظٌ
 - bringen | تَكَلَّمَ فِي
- | Sprach-fehler s. m. أَلْحَانٌ pl. لَحْنٌ
 | -lehre s. f. عِلْمُ الصَّرْفِ وَالنَّحْوِ
 | مُعَلِّمٌ s. m. -lehrer | أَجْرَمِيَّةٌ
 | مُخْتَصٌّ بِاللُّغَةِ a. -lich | اللُّغَاتُ
 | عَادِمٌ a. -los | مُخْتَصٌّ بِالتَّكَلَّمَ
 | -reiniger | مَدْهُوشٌ -- bld. | النُّطْقُ
 | مُبَالِغٌ فِي تَدْقِيقِ اللُّغَةِ s. m.
 | بُوْقٌ يَنْقُلُ الصَّوْتُ s. n. -rohr
 | -[chat s. m. كَثْرَةٌ كَلِمَاتِ اللُّغَةِ
 | -werkzeug s. n. آَلَاتُ pl. آَلَةُ النُّطْقِ
- | [sprechen vn. تَلَفَّظَ | قَالَ u. تَكَلَّمَ
 u. فَاهٌ | نَطَقَ | - von, über etw.
 | - in. od. mit jm. | تَكَلَّمَ فِي أَوْ عَنَ
 | حَدَّثَ | خَاطَبَ | كَلَّمَ |
 | - arabisch, deutsch 2c. | قَالَ u. لَهُ
 تَكَلَّمَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ الْأَلْمَانِيَّةِ
- | قِطْعٌ pl. قِطْعَةٌ | شِئَقٌ pl. شِئَقَةٌ
 | انْشَقَّ -n vn. | كِسْرَةٌ pl. كِسْرَةٌ
 | -nachend a., -nacht a. | انْفَقَعَ
 | -richter s. m. لَوَامٌ | عُرْيَانٌ بِالْكُلِّ
 مُفْرَطٌ فِي الْأَنْتِقَادِ
- | Sporn s. m., pl. Sporen مِوْمَازٌ pl.
 | شَوْكَةٌ الْفَارِسِ | مَوَامِيْزٌ
 | Sporen geben i, u هَمَزٌ | - bld.
 | - (der | تَحْرِيطٌ | حَتٌّ (-An-)
 | كَلَّابٌ | دَوَابِرٌ pl. دَابِرَةٌ (Vögel)
 | -en va. | كَلَالِيْبٌ pl. الطُّيُورُ
 | -streichs adv. | هَمَزٌ i, u الْفَرَسُ
 مُسْرِعًا فِي الْجَرَى
- | Sporteln s. pl. دَخَلَ عَارِضٌ.
 | سُخْرِيَّةٌ | هَجْوٌ | هِجَاءٌ s. m. Spott
 | - treiben f. | إِسْتِهْزَاءٌ | تَمَسَّخُرُ*
 | -en | -billig a. جِدَا | رَخِيصٌ
- | Spöttelei s. f. إِسْتِهْزَاءٌ | [spötteln
 | إِسْتِهْزَاءٌ قَلِيْلًا vn.
- | [spotten vn. | هَجَا u. هَجَا u. | إِسْتِهْزَأَ بِهِ | تَلَعَّبَ بِهِ
 | ضَحِكَ عَلَيْهِ a. عَلَيْهِ
- | Spötter s. m. رَجُلٌ مُسْتَهْزِئٌ |
 | -ei s. f. إِسْتِهْزَاءٌ | سُخْرِيَّةٌ | هِجَاءٌ | هُزُوءٌ
- | Spottgeld s. n. ثَمَنٌ رَخِيصٌ.
 | [spöttlich a. مُسْتَهْزِئٌ.

- | Sprecher s. m. | المُنْتَكِم | (in England) رَئِيسُ مَجْلِسِ النُّوَابِ (في اِنْكِلَتْرَا).
 | Sprech-saal s. m. | -zimmer | -stunde
 | ساعة الاستقبال والتكلم |
 | -zimmer s. n. | قاعة الاستقبال
 | قاعات pl. والتكلم
 | spreizen va., die Beine auseinander-
 | تَكَبَّرَ - bld. | sich | فرشع
 | Sprengel s. m. kath. | اُسْقُفِيَّة
 | sprengen va. etw. in die Luft -
 | اطاره في الهواء
 | ابدده | فتته | شتته ه
 | Wasser - auf | صَبَّ الماء على
 | - StraBen | رَشَّ u الشوارع
 | vn. -
 | اَسْرَعَ رَاكِبًا على فرس
 | Spreng-gehoB s. n. | قُنْبُلَةٌ pl.
 | -ung | قُنَابِر pl. قُنْبُرَةٌ * | قُنَابِل
 | s. f. | -wedel s. m. | اطاراة في الهواء
 | مَرَاث pl. مَرِثَةٌ
 | sprengeln va. etw. | رَقَشَ ه | بَقَعَ ه
 | gesprengelt f. | sprenglig | sprenglig
 | مَرَقَش | بَقَعَاء f. | اَبَقَعَ a.
 | Spreu s. f. | قَسٌّ * | تِبْن
 | Sprichwort s. n. | امثال pl. مثل
 | | امثالي | مثلي
 | | مَضْرُوبِ بِهِ مَثَلٌ
 | sprießen vn. u | اَنْبَت | نَبَت
 | u | طَلَعَ
 | Springbrunnen s. m. | فَسْتَقِيَّة *
 | | وَثَب | قَفَز | i
 | | اِنْشَقَّ (Holz, Glas) | نَطَّ * i
 | | تَنَبَّع (Wasser) | اِنْكَسَرَ
 | | هُوَ وَاضِحٌ | يَنْبُتُ
 | | فرس s. m. (im Schach) | فَرَسٌ
 | | (في لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ)
 | Spring-feder s. f. | لَوَالِب pl. لَوَلْب *
 | | اَمَدٌ عَالِي البَحْرِ s. f. | زُنْبُرُك *
 | | فُحُول pl. | فُحْل
 | | -hengst s. m. | اَحْصِنَةٌ pl. | حِصَان
 | | صَبِيَّة طَائِشَةٌ | صَبِيَّ طَائِشٍ
 | | -quell s. m. | عَيْنُ ماء pl.
 | | طُلْمَبَةٌ * (Feuer-) | سَاطِئَةٌ
 | | مِحْقَن (Klystier-) | ثَرْمَبَةٌ *
 | | اَفْجَرَ u ه | اَنْبَجَ ه
 | | اَنْهَرَ ه | اَنْبَع ه
 | | تَفَجَّر | تَدَفَّق | تَبَجَّس - -
 | | -mann | تَنَبَّع | نَبَعَ | u, i | فار u
 | | طُلْمَبِيَّة pl. | طُلْمَبِيَّ *
 | | -meister s. m. | اُسْتَاذ الطُلْمَبِيَّة *
 | | (Holz) | نَاشِف (Haut)
 | | مُتَكَبِّرَةٌ (Mädchen) | سَرِيْع الكَسْرِ
 | | | مُتَجَبِّرَةٌ | (بِنْت)
 | | | نَشُوفَةٌ * (der Haut) | (des

jm. auf die - kommen * تَتَبَعَ |
 سار i عَلَى أَثَرِهِ
 spüren va. etw. اشْعَرُ بِ | اسْتَشَمَّ هـ
 vn. - nach etw. | أَحَسَّ ب
 تَتَبَعَ أَثَرَهُ | اِقْتَفَى أَثَرَهُ
 Spürhund s. m. كَلْبُ الصَّيْدِ
 spurlos a. بِلا أَثَرٍ
 sputen v. sich اسْتَعْجَلَ | أَسْرَعَ
 spützen vn. (veraltet) | spucken.
 st! interject. أُسْكُتُ
 Staar s. m. | Star.
 Staat s. m. مَمْلَكَةٌ | دَوْلَةٌ pl.
 pl. زِينَةٌ (Putz) | مَمَالِكُ
 - machen mit etw. اِفْتَحَرَ بِ
 -lich a. مُتَعَلِّقٌ | مُخْتَصِرٌ بالدَوْلَةِ
 مدَّعٍ | اِنْوَالْتِ s. m. بالدَوْلَةِ
 -beamter | نَائِبٌ عُمُومِيٌّ | عُمُومِيٌّ
 s. m., -diener s. m. مَأْمُورُ الدَوْلَةِ
 -bürger s. m. تَابِعُ الدَوْلَةِ pl.
 ميزانِيَّةٌ | -shaushalt s. m. تَبَعَةٌ
 | سِيَّاسَةٌ s. f. -kunst | المَمْلَكَةُ
 -mann s. m., pl. -männer رَجُلٌ
 | مِنْ أَهْلِ السِّيَّاسَةِ | سِيَّاسِيٌّ
 -spapier | سِيَّاسِيٌّ a. -smännlich
 s. n. -srats s. m. | سَنَدُ دَيِّنِ الدَوْلَةِ
 عَضُوٌّ | مَجْلِسُ شُورَى المَمْلَكَةِ
 | مَجْلِسُ شُورَى المَمْلَكَةِ pl. أَعْضَاءُ

-srecht s. n. الْحُقُوقُ الشَّرْعِيَّةُ
 -säckel s. m., -schatz s. m. كَخْلٌ
 دَيِّنُ المَمْلَكَةِ | -schuld s. f. المَمْلَكَةُ
 pl. دُيُونٌ | -sekretär s. m. وَزِيرٌ
 pl. وُزَرَاءُ | -streich s. m. فِعْلٌ
 -sum- | مُسْتَبِدٌّ لِرِئَيْسِ المَمْلَكَةِ
 wälzung s. f. اِنْقِلَابُ المَمْلَكَةِ
 -swirtschaft s. f. اِقْتِصَادٌ سِيَّاسِيٌّ
 -swissenschaft s. f. عِلْمُ السِّيَّاسَةِ
 Stab s. m. قَضِيبٌ | عَصَا pl.
 pl. صَوْبَانٌ (Hirten-) - | قُضْبَانٌ
 pl. صَوَالِجَةٌ (eines Heeres) mil.
 | اَرْكَانُ الجَيْشِ den - brechen über
 -soffizier | لام u هـ | حَكَمَ u عَلَى
 ضَابِطٌ مِنْ اَرْكَانِ الجَيْشِ s. m.
 pl. ضَبَّاطٌ
 Stachel s. m. (der Bienen u. Pflanzen)
 | شَوْكَاتٌ pl. شَوْكَةٌ (النَّحْلُ وَالنَّبَاتُ)
 (des | عَاقُوصٌ | اِبْرٌ pl. اِبْرَةٌ
 von | الزُّبَانِيَانُ (Sforpion) -
 | مَنَاخِسٌ pl. مَنَاخِسٌ (Eisen)
 | مُحَرِّكٌ | حَاضٌ - bld. | مَسَّاسٌ *
 | كِشْمِشٌ | رِيْبَاسٌ s. f. -beere
 | عِنَبُ الثَّعْلَبِ | عِنَبُ الذِّئْبِ
 -ii va. | شَائِكٌ | ذُو شَوْكٍ a. -ig
 | نَخَسٌ a, u | غَرَزٌ i s. iii.
 | حَتٌّ s u bld. | هَمَزٌ i s

Stammhalter s. m. سَلِيلٌ وَجِيدٌ.
 stämmig a. مَرْبُوعٌ | قَوِيٌّ الْجِسْمِ
 مُرْتَبِعٌ.
 Stammler s. m. أَلْكَانُ | تَمْتَامٌ.
 Stammtisch s. m. مَقَرٌّ أَصْلِيٌّ -tafel
 s. f. جَدَاوِلُ | جَدُوْلُ النَّسَبِ s. f.
 -vater s. m. رَأْسٌ | أَبُو ذُرِّيَّةٍ
 ذُرِّيَّةٌ.
 Stampfe s. f. مُدَقٌّ | سَحَقٌ | دَقٌّ | دَكٌّ
 -n va. etw. هـ | سَكَنَ ا هـ
 -n vn. فَتَّتَ هـ | دَكَّ u هـ | دَقَّ u هـ
 - mit den Füßen قَرَعَ a الأَرْضَ
 اهْتَرَّ مِنْ (Schiff) - | بِالرَّجْلَيْنِ
 الْمُقَدَّمَ إِلَى الْمُؤَخَّرِ (مَرْكَبٌ)
 Stand s. m. طَبَقَةٌ (مِنَ النَّاسِ) pl.
 رُتْبَةٌ | حِرْفٌ pl. حِرْفَةٌ | طَبَقَاتٌ
 | صِنَائِعٌ pl. صِنَاعَةٌ | رُتَبٌ pl.
 | كَارَاتٌ pl. كَارٌ* | مُهَنٌ pl. مِهْنَةٌ*
 (-) | مَطْرَحٌ | مَوْضِعٌ (-ort) -
 pl. Stände | أَحْوَالٌ pl. حال
 | مَجْمَعٌ وَكَلَاءُ الْمَمْلَكَةِ
 | رَجُلٌ شَرِيفٌ النَّسَبِ -e von
 | اسْتَطَاعَ هـ | تَمَكَّنَ -e im
 | مَكَّنَ هـ | جَمَعَ -e in den - | جَمَعَ
 | أَنْجَزَ | تَمَّ -e kommen u | مِنْ
 | تَحَقَّقَ | أَنْمَى -e bringen zu
 | أَنْجَزَ هـ | أَتَمَّ هـ | ثَبَّتَ u halten -

| قَاوَمَ هـ | جَمَعَ - halten | ثَبَّتَ
 | أَعْلَامٌ pl. عِلْمُ الْحَيَاةِ s. f. -arte
 | بَيَارِقٌ pl. بَيْرَقٌ* | رَايَاتٌ pl. رَايَةٌ
 | تَمَائِيلٌ pl. تِمَالٌ s. n. -bild

Ständer s. m. رَايَةٌ صَغِيرَةٌ.

Stand-esamt s. n. مَكْتَبٌ رَسْمِيٌّ
 لَتَقْفِيدِ الْمَوَالِيدِ وَالْوَفِيَّاتِ
 -esbeamter s. m. | وَالنِّكَاحَاتِ
 -es- | كَاتِبٌ شَرْعِيٌّ بِهَذَا الشَّانِ
 -esherr s. m. | مُوَافِقُ الرُّتْبَةِ a. gemäÙ
 | سَيِّدٌ شَرِيفٌ s. f. -esperson s. m.,
 النَّسَبِ.

Ständetag s. m., Ständeverammlung
 مَجْلِسٌ وَكَلَاءُ الْمَمْلَكَةِ s. f.

standhaft a. مُسْتَمِرٌّ | ثَابِتُ الْقَلْبِ
 | ثَبَاتُ الْقَلْبِ s. f. -igkeit | مُسْتَقِرٌّ
 | اسْتِمْرَارٌ | مُدَاوِمَةٌ | عَزْمٌ

ständig a. مُسْتَقِرٌّ | دَائِمٌ | ثَابِتٌ

ständig a. مُخْتَصِّ بِوَكَلَاءِ الْمَمْلَكَةِ
 | مُخْتَصِّ بِرُتْبَةٍ.

Standlager s. n. مَعْسَكَرٌ ثَابِتٌ
 | مَوَاضِعٌ pl. مَوْضِعٌ s. m. -ort
 | مَوْقِفٌ s. m. -punkt | مَطْرَحٌ
 | آرَاءٌ pl. رَأْيٌ bld. | مَوَاقِفُ
 | مَعْسَكَرٌ ثَابِتٌ s. n. -quartier
 | مَجْلِسٌ حَرْبِيٌّ s. n. -recht | مَقَرٌّ

-rechtlich a. مُخْتَصَرٌ بِمَجْلِسِ حَرْبِيٍّ |
-rede s. f. بِحِطَابٍ.

Stange s. f. (von Holz) حَشَبَةٌ |
| قُضْبَانٌ pl. قُضَيْبٌ | طَوِيلَةٌ
(von Eisen) - | رَكَائِزٌ pl. رَكِيْزَةٌ *
(von Gold od. Silber) سَبِيكَةٌ pl.
(des Hirsches 2c.) - | سَبَائِكٌ
| قُرُونٌ pl. قَرْنُ الْأَيْلِ النِّحْ
| عَارِضٌ هـ | قَاوِمٌ هـ | سَاوِيٌّ هـ - halten
bei der - | اِسْتَمَرَّ فِي عَزْمِهِ - bleiben

Stänker s. m. ذُو رَائِحَةٍ كَرِيْهَةٍ |
-ei s. f. | فَضُوْلِيٍّ | مُزْجِجِ النَّاسِ
-n | اِزْجَاجِ النَّاسِ | رَائِحَةٍ كَرِيْهَةٍ
vn. a. اَزْجَعِ النَّاسِ | خَنِزِرٌ.

Staniol s. n. قَصْدِيْرُ الْمَرَايَا.

Stanze s. f. نَوْعٌ مِنَ الْقَصِيْدَةِ.

Stapel s. m. | مَعْمَلُ الْمَرَاكِبِ | ein
Schiff vom - | اَنْزَلَ - laufen lassen
| مَرَكَبٍ إِلَى الْبَحْرِ | vom - | اَنْزَلَ - laufen
(-platz) - | اَنْزَلَ إِلَى الْبَحْرِ (مَرَكَبٍ)
| مَخْزَنٌ s. m. | مَخْزَنُ الْبَضَائِعِ
الْبَضَائِعِ.

Stapfe s. f. اَثْرٌ | آثَارٌ pl. اَثَرٌ.

Star s. m. (Vogel) - | زُرُورٌ (Augen-
krankheit) | يَبَاضَةٌ فِي الْعَيْنِ |

| غِشَاوَةٌ | كَثَافَةٌ غِشَاءِ الْعَيْنِ
| نَزُولٌ * | ماءٌ اَزْرَقٌ *
äg.

stark a. | شَدِيْدُ الْقُوَى | قَوِيٌّ |
| نَجِيْنٌ | سَمِيْكٌ (dicke) - | الْعَصَا
- | غَزِيْرٌ | عَدِيْدٌ (zahlreich) -

Stärke s. f. | قُوَّةٌ - (für die Wäsche)
| مَعْمَلُ النَّشَاءِ - | نَشَاءٌ
-mehl s. n. | نَشَاءٌ -n va. etw.
-- die | اَيْدٍ هـ | شَدَدٌ هـ | قَوَى هـ
Wäsche | نَشَى الْغَسِيْلِ | Stärkung
s. f. | تَقْوِيَّةٌ مُقَوٍّ.

starr a. | مُتَشَدِّدٌ | مُتَصَلِّبٌ | صُلْبٌ |
| تَشَدَّدٌ | صَلْبٌ - | مُتَوَتِّرٌ
- | عَنِيْدٌ bld. - | تَوَتَّرٌ
-heit | -en vn. u. | صَلْبٌ -
| كَثُرٌ u. | غَزُرٌ - - | تَوَتَّرٌ
| نَظَرَ - - | فِيهِ شَيْءٌ
| صَلَابَةٌ s. f. | اِلَيْهِ مَبِيْهُوْلًا
- | عِنَادٌ | تَوَتَّرٌ | تَشَدَّدٌ
| عَنِيْدٌ - | اِنْسَانٌ عَنِيْدٌ
| كُرَّازٌ s. m. med. | فَرَمْفٌ -
| عِنَادٌ s. m. | تَيْتَانُسٌ *
- | عَنِيْدٌ a. | عَنِيْدٌ.

stāt a., stätig a., stäts adv. | stet,
stetig, stets.

Statif s. f. | اَعْتِدَالُ الْجَسَامِ |
وَمُوَازَنَتِهَا.

(Krankheit) - | ضَرْبٌ بِالسُّوْطِ | سَوْتُ
وَبَاءَ الْحَيَوَانَاتِ

stäupen va. jn. بِالسُّوْطِ & i ضَرْبٌ.

Stauschleufe s. n., Stauwerk s. n.

هَوَيْسٌ لِتَوْقِيفِ الْمَاءِ.

Stech-apfel s. m. bot. جَوْزٌ مَائِلٌ

مَيْدَانٍ - | جَوْزٌ بَقْمٍ

en va. jn. (Dorn, Nadel) & i غَرَزٌ

لَدَغٍ & a (Biene) -- | شَاكٌ | شَاكٌ u

jn. (mit Waffe) & i ضَرْبٌ

(Sonne) -- | بَحَدَّ السَّيْفِ

u | حَرَّ | jn. in die Augen -

in See -- | ابْتَعَدَ عَنِ الشَّاطِئِ --

heber s. m. آلَةٌ يُؤَخَذُ بِهَا الْخَمْرُ

palme s. f. bot. شَجَرَةٌ شَرَابَةٌ

الرَّاعِي.

Stech-brief s. m. أَمْرٌ تَوْقِيفٌ مُجْرِمٌ

en va. etw. in | هَارِبٌ مَعَ وَصْفِهِ

أَدْخَلَ فِي | وَضَعَ a هُوَ دَاخِلٌ شَيْءٌ

etw. zu sich, in die Tasche --

jm. etw. -- | وَضَعَ a هُوَ فِي الْجَيْبِ

وَضَعَ فِي -- in -- | أَخْبَرَهُ بِهِ خَفِيَّةً

bleiben -- | وَجِدَ فِي | أَدْخَلَ فِي

lassen -- | أَرْتَجُّ عَلَيْهِ | تَوَقَّفَ

en s. m. | أَوْحَدَ هُوَ | تَرَكَ هُوَ u

enpferd s. n. | عَصَى pl. عَصَا

bl. | فَرَسٌ (مِنْ كَلَامِ الصَّبِيَّانِ)

مَيْلٌ مُفْرِطٌ | زَعَمَ مَحْبُوبٌ

-ling s. m. | غُرُوزٌ pl. غُرُزٌ

-rübe | دَبَائِيسٌ pl. دَبَّوسٌ *

s. f. لِفْتَ.

Steg s. m. قَنْطَرَةٌ صَغِيرَةٌ pl. قَنْاطِرٌ

(der Geige) | مَعَابِرٌ pl. مِعْبَرٌ

(Steig) - | مُشَطٌّ (الْكَمَنْجَةُ)

قَدُومِيَّةٌ * | طُرُقٌ pl. ضَيْقٌ

Stegreif s. m., aus dem - reden

اِقْتَبَلَ | اِبْتَدَاهُ | اِقْتَرَحَ | اِرْتَجَلَ

-dichter s. m., -redner s. m.

مُبْتَدَاهُ | مُرْتَجِلٌ | مُقْتَرِحٌ

stehen vn. (Person) i وَقَفَ | اِقَامَ u

(Sachen) | اِنْتَصَبَ | اِسْتَقَامَ

- lassen etw. | اِقَامَ u | وَجَدَ | وَضَعَ

bleiben i وَقَفَ | تَرَكَ u هُوَ

unter | ضَمِنَ a هُوَ اَوْ بِهِ - für jn.

seinen | اِقَامَ u | تَحْتَ اَمْرِهِ - jn.

etw. zum | اِقَامَ u | شَجَاعًا - Mann

- bringen & اَوَقَفَ | es steht in

einem Buch | اِقَامَ فِي كِتَابٍ

ناسب & | وَاَفَقَ هُوَ (passen) jn.

es steht dahin ob هَلْ | يَأْتَرِي هَلْ

wie steht es | مِمَّنِ الْمَشْكُوكُ فِيهِ

mit Ihnen? | كَيْفَ حَالُكَ | دَا

zu | هَذَا اَمْرُكَ | اِقَامَ فِي

kommen كَذَا | سَوِيَ كَذَا -

- ern a. | مِنْ حَجَرٍ | حَجْرِيّ -geröll
s. n. | هَيَارٍ | رَدْمٍ | وَعُرٍ -gut s. n.
-hart a. | قَيْشَانِيّ * | خَزَفٍ مَطْبِيّ
-hauer s. m. f. | صُلبٍ كَالْحَجَرِ
| كَثِيرِ الْحِجَارَةِ | حَجْرِيّ -metz | -ig a.
-igung | رَجْمٍ | -igen va. jn. ه u
| فَحْمٍ حَجْرِيّ | -föhle s. f. | رَجْمٍ s. f.
| -marder s. m. zool. | فَحْمٍ مَعْدِنِيّ
| نَمْسٍ | فَنَكٍ | نَوْعٍ مِنَ السَّمُورِ
-obst | نَحَّاتٍ | حَجَّارٍ -metz s. m.
| -öl s. n. | فَوَاكِهِ ذَاتِ نَوَاةٍ s. n.
| زَيْتِ الْكَازِ * | زَيْتِ الْغَازِ * | نَفْطٍ
-pilz s. m. | بِلَاطٍ -pflaster s. n.
| مَوْلِدٍ s. n. | رَيْحٍ -reich s. n. | نَوْعٍ مِنَ الْفُطْرِ
| غَنِيٍّ جِدًّا -reich a. | مَعْدِنِيّ
-fetzer | مِلْمٍ مَعْدِنِيّ -falz s. n.
| رَمِيّ s. m. | مَبْلُطٍ -wurf s. m.
| مَسِيرِ الْحَجَرِ الْمُرْمِيّ | بِالْحَجَرِ
Steiß s. m. (von Säugetieren) | عَجَبٍ
| - (von | أَعْجَازٍ pl. | عُجْزٍ | عُجُوبٍ pl.
Dögeln) | زِمَكِيّ | زِمَكٍ | رِمَجِيّ (Dögeln)
-bein s. n. | عَظْمِ الْعُجْبِ s. n.
Stelldichein s. n. | مَعَاهِدٍ pl. | مَعْرَدٍ s. n.
| مُتَنَقِّيّ | مَوَاعِيدٍ pl. | مِبْعَادٍ
Stelle s. f. (Ort) | مَوَاضِعٍ pl. | مَوْضِعٍ (Ort)
| أَمَاكِنٍ pl. | مَكَانٍ | نَحَّالٍ pl. | مَحَلِّ
u. | مَنَصَّبٍ (Amt) - | أَمْكِنَةٌ u.
- وَوَظَائِفٍ pl. | وَظِيْفَةٌ * | مَنَاصِبٍ
an | في الْحَالِ | حَالًا - | auf der
Ort u. | الْمَحَلِّ الْمَقْصُودِ -
| حَطَّ u ه | وَضَعَ a ه | stellen va. etw.
- als ob | جَعَلَ a ه | أَقَامَ ه
- | تَنَكَّرَ بٍ | تَظَاهَرَ بٍ | sich frank
- | تَمَاوَتَ - | تَمَارَضَ | sich tot
- | حَضَرَ u قُدَّامِ الْقَاضِيّ | vor Gericht
| -jäger s. m. | طَالِبِ الْوِظَائِفِ
-weise a. | فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ
| صَانِعٍ | نَجَّارٍ - | Stellmacher s. m.
| صَانِعِ الْعَرَبَاتِ * | العَجَلِ
| قِيَامٍ | تَصَرَّفَ | وَضَعَ s. f. | Stellung
| وَظِيْفَةٌ * | مَنَصَّبٍ (Amt) - | هَيْئَةٌ
| نُوَابٍ pl. | نَائِبٍ s. m. | Stellvertreter
| وَكَلَاءٍ pl. | وَكَيْلٍ | Stellvertretung
| نُوَكَيْلٍ | إِيْنَابَةٌ s. f.
Stelzbein s. n., Stelzfuß s. m. | سَاقٍ
| خَشَبٍ | سَاقٍ s. f. | Stelze
| عَكَكِيْزٍ pl. | عَكَكِيْزٍ pl. | قَبْقَابٍ *
| قَبَاقِيْبٍ
| أَزَامِيْلٍ pl. | زَمِيْلٍ s. n. | Stemmeisen
| مَنَاقِيْبٍ pl. | مَنَقَارٍ | stemmen va.
| - | أَسْنَدَ ه | إِلَى | gegen
| عَارَضَ ه | قَاوَمَ ه
| وَسْمٍ | دَمَغَةٌ s. m. | Stempel
| طَبَاعٍ | طَابِعٍ | طَبَاعٍ pl. | سِكِّكٍ pl.

- * | بَصْمَةٌ * | سَنَابِكُ pl. | سُنْبُكُ *
 -abgabe s. f., -geld s. n., -steuer
 s. f. | ضَرَائِبُ pl. | ضَرِيْبَةٌ | التَّبْعَةُ s. f.
 -bogen s. m., -papier s. n. | وَرَقُ
 | وَسَمٌ i h | -n va. etw. | مَوْسُومُ
 | بَصَمٌ u h.
- Stengel s. m. | ساقُ نَبَاتٍ صَغِيرٍ pl.
 | سِيْقَانٌ u. | سُوْقُ.
- Stenograph s. m. | كَاتِبٌ بِإِيجَازٍ
 | -ie | كَتَبَةٌ u. | كَتَّابٌ pl. | وَإِسْرَاعٌ
 s. f. | -ieren | كِتَابَةٌ بِإِيجَازٍ وَإِسْرَاعٍ s. f.
 | كَتَّبَ u h | بِإِيجَازٍ وَإِسْرَاعٍ va. etw.
 | -ifch a. | إِيجَازِيٌّ | الكِتَابَةُ.
- Steppdecke s. f. | لِحَافٌ مُضْرَبٌ pl.
 | لُحْفٌ.
- Steppe s. f. | بَرَارِيٌّ pl. | بَرِّيَّةٌ s. f.
- steppen va. | كَلَيْدُ الثَّوْبِ | ضَرَبَ الثَّوْبَ.
- Sterbe-bett s. n. | فِرَاشُ المَائِتِ pl.
 | pl. | وَفَاةٌ | مَوْتُ s. m. | -fall s. m. | فُرْشُ
 | -geld s. n. | وَفِيَاتٌ pl. | وَفِيَاتٌ
 | دار | -haus s. n. | نَفَقَاتُ المِنَازَةِ
 | مات | -n vn. u. | ماتَ فِيهَا أَحَدٌ
 | -- an einer | تَوَفَّاهُ اللهُ | تَوَفَّى
 | مات | u | مِنْ مَرَضٍ | مَرَضٌ
 | -n s. n. | هَلَكَ | (vergehen) --
 | مَرِيضٌ a. | -nstrank | وَفَاةٌ | مَوْتُ
 | -nswort s. n. | مُشْرِفٌ عَلَى المَوْتِ
- fein -nswörtchen
 | قال | u | وَلَا كَلِمَةً | -stunde
 s. f. | ساعة المَوْتِ | -tag s. n.
 | يَوْمُ المَوْتِ.
- sterblich a. | مَائِتٌ | قابل المَوْتِ |
 | -feit s. f. | هَالِكٌ | بائِدٌ | فانٍ
 | مِيزَانِيَّةُ الوَفِيَاتِ.
- Stereometrie s. f. math. | عِلْمُ قِيَاسِ
 | الأَجْرَامِ.
- Stereoskop s. n. | آلَةٌ يُرَى فِيهَا كُلُّ
 | صُورَةٍ بارِزَةٍ.
- Sterling, engl. ein Pfund - * | جِنِيَّةٌ |
 | دِنَارٌ أَنْكَلِيْزِيٌّ pl. | دَنَانِيْرٌ.
- Stern s. m. | نَجْمٌ pl. | نُجُومٌ (-bild)
 | pl. | شِهَابٌ | كَوَاكِبٌ pl. | كَوَكَبٌ
 | (Glück, | شُئْبٌ u. | شُهْبَانٌ
 | Geschick) | طَوَالِعٌ pl. | طَالِعٌ
 | نِيشَانٌ (Orden) | - | نَصِيْبٌ
 | كَوَاكِبٌ pl. | كَوَكَبٌ s. n. | -bild
 | مُنَجِّمٌ s. m. | -deuter | بُرُوجٌ pl. | بُرُجٌ
 | -enbanner s. n. | عِلْمُ ذُو النُّجُومِ
 | -enhimmel | (عَلَامَةُ الدُّوَلِ المُنْتَحِدَةِ)
 | الفَلَكِ المُنَجِّمِ s. m., -enzelt s. n.
 | مُنَجِّمٌ | نَجَامٌ s. m. | -gucker
 | -kunde s. f. | مُنَجِّمٌ | -hell a.
 | -schnuppe s. f. | النُّجُومُ وَهَيئَتِهَا
 | ناشِطَاتٌ pl. | ناشِطَةٌ | رُجُومٌ pl. | رَجْمٌ

Stiefbruder s. m. | أَشَقَاءُ pl. شَفِيقٍ |
pl. إِخْوَةٌ أَخِيَّافٌ.

Stiefel s. m. | جَزَمَاتُ pl. جَزْمَةٌ * |
-fuecht | أمواق pl. موق | أَسْتِيكَ *

s. m. | آله تَنْزَعُ بِهَا الْجَزَمَاتُ |
-n v. - - ge-t | لايس جَزَمَاتُ

-putzer s. m. | مُنْظَفُ الْجَزَمَاتُ |

-sohle s. f. | نَعْلُ الْجَزْمَةِ |

-milch s. f. | بُوَيْةٌ * | طِلاءٌ | دُهْنٌ |

Stief-mutter s. f. | امْرَأَةُ الْآبِ | - -

(böse Mutter) | امٌّ شَرِيْسَةٌ |

-mütter- | زَهْرُ الثَّالُوْثِ * |

-chen s. n. bot. | شَبِيْهِ بِأُمِّ شَرِيْسَةٍ |

-mütterlich a. | -sohn | شَقِيْقَةٌ s. f. |

-schwester s. f. | ابْنُ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجِ s. m. |

رَبِيْبٌ | -tochter s. f. | أَرْبَةٌ pl. |

رَبِيْبَةٌ | -vater s. m. | رِبَائِبٌ pl. |

بَنَاتٌ pl. | بِنْتُ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ |

رَبِيْبَةٌ | -عمام pl. عم | زَوْجُ الْأُمِّ الثَّانِي |

u. | عَمَمَةٌ |

Stiege s. f. | سَلَامٌ pl. سَلَمٌ |

Stieglitz s. m. zool. | حَسَّوْنٌ |
زَقَاقِيَّةٌ * | الحَسَنُ |

Stiel s. m. (einer Pflanze) | سَاقٌ |
- (eines Werkzeugs) | نَبَاتٌ صَغِيْرٌ |
مَقْبِضٌ | أَيَادٍ u. أَيْدٍ pl. | يَدُ آلَةٍ |

pl. | مَقَابِضٌ | mit Stumpf u. -
أَصْلًا | بِالْكَلِّ |

stier a. | مَبْهُوْلٌ | - sehen
f. | stieren. |

Stier s. m. | ثَوْرٌ pl. ثَيْرَانٌ |

stieren vn. | مَبْهُوْلًا u. نَظَرَ |

Stift s. m. (fl. Nagel) | مِسْمَارٌ دَقِيْقٌ |
pl. | مَسَامِيْرٌ | - (Blei-) |
pl. | أَقْلَامٌ | Stift s. n. | وَقْفٌ pl. |
وَقُوفٌ u. أَوْقَافٌ |

stiften va. etw. | أَقَامَ هـ | أَسَّسَ هـ |

eine fromme Stiftung | أَنْشَأَ هـ |

für jn. | وَقَفَ i هـ | لَهُ أَوْ عَلَيْهِ |

Frieden - | أَصْلَحَ بَيْنَ - | Stifter s. m. |

Stiftung | واقف | مُنْشِئٌ | مَوْسِسٌ |

(fromme) - | أَنْشَأَ | تَأَسَّسَ s. f. |

وَقُوفٌ u. أَوْقَافٌ pl. | وَقَفَ |

Stil s. m. | -isieren va. etw. |

مُنْشِئٌ | -ist s. m. | أَنْشَأَ هـ |

still a., stille | سَاكِتٌ | سَاكِنٌ | هَادِيٌّ |

der -e Freitag christl. | الْجُمُعَةُ |

halten, - stehen | وَقَفَ | - الحَزِيْبَةُ |

- sitzen, - liegen | اِسْتَرَاَحَ * |

- schweigen, - sein u. | سَكَتَ |

im -en | سِرًّا | خَفِيَّةٌ | still! -e! |

interject. | هُدُوْعٌ s. f. | - | أُسْكُتْ |

| رَاحَةٌ | سَكُوْنٌ | صَمُوْتٌ | سَكُوْتٌ |

in der -- -- | سِرًّا | خَفِيَّةٌ -- --
 etw. ه | سَكَنَ | هَدَأَ ه | Kind -- --
 قَتَلَ | هُنْجَر | -- | أَرْضَعَ | الطِّفْلُ
 Durst -- -- | كَسَرَ | الجُوعَ * | الجُوعَ
 | شَفَى | الغَلِيلَ | أَرَوَى | العَطَشَ
 -- -- | سَكَنَ | الوجعَ | Schmerz -- --
 (in Malerei) -- -- | عَيْشَةً | هَادِئَةً s. n.
 | صُورَةً | أَشْيَاءَ | كالفَوَاكِهِ
 | صُمُوتَ | سَكُوتَ s. n. | schweigend
 | وَقَفَ | stand s. m. | ساكِتَ a.
 | إِرْوَاءَ | تَسْكِينِ s. f. | انْقِطَاعِ
 | إِرْضَاعِ | (الطِّفْلِ)

صَوْتٌ (الإنسان والحيوان) s. f. Stimmes.
 | أَصْدَاءَ | pl. صَدَى | أَصْوَاتَ | pl.
 | آراءَ | pl. رَأَى (Dotum) -
 | أَعْطَى | الرَّأْيَ | geben

stimmen va. ein Instrument mus.
 | دَوْرَنَ * | أَوْقَعَ | ه | عَدَلَ | آلةَ الطَّرَبِ
 | وَاظَقَ | | اتَّفَقَ | (überein-) -
 | أَعْطَى | الرَّأْيَ | (notieren) -
 | تَهَيَّأَ | | اسْتَعَدَّلَ | stimmt sein zu
 | أَغْلَبِيَّةَ | الآراءِ s. f. | -mehrheit
 | عَدَدَ | الآراءِ s. f. | -zahl

Stimmer s. m. mus. * | مُدَوِّرِنَ |
 | مَوْقِعَ | آلةَ الطَّرَبِ | آلةَ الطَّرَبِ
 | مَن لَهُ | الحَقِّ | فِي | إِعْطَاءِ a. | stimm-fähig
 | آتةَ | s. f. mus. | -gabel | الرَّأْيِ

| مُوسِيقِيَّةَ | يُعْرَفُ | بِهَا | اللُّحْنُ
 | حَقِّ | فِي | إِعْطَاءِ | الرَّأْيِ s. n. | -recht
 | لُحْنُ | | إِيقَاعِ | mus. s. f. | -ung
 | حَالِ | النَّفْسِ | (einer Person)

| خَنِزَرَ | | أَنْتَنَ | | نَتْنِ | i. | vn. | stinken
 | اَعْفَنَ | | تَعَفَّنَ | | عَفِنَ | a. | stinfig a. d.
 | دُو | رَائِحَةَ | كَرِيهَةً | مُنْتِنَ

Stint s. m. zool. | بُورِيَّ | pl. | بُورِيَّ

Stipendium s. n., pl. -ien od. -ia
 | مُسَاعَدَةَ | الدَّرَاهِمِ | لِتَلْمِيذِ

| غَمَسَ | i | ه | فِي | in | etw. | va. | stippen
 | غَطَسَ | i | ه | فِي

stipulieren va. etw. | اسْتَشْرَطَ | عَلَى

Stirn s. f., Stirne s. f. | جَبْهَةً | pl.
 | جَبِيْنِ | | جِبَاهَ | u. | جَبَبَاتِ | pl.
 | die - | falten, runzeln | أَجْبِنَ |
 | jm. die - | bieten * | عَبَسَ | i
 | -locke | سَفَاهَةً | وَقَاحَةَ | -eiserne
 | نَوَاصِيَّ | pl. | نَاصِيَّةَ | s. f.

stochern vn. in den Zähnen | تَسَوَّكَ |
 | اسْتَاكَ |

Stoß s. m. | عَصَا | pl. | عَصَى | großer -
 | نَبَاتٍ * | | دَبَابِيْسِ | pl. | دَبَّوسِ | pl.
 | طَبَقَةَ | الدَّارِ | (-werk) - | نَبَابِيْتِ |
 | - bld. | | أَدْوَارَ | pl. | دَوْرَ | | طَبَقَاتِ | pl.
 | رَجُلٍ | بَلِيْدِ | (einfältiger Mensch)
 | -degen | | عَمِيَاءَ | f. | أَعْمَى | a. | -blind

- s. m. اَعْصَا فِيهَا سَيْفٌ - dumm a. Stollen s. m. دِهْلِيْزِ فِي الْمَعَادِنِ pl.
 مُظْلِمٌ جِدًّا - dunkel a. نَوْعٌ مِنَ الْقُرْصِ | دِهَالِيْزِ
 stoßen vn. i اِنْقَطَعَ | تَوَقَّفَ | وَقَفَ u. تَفَرُّكُنْشِ * | كَبَا | عَثَرَ
 فَسُدَ u. بِالرُّطُوْبَةِ stolz a. (Person) مُتَكَبِّرٌ |
 stockfinster a. مُظْلِمٌ جِدًّا - [f]isch s. m. (von Sachen) مُتَعَطِّرِسْ | شَامِخِ
 اَنْوَعٌ مِنْ سَمَكٍ بَحْرِيٍّ مُمَلِّحٍ - sein od. werden
 - - bld. رَجُلٌ بَلِيْدٌ - fleck s. m. - تَعَطَّرِسْ | تَكَبَّرَ
 سِجْنٌ - haus s. n. اَبْقَعَ بِالرُّطُوْبَةِ | Stolz s. m. اِفْتَخَرَ بَ
 -ig a. فَاْسِدٌ بِالرُّطُوْبَةِ - prügel - ieren vn. تَكَبَّرَ |
 اَضْرَبَ بِالْعَصَا s. pl., -[d]läge s. pl. اِسْتَفْخَرَ | تَجَبَّرَ
 -steif a. اِسْتَصَلَبَ كَالْعَصَا - ierem vn. تَبَخَّرَ |
 اَصَمَّ | طُرْشٌ pl. طُرْشَاءُ f. اَطْرَشَ -iung s. f. تَوَقَّفَ | وَقَفَ
 اِنْقِطَاعٌ | تَوَقَّفَ | وَقَفَ | طبقة (Des Hauses) s. n. -werf s. n. اِسْتَدَادَ |
 اَدْوَارٌ pl. دَوْرٌ | طبقات (الدار) pl. اِسْتَدَادَ | سَدَّ u. ه
 اَضْرَاسٌ pl. ضِرْسٌ s. m. -jahu s. m. اِسْتَدَادَ | سَدَّ u. ه
 Stoff s. m. مَادَّةٌ pl. مَوَادٌّ | رَقَعَ الشَّرَابِ (die Pfeife)
 اَمْوَاضِيْعٌ pl. مَوْضُوْعٌ (Thema) - اِقْبَضَ i الْبَطْنِ * | عَبَى ه
 - قَمَاشٌ * (Seug) - | صَدَدٌ * اِسْتَدَادَ | سَدَّ u. ه
 نَسِيْجَةٌ | نُسُجٌ pl. نَسِيْجٌ | اَقْمِشَةٌ * | اِسْتَدَادَ | سَدَّ u. ه
 | مِنْ قَمَاشٍ -en a. | نَسَايُجٌ pl. اِسْتَدَادَ | سَدَّ u. ه
 -lich a. مَادِّيٌّ | اِسْتَدَادَ | سَدَّ u. ه
 stöhnen vn. تَنَهَّدَ | نَاحَ u. تَنَهَّدَ | سَدَّ u. ه
 s. n. تَنَهَّدَ | اِسْتَدَادَ | سَدَّ u. ه
 Stola s. f. kath. بَطْرَشِيْلٌ * pl. اِسْتَدَادَ | سَدَّ u. ه
 بَطَارِشٌ | اِسْتَدَادَ | سَدَّ u. ه

störriḡ a., störrisch a. (Pferd) | جَمُوح
-feit | عَنِيد (Mensch) - | شُمُوس
s. f. عِنَاد.

Störung s. f. إِزْعَاج.

Stoß s. m. | دَفْع | مُصَادِمَةٌ | صَدْمٌ
| صَدْمَةٌ - ein. | دَفْشَةٌ * | لَطْمٌ *
- (mit Lanze, Messer, Dolch)
| نَفْحَةٌ الرِّيح (Wind-) - | طَعْنَةٌ
- des Erdbebens زَلْزَلَةٌ pl. | رَجَّةٌ
هَزٌّ | رَجَّةٌ.

Stößel s. m. مِدْقٌ pl. مَدَاقٌ.

stoßen va. | لَطَمَ i | صَادَمَ | صَدَمَ u |
| دَفَشَ u | دَفَعَ a | (mit
Hörnern) | نَطَحَ i, a | (Gewürz,
Pfeffer) | دَكَ u | دَقَّ u |
u. etw. von sich - | رَدَّ u |
| طَرَدَ u | den Degen in
den Leib - | طَعَنَ a |
| صَدَمَ نَفْسَهُ - sich
etw. | اغْتَاطَ مِنْ | vn. - auf jn.
| لَاقَى | صَادَفَ | عَثَرَ a عَلَيْهِ
- auf etw. (Vögel) | انْقَضَّ عَلَى
| اتَّصَلَ - an einander | (الطُّيُور)
in die Trompete - بَوَّقَ.

Stoß-gebet s. n., -seufzer s. m.
| نَوَافِدُ pl. نَافِذَةٌ | عَوَاطِفُ pl. عَاطِفَةٌ
-wind s. m. نَفْحَةُ الرِّيح.

stottern vn. | تَمَّتَمَ | لَكِنَ a | رَتَّ a
Stottern s. n. | تَحْتَاخَةٌ |
لَكَنَّ | رُتَّةٌ.

stracks adv. | دُغْرِي * | رَأْسًا.

Straf-anstalt s. f. مَحَابِسُ pl. مَحْبِسٌ
-bar a. | سَجُونٌ pl. | سِجْنٌ
- - | مُسْتَوْجِبُ الْقِصَاصِ
| عُقُوبَةٌ s. f. -e | أَدْنَبَ machen
pl. | قِصَاصٌ | جَزَاءٌ | مُعَاقِبَةٌ | عِقَابٌ
-en | أَعْدِبَةٌ pl. | عَذَابٌ | قِصَاصَاتٌ
va. jn. | عَاقَبَ | قَاصَّ | عَدَّبَ.

straff a. | مُتَشَدِّدٌ | مَشْدُودٌ
-heit s. f. | تَشَدُّدٌ | شِدَّةٌ.

straf-fällig a. | -bar | -geld s. n.
| جَزَاءٌ نَقْدِي * | دِيَاتٌ pl. دِيَةٌ
| مَحْكَمَةٌ فِي الْجَنَايَا s. n. -gericht
- - | يَوْمَ الدِّينِ Gottes - -
s. n. | شَرِيعَةٌ جِنَايِيَّةٌ -gesetzbuch
s. n. | مَجْمُوعُ الشَّرَائِعِ الْجِنَايِيَّةِ.

sträflich a. | strafbar | Sträfling
s. m. | المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالشُّغَالِ اللُّومَانِ
* مُلُومَنٌ.

straf-los a. | غَيْرُ مُعَاقَبٍ | بلا قِصَاصٍ
| عَفُوٌّ | عَدَمُ الْقِصَاصِ s. f. -losigkeit
-prediger s. m. | كَثِيرٌ
| تَوْبِيغٌ s. f. -predigt | التَّوْبِيغُ
| تَبْكِيَّتٌ s. n. -recht | الشَّرَائِعُ

- قاضي الجنائية | richter s. m. الجنائية
 مجلس | senat s. m. قضاة |
 قضاة الجنايا
 pl. قضاة الجنايا.
- Strahl s. m. شعاع pl. أشعة u.
 لمحة | ein - von Hoffnung شعاع
 (Sonne) -- | أشع - en vn. | الأمل
 | لاح u | لَمَع (glänzen) -- | قَصَب
 -- | فرحًا (vor Freude) --
- Strähn s. m., -e s. f. كَبَّة غَزَلِ pl.
 كَبَب.
- stramm a. متوتّر | مُتَشَدِّد | مَشْدُود
 -heit s. f. تَشَدُّد.
- strampeln vn. mit den Beinen حَرَكَ
 الرجلين.
- Strand s. m. ساحل البحر pl.
 شَط | شواطئ | شاطئء | سواحل
 pl. شطوط | auf den - laufen f.
 stranden | -en vn. (Schiff) انْدَفَع
 | احْتَرَث | على الشاطئ (مركب)
 -gut s. n. ما يقدفه البحر من
 الحق على s. n. -recht | المال
 -ung | ما يقدفه البحر من المال
 s. f. eines Schiffes احْتِرَاث مَرْكَب
 -vogt s. m. مُفْتِش الشواطئ.
- Strang s. m. حبل pl. حبال |
 | أوتار pl. وتر القوس - des Bogens
 - | مشنقة (zum Hängen).
- strangulieren va. jn. * u حَنَق |
 شَنَق u *.
- Strapaze s. f. تعب pl. أتعاب |
 strapazieren | عياء | عناء | مشقة
 va. jn. * | أتعب * | - | etw. ه
 | أتلف ه.
- Straße s. f. (Weg) طرُق pl. طرُق
 | سبك pl. سبكة | طرقات u.
 | شوارع pl. شارع (einer Stadt) -
 زقاق - (Fl.) | دروب pl. درب *
 بوغاز * (Meerenge) | أزقة pl.
 ولد s. m. -njunge | بواغيز pl.
 -nfot | أولاد pl. نوار في الأزقة
 | وِجْل s. m. -npflaster | وِجْل
 -nraub s. m. قطع الطريق
 pl. قاطع الطريق | rüber s. m.
 قطاع.
- Strategie s. m. قائد عسكري pl.
 علم الحركات | قواد Strategie s. f.
 مختص | العسكريّة | strategisch a.
 يعلم الحركات العسكريّة.
- sträuben va., sich - (federn, Haare)
 | انتفش | ازبازر (الريش أو الشعر)
 | عارض ه | عارض ه - gegen etw. sich
- Strauch s. m. دغل pl. أدغال u.
 | أجباب u. جباب pl. جبب * | دغال
 - dieb s. m. | عليقة (Dornen-) -

صِنَارَةٌ pl. صِنَانِير | -zeug s. n.
آلات السَّرْد.

Striegel s. m. مِحْسَّة | فِرْجُون |
-n va. Pferd الفَرَس u حَسَّ |
فَرَجَن هـ.

Striemen s. m. آَثَر الضَّرْب pl. آثار.

Strippe s. f. خَيْط pl. خَيْبُوط | بَرِيم |
سُيُور pl. سَيْر لِلْحِذَاء.

strittig a. مُخْتَلَف فِيهِ.

Stroh s. n. (zu Häckerling geschnitten)

-bund | قَشْ * - (langes) | تِبْن

s. n. حُرْمَةٌ قَشْ | -ern a. مِّن

-feuer s. n. bld. مِّن قَشْ | تِبْن

-halm s. m. هِمَّة لا دَوَام لَهَا

-hut s. m. بُرْنِيْطَةٌ تِبْن | تِبْنَةٌ

-kopf | بَرَانِيْط pl. بُرْنِيْطَةٌ قَشْ

s. m. رَجُل بَلِيْد | -mann s. m.,

pl. مَن أُعْطِيَ آَسْمُهُ -männer

-papier s. n. | لا غَيْر فِي شِرْكَةٍ

فِرَاش s. m. | -sack s. m. فِرَاش مِّن تِبْن

قُبْضَةٌ | -wisch s. m. | فُرْش pl. تِبْن

اِمْرَأَةٌ غَاب | -wittwe s. f. i تِبْن

رَجُل | -wittwer s. m. | زَوْجُهَا

غَابَتْ زَوْجَتُهُ.

Strohh s. m. | هَاشِل * | طَوَاف | مُتَشَرِّد

-en vn. جال u في البلاد.

Strom s. m. (Strömung) جَرِيَان

مَجْرَى | سَيْلَان | الماء (gr. Fluß)

مَجْرَى -ab | أَنْهَر pl. نَهْر كَبِيْر

مَجْرَى الماء -auf | الماء التَّحْتَانِي

مَجْرَى النَهْر -bett s. m. | الفَوْقَانِي

أَوْدِيَّة pl. وادٍ | مَجَارٍ pl.

strömen vn. (الماء) i | جَرَى i | سال.

Stromer s. m. | Strohd.

Stromschnelle s. f. * شَلَال pl. شَلالات.

Strömung s. f. سَيْلَان | جَرِيَان الماء.

Strophe s. f. دَوْر | أُبْيَات pl. يَيْت

قِطْع pl. قِطْعَةٌ قَصِيْدَةٌ | أَدْوَار pl.

strotzen vn. اِمْتَلَأَ | مَلِيَء a | اِنْتَفَخ

i | تَزَخَّر | فاض i (Brüste von

Milch) خَلَقَ.

Strudel s. m. دَوَّار الماء * | دُرْدُور

pl. فَطِيْرَةٌ * (Art Mehlspeise) -

رَجُل نَارِي | -kopf s. m. | فَطَائِر

-n vn. (الماء) u دار.

Strumpf s. m. جَوَارِب pl. جَوَارِب

كَلْسَةٌ * | شَرَابَات pl. شَرَاب *

pl. كَلْسَات | -band s. n. | yr.

(frauen-) | رُبُط pl. رِبَاط السَّاق

-wirfer s. m. | مُخَدَّمَةٌ | مُخَدَّم

صَانِع الشَّرَابَات | صَانِع الجَوَارِب

Strunf s. m. سَاق مِّن بَعْض النَّبَات

pl. سِيْقَان u سُوْق.

struppig a. مُتَنَقِّش | مُزْبِئِر.

Stubbe s. f. قُرْمَة * pl. قُرْم.

Stube s. f. أُوْضَة | حُجْرَة pl. حُجْر |
 pl. مَخَادِع | مُخَدَع | أُودَة * | أُوْض pl.
 -narrest s. m. حَبْسِي فِي حُجْرَتِهِ
 -nhocher s. m. | مُلَازِم الدار
 mädchen s. n. خَادِمَة البَيْت pl.
 خَوَادِم.

Stuck s. m. مِلاط مِن كِلْسٍ وَرُخَام.

Stück s. n. شَقْفَة | قِطْع pl. قِطْعَة
 pl. لُقْمَة (Fleisch, Brot) - | شَقْف pl.
 pl. قِطْعَة أَرْض - | لُقْم pl.
 (einzelnes Ding) - | قِطْعَات u. قِطْع
 pl. نَسْخَة | الواحِد | أَفْرَاد pl. فَرْد
 | رُؤُوس pl. رَأْس (Dich) - | نُسْخ
 pl. رِوَايَة التِيَاثِرُو (-Theater) -
 | رِوَايَات etw. in -e schlagen
 | كَسْر ه | قِطْع ه
 aus freien -en, | اِخْتِيَارِيًّا
 von freien -en | große
 | اِحْتَرَم ه |
 -e halten auf in. |
 pl. بَتِيَّة * | -faß s. n. | اِعْتَبَر ه *
 -gut | بَرَامِيل pl. بَرُمِيل | بَتَاتِي
 | طَرْد * | بَالَات pl. بَالَة *
 s. n. | عَمَل غَيْر تَام s. n. | فَرْدَة *
 pl. اَعْمَال.

Student s. m. طَلَّاب pl. طَالِب عِلْم
 تَلْمِيذ فِي دَار الفُنُون | طَلْبَة u.

pl. تَلَامِيذَة u. تَلَامِيذ | -ifch a.

مُخْتَصِّ بِالتَلَامِيذَة فِي دَار الفُنُون.

Studie s. f. بَحْث عَن مَسْأَلَة |
 | مُطَالَعَة | مُدَارَسَة | دُرُوس pl. -n
 studieren vn. i, u | دَرَس |
 | الدَّرْس | va. - eine Wissenschaft
 | طَالَع الكُتُب العِلْمِيَّة | تَعَلَّمَ عِلْمًا
 Studierzimmer s. n. مَكْتَب pl.
 | مَكَاتِب | Studio s. m., -u. Bruder -
 f. Student | Studium s. n., pl.
 -ien | مُطَالَعَة | مُدَارَسَة -

Stufe s. f. مَرَقَاة | دَرَجَات pl. دَرَجَة
 pl. رُتْبَة | دَرَجَة (Rang) - | مَرَاقِي pl.
 | مَرَاتِب pl. مَرْتَبَة | رُتْب pl.
 -nfolge s. f. | مَنَازِل pl. مَنَزِلَة
 -ngang s. m., -nleiter s. f. | تَدْرِيج
 -nweise adv. تَدْرِيجًا.

Stuhl s. m. كُرَاسِي pl. كُرَاسِي u.
 | كُرَاسِي | der heilige - kath. السُّدَّة
 | zu -e | بَرَاز (-gang) - | الرِّسُولِيَّة
 | اِسْتَفْرَغ البَطْن | gehen -
 | حَبْسِي البَطْن | haben s. n.
 | أَرْجُل pl. رِجْل الكُرَاسِي
 | بَرَاز s. m. | -lehne s. f. |
 الكُرَاسِي.

Stulpe s. f. زِينَة أَكْمَام القَمِيص
 | وَضَع ه عَلَى etw. auf Stülpfen va.

den Hut auf den Kopf - a لَيْسَ |
الْبُرْنَيْطَةَ.

stumm a. (nicht reden könnend)

أَخْرَسَ | f. خَرَسَاءُ, pl. خُرْسٌ

(schweigend) - | خَرَسَ a | - | أَيْبَكُمْ

-er Buchstabe | صَامِتٌ | سَاكِتٌ

أَخْرَفٌ u. حُرُوفٌ pl. | حَرْفٌ لَا يُلْفِظُ

Stummel s. m. von قِطْعَةٌ صَغِيرَةٌ

عُقْبٌ (Cigarren-) | - | قَطَعٌ pl. من

سِيِجَارَةٌ*

Stummheit s. f. خَرَسٌ | بَكْمٌ | سَكُوتٌ

صُمُوتٌ.

Stümper s. m. * | خَابِصٌ * | مُخَبِّصٌ *

عَمَلٌ نَاقِصٌ | خَبِصَةٌ * | -ei s. f.

خَبِصٌ * | خَبِصٌ i فِي عَمَلِهِ * | -n vn.

خَرَشَبُ الْعَمَلِ.

stumpf a. كَهَامٌ | ثَالِمٌ | كَلِيلٌ | كَلٌّ

زاوية مُنْفَرِجَةٌ | -er Winkel

كَاهِمٌ a | كَلٌّ i | - sein od. werden

كَلٌّ ه | نَكَمٌ ه | - machen

أَضْعَفٌ ه | bld.

Stumpf s. m. (Baum-) قُرْمَةٌ pl.

بِالْكَلِّ u. Stiel | قَرَمٌ | mit -

أَصْلًا.

Stümpfchen s. n. قِطْعَةٌ صَغِيرَةٌ.

stumpf-nasig a. فُطْسَاءُ, f. أَفْطَسٌ

حُمُقٌ | بِلَادَةٌ s. m. | - | فُطْسٌ pl.

-sinnig a. بَلِيدٌ | أَحْمَقٌ, f. حَمَقَاءُ,
pl. حُمُقٌ.

Stunde s. f. سَاعَةٌ pl. سَاعَاتٌ |

(Zeit) | - | مَسَافَةٌ سَاعَةٌ (Weg-)

دُرُوسٌ pl. | دَرَسَ | -n geben

زَمَانٌ | حِينٌ (Zeit) | - | دَرَسَ ه

die letzte -, sein | زَمَنٌ | وَقْتُ

Stündlein | وَقْتُ الْمَوْتِ | von Stund

an | مِِنْ هَذَا الْوَقْتِ | zur -

هَذَا الْحِينِ | -n va. | مِ. | عَتِو.

سَاعَةٌ s. n. | نِغْلَاسٌ - | أَجَلٌ ه ه

طُولُهُ سَاعَةٌ أَوْ - | نِغْلَانٌ - | رَمَلِيَّةٌ

بَعْضُ السَّاعَاتِ.

stündlich a. فِي كُلِّ سَاعَةٍ.

Stundung s. f. تَأْجِيلٌ.

Sturm s. m. زَوَابِعٌ pl. زَوْبَعَةٌ

عَاصِفَةٌ pl. | نَوَاءٌ * | عَوَاصِفٌ pl.

هَيْجَانٌ | إِضْطِرَابٌ bld. | أَنْوَاءٌ

- | لَأْتِنٌ | هُجُومَةٌ | حَمَلَةٌ (Angriff)

دَقٌّ u. الْجَرَسُ | إِيقَاطًا لِلنَّاسِ

عَصَفَتْ vn., es stürmt

الرَّيْمُ | in das Zimmer zc. -

دَخَلَ | va. | دَخَلَ u. الْحُجْرَةَ النِّحْ مُسْرِعًا

- | هَجَمَ u. عَلَى قَلْعَةٍ | eine Festung

حَمَلَ i عَلَى قَلْعَةٍ.

Sturm-flut s. f. مَدُّ الْبَحْرِ الْمُرْدَادُ

دَقٌّ s. f. | - | بِالزَّوْبَعَةِ

- haube s. f. | الجرس إيقاظًا للناس
بَيْضَة.
- stürmisch a. | كثير الزوابع | عاصف
Sturmlauf s. m. | هجومة | حملة
-schritt s. m. | مشى مسرع
-vogel s. m. | نوع من الطيور
-wind s. m. | زوبعة | البحرية
pl. | زوابع.
- Sturz s. m. | سقوط | وقوع (Wasser-)
-bad s. n. | شلالات | شلال *
إستحمام في شلال.
- stürzen va. | أوقع ه في | in
ألقى ه في | رمى i ه في | أسقط ه في
- | in. | أهلك ه | etw. (um-)
| وقع a | سقط u - | قلب i ه
رمى i | ألقى نفسه في | in - | sich
انقض على | sich - auf | نفسه في
- Stute s. f. * | فرس pl. | فراس
أحجار pl. | حجر
- Stütze s. f. | أسناد pl. | سند
pl. | أعضاد | معين | عون
- stützen va. | etw. | قصر ه | einem
Kunde den Schwanz - a | قطع
| ذنب كلب | vn. - über etw.
تخير | تعجب من
- stützen va. | etw. | ه | أسند ه |
- sich - auf etw. | إلى | استند إلى
اتكأ على | اعتمد على
- Stützer s. m. | غطرس pl. | غطارس
* | غنادرة pl. | غنادور
- stutzig a., - werden | اندهش
Stützpunkt s. m. | des Hebels 2c.
| مساند pl. | مسند المنخل الخ
مرتكز
- Styl s. m. | f. | Stil.
- Suaheli n. | pr. | سواحلي
- subaltern a. | مرؤوس | تحت أمر
رئيس.
- Subjekt s. n. | gr. | مسند إليه
pl. | شخص (Person) - | مبتدأ
أشخاص
- Sublimat s. n. | (Quecksilber-) | زئبق
مصعد
- subskribieren auf etw. | في | اشتراك
Subskription s. f. | اشتراك
- Substantiv s. n. | gr. | اسم مطلق
اسم منعوت | اسم موصوف
- Substanz s. f. | مادة pl. | مواد
- Substitut s. m. | نائب pl. | نواب
- subtrahieren va. | etw. | arithm. | طرح
Subtraktion s. f. | arithm. | طرح
- Suche s. f., | auf der - sein nach
etw. | f. | suchen | -n va. | in. u. etw.

- | فَتَشْرَهُ وَهُوَ أَوْ عَنْ | بَحَثَ a عَنْ
 | (etw. Verlorenes) | طَلَبَ u ه وَ ه
 | تَفَقَّدَ ه | اِفْتَقَدَ ه
 | سَعَى a فِي - | etw. zu erreichen
 | gesucht | اِحْتَمَدَ فِي
 | مُتَصَنِّعٌ | مُتَصَنِّعٌ
 | هَوَى | مَيْلٌ مُفْرَطٌ | Sucht s. f.
 | هَوَسٌ * | fallende - med. | وَلَع
 | داء النُّقْطَةِ
 | غَلِيَانٌ | Sud s. m.
 | جَنُوبٌ | Süd s. m., Süden s. m.
 | بِلَادِ الْجَنُوبِ | قِبْلَةٌ *
 | خَرْبَشَةٌ * | الحَبْطَةُ * | Sudelei s. f.
 | حَبَّسَ * | الحَبِطَ * | sudeln vn.
 | Süden s. m. | Süd.
 | ساكِنِ بِلَادِ الْجَنُوبِ | Südländer s. m.
 | سَكَّانٌ | pl.
 | مُخْرَبَشٌ * | مُلْحَبِطٌ * | Sudler s. m.
 | اِقْبَلِي * | جَنُوبِي * | süd-lich a.
 | اَشْرُقِ جَنُوبِي * | -often s. m., -osten s. m.
 | جَنُوبِي شَرْقِي * | -östlich a. | pol
 | القُطْبِ الْجَنُوبِي * | -see s. m.
 | البَحْرِ الكَائِنِ فِي غَرْبِ بِلَادِ | s. f.
 | اَمِيرِيكَ | -west s. m., -westen s. m.
 | جَنُوبِي * | -westlich a. | westlich
 | اَلتَّيْمَنِ * | -wind s. m. | wind
 | اَلقِبْلِي * | الجَنُوبِ | القبلي
- Suez n. pr. | السَّوَيْسِ | -kanal s. m.
 | خَلِيَجِ السَّوَيْسِ
 Suff s. m. | سُكْرٌ | سُفِّيفٌ a.
 | لَذِيذٌ عِنْدَ الشُّرْبِ (Wein)
 Sühne s. f. | تَكْفِيرٌ | اِسْتِغْفَارٌ
 | -n va. | دِيَّةٌ | كَفَّارَةٌ (-geld)
 | اِسْتِغْفَرَ ه | كَفَّرَ عَنْ | etw.
 | دِيَّاتٍ | دِيَّةٌ | كَفَّارَةٌ | geld s. n.
 Sultan s. m. | سُلْطَانٌ | pl. سَلَاطِينٌ
 | مُخْتَصَرٌ | مُجْمَلٌ | summarisch a.
 | مُوجَزٌ
 Summe s. f. arithm. | جُمْلَةٌ | pl.
 | مَجْمُوعٌ | جُمْلٌ | pl. مجاميع
 | مَبَالِغٌ | مَبْلَغٌ (-Geld-) | -
 | مِقْدَارٌ | اَقْدَارٌ | pl.
 summen vn. (Insekten) | الحَشْرَاتِ
 | طَنَّ | دَوَّى
 summieren va. etw. | جَمَعَ a ه
 | اَجْمَلَ ه | اَضَافَ ه
 Sumpf s. m. | مُسْتَنْقَعٌ | بَطِيحَةٌ
 | نَزَزَ | نَعَصَ * | بطائح pl.
 | مُسْتَنْقَعٌ
 Sund s. m. | بُوغَازٌ *
 Sünde s. f. | خَطَاةٌ | خَطِيئَةٌ
 | عَصِيَانٌ | عَصِيَّةٌ | pl. خطايا
 | اِعْتِرَافٌ بِالْخَطَايَا | -nbekenntnis s. n.
 | مَن يُعَاقَبُ بِذَنْبٍ | -nbock s. m.

- الحَظِيئَةُ الْأَصْلِيَّةُ -nfall s. m. | غَيْرِهِ
 -ngeld s. n. | مَا يُكْتَسَبُ جَوْرًا
 -r s. m. | مُذْنِبٌ | خَطَاةٌ pl. | خَاطِيءٌ
 -rin s. f. | خَاطِئَةٌ pl. | خَوَاطِيءٌ.
 Sünd-flut s. f. | طُوفَانٌ | -haft a.,
 -ig a. | خَاطِيءٌ | -igen vn. a. | خَطِيءٌ
 -lich a. | عَصَى | i | أَدْنَبٌ | أَخْطَأَ
 . | جِنَايَتِي | ذَنْبِي
 Superintendent s. m. christl. | نَاطِرٌ
 . | نَظَّارٌ pl. | الوَعُظَاءُ
 Superlativ s. m. gr. | اسْمُ التَّفْضِيلِ
 Suppe s. f. | شُورْبَةٌ * | شُرْبَةٌ *
 -nfleisch s. n. | لَحْمٌ مَسْلُوقٌ
 Supplement s. n. | دَيْوَلٌ pl. | دَيْلٌ u.
 . | مُلْحَقٌ | أَذْيَالٌ
 Supplik s. f. | عَرَضٌ حَالٌ
 surren vn. | f. | summen.
 Surrogat s. n. | دَوَاءٌ مُتَبَادِلٌ pl.
 . | أَدْوِيَّةٌ
 suspendieren va. etw. | jn. | آخَرَهُ
 . | مَنَعَ a. | عَنِ الوَظِيْفَةِ
 süß a. | (Wasser) - | الْمَذِيذُ | عَذْبٌ | حُلْوٌ
 -e s. f. | f. | -igkeit | -en va.
 etw. | سُوْسٌ | -holz s. n. | أَحْلَى هُ
 - - raspeln | تَغْرَلٌ | -igkeit s. f.
 pl. | لَذَّةٌ | عُدْوَبَةٌ | حُلْوَانٌ | حَلَاوَةٌ
 -lich a. | حَلَاوِيٌّ - -en | pl. | لَذَاتٌ
- دُو | عُدِّيْبِي | مَائِلٌ إِلَى الحَلَاوَةِ
 . | لُطْفٌ مُتَصَنِّعٌ
 Suzerän s. m. | صَاحِبُ الإِخَاذَةِ أَوْ
 . | الإِقْطَاعَةِ الَّتِي تُخْضَعُ لَهَا إِخَاذَاتٌ
 . | غَيْرُهَا
 Syfomorie s. f. | جَمَامِيْزٌ pl. | جَمِيْزٌ
 Sylbe s. f. | f. | Silbe.
 Symbol s. n. | رَمُوزٌ pl. | رَمُوزٌ
 . | شَبِيهِيٌّ | رَمُوزِيٌّ | -isch a. | أَشْبَاهٌ pl.
 Symmetrie s. f. | اِعْتِدَالٌ | اِمْتِدَالٌ
 . | حُسْنُ التَّرْتِيْبِ | symmetrisch a.
 . | دُو اِعْتِدَالٍ
 Sympathie s. f. | مَيْلٌ طَبِيعِيٌّ | اِمْتِدَالٌ
 . | عَوَاطِفٌ pl. | عَاطِفَةٌ | عَطْفٌ
 pathisch a. | اِسْتِمَالِيٌّ | جَادِبٌ | اِسْتِمَالِيٌّ
 sympathisieren vn. | اِسْتِعْطَافِيٌّ
 mit jm. | اِسْتِمَالٌ | اِسْتِعْطَافٌ عَلَيْهِ
 . | اِسْتِمَالٌ | اِسْتِمَالٌ عَلَيْهِ طَبْعًا
 Symphonie s. f. mus. | نَوْعٌ مِنَ الأَنْعَامِ
 Symptom s. n. | دَلَائِلٌ pl. | دَلِيلٌ عَلَى
 . | اِعْلَامَاتٌ pl. | اِسْمَارَةٌ | اِدْلَةٌ u.
 -atisch a. | دَلِيْلِيٌّ
 Synagoge s. f. | جَامِعُ الْيَهُودِ pl.
 . | جَوَامِعٌ
 Syndikus s. m. pl. | -zi | عُمْدَةٌ لِمَجَاعَةٍ
 . | نَقَبَاءٌ pl. | نَقِيْبٌ | عُمْدٌ pl.

Synode s. f. christl. مَجْمَع الكَهَنَةِ
pl. مَجَامِع | سِينُودُسْ *

Synonym a. مُشْتَرِك | مُتْرَادِف
مُتَّفِق مَعْنَى

Syntax s. f. gr. عِلْمُ الإِعْرَابِ والنَّحْوِ

Syphilis s. f. med. مَرَضُ أَفْرَنْجِي
حَبّ | داء المَبَارَكِ

Syrer s. m. شَامِيّ pl. شَامِيّون u.

Syrien | سُورِيّون pl. سُورِيّ | شَوَام

n. pr. بلاد الشام | بلاد الشَّام

سُورِيّ | شَامِيّ a. | syrisch | سُورِيَّة

System s. n. طَرِيقَةُ | مَجْمُوع مُرْتَّب

pl. مَجْمُوع قَوَاعِد (-) | طَرَائِق pl.

atistisch | قِيَامِس | مَذَاهِب pl. مَذَهَب

a. قِيَاسِيّ

Szene s. f. f. Scene.

ط

الحَرْفُ العِشْرُونَ مِنْ حُرُوفِ الحِجَاجِ t

Tabak s. m. تَبَع | تَبَع (-) Rauch

* | دُخَان (-) (zur Wasserpfeife)

* | سَعُوط (-) Schnupf

عُلبَة عَاطُوس s. f. -dose | عَاطُوس

كَيَّاع s. m. -händler | عُلْب pl.

pl. مَاسُورَة * | -pfeife s. f. | دُخَان *

(-) Wasser - | قَصَبَة | مَوَاسِير

دُخَان s. m. -rauch | شَيْشَة

-raucher s. m. شَارِب دُخَان

Tabelle s. f. جَدَاوِل pl. جَدَاوِل

Taberne s. f. مِيخَانَة * | خَمَارَة | حَان

Table d'hôte s. f. frz. مَائِدَة يُؤَكَل

مِنْهَا بِشَمَن مَعْيَن

Tablett s. n. دَفّ pl. دُفُوف

pl. أَطْبَاق pl. طَبَق | رُفُوف pl.

صَوَانِي pl. صِينِيَّة *

Tadel s. m. عِتَاب | تَوْبِيخ | لَوْم

-los a. صَحِيح | صَالِح | لا عَيْب فِيهِ

-n va. in. u. لام | وَبَّخ | عَاتِب

مُسْتَوْجِب a. -nswert | بَكَت

-sucht s. f. | مُسْتَوْجِب الدَّم | اللُّوم

-süchtig a. | المَيْل إِلَى الأَثْمَانِ

مَائِل إِلَى الأَثْمَانِ

Tadler s. m. لَوَام | لَوَام pl. لَائِم

مُنْتَقِد

Tafel s. f. دَفّ | أَلْوَاح pl. لُوح

(zum Eissen) - | رُفُوف pl. رَفّ | دُفُوف

مَائِدَات pl. مَائِدَة | سُفْرَة (Eissen)

- | جَدَاوِل pl. جَدَاوِل (Tabelle)

قَدَّمَ الطَّعَام لِكُلّ offene - halten

خَادِم السُّفْرَة s. m. -decker | وَاوِد

لَدَات pl. -freuden s. pl. | خُدَام

مُوسِيقَى s. f. -musik | الأَطْعِمَة

جَلَسَ i على -n vn. | عِنْدَ الْأَمَلِ
السُّفْرَةَ.

tafeln va. etw. ه خَشَبَ.

Tafelrunde s. f. جَمَاعَةُ السُّفْرَةِ |
-tuch s. n. سِمَاط pl.

Täfelung s. f., Tafelwerk s. n. الْأُوح
يُنْخَشَبُ بِهَا.

Taffet s. m., Taft s. m. نَسِيج
حَرِيرِي دَقِيق.

Tag s. m. (-eslicht) | أَيَّام pl. يَوْم
(Zeit) | نَهَارَات * u. نَهْر pl. نَهَار

der | يَوْم | زَمَان | وَقْت | حِين
jüngste - u. Nacht | يَوْم الدِين -

نَهَارُكَ ! - guten | اللَّيْل والنَّهَار
(نَهَارُكَ مُبَارَك) (Antw.: سَعِيد

| يَوْمًا -es eines | يَوْمِيًّا - für -
in den - hinein | في ذات يَوْم

خَمْسَةَ عَشْر -e vierzehn | بلا تَأْمَل
etw. | طُول عُمُرِي -e meine | يَوْمًا

| كَشَفَ i ه - bringen an den
| انْكَشَفَ etw. an den - kommen

-eblatt | أَظْهَرَ ه - legen an den
-ebuch s. n. | جَرِيدَةَ يَوْمِيَّة s. n.

| تَأْرِيغُ الْأَيَّام | ذِكْرُ الْحَوَادِثِ الْيَوْمِيَّة
رَجُل | -edieb s. m. | الدَّفْتَرُ الْيَوْمِي

أَجْرَةَ -egelder s. pl. | كَسْلَان
طُولُهُ بَعْضُ -elang a. | يَوْمِيَّة

أَجْرَةَ الشُّغْلِ -elohn s. m. | الْأَيَّام

-elöhner s. m. | يَوْمِيَّة * | الْيَوْمِي

-emarsh s. m. | فَعَلَةٌ pl. فَاعِل

| طَلَعَ u النَّهَارُ -en vn. | -ereife s. f.

-ereife s. f. | تَشَاوَر (beraten) - -

-es- | مَسِيرَةٌ | مَرَاجِل pl. مَرْحَلَةٌ

| تَأْرِيغُ الزَّمَانِ الْحَاضِرِ s. f. | تَأْرِيغُ

-eslicht s. n. | نُورُ النَّهَارِ - - ans

-esordnung s. f. | انْكَشَفَ kommen

| مَوْضُوعُ مُشَاوَرَةِ الْمَجْلِسِ فِي كُلِّ يَوْم

-eszeit s. f. | فَضْلُ النَّهَارِ pl.

| شُغْلُ يَوْمِي -ewerk s. n. | فُضُول

عَمَلُ يَوْمِي.

täglich a. يَوْمِي.

Tag-satzung s. f. | -süber -ung s. f.
adv. | في مُدَّةِ النَّهَارِ täglich a.

u. Nachtgleiche s. f. | يَوْمِي
-ung s. f. | اِغْتِدَالُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ

تَشَاوَرُ فِي مَجْلِس.

tafeln va. Schiff المَرْكَبُ | جَهَازُ
Tafelwerk s. n. | أَدْوَاتُ المَرْكَبِ

جِهَازُ المَرْكَبِ.

Taft s. m. mus. | وِزْنُ | اِيقَاعُ - bld.
أَوْقَع | den - | صَوَابُ | schlagen

ثَابِتُ a. | دَوْرَانُ * | بِالْقَضِيْبِ

Taftif s. f. | فَنُّ الحَرْبِ -er s. m.

مُخْتَصَّ | عالم بِقِنِّ الحَرْبِ
بِقِنِّ الحَرْبِ.

taft-los a. مُضَادَّ الصَّوَابِ | عَادِمٌ
صَوَابِيٌّ a. -voll | الصَّوَابِ.

Talar s. m. ثَوْبُ الكَهْنَةِ والقُضَاةِ.

Talent s. n. اسْتِعْدَادٌ | قَرَابِحَةٌ pl.
ذُو a. -voll | اسْتِعْدَادَاتٍ pl.
قَرَابِحَةٌ.

Talg s. m. شَمْعَةٌ | شَحْمٌ s. n. -licht
شَمَعَاتٍ pl. مِنَ الشَّحْمِ.

Talisman s. m. طِلْسَمَاتٍ pl. طِلْسَمٌ
طَلِاسِمٌ II.

Talmi s. n. ذَهَبٌ مُقَلَّدٌ بِالنَّحَاسِ.

Talmud s. m. تَلْمُودٌ.

Tamarinde s. f. bot. تَمْرٌ هِنْدِيٌّ |
شَجَرَةُ الحَمْرِ | حَمْرٌ.

Tamariske s. f. bot. طَرْفَاءٌ.

Tambour s. m. طَبَالٌ | -in s. n.
طَبِيلَةٌ | دَائِرَةٌ * | رَقٌّ * | دَفٌّ *.

Tand s. m. تَانْدَلِيٌّ | لَفَاءٌ | تَرَهَاتٌ
s. f. مُمَارَاةٌ | tändeln vn. mit
jhm. مَارَحٌ هـ.

Tang s. m. (See-) ما يُقْدِفُهُ البَحْرُ
مِنَ النَّبَاتِ.

Tangente s. f. math. حَطٌّ مُمَاسِّ دَائِرَةٍ.

Tanne s. f., -nbaum s. m. صَنْوَبَرٌ |

شَجَرَةُ الرَاتِينِجِ | -nzapfen s. m.
جُوزُ الصَنْوَبَرِ.

Tante s. f. (Vaterschwester) عَمَّةٌ
pl. عَمَّاتٌ | - (Mutterschwester)
(Schwester des Onkels) | خَالَاتٍ pl. خَالَةٌ
أُخْتُ العَمِّ أَوْ الخَالِ (Frau des Onkels) -
زَوْجَةُ العَمِّ (أو الخَالِ).

Tanz s. m. رَقْصٌ | -bär s. m. دُبٌّ
مَحَلُّ الرَّقْصِ | -boden s. m. مَدْرَبٌ.

tänzen vn. a. عَرَّقَصَ | رَشِمٌ
tanzen vn. u. رَقَصَ.

Tänzer s. m. رَقَّاصٌ | -in s. f. رَقَّاصَةٌ
pl. غَوَازٍ pl. غَازِيَةٌ *.

Tanz-lehrer s. m., -meister s. m.
دُرُسٌ s. f. -stunde | مُعَلِّمُ الرَّقْصِ
دُرُوسٍ pl. الرَّقْصِ.

Tapet s. n., etw. aufs - bringen
فَتَحَ a الحَدِيثِ فِي | عَرَضَ i هـ.

Tapete s. f. الِوَرَقُ الَّذِي يُلصَقُ
فُرْشٍ pl. فُرْشُ الحَائِطِ | عَلَى الحَائِطِ.

tapezieren va. فَرَشَ u الحُجْرَةَ Zimmer
Tapezierer s. m. نَجْدُ الحُجْرَةِ
فَرَّاشٌ | نَجَّادٌ.

tapfer a. شَجَاعَةٌ | -feit s. f. شَجَاعَةٌ
مُرُوَّةٌ | مُرُوَّةٌ.

tappen vn. im finstern فِي لَجَسَسٍ

täppisch | تَحَسَّسَ فِي الظَّلامِ | الظلام

ا. خَشِنَ | غَلِيظٌ | ثَقِيلُ الحَرَكَاتِ.

Tara s. f. komm. نَقَصَ | خَسَفَ | البَضَائِعِ.

Tarantel s. f. رُتَيْلَاتٌ pl. رُتَيْلَاءُ.

Tarif s. m. تَعْرِيفَةٌ | تَعْرِيفُ الأَسْعَارِ.

Tartare s. m. تَتَرٌ pl. -n | تَتَرِيٌّ.

Tartarei s. f. n. pr. بِلَادُ التَّتَرِ.

Tartische s. f. حَجَفَةٌ | دَرَقٌ pl. دَرَقَةٌ | أثْرَاسٌ pl. ثُرُوسٌ | حَجَفٌ pl.

Tasche s. f. جَيْبٌ pl. جُيُوبٌ | مَحْفَظَةٌ * -nbuch s. n. | عُبٌّ * -ndieb s. m. | سَارِقٌ بِحِيَلَةٍ.

سُرْقَةٌ -ndiebstahl s. m. | نَشَالٌ

قَطْعٌ صَغِيرٌ -nformat s. n. | بِحِيَلَةٍ

خَرَجٌ -ngeld s. n. | مِنَ الكُتُبِ

-nfrebs s. m. zool. | البَيْتِ *

-nmesser | نَوْعٌ مِنَ سَرَاطِينِ البَحْرِ

سِكِّينٌ | مَطَاوٍ pl. مَطَوِيٌّ * s. n.

-nspieler s. m. | سَكَكِينٌ pl. صَغِيرٌ

مُرْعَبِرْجِيٌّ * | مُرْعَبِرٌ * | مُشْعَبِدٌ

-ntuch | حَوَاةٌ pl. حَاوٍ * | مُرْعَبِرٌ

مَحْرَمَةٌ * | مَنَادِيلٌ pl. مَنَدِيلٌ s. n.

سَاعَةٌ جَيْبٌ -nuhr s. f. | مَحَارِمٌ pl.

سَاعَةٌ عُبٌّ * | سَاعَاتٌ pl.

Tasse s. f. | فَنَاجِيينَ pl. فَنَاجَانٌ *

كاسات pl. كاس | طاسات pl. طاس | مِلْءُ الفَنَاجَانِ (Inhalt) -

Taste s. f. (des Klaviers) مَلْمَسٌ | دَسْتَانٌ pl. مَلْمَسٌ (البيانات) | دَسَاتِينٌ.

tasten vn. u. مَسَّ | مَسَّ | حَاسَةٌ اللَّمْسِ s. m.

tätowieren va. jn. s. وَشَّمَ | سِخٌ - لَافِنِ اسْتَوْشَمَ.

Tatze s. f. أَيْدٍ pl. يَدِ حَيَوَانٍ u. | أَرْجُلٍ pl. رِجْلِ حَيَوَانٍ | أَيْادٍ.

Tau s. m. نَدَى | Tau s. n. حَبْلٌ | قَلُوسٌ pl. قَلَسٌ | حِبَالٌ pl. كَبِيرٌ.

taub a. | طَرَشٌ pl. طَرَشَاءُ f. | أَطْرَشٌ | غَيْرُ سَامِعٍ | ثَقِيلُ الأَذَانِ | أَصَمٌّ

-e Taub | طَرَشٌ a. fein - | إلى

رَجُلٍ Taube s. m. | جَوْزُ فارِغٍ | أَطْرَشٌ.

Taube s. f. حَمَامَةٌ - coll. | حَمَامَاتٌ pl. | يَمَامٌ - wilde coll.

eine wilde - | يَمَامَةٌ - nhaus s. n., | بُرْجٌ لِلْحَمَامِ s. m. -nschlag pl.

مُحَضَّنَةٌ | بُرُوجٌ.

Täuber s. m., Täuberich s. m. الذَّكَرُ مِنَ الحَمَامِ.

Taub-heit s. f. | صَمٌّ | أَطْرَشٌ وَأَخْرَسٌ | الأَذَانِ -stumm a.

tauchen va. jn. od. etw. in غَطَسَ هـ وَهـ

خاض u - vn. | غَمَسَ هـ وَهـ فِي | فِي

Taucher s. m. | غَطَسَ i | غاص u

غَوَّاصٍ | غَائِصٍ | غَطَّاسٍ (Mensch)

zool. (Vogel) | كَجَاجِ الْمَاءِ

غَوَّاصٍ | غَطَّاسٍ | الْمَاءِ

tauen vn. a نَدِيَ - (vom Tau-
wetter) ذاب u الثلج

Tauf-becken s. n. christl. جُرْنُ

e s. f. | حَوْضِ الْعِمَادِ | الْمَعْمُودِيَّةِ

christl. | غِطَّاسٍ | عِمَادٍ | مَعْمُودِيَّةِ

(eines Schiffes zc.) | تَسْمِيَّةِ (Benennung) --

رُتْبَةِ لِلتَّبْرِيكِ عَلَى (Schiffes zc.)

en va. jn. christl. | مَرْكَبِ الْخَمْرِ

(benennen) -- | غَطَّسَ هـ | عَمَّدَ هـ

Schiff عَلَى سَمَى هـ jn. --

Wein u مَرْجٍ -- | مَرْكَبِ بَرْتَبَةِ

الْخَمْرِ بِالْمَاءِ

Täufer s. m. | الْمُعَمِّدَانِ

Täufling s. m. | مُعَمِّدٌ

Tauf-name s. m. | إِسْمِ الْمَعْمُودِيَّةِ

patin s. f. | إِشْبِينِ * pate

إِشْبِينَةَ *

taufriech a. طَرِيٌّ جِدًّا

Tauf-schein s. m. | سِنْدِ بِالْمَعْمُودِيَّةِ

-zeuge s. m. | -pate.

taugen vn. zu u لِي | نَفَعَا لِي

Taugenichts s. m. | جَدًّا u عَلَى

خُلَعَاءِ pl. | خَلِيْعٍ | رَجُلِ السُّوءِ

tauglich a. | مُنَاسِبٍ | مُفِيدٍ | نَافِعٍ

-feit s. f. | نَفَعًا

tanig a. | طَرِيٌّ جِدًّا | مُنَدِّي

Taumel s. m., Taumelei s. f. | تَمَائِلٌ

ig a. | مُتَمَائِلٍ | -ig a. | سُكْرٍ | دَوَّخَةٍ * | دُوَّارٍ

تَمَائِلٍ vn. | -n | دَائِجٍ *

Tausch s. m. | تَبْدِيلٍ | تَبَدُّلٍ

einen - machen | -en | -en va.

etw. mit etw. | بَدَّلَ هـ بِ | -

etw. mit jm. | عَوَّضَ هـ مِنْ

تَبَادَلَ - - | هـ مِنْ

täuschen va. jn. * a | خَدَعَ هـ | حَتَّلَ هـ u

die Hoffnung - | غَنَّى هـ u | عَرَّ هـ u

sich - | جَرَى i | الْأَمْرِ ضِدَّ الْأَمَلِ

sich - | غَلَطَ a | أَخْطَأَ | خَطِئَ a

Täuschung s. f. | إِغْتَرَّ | إِغْتَشَى | لَافِنٍ

pl. | وَهْمٍ | غُرُورٍ | ضَلَالٍ s. f.

tausend num. | أَلْفٍ pl. | أَلُوفٍ u.

der-!, potj-! | عَدَدٍ كَبِيرٍ | آلاَفٍ

مِنْ أَلْفِ نَوْعٍ | -erlei a. | شَاءَ اللَّهُ

أَلْفٍ مَرَّةٍ | -fältig a., -fach a.

zool. | الأَرْبَعِيْنَ s. m. | -fuß s. m.

سَاحِرُونَ pl. | سَاحِرٍ s. m. | -künstler s. m.

أَلْفٍ mal - | سَحَّارٍ u. | سَحْرَةَ u.

- ste a. الألف | -stel s. n. | مَرَّة
 جُزء واحد من ألف جُزء.
- Tauwerk s. n. eines Schiffes حبال
 مَرَكَب.
- Taxator s. m. مُقَوِّم | مُسَعِر | مُثَمِّن
 مُقَدِّر*.
- Taxe s. f. (Schätzung) تَسْعِير | تَثْمِين
 (fester Preis) | تَقْدِير* | تَقْوِيم
 رَسْم (Steuer) | - | أَسْعَار pl. سِعْر
 pl. رُسُوم | taxieren va. etw.
 قَدَّره* | قَوَّمه | سَعَّره | ثَمَّنه
- Tarus s. m. bot. نَوْع من السَّرْو أو
 الشَّيريين.
- Techniker s. m. مُهَنْدِس | technisch
 اصطلاح | هندسى | -er Ausdruck
 مَدْرَسَة الهندسة | -e Hochschule
 الكُبْرَى.
- Tedeum s. n. تَسْبِيحَة الشُّكْرِ.
- Teer s. m. زِفْت | قَطْران | -en va.
 etw. | زَفَّتْ ه | قَطْرَن ه | -ig a.
 -jache s. f. (scherz-
 haft) بَحْرِيَّة pl. بَحْرِي.
- Teich s. m. بُحَيْرَة | بَرَك pl. بَرَكَة
 صَغِيرَة.
- Teig s. m. عَجِينِي | -ig a. عَجِين.
- Teil s. m. جُزء | أقسام pl. قِسْم
- (Anteil) | فُصُول pl. فُصْل | أَجْزَاء
 der größte - | حِصص pl. حِصَّة
 | خُصُوم pl. خُصْم (Partei) | - | الأَكْثَر
 | جِدًّا - | ein gut - | بَعْضُهُ -
 zum - | كَثِيرًا | meines -s, für meinen -
 | an etw. - haben | من قِبَلِي
 | an etw. | اشْتَرَك في | تَشَارَك في
 | - nehmen | اشْتَرَك في | اهْتَمَم بِ
 | jm. zu - werden | تَيْسَّر لَهُ
 | مُمَكِّن a. -bar | أصاب ة نَصِيبًا
 | -barkeit s. f. | يَنْقَسِم | انْقِسَامُهُ
 | -en va. etw. | إِمْكَان | الانْقِسَام
 | فَصَّل ه | جَزَّأ ه | قَسَم ه | قَسَم ه
 | انْفَرَع | انْقَسَم -- | فَرَّق ه
 | مَقْسُوم عَلَيْهِ | -er s. m. تَشَعَّب
 | -haber s. m. komm. شَرِيك pl.
 | -haft a., -haftig a., einer
 Sache gen. -- werden u حَصَلَ
 | حَطَى بِ | نَالَ ه | فاز بِ | اَعْلَى
 | اشْتَرَاك في | an etw. | اشْتَرَاك في
 | نَعْرِيَّة (Beileid) | - | اهْتِمَام بِ
 | لا يُوَثِّر فِيهِ شَيْءٌ | -
 | انْعَم التَّائِثَر فِيهِ | -
 | -nehmen vn. an | Teil | -nehmer
 | مُشْتَرَك | شَرَكَاء pl. شَرِيك s. m.
 | البَعْض... والبَعْض... -- -- -- --
 | -ung s. f. | بَعْضُهُ ... | وَبَعْضُهُ

- Temperenz s. f. امْتِنَاعٌ عَنِ الْمَشْرُوبَاتِ | المُمْتَنِعُ عَنِ الرُّوحِيَّةِ | -ler s. m. المشروبات الروحية.
- Temple s. m. f. Tempelherr.
- Tendenz s. f. اتِّجَاهٌ | مَيْلٌ.
- Tenne s. f. أَنْدَارٌ pl. أَنْدَرٌ | جُرُنٌ pl. بِيَادِرٌ pl. بِيَادِرٌ.
- Tenor s. m. mus. الدَّرَجَةُ الْعَالِيَّةُ مِنَ الصَّوْتِ الذَّكَرِ.
- Teppich s. m. (Gebets-) سَجَّادَةٌ pl. سَجَّادَاتٌ | بساط - (großer) | سَجَّادَاتٌ | طَنَافِسٌ pl. طَنَفِيسَةٌ * | بُسْطٌ | فُرُوشٌ pl. فَرُوشٌ - (kleinerer) | -macher s. m., -wirfer s. m. صَانِعُ الْفُرُوشِ.
- Terebinthe s. f. bot. بَطْمٌ.
- Termin s. m. مَوَاعِيدٌ pl. مَوَاعِيدٌ | أَنْتَرَامٌ pl. أَنْتَرَامٌ | مَوَاقِيْتُ pl. مِيقَاتٌ | آجَالٌ pl. آجَالٌ (frist) -
- Terpentin s. n. تَرَبَنْتِينٌ * | صَمْعٌ | البَطْمُ.
- Terrain s. n. أَرْضٌ pl. أَرَاضٍ.
- Terrasse s. f. سَطْحٌ pl. سَطُوحٌ.
- Terrier s. m. نَوْعٌ مِنَ الْكِلَابِ.
- Terrine s. f. إِنَاءٌ لِلشُّرْبَةِ.
- Territorium s. n., pl. -ien أَرْضٌ | أَرَاضٍ pl. مَمْلَكَةٌ أَوْ وِلَايَةٌ
- weise a. | تَوَزِيعٌ | نَجْرِيَّةٌ | تَقْسِيمٌ | قِسْمًا | بَعْضًا | جَانِبًا | بَعْضُهُ.
- Telegramm s. n. رِسَالَةٌ بَرْقِيَّةٌ pl. تِلْغَرَفَاتٌ pl. تِلْغَرَفَاتٌ * | رَسَائِلٌ.
- Telegraph s. m. | تِلْغَرَفَاتٌ * | -ie s. f. | -ieren | صِنَاعَةُ التِّلْغَرَفِ وَتَدْبِيرُهُ | ضَرْبٌ تِلْغَرَفَاتٌ | كَتَبٌ u تِلْغَرَفَاتٌ v. | -e - | تِلْغَرَفَاتِي | بَرْقِيٌّ | -isch a. | رِسَالَةٌ بَرْقِيَّةٌ Depesche.
- Telephon s. n. | تَلْفُونٌ * | آلَةٌ يُنْقَلُ | -ieren vn. | بِهَا الصَّوْتُ وَالْكَلامُ | تَكَلَّمَ فِي التَّلْفُونِ *.
- Teleskop s. n. نَظَّارَةٌ مَرْصَدِيَّةٌ.
- Teller s. m. | صُحُونٌ pl. صُحُونٌ | قُدْسٌ - (kleiner) | صُحَيْفَةٌ | زُبْدِيَّةٌ | طَفِيْلِيٌّ s. m. -lecker.
- Tempel s. m. | مَعَابِدٌ pl. مَعَابِدٌ | -herr s. m., | هَيَاكِلٌ pl. هَيَاكِلٌ * | نَوْعٌ | -ritter s. m., | Tempel s. m. | مِّنَ الرُّهْبَانِ وَالْجُنْدِيَّةِ قَدِيمًا | -ritter | لَعِبٌ a بِالْقِمَارِ vn. | -herr | -schänder s. m. | مُنَجِّسُ الْقُدْسِيَّاتِ.
- Temperament s. n. | مِزَاجٌ | جِبِلَّةٌ | خُلُقٌ | طَبِيعَةٌ.
- Temperatur s. f. | حَالُ الْهَوَاءِ | دَرَجَةُ الْمَنَاحِ | طَقْسٌ *

Terrorismus s. m. سِيَّاسَةُ الْبَدَدِ |
بِالْخَوْفِ وَالْجَفَاءِ.

Tertia s. f. الصَّفُّ الثَّالِثُ فِي الْمَدَارِسِ |
تَلْمِيزٌ - ner s. m. | التَّجْهِيزِيَّةُ
تَلَامِيذَةٌ pl. الصَّفُّ الثَّالِثُ.

Terzerol s. n. غَدَارَةٌ صَغِيرَةٌ.

Terzett s. n. mus. لَحْنٌ ذُو ثَلَاثَةٍ
أَشْخَاصٍ pl. أَلْحَانٌ.

Testament s. n. وَصِيَّةٌ pl. وَصَايَا |
fein - machen | وَصَّى |
das alte - christl. العَهْدُ الْعَتِيقُ |
das neue - christl. العَهْدُ الْجَدِيدُ |
-arisch a. | مُخْتَصٌّ بِالْوَصِيَّةِ
Verfügung | مَوْصَى بِهِ
strecker s. m. | وَأَوْصِيَاءُ pl. وَصِيٌّ.

Testator s. m. | مُوَصِّ | مَوْصِيٌّ |
testieren | مَوْصَى | وَصَّى vn.

teuer a. (nicht billig) | غَالٍ - (lieb)
عَزِيزٌ | wie - ist das?
قَحْطٌ | غَلَاءٌ s. f. | بِكُمْ هَذَا

Teufel s. m. شَيْطَانٌ pl. شَيْطَانِيْنَ |
عَفْرِيَّتٌ | أَبَالِسَةُ pl. | إِبْلِيسُ
رَجُلٌ - ein armer | عَفَارِيَّتٌ
des -s sein, den - im
Leibe haben | حَادًّا u | كَانُ
- gehen (Sachen) | فَقِدَ (Per-
sonen) | شَيْطَانَةٌ s. f. | -ei | لَعَنَ & اللّٰهَ

-mäßig a., teuflisch a. شَيْطَانِيٌّ |
صَعْبٌ | شَرِيْرٌ.

Text s. m. مَثْنٌ pl. مُتُونٌ |
pl. نُصُوصٌ | jm. den - lesen
وَبَّخَ &

Thal s. n. وَادٍ pl. أَوْدِيَةٌ.

Thaler s. m. نَوْعٌ مِنَ النُّقُودِ الْأَلْمَانِيَّةِ
فِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ مَارِكٍ.

Thalhang s. m. جَانِبُ الْوَادِي
جِيْزَةٌ الْوَادِي.

That s. f. أَعْمَالٌ pl. عَمَلٌ |
pl. أَفْعَالٌ | große-en | مَفَاخِرٌ
in der - حَقًّا - | حَقِيْقَةٌ |
frischer - مُتَلَبِّسٌ بِالْجَنَائِنِ -
-bestand s. m. | حَالُ الْأَمْرِ
drang s. m., -endurst s. m., -en-
lust s. f. الرُّغْبَةُ فِي الشُّهُرَةِ.

Thäter s. m. | صَانِعٌ | عَامِلٌ | فَاعِلٌ |
مُجْرِمٌ | مُذْنِبٌ - (schuldiger)

thätig a. | نَشِيْطٌ | فَعَّالٌ | عَامِلٌ | فَاعِلٌ |
-feit s. f. | فَاعِلِيَّةٌ | نَشَاطٌ.

Thatkraft s. f. | شِيَامَةٌ | حَمَاسَةٌ |
-kräftig a. | نَفُوْدٌ | قُوَّةٌ | مُرُوَّةٌ
| ذُو شَهَامَةٍ | ذُو حَمَاسَةٍ (Person)
- | نَافِذٌ (Maßregel) - -
فَاعِلَةٌ.

- thätlich a. فِعْلًا | -Feiten s. pl. غَضَب |
ضَرْب | جَرَح | اِغْتِصَاب.
- That-sache s. f. حَادِث | pl. حَوَادِث |
-sächlich a. وَقَائِع | pl. واقِعَة
حَقِيقِي.
- Theater s. n. مَرْسَح * | تِيَاترُو * pl.
-stück | مَلَاعِب | pl. مَلْعَب | مَرَايِح
s. n. رِوَايَات | pl. رِوَايَة التِيَاترُو
theatralisch a. مَرْسَحِي | مَرْسَحِي.
- Thee s. m. شَاي | -brett s. n. طَبَق
| صَوَانِي | pl. صِينِيَّة * | أَطْبَاق | pl.
-fanne s. f. رُكُوت * | pl. رُكُوت
غَلَايَة | pl. غَلَايَة | -fessel s. m. اِئْبْرِيق الشَاي
| الشَاي * (einfältiger Mensch) -- |
| مَلْيَعَقَة | s. m. اِئْسَان بَلِيد | -löffel
-maschine f. Theefessel.
- Thema s. n., pl. -mata u. -men
مَوَاضِيَع | pl. مَوْضُوع.
- Theolog s. m. christl. عَالِم بِاللَاهُوت
| فُقَهَاء | pl. فُقِه | musl. عُلَمَاء | pl.
-ie s. f. christl. عِلْم اللَاهُوت
| musl. مُخْتَصَّر | a. -isch | عِلْم الفِئْه
مُخْتَصَّر | بَعْلَم | بَعْلَم اللَاهُوت
الفِئْه.
- theoretisch a. (لا عَمَلِي) نَظْرِي |
Theorie s. f. (لا عَمَلِي) عِلْم نَظْرِي.
Theriak s. m. دَرْبَاق | تَرْبَاق.
- Thermometer s. n. مِيْزَان | تَرْمُومِتْر *
مِثْيَاس الحَرَاة | الحَرّ والبَرْد.
- These s. f. قَضِيَّة يُرَاد اِثْبَاتُهَا فِي
المُجَادَلَة.
- Thon s. m., Thonerde s. f. تُرَاب
| خَزَف | طِينَة | طِين | الفَخَّار
| طِينِي | مِّن طِين | thönern a.
Thongefäß s. n., Thon-
geschirr s. n. فَخَّار.
- Thor s. m. اِنْسَان بَلِيد | اِنْسَان
| pl. باب كَبِير | Thor s. n. اَحْمَق
| اَحْمَق | بِلَادَة | -heit s. f. اَبْوَاب
حَمَاقَة.
- thöricht a. اَحْمَق | بَلِيد | Thörin
s. f. اِمْرَاة حَمَاقَة.
- Thor-schreiber s. m. كَاتِب عِنْد باب
-weg | كَتَبَة | u. كُتَاب | pl. المَدِينَة
باب دَارٍ تَدْخُل بِهَا | s. m. رَتَج | العَرَبَات
- Thran s. m. زَيْت الحُوت | دُهْن
الحُوت.
- Thräne s. f. دُمُوع | pl. دَمْع -
n vergießen, in -n aus-
brechen i بَكَى | -n vn. (Nuge)
| اِغْرُورَقَتْ عَيْنَاه | ذَرَف | دَمْع | a.
-drüse s. f. مَدْمَع | pl. مَدَامِع.
- thranig a. مِّن زَيْت الحُوت.

Thron s. m. كُرْسِي الْمَلِكِ pl. كُرَاسِي |
 | عُرُوش pl. عُرُش | نُحُوت pl. نُحُوت *
 | مُدْك | in. auf
 den - setzen & مَدَّكَ | -besteigung
 s. f. جَلَسَ i عَلَى | -en vn. | جُلُوس
 | خِلَافَةٌ فِي | -folge s. f. | العَرْش
 | اَوْلِيَ الْعَهْدِ s. m. | -folger s. m. | المَدْك
 | مَظَال pl. مِظَلَّة s. m. | -himmel
 | خِطَاب s. f. | -rede s. f. | اَرْوَاق pl. رَوُق
 | قَاعَةٌ فِيهَا كُرْسِي s. m. | -saal s. m. | السَّرِير
 | الْمَلِكِ .

thun va. etw. ه ا فَعَلَ ه ا عَمِلَ |
 etw. wohin - (setzen, stellen,
 legen) | وَضَعَ ا ه فِي | das thut
 nichts | لا طَائِل فِي هَذَا | was
 thun? | ما الْعَمَل | viel zu - haben
 | اَحْسَن - | jm. wohl | كَثُرَ u شَغُلُهُ
 | تَظَاهَرَ ب | - als ob | اَلَيْهِ
 | لَاطَفَ & | schön - mit jm. | تَصَنَّعَ ب
 Thun s. n. عَمَل .

Thunfisch s. m. zool. تَن .

thunlich a. مُمَكِّن فِعْلُهُ .

Thür s. f., -e s. f. اَبْوَاب pl. باب |
 | طَرَدَ s u | vor
 der - stehen bld. | اقْتَرَبَ | قُرْب
 | رَزَات pl. رَزَّة s. f. | -angel
 | زِلَاج s. m. | -drücker s. m. | الباب *

ag. | اُكْرَةَ * | سَقَاطَةٌ * | الباب
 pl. | مِصْرَاعِ الباب s. m. | -flügel
 | اَبْوَاب | -hüter s. m. | اِمْصَارِيَع
 | حُجَّاب pl. | -flinke s. f. | -drücker
 | مِقْرَعَةٌ pl. | -flopper s. m. | مِقَارِع
 | -hüter. | -steher s. m. | .

Thymian s. m. bot. حَاشَا | سَعْتَر
 | ثُومُس * | الحَمِير

Tief s. m. رَجْفَةُ الْعَضَل .

Ticftaef s. n. تَكْتَكَةٌ .

| مُتَبَجِّرٌ فِي - | bld. | اَعْمِيَق | اَعْمِيَق
 | -e | اَعْمُق u | - | اَعْمُقِ الْفِكْرِ
 | -er | صَوْتٍ وَاطِيء | Stimme
 | -e | اَوْجَعَ مَوْلِمٌ جِدًّا | Schmerz
 | اِحْتِرَامٌ كُلِّي | Tief s. n. | erbietung
 | مَدْخَلٌ لِلسُّفُنِ فِي مِيْنَا | blau
 | شُهْل pl. | شُهْلَاء f. | اَشْهَل a.
 | اَفْرَاسَةٌ | فِطْنَةٌ | ذَكَاء | -blick s. m.
 | اَعْمُق * | اَعْمَاق pl. | عُمُق s. f. | -e
 | - | هُوَّة (Abgrund) | - | (des
 | اَبْوَاب pl. | اَبْوَاب s. m. | - | (Meeres)
 | اَسْوَدَاوِي a. | - | اَسْوَدَاء
 | اَلْمَعْنَى .

Tiegel s. m. | بُوْتَقَةٌ | بُوْتَةٌ *
 | قَوَالِب pl. | قَالِب | اَبْوَاتِق

Tier s. n. | حَيَوَانَات pl. | حَيَوَان
 | اَبْوَاتِق pl. | بَهَائِم | -wildes

arzneifunde | وَحُوش pl. وَحُوش
 arzt s. m. | بِيَطْرَة s. f.
 bändiger s. m. | رَائِض
 garten s. m. | راضَة pl. الوُحُوش
 حیوانیّ a. | ifch | بُسْتَان للوُحُوش
 freis s. m. | وَحْشِيّ | بَهِيْمِيّ
 فلك البروج | منطقة البروج astr.
 مؤلم الحيوانات s. m. | -quäler
 إيلام الحيوانات s. f. | -quälerei
 reich s. n., -welt s. f. | مَوْلِد
 حیوانیّ.

Tiger s. m. | نُمْر pl. نُمْر
 in s. f. | نُمْرَة -n va., ge-t
 f. | نُمْرَاء pl. نُمْر.

Tigris s. m. n. pr. | نَهْر رِجْلَة.

tilgen va. etw. | أَبْطَل ه | Schuld
 | اسْتَهْلَكَ الدَّيْن | فَكَّ u الدَّيْن
 Tilgung s. f. | ابْطال | (Schuld-)
 | اسْتَهْلَكَ | فَكَّ الدَّيْن.

Tinktur s. f. | صِبْغ.

Tinte s. f. | حُبُور pl. حِبْر
 in die - kommen | ضاق i حاله
 -nfaß s. n. | دَوَاة pl. دَوَى -nfi
 s. m. zool. | اَبُو زُبْد البَحْر
 -nfließ s. m., -nfließ s. m. | بَقَع
 بِالْحَبْر.

tippen vn. an etw. | لَمَس u ه
 مَسَّ a ه.

Tisch s. m. | مَائِدَة pl. مَائِدَات u.
 | سَفْرَة (zum Essen) - | مَوَائِد
 أَخَوْنَة pl. | خَوَان * | سُمَط pl. سِمَاط
 | أَكَل | عِذَاء (Essen) - | خُون u.
 der - des Herrn christl. | مَائِدَة
 | der grüne - | القُرْبَان المُقَدَّس
 | عِنْد العِذَاء -e | مَكْتَب
 den - decken | السِمَاط u مَدَّ |
 sich zu - setzen | المَائِدَة
 einen guten - führen a | رَتَع
 u | قِصْف * | تَكْيِيف -bein s. n.
 | أَرْجُل pl. رِجْل المَائِدَة
 s. f. | وَجْه المَائِدَة s. f. | -fuß s. m. f.
 -bein | -gaß s. m., -genoff s. m.
 | مُوَاكِل | نَدْمَاء pl. نَدِيم
 | صَلَاة عِنْد الأَكْل s. n. | -ler s. m.
 | نَجَّارُون pl. نَجَّار
 | نِجَارَة s. n. | نِجَارَة s. n. | -platte
 | أَلْوَاح pl. لَوْح المَائِدَة s. f.
 | خِطَاب عِنْد الأَكْل s. f. | -tuch
 | سُمَط pl. سِمَاط s. n. | -wein s. m.
 | نَبِيذ السَفْرَة -zeit s. f. | سَاعَة
 | آلَات السَفْرَة s. n. | -zeug | الأَكْل
 | آدَوَات السَفْرَة.

Titel s. m. (einer Person) | لَقَب pl.

tolerieren va. etw. | سامح في |
تساهل في

toll a. | سَعِر | مَجَانِين pl. |
- (von Hunden) كَلْب pl. |
bld. | غَرِيب | - werden od. sein
| جُن | a | كَلْب | jn. - machen
| باش u كالمجانين | -en vn. | أَجَن *
| يِمَارِسْتَان * | -haus s. n. | أَجَلْب
| مَجْنُون | -häusler s. m. |
| جُنُون s. f. | -heit s. f. |
| حَشِيشَةُ الْحُمْرَةِ s. f. bot. |
| فَوْف s. m. | | إِنْسَان |
| مُتَجَاسِر | جَسُور a. | -fühn |
| -fühnheit s. f. | | جَسَارَةٌ |
| داء الكلب | كَلْب

Толпатсh s. m., Тölpel s. m. | إِنْسَان
| إِنْسَان غَلِيب الطَّبْع | مُغْفَل
Tölpel- | تُولْپَلْ | فِعْل المَغْفَل s. f.
haft a. | ثَقِيل الدَّم |
غَلِيب الطَّبْع

Tomate s. f. bot. | بَنَادُورَةٌ

Tombak s. m. | مَعْدِن مُرَكَّب مِن
| نَحَاس وَثُوتِيَا | -en a. |
| المَعْدِن

Ton s. m. | صَدَى | أَصْوَات pl. | صَوْت
| رَنِين (von Metall) | - | أَصْدَاء pl.
| الأَلْحَان pl. | لَحْن (musikal.) | - | طَنِين

نَبْرَةٌ (Betonung) | - | أَنْعَام pl. | نَعْم
| تَأْكِيد في النُّطْق | der gute -
| الأَنْس | den - | الأَنْس | الأدب
| اجْعَل a الناس مُنْقَادِين لِقُدُوتِهِ
-art s. f. mus. | لَحْن pl. | الأَلْحَان
| أَنْعَام pl. | نَعْم

tönen vn. u | صَات | i | رَنَ.

Ton-fall s. m. mus. | إِيقَاع | -kunst
s. f. | عِلْم المُوْسِيقَى s. m. |
-leiter | عِلْمَاء pl. | عَالِم بِالمُوْسِيقَى
s. f. mus. | سَلَم الأَلْحَان | -los a.
غَيْر مُوَكَّد في النُّطْق

Tonne s. f. | بَرَامِيل pl. | بَرَامِيل كَبِير
| مِلء البَرَامِيل | دِنَان pl. | دَن
- | وَزَن أَلْف كِيلُو (Maß) |
| قَدْر s. m. eines Schiffes |
مَرَكَّب

Ton-faß s. m. mus. | صِنَاعَةُ الأَلْحَان |
-setzer s. m. | صَانِع الأَلْحَان pl. | صَنَاع
-stück s. n. | | -faß

Tonsur s. f. kath. | إِكْلِيل الأَكْبِيرُ *

Topas s. m. min. | زَبْرَجَد pl. | زَبَارِج
| زَمْرَد أَصْفَر شَقِيق

Topf s. m. (Koch-) | تَنْجِرَةٌ * pl.
| قِدْرَةٌ | قُدُور pl. | قِدْر | تَنَاجِر
- | قُل pl. | قُلَّة (Blumen- 2c.)

- إِنَاء | مَوَاجِير pl. مَأْجُورَةٌ | قِلَال
pl. آوَانٍ u. آنِيَّة pl.
- Töpfer s. m. | فَاخُورِي * | فَخَّارِي
-ei s. f., -handwerk s. n. فَاخُورَةٌ |
-erde s. f. | Thonerde | -ware
s. f. | Thonware.
- Topf-gewächs s. n., -pflanze s. f.
-gucker s. m. | إِنَاء فِيهِ نَبَات
| الْمُتَنَطِّس فِي الْأُمُور | الْمُدْنِق
-trommel s. f. * دَرَبُكَّة.
- Topographie s. f. | وَصْفَ أَحْوَال بَدَد
- Torf s. m. | تُرَاب نَفْطِي يُوقَد
-lager s. n., -moor s. n. مَأْخَذ
التُّرَابِ النَّفْطِي.
- torfehn vn. | تَمَائِل.
- Tornister s. m. | أَجْرِبَةٌ pl. جِرَاب
- Tort s. m. | ظُلْم | جُور | ضَرَر
- Torte s. f. | قَطَائِف pl. قَطِيفَةٌ
* فَطَائِر pl. فَطِيرَةٌ
- Tortur s. f. | عَذَاب | عَذْرَاء | دَهَق
أَذِيَّة.
- tosen vn. | هَدَرَ | خَرَّ | دَوَّى | i, u
- tot a. | مَيِّت | مُتَوَفَّى (Sache)
لُغَةٌ -e Sprache | عَادِمِ الْحَرَكَةِ
مال | Güter der -en Hand | مُمَاتَةٌ
| تَمَاوَت | سَتَل - | سَتَل | أَصْبَحَ وَقَفًا
halb - مُشْرِفٌ عَلَى الْمَوْتِ -
- total a. | تَام | كَامِل | -ität s. f. الْكُلُّ
التَّمَام | الْكُلِّيَّة
- Tote s. m. | امْيَّت pl. الْأَمْوَات u.
الْمَوْتَى
- töten va. | قَتَلَ | قَتَلَ | قَتَلَ
die Zeit - قَطَعَ الْوَقْت * -
- Toten-acfer s. m. | مَقَابِر pl. مَقَابِر
-amt s. n. kath. قَدَّاس لِأَجَل
-bett s. n. | امْوَتِي | امْوَتِي
-blaß a., -bleich a. | امْوَتِي | امْوَتِي
عِيْد | امْوَتِي | امْوَتِي
صَوْت | امْوَتِي | امْوَتِي
| امْوَتِي | امْوَتِي
| امْوَتِي | امْوَتِي
- (Der Klage-
weiber) | امْوَتِي | امْوَتِي
s. m. | امْوَتِي | امْوَتِي
-still a. | امْوَتِي | امْوَتِي
| امْوَتِي | امْوَتِي
غَايَةَ السُّكُوتِ | امْوَتِي | امْوَتِي
- totgeboren a. | مَات | قَبْل u
مِيْلَارِهِ.
- tötlich a. | تَوْدِيحِي.
- Tot-schlag s. m. | قَتَلَ | قَتَلَ
s. m. | امْوَتِي | امْوَتِي
- Tötung s. f. | قَتْل.

Trab s. m. | خَبِيب | خَبَب | خَبَب | خَبَب
هَرُولَةٌ * | كَرَدْحَةٌ | هَمَلِجَةٌ

Trabant s. m. | تَبَعَةٌ pl. | تَابِعٌ مُتَسَلِّحٌ
- astr. | أَقْمَارٌ pl. | قَمَرٌ

traben vn. u. | خَبَب | خَبَب * | خَبَب *
فَرَسٌ مُمَرَّنٌ | Traber s. m. | هَمَلِجٌ
في الخَبَبِ

Tracht s. f. | البِسَّة (Kleider) | زِيٌّ *
جِمْلٌ Holz - | كَسْمٌ * | أَزْيَاءٌ pl.
| حُمُولَةٌ | أَحْمَالٌ pl. | مِنَ الخَطْبِ
- ضَرْبَاتٌ مُتَوَاتِرَةٌ

trachten vn. nach | سَعَى a | في | اقْصَدَ i ه
| قَصْدٌ s. n. | Trachten | اجْتَهَدَ في
سَعَى

trächtig a. | حَامِلٌ (حَيَّوَان) (Tier)
حَمَلٌ (الحَيَّوَان) | -feit s. f. | لَاقِحٌ

Tradition s. f. | تَسَامُعٌ | رِوَايَةٌ | نَقْلٌ
سُنَّةٌ | حَدِيثٌ - (religiöse)

Tragant s. m. | كَثِيرَاءٌ

Tragbahre s. f. | مَحَامِلٌ pl. | مَحْمَلٌ
جِمَالَةٌ s. pl. | -bänder | نَعُشٌ
سَهْلٌ النُّقْلُ a. | -bar | البَنْطُلُونُ

träge a. | كَسَلَى u. | كَسَلَانَةٌ f. | كَسَلَانٌ
| تَنْبَلٌ * | مُتَوَانٍ | كَسَالَى pl.
- phys. | عَادِمٌ الحَرَكَةُ

tragen va. | حَمَلَ i ه و ه | حَمَلَ i ه
Frucht - | أَغَلَّ | أَثْمَرَ - (Kleider)

اَتَحَمَّلَ ه | -etw. (ertragen) | لَبِسَ a

| اِحْتَمَلَ | in. | im Herzen ه

اَلْبِيسَ a | (Kleider) | سِخَ | اَحَبَّ ه

سِخَ - mit etw. | تَأَمَّلَ في | vn. -

بَلَّغَ u ه | (Gewehr zc.) | bis

| وَصَلَ i إِلَى | (البُنْدُقِيَّةُ مَثَلًا)

- (weibliche Tiere) | حَمَلَ i | a.

حَامِلٌ (حَيَّوَان) (Tier)

Träger s. m. | حَمَالٌ pl. | (Last-)

| عَتَائِلَةٌ pl. | عَتَالٌ | حَمَالَةٌ

| أَرْكَانٌ pl. | رُكْنٌ (Stützbalken zc.) -

| عُمُدٌ u. | أَعْمِدَةٌ pl. | عُمُودٌ

جِمَالَةٌ (Hosen-) | حَمَالَةٌ

tragfähig a. | مُمَكِّنٌ جِمْلُهُ

Trägheit s. f. | تَوَانٍ | تَكَاسُلٌ | كَسَلٌ

- phys. | عَادِمٌ الحَرَكَةُ

tragikomisch a. | مُخَزِنٌ وَمُضْحِكٌ

tragisch a. | مُخَزِنٌ

Tragkorb s. m. | قَفَّةٌ تُحْمَلُ عَلَى

قَفَصٌ | قُفْفٌ pl. | الظُّهْرُ

Tragöde s. m. | مُشَخِّصٌ في الرِّوَايَاتِ

رِوَايَةٌ s. f. | Tragödie | الْمُخَزِنَةُ

مُشَخِّصَةٌ s. f. | Tragödin | مُخَزِنَةُ

في الرِّوَايَاتِ الْمُخَزِنَةُ

Tragstuhl s. m. | حَدَائِجٌ pl. | حِدَاجَةٌ

| تَحْتِ رُوَانٍ * | مَحَامِلٌ pl. | مَحْمَلٌ

-weite s. f. (eines Geschosses)

أَهْمِيَّة -- bld. | غِلاء | غَلْوَةٌ | رَمِيَّة

Train s. m. عَرَبَات | عَجَل الجَيْش | الجَيْش *

traftieren va. jn. | آوَلَم | آدَب *

trällern vn. تَدْمَدَم فِي | تَهَزَّج | تَنْغَم | الغِناء *

trampeln vn. رَدَى | عَرَقَص | دَبَدَب

Trampeltier s. m. | جَمَل pl. | جَمَال | بَعِير | إِبِل

Tranf s. m. مَشْرَب | شَرَاب | شُرْب

Tränke s. f. مَشَارِب pl. | مَشْرَب | حِيَاض pl. | حَوْض | مَوَارِد pl. | مَوْرِد | -en va. jn. | سَقَى | سَقَى | أَرْوَى *

Transitzoll s. m. رَفْتِيَّة | تَسْرِيح

transparent a. شَفَاف

Transpiration s. f. عَرَق | transpirieren vn. | عَرَق *

Transport s. m. نَقْل | -ieren va. | نَقْل | -kosten | نَقْل | -fall s. m. | أَجْرَةُ النُّقْل | s. pl.

Trapez s. n. math. مُنْحَرَف

Trappe s. f. zool. حُبَارَى pl. | حُبَارِبَات

trappeln vn., trappen vn. | تَخَزَّل

تَسْرُوك | سَرُوك | وَاكَل | تَدْعَدَع | هَدَج i

traffieren vn. auf jn. | سَكَب a | بُولِصَةٌ | عَلَيْهِ *

trätschen vn. | هَدَر u | كَثَّر الكلام | تَقَوَّل عَلَى | لَبَلَب *

Tratte s. f. | سَفَاتِح pl. | سَفْتَجَة | كَمْبِيَالَة * | بَوَالِص pl. | بُولِصَة *

Traube s. f. | عَنَاقِيد pl. | عُنُقُود | - | أَعْنَاب pl. | عِنَب (Wein-) | -nblut s. n., -n|aft s. m. | حَمْر | تَيْبِذ

trauen va. jn. (fopulieren) christl. | صَلَّى عَلَى الْمُتَزَوِّجِينَ | كَلَّل ه *

trauen vn. jn., auf etw. | وَثِقَ | آمِن a | اتَّكَل عَلَى | تَوَكَّل عَلَى | مِّن | تَجَاسَرَ - zu | سِخ | إِلَى

Trauer s. f. (um einen Verstorbenen)

سِلَاب | حِدَاد (-) | حِدَاد | سُلْب pl. | - anlegen, tragen

u | حَدَّ | أَحَدَّ | سَلِب (-) | (Traurigkeit) | واقِعَة s. m. | -fall | حُزْن

| وَفِيَات pl. | وَفَاة | وَقَائِع pl. | مُحْزِنَة | بَرْنَجَك | كَرْبِشَة | سَوْدَاء s. m. | -flor

| -gewand s. n., -fleid s. n. | أسود * | سُلْب pl. | سِلَاب | حِدَاد | -n vn.

um jn. | حَزَن a | عَلَيْهِ | -nachricht

- s. f., -post s. f. | خَبْرٌ مُخْبِرٌ | Trauschheim s. m. شَهَادَةُ النِّكَاحِ.
- spiel s. n. | رِوَايَةٌ مُخْبِرَةٌ | traut a. | عَزِيزٌ | مُحْبُوبٌ.
- s. f. bot. | صَفْصَفٌ مُتَدَلِّي الأَعْصَانِ | Trauung s. f. christl. * | تَكْلِيلٌ |
- صَفْصَفٌ أَهْدَبٌ. | الصلاة عَلَى الْمُتَزَوِّجِيْنَ.
- Traufe s. f. | مِزْرَابٌ pl. | مِزَارِيْبٌ | Treff s. n. * | بِسْتَانِيٌّ * |
- مِيزَابٌ pl. | مِيزَابٌ | träufeln, treffen va. ein Ziel | أَصَابَ الهَدْفَ |
- träufen va. etw. | قَطَّرَ هـ | vn. - | لَقِيَ ا هـ | أَذْرَكَ هـ |
- نَقَطَ * u | تَقَطَّرَ. | Treffen | قَابَلَ هـ | وَجَدَ i هـ | لَاقَى هـ
- traulich a. | أَلِيْفٌ | أَلِيْسٌ | دُو دَالَّةٌ | أُنَيْسٌ | مَعْرَكَةٌ | قِتَالٌ | وَقَائِعٌ pl. | واقِعَةٌ s. n. |
- مُؤَثِّرٌ فِي القَلْبِ a. | مَعَارِكٌ pl. | - | Traffer s. m. | مُصِيبُ الهَدْفِ |
- دَالَّةٌ. | سَلَّمَ كَالسَّبِّ فِي لُغْبَةٍ بِالنَّصِيبِ.
- Traum s. m. | مَنَامٌ * | أَحْلَامٌ pl. | حُلْمٌ | trefflich a. | جَيِّدٌ | عَظِيمٌ |
- pl. | مَنَامَاتٌ | -bild s. n. | طَيِّفٌ | - | فَضْلٌ | جَوْدَةٌ | جَوْدَةٌ s. f. | - |
- pl. | رُؤْيَا | مُعَبِّرٌ s. m. | -deuter s. m. | رُوِيَ pl. | رُؤْيَا |
- الأَحْلَامِ. | Treibeis s. n. | جَلِيدٌ تُنْقَلُ بِالمَاءِ.
- träumen vn. | رَأَى ا | حَلَمَ u فِي المَنَامِ | treiben va. | دِيحٌ | المَوَاشِيِ |
- رَأَى هـ فِي المَنَامِ | - va. etw. | مَنَامًا | - | etw. | (machen) هـ |
- bild. | تَخَيَّلَ | Träumer s. m. | - | etw. | اِجْتَهَدَ فِي | اِشْتَغَلَ بِ |
- Träumerei | مُتَخَيَّلٌ فِي الهَوَاجِسِ | (bewegen) هـ | حَرَكَ | jn. - von, |
- s. f. | träu- | تَخَيَّلَ فِي الهَوَاجِسِ | aus etw. | هـ | طَرَدَ u | jn. - zu |
- merisch a. | مُنْقَادٌ لِلتَّخَيَّلَاتِ. | etw. | حَتَّى u | عَلَى |
- traumhaft a. | شَبِيهِ بِحُلْمٍ. | vn. - | (auf dem |
- traun! interject. | حَقِيقَةً. | Wasser) u | طَفَا | u | عامٌ |
- traurig a. | مَحْزُونٌ | حَزَنٌ | حَزِينٌ | Treiben | مَعْدِنٌ | مَنقُوشٌ | Metall |
- حَزَنٌ ا عَلَى | - | sein über | مَغْمُومٌ | s. n. | حَرَكَةٌ |
- Traun! | حَقِيقَةً. | Treiber s. m. | (Dich-) |
- traurig a. | مَحْزُونٌ | حَزَنٌ | حَزِينٌ | Treiberei s. f. | دَسِيسَةٌ pl. |
- حَزَنٌ ا عَلَى | - | sein über | مَغْمُومٌ | سَوَاقٌ |
- traurig a. | مَحْزُونٌ | حَزَنٌ | حَزِينٌ | دَسَائِسٌ.

Treibhaus s. n. بَيْتٌ لِتَرْبِيَةِ
نَوْعٍ مِنَ الْجَدِّ | النِّبَاتَاتِ
الصَّيْدِ.

trennbar a. مُمَكِّنٌ فَرْقُهُ | -feit s. f.
إِمْكَانُ فَرْقِهِ.

trennen va. etw. هـ | فَصَلَ i هـ | فَرَّقَ هـ
| فَتَّقَ هـ (auf-) | شَقَّ u هـ
| فَضَّ u هـ | حَلَّ u هـ (lösen) |
sich - | انْفَصَلَ | اِفْتَرَقَ - sich
Trennung | انْفَصَلَ عَنْهُ | فَارَقَ s. m.
| اِفْتَرَقَ | فَضَّ | تَفَرَّقَ s. f.
فِرَاقٌ | اِنْفِصَالٌ.

Trense s. f. أَرْمَةٌ pl. زِمَامٌ.

trepanieren va. jn. ثَقَّبَ u قَحَّفَهُ.

Treppe s. f. دَرَجَةٌ | سَلَامٍ pl. سُلْمٌ
pl. مَرْقَاةٌ | دَرَجَاتٍ u. دَرَجٍ pl.
سَطْحِ دَرَجٍ | nabſaſ s. m. | مَرَاقٍ
pl. سَطُوحٍ | -ngeländer s. n.
دَرَبَزِينَ *.

Trefse s. f. شَرَايِطُ pl. شَرِيْطَةٌ *
كَشْكَشَى *.

Trester s. pl. ثُقُلٌ | كُسْبٌ | حُنَالَةٌ
ما بَقِيَ فِي الْمَعْصَرَةِ.

treten vn. auf etw. هـ | دَعَسَى a هـ
| خَرَجَ u مِنْ | aus etw. - | دَامَى u هـ
- | دَخَلَ u هـ | vor
jn. | اقْتَرَبَ - | نَاهَرَ | تَقَدَّمَ إِلَيْهِ jn.

dazwischen - | تَدَاخَلَ | va. jn.
mit Füßen - | اِحْتَقَرَهُ | jn. -
stud. | طَالَبَ s. بِالْدَيْنِ.

Tretmühle s. f. طَاحُونٌ صَغِيرٌ ذُو
عَجَلٍ.

treu a. (genau) | - | أَمِينٌ | وَايٌ | وَفِيَّ
| خِيَانَةٌ s. m. | مُدَقَّقٌ |
- | أَمَانَةٌ s. f. | خَائِنٌ a. |
- | صِدْقٌ | حَقِيْقَةٌ | إِيفَاءٌ | وَفَاءٌ
| تَدْقِيْقٌ | دِقَّةٌ (Genauigkeit) - -
| خُلُوصُ النِّيَّةِ u. - - |
| سَلِيْمُ النِّيَّةِ a. | هَرِيزِجٌ - | صِدْقٌ
| هَرِيزِجِيَّةٌ - | خَالِصٌ | سَلِيْمُ الْقَلْبِ
s. f. | سَلَامَةُ النِّيَّةِ | خُلُوصٌ s. f.
| خَائِنٌ a. | - | أَمَانَةٌ | وَفِيًّا adv.
| - | لَوْفِيَّةٌ s. f. | - | عَدَارٌ | عَادِمُ الْوَفَاءِ
عَدْرٌ | عَدَمُ الْوَفَاءِ | خِيَانَةٌ.

Triangel s. f. mus. آلَةٌ الطَّرْبِ
مُثَلَّثَةُ الشَّكْلِ.

Tribunal s. n. مَحَاكِمٌ pl. مَحْكَمَةٌ.

Tribüne s. f. مَرْتَبَةٌ | مَنَابِرٌ pl. مَنَابِرٌ
مَرَاتِبٌ pl. لِلْمَحَاضِرِينَ.

Tribut s. m. غَرَامَةٌ | خَرَاةٌ.

Trichter s. m. أَقْمَاعٌ pl. قَمْعٌ.

Tricktracſ s. n. كُوبَةٌ | نَرْدٌ.

Trieb s. m. (einer Pflanze) فَرْخٌ
| أَفْرُوعٌ pl. قَرُوعٌ | أَفْرَاخٌ pl. نَبَاتٌ

- | مَيْلٌ طَبِيعِيٌّ | غَرِيزَةٌ (-Natur) -
 -feder s. f. | بَوَاعِثُ pl. | باعِثٌ
 -kraft s. f. | قُوَّةٌ | كَوَاعٍ pl. | داعٍ
 -rad s. n. | مُحَرِّكَةٌ | عَجَلَةٌ
 -sand s. m. | عِجَالٌ u. | عَجَلٌ pl. | آلَةٌ
 -wurf s. n. | رَمَلٌ | تَحْرِيكَةُ الرِّيمِ
 مَجْمُوعٌ كَوَالِيِبِ آلَةٍ.

triefäugig a. | رَمْدَاءُ f., أَرْمَدٌ a. pl.
 | غَمَصٌ pl., غَمِصَاءُ f., أَعْمَصٌ | رُمْدٌ
 triefen vn. | تَقَطَّرَ | بُلٌّ | (Augen)
 | رَمِدٌ a.

Trift s. f. | مَرَعِيٌّ pl. | مَرَاغٍ pl.
 | مَرُوجٌ pl.
 مَرُوجٌ.

triftig a. | مُقْنِعٌ * | قَاطِعٌ | صَحِيحٌ
 | أَهْمِيَّةٌ | صِحَّةٌ s. f. | -feit s. f. | مُهِمٌّ
 | إِقْنَاعٌ *.

Trigonometrie s. f. math. | حِسَابٌ
 | trigonometrisch | مِسَاحَةُ الْمُثَلَّثَاتِ
 a. math. | مُمْتَصِرٌ بِحِسَابِ مِسَاحَةِ
 الْمُثَلَّثَاتِ.

Triller s. m. | تَرَنْجِيحٌ | نَعْمٌ pl. | أَنْعَامٌ
 | تَدْمُدُّمٌ فِي الْغِنَاءِ * | تَكَلُّجٌ | تَنْغِيمٌ
 | نَعْمٌ | نَعْمٌ | i, u | تَرَنْجِيحٌ -n vn.
 | تَدْمُدُّمٌ فِي الْغِنَاءِ * | هَزَجٌ a.

Trinität s. f. christl. | ثَالُوثٌ.
 | يُشْرَبُ | مُمَكِّنٌ شُرْبُهُ a. | تَرِيكٌ-bar
 | أَقْدَاحٌ pl. | قَدَحٌ s. m. | -becher

-en va. etw. h a | شَرِبَ | jm.
 zu - - geben s i | سَقَى | aufs
 Wohl, auf die Gesundheit js. - -
 | شَرِبَ | vn. - - | بِسِيرَةٍ * (ein
 Säufer sein) | كَثِيرًا مِنْ | شَرِبَ
 | أَفْرَطَ فِي الشُّرْبِ | الْمُسِكِرَاتِ | sich
 | تَشَجَّعَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ - - | Mut
 | شُرْبِ الْمُسِكِرَاتِ | شُرْبٌ -en s. n.
 | شَرِبَ | er s. m. | إِفْرَاطٌ فِي الشُّرْبِ
 | بَحْشِيشٌ * | حُلُوانٌ s. n. | -gelds. n. | الخمر
 | -glas s. n. | f. | -becher | -spruch
 s. m. auf jm. | شَرِبَ بِسِيرَةٍ -wasser
 s. n. | مَاءٌ لِأَجْلِ الشُّرْبِ.

Trio s. n. mus. | لَحْنٌ دُو ثَلَاثَةِ أَصْوَاتٍ
 | أَلْحَانٌ pl.

Tripel, (in Zusammensetzungen)
 | ثَلَاثِيٌّ | مُثَلَّثٌ (في التَّرْكِيبَاتِ)
 | الِاتِّحَادِ | Tripelallianz (z. B. |
 | الثَّلَاثِيٌّ مَثَلًا).

Tripolis n. pr. (in der Barbarei)
 | طَرَابُلُسُ الْقَرْبِ - (in Syrien)
 | طَرَابُلُسُ الشَّامِ.

trippeln vn. | عَرَقَصَ | دَبَّابٌ | رَدَى i.
 | سَيْلَانٌ | أَفْرَنْجِيحِيٌّ s. m. med. | Tripper
 | نُزُولُ الْمَنِيِّ.

Tritt s. m. (fuß-) | رُمْحَةٌ | رُفْسَةٌ (-fuß)

Tropen s. pl. geogr. كَوَائِرِ الْأَنْقِلَابِ.

Tropf s. m. رَجُلٌ بَلِيدٌ.

tröpfeln, tropfen va. etw. قَطَّرَ هـ |

تَنْقَطُ * | تَقَطَّرَ - | صَبَّ u هـ

Tropfen s. m. قطر pl. قطرات * | ein -

قطرة pl. قطرة ماء * | قطرات قطرة

قطرة فقطرة * | قطرة فقطرة -weise adv. | نُقِطَ

Tropfstein s. m. ما يَتَحَجَّرُ مِنَ الْمَاءِ |

مغارة فيها ماء s. f. -höhle

مغاور pl. متحجج

tropisch a. geogr. ما يَبِينُ دائِرَتِي

(übertragen) - | الجدى والسرطان

مجازي.

Troß s. m. تَبَعَةٌ | عَفْشُ الْجَيْشِ

(Menge) - | خَدَمُ الْجَيْشِ | الْجَيْشِ

bube s. m., -جماعة | كثرة الناس

-junge s. m., -fuecht s. m. خادم

تابع pl. الجيوش | خدام pl. الجيوش

تبعه.

Trofse s. f. حَبْلٌ كَبِيرٌ pl. حبال |

قلوس pl. قلوس.

Trost s. m. سَلْوَةٌ | تَسْلٍ | تَسْلِيَةٌ

قُرَّةُ الْعَيْنِ (-Augen-) | تَعْرِيفَةٌ

jm. - geben, spenden, bringen,

zusprechen هـ سَلَى | nicht bei -

sein مُسَلٍّ | -bringend a. | جَنَّ

مُعَزٍّ.

trösten va. jm. هـ | سَلَى هـ |

Tröster sich - | تَعَزَّى | تَسَلَّى -

s. m. المُسَلِّي | المُعَزِّي | tröstlich a.

Tröstung s. f. تَسْلِيَةٌ | مُعَزِّ مُسَلٍّ

تَعْرِيفَةٌ.

trotten vn. u. حَبَّ.

Trottoir s. n. رَصِيفٌ فِي الْأَزِقَّةِ |

ترووار * | مَمْشَى.

Troß s. m. مُعَانِدَةٌ | عِنَادٌ -

bieten j. troßen | troß praep. c.

بَغَيْرِ الْتِفَاتٍ | مَعَ

gen. u. dat. -en vn. jm. هـ | عَانَدٌ - | إِلَى

اعتمد | افتحرب - - auf etw.

Popf s. m. - | مُعَانِدٌ a. -ig | عَلَى

انسان معاند.

trübe a. (Wasser, Auge) كَدِرٌ (الماء)

-sein od. werden | عَاكِرٌ | أَوِ الْعَيْنِ

مِغَمٌ (Wetter) - | كَدِرٌ | عَاكِرٌ

(الهواء).

Trubel s. m. هَوْشَةٌ | اِخْتِلَالٌ | بَلْبَلَةٌ

trüben va. (Wasser, Auge) كَدَّرَ

sich - | عَكَّرَ هـ (الماء أو العين)

اعتكرك | عَاكِرٌ | تَكَدَّرَ | كَدِرٌ

Trübnis s. f., Trübsal s. f. كَرْبٌ

pl. كُرُوبٌ | غَمٌّ pl. غُمُومٌ

مِسْكِينٌ | مُحْزِنٌ | trübselig a. | ضَيْقٌ

Trübsinn s. m. سَوْدَاوِيٌّ | -ig a. | سَوْدَاءٌ

| äg. | لَاعِبٍ بِالْجُمُازِ * | مُتْرَافٍ
 | turnerisch a. | رِيَاضِيٍّ | تَزَاوُفِيٍّ.
 Turnier s. n. | لَعِبِ الْفَوَارِسِ الْقُدَمَاءِ.
 Turteltaube s. f. | شِفَانِينَ pl. | شِفَانِينَ.
 | يَمَامَةٌ - | يَمَامٍ | eine.
 Tusch s. m. | لَحْنٍ بِأَبْوَابٍ.
 Tusch s. f., chinesische - | حَبْرٍ صِينِيٍّ -
 | -n va. etw. | بِأَلْوَانٍ.
 Tüte s. f. | قَرَطَاسٍ pl. | قَرَاتِيْسٍ.
 | تُفَعُّ | u | بِالْبُوقِ | بُوُقٍ | tuten vn.
 Type s. f. | حُرُوفٍ pl. | حُرُوفٍ لِلطَّبْعِ.
 Typhus s. m. | وَبَاءٍ | تَيْفُوسٍ *.
 typisch a. | رَمَزِيٍّ.
 Typograph s. m. | طَبَّاعٍ.
 Typus s. m., pl. -pen | صُورَةٌ أَصْلِيَّةٌ -
 | pl. | صُورٍ.
 Tyrann s. m. | ظَلَمَةٍ u. | ظَلَامٍ pl. | ظَالِمٍ |
 | بَغَاةٍ pl. | بَاغٍ | جَبَابِرَةٍ pl. | جَبَّارٍ
 | -isch | | بَغِيٍّ | جَوْرٍ | ظَلَمٍ | -ei s. f.
 | ظَلَمِيٍّ | ظَالِمٍ | a.
 Tyrus n. pr. | مَدِينَةٌ صُورٍ.

ll

u الحُرُوفِ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ مِنْ
 | حُرُوفِ الْحِجَاءِ.
 Übel s. n. | شَرٍّ | أَسْوَأٍ pl. | سُوءٍ pl.
 | übel a. | أَضْرَارٍ pl. | ضَرَرٍ | شُرُورٍ

| رَدِيٍّ | بَطَّالٍ * | mir ist -, mir
 | wird - | عِنْدِي تَحْمَةٌ * - | wohl
 | طَوْعًا أَوْ | رِضًا أَوْ قَسْرًا - | oder
 | jm. etw. - | شَاءَ أَمَّ أَبِي | كَرِهًا
 | أَخَذَ u ه | | آخَذَهُ عَلَى | nehmen
 | jm. - | عَلَى وَجْهِ السُّوءِ | wollen
 | تَحْمَةٌ * - | أَضْمَرَ لَهُ الشَّرَّ | -feit s. f.
 | قَرَفٍ * | مَقَسٍ | تَحَرَّكَ إِلَى الْقِيءِ
 | -nehmen s. n. | مُوَخَذَةٌ | أَخَذَ عَلَى
 | -nehmenisch a. | مُوَخَذَ - | وَجْهِ السُّوءِ
 | -stand s. m. | ضَرَرٍ pl. | أَضْرَارٍ
 | -that s. f. | قَبَائِحٍ pl. | قَبِيحَةٍ -
 | pl. | فَوَاحِشٍ pl. | فَاحِشَةٍ | أَجْرَامٍ pl.
 | -thäter s. m. | مُجْرِمٍ | شَقِيٍّ pl.
 | -wollen s. n. | أَشْقِيَاءَ | سُوءِ الْقَصْدِ
 | -wollend a. | رَدِيٍّ | سُوءِ النِّيَّةِ
 | سَيِّ الْقَصْدِ | النِّيَّةِ.

| مَرَّنَ ه عَلَى | in etw. | jn. | üben va.
 | تَمَرَّنَ عَلَى | - | فِي | دَرَّبَ ه | بِ
 | مُجَرَّبٍ | geübt | تَدَرَّبَ | بِ
 | خَيْرٍ.

| فَوْقِ | über praep. c. dat. u. acc.
 | بِخُصُوصٍ (betreffs) - | عَلَى
 | - | مَرَّةً عَلَى (durch) - | (mehr als)
 | | أَكْثَرَ مِنْ | schreiben, sprechen -
 | -all | تَكَلَّمَ فِي | كَتَبَ u فِي | etw.
 | | أَيْنَمَا كَانَ | in | كُلِّ مَكَانٍ | adv.

| حَيْثُمَا wo - - | في كُلِّ جِهَةٍ
 | -antworten va. jm. etw. | أَأْتِنَمَا
 | أَعْطَى هِ إِلَيْهِ | سَلَّمَ هِ إِلَيْهِ
 | -arbeiten va. etw. هِ | صَحَّحَ هِ
 | -aus adv. جِدًّا | أَصْلَحَ هِ
 | -bieten va. jm. bei | في زَائِدَةٌ
 | -bleibsel s. n. | فاق u هِ bld.
 | سَائِرٌ | بَقَايَا pl. بَقِيَّةٌ | باقٍ
 | -blick s. m. | فَضَلَاتٌ pl. فَضْلَةٌ
 | نَظْرَةٌ | التَّفَاتَةُ | لَمْحَةٌ | لِحْظَةٌ
 | -blicken va. etw. | إِلَى u إِلَى
 | رَمَقَ u هِ | أَلْقَى النَّظَرَ عَلَى
 | أَسْرَعَ فِي | bld. | بَصَرَ u إِلَى
 | -bringen va. jm. | البَحْثَ عَنِ
 | جاءَ هِ بِ | أَتَى هِ بِ | etw.
 | -bringer s. m. (eines | سَلَّمَ هِ إِلَيْهِ
 | حامِلٍ (كِتَابِ النِّخ) | (Briefs zc.)
 | -brücken va. einen Fluß | بَنَى
 | -bürden va. jm. | قَنَطَرَةً عَلَى نَهْرٍ
 | -dachen va. | حَمَلَ هِ حِمْلًا زَائِدًا
 | -dauern va. etw. | سَقَّفَ هِ
 | -decken va. etw. | فاق u هِ دَوَامًا
 | -denken va. etw. | mit f. bedecken
 | -dies adv. | تَفَكَّرَ فِي | تَأَمَّلَ فِي
 | ما عَدَا ذَلِكَ | زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ
 | قَرَفَ * | سَامٌ | مَمْلٌ | -druß s. m.
 | -drüßig a. einer Sache gen.

| -eilen va. | مُسْتَقْرِفٌ مِنْ | سَوْوَمٌ
 | -antworten va. jm. etw. هِ | اسْتَعْجَلَ هِ | أَعْجَلَ هِ | أَسْرَعَ هِ
 | -eilung | تَغَاوَلَ | تَسَّرَعَ - - | sich
 | -einfallen s. f. | تَغَاوَلَ | عَجَلَةٌ | عَجَلَ | تَسَّرَعَ
 | -einkommen vn. mit jm. über etw.
 | -einkommen s. n., | اتَّفَقَ مَعَهُ فِي
 | -einkunft s. f. | اتَّفَاقٌ | -einstimmen
 | vn. mit jm. معه | اتَّفَقَ مَعَهُ
 | nicht - - | اِخْتَلَفَ - -
 | -einstimmend | اِخْتَلَفَ - -
 | -einstimmung | مُوَاظِقٌ | مُتَّفِقٌ a.
 | -fahren va. | مُوَاظِقَةٌ | اتَّفَاقٌ s. f.
 | jm. [untrennb.] بِالْعَجَلَةِ | مَشَى
 | vn. über einen Fluß | عَلَيْهِ
 | [trennb.] | عَبَرَ u نَهْرًا | قَطَعَ هِ
 | -fahrt s. f. | عُبُورٌ | جاز u هِ
 | -fall s. m. | فَجَاءَةٌ | هُجُومٌ - - (des
 | -fallen va. | سَلَّالٌ (الماء) | Waffers)
 | | أَوْقَعَ فِيهِ بَعْتَةً | فَجَأًا هِ | jm.
 | -fließen vn. i | فَاضَ | كَثُرَ u | وَفَرَ u
 | -flügeln va. jm. | جَاوَزَ هِ | bld.
 | -fluß s. m. | فَيْضٌ | فاق u هِ
 | -flüssig | وَفُورٌ | غَرَارَةٌ | زِيَادَةٌ | كَثْرَةٌ
 | | فَاضِلٌ | زَائِدٌ | جَزِيلٌ a. (übervoll)
 | | غَيْرٌ | بَاطِلٌ (unnötig) | فَائِضٌ
 | -flüssigkeit | لا طَائِلَ تَحْتَهُ | نَافِعٌ
 | s. f. | فَضُولٌ | زِيَادَةٌ | شَيْءٌ
 | -fluten va. etw. فِي | فاض i الماء

|فَيْضٌ s. f. | -flutung s. f. | أَغْرَقَ ه
 |زِيَادَةُ الثَّقَلِ | -fracht s. f. | فَيَضَان
 | -frachten va. etw. |. überladen |
 |أَفْرَطَ فِي الْأَكْلِ | -fressen v. sich
 | -führen va. jn. u. etw. [trennb.]
 | - - jn. einer
 | Sache gen. od. von etw. [un-
 | trennb.] | أَثْبَتَ ه عَلَيْهِ | -
 | einer Sache gen. od. von etw.
 | -füllen va. | قَنَعَ a ب* | تَحَقَّقَ ه
 | sich den | مَلَأَ a ه | زَائِدًا ه
 | -gabe | أَفْرَطَ فِي الْأَكْلِ - -
 | s. f. | إِعْطَاءٌ | تَسْلِيمٌ s. f.
 | مَعَابِرٍ pl. | مَعْبَرٍ | مُرُورٍ | عُبُورٍ
 | -geben va. jn. etw. | سَلَّمَ ه إِلَيْهِ |
 | سَلَّمَ نَفْسَهُ - - | أَدَّى ه إِلَيْهِ |
 | i | اسْتَفْرَغَ (erbrechen) - - |
 | -gehen va. etw. [untrennb.]
 | ضَرَبَ i | أَهْمَلَ ذِكْرَهُ | تَرَكَ u ه
 | etw. mit Stillschweigen | صَفَحًا عَنْ
 | - - | سَكَتَ u عَنْ - -
 | - - | تَغَيَّرَ | مَرَّ u | عَبَّرَ |
 | jn. (Augen) | دَمَعَتْ عَيْنُهُ |
 | -gewicht s. n. | تَرْجِيمٌ | عَيْنُهُ
 | وَزْنَ زَائِدًا عَنْ | زِيَادَةُ الثَّقَلِ
 | -gießen va. etw. mit | الْمُرْحَصِ
 | -golden va. etw. | رَشَّ u ه عَلَى

|griff | دَهَبَ ه | غَطَّى ه بِالذَّهَبِ
 | -groß a. | زَائِدٌ | جَوْرٌ | تَعَدَّى s. m.
 | -handnehmen vn. i | زَادَ |
 | -hängen vn. über | أَنْحَى | كَثُرَ u
 | | أَشْرَفَ عَلَى | بَرَزَ u
 | -hängen va. etw. mit [untrennb.]
 | - - etw. [trennb.] | غَطَّى ه بِ
 | -häufen va. jn. | عَلَّقَ ه عَلَى
 | - - mit Wohl- | أَعْسَفَ ه
 | thaten zc. | غَمَرَ ه u | بِالْإِحْسَانِ
 | -häuft mit ... | كَثِيرًا |
 | s. f. | زِيَادَةٌ | كَثْرَةٌ |
 | -heben va. jn. | مُطَلَقًا | عُمُومًا
 | einer Sache gen. | عَلَى | اسْتَشْنَى ه
 | -hebung | تَكَبَّرَ - - | سَامَهُ ه فِي
 | s. f. | تَكَبَّرَ | -heizen va. etw.
 | -holen va. jn. | سَخَّنَ ه بِإِفْرَاطٍ
 | -hören va. etw. | سَمِعَ ه
 | -irdisch | أَقْرَأَ ه - - | يُبَالٍ بِهِ
 | -jährig a. | سَمَاوِيٌّ |
 | -fleid s. n. | ثَوْبٌ قَوَانِيٌّ |
 | -fleiden va. etw. mit | قَوَانِيَّةٌ
 | -flug a. | أَلْبَسَ ه بِ
 | -fodhen vn. | بِالْغَلِيَّانِ | فَاضَ i
 | -kommen va. jn. (Gefühl) | اسْتَوَى
 | - - etw. u | حَصَلَ (إِحْسَاسٌ)
 | -laden va. jn. | نَالَ a ه | عَلَى

mit **حَمَلًا** زَائِدًا | sich den
Magen - - | **أَفْرَطَ فِي الْأَكْلِ** |
-lassen va. jm. etw. **لَهُ** u **تَرَكَ** |
sich **تَنَزَّلَ عَنِ** | **سَلَّمَ** ه **إِلَيْهِ**
einer Sache dat. - - | **سَلَّمَ ذَاتَهُ لِي** |
sich dem Sinnengenuss - - | **أَنْهَمَكَ** |
| **مُزْعِجٌ** -lästig a. | **فِي اللَّذَاتِ**
* | **مُثْقِلٌ عَلَى** * |
[untrennb.] **أَزْعَجٌ** | **تَقَلَّ عَلَيْهِ** * |
es überläuft mich | **أَرْتَعِشُ** -- vn.
[trennb.] (Wasser) **إِضَاءٌ** |
- - zum Feinde **لِلْعَدُوِّ** u **عَبَرَ** |
-läufer s. m. | **هَرَبَ** u **إِلَى الْعَدُوِّ**
| **عَسْكَرِيٌّ** هارِبٍ **إِلَى الْعَدُوِّ** mil.
| **عَالِي الصَّوْتِ جِدًّا** -laut a. |
| **عَاشَ** i **بَعْدَهُ** -leben va. etw. |
- - jm. | **بَقِيَ** a | **عَاشَ** i **بَعْدَ مَوْتِهِ** -
| **بَعْدَ مَوْتِهِ** -legen va. etw., sich
etw. - - | **تَرَوَى فِي** | **تَأَمَّلَ فِي** -
| **مَعْمُولٌ** | **مَفْعُولٌ بِأَنْتِبَاهٍ** -legt
| **فَاتِقٌ عَلَيْهِ** jm. | **لِغَنٍ** |
| **أَقْوَى مِنْهُ** | **أَكْبَرُ مِنْهُ** | **أَعْظَمُ مِنْهُ**
jm. - - | **فَضْلٌ** u **فَضْلٌ** - fein
| **فَضْلٌ** -legenheit s. f. | **عَلَيْهِ**
| **تَرَوَى** | **تَقَدَّمَ** | **تَفَوَّقَ**
- | **تَفَكَّرَ** | **تَأَمَّلَ**
| **تَصَفَّهَ** -lesen va. etw. | **غَيْرَ حَالِهِ**

| **بِسُرْعَةٍ** -liefern va. jm. etw.
| **أَعْطَى** ه | **سَلَّمَ** ه **إِلَيْهِ**
-lieferung s. f. | **تَسْلِيمٌ** |
- - | **تَبْلِيغٌ** | **تَسَامُعٌ** (Tradition) -
- | **تَحْدِيثٌ** | **رِوَايَةٌ** | **نَقْلٌ عَنِ**
- | **غَشَّى** u | **خَدَعَ** a |
- | **سَلَّمَ** ه **إِلَيْهِ** -machen va. jm. etw.
- | **أَرْسَلَ** ه **لَهُ** -macht s. f. **الْقُوَّةُ**
- | **أَقْوَى مِنْ** -mächtig a. | **الْكُبْرَى**
- | **أَقْوَى جِدًّا** | **غَيْرِهِ** -malen va. etw.
- | **صَوَّرَ عَلَيْهِ** -mannen va. jm.
- | **إِسْتَوْلَى عَلَيْهِ** | **غَلَبَ** i |
- | **شِدَّةٌ** | **إِفْرَاطٌ** | **زِيَادَةٌ** s. n. -
- | **زَائِدٌ** -mäßig a. | **زَائِدًا** | **زَائِدٌ**
- | **إِنْسَانٌ فَاتِقٌ** -mensch s. m. | **مُفْرِطٌ**
- | **فَاتِقٌ قُوَّةً** -menschlich a. | **غَيْرِهِ**
- | **جَسِيمٌ** | **عَظِيمٌ** | **الْبَشَرِ**
- | **سَلَّمَ** ه | **بَلَغَ** ه **إِلَيْهِ** -va. jm. etw.
| **أَرْسَلَ** ه **لَهُ** | **أَعْطَى** ه | **إِلَيْهِ**
- | **بَعْدَ غَدٍ** -morgen adv. | **مُتَّعِبٌ** s. m.
- | **إِنْتِفَاحٌ** | **تَعَاظُمٌ** | **تَجَبَّرَ** | **تَكَبَّرَ**
- | **مُتَّعِبٌ** | **مُتَّجَبِّرٌ** | **مُتَّكَبِّرٌ** -müdig a.
- | **بَاتَ** a, i (الليْلِ) -nachten vn.
- | **سَاهِرٌ كُلَّ اللَّيْلِ** -nächtlich a.
- | **أَقْبُولٌ** | **تَسَلَّمَ** -nahme s. f.
- | **فَاتِقٌ الطَّبِيعَةِ** -nehmen
- | **تَمَلَّكَ عَلَى** | **تَسَلَّمَ** -va. etw.

-treten va. Gesetz [untrennb.]
 تَعَدَّى فِي | جاوَز الشَّرِيعَةَ
 -- vn. (fluß) [trennb.] | الشَّرِيعَةَ
 -- | فاض i (النَّهْرُ)
 -treter | حَوْل إِلَى | تَقَلَّبَ إِلَى
 s. m. | مُتَعَدِّ | -tretung s. f.
 -trieben a. | مُبَالِغ | مُفْرِط | مُتَجَاوِز
 | اسْتِحَالَةَ | -tritt s. m. | الحَدِّ
 -tünchen va. | تَحْوِيل | انْقِلَاب
 etw. h u | مَلَط | كَلَّس | -völfert
 a. | زَائِد النَّاسِ | -voll a. | مَلَأَن
 | غَنَسَ u | زَائِدًا | -vorteilen va. jn. s
 | رَاقِبَ s | -wachen va. jn. s a | خَدَعَ s
 | نَظَرَ u | حَرَسَ | -wachtung s u
 | مَرَاقَبَةَ | -wallen vn. i فاض s. f.
 | فَايَّرًا | -wältigen va. jn. u. etw.
 | أَخْضَعَ s | قَهَرَ s | و ه
 | غَلَبَ s | فاق u | اسْتَوْلَى عَلَى
 | عَيَّنَ ه لَهُ | -weisen va. jn. etw.
 | سَلَّمَ ه | jn. eines Ver- | إِلَيْهِ
 | -brechens -- | أَثْبَتَ الذَّنْبَ عَلَيْهِ --
 | رَمَى i | -werfen va. etw. [trennb.]
 | ه فَوْق | -- mit jn. [un- | فَوْق
 | فَايَّرَ s | باعَدَ s | نَافَرَ s | -trennb.]
 | رَجَعَ a | -- | -wiegen vn. a
 | اسْتَظْهَرَ عَلَى | فاق u | ظَفَرَ a | بِ
 | -wiegend a. | فَائِق | رَاجِع | -winden

va. jn. s i | غَلَبَ | -winder s. m.
 | غَالِب | -windung s. f. | غَلَبَةٌ
 | شَتَا | i | -wintern vn. u
 | اقْتَبَّ ه | -wölben va etw. | الشِّتَاءِ
 | اقْتَطَرَ ه | -wuchern va. etw. | غَطَى ه
 | بَتَكَاتُر | -wurf s. m. (der frauen,
 | أَزْر | pl. | اِزَار (weißer, leinener)
 | مِلَايَةَ * | مَلَاءَةٌ (farbiger) --
 | أَكْثَرَ | -zählen | أَغْلَبَ | s. f. | -zahl
 | عَدَّ ه | -zählig a. | عَدَّ ه u
 | زَائِد عَلَى الْعَدَدِ الْمَحْدُودِ | -zeugen
 | أَقْنَعَ s | حَقَّقَ ه لَهُ | * | ب | -va. jn. von
 | قَنِعَ a | تَحَقَّقَ ه | * | ب | - | sich --
 | إِقْنَاعَ * | -zeugung s. f. | تَحَقَّقَ |
 | -ziehen va. etw. mit | إِعْتِقَادِ |
 | غَطَى ه | ein | ه | ب | |
 | غَزَا u | -Land mit Krieg -- | الْمَمْلَكَةَ --
 | تَغَيَّمَ (Himmel) | -zieher | -- | sich --
 | ثَوَّبَ فَوْقَانِي | -zug | بِالطَّوْ * | s. m.
 | أَغْطِيَةَ pl. | غِشَاءِ pl. | غطاء s. m.
 | مُنْحَرَفًا | -zwerch adv. | أَغْشِيَةَ |
 | بِالْوَرْبِ * | | إِعْوَجَاجًا |
 | مُسْتَعْمَلِ | مُعْتَادِ | عَادِي | a. | üblich
 | باقِي | jn. etw. - | باقٍ | a. | übrig
 | أَبْقَى ه لَهُ | | أَبْقَى ه لَهُ | |
 | بَقِيَ | die -en | بَقِيَ | a. | -bleiben
 | ما عَدَا ذَلِكَ -en | im | ال... | -ens

adv. | وَغَيْرِ ذَلِكَ | ما عدا ذلك
وَلَكِنْ.

Übung s. f. | رِيَاضَةٌ | تَدْرِيبٌ | تَمْرِينٌ
مُمَارَسَةٌ | عَمَلٌ.

Ufer s. n. | سَاحِلٌ | شَوَاطِئُ pl. شَاطِئُ
| ضِيقَةٌ | شُطُوطٌ pl. شَطَطٌ | سَوَاحِلٌ pl.
-los a. bld. | غَيْرٌ مُخَدَّدٌ.

Uhr s. f. | سَاعَةٌ | ساعاتٌ pl. -feder
s. f. | زُنْبُرُكَ السَّاعَةِ | -fette s. f.
| أَوْسُنِيكَ * | {vr. | كُوسْتَاكَ *
-macher s. m. | ساعاتِيٌّ | -schlüssel
s. m. | مِفْتَاحُ السَّاعَةِ | -werf s. n.
مَجْمُوعٌ دَوَلِيْبُ السَّاعَةِ.

Uhu s. m. zool. | نَوْعٌ مِنَ البُومِ.

Ufas s. m. | فَرْمَانٌ قَيْصَرُ رُوسِيَا.

Ulan s. m. | نَوْعٌ مِنَ الخَيَْالَةِ الأَلْمَانِيَّةِ.

Ulema s. m. | عُلَمَاءٌ pl. عَالِمٌ.

Ulf s. m. | أُضْحُوْكَةٌ.

Ulme s. f. bot. | شَجَرَةُ البَقِّ | دَرْدَارٌ
بُوقِيصَا *.

Ultimatum s. n. | آخِرُ الكَلَامِ.

um praep. c. acc., um . . . herum

| بِ | لَدَى | بِالقُرْبِ مِنْ | حَوْلٌ
| بِسَبَبِهِ | لِأَجْلِهِ | um js. willen
-ändern va. etw. | غَيَّرَ هـ | -ände-
rung s. f. | تَغْيِيرٌ | -arbeiten va.

etw. | أَعَادَ عَمَلَهُ | -arbeitsung s. f.
| عَانَقَ هـ | -إِعَادَةُ عَمَلِهِ
-armung s. f. | مُعَانَقَةٌ | عِنَاقٌ
-bau s. m. | تَغْيِيرُ البِنَاءِ | -bauen
va. etw. | غَيَّرَ بِنَاءَهُ | -biegen va.
etw. | عَطَفَ هـ | حَنَا هـ u
| حَادَ هـ | عَنِ الطَّرِيقِ | اِنْحَنَى
-binden va. etw. | رَبَطَ هـ i, u
| -blasen va. etw. | شَدَّ هـ i, u
| -blicken v. f. | رَمَى هـ i | بالنَّفْعِ
-sehen | -brechen v. f. | brechen |
-bringen va. jn. هـ u | قَتَلَ هـ | أَهْلَكَ هـ
-drehen va. etw. | أَدَارَ هـ | قَلَبَ هـ i
-drehung s. f. | دارٌ -- u | -ich | قَلَبَ هـ
s. f. | دَوْرَانٌ | دَوْرٌ | -fall s. m. | سَقُوطٌ
| وَقَعَ هـ | سَقَطَ u | -fallen vn. | وَقُوعٌ
-fang s. m. | دَائِرَةٌ | مُحِيْطٌ | -fangen va. etw. | أَحَاطَ بِ
-fassen va. etw. | عَانَقَ هـ | جَمَلٌ u هـ | حَوَى هـ i | أَحَاطَ بِ
-fassung s. f. | اِسْتَمَلَ عَلَى | اِحْتَوَى عَلَى
s. f. | إِحَاظَةٌ | سِيَاجٌ | حَايِطٌ
va. jn. | حَامَ u | حَوَّلَهُ | -fliegen va.
jn. | طَارَ هـ i | حَوَّلَهُ | -fluten va. etw. | جَرَى هـ i
| أَحَاطَ بِهِ -- | سَالَ هـ i | حَوَّلَهُ | -formen va. etw. | حَوَّلَ صُورَتَهُ

-frage s. f. سُؤَالٍ عِنْدَ جُمْلَةٍ مِّنْ
-frieden va. | أَسْئَلُهُ pl. الْأَشْخَاصِ
etw. أَحَاطَ بِـِ

Umgang s. m. تَطَوَّفَ أَحْتِفَالِيًّا |
- mit jm. مُخَالَطَةً | مُعَاشَرَةً
| mit jm. - haben, pflegen
| مُصَاحَبَةً | عَاشَرَ هـ | خَالَطَ هـ |
-sprache s. f. | لُغَةً دَارِجَةً

umgänglich a. حَسَنٌ | أَنْيَسُ
حُسْنٌ | أَنْسٌ s. f. | الْمُعَاشَرَةُ
| الْمُعَاشَرَةُ

um-garnen va. jn. هـ | فَتَنَ هـ |
-geben va. | أَغْرَى هـ | سَبَى هـ
jn. u. etw. أَحَاطَ بِـِ |
-gebung s. f. (einer Person) مُعَاشَرَةً
جِوَارِ (eines Ortes) -- | شَخْصِيًّا
| ضَوَاحِي بَلَدٍ | نَوَاحِي بَلَدٍ |
بَلَدٍ | أَطْرَافَ بَلَدٍ |
-gend s. f. (eines Ortes) |
ضَوَاحِي بَلَدٍ | جِوَارِ بَلَدٍ (Ortes)
-gehen va. etw. (vermeiden) [un-
trennb.] | لَجَنَّبَ هـ -- vn. [trennb.]
| عَاشَرَ هـ | -- mit jm. | حَوْلَ
u. دار | -- mit etw. |
أَسْتَعْمَلَ هـ -- | خَالَطَ هـ
| تَأَمَّلَ فِي -- |
-gehend adv. | بِرُجُوعِ الْبُوسْطَةِ
| -gekehrt a. | بِالسُّرْعَةِ الْمُمْكِنَةِ
| --adv. | مَعْكُوسٍ | مَقْلُوبٍ

f. -fehren | -gießen va. etw.
| سَبَكَ هـ u. ثَانِيًّا | -graben va.
| حَفَرَ i الْأَرْضَ عَمِيْقًا | -grenzen
va. etw. | حَدَّدَ هـ | -gucken v. f.
-sehen | -gürten va. | سَافَرْتُ
| سَبَكَ هـ | قَلَّدَ هـ السَّيْفَ |
-guß s. m. | لَيْسَ ا هـ |
-haben va. etw. | ثَانِيًّا |
-haben va. etw. | حَفَرَ i
va. jn. | عَانَقَ هـ | -hang s. m. |
إِزَارَ pl. | سَتَائِرَ pl. | سِتَارَةَ |
أَزْرَ pl. | -hängen
va. etw. | حَوَّلَهُ هـ |
-hauen | عَلَّقَ هـ |
va. etw. | رَمَى هـ i
| أَوْقَعَ هـ

umher adv. | حَوْلَ | -fahren vn.
| جَالِ u. | بِهـ | -führen va. jn.
| جَالِ u. | -gehen vn. u. |
-irren vn. u. | جَالِ i |
| تَافَ u. | -kommen vn., -laufen
vn., -reisen vn. u. | جَالِ |
-streifen vn., -ziehen vn. u. |
جَالِ u. | تَافَ u. |
لَمْ يَفْعَلْ -- |
| نَجَّبَ هـ |
| نَجَّبَ هـ |

um-hüllen va. etw. هـ | عَطَى هـ |
| رُجُوعِ | سَتَرَ هـ |
-kehr s. f. | قَلَّبَ هـ |
-fehren va. etw. | رَجَعَ i
| عاد | u. | آبَ |

-fippen va. etw. ه | قَلَب -- vn.
 -flammern va. etw. | اِنْقَلَب
 -fleiden va. jn. | عَانَق ه | شَدَّ u ه
 - | غَيْرَ ثِيَابَةٍ [trennb.] va. jn.
 - | اَلْبَسَ هِب [untrennb.] etw. mit
 -kommen vn. u | مَات i | هَدَكَ
 a | تَلَف - | freis s. m. دائِرَةٌ pl.
 | دَار u حَوْلُهُ - | freifen va. jn. | دَوَائِر
 | جَرَيَان | دَوْرَان | دَوْر - | lauf s. m.
 - | رَوَاج الدَّرَاهِم (des Geldes) --
 | جَال u | جَرَى i | دار - | laufen vn.
 u | رَاج - | laut s. m. gr. تَغْيِير
 | الحَرَكَة - | lauten va. etw. غَيْرَ
 | لَغَن - | legen va. | غَيْرَ حَرَكَتَهُ | صَوْتَهُ
 etw. | وَضَعَ a ه | حَوْلَ - | (Klei-
 dungsstück) | اَلْبَسَ الثَّوْبَ -- | sich
 | اَدَار ه | - | lenken va. etw. | اِنْحَنَى
 - | دار مِّن . . . إِلَى . . . vn. --
 - | مَبْجُور - | mauern va. | لِيْغَنْد a
 | حَوَّط ه | بِسُور | سَوَّر ه | etw.
 - | غَطَّى ه | ظَلَمًا - | nachten va. etw.
 - | غَطَّى ه | ضَبَابًا - | nebeln va. etw.
 - | تَغَطَّى بِ | nehmen va. etw.
 - | تَزَمَّلَ فِي | اِرْتَدَى بِ | Mantel --
 | اَلتَّنْفَ فِي - | pflanzen va. Baum
 | نَقَلَ u | الشَّجَرَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِع
 | دَمَّر ه | هَدَمَ i ه | - | reißen va. etw.

-reiten va. jn. | اَسْقَطَ ه | رَاكِبًا
 -rennen va. jn. | اَسْقَطَ ه | رَاكِبًا
 -ringen va. jn. | اَحَاطَ بِهِ -
 | دَائِرَةٌ | دَوْر | ما حَوْلَ الشَّيْءِ s. m.
 | اِسْتِدَارَةٌ - | ritt s. m. | جَوْلَان
 | حَرَّكَ ه | - | rühren va. etw. | الرَّاكِب
 - | فَاطَ s. m. (von Waren) | خَوَّضَ ه
 | رَاج u | - | haben -- | رَوَاج البَضَائِعِ
 | غَيْرَ صُورَتِهِ - | schaffen va. etw.
 - | ظَلَّلَ ه | - | schau | ظَلَّلَ ه
 s. f., - | - | halten | حَوْلَهُ u | نَظَرَ
 | نَظَرَ u | حَوْلَهُ | sich | - | schauen v.
 - | بِالدَّوْر - | schlag | بِالدَّوْر
 s. m. (des Wetters zc.) | تَغْيِير
 | رَوَاج (Waren-- --) | الهَوَاءِ النَّمِ
 | ثِنَى (an Kleidern) -- | البَضَائِعِ
 | حَوَائِشِ pl. | حَاشِيَّة | اَتْنَاء pl.
 | ظَرْفِ الخِطَاب (Brief-- --) --
 | ظُرُوف (um einen franken
 Teil) | مَرَاهِم pl. | مَرَهَم | لَزَقَةَ
 | لَبَّخَات pl. | لَبَّخَةٌ * | schlagen va.
 | اَلْفَ u هِب | وَضَعَ a ه | حَوْلَ - | etw. um
 -- | شَمَّرَ الثَّوْبَ - | Papier --
 | قَلَبَ i | الِوَرَق (-) vn. -- | (-) fallen
 | اِنْقَلَب (-) -- | sich verändern
 | اِسْتَدَارَ s. n. | شَالَ - | schlagetuch
 va. etw. | اَحَاطَ بِ -- | jn. (mit

den Armen) * عَانَقَ | -fchlingen
 va. etw. هِ | التَّفَّ حَوْلَ | لَفَّفَ هِ
 - - jn. (mit den Armen) * عَانَقَ |
 -fchmeißen va. f. -werfen | -fchmel-
 zen va. etw. هِ | آذَابَ هِ | ثَانِيًا
 | سَبَكَ هِ | ثَانِيًا
 Degen jm. هِ | السَّيْفِ | قَلَّدَ هِ
 -fchnüren va. etw. هِ | بَبْرِيْمَ | شَدَّ هِ
 -fchreiben va. etw. هِ | فِي | أَدَارَ هِ
 | عَرَّضَ هِ | فِي | الكَلَامِ | الكَلَامِ
 -fchreibung s. f. | الكَلَامِ | فِي | دَوْرَ
 -fchrift s. f. | تَعْرِيضَ فِي | الكَلَامِ
 einer Münze | كِتَابَةَ فِي | دائِرَةَ | النَّقْدِ
 -fchütteln va. etw. هِ | هَزَزَ هِ | -fchütten
 va. etw. هِ | هِ | * | صَبَّ هِ | هِ
 -fchweben va. jn. | حَوْلَهُ | هِ | طَارَ هِ
 -fchweif s. m. | دَوْرَةَ | | عَطْفَةَ | هِ
 -fchwung s. m. | تَغْيِيرَ | هِ | -fegeln
 va. (ein Vorgebirge) | رَأْسًا | هِ | جَازَ هِ
 | نَظَرَ هِ | فِي | هِ | -fehen v. | (مَرْكَبَ)
 | نَظَرَ هِ | فِي | هِ | وَرَاءَهُ | حَوْلَهُ
 -fehen | بَحَثَ هِ | عَنِ | | التَّنَفَّتْ إِلَى
 s. n., im - - | فِي | لَحْظَةٍ | - -
 -fehen va. | الشَّجَرَةَ | هِ | نَقَلَ هِ
 (Waren, Geld) - - | فِي | غَيْرِ | مَوْضِعَ
 | بَدَّلَ هِ | | حَوْلَ | البَضَائِعِ | أَوْ | المَالِ
 | اِحْتِرَاسَ | | بَصِيرَةَ | هِ | -ficht s. f. | باعَ هِ

-fichten a. | مُخْتَرِزَ | هِ | -finfen
 vn. u. | سَقَطَ | هِ | وَقَعَ هِ.

umfonft adv. (vergeblich) | عَبَثًا | هِ
 | مَجَانًا (gratis) - | | بِلا | فَايْدَةَ | | باطِلًا
 * | بَلَاشَ | هِ.

um-fpannen va. etw. [untrennb.]
 -- vn. [trennb.] | شَبَّرَ هِ | شَبَّرَ هِ
 -fpielen va. | عَيَّرَ | حَيْلَ | العَرَبَةِ
 jn. | لَعِبَ | هِ | حَوْلَهُ | هِ
 - - mit | تَغْيِيرَتِ | الرِّيمِ | (Wind)
 jm. * | عَامَلَ | هِ.

Umftand s. m. | أَحْوَالَ | pl. | حال
 | حالات | pl. | Umftände
 (förmlichkeiten) * | تَكْلِيْفَ | هِ | Um-
 ftände machen * | كَلَّفَ | خَاطِرَهُ *
 | بلا | تَكْلِيْفَ * | ohne Umftände
 in andern Umftänden (frau)
 | حُبْلَى | | حَامِلَ | (امْرَأَةً).

umftändlich a. | مُفَصَّلَ | هِ | مُفَرَّقَ | هِ
 -feit s. f. | تَقْطِيعَ | | تَقْصِيلَ | هِ.

um-ftehend a. | حَاضِرَ | | die - - en
 | الحَاضِرُونَ | - - (auf der andern
 Seite) | فِي | الصَّفِيْحَةِ | الأُخْرَى | هِ
 -fteigen vn. | العَرَبَةَ | هِ | اِنْتَقَلَ مِنْ
 -ftellen va. etw. [trennb.] | فِي | السَّفَرِ
 - - jn. mit [un- | غَيْرِ | مَوْضِعَهُ
 trennb.] | أَحَاطَ بِ | -ftimmen va.

-bedacht a. طَائِثِي | عَادِمِ التَّأَمُّلِ
 -bedacht s. m. | خَفِيفِ الْعَقْلِ
 | حِقَّةِ الْعَقْلِ | طَيْثِي | عَدَمِ التَّأَمُّلِ
 -bedachtsam a. f. -bedacht | be-
 dachtsamkeit s. f. f. -bedacht |
 -bedeutend a. غَيْرِ مُهِمِّ |
 | جُزْئِيٍّ | غَيْرِ مُهِمِّ
 -be- | قَلِيلِ الْعَدَدِ أَوْ الْقِيَمَةِ
 deutendheit s. f. عَدَمِ الْأَهْمِيَّةِ |
 -bedingt a. مُطْلَقٍ | -befangen a.
 -be- | عَادِمِ الْأَعْرَاضِ | غَيْرِ مُتَحَيِّرٍ
 fangenheit s. f. عَدَمِ التَّحَيَّرِ
 سالمٍ مِنْ | -befleckt a. | الْأَعْرَاضِ
 -befleckt s. f. | طَاهِرٍ | دَنَسٍ
 -be- | طَهَارَةٍ | سَلَامَةٍ مِنْ دَنَسٍ
 friedigend a. غَيْرِ كَافٍ |
 -begreiflich a. غَيْرِ مُمَكِّنِ إِدْرَاكِهِ
 | غَيْرِ مُحَدَّدٍ | -begrenzt a. | لَا يُفَوِّمِ
 -behagen s. n. | رَعَمٍ * |
 haglich a. | كَرِبِهِ | غَيْرِ مَقْبُولٍ
 -behilfflich a. | خَرْقَاءِ f. | أَخْرَقَ
 -befannt | غَشِيمٍ * | غَمِيٍّ | خُرْقٍ pl.
 | غَيْرِ مَعْلُومٍ | غَيْرِ مَعْرُوفٍ a.
 | ثَقِيلٍ | -bequem a. | مَجْهُولٍ
 -bequem- | مُتَعَبٍ | عَسِرٍ | صَعْبٍ
 lichkeit s. f. | ضَيْقٍ |
 rechenbar a. | مُسْتَحِيلِ إِحْصَاؤِهِ
 -berührt a. | خَالِصٍ | بَكْرٍ | سَالِمٍ

-ansehnlich a. | كَرَاهِيَةٍ pl.
 -ansehn- | لَا يُعْتَبَرُ | عَادِمِ الْأَهْمِيَّةِ
 lichkeit s. f. | عَدَمِ الْأَهْمِيَّةِ
 -anständig a. | الْأَعْتِبَارِ
 -anständigkeit | فَاحِشٍ | الْأَدَبِ
 pl. | فَاحِشَةٍ | عَدَمِ الْأَدَبِ s. f.
 -art s. f. | عَدَمِ الْأَدَبِ | فَوَاحِشٍ
 -artig a. | (لِلْوَلَدِ خُصُوصًا)
 -auf- | مُؤَدَّبٍ | (لِلْوَلَدِ خُصُوصًا)
 haltfam a. | لَا يُمَكِّنُ تَوْقِيفُهُ
 -ausbleib- | بِلَا أَنْقِطَاعٍ
 lich a. | لَا شَكَّ فِي | لَا بُدَّ مِنْهُ
 -ausführbar a. | مُقَدَّرٍ | حَدُوثِهِ
 | مُحَالٍ | مُسْتَحِيلٍ | غَيْرِ مُمَكِّنِ
 -ausführbarkeit s. f. | عَدَمِ الْإِمْكَانِ
 | بِلَا أَنْقِطَاعٍ | -ausgesetzt a. | إِسْتِحَالَةٍ
 -auslöschlich a. | لَا يُمَكِّي
 | فَائِقِ الْوَصْفِ | -aus-
 -en | مُسْتَحِيلِ لَفْظِهِ
 | لِلْغَايَةِ | - - | الْبَنْطُلُونَ *
 -ausstehlich a. | غَيْرِ مُمَكِّنِ آحْتِمَالِهِ
 -bändig a. | غَيْرِ قَابِلٍ | ثَقِيلٍ
 | زَائِدٍ | غَيْرِ قَابِلِ الطَّاعَةِ | التَّأْدِيبِ
 - - | لِلْغَايَةِ | - - | adv.
 -barmherzig a. | جَافٍ | قَاسٍ | عَادِمِ الشَّفَقَةِ
 -barm- | عَدَمِ الشَّفَقَةِ |
 herzigkeit s. f. | مُرَدٍ pl. | أَمْرَدٍ | قَسَاوَةِ

-berührtheit s. f. بَكَارَةٌ | سَلَامَةٌ
 -beschadet praep. c. gen. | خُلُوص
 -beschäftigt a. بَطَّال | غَيْرُ مَشْغُولٍ | مَعَ الْأَحْتِرَامِ لِ | حِفْظًا لِ
 -bescheiden a. | غَيْرُ مُتَوَاضِعٍ | فَاضٍ
 -bescheidenheit s. f. | عَدَمُ التَّوَاضُعِ
 -beschneiden a. | قُلْفٌ pl. | أَقْلَفٌ
 -bescholten a. | صَالِحٌ | لَا عَيْبَ فِيهِ
 -bescholtenheit s. f. | مُسْتَقِيمٌ | مُسْتَقَامَةٌ | صِلَاحٌ | عَدَمُ الْعَيْبِ
 -beschränkt a. | غَيْرُ مُقَيَّدٍ | مُطْلَقٌ
 -beschreiblich a. | غَيْرُ مُحَدَّدٍ
 -besonnen a. | طَائِشٌ | لَا يُوصَفُ
 -besonnenheit s. f. | طَيْشٌ
 -bestand s. m. | غَيْرُ خَائِفٍ
 -beständig a. | قَلْبٌ | قَلِيلُ الثَّبَاتِ | تَقَلُّبُ الْأُمُورِ | عَدَمُ الْقَرَارِ
 -beständig- | مُتَغَيِّرٌ | مُتَلَوِّنُ الطَّبَعِ
 -beständig- | عَدَمُ الْقَرَارِ | قِلَّةُ الثَّبَاتِ
 -bestechlich a. | غَيْرُ قَابِلِ الْبِرْطِيلِ
 -bestechlichkeit s. f. | عَدَمُ التَّبْرُطِ
 -bestimmt a. | غَيْرُ مُعَيَّنٍ
 -bestimmtheit s. f. | غَيْرُ مُعَرَّفٍ | مُحَدَّدٌ
 -bestreitbar s. f. | عَدَمُ التَّعْيِينِ
 -bestritten a. | لَا خِلَافَ فِيهِ
 -beträchtlich a. | غَيْرُ مُهِمٍّ
 -beugsam a. | ثَابِتٌ

عَادِمٌ | جَامِدٌ -beweglich | ثَبَاتٌ
 -e Güter | لَا يُنْقَلُ | ثَابِتٌ | الْحَرَكَه
 -beweglichkeit s. f. | عَدَمُ الْعَقَارَاتِ
 -bewohnbar a. | ثَبَاتٌ | الْحَرَكَه
 -bewußt a. | لَا يَصْلُحُ لِلْسُّكْنَى
 -تون معرفتي - - mir | مَجْهُولٌ
 -billig | تَعَدَّى | ظَلَمٌ | جَوْرٌ
 -billig a. | جَائِرٌ | بَاغٌ | مُخَالِفُ الْعَدْلِ
 -billigkeit s. f. | ظَالِمٌ | جَوْرٌ | بَغْيٌ
 -brauchbar a. | ظَلَمٌ | غَيْرُ نَافِعٍ
 -brauchbarkeit s. f. | عَدَمُ النِّفْعِ | لَا طَائِلَ تَحْتَهُ | بَاطِلٌ | غَيْرُ مُفِيدٍ
 -christlich a. | مُخَالِفُ الرُّسُومِ
 الْمَسِيحِيَّةِ.

so - | ف | وَ (العطف) und conjct.
 weiter | إِلَى آخِرِهِ (abg. النح).

Un-dank s. m. | إِنْكَارُ الْجَمِيلِ
 -dankbar a. | نَاكِرُ الْجَمِيلِ
 -denkbar a. | إِنْكَارُ الْجَمِيلِ
 -denklich a. | مُسْتَحِيلٌ | تَخَيُّلُهُ
 | سَابِقُ كُلِّ تَأْرِيخٍ | مُسْتَحِيلٌ | تَخَيُّلُهُ
 -deutlich a. | مُبْهِمٌ | غَيْرُ وَاضِعٍ
 -deutlichkeit s. f. | عَدَمُ الْوُضُوحِ
 | وَهْمٌ | خَيْالٌ | دِنْجٌ s. n. | إِنْجَاهٌ
 -duldsam | شَيْءٌ مُخَالِفُ الصَّوَابِ
 | مُتَعَصِّبٌ (فِي الدِّينِ خُصُوصًا)
 -duldsamkeit s. f. | تَعَصُّبٌ (فِي الدِّينِ)

(durchdringlich a. | خُصُوصًا) |
 bld. | لا يُنْفَذُ | لا يُمَكِّنُ نُفُودَهُ
 (durchsichtig a. | لا يُفْهَمُ | لا يُدْرِكُ
 | غير متساوٍ | eben a. | غير شفاف
 | ebenheit s. f. | عَدَمُ التَّسَاوِي
 | مزور | echt a. | عَدَمُ اللَّاعْتِدَالِ
 | رنبيء | edel a. | غير خالص | مُصَنَّع
 | غير خالص (Metall) | -- | خَسِيس
 | -- es Kind | ehelich a. | (مَعْدِن)
 | نغيل | ابن زناء | ابن حرام
 | ehrbar a. | بناديق pl. | بُنْدُوقُ *
 | ehrbarkeit s. f. | مُحَالِفُ الحِشْمَةِ | فاحش
 | ehre s. f. | فاحشة | فاحش
 | ehrlich a. | عار | عيب
 | ehrlichkeit s. f. | رذيل | غير مستقيم
 | قباحة | فضاحة | رذل s. f.
 | اخال عن الغرض | eigenmützig a.
 | عَدَمُ الغَرَضِ | eigenmützigkeit s. f.
 | غير | غير أصلي | eigentlich a.
 | einig a. | غير وضعي | مناسب
 | -- | fein od. | متباعد | متنافر
 | einigkeit | -- | تُبَاعِدُ | تُنَافِرُ
 | werden | einigkeit s. f. | شقاق | اِخْتِلاف
 | od. werden | تُبَاعِدُ | تُنَافِرُ | اِخْتَلَفَ
 | لا يؤثر | عادم الحس | empfindlich a.
 | empfindlichkeit s. f. | فيه شيء
 | endlich a. | عَدَمُ التَّأَثُّرِ

| لِلْغَايَةِ | جِدًّا | -- | لا يُحْصَى
 | -- | adv. | -- | لا يُحْصَى
 | -- | entbehrl. | -- | خُلُود
 | -- | entbehrl. a. | لا بُدَّ مِنْهُ
 | -- | entgelt. | -- | ضَرُورَةٌ
 | -- | enthalt. | -- | بلاش * | مَجَانًّا
 | -- | enthalt. | -- | شَبِيقُ | غير عفيف
 | -- | enthalt. | -- | شَبِيقُ | عَدَمُ العِقَّةِ
 | -- | entschieden (Sache) | -- | مَحْتَمُوم
 | -- | -- | (Person) | مُتَرَدِّدُ
 | -- | -- | -- | مُتَرَدِّدُ
 | -- | entschiedenheit s. f. | تَرَدُّدُ
 | -- | entschlossen a. | عَادِمُ العَزْمِ
 | -- | entschlossenheit s. f. | عَدَمُ العَزْمِ
 | -- | erbittlich a. | لا يَتَلَبَّنُ | تَرَدُّدُ
 | -- | erfahren a. | غير مُجَرَّبِ
 | -- | erfahrenheit s. f. | عَدَمُ
 | -- | erfreulich a. | غير مَقْبُولِ | الحُبْرَةِ
 | -- | bld. | -- | لا يُسْبَرُ | ergründlich a.
 | -- | erheblich a. | لا يُفَوِّمُ | لا يُدْرِكُ
 | -- | erhört a. | غير مُهِمِّ
 | -- | erflärlich a. | غير | غَرِيبِ | مَثْلُهُ
 | -- | erlaubt | -- | لا يُفَوِّمُ | مُمْكِنُ شَرْحِهِ
 | -- | e Sache | -- | مُنْكَرِ | مُحَرَّمِ
 | -- | ermäßig a. | لا يُقَدَّرُ | لا يُقَاسُ
 | -- | er. | -- | adv. | لِلْغَايَةِ | غير مُحَدَّدِ
 | -- | ersättlich a. | لا يَتَّعَبُ | ermüdl. a.
 | -- | ersättlichkeit s. f. | شره | لا يَشْبَعُ
 | -- | erschöpflich a. | شره | لا يُفْرَغُ

-gestüm s. n. حِدَّة | فَوْران | شِدَّة
 -gesund a. (Speise) مُضِرّ | الطَّبْع
 وابل (هواء) (Sand) -- | (الطعام)
 (Menich) -- | وَخِيم | وَبِيل | البِلاد
 -gethüm | سوء المزاج (إنسان)
 s. n. ا. -geheuer | -getreu a. عَادِم
 -gewiß | خَائِن | غَيْرَ آمِين | الوَفاء
 ا. غَيْرَ مُحَقِّق | مَشْكُوك فِيهِ
 -gewißheit s. f. شَك | زَيْب
 زَوْبَعَة | -gewitter s. n. اِرْتِيَاب
 pl. زَوَابِع | -gewöhnlich a. غَيْر
 -gewohnt a. | غَيْرَ مَأْلُوف | مُعْتَاد
 البراغيث s. n. -geziefer | غَيْرَ مُعْتَاد
 والقمل والبَقّ وَغَيْرُهَا مِنَ الحَوَامّ
 -gezogen a. | غَيْرَ آدِيب
 -gezwungen s. f. | عَدَمَ الآدَب
 ا. | مَطْلُوق العِنان | غَيْرَ مُرْتَبِك
 غَيْرَ | سَهْل السُّلُوك | رَشِيق *
 -gezwungenheit s. f. | طَبِيعِيّ | مُصَنِّع
 | سُهولة السُّلُوك | عَدَمَ التَّصَنُّع
 -glaube s. m., -glauben s. m.
 -gläubig a. | زَنْدَقَة | كُفْران | كُفْر
 كُفْرَة u. كُفْرُون u. كُفَار pl. كَافِر
 | زَنْدَقَة pl. زَنْدِيق | كِفار u.
 -glaublich a. | لا يُصَدِّق
 -gleich a. | مُخْتَلِف | غَيْرَ مُتَساوٍ
 | اِخْتِلاف | عَدَمَ التَّساوِي s. f.

-glimpf s. m. عَدَمَ الإِنصاف |
 -glück s. n. | سُوء الحَظّ | خُشُونَة
 | مَصَائِب pl. مُصِيبَة | بَلايا pl. بَلِيَّة
 -glücklich a. | دَوَاء pl. دَاهِيَة
 | مَنكُود الحَظّ | عَادِم الحَظّ (Person)
 (Sache) -- | تَعِيس | مَسُووم | شَقِي
 | نَحْس | شُوْمِي f. أَشَام | آتِ بِسُوء
 - - fein | - - er Weise الحَظّ - -
 | تَعِيس a | - - machen *
 -glücklich a. | -glücklich a. |
 fall s. m. | مُصِيبَة pl. مَصَائِب
 -gnade s. f. | زَوَال الحُطُوة
 | in - - | سَقُوط الحُرْمَة | النِعمَة
 - - | fallen bei jm., sich die - - |
 | -gnädig a. | فَقد حُطُوتَهُ
 | باطل | -gültig a. | مُعْتَاظ | قاسٍ
 | فاسِخ | غَيْرَ صَحِيح | غَيْرَ شَرَعِيّ
 | بَطْلان | بَطْل s. f. | -gültigkeit
 | مُخَالَفَة s. f. | عَدَمَ الصِّحَة
 | مُناقِص | مُضادّ | مُخَالَف
 -gut, nichts für - - | لا تُؤاخِذْنِي !
 -heil s. n. | مُصِيبَة | بَلِيَّة
 -heilbar a. | لا شِفاء لَهُ
 -heilig s. f. | اِسْتِحالة الشِفاء
 | دُنْيَوِيّ | تَنْجِيسِيّ | تَدْنِيسِيّ
 | آتِ بِسُوء a. | -heilvoll a. | عالمِيّ
 -höflich a. | غَيْرَ لَطِيف

-höf. | غَلِيظٌ | خَشِينٌ | غَيْرُ أَدِيبٍ
 lichkeit s. f. | عَدَمُ الْأَدَبِ |
 -hold s. m. | رَجُلٌ خَبِيثٌ.
 Uniform s. f. | لِبْسٌ رَسْمِيٌّ *
 Union s. f. | اتِّحَادٌ.
 universal a. | كُلِّيٌّ | عُمُومِيٌّ | عَامٌ
 Universität s. f. | كُتَيْبَةٌ |
 امْدْرَسَةُ الْكُبْرَى
 Unfe s. f. | ضِفْدَعٌ كَبِيرٌ pl.
 Unkenntnis s. f. | عَدَمُ الْمَعْرِفَةِ |
 | فَاجِرٌ | عَاهِرٌ | غَيْرُ عَفِيفٍ a.
 | فَاحِشٌ | فَاسِقٌ | فَاسِقِيَّةٌ s. f.
 | فَسُقٌ | فَجُورٌ | عَهَارَةٌ | عَدَمُ الْعِفَّةِ
 -flar a. (Wasser) | عَاكِرٌ | - (un-
 deutlich) | -flar- | مُبَيَّنٌّ | غَيْرٌ وَاضِعٌ (deutlich)
 | إِبْهَامٌ | عَدَمُ الْوُضُوحِ s. f.
 -flug a. | مُعَقَّلٌ | قَلِيلُ الْعَقْلِ
 | - | مُخَالِفُ الْعَقْلِ (Sache) - -
 | تَعَاوُلٌ | قِلَّةُ الْعَقْلِ s. f. -flugheit
 | -kosten s. pl. | مَا يُضَادُّ الْعَقْلَ
 pl. | مَصْرُوفٌ * | نَفَقَاتٌ pl. نَفَقَةٌ
 | زِيَانٌ s. n. -fraut s. n. | مَصَارِيفُ
 | غَيْرٌ a. -fundig a. | شَيْئٌ | زِيَانٌ
 | مُنْذُ زَمَنٍ adv. -längst a. | خَبِيرٌ
 | غَيْرٌ خَالِصٌ a. -lauter a. | قَلِيلٌ
 | -lesbar a. | لا يُحْتَمَلُ a. -leidlich
 | -läugbar a. | لا يُقْرَأُ a. -

-lust | لا رَيْبَ فِيهِ | لا يُمَكِّنُ إِتْكَارَةً
 s. f. | رَغْمٌ * | -männlich a.
 | عَدَمُ الْمَرْوَةِ -männlichkeit s. f.
 | زِيَادَةٌ | كَثْرَةٌ s. f. -masse
 | الْمَرْوَةُ -maße s. f. | غَيْرٌ مُجْبِرٌ
 | وَفُورٌ -maßgeblich a. | غَيْرٌ مُوجِبٌ
 -mäßig a. | غَيْرٌ مُعْتَبَرٌ | غَيْرٌ مُوجِبٌ
 | مُبَالِغٌ | بِلا قِيَاسٍ | زَائِدٌ | مُفْرَطٌ a.
 | أَفْرَطٌ | - - | - | مُجَاوِزُ الْأَعْتِدَالِ
 | زِيَادَةٌ | إِفْرَاطٌ s. f. -mäßigkeit
 -menge | عَدَمُ الْأَعْتِدَالِ | مُبَالِغَةٌ
 s. f. | -masse | -mensch s. m.
 | رَجُلٌ وَحَشِيٌّ الطَّبَعِ | رَجُلٌ قَاسٍ
 | عَادِمٌ الْإِنْسَانِيَّةِ a. -menschlich
 | - (sehr groß) | - | قَاسِيُ الْقَلْبِ
 -mensch- | لِلْغَايَةِ adv. | - | عَظِيمٌ
 | قَسَاوَةٌ | عَدَمُ الْإِنْسَانِيَّةِ s. f. -lichkeit
 | عَامِلٌ بِدُونِ وَاسِطَةٍ a. -mittelbar
 | غَيْرٌ a. -möglich a. | مُتَوَالٍ | مُتَتَابِعٌ
 -möglich a. | مُسْتَحِيلٌ | مُحَالٌ | مُمَكِّنٌ
 | إِسْتِحَالَةٌ | عَدَمُ الْإِمْكَانِ s. f. -lichkeit
 | غَيْرٌ بِالِغِ | قَاصِرٌ a. -mündig
 -mutig a. | مَلَلٌ | زَعَلَةٌ s. m. -mut
 | لا يُوَصَلُ إِلَيْهِ a. -nahbar a. | زَعْلَانٌ a.
 | مَنِيْعٌ | لا يُمَكِّنُ الْقُرْبَ مِنْهُ
 | مُخَالِفٌ الطَّبِيعَةِ a. -natürlich
 | لا يُذَكَّرُ a. -nennbar a. | الْإِنْسَانِيَّةِ
 | غَيْرٌ لَازِمٌ a. -nötig a. | فَائِقُ التَّعْبِيرِ

| غَيْرُ نَافِعٍ a. -nützig | | غَيْرٌ وَاجِبٌ
 | -ordentlich a. | باطِلٌ | | غَيْرٌ مُفِيدٌ
 | مُخَرَّبٌ* | | غَيْرٌ مُرْتَبٍ | | غَيْرٌ مُنَظَّمٌ
 | عَدَمُ التَّرْتِيبِ s. f. | | -ordnung
 | اِخْتِلَالٌ | | خَلَلٌ | | عَدَمُ النِّظَامِ
 | خَرَبَةٌ* | | هَوَشَاتٌ pl. | | هَوْشَةٌ
 | اِخْتَلَّ | | kommen, geraten | | in --
 | تَخَرَّبٌ* | | etw. in -- | | bringen
 | خَرَّبْتُ هَـ* | | شَوَّشْتُ هَـ | | أَخَلَّ بِـ
 | أَفْرَادٌ pl. | | فَرْدٌ (Ṣah) | | -paar
 | عَادِمٌ | | -parteilich a., -parteilich a.
 | -parteilichkeit | | مُنْصِفٌ | | الغَرَضُ
 | -paß | | اِنِّصَافٌ | | عَدَمُ الغَرَضِ s. f.
 | غَيْرٌ | | -paßlich a. | | -paßlich a. f.
 | -paßlich a. | | غَيْرٌ لَائِقٌ | | مُنَاسِبٌ
 | -paßlich- | | مُنْكَرِفُ المِزَاجِ | | مُشَوِّشُ
 | -feit s. f. | | اِنِّجْرَافُ المِزَاجِ | | تَشْوِيشُ
 | -es | | - | | غَيْرٌ شَخْصِيٌّ | | -persönlich a.
 | فِعْلٌ لَّا يُسْتَعْمَلُ | | Verbum
 | زَبُلٌ* | | -rat s. m. | | إِلَّا لِلْغَائِبِ
 | - | | وَسَنٌ | | قَدَّرٌ | | دَنَسٌ | | زُبَالَةٌ*
 | - | | رَاتِلِيحٌ a. | | ظَنَّ u بِحِيلَةٍ | | merken
 | -recht a. (-richtig) | | غَيْرٌ مُنَاسِبٌ
 | كَاذِبٌ | | غَيْرٌ حَقِيقِيٌّ | | غَيْرٌ صَاحِبٌ
 | مُخَالِفُ العَدْلِ (-gerecht) | | -
 | خَطَأٌ | | جَوْرٌ | | ظَلَمٌ | | -recht s. n.
 | Du hast --, Du bist im --

| im. | | مَحْقُوقٌ | | - | | im. | | الحَقُّ عَلَيْكَ
 | - | | thun s i | | ظَلَمٌ | | im. | | - | | geben
 | - | | حَاكِمٌ u عَلَيْهِ | | - | | rechtmäßig a.
 | مُخَالِفُ الشَّرِيعَةِ | | غَيْرٌ شَرْعِيٌّ | | - | | مخالif
 | عَدَمُ الشَّرِيعَةِ s. f. | | - | | rechtmäßigkeit
 | مُخَالِفَةُ الشَّرِيعَةِ | | - | | redlich a.
 | غَيْرٌ صَالِحٌ | | غَيْرٌ مُسْتَقِيمٌ (Person) | | -
 | مُخَالِفُ العَدْلِ (Sache) | | - | | -
 | عَدَمُ الأَسْتِقَامَةِ s. f. | | - | | redlichkeit
 | شَالًا | | غَيْرٌ قِيَاسِيٌّ | | - | | regelmäÙig a.
 | شُدُودٌ | | شَدٌّ | | - | | regelmäÙigkeit s. f.
 | رَيفٌ | | غَيْرٌ نَاضِجٌ | | - | | reif a.
 | عَدَمُ النُّضْجِ s. f. | | - | | reife s. f. | | غَيْرٌ مُسْتَوٍ*
 | دَنَسٌ | | - | | rein a. | | عَدَمُ الأَسْتِوَاءِ*
 | رَينِهيْتٌ s. f. | | - | | رَينِهيْتٌ | | نَجِيسٌ
 | رَينِهيْتٌ s. f. | | نَجَاسَةٌ | | نَجِيسٌ | | - | | reinigkeit
 | رَينِهيْتٌ a. | | رَينِهيْتٌ | | دَنَسٌ | | - | | reinlich
 | رَينِهيْتٌ s. f. | | رَينِهيْتٌ | | وَسَخٌ | | - | | reinlichkeit
 | رَينِهيْتٌ a. | | غَيْرٌ صَاحِبٌ | | - | | richtig
 | كَاذِبٌ | | - | | - | | gehen
 | رَينِهيْتٌ | | - | | أَسْقَطَتِ الجَنِينِ (إِمْرَأَةٌ)
 | رَينِهيْتٌ s. f. | | رَينِهيْتٌ | | غَلَطٌ | | - | | ruhe s. f.
 | بَلْبَلَةٌ | | اِضْطِرَابٌ | | اِنْتِزَاعٌ | | قَلَقٌ
 | فِتْنَةٌ (Empörung) | | - | | - | | البَالُ
 | قَلِقٌ | | - | | رَينِهيْتٌ a. | | رَينِهيْتٌ | | ثَوْرَةٌ | | فِتْنٌ pl.
 | مُضْطَرِبُ البَالِ | | مَشْغُولُ الفِكرِ
 | - | | سَاقِبٌ | | طَائِشٌ | | - | | sagbar a.,

-sträflich a. (Sache) لا عَيْبَ فِيهِ |
 | لا يُؤَاخِذُ عَلَيْهِ | لا لَوْمَةَ فِيهِ
 | مُنْصِفٌ | عادل (Person) - -
 | صلاح s. f. -sträflichkeit | مُسْتَقِيمٌ
 | streitig | - | اسْتِقَامَةٌ | انْصَافٌ | عَدْلٌ
 | studiert a. عَادِمٌ | لا خِلَافَ فِيهِ a.
 | tadelig a. لا عَيْبَ | عِلْمُ الْكُتُبِ
 | لا يُؤَاخِذُ عَلَيْهِ | لا لَوْمَةَ فِيهِ | فِيهِ
 | غير | غَيْرٌ مُنَاسِبٌ a. -tauglich
 | tauglichkeit s. f. عَدَمٌ | مُوَافِقٌ
 | teilbar a. لا يَنْقَسِمُ | الْمُنَاسَبَةُ
 | teilbarkeit s. f. اِمْتِنَاعُ الْاَنْقِسَامِ
 | teilhaftig a. an غَيْرٌ مُشْتَرِكٌ فِي
 unten adv. فِي الْاَسْفَلِ | تَحْتِ
 unter praep. c. dat. u. acc. تَحْتِ
 | فِي | فِي عَدَدٍ | بَيْنَ (zwischen) -
 | فِي عَهْدِ كَوْنٍ | - | وَسَطٌ
 | - | فِي اَيَّامِ الْمَلِكِ | الْمَلِكِ
 | - | بِاسْمِهِ | اِسْمِ
 | - | مَعَ الشَّرْطِ
 | - | اَقْسَامِ pl. قِسْمِ s. f. -abteilung
 | شُعَبِ pl. شُعْبَةٍ | فُصُولِ pl. فُصْلِ
 | - | شِعَابِ u. اَسَاسِ s. m. -bau
 | - | مَأْمُورٌ تَحْتِ | اَبْنَاءِ
 | - | مَأْمُورُونَ pl. اَمْرٌ رَّئِيسِ
 | - | - | هِجْرَةِ | - | بَيْتِ s. n. -bett
 | مَرَاتِبِ pl. مَرْتَبَةِ الْفِرَاشِ *

-binden va. etw. مِنْ هِ u رَبَطَ
 -bleiben | - | اَوْقَفَ هِ bld. -- | تَحْتِ
 vn. | اِنْقَطَعَ | a, u | زال -brechen
 va. etw. هِ a | قَطَعَ هِ
 -- | jn. (in der Rede) فِي
 | قَطَعَ هِ | الْكَلَامِ -brechung s. f.
 | وَقَفَ (Pause) -- | مُقَاطَعَةُ الْكَلَامِ
 | عَرَضَ i هِ لَهُ | -breiten va. jn. etw.
 | آوَى هِ اِلَى | -bringen va. jn.
 | اَدْخَلَ هِ | اَسْكَنَ هِ هِ | اَضَافَ هِ فِي
 | -des adv., -dessen adv. | فِي وَظِيْفَةٍ
 | فِي غُضُونِ ذَلِكَ | فِي اَثْنَاءِ ذَلِكَ
 | جارِ u | ظَلَمَ i هِ -drücken va. jn.
 | اَزَالَ هِ | اَبْطَلَ هِ etw. -- | عَلَيْهِ
 | سَكَتَ u عَنِ | قَطَعَ هِ | لاشَى هِ
 | جَائِرٌ | ظَالِمٌ s. m. -drücker
 | - | جَوْرٌ | ظُلْمٌ s. f. -drückung
 | اِبْطَالَ | اِزَالَةٌ (von Sachen)
 | -e a, der -e | قَطَعَ | مُلَاشَاةٌ
 | السُّفْلَى f. الْاَسْفَلِ | التَّحْتَانِي
 | -fangen v. sich einer Sache gen.
 | جَرَاءَةٌ | تَجَاسَّرَ | -fangen s. n.
 | اَمَشْرُوعٌ فِيهِ خَطَرٌ | تَجَاسَّرَ | جَسَارَةٌ
 | اَخَذَ u هِ بِالذِّرَاعِ | jn. -fassen va.
 | بَطَائِنِ pl. بَطَانَةٌ s. n. -futter
 | غُرُوبِ s. m. (der Sonne) -gang
 | - | - | الشَّمْسِ (Ort u. Zeit des

- - es) | مَغْرِب (Verderben) - - |
 | تَحْتِ أَمْرِهِ | geben a. jm. | هَلَكَ
 | تَحْتِ يَدِهِ | gehen vn. (Sonne)
 | - - | (zu Grunde gehen) | غَرَبَ u
 | هَلَكَ i | باد | - - | (Schiff) a | غَرِقَ i
 | مَتَعَلِّقٍ بِ | geordnet a. | (مَرْكَبٍ)
 | تَابِعٍ لِ | graben va. etw. a | فَتَحَ *
 | لَغَمٍ هِ | حَفَرَ i هِ | لَغَمًا تَحْتِ
 | شَيْئًا | أَضْنَى هِ شَيْئًا | فَشِيئًا
 | هَالِبٍ پْرَآءِپِ جِ. جِ. جِ. | هَالِبٍ
 | هَالِتٍ | halt s. m. | مَعِيشَةٍ تَحْتِ
 | هَالِتِنِ | halten va. jm. | مَعَاشِ
 | هَالِتِنِ | (mit Nahrung, Kleidung zc.) هَالِتِنِ
 | هَالِتِنِ | (vergnügen) هَالِتِنِ
 | هَالِتِنِ | (sich vergnügen) هَالِتِنِ
 | هَالِتِنِ | (sich erzählen) هَالِتِنِ
 | هَالِتِنِ | sich mit einander
 | هَالِتِنِ | -haltung
 | هَالِتِنِ | (Belustigung) هَالِتِنِ
 | هَالِتِنِ | (Gespräch) هَالِتِنِ
 | هَالِتِنِ | pl. هَالِتِنِ
 | هَالِتِنِ | über etw. هَالِتِنِ
 | هَالِتِنِ | تَفَاوُضٍ فِي | تَدَاوُلٍ فِي | دَبَّرَ هِ
 | هَالِتِنِ | Händler s. m. | تَحَاوَرَ فِي
 | هَالِتِنِ | -handlung s. f. | وَوَسَطَاءِ pl.

مجلِس s. n. | تَدَاوُلٍ | تحاور
 | höhlen va. | النَوَابِ فِي | إنكَلتِرَا
 | -graben | -hose s. f., -hosen
 | سرَاوِيلِ pl. | سرُواوَالِ صَغِيرِ s. pl.
 | شَنْتِيَانِ * | شَنْتِيَانِ pl. *
 | -irdisch a. | تَحْتِ الْأَرْضِ
 | -jochen va. jm. | أَحْضَعَ هِ
 | - | اِسْتَوَلَى عَلَى (Sand) - - | قَهَرَ هِ
 | - | فَكَ تَحْتَانِيَّ | -liefer s. m.
 | تَوْبٍ يُلْبَسِ | تَوْبٍ تَحْتَانِيَّ s. n.
 | تَحْتِ غَيْرِهِ | -kommen vn. | أَوَى
 | - | bld. | وَطَيْفَةً - - | إِلَى
 | -kommen s. n. | مَأْوَى - - | (Zimt)
 | - | وَطَيْفَةً | -kriegen va. jm. | هِ
 | - | فِاقَ u | -lage s. f. | pl. | أَسَاسِ
 | - | بَوَاعِثِ pl. | بَاعِثِ bld. - - | أَسَسِ
 | - | بِلَا أَنْقِطَاعِ - - | -laß s. m., ohne
 | - | تَرَكَ u هِ | -lassen va. etw.
 | - | تَغَافَلِ عَنِ | سَهَا u فِي
 | - | إِهْمَالِ | تَرَكَ s. f. | -lassungs[sünde
 | - | يَجِبُ فِعْلُهُ | إِهْمَالِ s. f.
 | - | حَدَّثَ u يَيْنِ | -laufen vn.
 | - | يَيْنِ - - | mit
 | - | - - | fein (von Blut)
 | - | قَرَّتِ | -legen va. jm. etw. u
 | - | وَضَعَ هِ | تَحْتَهُ
 | - | تَسَبَّ | هِ إِلَيْهِ bld.

s. m. | جَوْفُ البَطْنِ | أَسْفَلَ البَطْنِ s. m.
 -leutnant s. m. | مُلَازِمٌ ثَانٍ | -liegen
 vn. | أُسْتُظْهِرَ عَلَيْهِ | غَلِبَ | -jm.
 شَفَّةٌ s. f. | لِيْطَةٌ | -lippe s. f. | خَضَعَ لَهُ
 | سَفَّلَى | -mengen va., -mischen va.
 | مَزَجَ u هِبِ | خَلَطَ i هِبِ | etw. mit
 | شَرَعَ a هِ | -nehmen va. etw.
 | تَعَرَّضَ لِ | تَعَاطَى هِ | باشِرُهُ أَوْ بِ
 | -nehmen s. n. | -nehmung
 | مُبَاشِرٌ | -nehmer s. m. | -nehmung
 | مُبَاشِرَةٌ | مَشْرُوعٌ s. f. | -offizier
 | أَوْنٌ بِاشِيٌّ * | s. m. | -ordnen
 | جَعَلَ هِ | etw. einer Sache
 | جَعَلَ a هِ | -jm. | -متَعَلِّقًا
 | تَحْتِ أَمْرِهِ | -ordnung s. f. | -تَحْتِ
 | رَهْنٌ pl. | -pfand s. n. | خُضُوعٌ
 | رَهُونٌ u. | رِهَانٌ | -reden v. | sich
 | كَالَمْ هِ | حَاوَرَهُ | حَادَثَ هِ | mit jm.
 | مُحَاوَرَةٌ | مُحَادَثَةٌ s. f. | -redung
 | تَعْلِيمٌ | تَدْرِيسٌ s. m. | -richt
 | دَرَسَ هِ | geben, erteilen | -jm.
 | دَرَسَ هِ | -richten va. | -jm. | عَلَّمَ هِ
 | أَخْبَرَ هِبِ | -- | -jm. | عَلَّمَ هِ
 | نَاطِرُ المَعَارِفِ | s. m. | -richtsminister
 | نَظَارٌ pl. | -rocf s. m. | تَنَوَّرَةٌ
 | فَسَاطِينٌ pl. | فُسْطَانٌ | -تَنَانِيرٌ
 | حَرَّمَ هِ | etw. | -sagen va. | -jm.

| مَنَعَ a هِ | عَنِ أَوْ مِنْ | نَهَا u هِ | عَنِ
 | مَا يُرْفَعُ بِهِ الشَّيْءُ * | s. m. | -[fat
 | ظَرْفٌ (لِلْفِنْجَانِ) * | s. f. | -[chale
 | طَاسَاتٌ pl. | طَاسٌ | ظُرُوفٌ | -[cheiden
 | فَرَّقَ i يَبْنِ | مَيَّزَ هِ | etw.
 | اِمْتَاَزٌ | تَمَيَّزَ -- | sich | -[cheidung
 | تَمَيِّيزٌ s. f. | -[cheidungskraft s. f.
 | زَوَّرَ هِ | etw. | -[chieben va.
 | نَسَبَ i, u هِ | إِلَيْهِ بِالزُّورِ | -- | etw.
 | نَسَبَ i, u | وَكَدَا | ein Kind | --
 | اِلَى غَيْرِ وَالِدِيهِ | -[chied s. m.
 | فَرَّقَ | einen | -- | machen zwischen
 | فَرَّقَ i يَبْنِ | مَيَّزَ يَبْنِ | -[chieden
 | مُخْتَلِفٌ a. | -[chiedlich a. | -[schlagen
 | اِحْتَلَسَ اِمَالٌ | jm. | ein
 | شَرَكَلَ هِ * | شَغَزَبَ هِ | -- | Bein
 | اِحْتِلَاسٌ | -[schleif
 | اِحْتِلَاسٌ | s. m. (eines Beamten)
 | بَلَعَ هِ | etw. | -[schlucken va. | (مَأْمُورٍ)
 | مَلَجًا | مَأْوَى s. m. | -[schlupf
 | آوَى إِلَى | -[schlüpfen vn.
 | وَقَعَ هِ | etw. | -[schreiben
 | أَمْضَى هِ * | | -[schreiben
 | تَوَقَّيعَاتٌ pl. | تَوَقَّيعٌ s. f. | -[schrift
 | اِمْمِضَاتٌ pl. | اِمْمِضَاءٌ * | -[senken
 | أَغْرَقَ هِ | etw. | -[setzt a. | مُرْتَبِعٌ
 | اِرْزَبَ | مَكْتَلٌ | -[inken vn.
 | مَلَجًا | مَأْوَى s. m. | -[stand s. m. | غَرِقَ a

-statthalter s. m. | نَائِبُ الْوَالِي
 -stecken va. etw. | وَضَعَ a ه تَحَّتْ
 -stehen vn. [trennb.] | وَقَفَ i تَحَّتْ
 sich - - [untrennb.] | أَقْدَمَ عَلَى
 -stellen va. etw. | اجْتَرَأَ | تَجَاسَرَ
 [trennb.] | وَضَعَ a ه تَحَّتْ
 etw. - - [untrennb.] | نَسَبَ i ه
 نِسْبَةَ s. f. | اِلَيْهِ بِالزُّورِ
 -streichen va. | نِسَبَ | مَزْوَرَةٌ pl.
 ein Wort | تَحَّتْ كَلِمَةً دَلَالَةً
 -stützen va. jn. | عَلَى أَهْمِيَّتِهَا
 | عَاوَنَ ه | أَعَانَ ه | أَمَدَّ ه | سَاعَدَ ه
 | اِعَانَةٌ | مُسَاعَدَةٌ s. f. | -stützung
 -suchen va. etw. | اِمْدَادٌ | مُعَاوَنَةٌ
 | فَحَصَ a عَنْ | بَحَثَ a عَنْ
 | سَبَرَ u ه (Wunde) -- | اِمْتَحَنَ ه *
 -- | فَحَصَ | بَحَثَ s. f. | -suchung
 (gerichtliche) -- | سَبَرَ (ärztliche)
 -suchungsrichter s. m. | اِسْتَنْطَقَ
 (لِلْفُجَّانِ) * | تَافَّةٌ s. f. | مُسْتَنْطِقٌ
 | طَاسَاتٌ pl. | طَاسٌ | ظُرُوفٌ pl.
 | غَطَسَ ه | أَخَاضَ ه | -tauchen va. jn.
 | اِغْتَمَرَ | غَطَسَ i | خَاضَ -- vn. --
 u | غَاصَ | -teil s. n., das --
 | تَاحَنَ s. m. | الأَسْفَلُ | التَّحْتَانِي
 | تَبَعَةٌ pl. | تَابِعٌ | رَعَايَا pl. رَعِيَّةٌ
 | تَابِعٌ لَهُ | -than a., -thänig a. jn.

تَحَّتْ يَدِهِ | تَحَّتْ أَمْرِهِ | خَاضِعٌ لَهُ
 -thänigkeit s. f. | خُضُوعٌ | -wegs
 adv. | فِيمَا هُوَ سَائِرٌ | فِي الطَّرِيقِ
 etw. -- | تَرَكَ u ه | -weisen
 va. jn. in etw. ه | عَلَّمَ ه ه
 | تَدْرِيسٌ | تَعْلِيمٌ s. f. | -weisung
 -werfen va. jn. jn. u. etw.
 | قَرَّرَ a ه و ه | أَخْضَعَ ه و ه لَهُ
 | خَضَعَ a -- | اِسْتَوَى عَلَى
 | -winden | خُضُوعٌ s. f. | -werfung
 v. sich zu | تَجَاسَرَ | اِسْتَوَى
 a. | مُتَدَلِّلٌ | مُطِيعٌ | خَاضِعٌ
 | -zeichnen | خُضُوعٌ | تَدَلَّلَ s. f.
 va. etw. ه | وَقَعَ ه *
 | -zeichner s. m. | مَوْقِعٌ *
 | -zeichnung s. f. | تَوْقِيعٌ *
 -ziehen va. sich einer Sache dat.
 | شَرَعَ a ه | بَاشَرَ ه أَوْبٌ | تَعَرَّضَ لِ
 | قَامَ u ب | تَعَاطَى ه
 | أَجْرَامٌ pl. | جُرْمٌ s. f. | Un-that
 | كَسَلَانٌ | -thätig a. | قَبَائِحٌ pl.
 | كَسَلٌ | -thätigkeit s. f. | بَطَالٌ
 | اِعْيُرُ مُمَكِّنٌ | -thulich a. | بَطَالَةٌ | اِتْوَانٌ
 | -tiefe s. f. | مُحَالٌ | مُسْتَحِيلٌ
 | اِعْيُطَانٌ u. | اِعْوَاطٌ pl. | غَوُطٌ | خَلَّةٌ *
 | -tier s. n. | اِقْيَعَانٌ pl. | قَاعٌ
 | -treu | مُسَوِّخٌ pl. | مِسْخٌ * | اِلْخَلْفَةُ

-verkäuflich a. | إِخْفَاء | صَرِيح |
 -verletzlich a. | لا يُمَسُّ | لا يُباع |
 -verletzlichkeits s. f. | حُرْمَةٌ | حِرْمَان |
 -vermeidlich a. | لا مَفَرٌّ | لا بُدَّ مِنْهُ |
 -vermeidlichkeits s. f. | ضَرُورِيٌّ | مِنْهُ |
 -vermerkt adv. | مِنْ | ضَرُورَةٌ |
 -vermögen s. n. | قَلِيلًا | قَلِيلًا |
 -vermögend a. | قَصُورًا | عَجْزٌ |
 -vermutet a. | قَاصِرِ | قَاصِرِ |
 -vermutet a. | عَاجِزٌ | عَاجِزٌ |
 -vermutet a. | غَيْرٌ | غَيْرٌ |
 -vermutet a. | مُنْتَظَرٌ | مُنْتَظَرٌ |
 -vernünftig a. | غَبَاوَةٌ | غَبَاوَةٌ |
 -vernünftig a. | عَدَمِ | عَدَمِ |
 -verrichtet, -er Sache | صَوَابِيٌّ | صَوَابِيٌّ |
 -verrückt a. | ثَابِتٌ | ثَابِتٌ |
 -verrückt a. | خَائِبًا | خَائِبًا |
 -verschämt a. | قَلِيلٌ | قَلِيلٌ |
 -verschämt a. | سَفِيهِ | سَفِيهِ |
 -verschämtheit s. f. | وَقِحٌ | وَقِحٌ |
 -verschämtheit s. f. | عَدَمِ | عَدَمِ |
 -verschämtheit s. f. | وَقَاحَةٌ | وَقَاحَةٌ |
 -verschämtheit s. f. | سَفَاهَةٌ | سَفَاهَةٌ |
 -verschämtheit s. f. | قِلَّةِ | قِلَّةِ |
 -verschämtheit s. f. | الْحَيَاءِ | الْحَيَاءِ |
 -verschämtheit s. f. | عَدَمِ | عَدَمِ |
 -verschämtheit s. f. | الذُّبِ | الذُّبِ |
 -verschämtheit s. f. | بَغْتَةً | بَغْتَةً |
 -verschämtheit s. f. | غَيْرِ | غَيْرِ |
 -verschämtheit s. f. | دُنْبِهِ | دُنْبِهِ |
 -verschämtheit s. f. | سَالِمٌ | سَالِمٌ |
 -verschämtheit s. f. | فَجَاءَةً | فَجَاءَةً |
 -verschämtheit s. f. | غَفْلَةً | غَفْلَةً |
 -verschämtheit s. f. | مَجْرُوحٌ | مَجْرُوحٌ |
 -verschämtheit s. f. | غَيْرِ | غَيْرِ |
 -verschämtheit s. f. | مَجْرُوحٌ | مَجْرُوحٌ |
 -verschämtheit s. f. | لا يَنْزِفٌ | لا يَنْزِفٌ |
 -verschämtheit s. f. | سَلَامَةٌ | سَلَامَةٌ |
 -verschämtheit s. f. | لا يَنْفَدُ | لا يَنْفَدُ |
 -verschämtheit s. f. | لا يَنْشَفُ* | لا يَنْشَفُ* |
 -verschämtheit s. f. | لا يُفْرَغُ | لا يُفْرَغُ |
 -verschämtheit s. f. | لا يُصَالِحُ | لا يُصَالِحُ |
 -verschämtheit s. f. | لا يُصَالِحُ | لا يُصَالِحُ |
 -verschämtheit s. f. | قِلَّةِ | قِلَّةِ |
 -verschämtheit s. f. | عَدَمِ | عَدَمِ |
 -verschämtheit s. f. | الصَّوَابِ | الصَّوَابِ |

-verstanden a. | تَغَافُلٌ | تَغَافُلٌ |
 -verstanden a. | غَفْلَةٌ | غَفْلَةٌ |
 -verständlich a. | غَيْرٌ | غَيْرٌ |
 -verständlich a. | مَفْهُومٌ | مَفْهُومٌ |
 -verständlich a. | غَافِلٌ | غَافِلٌ |
 -verständlich a. | قِلَّةِ | قِلَّةِ |
 -verständlich a. | عَدَمِ | عَدَمِ |
 -verständlich a. | الصَّوَابِ | الصَّوَابِ |
 -verständlich a. | مُتَغَافِلٌ | مُتَغَافِلٌ |
 -verständlich a. | غَفْلَانٌ | غَفْلَانٌ |
 -verständlichkeits s. f. | مُبْتَلَمٌ | مُبْتَلَمٌ |
 -verständlichkeits s. f. | لا يُغْفَمُ | لا يُغْفَمُ |
 -verständlichkeits s. f. | ابْتِهَامٌ | ابْتِهَامٌ |
 -verständlichkeits s. f. | غَيْرٌ | غَيْرٌ |
 -verständlichkeits s. f. | مُتَّفِقٌ | مُتَّفِقٌ |
 -verständlichkeits s. f. | مَعَ | مَعَ |
 -verständlichkeits s. f. | غَيْرِهِ | غَيْرِهِ |
 -verständlichkeits s. f. | مُنَافِرٌ | مُنَافِرٌ |
 -verständlichkeits s. f. | نَافِرٌ | نَافِرٌ |
 -verständlichkeits s. f. | غَيْرٌ | غَيْرٌ |
 -verständlichkeits s. f. | مُوَافِقٌ | مُوَافِقٌ |
 -verständlichkeits s. f. | لِي | لِي |
 -verständlichkeits s. f. | (Sache) | (Sache) |
 -verwandt a. | ثَابِتٌ | ثَابِتٌ |
 -verwandt a. | مَآكِنٌ | مَآكِنٌ |
 -verwandt a. | تَأَخِيرٌ | تَأَخِيرٌ |
 -verwandt a. | حَالًا | حَالًا |
 -verwandt a. | بِلَا | بِلَا |
 -verwandt a. | تَأَخِيرٍ | تَأَخِيرٍ |
 -verwandt a. | لا يُجْرَحُ | لا يُجْرَحُ |
 -verwandt a. | فِي | فِي |
 -verwandt a. | الْحَالِ | الْحَالِ |
 -verwandt a. | عِصْمَةٌ | عِصْمَةٌ |
 -verwandt a. | مِنْ | مِنْ |
 -verwandt a. | ثَابِتٌ | ثَابِتٌ |
 -verwandt a. | الْجُرُوحِ | الْجُرُوحِ |
 -verwandt a. | قَوِيٌّ | قَوِيٌّ |
 -verwandt a. | الْقَلْبِ | الْقَلْبِ |
 -verwandt a. | مَآكِنٌ | مَآكِنٌ |
 -verwandt a. | بَأْسٌ | بَأْسٌ |
 -verwandt a. | شَجَاعٌ | شَجَاعٌ |
 -verwandt a. | شَجَاعَةٌ | شَجَاعَةٌ |
 -verwandt a. | قُوَّةِ | قُوَّةِ |
 -verwandt a. | الْقَلْبِ | الْقَلْبِ |
 -verwandt a. | شَجَاعَةٌ | شَجَاعَةٌ |
 -verwandt a. | لا يُصْفَحُ | لا يُصْفَحُ |
 -verwandt a. | لا يُغْفَرُ | لا يُغْفَرُ |
 -verwandt a. | ا. | ا. |
 -verwandt a. | -verzeihlich a. | -verzeihlich a. |
 -verwandt a. | بِلَا | بِلَا |
 -verwandt a. | تَأَخِيرٍ | تَأَخِيرٍ |
 -verwandt a. | عَنْهُ | عَنْهُ |
 -verwandt a. | -verzüglich adv. | -verzüglich adv. |
 -verwandt a. | بِلَا | بِلَا |
 -verwandt a. | تَأَخِيرٍ | تَأَخِيرٍ |
 -verwandt a. | حَالًا | حَالًا |
 -verwandt a. | فِي | فِي |
 -verwandt a. | الْحَالِ | الْحَالِ |
 -verwandt a. | حَالًا | حَالًا |
 -vollendet a. | -vollendet a. |
 -vollkommen a. | -vollständig a. |
 -vollkommen a. | نَاقِصٌ | نَاقِصٌ |
 -vollkommen a. | غَيْرِ | غَيْرِ |
 -vollkommen a. | تَامٌ | تَامٌ |
 -vollkommen a. | غَيْرِ | غَيْرِ |
 -vollkommen a. | كَامِلٌ | كَامِلٌ |
 -vollkommenheit s. f. | -vollständigkeit s. f. |
 -vollkommenheit s. f. | عَدَمِ | عَدَمِ |
 -vollkommenheit s. f. | التَّمَامِ | التَّمَامِ |
 -vollkommenheit s. f. | عَدَمِ | عَدَمِ |
 -vollkommenheit s. f. | الْكَمَالِ | الْكَمَالِ |
 -vollkommenheit s. f. | غَيْرِ | غَيْرِ |
 -vollkommenheit s. f. | غَيْرِ | غَيْرِ |
 -vollkommenheit s. f. | مُتَبَصِّرٌ | مُتَبَصِّرٌ |
 -vollkommenheit s. f. | -vorsichtig a. | -vorsichtig a. |
 -vollkommenheit s. f. | عَدَمِ | عَدَمِ |
 -vollkommenheit s. f. | مُحْتَرِسٌ | مُحْتَرِسٌ |
 -vollkommenheit s. f. | عَدَمِ | عَدَمِ |
 -vollkommenheit s. f. | الأَحْتِرَاسِ | الأَحْتِرَاسِ |
 -vollkommenheit s. f. | التَّبَصُّرِ | التَّبَصُّرِ |
 -vollkommenheit s. f. | غَيْرِ | غَيْرِ |
 -vollkommenheit s. f. | -wahr a. | -wahr a. |
 -vollkommenheit s. f. | مُضَرٌّ | مُضَرٌّ |

- lichkeit s. f. | عَدَمُ الْبِيَاقَةِ -zier
 s. f. | تَشْنِيعُ | تَقْبِيحُ -zucht s. f.
 -züchtig a. | فِسْقُ | فَجُورُ | عَهَارَةٌ
 | فَاِسِقُ | فَاحِشُ | فَاجِرُ | عَاهِرُ
 -züchtigkeit s. f. | -zucht | -zu
 Ur s. m. zool. ثَوْرٌ وَحَشِيٌّ.
 friedens a. | غَيْرُ مَبْسُوطٍ | غَيْرُ رَاضٍ
 Ur-ahne s. m. | أَبُو الْجَدِّ أَوْ الْجَدَّةُ
 -alt s. f. | أُمُّ الْجَدِّ أَوْ الْجَدَّةُ
 a. | قَدِيمٌ جِدًّا -anfang s. m.
 | أَصُولُ pl. أَصْلُ.
 * | زَعْلَانُ -zufriedenheit s. f. | عَدَمُ
 a. | زَعْلٌ * | الرِّضَى
 -zulänglich | مَنِيْعٌ | لَا يُوَصَلُ إِلَيْهِ
 a. | نَاقِصٌ | غَيْرُ كَافٍ
 Uranus s. m. astr. | أُورَنُوسُ (سَيَّارَةٌ).
 feitt s. f. | نُقْصَانٌ | عَدَمُ الْكِفَايَةِ
 urbar a. | صَالِحٌ لِلْفَلَاحَةِ | صَالِحٌ لِلْحُرَاثَةِ
 -zulässig a. | مَمْنُوعٌ -zureichend
 etw. - machen ه | فَلَحٌ ه a
 a. | غَيْرُ كَافٍ -zusammenhängend
 ur-eigen a. | أَصْلِيٌّ -enfel s. m. | إِبْنُ
 a. | غَيْرُ مُطَابِقٍ | عَادِمُ الرِّبَاطِ
 a. | مُضِرٌّ | غَيْرُ نَافِعٍ
 | جِبَالٌ أَصْلِيَّةٌ -gebirge
 | لا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ
 s. n. | جِبَالٌ أَصْلِيَّةٌ
 | عَدَمُ | -zuverlässigkeit s. f. | أَمِينٌ
 | عَدَمُ | -zweck- | الأَعْتِمَادُ عَلَيْهِ | الأَمَانُ
 | غَيْرُ مُنَاسِبٍ -zweck-
 | عَدَمُ | -zweck- | المُنَاسَبَةُ
 | غَيْرُ مُلْتَبَسٍ -zwei-
 | عَدَمُ | -zweck- | الأَلْتِنَبَاسِ
 | أَلْتِنَبَاسِ | -zweifelhaft a. | لا شَكَّ فِيهِ
 | مُؤَكَّدٌ.
 üppig a. (- wachsend, Pflanze)
 (wol- | دَاعِرٌ | مُقَوِّمُ الشَّكْوَاتِ (üppig)
 | دَاعِرٌ | مُقَوِّمُ الشَّكْوَاتِ (üppig)

فاخر (prächtigt) - | فاسق | شبق
 -feit s. f. (von Pflanzen) | وَحَافَةٌ
 - | فِسْقُ | شَبَقُ (Wollust) - -
 فَخْرُ (Pracht).

ثَوْرٌ وَحَشِيٌّ.

أَبُو الْجَدِّ أَوْ الْجَدَّةُ

أُمُّ الْجَدِّ أَوْ الْجَدَّةُ

قَدِيمٌ جِدًّا

أَصُولُ pl. أَصْلُ.

أُورَنُوسُ (سَيَّارَةٌ).

صَالِحٌ لِلْفَلَاحَةِ | صَالِحٌ لِلْحُرَاثَةِ

فَلَحٌ ه a

إِبْنُ

إِبْنَةُ الْحَفِيدِ

صُورَةٌ أَصْلِيَّةٌ

جِبَالٌ أَصْلِيَّةٌ

أُمُّ الْجَدِّ أَوْ الْجَدَّةُ

أَبُو الْجَدِّ أَوْ الْجَدَّةُ

صَانِعٌ | مُوَسَّسٌ

بَوَاعِثُ pl. بَاعِثٌ | صَنَّاعٌ

أَصُولُ pl.

الشَّيْطَانُ.

كِتَابٌ فِيهِ خِيَانَةٌ.

مِبْوَلَةٌ s. f. | بَوْلٌ

بَوْلٌ * | بَالٌ

رُوحَةٌ s. f. | شَخٌّ

قُوَّةٌ أَصْلِيَّةٌ.

Urfunde s. f. حُجَّة | صُكُوك pl. صَكْ
 pl. حُجَج | سَنَد pl. اسناد
 urfundoich a. مُثَبَّت | مُوَأَفِق صَكْ
 بِصَكْ.

Urlaub s. m. مُسَامَحَة | إِذْن
 اسْتَأْذِن - | اجازة | رُخْصَة
 jm. - geben اذِن له فى الذهاب
 -er s. m. mil. مَن لَهُ مُسَامَحَة
 مِنَ العسَاكِر.

Urne s. f. اِجَانَة pl. اَجَايِن
 اِنَاء (-) | جِرَار pl. جَرَّة
 تُوَضَع فِيهِ وَرَقَة الرأى
 urplöghch adv. بَعُتَة.

Ursache s. f. دَاع pl. دَوَاع
 سَبَب | عِلل pl. عِلَّة | بَوَاعِث pl.
 مُوَجِب | اَسْبَاب pl.

Urschrift s. f. نَسْخَة | نَصْر اَصْلِيّ
 اَصْلِيَّة.

Ursprung s. m. اَصْل pl. اَصْوَل
 مَبَادِي pl. مَبْدَأ | مَنَابِع pl. مَنَبَع
 urspriinglich a. اَصْلِيّ.

Urstoff s. m. عُنْصُر pl. عُنَاصِر.

Urteil s. n. (Des Richters) حُكْم
 قَضَاء | حَتْم | اَحْكَام pl. القاضى
 تَمْيِيْن | آراء pl. رَأى (Meinung) -
 -en vn. über (Richter) حَكَم u ب
 (meinen) - - | قَضَى i فى | حَتَم i ب

-sfähig a. | رَأى a ه | ظَنَّ u فى
 -skraft s. f., -s- | مَن لَهُ تَمْيِيْن
 vermögen s. n. قُوَة التَمْيِيْن.

Ur-wald s. n. اَمَّة اَصْلِيَّة | -wald
 غَابَة لَمْ تُقَطَع فِيهَا سَجَرَة
 -welt s. f. | حال الدُنْيَا قَدِيْمًا
 -zustand s. m. | حال اَصْلِيّ.

Usurpator s. m. اِغْصِب | خَالِس
 اُغْصِبُوا | اُخْذ u ه
 اِخْتَطَف ه | غَصَب i ه | جَوْرًا

Utensilien s. pl. آلات.

Utopie s. f. قَصْد المَحَال.

U

الحَرْف الثَانِي والعِشْرُون مِنَ
 حُرُوف الهِجَاء.

Vagabund s. m. مُتَشَرِّد | طَوَاف
 هَانِثِل.

Vafanz | فَاضِ * | اِخَال | فَاْرِغ | vafant a.
 s. f. (offene Stelle) | فَرَاغ (-) (Ferien)
 بَطَالَة | مُسَامَحَة.

Dampyr s. m. zool. حُفَّاش كَبِيْر
 عِفْرِيْت (Gespenst) - | حَفَاْفِيْش pl.
 مَاتْس مال bld. - | عَفَاْرِيت pl.
 القَوْم.

Dandalismus s. m. هَدْم اَثَار الصَّنَائِع.

lich a. (verachtungswert) | حَقِير |
 | نَذِيل | | ذَلِيل | | دَنِي | | دَنِيء |
 - (verachtend) | مُحْتَقِر |
 Verächtlichkeit s. f. | دَنَاءَة | Ver-
 achtung s. f. | اسْتِحْقَاف | | احْتِقَار |
 verachtungswert a. | حَقِير | | دَنِيء |
 | دَلِيل | | دَنِيء |.

verallgemeinern va. etw. ه | عَمَم |
 Verallgemeinerung s. f. | تَعْمِيم |
 veralten vn. | تَعَتَّق | | فات u زمانه |
 | تَلَاشِي |.

veränderlich a. | مُتَغَيِّر | | مُتَغَلِّب |
 | تَغَلِّب | | تَغْيِير | s. f. | - | مُتَلَوِّن |
 | تَلَوِّن |.

verändern va. etw. ه | غَيَّر | | حَوَّل | ه
 | تَبَدَّل | | تَغْيِير | | نَحَوَّل | - | سِج | | بَدَّل | ه
 Veränderung s. f. | تَغْيِير | | تَحْوِيل |
 | تَغْيِير | | نَحَوَّل | | تَبْدِيل |.

veranlassen va. etw. ه | أَوْجَب | ه
 | سَبَّب | | Veranlassung s. f. ه
 | دَوَاعٍ | pl. | دَاعٍ | | بَوَاعِث | pl. | بَاعِث |
 | مُوَجَّب | | أَسْبَاب | pl. | سَبَب |.

veranschlagen va. etw. ه | سَعَّر | ه
 | ثَمَّن | ه.

veranstalten va. etw. ه | جَهَّز | ه
 | أَقَام | ه | رَتَّب | ه | أَعَدَّ | ه
 anstalter s. m. | مُجَوِّز | | مُدَبِّر |

| تَدْيِير | | Veranstaltung s. f. | مُرْتَب |
 | تَصَرَّف | | تَرْتِيب | | تَجْهِيْز |
 | اسْتِعْدَاد |.

verantworten va. etw. | مَسْؤُولًا | كان
 | حَقَّق | ه | سِج | - | دَافِع | عَن
 | نَفْسِهِ | | verantwortlich a. | für
 | مَسْؤُول | عَن | Verantwortlichkeit
 s. f., Verantwortung s. f. | مَسْؤُولِيَّة |.

verargen va. jm. etw. | آخَذَ | عَلَى
 verarmen vn. | أَفْلَسَ | | اِفْتَقَرَ |.

veräußern va. etw. ه | باع | i ه
 | بَيْع | s. f. | äußerung s. f. |.

Verb s. n. gr. | أَفْعَال | pl. | فِعْل |.

Verband s. m. (einer Wunde) | ضَمْد
 | عَصَابَة | | عَصَاب | | ضِمَاد | | الجُرح | pl.
 | اجْتِمَاع | (Vereinigung) - | عَصَائِب |
 | اتِّصَال | | اتِّحَاد |.

verbannen va. jn. ه | نَفَى | ه i ه
 | سَرَكَل | ه * | مِنَ الْبِلَاد |
 | طَرَدَ | مِنَ الْبِلَاد | s. f. |
 | سَرَكَلَة | * | نَفَى |.

verbarricadieren va. die Straßen
 | سَدَّ | u | الشَّوَارِعَ | بِالْمَتَارِيسِ
 | دَرَبَزَ | ه *.

verbauen va. etw. ه | بِنَاءَ | ه u ه

verbauern vn. | تَبَدَّدَ | | تَبَلَّه |.

verbluten v. sich نَزِفَ | a دَمِيَ |

Verblutung s. f. نَزْفُ الدَّمِ.

verborgen va. Geld أَقْرَضَ المال |
أَسْلَفَ هـ.

verborgen a. خَفِيَ | مَكْتُومٌ | ver-
bergen | -heit s. f. خَفَاءٌ.

Verbot s. n. نَهْيٌ | تَحْرِيمٌ | حَرْمٌ |
مَنْعٌ | -en a. حَرَامٌ |
verbieten.

verbrämen va. Kleid بَطَّنَ الثَّوْبَ
بِفَرِّو.

Verbrauch s. m. نَفْدٌ | نَفَادٌ |
إِبْلَاءٌ | أَنْفَدَهُ | -en va. etw.
بِالْأَسْتِعْمَالِ | قَطَعَ هـ * |
أَبْلَى هـ | اسْتَنْفَدَهُ هـ

verbrechen va. etw. هـ | ارتكب هـ |
Verbrechen s. n. جُرْمٌ | pl. جُرُومٌ |
قَبِيحَةٌ | جنایا pl. جنایة |
أَجْرَامٌ | pl. مُجْرِمٌ |
Verbrecher s. m. مُجْرِمٌ |
قَبَائِحٌ | pl. مُدْنِبٌ |
verbrecherisch a. جِنَائِيٌّ |
ذَنْبِيٌّ.

verbreiten va. etw. هـ | نَشَرَ هـ |
مَدَّ هـ | eine Neugier i شَاعَ |
فَرَشَ هـ | تَبَسَّطَ - |
أَفْشَى خَبْرًا | بَخَبَرَ
sich - | اِنْتَشَرَ | اتَّسَعَ |
إِمْتَدَّ |
etw. فِي الكَلَامِ.

verbreitern va. etw. هـ | عَرَّضَ |

تَعَرَّبِضَ | Verbreiterung s. f. |
وَسَّعَ هـ | تَوَسَّيَعُ.

Verbreitung s. f. نَشْرٌ |
إِنْتِشَارٌ | إِفْشَاءٌ |
إِشَاعَةٌ.

verbrennbar a. قَابِلٌ الوَقْدِ | ver-
brennen va. etw. هـ |
أَحْرَقَ هـ | -jn.

- vn. | شَوَّبَ هـ | سَفَّعَ هـ (Sonne)
| Verbrennung s. f. |
أَحْرَقٌ | أَحْتَرَقَ |
إِحْتِرَاقٌ.

verbriefen va. etw. تَحْرِيرًا |
قَرَّرَ هـ

verbringen va. Geld |
أَسْرَفَ المال | قَضَى
i | صَرَفَ i الزَّمانَ -
Zeit | الزَّمانَ.

verbrüdern v. sich mit jm. هـ |
تَأَخَّى هـ |
Verbrüderung s. f. مُوَاخَاةٌ.

verbrühen v. sich |
التَّدَعَى | شَبِقَ |
دَاعَرَ | عَاهَرَ |
a. شَبِيقٌ | شَهْوَانِيٌّ.

Verbunnen s. n., pl. -ba u. -ben gr.
أَفْعَالٌ pl. فِعْلٌ.

verbunden a. |
مَوْصُولٌ - | jm. مَدْبُورٌ |
مَدْبُورٌ |
i. مَمْنُونٌ لَهُ * | لَهُ

verbünden v. sich |
اتَّحَدَ | تَحَالَفَ |
تَعَاهَدَ.

Verbündete s. m. |
حِلْفٌ pl. أَحْلَافٌ |
مُعَاهِدٌ | مُحَالَفٌ |
حُلَفَاءٌ pl. حَلِيفٌ

verbürgen va. etw. هـ |
أَوْبَى هـ |

كَفَلَ i, u بِ | تَضَمَّنَ بِ
 تَكَفَّلَ بِ | sich - für etw.
 تَضَمَّنَ بِ.

Verdacht s. m. نُظْمَةٌ pl. نُظُمٌ |
 - schöpfen اِنْتَهَمَ.

verdächtig a. eines Verbrechens
 -en va. اِنْتَهَمَ بِ | مُتَهَمٌ بِجُرْمٍ
 jn. eines Verbrechens اِنْتَهَمَ بِجُرْمٍ
 اِنْتَهَمَ بِ.

verdammten va. jn. zu etw. u حَكَمَ
 اِقْضَى i عَلَيْهِ بِ | عَلَيْهِ بِ
 - etw. ه ا جَحَدَ | لام u ه | ver-
 dammt مَلْعُونٌ | -swert a., -s-
 würdig a. مُسْتَوْجِبٌ | مَذْمُومٌ
 حُكْمٌ | Verdammnis s. f. اللُّومُ
 بِيَدٍ | هلاك اَبَدِيٌّ - ewige
 ا. مَلْعُونٌ | verdammt a. اَبَدِيٌّ
 verdammen.

verdampfen vn. اَصَارَ i بُخَارًا
 بُخَارًا.

verdanken va. jn. etw. كَانَ مَدْيُونًا
 كَانَ مَمْنُونًا لَهُ بِ* | لَهُ بِ

verdauen va. etw. ه هَضَمَ i ه
 سَرِيعَ الْاِنْتِهَامِ | داulich a.
 بَطِيءُ الْاِنْتِهَامِ | schwer -
 سُرْعَةُ الْاِنْتِهَامِ | داulichkeit s. f.
 اِنْتِهَامٌ | هَضْمٌ | Verdauung s. f.

Verdeck s. n. (des Schiffes oder
 Wagens) اسْطِطْحَ الْمَرْكَبِ أَوْ الْعَرَبَةَ
 -en va. etw. ه غَطَّى ه | u سَتَرَ ه
 كَتَمَ ه | اَخْفَى ه

verdenken va. jn. etw. اَخَذَ ه عَلَى
 لام u ه عَلَى

Verderb s. m., -en s. n. هَلَكَ | تَلَفَ |
 اِعْفُونَةٌ (von Speisen) - | فساد | بِيَدٍ
 اَهْلَكَ ه | jn. ins -- stürzen ه تَعَفَّنَ
 -en va. etw. ه اَسَاءَ ه | اَتَلَفَ ه
 اَفْسَدَ اَخْلَاقَهُ -- | اَفْسَدَ ه
 كَدَّرَ -- | es mit Allen ه اَهْلَكَ ه
 es mit Niemandem -- | اَلْجَمِيعِ
 اَفْسَدَ -- | اَرْضَى اَلْجَمِيعِ
 -lich a. تَلَفَ | ا | تَعَفَّنَ | اَعْفَنَ
 -nis s. f., -theit s. f. مَضِرٌّ | مُفْسِدٌ
 فساد الاَخْلَاقِ | دَعَرَ

verdeutlichen va. etw. ه اَوْضَحَ ه.

verdeutschten va. etw. ه فِي
 اللُّغَةِ الْاَلْمَانِيَّةِ.

verdichten va. etw. ه كَتَفَ ه | sich -
 تَكَاتَفَ.

verdicken va. etw. ه سَمَّكَ ه | غَلَّظَ ه.

verdienen va. etw. (wert sein)
 اِكْتَسَبَ i اِمَالًا - | اِسْتَحَقَّ ه
 اِكْتَسَبَ ه | رَبِحَ ا ه | seinen
 اِكْتَسَبَ i - | Unterhalt, sein Brot

- sich verdient machen um | **مَعَاشُهُ** |
 in. | **أَفْضَلُ عَلَيْهِ** | Verdienst s. n. | **مُغْتَاظٌ** |
 (Würdigkeit) | **إِسْتِحْقَاقٌ** pl. | - | **مَغْمَمٌ** (Sache) - | **مَغْمُومٌ** |
 (Tugend) | - | **أَهْلِيَّةٌ** | **إِسْتِحْقَاقَاتٌ** | **زَعَلٌ** | **غَيْظٌ** | **غَضَبٌ** |
 pl. | **فَضْلٌ** | **فَضَائِلٌ** pl. | verdrossen a. | **مُغْتَاظٌ** | -heit s. f. |
 (an | **مَزَايَا** pl. | **مَزِيَّةٌ** | **فُضُولٌ** | **زَعَلٌ** | **غَيْظٌ** |
 Geld) | **رِبْحٌ** | **مَكْسَبٌ** | **كَسْبٌ** (Geld) | **Verdruß** s. m. | **زَعَلٌ** | in. zum -
 verdienstlich a. | **إِسْتِحْقَاقِيٌّ** | **Ver-** | **رَغْمًا عَنْهُ** |
 dienstlichkeit s. f. | **إِسْتِحْقَاقٌ** | **ver-** | **تَصَاعَدٌ** **بُخَارًا** | - bld. |
 dient a. | **دُوٌّ** | **مَنْ لَهُ** **إِسْتِحْقَاقٌ** | **إِنْصَرَفَ** **خَفِيَّةً** |
إِسْتِحْقَاقٌ | **أَسْتِحْقَاقٌ** | **verdummen** va. in. | **جَعَلَ** a | **بَلِيدًا** | in. | **جَعَلَ** |
Verdikt s. n. | **حُكْمُ الْقَضَاةِ مِنَ الْأَهَالِي** | **تَبَّهٌ** | **تَبَلَّدٌ** | - | **أَبْهَلٌ** * |
verdingen v. sich | **أَسْتَوْجِرُ** | **أَسْتُحْدِمُ** | **verdunkeln** va. etw. | **جَعَلَ** a | **مُظْلِمًا** |
أَكْرَى **عَمَلَهُ** | **verdolmetſchen** va. etw. | **ه** | **تَرْجَمَ** | **سد** | **سَوَدَ** | **ه** |
verdoppeln va. etw. | **ه** | **ضَاعَفَ** | **Ver-** | **سَتَرَ** u | **ه** | (verdecken) | - | **سَوَدَ** | **ه** |
دoppelung s. f. | **مُضَاعَفَةٌ** | **ضِعْفٌ** | **ه** | **أَضْعَفَ** | **ه** | **ضَعَّفَ** | **ه** |
pl. | **أَضْعَافٌ** | **in. bld.** | **ه** | **عَطَى** | **ه** | **أَخْفَى** | **ه** |
Verdorbenheit s. f. | **ف.** | **Verderbtheit.** | **إِسْوَدَ** (Himmel) | - | sich | **فَاقَ** | **ه** | **سَوَدَ** | **ه** |
verdorren vn. | **ا** | **نَشِيفٌ** * | **جَفَّ** | **verdunkeln** va. etw. | **ه** | **تَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ** | **الْجَوِّ** |
verdrängen va. | **in.** | von seinem | **verdünnen** va. etw. | **ه** | **Ver-** | **دَقَّقَ** |
Platze | **طَرَدَ** u | **ه** | **مِنْ مَقَامِهِ** | **dünnung** s. f. | **تَدْقِيقٌ** |
verdrehen va. etw. | **ه** | **حَرَّفَ** | **ه** | **عَوَّجَ** | **verdunsten** vn. | **صَارَ** | **إِ** | **تَصَاعَدٌ** **بُخَارًا** |
Verdrehung s. f. | **ه** | **زَيَّفَ** | **ه** | **نَشِيفٌ** * | **جَفَّ** | **بُخَارًا** |
تَحْرِيفٌ | **verdunsten** vn. | **ه** | **مَاتَ** u | **عَطَشًا** | **verdursten** vn. | **هَلَكَ** | **ا** | **مَاتَ** u | **عَطَشًا** |
verdreifachen va. etw. | **ه** | **ثَلَّثَ** | **verdüstern** va. etw. | **ف.** | **verdunkeln.** | **عَطَشًا** |
verduſt a. | **حَيْرَانَ** | **veredeln** va. etw. | **ه** | **أَصْلَحَ** | **ه** | **حَسَّنَ** | **ه** |
شَرَّفَ | **ه** | **شَرَّفَ** | **ه** |

verehelichen va. jn. mit زوج s s
 تزوج به | sich - mit jm. أو به
 verehren va. Gott عبد الله u عبد |
 - jn. (hochachten) s احترام |
 - ein Mädchen | أكرم s | إعتبر s *
 (schenken) | عشق a بنتاً
 | أنعم ه عليه | وهب i ه له
 Verehrer s. m. (Gottes) | أنعم s ب
 | محترم s. | عباد pl. عابد
 عاشق (eines Mädchens) | معظّم
 Verehrung s. f. (Gottes) | عشاق pl.
 (eines Menschen) | تعبّد | عبادة
 | إعتبار * | تعظيم | احترام
 ehrungswürdig a. مستحقّ
 محترم | الاحترام
 vereiden va., vereidigen va. jn.
 | استخلف s | حلف s
 | استخلاف | تحليف s. f.
 Verein s. m. جمعيات pl. |
 -bar a. mit | اتحاد | جماعة
 -baren | مطابق ال.. | موافق ال..
 | اتفق معه على |
 | موافقة | مطابقة s. f. -barkeit
 | عهد | اتفاق s. f. -barung
 | -fachen va. etw. | -igen va. f.
 | جعل a ه | جعل a ه بسيطاً
 | -igen va. jn. u. etw. | أقل تركيباً

| اجتمع - - | جمع s a و ه
 الدول die -igten Staaten | اتحد
 | اجتماع s. f. | امتحدة
 | -famen va. jn. s | أفراد
 | -famung | استفرد | انفراد - - vn.
 | انفراد s. f. | انفراد s. f. |
 | -zelu va. jn. s | أفراد
 | -zelung s. f. | منفرد |
 انفراد.
 vereiteln va. etw. خائباً رَدَّ u ه
 vereitelt werden i خاب | خيب.
 vereiteln va. jm. etw. | أقرف s ه.
 verenden vn. (Tier) (حيوان) مات u
 verengen va. etw., verengern va.
 | أضاق ه | ضيق ه |
 | تضايق | تضيق | ضاق i
 engerung s. f., Verengung s. f.
 | تضيق | تضيق | إضافة
 vererben va. jm. etw. وصى s ب |
 | ترك u ه | أوصى s ب |
 | انتقل من الأب - | إلى الآبن
 | Vererbung s. f. | إلى الآبن
 | من الأب إلى الآبن
 verewigen va. etw. أبد ه | أدام ه
 | آدم اسمه - | خلد ه
 ewigt a. مرحوم.
 verfahren va. Waren البضائع u نقل
 | باشر الأمر كذا - vn.

عامل ۛ كذا | gegen jn. | الأمر كذا
 | gerichtlich gegen
 | رافع ۛ إلى | ادعى عليه -
 | Verfahren s. n. | سُلوك
 | gerichtliches - | أسلوب
 | الدعوى.

Verfall s. m. | انحطاط | خراب
 - (einer Frist, eines Wechsels)
 -en | استحقاق أجل لدفع دين
 | تلف | باد | خرب |
 | حان | الأجل (Frist) | -- | انحط
 | خطر الشيء | -- | استحق
 | في باله.

verfälschen va. etw. | زبف | زور
 | حرف | قد |
 | Verfälschung s. f. | تزوير
 | تحريف | تليفق.

verfangen vn. bei jm. | أثر فيه
 | تعسر | التيسر | اشتبك -
 | bld. | محير | verfänglich a. |
 | خداع.

verfärben v. sich | اصفر
 | لون الوجه.

verfassen va. ein Buch | ألف كتاباً
 | Verfasser s. m. | أنشأ
 | Verf. | منشئ | مصنف | مؤلف
 | قوانين (eines Landes) s. f.

اقانون أساسى | المملكة الأساسية
 | تصرف | حال (Zustand) -
 | موافق القانون a. |
 | verfassungsmäßig a. |
 | verfassungswidrig a. |
 | مخالف القانون الأساسى.

verfaulen vn. a | تعفن | عفن.

verfechten va. etw. | آيد | أثبت

verfehlen va. Ziel | أخطأ الهدف
 - den | قصر | عن | لم يدرك
 | عن الطريق | i, a | ضل |
 | nicht - zu | ما لاقى
 | لم يسه عن.

verfeinden v., sich - mit jm. | نافر

sich - mit | فاسد | باعد
 | تنافر | تباعد | تفاسد.

verfeinern va. Sitten | هدب العوائد
 | تادب | تهدب - | لطف
 | تمدن.*

verfertigen va. etw. | عمل |
 | صنع a.

verfinstern va. etw. | جعل | مظلماً

sich - (Himmel) | أظلم | ظلم -

sich - (Gesicht) | عيس | أسود الجؤ

sich - (Gestirn) | كسف |

Verfinsternung s. f. | إظلام - |
 | der Sonne |
 | des Mondes |
 | خسوف القمر.

- verflachen vn. | تَسَطَّحَ | Verflachung
s. f. تَسَطُّحٌ.
- verflechten va. etw. mit | شَبَكَ | هِب
sich | اِسْتَبَكَ -
sich.
- verfliegen vn. | طار | a, u | زال |
u | مَضَى | i | فات |
u | مَضَى | i | فات | (Zeit) u |
a, u | زال | verfloßen a. | ماضٍ |
u | ماضٍ | سابق.
- verfluchen va. | لَعَنَ | a | ه | و | ه |
u | سَبَّ | u | ه | و | ه | * | دعا | u |
على | مَلْعُونٌ | flucht
- verflüchtigen v. | صار | i | بُخَارًا |
sich | تَصَاعَدَ | بُخَارًا |
- Verfluß s. m. der | مَمَرٌ | الزَّمان |
Zeit | مَضَى | الزَّمان |
مَضَى | الزَّمان |
- Verfolg s. m. der | مَضَى |
Angelegenheit | مَضَى |
-en | جَرِيَانِ | الأَمْرِ |
| جَرَى | الأَمْرِ |
va. | in. | ه | ا | تَبِعَ | ه |
| تَتَبَعَ | ه | ا | تَبِعَ | ه |
- - etw. | على | داوَمٌ |
| in. | gericht-
lich | - - | رَافِعٌ | ه |
| طَالِبٌ | ه | شَرْعًا | - - |
sich | - - |
pl. | ظالِمٍ | -er | s. m. |
| أمامِ | القاضِي |
| ظَلَمَ | | مُطَارَدَةٌ |
| تَتَبَعَ | s. f. | -ung |
| ظَلَامٌ |
- verfrachten va. | شحن |
Waren im Schiff |
a | المَرْكَبِ | بِالْبَضَائِعِ |
- verfressen va. etw. | أَكَلَ |
u | كُلَّهُ |
verfressen a. | أَكَلَ |
u | أَكُولٌ |
- verfrozen a. | سَهْلٌ |
التَّائِرُ مِنَ | البَرْدِ |
* | بَرْدَانٌ |
- verfrüht a. | باكِرٌ |
جِدًّا |
- verfügen va. etw. | أَمَرَ |
u | بِ | - vn.
über etw. | تَصَرَّفَ |
sich | - an
einen Ort | تَوَجَّهَ |
إِلَى | Verfügung
s. f. | تَصَرَّفَ | pl. |
تَصَرَّفَاتٌ | eine -
treffen | تَصَرَّفَ |
verfügungsfähig
a. | مُعْتَبَرٌ |
تَصَرَّفَاتُهُ | Verfügungs-
fähigkeit s. f. |
إِعْتِبَارٌ | تَصَرَّفَاتِهِ |
- verführen va. | in. | ه |
u | أَغْوَى | ه |
i | ه |
| أَصْبَى | ه |
| غَرَّ | ه |
| سَبَى | ه |
i | ه |
| فَتَنَ | ه |
- Waren | نَقَلَ |
u | البَضَائِعِ |
Ver-
führer s. m. | غَرَّارٌ |
| مُغْوٍ |
ver-
führerisch a. | غَرَّارٌ |
| مُغْوٍ |
Verführung s. f. | إِغْوَاءٌ |
- vergaffen v. | اَعْجَبَ |
sich | in | ب |
a | عَشِقٌ |
- vergällen va. etw. | أَمَرَ |
ه |
- vergalloppieren v. | اِرْتَبَكَ |
sich |
بِشِبَاكِهِ |
- vergangen a. | ماضٍ |
s. f. | سابق |
ver-
gehen | -heit s. f. |
الماضِي |
الزَّمان |
الزَّمان | السابق |
الماضِي |
- vergänglich a. | فَنَاءٌ |
-heit s. f. | فَنَاءٌ |
- vergeben va. etw. | أنعم |
an | in. | (weg-
geben) | ه |
u | أعطى | ه |
u | ب |

- jm. etw. (verzeihen) | غَفَرَ لَهُ |
 | صَفَحَ عَنْهُ | عَفَا عَنْهُ | ه
 تُعَدِّي - sich etw. | سَامَحَ فِي
 | خَائِبًا | vergebens adv. | عَلَيْهِ
 | بلا فائِدة | باطلاً | عَبَثًا |
 | باطل | غَيْرُ مُفِيدٍ | غَيْرُ نَافِعٍ |
 | بلا فائِدة | عَبَثًا | خَائِبًا |
 | عدم الفائِدة | Vergelichkeit s. f. |
 | Vergabung s. f. | عَفُو | عدم النِّفْعِ
 | in. um - bitten | غُفْرَانٍ | مُعَافَاةٍ
 | اسْتَغْفَرَ |

vergegenwärtigen etw. | صَوَّرَ ه
 | تَمَثَّلَ | تَصَوَّرَ - sich etw. | مَثَّلَ ه

vergehen vn. (aufhören) a, u | زال |
 | انْتَهَى | انْقَطَعَ | انْقَضَى |
 | sich | فات | مَضَى | (الزَّمَن)
 | قَصَرَ عَنْ | gegen jn. u. an etw.
 | VERGEHEN s. n., VERGEHUNG
 | دُنُوبٍ | pl. | ذُنُوبٍ | قُصُورٍ |
 | (leichtes) - | جَنَايَا | pl. | جِنَايَةَ
 | عَثْرَاتٍ | pl. | عَثْرَةَ |

vergeistigen va. etw. | حَوَّلَ إِلَى ه
 | مَعْنَى رُوحِيَّ |

vergeltten va. jm. etw. | عَوَّضَ مِنْ ه
 | أَعَاضَ مِنْ ه | عَاوَضَ مِنْ ه
 | كَافًا ه بِ ه | etw. - mit ه بِ ه
 | جَارِي ه - | جَارِي ه |

Vergeltung s. f. | بِمِثْلِ عَمَلِهِ
 | مُكَافَاةٍ | ثَوَابٍ | مُجَازَاةٍ | جَزَاءٍ
 - ausüben f. vergelten.

vergessen va. etw. od. einer Sache
 | سَلَا ه | أَوْ عَنْ | نَسِيَ ه
 - etw. (liegen lassen) | تَرَكَ ه
 | قَصَرَ فِي وَاجِبَاتِهِ - | سَهْوًا |
 | عدم الذِّكْرِ عِنْدَ النَّاسِ |
 | نَسَى | زال ذِكْرُهُ | - - geraten

vergeßlich a. | كَثِيرِ النِّسْيَانِ |
 | نِسْوَةٍ | نِسْيَانٍ | s. f.

vergeuden va. Geld المال | أَسْرَفَ
 | أَتْلَفَ ه

vergewaltigen va. jn. | غَصَبَ ه
 | فَضَحَ ه | اَمْرًا ه | - - frau

vergewissern v. sich von etw. | تَأَكَّدَ
 | نَسَلَطَ - | sich einer Person gen.
 | اسْتَوَلَى عَلَيْهِ | عَلَيْهِ |

vergießen va. etw. | صَبَّ ه
 | كَبَّ ه * | سَكَبَ ه | Blut -
 | دَرَفَ - | Thränen - | سَفَكَ ه | الدم
 | سَكَبَ | Vergießung s. f. | صَبَّ |
 | سَفَكَ الدم - | (Blut-) |

vergiften va. jn. | دَعَفَ ه | سَمَّ ه
 | سَقَى ه | سَقُوَّةً * | قَشَبَ ه |
 - etw. bld. | أَفْسَدَ ه | Vergiftung
 | سَمَّ | دَعَفَ | s. f.

vergüten va. jn. etw. عَوَّضَ هِ مِنْ |

Vergütung s. f. تَعْوِيضٌ.

Verhaft s. m., in - bringen jn.

قَبِضَ هِ | -en va. jn. i سَجَنَ هِ u

حَبَسَ هِ i | سَجَنَ هِ u | عَلَيْهِ هِ

مَقْبُوضٌ عَلَيْهِ هِ | verhaftet | أَمْسَكَ هِ

إِمْسَاكٌ | قَبِضٌ s. f. | مَسْجُونٌ |

حَبَسَ.

verhalten vn. رَبَّنَ فِي الْبُعْدِ.

verhalten va. etw. (zurückhalten)

حَالَهُ - | إِمْتَنَعَ عَنْ | وَقَفَ هِ

سَلَكَ هِ u (betragen) - | كَذَا |

إِخْتَصَرَ بِ | - zu | تَصَرَّفَ |

Verhalten | عاد u إِلَى | تَعَلَّقَ بِ |

s. n. سُلُوكٌ (Betragen) - | حال s. n.

Verhältnis s. n. نِسْبَةٌ pl. نِسَبٌ |

مُعَادَلَةٌ* | اِعْتَدَالَ | عِلَاقَةٌ pl. |

بِالنِّسْبَةِ - zu im | أَحْوَالٌ -fe pl. |

بِالنِّسْبَةِ a. -mäßig | عَلَى قَدْرِهِ إِلَى |

-wort s. n. ظَرْفٌ gr.

Verhaltung s. f. med. عُسْرٌ | أُسْرٌ |

إِسْتِمْسَاكُ الْبَوْلِ - | اِحْتِبَاسٌ |

-smäßregeln s. pl. تَعْلِيمَاتٌ.

verhandeln va. etw. (verkaufen)

دَبَّرَ هِ | - vn. über etw. | باع هِ i

تَدَاوَلَ فِي | تَحَاوَرَ فِي | مَارَسَ هِ

Verhandlung s. f. تَدَاوُلٌ | تَحَاوُرٌ |

تَعَاطَى أَمْرٌ | تَدْبِيرٌ.

verhängen va. etw. (Gott) قَدَرَ هِ i

- Strafe (Richter) | قَدَّرَ هِ | (الله)

حَتَمَ هِ i | حَكَمَ هِ u | (القاضى)

Verhängnis s. n. قَدَرَ هِ i | قَضَى هِ

ver- | قَضَاءٌ | مُقَدَّرٌ | تَقْدِيرٌ | الله

hängnisvoll a. | مُحْتَمٌ | مُقَدَّرٌ

| شُوْمَى f. | أَشْأَمٌ | آتٍ بِسُوءٍ

نَحَسٌ.

verharren vn. | verbleiben.

verhärten va. etw. | صَلَّبَ هِ | أَحْشَنَ هِ |

Verhärtung | تَحَشَّنَ | تَصَلَّبَ - |

s. f. تَحَشَّنٌ | تَصَلَّبٌ.

verhaspeln v. | تَحَيَّرَ فِي الْكَلَامِ |

verhaft a. | مَكْرُوهٌ | كَرِيهٌ.

verhättscheln va. jn. | خَنَثَ هِ | دَلَّلَ هِ |

Verbau s. m. | حَطَبٌ مِنْ خَشَبٍ |

ضَرَبَ هِ -en va. jn. | حَطَامٌ pl. |

غَلَطَ - - a. | ضَرَبًا شَدِيدًا |

verheeren va. | خَرَبَ هِ i | خَرَّبَ هِ |

Verheerung s. f. | خَرَابٌ |

pl. | تَحْرِيْبٌ | أَخْرَبَةٌ pl. |

verhehlen va. etw. | كَتَمَ هِ u |

jm. etw. - | أَضْمَرَ هِ | أَخْفَى هِ

كَاتَمَ هِ

verheimlichen va. | verhehlen.

- verheiraten va. jn. mit **زَوْجًا** s. **أَوْ** | verhunzen va. etw. **قَبَّرَ ه** | **شَنَّعَ ه**.
 sich - mit **تَزَوَّجَ ب** | Ver- | verhüten va. etw. **مَنَعَ ه** | Gott.
 heiratung s. f. **إِقْتِرَانٍ** | **زَوَاجٍ**. | verhüte! **مَعَاذَ اللَّهِ**.
 verheißten va. jm. etw. **وَعَدَ ه** | **بِ** | verirren v. sich **ضَلَّ ه** | **عَنِ الطَّرِيقِ** |
 Verheißung s. f. **عَهْدٍ** | **إِلَيْهِ فِي** | u **تَاهَ** | i **تَاهَ** | Verirrung s. f. **ضَلَالٌ**.
مَوَاعِدٍ pl. **مَوَاعِدٍ** | **وَعُودٍ** pl. | verjagen va. jn. **طَرَدَ ه** u **طَرَدَ ه**.
 verhelpen vn. jm. zu etw. **أَنَالَ ه** | verjähren vn. **بَطَلَ ه** | **بِزَوَالِ زَمَانِهِ** |
أَفَازَ ه | **بِ** | Verjähmung s. f. **بُطْلَانٍ** | **بِزَوَالِ**
 verherrlichen va. jn. **عَظَّمَ ه** | Ver- | **زَمَانِهِ**.
 herrlichung s. f. **تَعْظِيمٍ**.
 verhergen va. etw. **سَحَّرَ ه** | **أ**.
 verhimmeln va. etw. **مَجَّدَ ه** | **عَظَّمَ ه** | verjüngen va. jn. **جَدَّدَ ه** | **شِبَابَهُ** |
 Verhimmelung s. f. **تَعْظِيمٍ** | **تَمْجِيدٍ** | **أَصْغَرَ ه** | **(المِقْيَاسِ)** (Maßstab) -
 verhindern va. jn. an **مَنَعَ ه** | **عَنِ** | sich **رَجَعَ ه** | **إِلَى الشُّبُوبِيَّةِ** -
 Verhinderung s. f. **أَعَاقَ ه** | **عَنِ** | verkalken va. etw. **كَلَسَ ه**.
عَوَاقِقٍ pl. **عَائِقٍ** | **مَوَانِعٍ** pl. | verkappt a. **مُتَنَكَّرٌ**.
 verhoffen va. etw. f. hoffen. | Verkauf s. m. **بَيْعٌ** | -en va. etw.
 verhöhnern va. jn. **اسْتَهْزَأَ بِهِ**. | **بِ** | **بَاعَ ه** | jn. etw. - - **ه**.
 Verhör s. n. **اسْتِنطاقٍ** | -en va. jn. | Verkäufer s. m. **بَائِعٌ** | pl. **بَائِعَةٌ** |
أَخْطَأَ فِي - - | **سِ** | **مَعْرُوضٌ** | verkäuflich a. **مُتَسَبِّبٌ** |
السَّمْعِ. | **بِ** | **بِ**.
 verhüllen va. etw. **حَجَبَ ه** | **عَطَى ه** | Verkehr s. m. **تِجَارَةٌ** | **مُعَامَلَةٌ** |
لِحَاجَبٍ - | **سِ** | **كَتَمَ ه** | **سَتَرَ ه** | **مُخَالَطَةٌ** | **مُعَاشَرَةٌ** (Umgang)
تَبَرَّقَعَ - | **سِ** | **دَاسَ** | **تَسْتَرٌ** | **مُرَاسَلَةٌ** - | brieflicher | **مُصَاحَبَةٌ** |
تَنْقَبٌ. | **مُكَاتَبَةٌ** | -en va. etw. (umkehren)
 verhungern vn. **مَاتَ ه** | **جُوعًا** | **ه** | **حَوْلَ ه** |
هَلَكَ ه | **جُوعًا**. | **تَقَلَّبَ ه** | **قَلَبَ ه** | **إِ** | **ه** | **حَوْلَ ه** |
سِ | **تَقَلَّبَ ه** | **تَغَيَّرَ ه** | **تَحَوَّلَ ه** - - | **سِ** |

- | عاشَرَ ه | - - vn. mit jm. | اِنْقَلَبَ
 | آلف ه | خالط ه
 verkehrt a. | مَغْلُوبٌ | - (falsch)
 | -heit | بِالْعَكْسِ | - adv. | مَغْلُوبٌ *
 s. f. | اِنْعِكَاسٌ | غَلَطٌ | فساد
 Verkehrung s. f. | قَلْبٌ | تَقْلِيْبٌ
 verkennen va. jm. | لَمْ يَعْرِفْ اَنَّهُ هُوَ |
 | لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ |
 verketten va. etw. | شَدَّ ه | بِسِلْسِلَةٍ
 | رَبَطَ ه | بِسِلْسِلَةٍ
 verkehren va. jm. | اَتَمَّهُ ه | بِالْبِدْعَةِ
 | عَنِ الدِّينِ |
 verkitten va. etw. | اَلْحَمَّ ه | بِالمِلاطِ
 verklagen va. jm. | رافَع ه | اِدْعَى عَلَيْهِ
 | اَمامِ القاضِي |
 verklären va. jm. | اَعَزَّ ه | اَجَلَ ه |
 verklärt | مَرْحُومٌ | جَلِيٌّ | Verklärung
 s. f. | تَجَلَّى |
 verflatschen va. jm. | طَعَنَ ه | فِيهِ
 | بِالْقَوْلِ |
 verfleben va. etw. | سَدَّ ه | بِالغِراءِ
 verfleiden va. etw. mit | غَطَّى ه | بِ
 | غَيْرِ ثِيابِهِ | - jm. | اَلْبَسَ ه | بِ
 | تَبَدَّلَ * | تَنَكَّرَ - | سِخِ | نَكَّرَ ه
 | تَنَكَّرَ | Verfleidung s. f. | تَخَفَّى *
 | تَلْبِيسٌ | ظاهرِ كاذِبِ
 verfleinern va. etw. | اصْغَرَهُ ه | صَغَّرَهُ
- | قَصَرَ ه | قَصَرَ ه | u | Verfleinerung
 s. f. | تَصْغِيرٌ |
 verfleistern va. etw. | s. | verfleben.
 verflingen vn. | s. | verhalten.
 verfrneifen v. sich etw. | اِمْتَنَعَ عَنِ
 verfrnöchern vn. | صارَ ه | عَظْمًا
 | تَجَمَّدَ | - bld. | اِلَى عَظْمِ
 verfrnüpfen va. etw. mit | عَقَدَ ه | بِ
 | شَدَّ ه | u | رَبَطَ ه | u | بِ
 Ver- | عَقْدٌ | s. f. | knüpfung
 verfröhlen vn. | صارَ ه | فِحْمًا
 verfrommen vn. | هَلَكَ |
 verfrorken va. flasche | صَمَدٌ القَيْنِيَّةُ
 | بِالْفَيْيِنِ |
 verfrörpern va. etw. | شَكَّلَ ه | صَوَّرَهُ
 verfrachten vn. | اَفْلَسَ |
 verfrriechen v. sich | اِخْتَفَى |
 verfrümmeln va. Geld | اَسْرَفَ اِمالِ
 | ذَهَبَ ه | ا شَيْئًا - | سِخِ | شَيْئًا فَشَيْئًا
 | فَشَيْئًا |
 verfrümmen va. etw. | حَتَّى ه |
 | عَطَفَ ه | i | حَدَّبَ ه
 verfrüppeln va. etw. | حَدَّبَ ه |
 | مُكْرَسَحٌ * | كَسِيحٌ |
 verfrühlen vn. u | تَبَرَّدَ - | سِخِ | بَرُدٍ
 | اَصَابَ ه | البَرُدِ
 verfrümmern va. jm. etw. | اَسَاءَ ه

vergilbt a. (Papier 2c.) مُصْفَرٌّ
(الورق مثلاً).

Vergißmeinnicht s. n. bot. آذان
لا تَنْسِنِي | الفأر

vergittern va. etw. سَدَّ u بِشَبَّكَ

verglasen va. etw. اَحْوَلَ ه إِلَى زُجَاجٍ
- vn. - | تَحْوَلُ إِلَى زُجَاجٍ
- | تَجَمَّدَتِ الْعَيْنُ

Vergleich s. m. تَشْبِيهِ | مُقَابَلَةٌ
| مُصَالَحَةٌ (Ausöhnung) - | مُشَابَهَةٌ

-bar a. قابل المشابهة | nichts

ist ihm - - | لا نَظِيرَ لَهُ - - en va.

etw. mit عرض i ه | قابل ه ب

| أَصْلَحَ | تَصَالَحَ mit - - | سِخَ | عَلَى

-sweise adv. | تَشْبِيهًا | -ung s. f.

مُشَابَهَةٌ | تَشْبِيهِ | مُقَابَلَةٌ

verglimmen vn. طَفِيَءَ شَيْئًا فَشَيْئًا
| خَمَدَ u | انطفاً

Vergnügen s. n., pl. Vergnügungen

| نَسَلٍ | تَسْلِيَةٍ | فَرَحٍ | سُورٍ

| انبساط | انشراح | an etw. - finden

| سَرَّ u | سرِّ | vergnügen va. jn. s

| سَلَى س | sich - mit

etw. انبسط | فرح a ب | سرِّ ب

| سارَّ | vergnüglich a. | انشراح | من

| مرضٍ | vergnügt a. über etw.

f. ver-
gnügen. | مَبْسُوطٍ مِنْ | مَسْرُورٍ

vergolden va. etw. | أَذْهَبَ ه | ذَهَبَ ه

| Vergolder s. m. | حَلَّى ه | بِذَهَبٍ

| تَذْهَيْبٍ | Vergoldung s. f. | مُذْهَبٍ

ذَهَبٍ مَطْلِيٍّ

vergönnen va. jn. etw. | أَذِنَ ا لَهُ فِي

| عَظَّمَ ه | آله ه

| تَأْلِيهِ | Vergötterung s. f. | مَجَّدَ ه

تَعْجِيدٍ | تَعْظِيمٍ

vergraben va. etw. | دَفَنَ i ه

| وَارَى ه | كَنَزَ i ه | طَمَرَ u i ه

| اَخْرَنَ u ه | خَبَأَ ه (verstecken) -

أَخْفَى ه

vergreifen v. sich (fehler begehen)

a غَلَطَ | انْعَثَرَ | sich - an jn.

u. etw. | تَعَدَّى عَلَى

نَفِدَ a (البضائع) (Waren) - sein

vergröbern va. etw. | غَلَّظَ ه

vergrößern va. etw. | أَكْبَرَ ه | كَبَّرَ ه

| زاد i ه (vermehrten) - | عَظَّمَ ه

| كَثَّرَ u | كَبَّرَ u - | كَثَّرَ ه

| تَكْبِيرٍ | Vergößerung s. f. | إِزْدَادٍ

| تَعْظِيمٍ | Vergößerungs-

glas s. n. | نَظَارَةٌ مُكْبِرَةٌ

Vergünstigung s. f. | رُخْصَةً

انْحَطَّ | vn. اَفْسَدَ ه لَه | له
i هَكَ.

verfünden va., verfündigen va. jm.

etw. اَخْبَرَ ه ب | Verfündigung

s. f. اِعْلَان | اِشْهَار | Mariä -
kath. عِيدِ الْبِشَارَةِ.

verfuppeln va. jm. عَرَسَ ه.

verfürzen va. etw. قَصَرَ ه | قَصَرَ i ه.

اَوْجَزَ ه | sich die Zeit -
اِحْتَصَرَ ه

Verfürzung s. f. قِصْر | تَسَلَّى

اِبْجَاز | اِحْتِصَار | تَقْصِير.

verlachen va. jm. ضَحِكَ ا عَلَيْهِ |

اِسْتَهْزَأَ بِهِ.

verladen va. Waren حَمَلَ الْبَضَائِعِ |

شَحَنَ a ه.

Verlag s. m. نَفَقَةُ الطَّبْعِ | طَبَعَ.

verlangen va. etw. von jm. u. طَلَبَ

- vn. اِلْتَمَسَ ه مِنْهُ | ه مِنْهُ

اِسْتَهَى ه | رَغِبَ a فِي

es verlangt nicht اِسْتَتَقَ اِلَى

Verlangen s. n. اَرْغَبَ فِي

اِطْلَبَ | اِسْتَهَى | شَوَّقَ | رَغِبَةَ

مَطْلُوبٍ | طَلْبَةَ.

verlängern va. etw. اَطَالَ ه |

اِطَّوَلَ | طَالَ - u | طَوَّلَ ه

اِطَّالَة | Verlängerung s. f. اِسْتَطَالَ

تَطْوِيلٍ.

Verlaß s. m. اَمَان | اَمْن |
es ist kein - auf ihn لا يُعْتَمَدُ
عَلَيْهِ.

verlassen va. jm. u. etw. اَتْرَكَ ه u ه

اِسْتَحْلَى ه | sich - auf

اِاتَكَلَ عَلَى | اتَوَكَّلَ عَلَى | اِعْتَمَدَ عَلَى

-heit s. f. اِهْمَال | اِتْرَكَ ه

s. f. تَرْكَة | مِيرَاث.

verlästern va. jm. طَعَنَ a فِيهِ بِالْقَوْلِ |

Verlaub s. m., mit - بِاِذْنِكَ | بِالْاِذْنِ -

Verlauf s. m. der Zeit مُضَى الزَّمَنِ |

مَضَى i (Zeit) -en vn. مَمَرَ الزَّمَنِ

ضَلَّ -- i, a | sich | فات u | (الزَّمَنِ)

تاه u | تاه i | عن الطَّرِيقِ

verlautbaren va. etw. اَشَاعَ ه |

اشاع i - vn. اِنشَرَّ i, u | اذاع ه

اِنْتَشَرَ | ذاع i

verlauten vn. اذاع i الصَّيْتِ | قِيلَ

اشاع ه | اذاع ه - lassen

verleben va. Zeit اَصْرَفَ i الزَّمَنِ |

verlebt a. اَصْرَفَ ه | قَضَى i ه

هَرَمَ.

verlegen va. etw. (anderswohin

legen) - etw. (nicht

finden können) اَضَاعَ ه |

jm. den Weg - مَنَعَ a ه عَنِ -

اَشْهَرَ الْكِتَابِ | - Buch | السَّيْرِ

بالطبع | verlegen a. حَيْرَان |
 | - werden تَكَيَّر | -heit s. f.
 تَكَيَّر | حَيْرَة

Verleger s. m. eines Buches مَنْ
 مُبَاشِر | يَطْبَع الكِتَاب بِمَصَارِيْفِهِ
 لِطَبْع كِتَابٍ

Verlegung s. f. اِنْتِقَال | نَقْل
 verleiden va. jm. etw. ه اَقْرَف ه
 كَرَه ه ه

verleihen va. etw. ه اَسْلَف |
 - jm. etw. ه اَعَار ه | اَقْرَض ه
 اَنْعَم ه | اَنْعَم ه ب (bewilligen)
 jm. einen ه اَعْطَى ه | عَلَيْهِ
 وَجَه النِّيشَانِ اِلَيْهِ - Orden

verleiten va. jm. ه اَغْوَى ه | اَضَلَّ ه
 Verleiter s. m. مُعْوٍ | Verleitung
 s. f. اِغْوَاء

verlernen va. etw. ه اَفْقَدَ ه | مَعْرِفَتَهُ
 نَسِيَ ا مَعْرِفَتَهُ

verlesen va. etw. (vorlesen) ه اَقْرَأَ ه
 - etw. (aussuchen) ه اَبْصُوتَ عَالٍ
 اَخْطَا فِي الْقِرَاءَةِ - sich ه اَنْقَى ه

verletzen va. jm. ه اَجْرَحَ ه | اَذَى ه
 جُرْح | Verletzung s. f. ه اَضْرَّ ه |
 جِرَاح | جِرَاحَةٌ | جُرُوح | pl.

verleugnen va. jm. ه اَنْكَرَ ه | مَعْرِفَتَهُ
 | - etw. ه اَنْكَرَ ه | رَفَضَ ه

sich selbst - اَقْتَهَرَ ه | نَفْسَهُ ا
 اِنْكَار | Verleugnung s. f. ه اِنْكَار |
 بِنَفْسِهِ | رَفَضَ | جُحُود

verleumden va. jm. ه اَوْ عَلِيَهُ ه | نَمَّ ه
 Verleumder h طَعَن | ا فِيهِ بِالْقَوْلِ
 s. m. ه اَنْمَام | نَمَّ | pl. ه اَنْمُون
 verleumderisch a. ه اَنْمَام | نَمَّ |
 Verleumdung s. f. ه اَنْمِيْمَة

verlieben v. sich in jm. ه اَعَشِقَ ه
 sich - in etw. ه اِغْرِمَ ه | اَعْرَمَ ه
 pl. ه اَعَشِقَ | verliebt a. ه اَوْلِعَ ب
 اَمَشْعُوف | مُعْرَم | عَشَاق | u. عَاشِقُونَ
 Verliebtheit s. f. ه اَعَشِقَ

verlieren va. etw. (einer Sache be-
 raubt werden) ه اَفْقَدَ ه | خَسِرَ ه
 - etw. (es nicht finden können)
 ه اَضَاعَ ه | ضَيَّعَ ه | etw. aus den
 Augen - ه اَبْغَابَ ه | الشَّيْءَ عَنْ
 اِنْكَسَرَ - eine Schlacht | البَصَرِ
 - an | قُمِرَ | im Spiel | ه اَغْلَبَ
 sich - ه اَنْقَصَ | u. قِيْمَةً | Wert
 ه اَذَهَبَ | a, u | اِضْمَحَلَّ | زال
 ضَلَّ عَنْ (verirren) - sich | اِنْقَطَعَ
 verloren | ه اَذَهَبَ | u | تَاهَ | i | الطَّرِيقِ
 verloren gehen | ه اَضَاعَ | مَفْقُود
 der verlorene Sohn | ه اَذَهَبَ | a
 christl. | الوَلَدِ الشَّارِدِ | الأَبْنِ الضَّالِّ

- Verließ s. n. (Burg-) سِجْنُ الْقَلْعَةِ |
 verloben va. seine Tochter mit jm. خَطَبَ بِنْتَهُ | اِخْتَطَبَ بِنْتَهُ لَهُ
 * | sich - mit einem Mädchen
 Verlöbniß s. n. | خَطْبٌ u. آبْنَةٌ
 Verlobte | عَقْدُ الْخُطْبَةِ | خِطْبَةٌ
 s. m. | خَطِيبٌ pl. خُطَبَاءُ | خَاطِبٌ
 s. f. | خِطِيبَةٌ | خَاطِبَةٌ
 s. f. | Verlöbniß.
 verlocken va. jm. | أَغْوَى * |
 Verlockung s. f. | إِغْوَاءٌ.
 verlogen a. | كَذَّابٌ | كَذُوبٌ -heit
 s. f. | كَذِبٌ | كُذْبَانٌ.
 verlohnen vn., das verlohnt der
 Mühe nicht | هَذَا الْأَمْرُ لَا يُذَكَّرُ لَا يَحْرَزُ
 لا يَحْرَزُ.
 verloren a. | verlieren.
 verlöschen vn. a. | اِنْتَفَأَ | طَفِيَءٌ
 u. مَحَا.
 verlosen va. etw. | اِقْسَمَ هُ بِسِيَاهِ
 Verlosung s. f. | لُوتْرِيَا * | مُسَاهَمَةٌ.
 verlöten va. etw. | الْحَمُّ هُ.
 Verlust s. m. | ضِيَاعٌ | خَسَارَةٌ | خُسْرٌ
 - einer Schlacht | فَتْدَانٌ | فَتْدٌ
 -ig gehen einer
 Sache gen. | انْكِسَارُ الْجَيْشِ
 s. f. | verlieren.
 vermachen va. jm. etw. | وَصَّى * |
 Vermächtnis s. n. | وَصِيَّةٌ | frommes -
 pl. | اَوْقَافٌ u. وَقُوفٌ.
 vermählen va. jm. mit jm. | زَوَّجَ * *
 | اَوَّجَ بِهِ | sich - mit jm. | تَزَوَّجَ بِهِ
 Vermählung s. f. | زَوَاجٌ | نِكَاحٌ
 | اِقْتِرَانٌ.
 vermahnen va. jm. zu etw. | حَثَّ * u
 | حَرَّضَ * | عَلَى | عَلَى
 s. f. | تَحْرِيفٌ.
 vermaledeien va. jm. | لَعَنَ * a
 | سَبَّ * u *
 vermauern va. etw. | سَوَّرَ هُ.
 vermehren va. etw. | زَادَ i هُ |
 | كَثُرَ u | اِزْدَادٌ - sich
 s. f. | زِيَادَةٌ | اِزْدِيَادٌ | مَزِيدٌ.
 vermeiden va. etw. | تَجَنَّبَ هُ |
 | اجْتَنَّبَ هُ.
 vermeinen va. etw. | ظَنَّ u هُ | ver-
 meint a., vermeintlich a. | مَوْهُومٌ |
 وَهْمِيٌّ.
 vermelden va. jm. etw. | أَخْبَرَ * |
 vermengen va. etw. mit | اَخْلَطَ u هُ |
 | مَزَجَ هُ | Vermengung s. f.
 | اِخْتِلَاطٌ | خِلْطٌ.
 Vermerk s. m. | تَنْبِيهَاتٌ pl. تَنْبِيهٌ

-en va. etw. | اُنْتَبَهْ لِ | شَعْرُ u بِ |
jm. etw. übel - - | آخَذَ u عَلىَ - -

vermeffen va. etw. | قاسَ i هِ |
sich - zu | تَجَاسَرَ بِ | vermeffen a.
| جَسَارَةٌ s. f. | مُتَجَاسِرٌ | جَسُورٌ
| جَرَاءَةٌ

vermieten va. jm. etw. | أَجَرَ u هِ |
| Vermieter | أَكْرَى | كَارَى | أَجَرَ
s. m. | مُكْرٍ | مُكَارٍ | مُوَجِّرٌ | أَجِرٌ
| Vermietung s. f. | تَأْجِيرٌ | كِرَاءٌ
| إِكْرَاءٌ

vermindern va. etw. | قَلَّلَ هِ | أَقَلَّ هِ |
sich - | أَصْغَرَ هِ | أَنْقَصَ هِ | نَقَّصَ هِ
| Ver- | صَغُرَ u | نَقَّصَ u | قَلَّ i
minderung s. f. | تَنْقِيسٌ | تَقْلِيلٌ
| تَصْغِيرٌ

vermischen va. etw. mit | خَلَطَ u هِ |
| Vermischung s. f. | مَزَجَ u هِ |
| إِخْتِلَاطٌ | خِلَاطٌ

vermissen va. etw. | شَعْرَ u بَعْدِمِهِ |
| اِفْتَقَدَ هِ

vermitteln vn. zwischen | تَوَسَّطَ بَيْنَ |
| حصلَ u - | دَخَلَ u بَيْنَ
| vermittelt, ver- | عَلَيْهِ بِتَوَسُّطِ
mittelst praep. c. gen. | بِوَسِطَةِ
| Vermittler s. m. | وَسِيطٌ pl. | وَسَطَاءٌ
| Vermittlung s. f. | مُتَوَسِّطٌ

vermodern vn. a | نَعَنَّ | عَفِنَ

vermöge praep. c. gen. | بِمُقْتَضَى

-n va. etw. | بِمُوجِبِ ... | ...

| اسْتَطَاعَ هِ | اِقْتَدَرَ عَلَى | قَدَرَ i عَلَى

jm. - - zu etw. | حَمَلَ i هِ إِلَى

| قُوَّةٌ | قُدْرَةٌ (Kraft) -n s. n.

| أموالٌ pl. مال (Geld u. Gut) - -

-nd a., vermög- | أَرْزَاقٌ pl. رِزْقٌ

lich a. | مُكْتَبِرٌ | غِنَى | غِنَى

| دُو ثَرْوَةٌ | دُو زَفَاهَةٌ

vermorſchen vn. | نَعَنَّ

vermummen v. sich in einen Mantel

| تَزَمَّلَ

vermuten va. etw. | ظَنَّ u بِ |

vermutlich a. | مُحْتَمَلٌ | مَظْنُونٌ

| Vermutung s. f. | ظَنَّ | تَحْمِينِيٌّ

| تَحْمِينٌ

vernachlässigen va. etw. | غَفَلَ عَنِ

| أَهْمَلَ هِ | سَهَا u عَنِ | تَغَافَلَ عَنِ

| Ver- | لَمْ يُرَاعَ هِ - | تَوَانَى فِي

nachlässigung s. f. | تَغَافُلٌ | إِهْمَالٌ

| عَدَمُ الْمُرَاعَاةِ

vernageln va. etw. | سَدَّدَ u هِ بِمَسَامِيرٍ

vernagelt (Mensch, Kopf) bld.

| قَلِيلُ الْعَقْلِ

vernarben vn. (Wunde) a | دَمَلَ

- | نَدِيبٌ a | التَّحَمُّمُ | التَّنَامُ | (الجُرْحُ)
 | خَتَمٌ *i.
- vernarren v. sich in jn. s a عَشِقَ |
 | vernarrt sein in jn. | أَغْرِمَ بِهِ
 s a عَشِقَ.
- vernaschen va. Geld أَسْرَفَ المالَ في
 الأَطْعِمَةَ اللَّذِيذَةَ.
- vernehmbar a. صَرِيحٌ | يُسْمَعُ | جَاهِرٌ
- vernehmen va. etw. ه a سَمِعَ |
 - jn. (vor Gericht) | بَلَغَ u s أَنْ
 | vernehmlich a. f. | اسْتَنْطَقَ s
 vernehmbar | Vernehmung s. f.
 (vor Gericht) اسْتِنْطَاقٌ.
- verneigen v. sich vor jm. a خَضَعَ |
 | Verneigung s. f. خُضُوعٌ | لَهُ
- verneinen va. etw. ه i نَفَى | أَنْكَرَ ه |
 | Verneinung s. f. نَفْيٌ | انْكَارٌ |
 | Verneinungspartikel s. f., Ver-
 | neinungswort s. n. gr. حَرْفٌ
 | النَفْيُ.
- vernichten va. etw. ه | أَهْلَكَ ه | أَعَدَمَ ه |
 | Vernichtung | أَبْطَلَ ه | أَبَادَ ه
 | s. f. | إِبْطَالٌ | إِبَادَةٌ | إِعْدَامٌ.
- vernieten va. etw. * رَسَخَ ه * | بَجَّنَ ه *
- Vernunft s. f. | دِرَايَةٌ | إِدْرَاكٌ | عَقْلٌ |
 | Vernünftelei s. f. | صَوَابٌ | رُشْدٌ
 | vernünfteln vn. تَفَلُّسٌ | تَفَلُّسٌ
- vernünftig a. (Person) عَاقِلٌ |
 | صَوَابِيٌّ (Sache) - | رَاشِدٌ | نَاطِقٌ
 | مُوَافِقٌ الصَّوَابِ.
- veröden vn. a أَقْفَرَ | خَرِبَ | verödet
 a. مُقْفِرٌ | Verödung s. f. | خَرَابٌ |
 دَمَارٌ.
- veröffentlichen va. etw. ه i, u نَشَرَ |
 | أَشْهَرَ ه | أَذَاعَ ه | أَشَاعَ ه
- verordnen va. etw. ب u أَمَرَ |
 - (Gott) (الله) | قَدَّرَ ه (Arzt)
 | وَصَفَ i ه (الطَّبِيبُ)
 | - Des | أَوَامِرٌ pl. أَمْرٌ s. f. |
 | وَصْفَةُ الطَّبِيبِ.
- verpachten va. jm. etw. ه كَارَى s ه
 | أَكْرَى ه | (أَرْضًا)
- verpacken va. etw. ه | حَزَمَ ه |
 | Verpackung s. f. | حَزْمٌ | تَحْزِيمٌ.
- verpassen va. (versäumen) Zeit,
 | Gelegenheit | فَاتَ u s | الْوَقْتُ أَوْ
 | الْفُرْصَةُ.
- verpesten va. die Luft | أَنْتَنَ | أَنْتَنَ |
 | - etw. bld. | أَفْسَدَ ه.
- verpfänden va. jm. etw. s a ه رَهَنَ
 | أَوْ عِنْدَهُ.
- verpflanzen va. Baum | نَقَلَ u الشَّجَرَةَ
 | - etw. bld. | ه u | نَقَلَ ه |
 | مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ.

verpflegen va. jn. ۛ u | قات ۛ | أعاش ۛ
 Verpflegung s. f. | قوت | معاش.
 verpflichten va. jn. zu ۛ | أوجب ۛ على
 | مَنْ عَلَيْهِ * | أنعم عليه | ألزم ۛ بـ
 | تكلف ۛ | ألزم نفسه بـ | sich - zu
 | verpflichtet a. jn. | ارتكهن بـ
 | مَمْنُون لَهُ * | مديون له | Ver-
 | واجبات pl. | واجب s. f. | Verpflichtung
 | فروض pl. | فرض.
 verpfuschen va. etw. ۛ | أساء ۛ
 | أثلف ۛ | أفسد ۛ.
 verpichen va. etw. ۛ | زقت ۛ.
 verplämpern va. Geld | أسرف المال
 verplaudern va. die Zeit | صرف
 | الزمن بالحديث.
 verpönt a. مَمْنُوع.
 verprassen va. Gut | أسرف المال
 verproviantieren va. jn. ۛ | زود ۛ
 | زاد ۛ - u | sich | مأن ۛ | آزاد ۛ
 | تمون | تزود.
 verpuffen vn. | التخب بصوت
 | شديد.
 verpulvern va. Geld | أسرف المال
 verpuppen v. | صار | صلجة
 | صار | فيلجة.
 verpußen va. Geld | أسرف المال
 verquellen vn. | انتفخ بالرطوبة.

verquicken va. etw. mit u | خلط
 | أشياء | أشياء متنوعة
 | متنوعة.
 verrammeln va. Thür * | دربز الباب
 | أغلق الباب | بدر باز.
 Verrat s. m. | خيانة | -en va. jn.
 | أفشى | - - | Geheimnis | خان ۛ u
 | أعلن - - | sich | باح | بالسر | السر
 | أفشى امرأة | امرأة.
 Verräter s. m. | خائن pl. | خوان
 | خائن a. | -ifch | خيانة | -ei s. f.
 | صادر من الخيانة.
 verräuchern vn. | تصاعد | صار | بخارًا
 | اضمحل | زال | - | بخارًا
 | سؤد ۛ | بدخان | verräuchern va. etw.
 | جرى | بهدير | verrauschen vn.
 | حاسب ۛ | verrechnen vn. mit jn.
 | غلط | في الحساب | - sich
 | مات u | (حيوان) | verrechen vn. (Tier)
 | كف | امتنع عن | verreden va. etw.
 | نذر | الامتناع عن | عن
 | سافر | verreisen vn.
 | sich einen Arm 2c. | verrenken va.
 | جمع ۛ | فك ۛ u | خلع ذراعه
 | فكش u ۛ * | Verrenkung s. f.
 | فكش * | انفكك | انخلاع | نخلع
 | انفكش *.

verrennen va. jm. den Weg مَنَعَ عَنِ السَّبِيلِ .

verrichten va. etw. فَعَلَ أَعْمَلَ | صَلَّى | das Gebet - قَضَى $\text{إِ$
Verrichtung s. f. عَمَل pl. أَعْمَال | وَزَيْفَةٌ * | أَفْعَال pl. فِعْل
 وَوَظَائِف .

verriegeln va. Thür أَغْلَقَ البَاب
 دَرَبَتِ البَاب * | بِدَرَبَاز .

verringern va. etw. أَقَلَّ ه | قَلَّلَ ه | تَقَلَّل | نَقَصَ ه
Verringerung s. f. تَقْلِيل | تَنْقِيس .

verrinnen vn. (Zeit) مَضَى $\text{إِ$ (الزَّمَنُ) زَمَانًا
 وَوَقَات .

verrohen vn. تَحَشَّن .

verrosten vn. صَدِئَ .

verrotten vn. تَعَفَّنَ | عَفِنَ | ver-
 رَوَّت عُقُونَةً .

verrucht a. شَقِي * | شَرِيْر | رَذِيْل
-heit s. f. شَرِّ الشَّرِيْر | رَذَالَةٌ .

verrücken va. etw. نَقَلَ ه عَنِ | مَحَلِّهِ | verrückt a. مَجْنُون - sein
 جُنُون | Derrücktheit s. f. جُنُون | جُنَّ
Derrückung s. f. einer Sache نَقْل
 $\text{الشَّيْءِ عَنِ مَحَلِّهِ}$.

Derruf s. m. خَسَارَةٌ حُسْنِ الذِّكْرِ | خَسَرَ
 إِنْفِصَاح | in - kommen

حُسْنِ الذِّكْرِ | etw. in - bringen,
erklären ف. -en | -en va. etw.
 أَعَدَمَ ه حُسْنِ الذِّكْرِ أَوْ | أَشَرَّ ه
 فَضِيح إ. -en | أَضْحَى ه | الصَّيْت
 عَادِمَ حُسْنِ الصَّيْت .

Ders s. m. أَبْيَات pl. بَيْت | (Ge-
dicht) نَظْم | أَشْعَار pl. شِعْر (Shi-
- (des Korans, der Bibel) آيَةٌ
pl. آيَات .

versagen va. jm. etw. (verweigern)
 رَفَضَ ه | رَفَضَ ه | أَبَى ه -
 كَفَّ ه | عَنِ حَرَمَ $\text{إِ$ نَفْسَهُ ه
etw. - (versprechen) وَعَدَ $\text{إِ$ بِ
 أَخْطَأَ | لَمْ يُطَلِّق (Gewehr) - vn.

versalzen va. etw. مَلَحَ ه زَائِدًا .

versammeln va. ju. جَمَعَ | فِي -
 اجْتَمَعَ | zu seinen Vätern ver-
sammelt werden تُوِّقِيَ | Versamm-
lung s. f. اجْتِمَاع | مَجْلِس pl.
 مَجْمَع | جَمْعِيَّة | جَمَاعَةٌ | مَجَالِس
pl. مَجَامِع .

Versand s. m. f. Versendung .

versanden vn. تَغَطَّى بِرُمْل | رُمِلَ .

Versatz s. m., jm. etw. in - geben
 رَهَن ه أ ه .

versaunern vn. اِخْتَلَّ | حَمِضَ .

verfaufen va. sein Vermögen ز.

versäumen vn. (er-
trinken) | أَسْرَفَ مَالَهُ بِالشُّرْبِ
غَرِقَ.

versäumen va. etw. | تَوَانَى عَنِ
| قَصَرَ u عَنِ - die Gelegenheit
Versäumnis | فات u هِ الْفُرْصَةُ
s. f. | إِهْمَالٍ | سَهْوٍ | إِسْقَاطٍ
| غَفْلَةٍ | إِسْقَاطٍ | سَهْوٍ | إِهْمَالٍ
تَوَانَى | تَغَافَلَ.

Versbau s. m. | عِلْمُ العَرُوضِ.

verschachern va. jm. etw. | باع i ه لَه
بِيعَ اليَهُودَ.

verschaffen va. jm. etw. | أَفَازَ ه بِ
| أَحْطَى ه بِ | أَنَالَ ه ه
| نَالَ a ه - etw.

verschämt a. | خَجَلَانٍ | خَجَلٍ
فَقِيرٍ يَسْتَحْيِي - er Armer | مُسْتَحْيٍ
| خَجَلٍ s. f. | مِنَ التَّسَوُّلِ
حَيَاءٍ.

verschanzten va. etw. | حَصَّنَ ه
| تَحَصَّنَ - | بِمَتَارِيْسٍ
| مَتَارِيْسٍ pl. | مِتْرَاسٍ s. f.
تَحْصِيْنٍ.

verschärfen va. etw. | شَدَّ u ه | حَدَّدَ i ه
| إِشْتَدَّدَ - | عَظَّمَ ه | كَبَّرَ ه
u كَبُرَ.

verscharren va. etw. | دَفَنَ i ه.

verschneiden vn. u | تَوَقَّى | مات
قَضَى i أَجَلَهُ.

verschenken va. etw. | وَهَبَ a ه
- | بِعَ i المَشْرُوبَاتِ
بِالتَّفْرِيقِ.

verschertzen va. etw. | فَقَدَ i ه
| خَسِرَ a ه | تَغَافَلَ | سَهْوًا
- etw. daff.

verschleichen va. jm. | طَرَدَ ه u
جَفَلَ ه.

verschicken etw. | أَرْسَلَ ه
- | نَفَى i ه (verbannen)
| نَفَى | إِرْسَالٍ s. f.

verschieben va. etw. | نَقَلَ u ه
عَنِ | أَحْرَه (aufschieben)
| مَحَلِّهِ | أَجَّلَ ه | آتَى ه.

verschieden a. | مُخْتَلِفٍ |
أَشْيَاءَ - e (einige) | بَعْضٍ - e
Dinge | إِخْتِلَافٍ - | شَتَّى
| مُخْتَلِفٍ a. | تَنَوُّعٍ | إِخْتِلَافٍ
بَعْضٍ | شَتَّى.

verschießen va. Pulver | أَطْلَقَ
البَارُودَ | عَشِقَ a بِهِ - in
| كَلَّهُ | دَعَبَ a لَوْنُهُ (farbe)
- vn.

verschiffen va. Waren u
نَقَلَ | البَضَائِعِ بَحْرًا.

verschimmeln vn. a | نَعَقَنَّ
| أَكْرَجَ (Brot) - | عَطِنَ a *.

verschlafen va. **أَسْرَفَ الزَّمَنَ** Zeit
 نَوَامٍ | verschlafen a. **نَوَامٌ** | بالنوم

Verschlag s. m. **حَوَاجِزٍ** pl. **حَوَاجِزٍ**
 -en va. etw. (Verschlag machen)
أَثَرَ (wirken) -- | **قَسَمَ هـ** بِحَوَاجِزٍ
 لَمْ | es verschlägt nichts | **نَفَعَ ا**
 vom Wind - **يُؤَثِّرُ** |
 werden (Schiff) **ضَلَّ** i, a
 -en a. | **الطَّرِيقِ بِالرِّيحِ (مَرْكَبٌ)**
 -enheit s. f. **مَكْرٌ** | **مُحْتَالٌ** | **مَكَارٌ**

verschlammen vn. **سُدَّ بِالطَّيْنِ**

verschlechtern va. etw. **هـ** | **أَسَاءَ هـ**
أَثَلَفَ هـ | **أَفْسَدَ هـ** | **أَرَدَأَ هـ**
أَفْسَدَ i, u | **تَلَفَ ا** | **رَدِيَّ ا** - sich
 Verschlechterung s. f. **إِسَاءَةٌ** | **سُوءٌ**
 الحال

verschleiern va. jn. u. etw. **حَجَبَ**
تَحَجَّبَ - sich | **سَتَرَهُ و هـ** | **هـ و هـ**
 Verschleierung | **تَنَقَّبَ** | **إِسْتَتَرَ**
 s. f. **حِجَابٌ**.

verschleimt a. **كَثِيرِ البَلْغَمِ**

Verschleiß s. m. **بَيْعٌ** | -en va. Waren
 باع i **البَضَائِعِ**

verschleppen va. jn. **هـ** | **أَضَلَّ هـ**
 - etw. **أَخَّرَ هـ** | Verschleppung s. f.
تَأْخِيرٌ | **تَأْخِيرٌ**

verschleudern va. Geld **أَسْرَفَ المَالِ** |
 باع i **البَضَائِعِ بِخَسَارَةٍ** - Waren

verschließen va. Thür **أَغْلَقَ البَابَ** |
قَفَلَ i هـ في - in | **سَكَّرَ هـ ***
أَخْفَى هـ | **أَغْفَرَ هـ** في
 schlossen (Mensch) **سَكُوتٌ** |
سَكَّيْتُ.

verschlimmern va., Verschlimmerung
 s. f. | verschlechtern, Verschlech-
 terung.

verschlingen va. etw. **هـ ا** | **بَلَعَ ا**
 ein Buch | **أَفْتَرَسَ هـ** | **إِبْتَدَعَ هـ**
 etw. mit den | **قَرَأَ ا** **كِتَابًا بِرِغْبَةٍ**
نَظَرَ u | **إِلَيْهِ بِرِغْبَةٍ** - Augen
 - etw. (in einander schlingen)
إِلْتَفَّ - sich | **لَفَّ u هـ**
 schlungen | **مَلْتَفَّ** | **مَلْفُوفٌ**

verschlossen a. | verschließen | -heit
 s. f. **كَلَامٌ** | **صُمُوتٌ** | **سُكُوتٌ** s. f.

verschlucken va. etw. **هـ ا** | **بَلَعَ ا**
إِبْتَدَعَ هـ

Verschluß s. m. **أَغْلَاقٍ** pl. **غَلَقٍ**
 pl. **أَقْفَالٍ** - (das Verschließen)
إِقْفَالٍ | **إِغْلَاقٍ**

verschmachten vn. **صَنِىَ ا** **جُوعًا**
أَضْنَى هـ | **الجُوعُ** | **العَطَشُ** | **وعَطَشًا**

versetzen va. etw. u h | نَقَلَ | Schüler
 | نَقَلَ u التِّلْمِيذِ إِلَى صَفِّ آخَرَ
 - etw. (verpfänden) h a رَهْنُ
 - jm. etw. (antworten) ه أَجَابَ ه
 | jm. einen Schlag -
 | ضَرَبَ i ه | Versezung s. f. نَقْلُ
 | ضَرَبَ i ه | عَنِ مَحَلِّهِ

versichern va. etw. h a ضَمِنَ |
 | تَضَمَّنَ h | jm. etw. - ه أَكَّدَ ه
 | ثَبَّتَ h | sich einer
 | حَقَّقَ h | Person -
 | قَبِضَ i عَلَيْهِ | تَأَكِيدُ |
 | تَأَكِيدُ | Versicherung s. f. تَأَكِيدُ
 | وَعْدَ (Versprechen) - | تَوَكِيدُ
 | ضَمَانَ (Garantie) - | وَعُودُ
 | سِيكُورَتَا*

versiegeln va. etw. h و عَلَى | خَتَمَ i ه
 | وَضَعَ a الخَتْمَ عَلَى

versiegen vn. a, i | نَزَحَ | نَزَفَ i ه
 | نَشَفَ a* | فَرِغَ a

versilbern va. etw. h | دَجَّلَ | طَلَى i ه
 | ه بِالْفِضَّةِ | - etw. (verkaufen)
 | جَعَلَ a ه نُقُودًا | باعَ i ه

versinken vn. u سَقَطَ | غَرِقَ a | bld.
 | اِنْهَمَكَ فِي | تَعَمَّقَ فِي

versinnlichen va. etw. ه صَوَّرَهُ

versitzen vn., versessen sein auf etw.
 | أُولِعَ بِ

vers-funst s. f. | عِلْمُ العَرُوضِ -maß
 | بَحْرٍ pl. | وَزُنْ s. n.

versöhnen va. jn. | أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
 | وافقَ بَيْنَهُمْ | sich - mit einander
 | تَسَالَمَ | sich - mit jm.
 | صَالَحَ ه

versöhnlich a. | مُحِبِّ الصُّلْحِ |
 | مَحَبَّةَ الصُّلْحِ | -feit s. f.

Versehnung s. f. | صُلْحٍ | مُصَالِحَةٍ

versorgen va. jn. mit etw. | جَمَّلَ ه بِ
 | - jn. (ernähren) | -
 | أَعَدَّ ه بِ | وَطَّفَ ه* |
 | أَعَاشَ ه | قَاتَ u ه | Ver-
 | زَوْجَ ابْنَتَهُ | eine Tochter
 | مَعَاشٍ | sorgung s. f. | تَجْهِيْزِ
 | وَظِيْفَةً* | مَنْصِبِ

versparen va. etw. auf eine Zeit
 | أَجَّلَ ه إِلَى | آخَرَ ه إِلَى وَقْتِ
 | اسْتَبَقَى ه إِلَى | أَبْقَى ه إِلَى

verspäten v. sich | تَأَخَّرَ |
 | تَأَخِيرِ | Verspätung s. f. | تَأَجَّلَ
 | تَعَوَّقَ | تَأَخَّرَ

verspeisen va. etw. h u أَكَلَ

versperren va. etw. h u | سَدَّ | jm.
 | مَنَعَ a ه | عَنِ السَّيْرِ -
 | den Weg

verspielen va. etw. h في | خَسِرَ a ه
 | اللَّعِبِ

verspotten va. jn. | تَهَزَّأَ بِهِ

ضِحِكٌ a عَلَيْهِ | هَجَا u | ه | بِهِ
تَلَاعَبَ بِهِ.

versprechen va. jm. etw. وَعَدَ i | ه | بِ
أَخْطَأَ فِي - | سِجْ | عَهْدٌ a إِلَيْهِ فِي
| سِجْ | غَلَطَ a فِي الْكَلَامِ | الْكَلَامِ
| خَطَبَ u آبْنَةً - einem Mädchen
Versprechen s. n., Versprechung
s. f. مَوَاعِدَ pl. مَوْعِدٌ | وَعُودَ pl. وَعْدٌ s. f.

versprengen va. die feinde شَتَّتَ
فَرَّقَ هُمْ | بَدَّدَ هُمْ | الْأَعْدَاءَ

verspritzen va. Blut سَفَكَ i الدِّمَاءَ

Verspruch s. m. mit einem Mädchen
عَقْدَ الْخِطْبَةِ | خِطْبَةَ آبْنَةٍ

verspünden va. faß سَدَّ u البِرْمِيلَ

verspüren va. etw. شَعَرَ u | بِ

Verstand s. m. إِفْطِنَةٌ | إِدْرَاكٌ | عَقْلٌ
den - | الصَّوَابَ - der gesunde
| جُنَّ - verlieren, nicht bei -e sein
-eskraft s. f. قُوَّةُ الْإِدْرَاكِ

verständlich a. صَاحِبٌ | فِطْنٍ | عَاقِلٌ
| أَعْلَمَ ه | -en va. jm. von etw. | رَأَى
| سِجْ | اتَّفَقَ - mit jm. - | عَرَفَ ه
| اتَّفَاقٌ s. f. | مَعَهُ

verständlich a. سَهْلٌ الْفَهْمُ | مَفْهُومٌ
| وَاضِحٌ - | سُهولةُ الْفَهْمِ s. f. - | وَاضِحٌ

Verständnis s. n. | إِدْرَاكٌ | عَقْلٌ

اتَّفَاقٌ عَلَى خَدْعٍ - heimliches
القَرِيبِ.

verstärken va. etw. | مَكَّنَ ه | قَوَّى ه
| إِزْدَادٌ | تَقَوَّى - | زَادَ i ه
Verstärkung s. f. | تَقْوِيَةٌ - (von
Truppen) | مَدَدٌ | أَغْوَانٌ pl. عَوْنٌ
pl. أَمْدَادٌ.

verstatten va. jm. etw. | أَذِنَ a لَهُ بِ
| سَمَّ a لَهُ بِ

verstauben vn., verstäuben vn. تَغَطَّى
بِغُبَارٍ.

verstauchen v., Verstauchung s. f.
| . | verrenken, Verrenkung.

Versteck s. n. | مَخَابِيءٌ pl. مَخْبَأٌ
va. etw. | أَخْفَى ه | خَبَأَ a ه
| اخْتَفَى - - | سِجْ

verstehen va. jm. u. etw. | فِهِمَ a ه و ه
| عَرَفَ i ه - (Kunst, Wissenschaft)
| عَنَى i - unter etw. | أَحْسَنَ ه
| سَجَّحَ a لَهُ بِ - geben - jm. etw. zu
| عَرَفَ i ه - auf - | أَوْحَى إِلَى
| سِجْ | اتَّفَقَ مَعَهُ - mit jm.
- zu etw. | اِرْتَضَى بِ | رَضِيَ a بِ
es versteht sich von selbst | يُفْهِمُ
يُدْرِكُ.

versteifen v. | تَصَلَّبَ بِ | سِجْ | auf
u عِنْدَ

- - etw. (kosten) ه | ذاق u -er
 (zum Bösen) | مُغْوٍ | مُفْتِنٍ - -
 | إغواء -ung | الشَّيْطَان (Teufel)
 pl. وَسْوَاسٍ | وَسْوَاسَةٌ | تَفْتِينٍ
 .نَجْرِبَةٌ* | وَسْوَاسٍ
- versündigen v. sich a | أَخْطَأَ | خَطِيئًا
 versunken a. غَرِيقٍ | .versenken
 versüßen va. etw. ه | لَطَّفَ | أَحْلَى ه
 vertagen va. etw. ه | أَجَّلَ | أَحْرَه
 | تَأْخِيرٍ | Vertrag s. f. | أَمَهْلٍ ه
 | إِمُهَالٍ | تَأْجِيلٍ
- vertändeln va. سَرَفَ الزَّمَنَ | Zeit
 .بِالْمُزَاحِ
- vertauschen va. etw. mit ه ب | بَادَلَ ه ب
 | غَايَرَ ه ب | عَاوَضَ ه ب
 .مُغَايِرَةٌ | مَبَادَلَةٌ | Ver-
 tauschung s. f.
- verteidigen va. jm. دَافَعَ عَنْهُ | حَامَى
 | دَافَعَ عَنِ نَفْسِهِ - sich | عَنْهُ
 | مُحَامٍ | مُدَافِعٍ s. n. | Verteidiger
 | دِفَاعٍ s. f. | Verteidigung | أَفْوَاكُتُو*
 .مُحَامَاةٌ | مُدَافِعَةٌ
- verteilen va. etw. ه | فَرَّقَ ه | وَزَعَ ه
 | تَوَزَّيْعٍ s. f. | Verteilung | قَسَمَ ه
 .تَوَزَّعَ
- verteuern va. etw. .أَعْلَى ثَمَنَهُ
 verteufelt a. خَبِيثٌ
 verthun va. Geld | أَسْرَفَ أَمْالًا
- vertiefen va. etw. ه | عَمَّقَ | sich - in
 | غَاصَ u في | تَبَحَّرَ في | تَعَمَّقَ في
 | اِسْتَقْصَى | Vertiefung s. f. | عُمُقٍ
 .اِسْتِقْصَاءٌ | تَعَمَّقَ | تَبَحَّرَ | حَفَرَ
 vertiert a. مُتَوَجِّحٍش
- vertikal a. عَمُودِيٌّ
- vertilgen va. jm. u. etw. اِسْتَأْصَلَ
 | أَهْلَكَ ه | أَبَادَ ه | وَه | ه | وَه
 .اِسْتِئْصَالٌ | Vertilgung s. f. | مَحَا ه
 | عَهُودٍ pl. | عَهْدٌ | Vertrag s. m. | عَقْدٌ
 | اِتِّفَاقٍ | مُعَاهَدَةٌ | einen - schließen
 | حَالَفَ ه | عَاقَدَ ه | عَاهَدَ ه | mit jm.
 .تَحَمَّلَ (ertragen) | etw. -en va.
 | أَطَاقَ ه | وَعَلَى | اِحْتَمَلَ عَلَى | عَلَى
 -- sich | هَضَمَ | الطَّعَامَ | Speisen --
 -- mit | اِتَّفَقَ | اِتَّفَقَ | اِتَّحَدَ | تَصَالَحَ
 .اِتَّفَقَ مَعَهُ | صَالَحَ ه | jm.
- verträglich a. اَسْوَأُ الخَلْقِ | أَنَيْسٌ
 .تَسَاهُلٌ | -feit s. f. | مُتَسَاهِلٌ
- vertraft a. وَعُرٌ | صَعْبٌ | مُكَدِّرٌ
- vertrauen va. jm. u. auf jm. i | وَثِقَ
 | اِثْتَمَنَ ه | اَمِنَ ا إِلَيْهِ | مِنْ
 | اِتَّكَلَّ | تَوَكَّلَ عَلَيْهِ | اِعْتَمَدَ عَلَيْهِ
 كَشَفَ | له | اَسْرَارَ - | sich | عَلَيْهِ
 .اَسْرَهُ ه | va. jm. etw. | - | قَلْبِهِ
 | اِثْقَةٌ | Vertrauen s. n. | إِلَيْهِ
 - fassen zu, sein | اِعْتِمَادٌ | اِتِّكَالَ

- setzen auf s. vertrauen | im -
مُسَارَةً | تَحْتَ السِّرِّ.
- vertrauern va. قَضَى i الزَّمَنَ Seit
بِحُزْنٍ.
- vertraulich a. مُسْتَتَائِسٌ | أَلَيْفٌ |
مُكْشُوفٌ تَحْتَ السِّرِّ | مُوَالِفٌ
-Feit s. f. مُوَالِفَةٌ | أُنْسٌ |
verträumen va. قَضَى i الزَّمَنَ Seit
بِالتَّخَيُّلاتِ.
- vertraut a. (vertraulich) أَنَيْسٌ |
- mit etw. خَبِيرٌ بِ | - sein
عَرَفَ i ه | mit etw. - sein
a أَنَسٌ | Vertraute s. m.
مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ |
كَاتِمُ السِّرِّ | أَمِينٌ | جَلِيسٌ.
- vertreiben va. jn. s u طَرَدَ | نَفَى i ه
إِنْبَسَطَ | تَسَلَّى - die Zeit
sich | باع i ه بِالتَّفْرِيقِ
Waren - Vertreibung s. f. إِخْرَاجٌ | نَفَى | طَرَدَ |
vertreten va. jn. قام u مَقَامَهُ |
jm. den Weg - ناب u عَنْهُ
Vertreter s. m. مَنَعَ a ه | عَنِ السَّيْرِ
pl. وَكَيْلٌ | نَوَابٌ pl. نَائِبٌ s. m.
Vertretung s. f. نِيَابَةٌ | وَكَلَاءٌ
وِكَاةٌ.
- Vertrieb s. m. يَبِعُ بِالتَّفْرِيقِ.
- vertrinken va. أَسْرَفَ المالَ Geld
بِالشُّرْبِ.
- vertrocknen vn. *a نَشِيفٌ | أَزْرَحٌ |
i قَرِغٌ | نَزَفٌ |
vertrödeln va. أَسْرَفَ الزَّمَنَ Seit
بِالبَطَالَةِ.
- vertrösten va. jn. auf etw. سَكَّنَ ه
طَيَّبَ خَاطِرَهُ بِأَمَلٍ | بِأَمَلِ شَيْءٍ *
شَيْءٍ *.
- vertuschen va. etw. ه | أَخْفَى ه |
كَتَمَ u ه |
verübeln va. jm. etw. آخَذَ ه عَلَى.
- verüben va. ارتكَبَ جُرْمًا Verbrechen
| أَفْسَدَ بَيْنَهُمْ |
veruneinigen va. jn. sich | تَنَافَرَ | تَفَاسَدَ | تَبَاعَدَ -
sich | فَاوَسَدَ ه | نَافَرَ ه | بَاعَدَ ه - mit jm.
verunglimpfen va. jn. طَعَنَ فِيهِ أَوْ
عَلَيْهِ بِالقَوْلِ.
- verunglücken vn. i خَابَ | هَلَكَ i
تَخَيَّبَ.
- verunreinigen va. jn. u. etw. وَسَّخَ
دَنَسَ ه و ه | نَجَسَ ه و ه | دَسَّ ه و ه
تَدَنَسَ | تَوَسَّخَ - sich
- verunstalten va. jn. u. etw. اشْنَعَ ه و ه
Verunstaltung s. f. قَبَّحَ ه و ه
تَقَبَّحَ | تَشْنِيعٌ.
- veruntreuen va. etw. اخْتَلَسَ ه |
verunzieren va. f. verunstalten.
- verursachen va. etw. ه | سَبَّبَ ه
تَسَبَّبَ بِ |

verurteilen va. jii. zu | حَكَمَ u عَلَيْهِ ب |
 | قَضَى i عَلَيْهِ ب | - etw. (tadeln)
 | جَحَدَ a ه | لام u ه |
 | حُكْمَ عَلَيْهِ | قضاء s. f. |
 | لَوْمَ | دَم (Tadel) -

viervielfachen va., vervielfältigen
 va. eine Zahl mit einer andern
 | ضَرَبَ i عَدَدًا فِي عَدَدٍ آخَرَ | - etw.
 | كَثَّرَ u | sich - (vermehrten) |
 | كَثَّرَ | تكاثر.

vervollkommen va., vervollständigen
 | أَتَمَّنَ ه | أَكْمَلَ ه | كَمَّلَ ه |
 | أَصْلَحَ ه | أَحْكَمَ ه |

verwachsen vn. mit einander | التَّصَّقَ |
 | انْضَمَّ | verwachsen a. (Mensch)
 | حُنْبٍ pl. حَدْبَاءٍ f. أَحْدَبَ

verwahren va. etw. | حَفِظَ a ه |
 | قَامَ u جِهَارًا عَلَى | sich - gegen
 | اِحْتَجَّ ضِدَّ* |
 | حُقَاطٍ pl. حَافِظٍ |
 | حَافِظٍ | Derwahrer s. m.

verwahrlosen va. etw. | تَغَافَلَ عَنْ |
 | حَفِظَ | etw. in -
 | حَفِظَ a ه | (Protest) -
 | اِعْلَانٍ شَرْعِيٍّ بِمُضَادَّةٍ |
 | حَفِظَ | einlegen
 | حَفِظَ | sich verwahren gegen.

verwaisen vn. | تَيَتَّمَ | يَتِّمُ i

verwalten va. etw. | دَبَّرَ ه | أَدَارَ ه

Ver- | سَاسَ u ه | وَلِيَ ه أَوْ عَلَى
 | مُدَبِّرٍ | مُدِيرٍ | s. m. Ver-
 | تَدْبِيرٍ | إِدَارَةٍ | s. f. Verwaltung

verwandeln va. etw. | حَوَّلَ ه |
 | غَيَّرَ ه | قَلَبَ i ه | أَحَالَ ه |
 | انْقَلَبَ | انْقَلَبَ | sich -
 | انْقِلَابٍ | انْقِلَابٍ | s. f. Verwandlungs-
 | قَلَبَ | تَغْيِيرٍ |

verwandt a. | أَقْرَبَاءٍ pl. قَرِيبٍ |
 | دُو قَرَابَةٍ | -schaft s. m.
 | الأَقْرَبَاءِ | نَسَبٍ | قَرَابَةٍ | s. f.
 | مُخْتَصِّصٍ بِالْقَرَابَةِ | -schaftlich a.

verwarnen va. jii. | حَذَّرَ ه | نَبَّهَ ه |
 | أَنْذَرَ ه | أَيْقَظَ ه |
 | أَنْذَارٍ | تَنْبِيهِ | تَحْذِيرٍ |
 | أَنْذَارٍ |

verwaschen a. (farbe) | لَوَّنَ |

verwässern va. etw. | بَلَّلَ ه كَثِيرًا |
 | مَرَجَ u ه بِمَاءٍ |

verweben va. etw. in | حَبَكَ u ه فِي |
 | اِحْتَبَكَ | sich - |
 | اِسْتَبَكَ |

verwechseln va. etw. mit | بَادَلَ ه ب |
 | مُبَادَلَةٍ | s. f. Verwechslung

verwegen a. | مُتَجَاسِرٍ | جَسُورٍ |
 | جَسَارَةٍ | جَرَاءَةٍ | s. f. Ver-
 | جَسَارَةٍ | wegenheit

verwehen va. etw. | بَدَّدَ ه بِالنَّفْعِ |
 | دَهَبَ a | اِضْمَحَلَّ | - vn.

verwehren va. jn. etw. مَنَعَ a عَنِ

verweichlichen va. jn. اَنْثَثَ

اَثْرَفَ | نَعَمَ | خَنَثَ

verweigern va. jn. etw. رَفَضَ u هـ

Derweigerung s. f. اِمْتِنَاعٌ | اِمْتَنَعَ عَنِ اَبَى a هـ

رَفَضَ | اِمْتِنَاعٌ s. f.

verweisen vn. اَقَامَ فِي | مَكَثَ u

اِسْتَمَرَ | اِسْتَقَرَّ | بَقِيَ a

verweint a. اَحْمَرَمِنْ البُكَاءِ (Augen)

مَبْلُولٌ بِالدَّمُوعِ | (عَيْنِ)

Derweis s. m. -en | عِتَابٌ | تَوْبِيخٌ

jn. an اَحَالَ | عَلَى | وَجَّهَ | اِلَى

-en jn. (verbannen) نَفَى i هـ مِنْ

اَوْبَنَ | عَلَى | -en jn. etw. | البِلَادِ

Derweisung s. f. | عَاتَبَ | عَلَى

نَفَى مِنْ البِلَادِ

verwelfen vn. u دَبَلُ

verweltlichen va. etw. جَعَلَ

الْكَنَسِيَّ عَالِمِيًّا

verwenden va. etw. اِسْتَعْمَلَ هـ

- Geld, Zeit اَوْ اِمَالٍ اَوْ

Derwendung s. f. | الزَّمَنِ لِ اَوْ فِي

zur - kommen | اِسْتِعْمَالَ

اُسْتُعْمِلَ

verwerfen va. etw. رَفَضَ u هـ

اَسْقَطَ (Tier) - vn. | رَدَّ u هـ

verworfen | طَرَحَ a | (الْحَيَوَانَ)

verwerflich a. مَلْعُونٌ | شَرِيْرٌ | رَذِيْلٌ

مُسْتَوْجِبٌ | يَلْزَمُ رَفْضَهُ

الرَّفْضِ

verwerten va. etw. جَعَلَ a هـ نُقُوْدًا

بَاعَ i هـ

verweisen va. (Amt) اَدَارَ هـ - vn.

Derweser s. m. | تَعَفَّنَ | عَفِنَ a

Derweisung s. f. | عَفَنَ | مُدِيْرٌ

عَفُوْنَةٌ

verwischen a. سَابِقٌ | مَاضٍ

verwickeln va. etw. لَفَّ u هـ

اِسْتَبَكَ | اِلْتَفَّ - سَبَكَ i هـ

Derwicklung s. f. | اِلْتِفَافٌ | اِرْتَبَكَ

اِرْتَبَاكَ

verwildern vn. تَوَحَّشَ

verwinden va. تَسَلَّى عَنِ

الْخَسَارَةِ

verwirren va. etw. اَعْدَمَ نَفْسَهُ هـ

اِسْتَوْجَبَ الْقِصَاصَ - Strafe

verwirklichen va. etw. اَحَقَّقَ هـ

اَنْجَزَ هـ | اَجْرَى هـ

verwirren va. etw. اَحْرَفَشَ هـ | خَلَطَ هـ

اِسْتَبَكَ | اِحْتَلَطَ | اِحْتَلَطَ * | حَيَّرَ هـ | - jn. | لَحَبَطَ هـ

Derwirrung s. f. | اِحْتِلَاطٌ | اِحْتَلَطَ | اِسْتَبَكَ | اِحْتَلَطَ

Derwirrung s. f. | اِحْتِلَاطٌ | اِحْتَلَطَ | اِحْتَلَطَ

in | اِحْتَلَطَ | اِحْتَلَطَ | اِحْتَلَطَ | اِحْتَلَطَ

- geraten تَحَيَّرَ

verwischen va. etw. ه u مَحَا.

verwittern vn. تَحَوَّلَ إِلَى غُبَارٍ.

verwitwet a. أَرْمَلَةٌ f. أَرْمَلٌ.

verwogen a. جَسُورٌ | مُتَجَاسِرٌ.

verwöhnen va. jn. دَلَّلَ ه | حَنَّتْ ه | أفسد أخلاقه.

verworfen a. مَلْعُونٌ | شَرِيرٌ | رَذِيلٌ |
f. verwerfen | Verworfenheit s. f. رَذَالَةٌ.

verworren a. مُرْتَبِكٌ | مُخْتَلِطٌ.

verwirren.

verwundbar a. يُجْرَحُ | مُمَكِّنُ جُرْحِهِ.

verwunden va. jn. ه a جَرَحَ | آذَى ه.

verwundern va. jn. ه | أَحْيَّرَ ه |
sich - über | تَعَجَّبَ مِنْ |
sich - über | verwundert a. اسْتَعْزَبَ ه |
Verwunderung s. f. مُتَعَجِّبٌ |
دهش | تَعَجَّبَ | عَجَبَ.

Verwundung s. f. جُرُوحٌ pl. جُرْحٌ |
جِرَاحَةٌ pl. جِرَاحٌ.

verwünschen va. jn. ه a لَعَنَ |
* ه u سَبَّ | Verwünschung s. f. لَعْنَةٌ pl. لَعَنَاتٌ.

verwüsten va. etw. ه | خَرَّبَ ه |
mit Feuer u. Schwert -

a | أَحْرَقَ وَذَبَمَ | Verwüstung s. f. أَخْرَبَةٌ pl. خَرَابٌ | تَحْرِيْبٌ.

verzagen vn. a | يَيْئِسُ | a خَافَ |
a | يَيْئِسُ | a | قَنِطٌ | a | فَنِشِلٌ |
a | يَيْئِسُ | a | قَنِطٌ | Verzagtheit s. f. قُنُوطٌ | قَنِطٌ | خَوْفٌ | خَوْفٌ.

verzählen v. sich | أَحْطَأَ فِي الْحِسَابِ |

verzapfen va. Bier, Wein | بَاعَ |
الْبِيْرَةَ أَوْ النَّبِيْذَ بِالتَّفْرِيقِ.

verzärteln va. jn. ه | حَنَّتْ ه | دَلَّلَ ه.

verzaubern va. jn. ه | بِسِحْرِ |
ه a سَكَّرَ.

verzehren va. etw. ه u أَكَلَ |
sein Vermögen - | أَسْرَفَ مَالَهُ - |
أَسْرَفَ مَالَهُ - | أَكَلَ ه | أَتْلَفَ ه | تَنَاوَلَ ه |

verzeichnen va. etw. | أَحْطَأَ فِي الرَّسْمِ |
- etw. (aufzeichnen) | قَيَّدَ ه تَحْرِيْرًا |
Verzeichnis s. n. * فِهْرِيْسْتٌ pl. فِهْرِيْسِيْنَ |
قَائِمَةٌ * | دَفَاتِرٌ pl. دَفَاتِرٌ | فَهَارِيْسِيْنَ |
تَقَاوِيْمٌ pl. تَقْوِيْمٌ * | قَوَائِمٌ pl. قَوَائِمٌ.

verzeihen va. jn. etw. ه عَفَا |
سامح ه في | صَفَحَ ه عَنْهُ | غَفَرَ ه لَهُ |
verzeihlich a. مُسْتَحِقُّ الْعَفْوِ |
Verzeihung | يُصْفَحُ عَنْهُ | يُغْفَرُ |
إِمْسَامِحَةٌ | غُفْرَانٌ | مُعَافَاةٌ | عَفْوٌ s. f. |
jn. um - bitten ه | اسْتَغْفَرَ ه |

- verzerren va. etw. ه | شَبَّرَ * | عَوَّجَ ه |
 Verzerrung s. f. | اِعْوِجَاجُ * | تَشْبِيرٌ.
 verzetteln va. etw. ه | بَدَّدَ ه |
 نَشَّرَ ه u ه.
 Verzicht s. m. | تَرَكَ طَلَبَ أَوْ قَصْدَ |
 thun, leisten auf
 etw. f. | verzichten | -en auf etw.
 رَجَعَ i عَنِ | تَرَكَ u ه | تَنَازَلَ عَنِ
 verziehen va. in. ه | حَنَّتْ ه |
 - das Gesicht | عَوَّجَ الْوَجْهَ | - vn.
 nach | (in | اِنْتَقَلَ إِلَى (مَحَلِّ) |
 die Länge ziehen) | تَأَخَّرَ | sich -
 زال | اِضْمَحَلَّ | a, u
 verzieren va. etw. mit ه ب | زَيَّنَ ه ب |
 Verzierung s. f. | زِينَةٌ | تَزْيِينٌ.
 verzinnen va. etw. ه | طَيَّبَ ه |
 مُبَيِّضٌ | Verzinner s. m. | بِالْقَصْدِيرِ
 verzinsen va. Schuld | دَفَعَ a فَوَائِدَ |
 | verzinslich a. -es Kapital
 مال ذُو فَوَائِدَ
 verzögern va. etw. ه | آجَلَ ه |
 Verzögerung s. f. | تَأْخِيرٌ | تَأْجِيلٌ.
 verzollen va. Waren | دَفَعَ a رَسْمَ |
 Verzollung
 | البَضَائِعِ فِي الْكُمْرِكِ
 s. f. | دَفَعَ الرِّسْمَ.
 verzücken va. in. ه | فَتَّنَ ه |
 verzuclern va. etw. ه | أَحْلَى ه بِسُكَّرٍ |
- Verzüclung s. f. | اِنْخِطَافٌ بِالرُّوحِ |
 غَايَةُ الْفَرْحِ | طَرْبٌ.
 Verzug s. m. | تَأْخِيرٌ | تَأْجِيلٌ -
 (verzogenes Kind) | وُلْدٌ مُنْحَنَّتٌ.
 verzweifeln vn. an etw. | اِيَّسَ a مِنْ |
 | ver- | اِيَّسَ a عَدِمَ | a الْاَمَلِ | قَنِطَ a مِنْ
 zweifelt a. | آيَّسَ | آيَّسَ | مَيُّوْسٌ |
 Verzweiflung s. f. | قَنُوطٌ | قَنَطٌ | يَأْسٌ |
 in. zur | قَطَعَ الْاَمَلَ * | اَعْدَمَ الْاَمَلَ
 - bringen ه | آيَّسَ ه | آيَّسَ ه |
 verzweigen v. sich | تَفَرَّغَ | تَفَرَّغَ |
 verzwickelt a. | صَعَبٌ | عَسِرٌ.
 Desper s. f. kath. | صَلَاةُ السِّتَارِ |
 | -brot s. n. | اَكَلَةٌ | صَلَاةُ الْعَصْرِ
 خَفِيفَةٌ فِي الْعَصْرِ
 Veteran s. m. | الْقَدِيمُ فِي الْجُنْدِيَّةِ |
 Veterinär s. m. | يَبْطَرٌ pl. | يَبْطَرَةٌ |
 Dettel s. f. | شَرَامِيْطٌ pl. | شَرْمُوْطَةٌ * |
 | اِبْنَةُ الْخَطَا
 Dettter s. m. (von Vaterseite) | اِبْنُ
 | اِبْنُ الْعَمَّةِ | اَبْنَاءُ pl. الْعَمِّ -
 (von Mutterseite) | اِبْنُ الْخَالِ |
 | اِبْنُ الْخَالَةِ
 verzieren va. in. | اِسْتَهْزَأَ بِهِ |
 Dezier s. m. | وُزْرَاءٌ pl. | وَزِيرٌ |
 Diceadmiral s. m. | نَائِبُ اَمِيرِ الْبَحْرِ |
 Dicekönig s. m. | نَائِبُ الْمَلِكِ pl.

خُدَيْوِيّ (von Ägypten) | نُوَاب |
 نَائِب | Dicefonful s. m. | مِصْر
 القُنْصُل | Dicepräſident s. m.
 نَائِب الرَّئِيس.

بَهِيمَة | مَوَاشِي pl. ماشِيَة s. n. Dieh
 اِنْسَان وَحْشِيّ | bld. | بَهَائِم pl.
 تَاجِر المَوَاشِي s. m. | händler
 سُوْق -marft s. m., -hof s. m.
 وَحْشِيّ | بَهِيمِيّ a. | -ifch | المَوَاشِي
 سَائِق | سَوَاق s. m. | -fnecht
 اَحْوَال s. m. | -ftand | سَوَاق
 المَوَاشِي | -treiber s. m. | ضَيْعَة
 تَرْبِيَة s. f. | -zucht | -fnecht | f.
 المَوَاشِي.

كَثِيْرًا | عَدِيْد | adv. | كثير a. viel
 سَوَاء | gleich-, ebenso- | جِدًا
 بِمِثْل كَذَا | fo- | مِثْل بَعْضِهِ *
 مُفْرَط | زَائِد | zu- | كَمْ | كم- wie
 دُو مَعَان | -dentig a. | كَثْر | -
 شَكْل دُو اَضْلَاع | -eck s. n. | كَثِيْرَة
 -fältig a., -fach a., -erlei a. | شَتَّى
 اَشَتَّى | مُخْتَلِف | مُتَنَوِّع a.
 حَيَوَان اَكُوْل | bld. | s. m. zool.
 اَكُوْل | fuß s. m. zool. | اَكَال | اَكُوْل
 -göttereis. f. | الأَرْبَعَة وَالْأَرْبَعِيْن
 شِرْك | عِبَادَة لِآلِهَة شَتَّى | -leicht
 رُبَّمَا | عَسَى | لَعَلَّ | -liebchen
 adv.

s. n. | كُوْزَان فِي قِشْر وَاحِد | -mals
 كَثِيْرًا | مَرَّات كَثِيْرَة | adv. | غَالِبًا
 -fagend | بَلْ | -mehr conjct. | اَتَكَرَّرَا
 اَشَدِيْد البَيَان | دُو مَعْنَى a.
 صَاحِب تَأْلِيْف فِي | -fchreiber s. m.
 مَوَادِّ شَتَّى | -feitig a. | دُو اَطْرَاف
 مُتَسِّع | وَاسِع | شَتَّى | -weiberei
 مُضَارَة | ضِرَّ s. f. | تَعَدَّد الزَّوْجَات
 اَرْبَع f. | اَرْبَعَة | vier num. | -
 اَرْبَعَة | نِجَاء | auf allen | -Augen
 اَرْبَعَة | وَرَجْلِيْهِ | -en | -eck s. n.
 مَرْبَع | -eckig a. | رَسْم مَرْبَع
 اَرْبَعَة اَنْوَاع a. | -fach a.
 اَرْبَع مَرَّات | اَرْبَعَة اَضْعَاف
 اَرْبَع قَوَائِم a. | -jährig
 اَرْبَع سِنِيْن a. | -mal adv. | اَرْبَع مَرَّات
 اَرْبَع مَرَّات | -fchrötig a. | قَوِيّ
 اَرْبَع مَرَّات | -feitig a. | حَشِيْن | الصُّلْبِيْن
 اَرْبَع مَرَّات | -teilen | رَابِع a. | اَرْبَعَة اَضْلَاع
 اَرْبَع مَرَّات | -tel s. n. | اَرْبَع مَرَّات
 اَرْبَع مَرَّات | - (Stadt-tel) | - | اَرْبَاع pl. رُبْع
 اَرْبَع مَرَّات | - | اَرْبَاع pl. حَارَة
 اَرْبَع مَرَّات | -tens adv. | اَرْبَع مَرَّات
 اَرْبَع مَرَّات | -zehn num. | اَرْبَع مَرَّات
 اَرْبَع مَرَّات | -zehnte a. | اَرْبَع مَرَّات
 اَرْبَع مَرَّات | -zig num. | اَرْبَع مَرَّات
 اَرْبَع مَرَّات | -zigste a. | اَرْبَع مَرَّات

- Villa s. f. دار التَّنَزُّه | دار التَّفَرُّج
- Viola s. f. mus. كَمَنْجَة كَبِيرَة
- violett a. بَنَفْسَجِيّ اللُّون
- Violinbogen s. m. mus. اِقْوَس الكَمَنْجَة
- Violine s. f. اَرَبَاب | رَبَابَة | كَمَنْجَة
- Violinist s. m. الضارِب بِالكَمَنْجَة
- Violonzell s. n. mus. كَمَنْجَة كَبِيرَة
- Diper s. f. اَفَاع pl. اَفَعَى
- Virtuose s. m. mus. المَاهِر مِن اَهْل المُوَسِيقَى
- Djfir s. n. غِمَاء | حَافَة الخُوْدَة الخُوْدَة*
- Difite s. f. زِيَارَة - (bei Kranken)
 jim. eine - machen,
 abstatten s u زار | -nfarte s. f.
 وَرَقَة زِيَارَة
- Ditriol s. n. زاج *
- Dogel s. m. طَيُّور u. طَائِر pl. طَيُّور
 اِنْسَان - Ioser | اَطْيَار u.
 -bauer s. n. | خَفِيف العَقْل
 -beere s. f. | اَفْغَاص pl. قَفْص
 -frei | خُرْدُق s. m. -dunst s. m. | غُبِيْرَاء
 اَعْدَم s erklären - - für a., jim.
 سَلَب s عَن | حِمَايَة الشَّرِيعَة
 الكَرَز s. f. | -firische s. f. | جَمِيع الحُقُوق
 النَظَر اِلَى s. f. | -schau s. f. | البَرِّي
 -scheuche s. f. | شَيْءٌ مِّن العُلُو
- steller | اَخْيَلَة pl. خِيَال | فَرَاغَة
- صَيَّاد العَصَافِير والطُّيُور s. m.
- Dogler s. m. f. Dogelsteller.
- Dogt s. m. ناظِر الفَعَلَة pl. نَظَّار | مُدَبِّر
- Dofal s. m. gr. حَرَكََة pl. حَرَكَات
- Dolf s. n. اُمَّة pl. اُمَّم | شَعْب pl. (gemeines) -
 اَقْوَام pl. قَوْم | شُعُوب - u. Adel
 الجُمُهور | العَوَام | العَامَة
 العامَّة والخاصَّة
- Dölker-funde s. f. عِلْم خُصُوصِيَّات
 اَحَقّ اَلْاُمَم s. n. | -recht s. n. | الشُعُوب
 اَشْعُوب pl. شَعْب s. f. | -schaft
 اِرْتِحَال اَلْاُمَم s. f. | -wanderung
 فَرَح s. n. | -sfest s. n. | شَعْبِيّ
 رَجُل s. m. | -sfreund s. m. | عُمُومِيّ
 -slied s. n. | مَحْبُوب لِلشَّعْب
 غِنَاء شَائِع عِنْد | غِنَاء مَشْهُور
 رَجُل s. m. | -smann s. m. | الشَّعْب
 -schule s. f. | مَحْبُوب لِلشَّعْب
 -stum s. n. | مَدْرَسَة اَبْتِدَائِيَّة
 -stümmlich a. | طَائِفِيَّة | جِنْسِيَّة
 -svertreter s. m. | مَحْبُوب لِلشَّعْب
 -swirt. | نَوَّاب pl. نَائِب الشَّعْب
 | الاَقْتِصَاد السِّيَاسِيّ s. f. | -schaft
 -szählung s. f. | التَّوْفِير السِّيَاسِيّ
 تَعْدَاد الشَّعْب

voll a. مَلَأَ f. مَلَانَةٌ u. مَلَأَى |
 sein od. werden | مَمْلُوءٌ | مُمْتَلِيٌّ |
 a. مَلِيٌّ | - (Brüste, Saal 2c.) | اِمْتَلَأَ |
 | كَثِيرِ الشَّيْءِ | - von etw. | حَافِلٌ |
 - Weins | سَكْرَانٌ | - (vollständig)
 | البَدْرُ -e Mond | تَامٌ | كامِلٌ |
 mit -en Händen | مَفْتُوحَةٌ |
 etw. - machen | مَلَأَ هُ | das Maß
 - machen bld. | جَاوَزَ الحَدَّ | von etw.
 - sein bld. | اِهْتَمَّ بِ | - von sich
 sein | اُعْجِبَ بِنَفْسِهِ | - auf adv.
 | بِلُتِ s. n., | بَكْثَرَةٌ | وَاِفْرًا | غَزِيرًا |
 | حِصَانٌ أَصِيلٌ | -blutpferd s. n.
 | -blütig a. | فِيهِ إِفْرَاطُ الدَّمِ |
 feit s. f. | اِفْرَاطُ الدَّمِ | -bringen va.
 etw. هُ | اَكْمَلَهُ | اَتَمَّهُ هُ | اَنْجَزَهُ هُ |
 | اَنْجَزَهُ هُ | -enden va. etw. هُ | قَضَى هُ |
 | اَتَمَّهُ هُ | -enden vn. (sterben) |
 | -endet a. | كامِلٌ | -ends adv. | تَمَامًا |
 | -endung | كَمَالًا | بِالْكَلْبِيَّةِ | بِالتَّمَامِ |
 s. f. | اِتْمَامٌ | كَمَالٌ.

Döllerei s. f. اِفْرَاطٌ فِي الأَكْلِ |
 والشُّرْبِ.

vollführen va. f. vollenden.

völlig a. | كامِلٌ | تَامٌ | - adv. | بِالْكُلِّ |
 voll-jährig a. | بِالْبَالِغِ | رَشِيدٌ* |
 werden u. | اَرْشَدَ | -jährigkeit

s. f. | بُلُوغٌ | -kommen a. | كامِلٌ |
 | خَارِقٌ* | فِي غَايَةِ الإِتْقَانِ | خَالِصٌ |
 | تَمَامًا | adv. | صَحِيحٌ | تَامٌ |
 -kommenheit s. f. | كَمَالٌ | -macht s. f.
 | j m. - - | إِجَازَةٌ | تَفْوِيفٌ | رُخْصَةٌ |
 | أَجَازَهُ لَهُ | فَوَّضَهُ إِلَيْهِ |
 -mond s. m. | بَدْرٌ | pl. | بُدُورٌ |
 -ständig a. | كامِلٌ | تَامٌ | -ständig-
 feit s. f. | كَمَالٌ | -strecken va. f.
 | -ziehen | -wichtig a. | وَاِزِنَ | nicht
 | -wichtig | ناقصٌ | -zählig a. | تَامٌ |
 | -ziehen va. | جَمِيعٌ | كُلٌّ | كامِلٌ |
 | اَنْفَذَهُ | اَجْرَى هُ | اَنْجَزَهُ هُ |
 | -ziehen | قَضَى هُ | eine Urkunde |
 | -ziehende Gewalt | اَمْضَى سَنَدًا* |
 | -zieher s. m. | سُلْطَةٌ | إِجْرَائِيَّةٌ |
 | مُنْفِذٌ | مُجْرِيٌ | اَمْرٌ | (eines Befehls)
 | -ziehung s. f., -zug s. m. | اَمْرٌ |
 | اِمْضَاءٌ | اِجْرَاءٌ | اِنْجَازٌ.

... weg | - | مِنْ | von praep. c. dat.

| - (mit Personennamen) | عَنِ |
 | -einander | لَقَبَ شُرَفَاءَ النِّسَبِ |
 | etw. | ضَرُورِيٌّ | -nöten | مُفَرَّقٌ |
 | -nöten haben | اِحْتِاجٌ إِلَى | لَرَمَ هُ | a.

vor praep. c. dat. u. acc. (Zeit)

| اَمَامَ (Raum) | - | مِنْ قَبْلِ | قَبْلٌ |
 | j m. | يَدَيْهِ | - | نَجَاهٌ | قُدَامٌ |

- allem | قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ | - der Hand | مَوْقِنًا | - adv., - wie nach | دَائِمًا | -ab adv. قَبْلَ كُلِّ | -abend s. m. eines Tages | شَيْءٍ | -ahnen va. etw. | أَحَسَّ قَلْبُهُ بِ | -ahnung s. f. | شُعُورِ الْقَلْبِ بِمَا سَيَأْتِي | -an adv. | فِي الْأَوَّلِ | أَوَّلًا | فِي الْأَمَامِ | -arbeit s. f. | اسْتِعْدَادٍ | -arbeiten vn. | اسْتَعَدَّ | -auf adv. f. -an. voraus adv. | تَعَجُّبًا | سَلَفًا | مُقَدِّمًا | im. - | sein s i, u | سَبَقَ | u | اِفْئَاقَ | - | im | قَبْلَ حُدُوثِ الشَّيْءِ | سَلَفًا | - (in Zusammensetzungen s. auch vorher) | -bezahlen va. etw. | دَفَعَ | - | bezahlung s. f. | سَلَفًا | -gehen vn. im. s i, u | سَبَقَ | -gesetzt conjct. f. | -setzen | -sagen va. f. vorher | sagen | -schicken va. in. | أَرْسَلَ | - | etw. | -sehen va. | كَتَبَ | u | ه | مُقَدِّمَةً | f. vorher | sehen | -setzen va. etw. | فرض | i | ه | -setzung s. f. | قَضِيَّةٌ | - | sichtigung s. f. | مَفْرُوضَةٌ | - | ادراك الأمر قبل وقوعه | فِطْنَةٌ | -sichtlich a. | مُحْتَمَلٌ | vor-bauen vn. einem Übel | تَدَارَكَ | -bedacht s. m. | الشَّرِّ | - | behalt s. m. | اِبْقَاءٍ | - | قصد | عَزَمَ | شَرَطَ | حِفْظَ لِنَفْسِهِ | لِنَفْسِهِ | - | behalten va. sich etw. | مُقَيَّدٌ | - | أَبْقَى | ه | لِنَفْسِهِ | | فات u | مَضَى | i | - | gehen an | مَرَّ | u | مِنْ أَوْ بِ أَوْ عَلَى | - | fahren, -reiten | مَرَّ | u | رَاكِبًا | - | lassen va. in. an | مَرَّ | ه | بِ | - | فَوَّتَ | ه | بِ | * | هَيَّأَ | ه | أَعَدَّ | ه | vor-bereiten va. etw. | ه | - | sich | جَهَّزَ | ه | تَأَهَّبَ | لِ | تَجَهَّزَ | لِ | تَهَيَّأَ | لِ | - | bereitung s. f. | اسْتِعْدَادٍ | pl. | أَهْبَةٌ | | تَجْهِيْزٌ | | اسْتِعْدَادَاتٍ | - | beten s. m. | مُقَدِّمَةً | - | beugen s. m. | مُقَدِّمَةً | - | beugen s. m. | مُقَدِّمَةً | pl. | ائِمَّةٌ | - | تَدَارَكَ | الشَّرِّ | einem Übel | تَدَارَكَ | - | beugungsmittel s. n. | اسْتَدْرَكَ | ه | - | bote s. n. | قُدُوَّةٌ | - | نَوَاءٍ | وَاقٍ | الدَّلِيلَ | عَلَى | مَا سَيَأْتِي | - | bringen va. | تَلَقَّظَ | - | dem adv. | صَرَحَ | a | ه | قال | u | ه | سابقًا | قَبْلًا | Vorder-arm s. m. | سَوَاعِدٍ | pl. | سَاعِدٍ | - | - | e a. | مُتَقَدِّمٌ | | مُقَدِّمٌ | - | fuß s. m.

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| أَذِنَ a لَهُ lassen va. jm. طالَمَا | وَكَاةٌ وَصَايَةٌ s. f. -mundschaft |
| سَائِسٌ s. m. -läufer فِي الدُّخُولِ | القاصِر. |
| الدَّلِيلِ سابق أسلاف pl. سَلَفٌ | vorn, vorne adv. قُدَّامُ فِي القُدَّامِ |
| إِجِينِيّ a. -läufig عَلَى مَا سَيَّأْتِي | von - قُدَّامِ . |
| إِمتَكَلِمَ قَبْلَ أَنْ -laut a. وَقْتِيّ | Vor-name, -namen s. m. إِسْمُ العَلَمِ |
| إِlegen va. jm. etw. يُسَالُ | -nehm a. يُذَكِّرُ قَبْلَ إِسْمِ الآلِ |
| إِقْدَمَ هُ لَهُ أَرَى هُ هُ عَرَضَ i هُ لَهُ | -nehmen va. شَرِيفِ النَّسَبِ |
| أَقْفَالٌ pl. قُفْلٌ s. n. -legeschloß | etw. هُ a شَرَعَ هُ أَوْ بِ |
| إِقْرَأَ هُ لَهُ -lesen va. jm. etw. | إِشْتَعَلَ بِ sich etw. -nehmen |
| قَارِيّ s. m. -leser تَلَا u هُ لَهُ | -nehmen عَزَمَ i عَلَى قَصَدَ i هُ |
| إِlesung s. f. قُرَاءٌ u. قَارِئُونَ pl. | s. n. عَزْمٌ قَصْدٌ -nehmlich a. |
| مُطَالَعَةٌ دَرَسٌ نِلاوَةٌ قِرَاءَةٌ | لَا سِيَّمًا adv. الأَهَمُّ الأَخْصُ |
| إِleht عِلْمٌ دَرَسَ إِلهتungen halten | ضاحِيَّةٌ pl. -ort s. m. خُصُوصًا |
| إِleuchten مَن أَوْ مَا قَبْلَ الأَخِيرِ a. | -platz s. m. f. -hof -posten |
| أَصْبَمَ قُدُوءًا لِغَيْرِهِ als Muster vn. | -rang s. m. أَوَائِلُ الجَيْشِ s. m. |
| إِرتَضَى بِ -lieb nehmen mit | إِستَعْلَاءٌ رِفْعَةٌ الشَّانِ تَقَدَّمَ |
| تَفْضِيلٌ -liebe s. f. إِكْتَفَى بِ | أَسْبَابٌ (von Eßwaren) -rat s. m. |
| وُجِدَ -liegen vn. مَيِّزٌ إِستِحْبَابٌ | -rat مُونٌ pl. مُونَةٌ العَيْشِ |
| حَاضِرٌ جَارٌ حَالِيّ a. -liegend | -rätig زُوَادَةٌ * زاد (Reise-rat) |
| أَتَى هُ بِكُذْبٍ -lügen va. jm. etw. | a. حَاضِرٌ etw. -rätig haben |
| أَرَى هُ هُ -machen va. jm. etw. | -rats- تَجَمُّعٌ بِ تَمَوَّنَ بِ |
| -malig a. سابق -mals adv. | مَذْخَرٌ بَيْتٌ لِلْمُونَةِ s. f. فامmer |
| -mittag قَدِيمًا سَالِفًا سَابِقًا | pl. مَذَاخِرٌ -raum s. m. f. -hof |
| ضُحُوٌّ صَبِيحَةٌ قَبْلَ الظُّهْرِ s. m. | -recht s. n. إِمْتِيَاذَاتٌ pl. إِمْتِيَازٌ |
| am -mittag sein ضُحَاءٌ ضُحُوءَةٌ | -rede s. f. مُقَدِّمَةٌ رِيبَاجَةٌ |
| أَضْحَى -mund s. m. وَصِيّ pl. | إِستَهْلَالٌ فَوَائِحٌ pl. فَائِحَةٌ |
| وُكَلَاءٌ pl. وَكَيْلُ القاصِرِ أَوْصِيَاءٌ | -reden va. jm. etw. s a خَدَعَ |

-[spiegelung] | أَغْوَى s ب | غَرَّ u s ب
 دَلِيل s. f. | غَنَّى | -[spiel s. n.] | غَرَّ s. f.
 -[spielen va. jm. etw.] | مُقَدِّم الأَمْر
 | دَقَّ u آلة مُوسِيقِيَّة أَمَامَهُ
 -[sprechen va. jm. etw.] | نَطَق بِهِ
 -[sprechen vn. bei jm.] | أَمَامَهُ
 | بَرَز u زار | -[springen vn. u
 | أَشْرَف عَلَى | -[sprung
 s. m.] | سَبَق | einen -[sprung vor
 jm. haben s u, i | سَبَق | -[sprung
 | شَيْء مُشْرِف (-[springender Teil)
 | أَفْرِيز * | أَنْوْف pl. | أَنْف | خَرْجَة *
 | أَفَارِيز pl. | -[stadt s. f.] | ضاحِيَّة
 | رِئَاسَة s. m. | -[stand s. m.] | ضَوَاح pl.
 | جَمِيع الرُّوسَاء | -[stechen vn. u
 | غَالِب | فَائِظ a. | -[stechend a.] | غَلَب i
 | وَضَع a ه قَدَّام | -[stechen va. etw.]
 | -[stehen vn. einer Sache dat.]
 | تَرَأَّس ه | -[stehen | تَرَأَّس ه | رَأَس i ه
 | أَشْرَف عَلَى | بَرَز u (-[springen])
 | -[stehend a. (-hergehend)] | أَشْرَف عَلَى
 | مُشْرِف (-[springend]) | مُتَقَدِّم
 | رُوسَاء pl. | رِئِيس s. m. | -[steher
 | ضِرَاء pl. | ضِرْو s. m. | -[stehhund
 | كَلَب للصيد | -[stellen va. (Uhr zc.)
 | قَدَّم السَّاعَة الخ | - - jm. jm.
 | قَدَّم s لَهُ | - - etw. bld. | صَوَّر ه

| وَصَف i ه لَهُ - - jm. etw.
 | - - etw. u. jm. (dar- | أَبَانَ ه
 stellen) | مَثَّل ه وَه | شَخَّص ه وَه
 | - - | تَصَوَّر | -[stellung s. f.]
 | تَمَثِيل (Darstellung) | تَقَدِّم
 | تَشْخِص (in der Seele) | تَصَوَّر
 | نَصِيحَة (guter Rat) | تَصَوَّرَات pl.
 | تَحْذِير | -[stellungen | نَصَائِح pl.
 machen s a | حَدَّر s | نَصَح a
 | تَقَدَّم | -[stoß s. m.] | مُصَادَمَة إِلَى قَدَّام
 | -[strecken va. etw.] | مَدَّ u ه إِلَى قَدَّام
 | -[teil s. m.] | فَائِدَة pl. | إِفَادَة
 | مَنَافِع pl. | -[teilhaft | مَنُفَعَة | نَفَع
 | -[trab s. m.] | مُفِيد | نَافِع a.
 | مُقَدِّم الجَيْش | طَلَائِع pl. | -[trag
 | نَقْل | رِوَايَة | بَيَان s. m. | إِخْطَاب
 | -[tragen va. etw.] | تَغْيِير | نَطَق
 | قَرَأَ a ه | تَلَا u ه (er- | (lesen)
 zählen) | رَوَى i | Verse -[tragen
 | أَتَشَدُّ الأَبْيَات | jm. etw. | -[tragen
 | عَظِيم a. | -[trefflich] | عَرَض i ه لَهُ
 | -[trefflichkeit s. f.] | فَاضِل | جَيِّد
 | جُودَة | فَضْل | -[treten vn. | جُودَة
 | تَقَدَّم | -[tritt s. m.] | تَقَدَّم
 | تَرَأَّس | تَصَدَّر | den -[tritt haben
 | تَرَأَّس | تَصَدَّر

vorüber adv. | vorbei | -gehen,

-fahren, -lassen, -reiten f. vorbei-
gehen, vorbeifahren 2c.
Vor-urteil s. n. **أَوْهَام** pl. **وَهُم** |
| فاق **زَعَم** | -walten vn. u **بِاطِل**
i **غَلَب** | -wand s. m. **عِنَّة** pl.
| **عُدْر** | **حُجَج** pl. **حُجَّة** | **عِلَل**
| **إِلَى قُدَام** | -wärts adv. **أَعْذَار**
-wärtsgehen vn. **تَقَدَّمَ** |
| **قَبْل حُدُوثِهِ** | **مِن الْآن** adv.
-wegnehmen va. etw. **سَبَق** i, u **ه**
| **سَلَف** u **ه** | -weisen va. etw.
| **قَدَّمَ** **ه** | **أَظْهَرَ** **ه** | **أَرَى** **ه**
s. f. **الْأَسْلَاف** | **الْأَوَّلُونَ** s. f.
va. jm. etw. **بَكَت** **ه** | **وَبَّغ** **ه** **عَلَى**
| **ضَيْعَةَ صَغِيرَةٍ** s. n. **مَرَف** | **عَلَى**
| فاق u **غَلَب** i | -wiegen vn.
| **عِلْم** | **مَعْرِفَةٌ** | **عِرْفَان** s. n. | -wissen s. n.
| **رَغْبَةٌ فِي النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ** s. m. | -witz
| **رَاغِبٌ فِي مَعْرِفَةٍ** a. | **وِطْوَ** | **فُضُول**
| **مُور** | **فُضُولِي** | **نَقَاف** | **الْأُمُور**
| **حَرْفُ الْجَرِّ** gr. | -wort eines Buches
| **مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ** s. m. | -wurf s. m.
| **تَبَكَّيْتُ** | **تَوْبِينٌ** | **عِنَاب**
| **عَدَّ** u **ه** **لَهُ** | -zeichnen va. jm. etw.
| **فَأَل** | **دَلَالَةٌ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ** s. n.
| **أَقُول** u **قُول** pl. | -zeigen etw.
| **زَيْت** s. f. | **أَظْهَرَ** **ه** | **أَرَى** **ه**

الجَارِي a. zeitig | **الْأَجْيَالِ الْمَاضِيَةِ**
-ziehen va. | **بَدْرِي** | **قَبْل وَقْتِهِ**
| **أَخْرَجَ** **ه** | etw. aus (hervorziehen)
| **مِن** | -ziehen ju. u. etw. einer
| **فَضَّلَ** **ه** **وَهُ** **عَلَى** | Sache dat.
| **رَجَعَ** **ه** **وَهُ** **عَلَى** | **رَغِبَ** a **ب** **عَنْ**
| **دِهَالِينِز** pl. **دِهَالِينِز** * s. n. | -zimmer
| **أَوْضَةٌ مَائِيْن** * | **إِيْوَانَات** pl. | **إِيْوَان**
| **تَرْجِيح** | **تَفْضِيل** s. m. | -zug
| **فَاضِل** | **جَيِّد** | **عَظِيم** a. | -züglich
| **جُودَةٌ** | **جُودَةٌ** s. f. | -züglichkeit
| **فَضْل**.

وَتُوم | **أَعْطَى الرَّأْيَ** vn. | votieren
s. n. pl. -en | **رَأَى** pl. **آرَاء**.

vulgär a. **دَارِج** | **عَامٌّ**.

بُرْكَان pl. **بُرْكَان** s. m. | Dulkan
| **جِبَال نَار** pl. **جِبَل نَار** | -isch
a. **بُرْكَانِي**.

W

المَحْرُفُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ **و**
| **حُرُوفِ الْحِجَاءِ**.

Waare s. f. f. Ware.

شُهْد s. f., -nhonig s. m. | Wabe
| **عَسَل** * | **عَسَلَةٌ** | **شِهَاد** pl.

| **فَائِق** * | **يَقْظَان** | **يَقْظ** a. | wach

- أحوال s. n. -glück | في الجُنْدِيَّة
 أميل | أغزل a. -los | الحرب
 -ruhe | قلاع pl. قلعة s. m. -platz
 s. f. f. -stillstand | -schmied s. m.
 قرداحي * | صانع الأسلحة
 -stillstand | قرايحة pl. قرداحي *
 einen | هدن pl. هدنة s. m.
 | هادن s. stillstand schließen mit jm.
 | رقص حرابي s. m. -tanz bld.
 ماثرة s. f. -that | قتال | حرب
 مآثر pl. حربية
 أسلح ه أو ب | waffen va. in. mit
 ثقلد الصبر - sich mit Geduld
 ميزان pl. ميزان s. f. Wage
 قب الميزان s. m. -balken
 عجال u. عجل pl. عجلة s. m. Wagen
 - | عربة * | عربة * | astr. - بنات
 نعش
 جسر u | تجاسر على wagen va. etw.
 على | اجترأ على | أخذ u ه على
 نفسه
 وزن u ه i | wägen va. etw.
 | متعلق ب | موجب wogen
 كيف ب
 محور العجلة s. f. Wagen-achse
 | محل للعربات s. f. -remise
 | قطر جي * | -schlag -schieber s. m.
- s. m. | باب العربة -schmierer
 | شحمجي s. m. محل
 للعربات.
 أفقي a. wagericht
 عمل خطر s. n. Wagestück
 | جسور a. wag-halfig
 | دو خطر -halfigkeit s. f. جسارة
 صانع العربات s. m. Wagner
 عمل خطر s. n. Wagnis
 عرببة السكة الحديدية s. m. Wagon
 | كفة pl. كفة s. f. Wagschale u.
 كفاف
 | اختيار | انتخاب s. f. Wahl
 | بلا تمييز - ohne - treffen
 | انتخاب
 | قابل للانتخاب a. wählbar
 | للانتخاب s. f. -feit
 | للانتخاب أهلية للانتخاب
 | له حق a. wahl-berechtigt
 | الانتخاب s. m. -bezirk
 | الانتخاب لانتخاب مومي
 | وانتخب ه و ه | wählen va. in. u. etw.
 | اصطفي ه و ه | اختاره و ه
 | وانتخب ه ه | zu etw. - in.
 صاحب | منتخب s. m. Wähler
 | صوت للانتخاب wählerisch a.
 | منتخير في الانتخاب

wahl-fähig a. f. wählbar | -preis
 s. m. f. -bezirk | -los a. بِلا تَمْيِيز |
 -mann s. m. صَاحِب صَوْت |
 -recht s. n. حَق | للآنْتِخَاب
 | ميدان الحَرْب s. f. | -الآنْتِخَاب
 -tag s. m. | يَوْم الآنْتِخَاب | -ver-
 wandtschaft s. f. مُقَارَبَة آنْتِخَابِيَّة .
 Wahn s. m. زَعْم | أَوْهَام pl. وَهْم
 | -bild s. n. | تَخْيِيل | تَوَهْم | باطل
 | أَحْيَلَة pl. خِيَال .
 wähnen vn. a. زَعَم | تَوَهَّم | خال .
 Wahn-sinn s. m. | سُعْر | جُنُون |
 -sinnig a. | مَجْنُون | -witz s. m.
 | مَجْنُون a. | -witzig a. | جُنُون .
 wahr a. | صَحِيح | حَقِيْقِي | حَق |
 - | fein i | حَق | i | صَحَّ | etw. - machen
 | أَثْبَت ه | صَحَّ ه | حَقَّق ه
 - | sprechen u | صَدَق | so -, so -
 als كَمَا .
 wahren va. etw. ه | حَفِظ | sich -
 | أَحْتَرَس | أَحْتَرَز .
 wahren vn. u | اسْتَمَرَّ | دام .
 während praep. c. gen. | فِي آثْنَا
 | فِي مُدَّة | فِي غُضُون ال... | ال...
 | فِيمَا | بَيْنَمَا - | ال...
 | ما دام | فِيمَا أَنَّ .
 wahr-haft a., -haftig a. (echt)

(aufrichtig) | خَالِص | حَقِيْقِي
 | صِدِّيق | صَدُوق | صَادِق فِي الْقَوْل
 - - adv. | حَقِيْقَةً | حَقًّا -
 -haftig-
 feit s. f. | حَق | -heit s. f. | حَق
 | صِحَّة | حَقِيْقَةً | die -heit sagen,
 | sprechen u | صَدَق | jm. die -heit
 | sagen | أَبَان لَهُ عِيُوبُهُ | in -heit
 -heitsliebe s. f. | حَقِيْقَةً | حَقًّا
 | -heitsliebend a. | صَدُوق | -
 | -heitswidrig a. | مُخَالِف الْحَقِيْقَة
 -lich adv. | حَقِيْقَةً | حَقًّا -nehm-
 bar a. | يُشْعَرِبِهِ | مُمَكِن مَنظَرُهُ
 | -nehmen va. etw. ه | أَبْصَرَ ه
 | اِعْتَنَى بِ | لَاحِظ ه | شَعَرَ بِ
 die Gelegenheit -nehmen | اِعْتَنَمَ
 | اشْعُورِبِ | -nehmung s. f. | الْفُرْصَة
 | -sagen va. etw. | مُلَاحِظَة
 | -fager s. m. | تَفَاعَل بِ | تَفَاعَل بِ
 | -schein- | مُتَفَاعِل | مُتَفَقِّل | عَرَّاف
 lich a. | مَظْنُون | مُحْتَمَل | -schein-
 lichkeit s. f. | اِحْتِمَال | -spruch
 s. m. | جَوَاب الْحُكَّام مِنَ الْاَهَالِي .
 Währung s. f. | مُعَامَلَة | عُمَلَة
 | نُقُود رَائِجَة .
 Wahrzeichen s. n. | سِيْمَة | عِلَامَة
 Waise s. m. | اَيْتَام pl. يَتِيْم
 | اَيْتَامِي pl. يَتِيْمَة s. f. | اَيْتَامِي

- nhaus s. n. يَيْتُ الْيَتَامَى | Wallung s. f. des Blutes غَيَّان
-nmädchen s. n. يَتِيمَةٌ. | فَوْران | الدَّم.
- Wal s. m. f. Walfisch. | Walnuß s. f. جَوْزٌ coll. | eine -
Wald s. m. حُرُشٌ* | غابات pl. غَابَةٌ | -baum s. m. جَوْزَةٌ pl. جَوَزَاتُ |
pl. أَحْرَاشُ | -horn s. n. بُوقٌ pl. شَجَرَةُ الْجَوْزِ.
- Walpurgisnacht s. f. مُجْتَمَعٌ سَكْرَةٌ فِي |
-meister s. m. bot. خَشْنَاءُ | اللَّيْلِ.
- Walfisch s. m. zool. حُوتٌ pl. | Walrat s. m. | Walroß
حيطان. | مَنَى الْحُوتِ | s. n. نَوْعٌ مِنَ الْحَيْتَانِ.
- walfen va. etw. ه | طَرَقَ u ه | لَبَدَ u ه | wälſch a. f. welsch.
ضَرَبَ i ه ضَرْبًا. - | jn. | كَبَسَ i عَلَى | Walzmühle s. f. مَعْمَلٌ |
شَدِيدًا | اللَّبَادِ. | Gott! بِأَسْمِ اللَّهِ.
- Wall s. m. مَنَارِيسٌ pl. مِثْرَاسٌ. | Walze s. f. أُسْطُوَانَةٌ pl. |
Wallaeh s. m. -en | حِصَانٌ مَخْصِيٌّ | مَحَادِلٌ pl. مَحَادِلَةٌ* | مَلَّاسَةٌ*
va. Pferd طَوَّشَ الْحِصَانَ.
- wallen vn. (wandeln) a | ذَهَبَ | walzen vn. رَقَصَ u ودار u في الرَّقْصِ. |
- (siedendes Wasser) i | فار u | غَلَى i | wälzen va. etw. ه | كَوَّرَ ه |
- (Meer) تَمَوَّجٌ. | نَدَخْرَجٌ - | sich.
- wall-fahren vn. u | حَجَّ | u | زار | Walzer s. m. رَقْصٌ بِالدَّوْرَانِ.
-fahrer s. m. حُجَّاجٌ pl. حَاجٌّ | Wamme s. pl. غَبَبٌ |
| حَجَّ | زائر pl. زَائِرُونَ | -fahrt s. f. | Wams s. n. نَوْعٌ مِنَ اللَّبَاسِ الْقَصِيرِ.
| حَجَّةٌ | -fahrtsort s. m. | زِيَارَةٌ | Wand s. f. (المُحْجَرَةُ) | حَيْطَانٌ pl. |
| مَزَارٌ pl. مَشَاهِدٌ | مَشَاهِدٌ. | حِيطَانٌ | حَائِطٌ (المُحْجَرَةُ) |
mit dem Kopfe durch die - rennen | حَاجِزٌ - | طَلَبٌ u المَحَالِ
سَجِيفٌ | سِجَافٌ | حَوَاجِزٌ pl. | سَجِيفٌ.
- Wandel s. m. (Veränderung) | تَغْيِيرٌ |

- | تَصَرَّفَ | سُلُوكَ (Lebens-) -
Handel u. - | تِجَارَةٌ وَمُعَامَلَةٌ -
-bar a. | مُتَغَيِّرٌ | -barkeit s. f.
| تَغْيِيرٌ | -n va. etw. (verändern)
-n vn. | تَغْيِيرٌ -n | سِخِرَ | غَيَّرَ ه
(gehen) a | ذَهَبَ | سَارَ | (sich be-
tragen) u | سَلَكَ | -stern s. m. astr.
سَيَّارَاتٍ pl. سَيَّارَةٌ.
- Wanderer s. m. | مُسَافِرُونَ pl. مُسَافِرٌ |
| رُحَالٍ pl. رَاحِلٍ | إِبْنِ السَّبِيلِ
Wanderjahre | سَائِحُونَ pl. سَائِحٌ
s. pl. | زَمَنٌ يُسَافِرُ فِيهِ الشَّبَابُ s. pl.
wandern vn. | سَارَ | مَشَى | i
a | ذَهَبَ | سَافَرَ | اِرْتَحَلَ | رَحَلَ a
Wanderschaft s. f. | رِحْلَةٌ | اِرْحِيلُ
Wandersmann s. m. | سَيَّرٌ |
Wanderer | Wanderstab s. m. |
den - ergreifen | عَصَا الْمُسَافِرِ
Wanderung s. f. | رِحْلَةٌ | اِرْتَحَلَ
اِرْتِحَالٌ.
- Wandstern s. m. | خُرِسْتَانٌ * pl.
خُرِسْتَانَاتٌ.
- Wange s. f. | وَجَنَاتٍ pl. وَجْنَةٌ |
عَوَارِضٍ pl. عَارِضٌ | خُدُودٍ pl. خَدٌّ
- Wankel-mut s. m. | قِلَّةُ الثَّبَاتِ |
قَلِيلِ اثْبَاتٍ a. -مُتِيحٌ | طَيْشٌ
قُلُوبٍ | طَائِشٌ.
- wanken vn. | اِرْتَجَّ | تَمَائِلٌ |
- (in seinen Entschlüssen) تَحْيِيرٌ
في أَمْرِهِ.
- wann conjct. | مَتَى |
dann u. - | أَحْيَانًا.
- Wanne s. f. | مَغْطِسٌ pl. مَغْطِسٌ |
مَغْسِلٌ pl. مَغْسِلٌ.
- wannen, von - | مِّنْ أَيْنٍ -.
- Wanst s. m. | جَوْفٌ | بَطْنٌ.
- Wanze s. f. | بَقٌّ.
- Wappens n. | شِعَارِ الشَّرَفِ وَالنَّسَبِ n.
عِلْمِ عِلَالِيمٍ s. f. | فُنْدَةٍ - | عِلَالِيمِ
النَّسَبِ.
- wappnen va. | سَلَّحَ | سِخِرَ |
Geduld - | الصَّبْرُ -
- Wardein s. m. (Münz-) | حَكَّكَ |
Ware s. f. | بَضَائِعٌ pl. بَضَاعَةٌ | -n-
haus s. n., -nlager s. n. | مَخْرُونٌ
pl. مَخَارِزِنٌ.
- warm a. | سَخِينٌ | حَارٌّ |
enthaltend z. B. Wasser) | حَامٍ |
- (Wärme bewahrend z. B. Kleid)
- bld. | حَارٌّ | دَفِيءٌ |
| أَنَا دَفِيءٌ - | المَرَّ شَدِيدٌ |
- werden | أَأَدْرِكُنِي المَرُّ | أَنَا دَفْآنٌ
دَفْآنًا ه | etw. - machen | تَدَفَّأَ
- Wärme s. f. | حَرٌّ | حَوَارَةٌ |
دِفْءٌ | حَرٌّ | حَرٌّ |

- نُعَل | ثَالِيل pl. ثَوْلُول s. f. Warze
 حَلَمَة (Brust-) | نُعُول pl. | wärmen va. etw. | هِمَة | غَيْرَة
 أَبْرَاز u. بِرَاز pl. بِرْ* | التَّدْي | تَدَفَّأ - | سَخَّن ه | دَفَّأ ه
 كَثِير التَّعُول. | آلة s. f. Wärmflasche | إِدْفَأ
 أَي | مَا | مَا | ما؟ pron. interr. | شَيْء | شَيْء = (warum) | شَيْء
 مَا | الشَّيْء الَّذِي | ما | pron. relat. | شَيْء | شَيْء (= etwas)
 - | أَيْ | آيَة f. | أَي | auch, - auch
 مَوْلَمًا. | immer
 مَغَاسِل pl. مَغْسَل s. n. Waschbecken
 طُشُوت pl. طُشْت* (kupfernes)
 الْكَان pl. لَكَنَّ
 Wäsche s. f. | نِيل | Wäschblau s. n.
 تَغْسِيل | غَسَل | غَسِيل*
 قُمَاش قُطْن أَوْ كَتَان (Weißzeug)
 نَسِيج | غَسِيل* | أَقْمِشَة pl.
 نَسَائِج pl. نَسِيجَة | نُسِج
 غَسَل ه | غَسَل i ه | waschen va. etw.
 تَوَضَّأ (relig.) | إِغْتَسَل - | سِخ | sich
 وَبَّخ ه - | den Kopf jm.
 غَسَال | -in s. f. Wäscher s. m.
 غَسَالَة
 غَسَالَة | -forb Wasch-frau s. f.
 قَرَطَل | سَل لِلْغَسِيل s. m.
 مِغْسَلَة - | لَاطِن | قَرِاطِل
 رَجُل عَادِم المَرْوَة bld. | -schüssel

حُمِيًّا | حَرَارَة bld. - | سُخُونَة
 وَارْن va. jn. vor | حَدَّر ه | مَن
 أَخْطَر ه | أَيَقْظ ه | نَبَّه ه | أُنْذِر ه
 مُنْذِر | مُحَدِّر s. m. Warner
 تَحْذِير | إِنْذَار s. f. Warnung
 تَنْبِيَه.

حَدَّر ه | مَن | وَارْن va. jn. vor
 أَخْطَر ه | أَيَقْظ ه | نَبَّه ه | أُنْذِر ه
 مُنْذِر | مُحَدِّر s. m. Warner
 تَحْذِير | إِنْذَار s. f. Warnung
 تَنْبِيَه.

Wärt s. m. f. Wärter.
 مَرَايِب pl. مَرَقِب s. f. Warte
 مَرَايِد pl. مَرَصِد -frau s. f.
 خَادِمَة مَرِيض أَوْ طِفْل.

(Tiere oder Kinder) warten va.
 حَدَم i (الدَّوَابُّ أَوْ الْأَطْفَال)
 اِنْتَضَرَ ه و ه | اِنْتَضَرَ ه
 اِسْتَنْظَر ه و ه | اِسْتَنْظَر ه و ه

حَارِس | خَادِم (المَرِيض) s. m. Wärter
 خَادِمَة (المَرِيض أَوْ -in s. f.
 الطِّفْل).

مُنْتَظِر فِي المَحَطَّة s. m. Wartesaal
 مُسْتَنْظَر | Wartturm s. m. f.

خِدْمَة s. f. | Warte | WARTUNG
 المَرِيض أَوْ الطِّفْل.

لِماذا | لِمَ | warum? pron. interr.
 لِأَيِّ سَبَبٍ.

s. f. * طَشْت pl. طُشُوت | kupferne
 -- -- * لَكَن pl. أَلْكَان | -tisch s. m.
 -trog s. m. | دُولَاب المَاء * | مَغْسَل
 | غَسْل s. f. | مَرَاكِن pl. | مِرْكَن
 | اِغْتِسَال | religiöse -ung
 | غُسْل | seine relig. -- vornehmen
 | تَوَضُّؤْ | wasser s. n. | غُسَالَةٌ
 | تَوَضَّأَ | weib s. n. | غَسَّالَةٌ
 | رَجُل | bld. | كَثِير الكَلَام

Wasser s. n. ماء pl. مِيَاء | - (Urin)
 | رَوْتَق | des Diamanten | بُول
 | عَرَق - | gebranntes | الأَمْلَس
 | بَال | * | بَوْل
 | lassen, abschlagen u | تَمَوَّن مَاء
 | einnehmen (Schiff) | (مَرْكَب)
 | zu - werden, ins -
 | fallen bld. | فات u | الأمر
 | läuft ihm im Munde zusammen
 | - ins Meer tragen | يَرْغَب فِيهِ
 | zu - | أَتَى i | بِمَا لا حَاجَةَ إِلَيْهِ
 | -bassin | بَرًّا وَبَحْرًا | u. zu Lande
 | -becken s. n., -behälter
 | -bruch s. m. | حَوْض | بَرَكَةٌ
 | -dicht a. | تَنْفُذَةُ المَوَائِع | - | فَتَق
 | -fahrt s. f. | سَيَّر فِي المَاء | -fall
 | -شالوف | سُقُوط المَاء | شَلَالَةٌ * | s. m.
 | -farbe s. f. | مَحْلُول بِالمَاء | -
 | pl. | كَأْس | -glas s. n. | والصَّمْع

-hahn s. m. | كِبَايَةٌ * | كُوُوس
 | hose s. f. | اِعْصَار pl. | حَنْفِيَّة
 | أمّ الزُّوْبَعَة | اِعْصِير
 | مَائِي | مَائِي | wässrig a. | مَائِي
 | im. den Mund nach etw. - machen
 | جَعَلَ a ه | يَرْغَب فِيهِ

Wasser-jungfer s. f. zool. نَوْع مِّن
 | -kopf s. m. | الفَرَّاش
 | -kraft s. f. | قُوَّة المَاء | -fresse
 | حُرْف المَاء | قرّة العَيْن | s. f. bot.
 | آلة يُرْفَع بِهَا المَاء | -kunst s. f.
 | قَنَوَات pl. | قَنَاة | -leitung s. f.
 | مَجَار pl. | مَجْرَى | -melone s. f.
 | بِطِيْن أَحْمَر | طاحونة -mühle
 | يُكْرِكُهَا المَاء

| بَلّ u ه | أَنقَع ه | wässern va. etw.
 | - vn. der Mund | أزال مِلْحَهُ
 | wässert ihm darnach | يَرْغَب فِيهِ

Wasser-pfeife s. f. | شَيْشَة * | نارِجِيلَة
 | -pocken s. pl. | أَرَكِيكَة * | جَدْرِي
 | -rad s. n. | نَاعُورَة | -rose s. f.
 | -scheu a. | نَبَات مَائِي | خَائِف
 | -scheu s. f. | كَلِب | مِّن المَاء | خَوْف
 | -snot s. f. | كَلْب | مِّن المَاء | ضَيْق
 | -spiegel s. m. | بِغِيضَان المَاء | سَطْح
 | -stand s. m. | اَلْمَاء | عُلُوّ
 | لا يَنْفُذُهَا المَاء | -stiefel s. m.

- stoff s. m. chem. | إِدْرُوجِين * |
 -sturz s. m. f. -fall | -sucht s. f.
 -füchtig a. | داء الأستِسْقَاء
 -träger s. m. سَقَاء | مُسْتَسْقٍ
 pl. | أَنْبُوب -wage s. f. سَقَاوُون
 | فِيهِ مَاء يُفَحَّص بِهِ عَنِ الأَسْتِوَاء
 -zeichen s. n. عِلَامَة الوَرَق
 waten va. مَشَى i | مَشَى i فِي المَاء
 فِي الوَحَل
 watscheln vn. مَشَى i مَشَى البَط
 Watte s. f. | حَشْو قُطْنٍ | wattieren
 va. etw. ه | بَطَّن ه بِقُطْن
 Wauwau s. m. قِرَاعَة
 weben va. etw. ه | نَسَجَ i, u
 | حَبَكَ i, u - vn. (leben u. -)
 | تَحْرَكَ | Weber s. m. نَسَّاج
 pl. | حِيَاكَة | Weberei s. f. حَاكَة
 | نَسِيج (Gewebe) - | مَنَسِج | مَحَاكَة
 pl. | نُسِج | Weberschiffchen s. n.
 | آلَة المَاكِك | مَكَاكِيك pl. مَكُوك *
 Webstuhl s. m. | أَنْوَال pl. نُول
 | مَنَاسِج pl. مَنَاسِج
 Wechsel s. m. | تَغْيِير | تَغْيِير
 - | سَفَاتِج pl. سَفْتِجَة (Papier) -
 | بَوَالِص pl. بُولِصَة * | حَوَالَة
 | فُلُوس | دَرَاهِم stud. - | كَمْبِيَالَة *
 -agent s. m. | دَلَال | سِمَسَار * pl. weder ... noch ولا ... لا
- إِبْدَل ه | غَيَّر ه
 | صَرَف i ه | صَرَف الدَّرَاهِم - Geld
 | كَاتَب ه | رَاسَل ه - Briefe mit jm.
 | حَاوَل ه | حَادَث ه - Worte mit jm.
 - vn. | تَغْيِير
 | مُحَاوَرَة | مُحَادَاثَة
 | مُتَشَارِك | مُتَبَادِل a. -feitig
 | مُبَادَلَة s. f. -feitigkeit | مُشْتَرِك
 | مَحَل الصِّرَافَة s. f. -stube | تَبَادُل
 -weise a. f. | -feitig | -wirkung
 s. f. | تَأَثَّر مُتَبَادِل s. f. | Wechsler s. m.
 | صَيَارِفَة pl. صَيِرَف | صَرَّاف
 | Wechslerbank s. f. f. | Wechselbank.
 | أَرُغْفَة pl. رَغِيْف s. m. | Wedf
 | يَقْظ ه | أَيْقَظ ه | jn. | wecken va.
 | فَوْق ه * | فَيَّق ه * | أَفَاق ه *
 | نَبِيَه | Wecker s. m. سَاعَة
 | مُنْبِئَة
 | مَنَافِض pl. مَنَفِض s. m. | Wedel
 -n mit dem | مَرَاوِح pl. مَرُوحَة
 | حَرَك دَنْبَه | Schwanz vn.
 | لا ... ولا weder ... noch

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Weg s. m. طَرِيق pl. طُرُق u. طُرُق | Wegelagerer s. m. قاطِع الطَّرِيق pl. |
| u. طُرُقَات طُرُقَات سِكَّة pl. سِكَّك | لُصُوص pl. لُصَّ قَطَّاع |
| pl. دُرُوب سَبِيل pl. سَبِيل | wegen praep. c. gen. بِسَبَب لِأَجْلِ |
| pl. وَسَائِل (Mittel) - سِرَاط | Wegweiser s. m. دَلِيل pl. أَدِلَّة |
| pl. وَسَائِل وَسَائِلَة وَسَائِلَة | مُرْشِد. |
| - nehmen, einschlagen nach تَوَجَّه | wegwerfen va. etw. ه i رَمَى sich - |
| den - zeigen s u دَل إلى | مُحْتَقِر - d تَذَلَّل bld. |
| bl. صَارِ قِدْوَةً لَهُ عَلَى الطَّرِيق | Wegzehrung s. f. زَاد. |
| bl. مَشَى sich auf den - machen i | Weh! Wehe! interject. آه آه |
| den - اذْهَب jm. aus dem | وَيْلٌ لَهُ - jm.! - über jm.! آهًا |
| den - gehen وَسَّعَ لَهُ الطَّرِيق | وَيْلَاه وَيْلُهُ وَيْلًا لَهُ |
| den - es gehen اِنْصَرَف a | تَوَيْل دَعَا u بِالْوَيْل - rufen |
| den - legen, jm. in | Weh s. n., Wehe s. n. آلام pl. آلام |
| den - treten bld. مَنَعَ ا مَقاصِدَهُ | ا مَخاض - en pl. اَوْجَاع pl. وَجَع |
| weg! interject. اِمْسِ اِذْهَبْ | wehe, jm. - thun s آلم s اَوْجَع s |
| weg - (in Zusammensetzungen zeigt | شَقَّ u عَلَيْهِ اَسَاءَ اِلَيْهِ اَذَى s |
| die Bewegung von einem Orte | wehen vn. (Wind) (الرِّيح) u هَبَّ |
| weg an f. fort) (في التَّرْكِيبات) | sanft - i نَسَم Wehen s. n. هَبَّ |
| (يَدُلُّ عَلَى الْاِنْصِرَافِ). | هُبُوب الرِّيح. |
| (Alle Zusammensetzungen wie: weg- | Weh-klage s. f. اِنْيَاح نُوح اَنْبِين |
| begeben, wegbringen, wegfahren, | -klage (über Toten) رِثَاء (Der |
| wegführen, weggehen, wegjagen, | Klageweiber) وَلَوَاة - klagen vn. |
| wegkommen, weglaufen, weg- | i اَنَّ u نَاح (über Tote) u رِثَا |
| nehmen, weggraffen, wegreißen, | s u حَزْن - mut s. f. اَنْدَب نَدَب s |
| wegreißen, wegschaffen, weg- | -mütig a., -mutsvoll a. حَزِن |
| schicken, wegsenden, wegtreiben | -mutter s. f. مَغْمُوم حَزِين |
| f. fortbegeben, fortbringen zc. | قَابِلَة. |

Wehr s. n. (Damm) حاجز الماء.

Wehr s. f., -e s. f. | دفاع | مُقاوَمَة

sich zur - setzen | دافع عن نفسه

- | سلاح للدفاع -

en v. jm. | وقف | متسلح

en | قلوب | منع | منع

en, sich seiner | منع | عن

ge- | دافع عن نفسه | Haut -en

hänge s. n., -gehenf s. n. | حماله

-haft | نجاد | حمايل pl. حميلة

a. | قابل للدفاع | عاجز عن

losgigkeit | اميل | اغزل | الدفاع

s. f. | pflicht s. f. | عاجز عن الدفاع

ملتزم a. | pflichtig | فرض التجند

طريقة s. m. | stand | للتجند

عسكرية.

Weib s. n. (weibliche Person) امرأة

نسوان u. نسوة u. نساء pl. امرأة

زوجاة | بعلة | امرأة (Ehe-) -

تزوج | ein - nehmen | بنت العم *

(weiblicher | عجائز pl. عجوز -

رجل | رجل متأثت (Mann)

chen s. n. | رجل عديم المروءة | منعم

(von Tieren) | انثى.

Weibel s. m. | مرسل | رسول المحكمة

ضابط المحكمة

Weiber-feind s. m. | نافر من النساء

-list s. f. | حيلة النساء | -narr

s. m. | عاشق النساء.

weib-isch a. | متأثت | عادم

gr. | انثوى | انثى a. | المروءة

ein Wort -lich | موثت | gebrauchten

lichheit s. f. | انث الكلمة

-sbild s. n., -sperion | النساء

s. f., -stück s. n. | دنيئة

weich a. | رحو | مرثع | لين

bl. | سريع التأثر | (Brot, Käse)

بيض برشت *Eier -e | طرى | رطب

- fein od. werden | لان | تليين

bild s. n. | تحنن | رقى | i

e (-heit) | اطراف المدينة | Stadt

anat. (des | لين | رخواوة | Körpers)

(der | حالب | كاذة | Eisenbahn)

مفتاح (سكة الحديد) | مفتاح

weichen vn. | تقهقر | خضع له - jm.

Weich-heit s. f. | رخواوة | لين

رقيق | لين النفس | -herzig

لينه | -herzigkeit s. f. | القلب

lich a. | رقة القلب | النفس

متأثت | قليل القوى | ناعم | رحو

تأثت | رخواوة s. f. | منعم

ling s. m. | رجل متأثت

-herzig. | -mütig a. | منعم

Weichsel-Firsche s. f. | نوع من الكرز

- zopf s. m. داء الشَّعْر المَتَلَبِّد | بعضه بَبْعُضُ.
- Weichtier s. n. حَيَوَان عَادِم الفَقَار.
- Weide s. f. مَرَج | مَرَايِ pl. مَرَعِي pl. مَرُوج - (für Herz, Augen) | صَفْصَاف (-nbaum) - | سُرُور -land s. n. مَرَعِي.
- weiden va. Vieh, od. - lassen s a اَرْعَى | sich - an | اِرْتَعَى vn. | اَرْعَى s | شَمِت a ب | فَرِح a ب | etw. Weide-platz s. m. مَرَعِي | -recht s. n. | حَقَّ الرَعَى فِي مَرَعِي.
- weid-lich a. صَيَّاد | جَيِّد -mann s. m. | مُخْتَصَّ بِالصَّيْد a. -männlich a. | مِذْبَح | سَيِّبِن الصَّيْد s. n. -messer s. n. | مَجْرُوح a. | صَيِّد s. n. -wurf s. n. | فِي الأَحْشَاء.
- weigern va. jm. etw. اَبَى a ه لَه | sich - zu اَبَى a ه | اِمْتَنَعَ عَن | Weigerung s. f. اِمْتِنَاع | اِبَاء | عَدَم القُبُول | رَفُض.
- Weih s. m., Weihe s. f. حِدَاة pl. | خَطَاف | شُوْحَة * | حِدَا.
- Weih-bischof s. m. kath. اُسْقُف | -e s. f. (einer Kirche) | تَابِع مِطْرَان | -e (eines Priesters) kath. | اِرْتِسَام * | اِرْسَامَة * | Weiler s. m. قَرْي pl. قُرَى | كُفُور pl. كُفُور.
- Wein s. m. مُدَام | نَبِيذ | خَمْر | - alter - | عِنَب (Trauben) - | roter - | الصُّهْبَاء - | weißer - | عَنِيْقَة | سَيِّبِر | dem - ergeben | كُمِيْت |
- en va. Kirche اَقْدَس الكَنِيسَة | -en Priester kath. u | كَرَس ه * | seine Zeit einer Sache | صَرَف i الزَّمَن (-en (widmen) dat. | sich -en einer Sache dat. | قَدَّمَ نَفْسَهُ لِي.
- Weihher s. m. بَرَكَة pl. بَرَك.
- Weih-fessel s. m. kath. جُرْن المَاء | -nacht s. f., -nachten, -nachtsfest s. n. christl. عِيد مِبِلَاد | -nachtl. a. | الْمُخْتَصَّ بِعِيد | المَسِيح | -rauch s. m. | بَخُور | اِمْلِيَاد | -wasser s. n. kath. | مَاء مُقَدَّس.
- weil conjct. لِأَجْلِ | لِأَنَّ | بِمَا أَنَّ | مِنْ حَيْثُ أَنَّ | أَنَّ.
- weiland adv. فِي قَدِيم الزَّمَان.
- Weile s. f. مُدَّة | بُرْهَة | ein Weilchen | لَحْظَة | هُنَيْهَة | هُنَيْهَة.
- weilen vn. u | أَقَام فِي | مَكَث.
- Weiler s. m. قَرْي pl. قُرَى | كُفُور pl. كُفُور.
- Wein s. m. مُدَام | نَبِيذ | خَمْر | - alter - | عِنَب (Trauben) - | roter - | الصُّهْبَاء - | weißer - | عَنِيْقَة | سَيِّبِر | dem - ergeben | كُمِيْت |

- bau s. m. | زِرَاعَةُ الْكَرْمِ | -bauer
s. m. | كَرَامٌ | -beere s. f. | عِنَبٌ |
-berg s. m. | كَرْمٌ pl. | كُرُومٌ.
weinen vn. i | دَمِعَتْ عَيْنُهُ | بَكَى |
بَكَى | ذَرَفَتْ عَيْنُهُ | - über etw.
Weinen s. n. | تَأَسَّفَ عَلَى | عَلَى
| بُكَائِي | بُكَاءٌ | weinerlich a.
نَوَاحٍ | كَثِيرِ الْبُكَاءِ |
Wein-essig s. m. | خَلٌّ | -faß vn.
| شَرِبَ الْخَمْرَ | bld. | بَرْمِيلٌ لِلْخَمْرِ
-geist | قَيْنَةَ لِلْخَمْرِ | -flasche s. f.
| رُوحَ الْخَمْرِ | الكُحُولُ * | s. n.
-haus s. n. | أَقْدَاحٌ pl. | قَدَحٌ | s. n.
-keller s. m. | حَوَانِيَتٌ pl. | حَانُوتٌ
-laub s. n. | أَقْبِيَّةٌ pl. | قَبُوٌ لِلنَّبِيذِ
-lese s. f. | اقْتِنَافٌ | -lese s. f. | وَرَقُ الْعَرِيْشِ
-presse s. f. | مِعْصَرَةٌ | - | الْعِنَبِ
-rebe s. f. * | عَرِيْشٌ | - | الْعِنَبِ
-schenke s. f. | قَوَالٍ pl. | دَالِيَّةٌ *
-schlauch | حَوَانِيَتٌ pl. | حَانُوتٌ
-stein | دُرْدِيٌّ | زِقَاقٌ pl. | زِقٌّ | s. m.
| طَرَطِيْرٌ * | رُسُوبُ الْخَمْرِ | الْخَمْرِ
- | طَرَامَةٌ (an den Zähnen) | -stein
-steinsäure s. f. | كَمْحَةٌ * | قَلَاحٌ
-stocf s. m. | حَامِضٌ دُرْدِيٌّ | الْخَمْرِ
-traube s. f. | عُنُقُودٌ pl. | -rebe |
عِنَبٌ | عِنَابِيْدٌ |
- weis, jm. etw. - machen & a | خَدَعَ |
أَوْهَمَ & ب.
weise a. | صَوَابِيٌّ | عَاقِلٌ | عَالِمٌ | der
Weise a. | حُكْمَاءٌ pl. | الحَكِيْمِ | der Stein
| اِكْسِيْرٌ عِنْدَ الْاَقْدَمِيْنِ | -n
Weise s. f. | اَسْلُوْبٌ pl. | اَسَالِيْبٌ |
pl. | طَرَائِقٌ pl. | طَرِيْقَةٌ |
auf diese - | مَنُوَالٌ | مَنَاهِيْجٌ
لِحُنِّ (Melodie) - | اَعْلَى هَذَا النَّمَطِ
pl. | اَلْحَانِ |
weisen va. jm. etw. | اَرَى & ه |
| وَجَّهٌ & اِلَى | - an | دَلٌّ & عَلَى
| اَبَى & ه | رَفَضَ ه - | etw. von sich
| اَهْدَى & i | اَرشَدَ & - | jm. zurecht
| كَاشَرَ & | jm. die Zähne - | وَبَّغَ &
| اَمَرَ & u | jm. die Thür - | تَهَدَّدَ
- | بِالْاَنْصِرَافِ | mit dem finger
| اَنْشَارٌ اِلَيْهِ بِالْبَنَانِ | auf jm.
سَخَّرَ بِهِ |
Weis-heit s. f. | حِكْمَةٌ | (Wissen) |
| اَضْرَسَ الْعَقْلَ | -heitszahl | مَعْرِفَةٌ |
- | اِسْاَغَنَ | بِفِطْنَةٍ | بِحِكْمَةٍ | -lich adv.
| اَخْبَرَ بِهِ قَبْلَ حُدُوْثِهِ | va. etw.
| اَنْبَاءٌ pl. | نَبَأٌ | - | سَاْغُنٌ |
Weisung s. f. | اَمْرٌ pl. | اَوَامِرٌ |
| اَبِيْضٌ pl. | اَبْيَضٌ | f. | اَبْيَضٌ |
- | اَبْيَضٌ | sein od. werden | اَبْيَضٌ | etw.

- machen | بَيَّضَ هـ | die -en s. pl. | das (ضِدُّ السُّودَانِ) | البِيضَانِ
-e s. n. des Auges, des Eis
-bier | بِيَاضُ الْعَيْنِ أَوْ الْبِيضِ
-binder | نَوْعٌ مِنَ الْبِيرَةِ s. n.
-brot s. n. | طَارِشٌ * | طَالٍ s. m.
| خُبْزٌ أَيْبِضٌ (مِنْ دَقِيقِ الْحِنْطَةِ)
-dorn s. m. bot. | بُوتُ | زُعُرُورُ
-e s. n. f. weiß | بِيَاضٌ | -en va.
| طَلَى i هـ | بَيَّضَ (الْبَيْتُ مَثَلًا) | etw.
نَوْعٌ مِنَ | بِلُونٌ أَيْبِضٌ | -fish s. m.
| دَبَاغٌ | -gerber s. m. | السَّمَكُ
| كَرْبُ أَيْبِضٌ | -fohl s. m. | الجُلُودُ
| مَائِلٌ إِلَى الْبِيَاضِ | -lich a.
نَوْعٌ مِنَ | -ling s. m. | أَيْبِضَانِي *
| حَوْرٌ | -pappel s. f. bot. | السَّمَكُ
| حَوْرٌ رُومِيٌّ | أَيْبِضٌ
weit a. (fern) | بَعِيدٌ | - entfernt
| بَعْدٌ u. | بَعِيدٌ جِدًّا | von
-em | (geräumig) | - | مِنْ بَعِيدٍ
| u. | بَرِيعٌ | وَسِعٌ | وَسِعٌ | واسعٌ
-er | مِنْ كُلِّ جِهَةٍ | طُولًا وَعَرْضًا
| das ist | تَقَدَّمَ | -er gehen | - | أَبْعَدُ
nicht - her | لَاقِيْمَةٌ لَهُ | das -ere
| (Geräumig) | بَعْدٌ | -e s. f. | الباقي
| s. n. | وَسِعَةٌ | وَسِعَةٌ | weit
| -en va. | أَدْبَرَ | -e suchen | das
- er f. | اتَّسَعَ -en | سَعٌ هـ
| bld. | اتَّسَاعٌ | -erung s. f. | weit
| واسعُ الْقَلْبِ | -herzig a. | تَطَوَّلَ
| واسعٌ | مُتَّسِعٌ | -läufig a. | -läufig
(umständlich) | مُطَوَّلٌ | -läufigkeit
| اتَّسَاعٌ | -schichtig a. | مُتَّسِعٌ | -تَطَوَّلَ
| واسعٌ | مُطَوَّلٌ | -schweifig a. | مُطَوَّلٌ
| -schweifigkeit s. f. | تَطَوَّلَ
Weizen s. m. | حِنْطَةٌ بَيْضَاءُ |
| -graube s. f. | ذُرَّةٌ - | türkscher
| بُرْغُلٌ *
| آيَّةٌ f. | آيٌّ | -er pron. interr. | welcher
| pl. | آيٌّ | f. | آيٌّ | - pron. rel.
| u. | اللّٰوَاتِي | u. | اللّٰتِي | f. | آيٌّ |
| - | اللّٰئِي | derjenige | آيٌّ |
| -heit | ذَبَلٌ | -en vn. u. | ذَابِلٌ | welf a.
| ذُبُولٌ | ذَبَلٌ | s. f.
Welle s. f. | أمواجٌ pl. | موجٌ -
| pl. | أسطوانةٌ (Walze) | - | موجةٌ
| أساطينٌ | -nförmig a. | مُتَمَوِّجٌ
| الهَيْئَةُ | -nförmig (Terrain) | غَيْرُ
| خطٌّ | -nlinie s. f. | مُتَسَاوٍ (أَرْضُ)
| -nSchlag s. m. | مُتَمَوِّجٌ الهَيْئَةُ
| تَلَاطَمُ الْأَمْوَاجِ
Wels s. m. | سَلَوْرٌ | جَرِيٌّ
| إيطاليانِيٌّ | أوْ | إيطاليانِيٌّ | welfsch a.
| -land s. n. | ذُرَّةٌ | -forn s. n. | إيطاليانِيٌّ

- (Unmöglichkeit) لَوْ أَنْ | لَوْ
als -, wie - كَأَنَّ | - anders
| كَيْتٍ | doch
- auch, - gleich, - schon وَإِنْ
| بِشَرَطِ أَنْ | nur مع أَنْ | وَاوَلَوْ
Wenzel s. m. (Kartenspiel) | أَعْرَجَ

* مَفْرُشِخْ.

wer pron. interr. مَنْ | pron. rel.
| أَلَّذِي | auch, - auch immer
| مَنْ هُوَ | da? | كُلِّ مَنْ | أَيِّ مَنْ
| مَنْ ذَلِكَ.

werben va. ju. (zum Heer) | جَيْشٍ
| قَيْدٍ | فِي الْعَسْكَرِيَّةِ | جَنْدٍ
- vn. um ein Mädchen u طلب
| Werber | خَطَبٍ | آبْنَةُ لِلزَّوْجِ
s. m. | مُجَنِّدٍ | حَاشِدٍ
| Werbung | طَلِبِ آبْنَةَ الْعَسْكَرِيَّةِ
s. f. | تَجْنِيدٍ | بِنْتُ لِلزَّوْجِ

werden v. etw. | ه | صار | ه | عاد | ه
| أَصْبَحَ كَذَا | تَحَوَّلَ إِلَى | حال | ه
| نَشُوْا | (entstehen) | ه | أَمْسَى كَذَا
| بدء | مَنَشَأً | Werden s. n. | تَوَلَّدَ

Werder s. m. | جَزِيرَةَ فِي نَهْرٍ | pl.
| جَزَائِرٍ.

werfen va. etw. | ه | رَمَى | ه |
| طَرَحَ | a | ه

| وَضَعَ الْوَلَادِ | نَتَجَ الْوَلَادِ (حَيَوَان)

einen Blick - auf إِلَى u نَظَرَ |
| اقْتَرَعَ فِي | das Los - über | لَاحَظَ ه
| عَانَقَ ه | sich jm. in die Arme -
| تَضَرَّعَ إِلَيْهِ | sich jm. zu Füßen -

Werft s. f. | مَعْمَلِ الْمَرَاكِبِ | pl.
* وَرُشَّةٌ.

Werg s. n. | مُشَاقَّةِ | إِسَارِ | نَبْخَةِ

Werg s. n. | مَعْمَلِ | pl. | أَعْمَالِ | صَنِيعَةٍ

pl. | تَأْلِيْفِ (Geistes-) | - | صَنَائِعِ | pl.

pl. | تَصَانِيْفِ | pl. | تَصْنِيْفِ | تَأْلِيْفِ | pl.

- | حِصْنِ (festungs-) | die guten

-e | الْمَحَاسِنِ | ins - setzen etw.

ans - gehen | أَجْرَى | ه | أَنْجَزَ | ه

zu -e gehen mit | شَرَعَ | بِ | a

-eltag s. m. | -tag | اسْتَعْمَلَ | ه

-führer s. m., -meister s. m. | نَاطِرٍ

-statt s. f., -stätte s. f. | الْعَمَلَةِ

pl. | مَعْمَلِ | * | كَرُخَانَةِ | pl.

tag s. m. | كَرَاخِيْنِ | -tag

فاعل (شَخْصٍ) | إِثْمَانِيَّةٌ | - | إِثْمَانِيَّةٌ | -

maße | الصَّانِعِ | s. m. | تِيفِ | - | اِعْمَلِ

zeug s. n. | آتِ | pl. | آتِ | -zeug

pl. | أَكْوَاتٍ.

Wermut s. f. bot. | شَيْخِ | * | أَفْسِنِيْنِ

| صَبْرٍ (Bitterkeit) | - | ذَقْنِ الشَّيْخِ | *

مرارة.

Wert s. m. | قِيَمَةٍ | pl. | قِيَمِ | pl.

أَقْدَار | einer Sache dat. einen
hohen - beilegen هِ أَحْتَرَمَ .

wert a. einer Sache gen. جَدِيرِب |
(lieb) - | مُسْتَحِقِّ ... | أَهْلٍ لِي
لَهُ قِيَمَةٌ (Preis) - | عَزِيْزٍ |
| هَذَا يُسَاوِي كَذَا - |
| jn. - | أَحْتَرَمَ | das ist nicht
| هَذَا أَمْرٌ - |
| لا قِيَمَةَ لَهُ | - | لا يُذَكَّرُ
| - | أَحْتَرَمَ |
| - | أَحْتِرَامٍ |
| - | اِعْتَبَرَ |
| - | اِعْتِبَارٌ |

Werwolf s. m. | جِنٌّ |

Wesen s. n. (Existenz) | وَجُودٌ -
| تَصَرَّفَ | سُلُوكٌ (einer Person)
| حَقِيْقَةٌ (wahre Beschaffenheit) -
| جَوْهَرٌ (Wesentliche) - | الشَّيْءُ
| - | الأَهَمُّ | أَصْلُ الأَمْرِ
| المَوْجُودِ | كائِنَاتٍ pl. الكائِنِ
| - | مَوْجُودَاتٍ pl.
| - | s von etw. | الخَيْرُ العام
| - | أَوْ بِ |
| - | الأَهَمُّ | جَوْهَرِيٌّ |
| - | لا بُدَّ مِنْهُ |

weshalb, weswegen | لَمْ |

Wespe s. f. | زُنْبُورٍ pl. زَنَايِيرِ |

وَكُرِّ الزَّنَائِيرِ - | دَبَائِيرِ pl.
| - | أَوْكَارٍ pl.

West s. m. | مَغْرِبٌ | غَرْبٌ (-wind)
| - | الدَّبُورِ | الرِّيحِ الغَرْبِيَّةِ

Weste s. f. | صُدْرَةٌ pl. |
| - | صَدِيْرِيٌّ | صَدَارِيٌّ pl.

Westen s. m. | مَغْرِبٌ | غَرْبٌ

west-lich a. | مَغْرِبِيٌّ | غَرْبِيٌّ -seite
| - | الجِهَةِ الغَرْبِيَّةِ | s. f. wärts adv.
| - | نَحْوِ الغَرْبِ | wind s. m. الرِّيحِ
| - | الدَّبُورِ | الغَرْبِيَّةِ

wett, etw. - | بِمِثْلِ |

| تَغَايُرِ | - | تَكَايَلِ | عَمَلِهِ
| - | مُجَارَاةٍ | مُسَابَقَةٍ |
| - | مُرَاهَنَةٍ |
| - | رَاهَنٌ |
| - | مُبَارَاةً | مُغَايِرَةً | مُسَابَقَةً -e
| - | تَغَايُرِ | غَيْرَةً | eifer s. m.
| - | سَابِقٌ |
| - | جَارِيٌّ |
| - | تَبَادُرِ | تَسَابِقٌ - -
| - | رَاهَنٌ | عَلَى

Wetter s. n. | هَوَاءٌ | * | طُقُوسٍ |
| - | زَوَابِعِ pl. | زَوْبَعَةٌ (-) | الجَوِّ
| - | أَشْرَاعِ pl. | شَرَعَةٌ | رَفْرَفٌ |
| - | أَطْنَفِ | طُنُوفِ pl. |
| - | دَوَارَةِ دَالَّةٍ عَلَى نَحْوِ | s. f. fahne

- Wetterglas s. n. | bld. | إنسان مُتَلَوِّن | الهواء
-glas s. n. | ميزان | ميزان الجَوِّ | الهواء
-hahn s. m. f. | -fahne | الهواء
-funde s. f. | عِلْمُ الحَوَادِثِ الجَوِّيَّةِ | الهواء
-leuchten vn. | أَبْرُقُ | -leuchten s. n.
شَمُّ u | أَرْعَدُ | -n vn. | مَعَانٍ | بَرُقُ
-schlag s. m., -strahl s. m. | غَضَبًا
-wendisch a. | صَوَاعِقُ pl. | صَاعِقَةٌ
مُتَلَوِّن.
- Wett-kampf s. m. | مُسَاعَاةٌ | مُجَاهَدَةٌ
-lauf s. m. | سِبَاقٌ فِي الجَرِيِّ |
-laufen vn., -rennen | مُسَابِقَةٌ
vn. mit jm. | سَابِقٌ | -rennen
s. n. | سِبَاقُ الخَيْلِ | -streit s. m.
f. | -eifer | -streiten vn. f. | -eifern.
- wetzen va. | مِيسِرٌ u | السِّكِّينِ |
Wetzstein | شَحَذٌ | ه | سَنٌّ | ه
s. m. | حَجَرُ الشَّحْذِ | مِشْحَذٌ | مِيسِنٌ s. m.
- Wichse s. f. | بُوَيَّةٌ * | طِلاءٌ | دُهْنٌ |
- | ضَرْبٌ (Prügel) | -n va. etw.
| طَلَى | ه | بِالبُوَيَّةِ * | دُهْنٌ | ه
-n jm. | ضَرْبٌ | ضَرْبًا شَدِيدًا.
- Wicht s. m., armer | رَجُلٌ مِسْكِينٌ |
fleiner - | رُجَيْلٌ.
- wichtig a. | تَعَاظِمٌ | - | تُهم |
-feit s. f. | أَهْمِيَّةٌ.
- Wicke s. f. bot. | بَيْقَةٌ |
كَرْسَنَةٌ.
- Wickel s. m. | وَرَقَةٌ مَلْفُوفَةٌ | jm. beim
- friegen | تَمَسَّكَ بِشَعْرِهِ |
-band s. n. | مِلْفٌ | الأَطْفَالِ |
-kind s. n. | طِفْلٌ فِي مِلْفٍ |
va. etw. | ه | لَفَّ | ه |
- - Kind | طِفْلٌ بِلِفَائِفٍ |
Widder s. m. | كِبَاشٌ pl. | كِبَاشٌ u.
بُرُوجُ الحَمَلِ | - | أَكْبَاشٌ.
- wider praep. c. acc. | ضِدٌّ |
-fahren vn. jm. | لَهُ |
- | حَصَلَ | لَهُ |
- - lassen | أَحَقَّرَ بِحَقِّهِ |
s. m. | كَلَالِيْبٌ pl. | كُلابٌ |
va. etw. | ه | نَقَضَ | jm. mit
Gründen -legen | رَدَّ | ه | بِالْحُجَجِ |
-legung s. f. | نَقَضَ | -lich a. | مُقَرِّفٌ |
مُخَالِفٌ | -natürlich a. | كَرِيهٌ |
| خَصْمٌ s. m. | -part s. m. | الطَّبِيعَةِ
-prall s. m. | إِرْتِدَادٌ |
-prallen vn. | انْعَكَسَ |
-raten va. jm. etw. | صَرَفَ | ه | عَنِ
| مُخَالِفٌ | الحَقِّ | -rechtlich a. | قَصْدِهِ
مُخَالِفَةٌ s. f. | -rede s. f. | مُخَالِفُ القَانُونِ
-rist s. m. (des
Pferdes) | حَارِكٌ | (الفرس)

pl. رُجُوعٌ عَنِ | -ruf s. m. | أَكْثَابٌ
 -rufen | اسْتِنْدِرَاكٌ | إِضْرَابٌ | الْقَوْلُ
 va. seine Worte عَنِ قَوْلِهِ | رَجَعَ
 مُمَكِّنٌ | -ruflich a. | اسْتِنْدِرَاكٌ هـ
 pl. خَصْمٌ | -sacher s. m. | إِبْطَالُهُ
 -schein | أَضْدَادٌ | ضِدٌّ | خُصُومٌ
 | انْعِكَاسُ النُّورِ | عَكْسُ النُّورِ s. m.
 | خَالَفَ | -setzen v. sich jm. *
 | مُعَانِدٌ | عَنِيدٌ | -setzlich a. | عَارِضٌ *
 | مُعَانَدَةٌ | -setzlichkeit s. f. | مَارِدٌ
 | مُخَالَفَةٌ | -sinn s. m. | عِصْيَانٌ
 | مُخَالَفٌ | -sinnig a. | الصَّوَابُ
 | عَنِيدٌ | -spenstig a. | الصَّوَابُ
 | مُعَانَدَةٌ | -spenstigkeit s. f. | مُعَانِدٌ
 | خَالَفَ | -sprechen vn. jm. | عِصْيَانٌ
 | مُخَالَفَةٌ | -spruch s. m. | * فِي الْكَلَامِ
 | مُعَارَضَةٌ | -stand s. m. | فِي الْكَلَامِ
 | -stand | jm. | مُعَارَضَةٌ | مُقَاوَمَةٌ
 | -stehten | عَارِضٌ * | قَاوَمٌ * leisten *
 | -stehten | عَارِضٌ * | قَاوَمٌ * vn. jm. *
 | أَقْرَفَ * | (الطَّعَامُ) (Speise) | jm.
 | -streben | عَارِضٌ * | -streben | jm.
 | مُخَالَفَةٌ | -streit s. m. | مُعَارَضَةٌ s. n.
 | خَالَفَ | -streiten vn. jm. | * | اِخْتِلَافٌ
 | -wärtig a. | مُقْرِفٌ | -wärtigkeit
 | كَرَاهِيَةٌ | كَرَاهِيَةٌ pl. | كَرِيحَةٌ s. f.
 | مُصَابِبَةٌ | مُصَابِبَةٌ pl. | (Unan-
 nehmllichkeit)

pl. ضَيْقٌ | -wille, -wollen
 s. m. | كَرَاهِيَةٌ | كَرَاهَةٌ s. m.
 | رَغْمًا | كَارَهُ adv.

widmen va. jm. ein Buch 2c. قَدَّمَ لَهُ
 | seine Zeit | أَهْدَى هـ لَهُ | كِتَابًا
 | einer Sache dat. - | الزَّمَنَ فِي - | اصْرَفَ
 | Widmung s. f. | قَضَى | الزَّمَنَ فِي
 | (eines Buches) | كِتَابٍ | تَقْدِيمٌ
 | إِهْدَاءٌ

widrig a. | مُخَالَفٌ | ضِدٌّ | ضَدِيدٌ
 | شِدَّةٌ | ضَيْقٌ | -es Geschick | مُضَادٌّ
 | -enfalls | مُقْرِفٌ | (widerlich) -
 | وَإِلَّا adv.

wie? interr. | كَيْفَ | - heißt er?
 | - viel? | مَتَى? | - bald? | مَا أَسْمُهُ
 | - conjct. | كَمْ زَمَنًا? | - lange? | كَمْ
 | مِثْلَمَا | مِثْلٌ | كَمَا | كَ (-gleich)
 | كَأَنَّهُ | - wenn | نَظِيرٌ

Wiedehopf s. m. zool. | هُدُودٌ pl.
 | هِدَاهِدٌ

wieder adv. | ثَانِيًا * | مِّنْ جَدِيدٍ *
 | يَدَّلُ فِي التَّرْجِيحَاتِ عَلَى إِعَادَةِ
 | -bringen | الشَّيْءِ أَوْ تَجْدِيدِهِ
 | أَتَى | بِهِ ثَانِيًا | رَجَعَ هـ | va. etw.
 | -gabe s. f. | رَدٌّ | إِرْجَاعٌ | (Dar-
 | -geben | تَصْوِيرٌ | تَمَثِيلٌ | stellung)
 | أَدَّى هـ | رَدٌّ u هـ | لِمَا جِبِهِ | jm. etw.

1. **Wiese** s. f. **مَرْج** pl. **مُرُوج**.
 2. **Wiesel** s. n. zool. **إِبْنِ عِرْس** pl.
 3. **Wiesel** s. n. zool. **نُمُوس** pl. **نِمَس** | **بَنَاتِ عِرْس**.
 4. **wieviel?** **كَمْ** | **wiemohl** conjct. **أَنْ**.
 5. **wild** a. **أَقْفَرِي** | **بَرِّي** | **وَحْشِي**.
 6. **wild** a. **وَحْشِي** pl. **وَحُوش** | **e Pflanze**
Tier **وَحْش** pl. **وَحُوش** | **über**
etw. - **werden** **مِنْ** a **حَنِق** |
Wild s. n. **مَصِيد** | **صَيْد**.
 7. **wild** s. n. **مَصِيد** | **صَيْد**.
 8. **wild** s. n. **سَيْل** pl. **سُيُول**.
 9. **wild** s. n. **سَيْل** pl. **سُيُول**.
 10. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 11. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 12. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 13. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 14. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 15. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 16. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 17. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 18. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 19. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 20. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 21. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 22. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 23. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 24. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 25. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 26. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 27. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 28. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 29. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 30. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 31. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 32. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 33. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 34. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 35. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 36. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 37. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 38. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 39. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 40. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 41. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 42. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 43. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 44. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 45. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 46. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 47. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 48. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 49. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 50. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 51. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 52. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 53. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 54. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 55. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 56. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 57. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 58. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 59. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 60. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 61. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 62. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 63. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 64. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 65. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 66. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 67. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 68. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 69. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 70. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 71. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 72. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 73. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 74. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 75. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 76. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 77. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 78. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 79. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 80. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 81. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 82. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 83. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 84. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 85. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 86. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 87. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 88. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 89. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 90. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 91. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 92. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 93. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 94. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 95. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 96. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 97. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 98. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 99. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.
 100. **wild** s. n. **صَيْد** | **مَصِيد**.

eine -taube | بِمَام | حَمَام بَرِّي
يَمَامَة.

Wilhelm n. pr. جَلِيُوم.

Wille s. m., Willen s. m. إِرَادَة |

(das Gewollte) | قَصْد | نِيَّة | طَوِيَّة

der | مَطْلُوب | مَرَام | مُرَاد

der | وَصَايَا pl. الوَصِيَّة -

der | الأَسْتَعْدَاد | المَيْل -

der | الإِرَادَة المَطْلَقَة | الأَخْتِيَار -

mit - | عَمْدًا - | sein f. wollen

js. | رَغْمًا عَنْهُ - | wider - | قَصْدًا

um Gottes - | بِسَبَبِهِ - | js.

den - | لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

js. | جَعَلَ a s مُطِيعًا | brechen

js. | أَمْحَضَ s | sein, jm. zu -

js. | أَطَاع s | thun - | seinen

will-entlos a. | عَادِم الإِرَادَة - | enskraft

js. | قُوَّة الإِرَادَة - | fahren vn. jm.

js. | رَأَى s | رَاضِي s | أَجَاب

js. | مُرَاعِي a. | مُرَاعِي a. | fähig

js. | مُرَاعَاة | مُرَاضَاة s. f. | feig a.

js. | طَوْعًا - | ig adv. | مُطِيع

js. | رَضِيَ a ب. | igen vn. in etw. | بِطِيبَة

js. | مَرْحَب بِهِ | مَقْبُول a. | kommen

js. | مَرْحَبًا بِكَ! | أَهْلًا وَسَهْلًا

js. | رَحَب بِهِ | kommen heißen

js. | تَرْحَب بِهِ | kommen s. m. | تَرْحَاب

إِرَادَة | مُرَاد | إِيخْتِيَار s. f. -für

js. | إِيخْتِيَارِي a. | فُورِيحًا - | خَاطِرًا

js. | طَوْعِي | إِرَادِي

js. | وَفَر | غَزَر | كَثُر

js. | كَثُر فِيهِ a. | es wimmelt von

js. | تَنَهَّد | عَوَّل | أَنْ -

js. | نَاح u.

js. | رَايَات pl. رَايَة (المَرْكَب) s. m.

js. | هُدْب العَيْن s. f. | Wimper

js. | أَهْدَاب

js. | رِيح pl. رِيح u. | Wind s. m.

js. | هَوَاء (Luftzug) - | أَرْبَاح u.

js. | نَسِيم - | هَوِيَّة | sanfter

js. | خَمْسِينَ * | سَمُوم | (Blähung)

js. | ضَرَبَ | einen - | streichen lassen

js. | فَشَّر * | etw. in den - | machen

js. | اِحْتَقَر ه | لَمْ يُبَالِ ب | schlagen

js. | اسْتَنْشَى | bekommen, haben von

js. | شَعَرَ u ب | رِيحًا مِنْ | beutel

js. | الْمُعْجَنَات s. m. | نوع مِنْ

js. | فَشَار

js. | لَفْلَافَة * | Winde s. f. bot.

js. | المَسَاكِين | instr. | لِرَفْع

js. | الأَثْقَال

js. | قُمُط pl. قِمَاط الطِفْلِ s. f.

js. | مِلْفَاف | weich a., jm.

js. | مِلْفَاف | مِلْفَاف | weich a., jm.

-weich schlagen ضَرَبَ i ه ضَرْبًا شَدِيدًا.

winden va. Wäsche عَصَرَ الغَسِيلِ |
- etw. ه i لَوَى ه | فَتَّلَ ه | بَرَمَ u ه |
jm. etw. aus den Händen -
آ تَلَوَى - sich | نَزَعَ i ه مِنْ يَدِهِ
تَطَوَّى.

Wind-fahne s. f. f. Wetterfahne |
-hose s. f. اعْصَارِ pl. |
-hund s. m. كَلْبٌ | أمَّ الزُّوْبَعَةَ
كَثِيرِ a. ig - | كِلَابِ pl. سَلُوقِي
إِنْسَانِ iger Mensch | الرِّيحِ
شَيْءٍ غَيْرِ Sache ige - | طَائِشِ
مَشْعَلٍ لا s. n. -licht | ثَابِتِ
طَاحُونَةٍ s. f. -mühle | تُطْفِئُهُ الرِّيحِ
وَرْدَةٍ s. f. -rose | تُحَرِّكُهَا الرِّيحِ
صَفْقَةِ الرِّيحِ s. f. -sbraut | الرِّيحِ
f. أعْوَجِ a. -schief | نَفْحَةَ الرِّيحِ
كَلْبِ سَلُوقِي s. n. -spiel | عَوْجَاءِ
-stille s. f. | ساكِنِ | هَادِيٍّ a. -still
عَلِينَةٍ * | سُكُونِ | هُدُوءِ الرِّيحِ
-stich | -sbraut | s. m. f. -stoß
| جِهَةٍ مِنْ وَرْدَةِ الرِّيحِ s. m.
-treibend a. مُوَلِّدِ الرِّيحِ.

Windung s. f. انْتِوَاءٍ | حِنَايَةٍ | عَطْفَةٍ.

Wink s. m. (mit der Hand) إِشَارَةٌ |
| رُمُوزِ pl. (mit den Augen) رَمَزَ -

أَشَارَ | jm. einen - geben غَمَزَ
| غَمَزَ i إِلَيْهِ | رَمَزَ i, u إِلَيْهِ | إِلَيْهِ
bld. أَخْبَرَ ه بِهِ سِرًّا.

Winkel s. m. زَاوِيَةٍ pl. | rechter -
| زَاوِيَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ | زَاوِيَةٍ قَائِمَةٍ
| stumpfer - | زَاوِيَةٍ حَادَّةٍ -
spitzer - | زَاوِيَةٍ مُنْفَرِجَةٍ pl.
رُكْنِ (Ecke) - |
- (heimlicher Ort) خَلَوَاتِ pl. خَلْوَةٍ
-advokat s. m., -konsulent s. m.
-ehe s. f. | أَفُوكَاثُوبِلا إِذْنِ الحُكُومَةِ
| ذُو زَوَايَا a. ig - | زَوَاجِ سِرِّي
-eisen s. n., -hafen s. m., -maß
| زَوَايَا pl. زَاوِيَةٍ (آلة) s. n. instr.
-zug s. m. | مُسْطَرَّةٌ مُثَلَّثَةٌ الزَوَايَا
| حَيْلِ pl. حَيْلَةٍ | حُجَجِ pl. حُجَّةٍ
winfen va. jm. mit Hand أَشَارَ
| mit Augen غَمَزَ | إِلَيْهِ بِالْيَدِ
رَمَزَ i, u إِلَيْهِ.

winseln vn. i عَوَّلَ | أَنَّ -

Winter s. m. شِتَاءِ pl. أَشْتِيَةٍ |
| شَيْخُوخَةٍ des Lebens - | بَرْدِ الشِتَاءِ
-garten s. m. بَيْتِ لِتَرْبِيَةِ
| frucht s. f., -getreide
| الحُبُوبِ المَرْزُوعَةِ فِي فَصْلِ s. n.
| ثَوْبِ شَتَوِيٍّ s. n. -fleid | الخَرِيفِ
-schlaf s. m. | شَتَوِيٍّ a. -lich

الرُّقَادِ فِي الشِّتَاءِ (لِبَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ)
-zeit s. f. | جِهَةٌ الشَّمَالِ
s. f. | زَمَنُ الشِّتَاءِ s. f.

Winzer s. m. | زَارِعُ الْكَرْمِ كَرَّامٌ.

winzig a. | قَلِيلٌ جِدًّا | صَغِيرٌ جِدًّا
وَجِيزٌ.

Wipfel s. m. | رَأْسُ | أَعْلَى الشَّجَرِ
رُؤُوسِ الشَّجَرِ pl.

wippen vn. | اهْتَزَّ | تَهَلَّزَّ.

wir pron. pers. | نَحْنُ.

Wirbel s. m. | دَوَّارٌ - | Des Kopfes
(des Rückgrats) | أَعْلَى الرَّأْسِ

| دار u. vn. | فَرَّ | فُقْرَةٌ pl.
| صُلْبٌ s. f. | -säule | اسْتَدَارَ
| -sturm s. m., | سِلْسِلَةُ الظُّهْرِ
| زَوَابِعِ pl. | زَوْبَعَةٌ s. m. | -wind
| رِبْعٌ مُعْجَظَةٌ | عَوَاصِفِ pl. | عاصِفَةٌ
wirblich a. | دَوَّارٌ.

wirken va. (Teppiche zc.) u | حَاكٌ |
| عَمِلَ a ه | (thun) | - | نَسَجَ | i, u
| - | vn. auf jn. u. etw. | فَعَلَ a ه
Wirkeri s. f. | عَمِلَ a ه | أُنْثَرُ فِي
مَنْسَجٍ | مَحَاكَةٌ | نِسَاجَةٌ | حِيَاكَةٌ.

wirklich a | صَحِيحٌ | حَقِيقَتِي
| حَقِيقَةٌ s. f. | - | حَقِيقَةً | حَقًّا
صِحَّةٌ.

wirk-sam a. | عَمَلٌ | أَعْمَالٌ |

نُفُودًا - | samkeit s. f. | مُؤَثِّرٌ | نَافِذٌ
| فِعْلٌ s. f. | -ung | قُوَّةٌ فَاعِلِيَّةٌ
-ungslos | تَأَثَّرٌ | تَأَثِيرٌ | عَمَلٌ
غَيْرُ نَافِذٍ | عَادِمُ التَّأَثِيرِ.

wirr a. | مُخْرَفَشٌ | مُخَلَّطٌ
| اِخْتِلَاطٌ | خِلْطٌ pl. | -en | مُلْخَبَطٌ *
-en va. etw. in ein-
ander ه | خَلَطَ u ه
-nis s. f., -sal s. n., -ung s. f.,
-warr s. m. | اِخْتِلَاطٌ | اِسْتَبَاكٌ.

Wirring s. m., -fohl s. m. | نَوْعٌ مِّنْ
الْكَرْتَبِ.

Wirt s. m. (Haus-) | صَاحِبُ بَيْتٍ
| صَاحِبُ (Gast-) | - | أَصْحَابٌ pl.
| صَاحِبُ أُوتَيْلٍ * | اللُّوَكُنْدَةُ *
| صَاحِبَةُ دَارٍ | -in s. f. | خَانَاتِي *
تَدْبِيرِ s. f. | -schaft | صَاحِبَةُ لُوكُنْدَةٍ
| إِدَارَةُ الْأُمُورِ الْبَيْتِيَّةِ | الْبَيْتِ
pl. | فُنْدُقٌ | لُوكُنْدَةٌ * (Gasthaus)
-schaften | خَانَاتٍ pl. | خَانَ * | فَنَادِقُ
| دَبَّرَ نَفَقَاتِ الدَّارِ | أَدَارَ الْبَيْتِ vn.
-schafter | - | اِقْتَصَدَ | -schaften | gut
guter | مُدِيرُ أُمُورِ الْبَيْتِ s. m.
-schafterin s. f. | - | مُقْتَصِدَةٌ | -schafter
-schaft | اِمْرَأَةٌ مُدِيرَةٌ أُمُورِ الْبَيْتِ
| حَالِقٌ فِي إِدَارَةِ الْأُمُورِ a.
| اِقْتِصَادِيٌّ | مُقْتَصِدٌ | الْبَيْتِيَّةِ |

-schaftlichkeit s. f. إِدَارَةٌ فِي | حَذَاقَةٌ
-shaus | إِقْتِصَادٌ | الْأُمُورِ الْبَيْتِيَّةِ
s. n. * | أُوتَيْلٌ * | لُوكَنْدَةٌ *
pl. مَنَازِلٌ | مَنَزِلٌ | خَانَاتٌ
pl. فَنَادِقٌ | فُنْدُقٌ

Wisch s. m. | مِمْسَعٌ | خِرْقَةٌ pl. | خِرْقٌ
-en v. | شَرَاطِيطٌ pl. | شَرْطُوطَةٌ *
a مَسَعٌ | نَشَّفٌ | -er s. m. bld.
تَوَيْيغٌ

Wismuth s. m. | بَزْمُوتٌ *

wispern vn. | تَكَلَّمَ هَمْسًا * | وَشُوشٌ *

Wiß-begierde s. f. | رَغْبَةٌ فِي الْمَعْرِفَةِ |
-begierig a. | رَاغِبٌ فِي الْمَعْرِفَةِ

wißen va. etw. | عَرَفَ هـ | عِلِمٌ a هـ |
- gut | دَرَى | دَرَى هـ | أَوْ ب
| عَرَفَ هـ | - um etw. | أَحَاطَ بِهِ عِلْمًا
jn. etw. - lassen, jm. etw. zu -
| أَطَّلَعَ هـ عَلَى | عَرَفَ هـ | أَوْ ب thun
| عِرْفَانٌ | عِلْمٌ s. n. | وِجْفَانٌ | بَلَّغَ هـ
| بِحَسَبِ مَا -s | دَرَايَةٌ |
| عَمَدًا | mit - u. Willen | عَرَفْتُهُ
| عُلُومٌ pl. | عِلْمٌ s. f. | - | قَصْدًا
| مَعْرِفَةٌ | دَرَايَةٌ (Kenntnis) -schaft
| الْعُلُومِ الْبَيْتِيَّةِ | - | الْحَسْبِ
s. | - | عِلْمِيٌّ a. | - | الْأَدْبِيَّةِ
drang s. m., -s | دُرْفَةٌ s. m. | رَغْبَةٌ

مُسْتَحِقٌّ a. | - | سَمَتْ | فِي الْعِلْمِ
| بِمَعْرِفَةٍ | - | مَعْرِفَتُهُ

Witfrau s. f., Witib s. f. | Witwe.

wittern va. etw. (Hund) | شَمَّ هـ a, u
- bld. | إِسْتَنْشَقَ هـ | (الْكَلْبُ)
Witterung s. f. | أَدْرَكَ هـ | بِذَكَائِهِ
(Wetter) | - | شَمَّ (الْكَلْبُ) (Geruch)
| هَوَاءٌ | طُقْسٌ * | هَوَاءٌ

Wit-tum s. n. | صِدَاقُ الْأَرْمَلَةِ
pl. | الْأَرْمَلَةُ | -we s. f. | الْأَرْمَلَةُ pl.
| إِرْمَالٌ | - | إِرْمَالٌ s. f. | - | إِرْمَالٌ
| -wer s. m. | تَرْمَلٌ

Witz s. m. | نُكْتَةٌ (-iger Einfall) pl.
| لَطِيفَةٌ | مُلْحَةٌ pl. | نُكْتٌ
(Verstand) | - | بَدِيهَةٌ | لَطَائِفٌ
- | نَكَّتْ | -e reißen | ذَكَاءٌ | ذِهْنٌ
| تَنَكَّيْتُ | - | نَكَّتْ s. m. | - | نَكَّتْ
-eln vn. | نَكَّتْ | -ig a. (Person)
| بَدِيْعٌ | -ig (Sache) | ذِكِيٌّ | حَازِقٌ
| -igen va. jn. | رَفِيْعٌ * | لَطِيْفٌ
| حَرَزَةٌ | نَبَّهُ هـ

wo? pron. interr. | أَيْنَ | فِي أَيِّ مَحَلٍّ
| حَيْثُ | فِيهِ | الْمَحَلِّ الَّذِي
- | حَيْثُمَا | - | إِذَا
| مِنْ أَيْنَ هُوَ هـ | die Zeit -
| - | النِّزْمِ الَّذِي فِيهِ | - | conjct. (wenn)
| - | وَإِلَّا | - | إِذَا كَانَ | - | إِذَا

(in Zusammensetzungen z. B. -bei
عِنْدَ مَا, worin فِيمَا).

Woche s. f. أُسْبُوعٌ pl. أُسَابِيعٌ |
die جُمُعَاتٌ u. جُمُعٌ pl. جُمُعَةٌ |
heilige - christl. الأَلَامُ أُسْبُوعٌ |
die -n pl. (einer Frau) نِيفَاسٌ |
-nbett s. n. نِيفَاسٌ | -nblatt s. n.
جَرِيدَةُ أُسْبُوعِيَّةٍ | -nlohn s. m.
أَجْرَةُ عَمَلِ الأُسْبُوعِ | -ntag s. m.
يَوْمُ (Werftag) الأُسْبُوعِ |
يَوْمُ الشُّغْلِ * | العَمَلِ.

wöchentlich a. أُسْبُوعِيٌّ | Wöchnerin
s. f. نَفْسَاءٌ | وَالِدَةٌ.

wofern conjct. إِذَا | إِنْ كَانَ | إِنْ.

Woge s. f. مَوْجٌ pl. أَمْوَاجٌ | eine -
تَمَوَّجٌ -n vn. مَوْجَةٌ.

woher? إِلَى أَيِّنَ? | wohin? مِنْ أَيِّنَ?

wohl adv. طَيِّبًا | جَيِّدًا | er ist -,
er ist -auf, es ist ihm - صِحَّتُهُ |
أَحْسَنُ إِلَيْهِ | jm. - حَسَنَةٌ |
رِضًا أَوْ - oder übel - | أَجْدَى *
إِشَاءَ أُمِّ أَبِي | طَوْعًا أَوْ قَسْرًا | قَسْرًا
- bekomms! | لِيَهْنِئَكَ |
هَيَّا هَيَّا | إِذْنُ! - | طُوبَى لَكَ |
Wohl s. n. خَيْرٌ | das öffentliche -
إِذْنُ! - auf! - an! | الخَيْرُ العامُّ

-be- | هَلُمَّ جَرًّا | هَيَّا هَيَّا | وَيْهُ
finden s. n. صِحَّةٌ | سَلَامَةٌ -beleibt
a. ضَخْمٌ | بَادِنٌ | سَمِينٌ -beleibt
sein a. ضَخْمٌ | u. سَمِينٌ -beleibt-
heit s. f. سَمَانَةٌ | سَمَنٌ -er-
gehen s. n. صِحَّةٌ | سَلَامَةٌ -fahrt
s. f. خَيْرٌ | فَلَاحٌ | إِقْبَالٌ | يُسْرٌ s. f.
-feil a. رَخِيسٌ | -feil verkaufen
-feilheit | هَاوَدٌ * | رَخَّصَ فِي البَيْعِ
s. f. مُهَاوَدَةٌ * | رُخَّصَ -geboren
| جَنَابٌ | حَضْرَةٌ (لقب) (Titel)
Euer (Ew.) -geboren حَضْرَتُكُمْ |
-gefallen s. n. سُورٌ | فَرَحٌ -ge-
fallen finden an سُرَّبٌ -gefällig
a. مَسْرُورٌ | مَقْبُولٌ -gemut a.
-geruch s. m. عَطْرٌ pl. مَسْرُورٌ |
-ge- | أَطْيَابٌ pl. طَيْبٌ | عَطُورٌ
schmack s. m. طَعْمٌ -gestalt a.,
-gestaltet a. حَسَنُ الخِلْقَةِ -gestalt
s. f. حُسْنُ الخِلْقَةِ -habend a.
-habenheit | مُوسِرٌ | صَاحِبٌ مَالٌ
s. f. يُسْرٌ | سَعَةُ العَيْشِ | ثَرْوَةٌ s. f.
-ig a. لَطِيفٌ | -flang s. m., -laut
s. m. رِخَاءٌ | -leben s. n. إِيقَاعٌ |
-riechend a. | كَيْفٌ * | العَيْشِ
| رَائِحَتُهُ طَيِّبَةٌ | عِطْرِيٌّ | طَيِّبٌ
-schmeckend a. ذَوْقُهُ لَذِيذٌ -sein

s. n. | ثَرْوَةٌ s. m. | -stand s. m. | سَلَامَةٌ s. n.
 -stand | يُسْرٌ | رَفَاهِيَّةٌ | رَفَاهَةٌ
 (-anständigkeit) | آدَبٌ | -that s. f.
 حَسَنَةٌ | إِحْسَانٌ | نِعْمٌ pl. | نِعْمَةٌ
 pl. | حَسَنَاتٌ | يَدٌ | جَمِيلٌ | حَسَنَاتٌ pl.
 | jm. eine -that erweisen | البَيْضَاءُ
 | -thäter s. m. | أَنْسَانٌ | -أَحْسَنُ إِلَيْهِ
 | -thätig a. | إِلَى | مُحْسِنٌ | -أَحْسَنُ
 | -thätigkeit s. f. | إِحْسَانٌ | -مُنْعِمٌ عَلَى
 | -thun vn. | jm. | كَرَمٌ | جُودٌ | إِعْنَامٌ
 | -weise | أَجْدَى | أَحْسَنُ إِلَيْهِ
 | -weislich adv. | عَاقِلٌ جِدًّا a.
 حُسْنٌ | -wollen s. n. | بِفِطْنَةٍ
 | -wollen vn. | jm. | عَاطِفَةٌ | الأَلْتِفَاتُ
 | تَعَطَّفَ عَلَيْهِ | لَطْفٌ u | بِهِ أَوْ لَهُ
 | -wollend a. | حَسَنٌ | رَقٌّ i عَلَيْهِ
 | لَطِيفٌ | عَاطِفٌ | الأَلْتِفَاتُ

wohnen vn. in einem Ort | أَقَامَ بِ
 | اسْتَوَظَنَ هُ | سَكَنَ u هُ | مَكَثَ u بِ
 | قَطَنَ u فِي

wohnhaft a. | سَاكِنٌ | مُقِيمٌ بِ
 | -haus s. n. | دارٌ للسُّكْنَى | -lich a.
 | -ort s. m., | -litz | مُنَاسِبٌ | الإِقَامَةُ
 s. m., | -stättē s. f. | مَقَرٌّ | مَسْكَنٌ
 pl. | مَسَاكِينٌ | -stube s. f. | حُجْرَةٌ
 | -ung s. f. | بَيْتٌ pl. | أَعْنِيَادِيَّةٌ
 | مَسْكَنٌ | مَنَازِلٌ pl. | مَنَزِلٌ | بُيُوتٌ

pl. | دِيَارٌ u. | نُورٌ pl. | دارٌ | مَسَاكِينٌ
 -zimmer s. n. | i. | -stube.

wölben va. etw. هُ | قَبَّبَ هُ | قَنْطَرٌ هُ
 Wölbung s. f. | قَبَّةٌ.

Wolf s. m. zool. | ذِئْبٌ pl. | ذِيَابٌ.

Wölfin s. f. | ذِئْبَةٌ | wölfisch a. | ذِئْبِيٌّ.

Wolfshunger s. m. | جُوعٌ شَدِيدٌ
 | -smilch | ضُورٌ | سُعَارٌ | دَاءُ الذِّئْبِ
 s. f. bot. | السُّودَاءُ.

Wolfe s. f. | سَحَابَةٌ pl. | سَحَابٌ u.

| غَيُومٌ pl. | غَيْمٌ | سَحَائِبٌ u. | سَحْبٌ

aus den -n fallen | إِنْدَهَشَ |

-nbruch s. m. | دُفْعَةٌ pl. | دُوعٌ |

هَضْبَةٌ | مَطْرَةٌ | رِصَادٌ pl. | رَصْدَةٌ

pl. | بلا | -ilos a. | زَحَّةٌ * | هِضَابٌ pl.

| طَالِقٌ | صَفِيٌّ | صَافِيٌّ | سَحَابَةٌ

wolfig a. | مُتَغَيِّمٌ.

Wolle s. f. | صُوفٌ pl. | أَصُوفٌ | in

der - sitzen | آيَسَرَ | عَاشَ i فِي

من صُوفٍ a. | -n | الرِّفَاهِيَّةُ

wollen va. etw. هُ | أَرَادَ هُ | شَاءَ a هُ

(erfordern) etw. | رَامَ u هُ

| كَادَ يَفْعَلُ (- (mit Inf.)) | أَوْجَبَ هُ

| سَازَنَ | أَوْشَكَ أَنْ | - (bedeuten) | سَازَنَ

فَضَّلَ هُ | - als | عَنَى i

ohne zu - | اسْتَحَبَّ هُ | عَلَى | عَلَى

إِنْ | Gott will | فو | نُونِ قَصْدٍ
شَاءَ اللهُ.

Woll-enstoff s. m., -enzeug s. n.

أَقْمِشَةٌ | قُمَاشٍ مِنْ صُوفٍ |
-händler s. m. | يَبِيعُ الصُّوفَ |
شَبِيهِه | مُقَطَّنٍ | -ig a. | صَوَّافٍ |
بِالصُّوفِ.

Wollust s. f. | لَذَّةٌ | pl. | لَذَاتٌ |

مُتَلَذِّذٍ | لَذِيذٍ | wollüftig a. | فِسْقٍ |
Wollüftling s. m. | مُقَوِّمِ الشَّكَوَاتِ |
رَجُلٍ | رَجُلٍ مُحِبِّ اللَّذَاتِ | s. m. |
شَهْوَانِيٍّ.

Wonne s. f. | تَهَلُّلٌ | فَرَحٌ عَظِيمٌ |

-monat s. m., -mond s. m. | لَذَّةٌ |
لَذِيذٍ | wonnig a. | أَيَّارٌ * | مَائُو *.

Wort s. n. | كَلِمَةٌ | pl. | كَلِمَاتٌ |

قَوْلٍ (Auspruch) - | لَفْظَاتٍ | pl. |
- | حِكْمٍ | pl. | حِكْمَةٌ | | كَلَامٍ |
- | وَعُودٍ | pl. | وَعْدٍ | (Ver-
sprechen) | كَلَامٍ -e | كَلَامِ اللهِ |
große -e | كَلَامِ اللهِ | Gottes |
ein | وَعُودٍ كَاذِبَةٌ -e | | فَخِيمٍ |
auf | القَائِمِ بِوَعْدِهِ | - |
mein - | عَلَى ذِمَّتِي | mit einem -
| حَرْفِيًّا - | | الحَاصِلِ | بِالْأَخْتِصَارِ |
أَخَذَ | - | nehmen, ergreifen u |
| اسْتَأْذَنَ | - | verlangen | | يَتَكَلَّمُ |
| لَهُ حَقٌّ | - | haben | | فِي التَّكَلُّمِ |

التَّكَلُّمِ | jm. das - entziehen

| مَنَعَ | a | عن التَّكَلُّمِ | das große

- | تَكَلَّمَ | بِتَجَبُّرٍ | jm. sein -

geben | وَعَدَ | | sein - halten | وَفَى

| قَلِيلِ الأَلْفَاظِ | -arm a. | بِوَعْدِهِ |

-bruch s. m. | نَقَضَ الوَعْدَ.

Wörterbuch s. n. | قَوَامِيسٍ | pl. | قَامُوسٍ |

كِتَابِ لُغَةٍ.

Wort-folge s. f., -fügung s. f.

| تَرْكِيْبِ الكَلَامِ | | تَرْتِيْبِ الكَلَامِ |

- | مُجَادَلَةٌ | -getreu a. | -gefecht s. n.

| مُوجِزِ الكَلَامِ | -farg a. | | wörtlich | f.

- | مُجَادَلَةٌ | -flauberei s. f. | -laut s. m.

مَضْمُونِ حَرْفِيٍّ.

wörtlich a. | حَرْفِيٍّ.

word-reich a. | كَثِيْرِ الكَلَامِ | - | schwall

s. m. | حَشُو | | -spiel s. n. | تَطْوِيلٍ |

pl. | جِنَاسٍ | | نُكْتَةٌ | pl. | نُكْتَةٌ

- | تَجْنِيْسٍ | | -stellung s. f. | جِنَاسَاتٍ |

- | تَرْكِيْبِ الكَلَامِ | | -streit s. m., -wechsel

s. m. | مُجَادَلَةٌ.

wo selbst | حَيْثُ.

Wrack s. n. | خِرَابٍ مَرْكَبٍ.

Wucher s. m. | رَبِيٍّ | | -er s. m. | رَبِيٍّ

| مُرَابٍ | | -isch a. | رَبِيٍّ

| رَابِيٍّ | | -n vn. (mit Geld) | رَابِيٍّ

- n (Pflanzen) | نَمَا u بِسُرْعَةٍ (نبات) | تَكَثَّرَ.
 Wuchs s. m. (Wachstum) | زَيْدٌ | نُمُو (Statur) | قَامَةٌ | قَدَّ -
 Wucht s. f. | شِدَّةٌ | رَزَانَةٌ | ثِقَلٌ | ثَقِيلٌ a. | -ig | صَدْمٌ أَوْ سُقُوطٌ | شَدِيدٌ.
 wühlen vn. in der Erde | حَفَرَ فِي | Wühler | بَحَثَى a | الأَرْضُ * | الأَرْضُ | مُتَحَرِّبٌ بِثَوْرَةِ الشَّعْبِ s. m. bld.
 Wulst s. m. (Kissen) | - (des Lastträgers) | مِخْدَةٌ | -ig a. | ظِمَارَةٌ * | وارِمٌ | مُنْتَفِخٌ.
 wund a. | جَرَحَى pl. | جَرِيحٌ | مَجْرُوحٌ | سَحَجٌ | جُلْفَةٌ | Stelle -e | مَسْلُوحٌ | جَرَّاحٌ s. m. | -arzt | كُدُوحٌ pl. | كَدْحٌ | جِرَاحَةٌ | جُرُوحٌ pl. | جُرْحٌ s. f. -e | جِرَاحٌ pl.
 Wunder s. n. (-bare Sache) | عَجِيْبَةٌ | مُعْجِزَاتٌ pl. | مُعْجِزَةٌ | عَجَائِبٌ pl. | - (Verwunderung) | دَهَشٌ | تَحْيِيرٌ | - | أَغْرَبٌ | أَبْدَعَ | - | es nimmt mich - | يُدْهِشُنِي - | عَجِيْبٌ a. | -bar | ما شاء الله | - (ausgezeichnet) | - | مُحْيِّرٌ | مُدْهِشٌ | غَرِيْبٌ | -ding | فَرِيْدٌ | جَيِّدٌ
- s. n. | عَجَائِبٌ pl. | عَجِيْبَةٌ | - | hüblich | - | طِفْلٌ s. n. | جَمِيْلٌ جِدًّا | - | find | - | عَجِيْبٌ | -lich a. | غَرِيْبٌ | - | عَجِيْبٌ | -lichkeit s. f. | مَجْنُونٌ | العَادَةُ | الأُدْهَشِي s. | -n va. | جُنُونٌ | غَرَابَةٌ | اِنْدَهَشِي | تَحْيِيرٌ -n | حَيَّرَ | حَيَّرَ s. | - | نَعَجَّبَ مِنْ | -n über | - | حَسَنٌ جِدًّا | - | schön a. | -bar | عَجِيْبَةٌ s. f. | - | جَمِيْلٌ جِدًّا | - | حَيْوَانٌ s. n. | - | tier | عَجَائِبٌ pl. | - | werf | عَجِيْبٌ a. | - | voll | عَجِيْبَةٌ s. n. | عَجَائِبٌ pl. | - | zeichen | مُعْجِزَاتٌ pl. | مُعْجِزَةٌ s. n.
- Wunsch s. m. (Wünschen) | غَرَضٌ | اِطْلُبْ (Gewünschtes) | اِتَمَنِّي | رَغْبَةٌ | مَرَامٌ | مُرَادٌ | مَطْلُوبٌ.
 Wunschelrute s. f. | قَضِيْبُ السَّاحِرِ | wünschen va. etw. | اِبْتَغَى | اِبْتَغَى | اِسْتَهَى | اِسْتَهَى | اِتَمَنَّى | اِتَمَنَّى | اِرَادَ | اِتَمَنَّى لَهُ | - | jm. etw. | اِرْغَبَ | a | مُسْتَحِقُّ | الطَّلَبِ | - | wert | مَرْغُوبٌ | مَطْلُوبٌ.
 Würde s. f. (Amt) | رُتْبَةٌ pl. | رُتَبٌ | مَنَصِبٌ pl. | شُؤْنٌ | مَرَاتِبٌ pl. | مَرْتَبَةٌ | مَنَاصِبٌ | عَادِمُ | الوَقَارِ | - | los a. | وَقَارٌ (Ernst) | صَاحِبُ | رُتْبَةٍ s. m. | - | nträger

die hohen -nträger **أَرْبَابُ الدَّوْلَةِ** |
 -voll a. **ذُو وَقَارٍ**.
 würdig a. einer Sache gen. **جَدِيرٌ** |
 -er | **مُسْتَحِقٌّ** ... | **أَهْلٌ لِي**
 Mann **ذُو وَقَارٍ** | **رَجُلٌ فَاضِلٌ**
 -en va. jn. einer Sache gen. |
تَنَازَلٌ عَلَيْهِ | **تَكْرَمٌ عَلَيْهِ** |
 -en etw. **إِعْتَبَرَهُ** | **إِحْتَرَمَهُ**
 -ung s. f. **إِعْتِبَارٌ**.
 Wurf s. m. **إِلْقَاءٌ** | **رَمَى** -
 | **حَمْلٌ** (junger Tiere) - | **رَمِيَّةٌ**
 jn. in den - kommen
إِنْتَجَ | **بَطْنٌ**
 صادف s.
 Würfel s. m. **كُعْبٌ** pl. **كُعْبٌ** u.
زَهْرُ النَّرْدِ | **أَحْرَازٌ** pl. **حَرَازٍ** | **كِعَابٌ**
لَعِبٌ -n vn. a. | **أَوْ الطَّاوَلَةُ** *
 بِالْكَعَابِ.
 Wurf-geschloß s. n. **مِرْمَى** | **مِرْمَى**
 pl. **مَنْجَنِيْقٌ** s. f. | **مَرَامٍ** pl.
 pl. **مَجَانِيْقٌ** | -speer s. m., -spieß
 s. m. **حِرَابٌ** pl. **حَرْبَةٌ** s. m.
 würgen va. jn. s u **حَنَقٌ** | - vn.
 | **وِيرْغَنْجَلٌ** | **بَكَعٌ** a. **بِالصُّعُوبَةِ**
وِيرْغَرٌ s. m. | **مَدَكَ مُهْلِكٌ** s. m.
جَزَارٌ.
 Wurm s. m. **دِيدَانٌ** pl. **دُودٌ** | ein -
 | **سَيْسَانٌ** pl. **سُوسٌ** | **دُودَةٌ**

die Würmer aus der Nase ziehen
 -en | **تَسَرَّقَ الأَمْرَ مِنْهُ تَدْرِيجًا**
 va. jn. s u **غَمٌّ** | -ftichtig a. (Holz)
نَاخِرٌ | **مَسُوسٌ** | **سَائِسٌ**
مُدِيدٌ | **مُدَوِّدٌ** | **دَائِدٌ**.
 Wurm s. f. **سَلْسِيْسَةٌ** * | fleine -
مَقَانِقٌ **مَصَارِبِنٌ** **مَحْشُوَّةٌ** **حُمَاً**
مُقَطَّعًا *.
 Würze s. f. **تَنْبِيلٌ** | **تَابَلٌ** | **تَوَابِلٌ**
أَقْرَاحٌ pl. **قِرْحٌ**.
 Wurzel s. f. **جُدْرٌ** pl. **جُدُورٌ** | **عِرْقٌ**
 - math. | **أَصُولٌ** pl. **أَصْلٌ** | **عُرُوقٌ** pl.
نَاصِلٌ - | schlagen, fassen | **جِدْرٌ**
 -n vn. **نَاصِلٌ**.
 würzen va. etw. **ه** | **تَبَّلَهُ** **ه** |
عَطِرٌ | **عَطِرٌ** a. **قَرَحٌ** **ه**
طَيِّبٌ.
 Wust s. m. **مَجْمُوعٌ** **أَشْيَاءٍ** | **عَفْشٌ** *
مُخْتَلِطَةٌ.
 wüßt a. **خَاوٍ** | **مُقْفِرٌ** | **قَفْرٌ**
 | **أَقْفَرٌ** - liegen | **مِنِ السُّكَّانِ**
 | **دَاعِرٌ** | **فَاسِقٌ** | **فَاجِرٌ** (Mensch) -
 u. **قِفَارٌ** pl. **قَفْرٌ** | **صَحْرَاءٌ** s. f. -e
 pl. **يَيْدَاءٌ** | **بَرَارِيٌّ** pl. **بَرِّيَّةٌ** | **قُفُورٌ**
 | -en vn. mit dem Gelde
 | **أَسْرَفٌ** المال | -enei s. f. | -e |

-ling s. m. رَجُل | رَجُل فَاَجِر فاسِق.

Wut s. f. هَيْجَان | غَضَب شَدِيد (Hunds-) | مَيْل مُفْرِط | الغَيْظ
in - geraten | داء الكَلْب | كَلْب
a | حَنِيق | seine - auslassen | اغْتَاط
أَزْوَى غَلِيل غَيْظِهِ.

wüten (-d sein) vn. gegen jm.
اغْتَاط عَلَيْهِ | حَنِيق مِنْهُ
أَمَات كَثِيرِينَ فِي (Epidemie) -
مُغْتَاط | حَنِيق a. -د | بَلَدٍ (وَبَاء)
شَدِيد (sehr stark) | غَضْبَان
Wüterich s. m. | كَلْب (Hund)
wütig a. | ظَلَمَاء pl. ظَالِم
كَلْب (Hund).

خ

الحَرْفُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ خ
| حُرُوفُ الْحِجَاءِ | jm. ein x für
ein u machen x a خَدَع.

Xantippe s. f. امْرَأَةٌ شَرِسَةٌ.

Xylograph s. m. نَقَّاشٌ عَلَى الخَشَبِ.

ذ

الحَرْفُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ ذ
| حُرُوفُ الْحِجَاءِ.

Nacht s. f. سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ pl. سَفُن.
Natanan s. m. سَيْف pl. سُيُوف |
ياتاغان *

ذ

الحَرْفُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ ذ
| حُرُوفُ الْحِجَاءِ.

Zacharias n. pr. زَكَرِيَّا.

Zacke s. f., Zacken s. m. سِنَّ pl.
| أَشْوَاك pl. شَوْك | أَسِنَّة u. أَسْنَان
zackig a. دُو أَسْنَان.

zag a. خَائِف | -en vn. a خَاف |
| خَائِف a. | فَشِل | يَكْثِس a
-haftigkeit s. f., -heit s. f. خَوْف.
zäh a. مُتَصَلِّب (bld.) | مُجَدَّد | صُلْب
تَصَلَّب s. f. | عَنِيد | الرَّأْيِ

Zahl s. f. أَعْدَاد pl. عَدَد (Ziffer)
| ohne - | رُقُوم u. أَرْقَام pl. رَقْم
يُودَى | يَدْفَع a. -bar | لا يُحْصَى
zählbar a. يُحْصَى.

zahlen va. jm. etw. دَفَعَ هِإِيهِ
| قَبَضَ هِ | آدَى هِ إِيهِ

zahlen va. etw. هِ u. عَدَّ هِ | حَسَبَ هِ
| أَحْصَى هِ.

Zähler s. m. الوَاقِفِ بِدَيْنِهِ.

Zähler s. m. | مُحْصِي | عَادَّ - arithm.
صُورَةُ الكَسْرِ | بَسَطَ الكَسْرِ

- zapfen va. Wein, | سِدَادِ الْبِرْمِيلِ
Bier f. verzapfen | -streich s. m.
رُجُوعِ الْجُنُودِ إِلَى مَرْكَزِهِمْ.
- zappeln vn. حَرَكَ الرَّجْلَيْنِ.
- z̄ar s. m. قَيْصَرَ رُوسِيًّا | -erwitsch
s. m. | وِلَى عَهْدِ رُوسِيًّا | -in s. f.
قَيْصَرَةَ رُوسِيًّا.
- zart a. لَطِيفٌ | رَقِيقٌ | نَاعِمٌ | لَيِّنٌ
| مُرَاعٍ | لَطِيفٌ | -fühlend a. | طَرِيٌّ
| رِقَّةٌ | لَيِّنَةٌ | لَيِّنٌ | -heit s. f.
طَرَاءَةٌ | لَطَافَةٌ.
- zärtlich a. حَنَّونٌ | رَقِيقٌ | لَيِّنٌ
| مَكْحَبَةٌ | -heit s. f. | شَفُوقٌ
| حُنُوءٌ | حَنَّانٌ.
- zauber s. m., -ei s. f. طَلَسْمٌ | سِحْرٌ
| den - | طَلَسِمٌ u. | طَلَسْمَاتٌ pl.
brechen, lösen السِّحْرَ | -er | أَزَالَ السِّحْرَ
s. m. | سَاحِرُونَ pl. | سَاحِرٌ | سَحَّارٌ
u. | سَاحِرَةٌ | -in s. f. | سَحَّارٌ u. | سَحَّرَةٌ
pl. | سَاحِرَاتٌ u. | سَاحِرٌ | -isch a.
| سَحَّرَ | -spruch | سَحَّرَ | -n vn. | سَحَّرَى
s. m. | رُقِيَّةٌ pl. | رُقِيٌّ.
- zauderer s. m. مُتَرَدِّدٌ | مُتَأَخِّرٌ
| zaudern vn. | تَأَخَّرَ | تَحَيَّرَ | تَرَدَّدَ
| تَرَدَّدٌ | تَأَخَّرَ | تَرَدَّدٌ | سَاحِرٌ | -in s. f.
| تَرَدَّدٌ | تَأَخَّرَ | تَرَدَّدٌ | سَاحِرَاتٌ u. | سَاحِرٌ
| -spruch | سَحَّرَ | -n vn. | سَحَّرَى
s. m. | رُقِيَّةٌ pl. | رُقِيٌّ.
- zaudern vn. تَأَخَّرَ | تَحَيَّرَ | تَرَدَّدَ
| تَرَدَّدٌ | تَأَخَّرَ | تَرَدَّدٌ | سَاحِرٌ | -in s. f.
| تَرَدَّدٌ | تَأَخَّرَ | تَرَدَّدٌ | سَاحِرَاتٌ u. | سَاحِرٌ
| -spruch | سَحَّرَ | -n vn. | سَحَّرَى
s. m. | رُقِيَّةٌ pl. | رُقِيٌّ.
- z̄aum s. m. | الْجُمَّةُ u. | الْجُمُ pl. | لِحَامٌ
- z̄aun s. m. | سِيَاغٌ pl. | سِيَاجَاتٌ |
einen Streit mit jm. vom -e
brechen | شَاجِرٌ | بِلَا دَاعٍ
s. m. zool. | بُوبَانَةٌ * | -pfahl s. m.
| أَوْتَادٌ pl. | وَتَدٌ | Wink mit dem
-pfahl | تَنْبِيهِ وَاضِحٌ.
- z̄ebra s. n. zool. حِمَارٌ وَحُشِيٌّ مُخَطَّطٌ
| الْجُلْدُ.
- z̄ech s. f. | الْحِسَابُ الْخَاصُّ بِالْأَكْمَلِ
| دَفَعَ - bezahlen a. | والشُّرْبُ
مَعْدِنٌ (Bergwerk) - | الْمَصَارِيفُ
| أَكْثَرَ شُرْبٍ | -n vn. | مَعَادِنٌ pl.
| الخَمْرُ أَوْ الْبِيْرَةُ | -r s. m. | شَرِيْبٌ.
- z̄echine s. f. | دَنَائِيرٌ pl. | دِينَارٌ.
- z̄echte s. f. | قُرْدَانٌ pl. | قُرَادُ الْكَلْبِ
| قُرَادَةٌ - eine | فَاسُوقٌ * | coll.
| فَاسُوقَةٌ *.
- z̄eder s. f. | CEDER.
- zedieren va. | CEDIEREN.
- z̄eh s. f. | أَصَابِعٌ pl. | إِصْبَعُ الرَّجْلِ
| إِبْهَامُ الرَّجْلِ - die große
| عَشْرَةٌ f. | عَشْرَةٌ | -fach a.,
| مُزْدَادٌ عَشْرَةٌ | أَضْعَافٌ | -fältig a.
| الْعُشْرُ | -te a. | عَاشِرٌ | der -te s. m.

pl. اَعْشَار u. عَشُور | den -ten
erheben von jm. عَشَّر | -tel
s. n. عَشْر pl. اَعْشَار | -tens adv.
عَاشِرًا.

zehren vn. von etw. تَعَيَّشُ مِنْ |
أَمَات | أَكَل (ver-) | اِئْتَاتِبِ
Zehrgeld s. n., Zehr-
pfennig s. m. نَقُود لِزَادِ الْمُسَافِرِ.

Zeichen s. n. عَلَامَةٌ pl. عَلَامَاتُ |
إِشَارَةٌ pl. إِشَارَاتُ (mit den
Augen) | رَمَزٌ | رَمَزٌ (Merkmal)
| سِمَاتُ pl. سِمَةٌ | وَسُومُ pl. وَسْمُ
(des Tierkreises) | بُرُوجُ pl. بُرُوجُ
| jm. ein - geben إِشَارَ إِلَيْهِ
- deuter s. m. عَرَّافٌ | مَتَفَائِلٌ
- Kunst s. f. دَرَسٌ | صِنَاعَةُ الرَّسْمِ
دُرُوسُ pl. الرَّسْمِ.

zeich-nen va. etw. ه | رَسَمَ u. ه |
مُصَوِّرٌ | رَسَامٌ s. m. -ner | نَقَشَ ه
| رُسُومٌ pl. رَسْمٌ s. f. -nung | نَقَّاشٌ
نُقُوشٌ pl. نَقْشٌ | تَصَاوِيرٌ pl. تَصَوِّيرٌ.

Zeigefinger s. m. سَبَابَةٌ.

zeigen va. jm. etw. ه | أَرَى ه |
أَشَارَ إِلَيْهِ | شَوَّفَ ه *
| أَظْهَرَ ه | دَلَّ u. ه | عَلَى
| أَرَى نَفْسَهُ - sich | أَبَانَ ه

Zeiger | ظَهَرَ | أَظْهَرَ نَفْسَهُ
s. m. (der Uhr) عَقْرَبُ (السَّاعَةِ)
pl. عَقَارِبُ.

zeihen va. jm. einer Sache gen.

إِتَّهَمَ ه | بِ | ادَّعَى عَلَيْهِ
Seile s. f. سَطْرٌ pl. أَسْطُرٌ u. سَطُورٌ.
Seifig s. m. zool. طَبْيِيرٌ | حَبَّاشَةٌ *
أَخْضَرَ اللَّوْنَ.

Zeit s. f. زَمَنٌ pl. أَزْمَانٌ |
زَمَانٌ | زَمَانٌ | زَمَنٌ |
آن (bestimmter -punkt) | مَدَّةٌ
| وَقْتٌ | أَحْيَانٌ pl. جِئِنٌ | أَوَانٌ pl.
| مَوَاقِيتٌ pl. مِيقَاتٌ | أَوْقَاتٌ pl.
(frist, Aufschub) | زَمَانٌ | زَمَنٌ
| مَهْلٌ | عَهْدٌ | عَصْرٌ (-alter) | مَهْلٌ
| أَيَّامٌ | قُرُونٌ pl. قَرْنٌ | عُهُودٌ
| المَدَّ وَالْمَجْزُرُ (des Meeres) mar.
| صِيغَةُ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ gr. -
die rechte- | وَالْمُسْتَقْبَلِ فِي الْأَفْعَالِ
- meines | فَرَاغٌ - | الفُرْصَةُ
| طُولُ عُمُرِي | es ist hohe,
höchste - | يَلْزَمُ الْإِسْرَاعَ -
zu -en | بَعْدَ مَدَّةٍ | بَعْدَ زَمَانٍ
| قَضَى زَمَانَهُ | - | أَحْيَانًا
| بَاطِلًا | عَهْدٌ | عَصْرٌ (-alter) s. n.
| أَيَّامٌ | قُرُونٌ pl. قَرْنٌ | عُهُودٌ
-dauer s. f. | دَوَامٌ | مَدَّةٌ |
s. f. | تَعَاقُبُ الْقُرُونِ s. f. | -geist s. m.

- | مُعَاصِر s. m. | -genosse s. m. | رُوح العَصْرِ
 | أَثْرَاب pl. | -genösslich a. | تَرَب
 | مُعَاصِر | -geschichte s. f. | تَارِيخ
 | باكِر a. | -ig a. | العَصْرِ
 | بَكِير * | adv. | باكِر
 | مُبَكِّرًا | باكِرًا | äg. | بَدْرِي * | fyr.
 | صَبَاَحًا (morgens) | -ig (zu rechter
 | وَقْتِه (Zeit) | -igen va. etw. | في وَقْتِه
 | نَضِج a. | -igen vn. a. | أَنْضَج ه
 | -läufe, | -lauf s. m. pl. | اسْتَوَى *
 | -lebens adv. | -مرور الأيام
 | دُنْيَوِي a. | -lich a. | طُول العُمُر
 | اِخْتِيَارَات الدُّنْيَا | -liche Güter | عالمِي
 | -liche segnen u. | -lich. | مات
 | -lose s. f. | دار الفَنَاء s. f. | Zeit
 | قَاتِل الكَلْب | سُوْرُنْجَان bot. | سُوْرُنْجَان
 | قِسْم وَزْن mus. | -maß s. n. | قِسْم وَزْن
 | أَجَل pl. | -punkt s. m. | الدَّخْن
 | مَوَاعِيْد pl. | مِيْعَاد | آجَال
 | مُدَّة s. m. | -raum s. m. | مَوَاقِيْت pl.
 | تَارِيخ s. f. | -rechnung s. f. | بُرْهَة pl.
 | مَجَلَّة s. f. | -schrift s. f. | تَوَارِيخ
 | أَوْقَات مَعْلُومَة | يُنْشَرُ فِي
 | جَرَائِد pl. | جَرِيْدَة s. f. | Zeitung
 | جُرْنَآلَات pl. | جُرْنَآل * | جُرْنَآل *
 | خَبَر pl. | خَبَر (Nachricht) | -
 | جَرِيْدَة s. n. | -s|chreiber | -sblatt
 | مُصَنِّف جَرِيْدَة s. m. | مُصَنِّف
- | تَسْلِيْبَة s. m. | Zeit-vertreib s. m. | لَعِب
 | -weilig a., -weise a. | نَزْهَة | حِيْنِي
 | -wort s. n. gr. | وَقْتِي | فِعْل pl.
 | أَفْعَال.
- | زاوِيَة (fl. Zimmer) | Sella s. f. (fl. Zimmer)
 | قَلَائِي pl. | قَلِيَّة | غُرْبَة | زَوَايَا
 | صَوْمَع pl. | (Mönchs-) kath. | صَوْمَع
 | نَحْرُوب pl. | (Bienen-) | صَوَامِع
 | نَحْرَابِي a. | -nförmig a. | نَحْرَابِي
 | ذُو خِلَال.
- | اِمْتَعَصَب بِالِدِيْن s. m. | Selot
 | خِيْم u. خِيَام pl. | خِيْمَة s. n. | خِيْم
 | اِنْتَصَب خِيْمَة ein - aufschlagen
- | رَهْوَان s. m. | Selter
 | CEMENT s. m. | Sement
 | سَمْت s. m. | Senith
 | CENSUR s. f. | Sensusur
 | قِنَاطِيْر pl. | قِنَاطَار s. m. | Sentner
 | CENTRUM s. n. | CENTRUM s. n. | central,
 | CENTRUM.
- | نِسَام pl. | نَسِيْم s. m. | Sephyr
 | دَبُوْر (Westwind).
- | قَضْبَان pl. | قَضِيْب المُلْك s. n. | Septer
 | اِنْتَعَب نَفْسَه v. | اِنْتَعَب
 | كَسْر ه | -beißen va. etw. | بِالشُّغْل
 | ضَرْب s. i. | -bläuen va. | بِالْأَسْنَان
 | ضَرْبًا شَدِيْدًا | -brechen va. etw.

انكسر | vn. كسر | كسر i ه
 sich den Kopf -brechen | افترط في
 سريع | a. -brechlich | الاجتهاد
 سُرعة | s. f. -brechlichkeit | الانكسار
 -bröckeln va. etw. | الانكسار
 -drücken | vn. تفتت | فتت ه
 va. etw. | عاصراً | كسر i ه

Seremonie s. f. | Ceremonie.

zer-fahren a. | f. -streut | -fahrenheit
 s. f. | f. -streutheit | -fallen vn.
 انقسم | in Teile -fallen | انكسر
 mit jm. -fallen | فاسد ه | نافر ه
 -feigen va. etw. | بلا ه | قطع
 | فرس i ه | i ه | -fleischchen va. jm.
 | ذاب | -fließen vn. u | ذاب ه | افترس ه
 -fressen va. etw. | i ه | -gehen
 vn. u | ذاب | انحل | -gliedern va.
 etw. | i ه | فصل ه | فصل ه
 med. | شرح ه | -gliederung s. f.
 | تفصيل | قطع | med. | تشريح | gr.
 | اعراب | -hauen va. etw. | قطع ه
 -hauen va. etw. | a ه | مضع
 -fleinern va. etw. | قطع ه | -flopfen
 va. etw. | u ه | دق | -flüften va.
 etw. | u ه | شق | -knicken vn.
 | انكسر | -knirscht a. | انكسر
 | انكسار | -knirschung s. f. | ندمان

-knittern va.,
 -knüllen va. etw. | دعك ه | a
 -fragen va. etw. | جعد ه *
 -lassen va. (Butter zc.) | خدش i ه
 -lassene Butter | اذاب الزبدة الن
 -legen va. etw. | فك ه | u
 (analysieren) | قسم i ه | فصل ه
 -lesen va. | اعراب | gr. | حلل ه
 Buch | اذلف الكتاب بالقراءة
 -lumpt a. | مخرق | مخرق
 va. etw. | فتت ه | سحق ه
 -nagen | سحق ه | فتت ه
 va. etw. | قرض i ه | -nichten va.
 etw. | اباد ه | دممر ه | اعدم ه
 -pflücken va. etw. | ريشه
 | انقزر | -platzen vn. | اذلف ه | نازعاً
 -quetschen va. etw. | فتت ه
 -raufen va. | شعره | نزع i ه
 | صورة استهزائية | n. | سحره *
 | مسخرة *

zer-reiben va. etw. | سحق ه | a
 | خرق ه | -reißen va. etw. | دك ه | u
 | فرس i ه | die Beute -reißen | مزق ه
 | das Herz -reißen | افترس ه
 | -reißen vn. | ألم القلب
 | تمزق

zerren va. jm. u. etw. | جر ه | u
 | بقوة

zer-rinnen vn. u ذاب | -rütten va.
 etw. ه | أَتْلَفُ ه | أَفْسِدُ ه | -rüttung
 s. f. تَلْفُ | -[schellen vn. اِنْكَسَرَ |
 -[schießen va. etw. ه بِإِطْلَاقٍ |
 -[schlagen va. etw. | الرِّصَاصُ |
 اِنْكَسَرَ | sich -[schlagen كَسَرَ ه
 i خاب | -[schmeißen va. etw.
 ذاب | -[schmelzen vn. u ذاب | كَسَرَ ه
 -[schmettern va. etw. ه كَسَرَ |
 -[schneiden va. etw. ه فَتَّتْ |
 فَتَّتْ | das Herz -[schneiden | قَطَعَ ه
 -[setzen va. etw. (auflösen) | القُوَادِ
 ه u حَلَّ | sich -[setzen | فَصَّلَ ه | حَلَّ u ه
 -[spalten | حَلَّ | -[setzung s. f. اِنْحَلَّ
 | شَقَّ u ه | -[spellen va. etw. ه
 اِنْشَقَّ | اِنْشَقَّ | -[splintern vn.
 اِنْشَقَّ | اِنْشَقَّ | sich -[splintern
 شَقَّ u ه | -[sprengen va. etw. ه
 اِنْكَسَرَ | -[springen vn. ه | فَزَرَ u ه
 اِنْشَقَّ | -[stampfen va. etw. ه | اِنْشَقَّ
 اِنْشَقَّ | -[stäuben va. etw. ه | دَقَّقَ ه | كَسَرَ ه
 اِنْشَقَّ | -[stechen | نَثَرَ i ه | شَتَّتْ ه | بَدَّرَ ه
 اِنْشَقَّ | ه | طَعَنَ a ه | -[stieben vn. اِضْمَحَلَّ |
 اِنْشَقَّ | ه | خَرَّبَ ه | هَدَمَ i ه |
 اِنْشَقَّ | ه | اِضْمَحَلَّ | -[stören va.
 ه | هَادِمٌ | خَارِبٌ | -[störer s. m.
 اِنْشَقَّ | ه | تَخْرِبٌ | -[störung s. f.

دَقَّقَ ه | -[stoßen va. etw. ه | خَرَابٌ |
 اِنْشَقَّ | ه | بَدَّدَ ه | -[streuen va. etw. ه
 اِنْشَقَّ | ه | نَثَرَ i ه | -[streuen (den Kummer)
 اِنْشَقَّ | ه | سَلَّى | -[streuen s. | اَبْعَدَ الغَمَّ
 اِنْشَقَّ | ه | تَشَتَّتْ | تَبَدَّدَ | sich -[streuen
 اِنْشَقَّ | ه | مُتَشَتَّتٌ | -[streut a.
 اِنْشَقَّ | ه | سَاءَ | -[streuthheit s. f. | الأَفْكَارِ
 اِنْشَقَّ | ه | تَشَتَّتْ | -[streuung s. f. | الأَفْكَارِ
 اِنْشَقَّ | ه | تَشَتَّتْ | الأَفْكَارِ | تَشَتَّتْ
 اِنْشَقَّ | ه | نَزْهَةٌ | العِبْ | تَسْلِيَةٌ (Vergnügen)
 اِنْشَقَّ | ه | -[stückeln va., -[stücken va. etw.
 اِنْشَقَّ | ه | قَطَعَ ه | -[stückelung s. f., -[stückung
 اِنْشَقَّ | ه | تَقَطَّيْعٌ | -[teilen va. etw.
 اِنْشَقَّ | ه | قَسَمَ i ه | -[teilen sich
 اِنْشَقَّ | ه | تَفَرَّعَ | -[treten va. etw. | اِنْقَسَمَ
 اِنْشَقَّ | ه | كَسَرَ i ه | بِالرِّجْلِ | -[trümmern va. etw. ه
 اِنْشَقَّ | ه | خَرَّبَ ه | -[werfen a., mit jm.
 اِنْشَقَّ | ه | هَدَمَ i ه | -[würfnis
 اِنْشَقَّ | ه | خَالَفَ s. n. | اِحْتِلَافٌ | -[zausen va.
 اِنْشَقَّ | ه | شَوْشٌ | شَعْرَةٌ | jm. das Haar
 اِنْشَقَّ | ه | عَرَبَسَ | شَعْرَةٌ | -[zupfen va. etw.
 اِنْشَقَّ | ه | سَلَّ u خَيْطُهُ

Zeter s. m., -[schreien über f. zetern |
 اِنْشَقَّ | ه | اِنْشَقَّ | -[u vn. über etw. مِنْهُ |
 اِنْشَقَّ | ه | صَارِحًا

Zettel s. m. رُقْعَةٌ | وِرْقَةٌ pl. رِقَاعٌ |

- bank s. f. تِجَارَةٌ وَرَقَاتُ الْمُعَامَلَةِ.
- Zeug s. m. u. s. n. قُمَاشٌ * pl. | أَقْمِشَةٌ | (Sache) شَيْءٌ pl. | أَشْيَاءٌ | dummes - البَلِيدُ - | فِعْلُ البَلِيدِ - | jn. etw. am -e flicken * وَبَّخَ.
- Zeuge s. m. شاهد pl. | شُهُودٌ | falscher - شاهد بالزور - | sein | شاهد ه | von etw. - | شَهِدَ a | jn. zum -n nehmen * | أَشْهَدُ * | اِسْتَشْهَدُ *.
- zeugen va. jn. (er-) * | وَلَدَ i | نَجَلَ u | أَنْسَلَ * | نَسَلَ u * | für - | شَهِدَ a - | vn. | خَلَّفَ * | jn. | شَهِدَ لَهُ. | wider, gegen jn. | أَبَانَ ه | شَهِدَ عَلَيْهِ | إفَادَةٌ s. f. - | أَظْهَرَ ه | الشُّهُودُ.
- Zeughaus s. n. دار الأَسْلِحَةِ | pl. شَهَادَاتُ | شَهَادَاتُ | falsches -nis | شَهَادَاتُ | -nis ablegen a | شَهِدَ | الزُّورُ.
- Zengung s. f. | إِسْأَلَ | نَسَلَ | -s. | أَغْضَاءُ s. pl., -steile s. pl. | التَّنَاسُلُ.
- Zibet s. n., -fatze s. f. قِطٌّ | سِنُّورٌ | الزَّبَادُ.
- Zide s. f. عُنُوزٌ pl. | عِنَازٌ u. | مَعْرَةٌ | Zidlein s. n. | جَدَى pl. | جِدَاءٌ u. | أَجْدٌ.
- Zidzack s. m., -linie s. f. حَطَّ عَلَى | شَكْلُ الحَرْفِ Z.
- Ziege s. f. مَعَزٌ pl. | مَعِيزٌ u. | مَعِيزَةٌ - | eine - مَعْرَةٌ.
- Ziegel s. m., -stein s. m. آجُرَةٌ pl. | قِرَامِيدٌ pl. | قِرْمِيدٌ | طُوبٌ * | آجُرٌ | -brennerei s. f., | لِبْنَةٌ (-Luft-) | طَوَابَةِ * | مَعْمَلُ الآجُرَةِ - | ei s. f.
- Ziegenbock s. m. ثَيُّوسٌ pl. | ثَيُّوسٌ | -hirt s. m. | مَعَازٌ | Zieger s. m. | مَصْلٌ.
- Ziehbrunnen s. m. آبَارٌ pl. | بئرٌ.
- ziehen va. jn. u. etw. | جَرَّ u * | وَه | مَكَّبَ a * | وَه | جَذَبَ i * | وَه | etw. | اجْتَذَبَ * | - | aus | den Hut - | أَخْرَجَ ه | من | vor jn. | سَمَّ عَلَيْهِ | Einien - | سَطَرَ u | الحُطُوطُ | رَسَمَ u | الحُطُوطُ | den Degen - | سَلَّ i | السَّيْفُ | den Beutel - | دَفَعَ a | das Los - | رَبَّى - | اِقْتَرَعَ | Tiere, Pflanzen - | etw. in | الحَيَوَانَاتُ أَوْ النَّبَاتَاتُ | die Länge - | أَطَالَ ه | Vorteil - | اِنْتَفَعَ بِ | - | vn. | كَهَبَ a.

- اِنْتَقَلَ (مِنْ) | اِرْتَحَلَ | تَوَجَّهَ إِلَى | ziemlich a. (geziemend) | لائِقٌ -
 فِيهِ | es zieht | مَنَزِلٌ إِلَى آخِرِ | (mittelmäßig) | كَافٍ
 كَتَبَ u سَفْتَجَةٌ - | auf jn. | رَبِيحٌ | تَقْرِيْبًا. - | اِدْو. | مُحْتَمَلٌ | قَدِيهٌ
 | سَحَبٌ a بَوْلَصَةٌ عَلَيْهِ * | عَلَيْهِ | مُتَدَلِّلٌ | -affe s. m. | زِبْنَةٌ |
 تَخَلَّصَ | اِمْتَدَّ - | سِاحٌ | -aus | زِبْنَةٌ | -at s. m. | غَنِيحٌ
 مُخَطَّطٌ (Kanone) | gezogen | مِنْ | غَنَادِرَةٌ pl. | غَنْدُورٌ * | غَنُوجٌ |
 اِنْتِقَالَ s. n. | Ziehen | داخِلِ المِدْفَعِ | -de s. f. | زِبْنَةٌ | -en va. | etw.
 وَجَعٌ (Glieder-schmerz) | اِرْتِحَالَ | سِاحٌ | جَمَلٌ هـ | بَهَاجٌ هـ | زَبْنٌ هـ
 الأَعْضَاءِ. | تَدَلَّلٌ | تَظَاهَرَ | تَكَلَّفٌ | تَصَنَعٌ -en
 كَلْبٌ لِسَحْبٍ | Sieh-hund s. m. | تَصَنَعٌ | geziert | مُتَصَنِّعٌ | -erei s. f.
 | حَرَّاقَةٌ | -pflaster s. n. | العَرَبَةُ | تَغَنَّمَ | غُنِيَ | تَدَلَّلٌ | تَكَلَّفٌ | تَظَاهَرَ
 إِخْرَاجٌ (der Lotterie) | -ung s. f. | جَمِيْلٌ | كَيْسٌ | ظَرِيْفٌ | -lich a.
 سُلْمَانِ النَّصِيْبِ. | ظَرَّافَةٌ s. f. | لِيحْفَيْتٌ | -lichkeit s. f. | وَصَغِيْرٌ
 غَرَضٌ | أَهْدَافٌ pl. | هَدَفٌ | Ziel s. n. | -puppe s. f. | -affe.
 غَايَةٌ | مَطْلُوبٌ | مُرَادٌ | أَغْرَاضٌ pl. | Siffer s. f. | رَقْمٌ pl. | أَرْقَامٌ u. | رُقُومٌ |
 | مَقَاصِيْدٌ pl. | مَقْصُودٌ | غَايَاتٌ pl. | وَجْهٌ | -blatt s. n. | أَعْدَادٌ pl. | عَدَدٌ
 (Sriit) | حُدُودٌ pl. | حَدٌّ (Grenze) | سَاعَةٌ
 - | über das | آجَالٌ pl. | أَجَلٌ | Sigarre s. f. | Cigarre.
 | ein - | setzen | جَاوَزَ الحَدَّ | schießen | Sigeuner s. m. | نَوْرِيٌّ pl. | نَوْرٌ.
 | -en vn. | nach | jn. | وَضَعَ حَدًّا لَهُ | Sinner s. n. | حُجْرَةٌ pl. | حُجْرٌ |
 | -en auf, | etw. | nach bld. | هـ | قَصْدٌ | -punkt s. m., | أَوْضٌ pl. | أَوْضَةٌ * | مَخَارِعٌ pl.
 | -scheibe s. f. | هَدَفٌ pl. | أَهْدَافٌ | -arbeit s. f. | صَنْعَةُ النَّجَّارِ |
 | لاقِ | بِهِ | سِيْمَنٌ | v. | سِاحٌ | für | jn. | سِمْ | -handwerk
 | لَهْ | u | صَلَمٌ | Simer s. m. | (Lirsch-) | ظَهْرٌ | -holz s. n. | خَشَبٌ |
 | الإَيْلِ | قَضِيْبِ الثَّوْرِ (-Ochsen-) | - | مَعْمَلِ النَّجَّارِ |
 | نَجَّارُونَ pl. | -leute | نَجَّارٌ pl. | -mann
 | نَجْرٌ u | هـ | -platz s. m. |
 | نَجَّارِ |

- Simmet, Simt s. m. دَأْر | قِرْفَة s. f. | كَوْزَة صَنُوبَرِيَّة فِي الدِّمَاغِ
 صِينِيّ * - nuß s. f. حَبِّ الصَّنُوبَرِ.
- zimperlich a. | مُتَصَيِّع | مُتَدَلِّل | Sirfel s. m. | كَوَارَة | بَرُكَار * (Kreis)
 - thun | تَدَلَّل | تَصَنَّع | - feit s. f. | دَائِرَة | قاس i بِالْبِرُكَارِ -n vn.
 تَصَنَّع | تَدَلَّل. Sirfular s. n., zirfulieren vn. f.
 Circular, circulieren.
- Sinf s. n. | خَارِصِينِيّ | تُوتِيَا مَعْدِنِيَّة. | zischeln vn. | هَمَسِي | صَوْتُهُ
 زِنْكَ * zischen vn. | وَشُوش * | هَمَسَا
 - | حَسَف (Schlange) | i, u | فَحَّ | صَفَار | صَفِير. | Sischen s. n. | فَحَّ | i
 - | حَسَف (der Schlange) | فَمَّ.
- Sinke s. f. | سِن pl. | آسِنَة u. | آسِنَان pl. | ziselnieren va. | f. | ciselieren.
 Sinn s. n. | قِصْدِير. | zither s. f. | طُنْبُور pl. | طَنَايِير
 Sinne s. f. | شُرْفَة pl. | شُرْف * | كَنَارَة * | قِيَاتِير pl. | قِيَتَارَة *
 zinnern a. | مِّن قِصْدِير. | Zitrone s. f. | f. | Citrone.
 zimober s. m. | زُنْجَفَر. | Zitter-aal s. m. | كَهْرَبَائِيّ
 zins s. m. | فَايْض * | فَايْذَة المَال | -n vn. | اِرْتَعَش | اِرْتَجَف
 | رَابِي | اُف - geben | اَرْبَاح pl. | رِبْح | اِرْتَعَشْتُ فَرَايْضُهُ -n
 | (Steuer) | اَعْطَى | بالفَايْض * | vor furcht
 | كِرَاء (Miet-) | - | غَرَامَة | الأَمِيرِيّ | اِقْشَعَرَّ مِّن - - | vor Kälte
 | -bar a., -pflichtig a. | البَيْت | اِنْتَزَل (Erde) -n | البُرْد
 | -en s. pl. | مُلْتَزِم | بِدْفَع | الغَرَامَة | -n s. n.
 | فَوَائِد المَال | اِرْتَعَاش | اِرْتِجَاف
 | جَبَل صَهْفِيُون. | Zitterlein s. m. | اطْرَاف pl. | اطْرَاف
 | اطْرَاف | حَرْف | طُرْطُور * | -mütze s. f. | قُرُون pl. | قَرْن
 | طَرَايِيْس pl. | طَرُبُوش * | نَوْع مِّن الحَوَرِ.
 | داء | داء المفاصل s. n. | Zitze s. m. | شِيْت هِنْدِيّ.
 | المُلُوك. | Zitze s. f. | حَمَلَة الثَّدْيِ pl. | بَز *
 | أَبْرَاز u. | بَزَاز. | zivil a. | f. | civil.

Zobel s. m. سَمُور pl. سَمَامِير.

Zofe s. f. قَيْنَة | فَرَاشَة.

zögern vn. تَرَدَّد | تَحَيَّر | تَأَخَّر |

إِرْتَاب | Zögerung s. f. تَأَخَّر |

إِرْتِيَاب | تَرَدَّد.

Zögling s. m. تَلَامِيذَة pl. تَلَامِيذَة.

Zoll s. m. رَسْم | كُمْرُك | جُمْرُك pl.

مَكْس | ضَرَائِب pl. ضَرِيْبَة | رُسُوم

إِصْبَع (مِقْيَاس) (Maß) - | مَكْمُوس pl.

amt s. n. | أَصَابِع pl. قَدِيم)

-aufseher s. m., | مَكْتَب الكُمْرُك

-beamter, -einnehmer s. m.

دَفَع a الرَسْم v. -en | كُمْرُكِي *
jm. Dank -en s u شَكَر | -frei a.

دار -haus s. n. | بَرِي الرُسُوم

الکُمْرُك.

Zöllner s. m. كُمْرُكِي.

zollpflichtig a. مُلْتَزِم لِذَفْع الرَسْم.

Zone s. f. مَنَاطِق pl. مَنَاطِقَة الأَرْض.

Zoologie s. f. عِلْم طَبَائِع الحَيَوَانَات |

zoologisch a. مُخْتَصِر بِهَذَا العِلْم |

-er Garten الحَيَوَانَات.

Zopf s. m. ضَفَائِر pl. ضَفَائِرَة.

Zorn s. m. غَيْظ | حَنِق | غَضَب |

in - geraten a | حَنِق | غَضِب a |

فُور | غَضَبَة s. m. -anfall s. m. | اغْتَاظ

-ig | اغْتَاظ | حَنِق a. -entbrannt a.

a. | مُغْتَاظ | حَنِق | غَضِبَان (zum

Zorn geneigt) | غَضُوب | سَرِيْع

-ig sein od. werden | الغَضَب

a. اغْتَاظ | حَنِق a. | غَضِب a.

Zote s. f. | مَجَاعَة | قَذَع | كَلَام فَاحِش *
-n reißen u | بَدَا | الكَلَام | أَقَذَع |

فَاحِش a. | zotig a. | مَاجِع

Zottel s. f. خُصْلَة (Haare) pl.

شُرَابَة (Wolle) - | خُصَل

زَبَاء f. | أَزَب a. | شَرَارِيْب

مُتَشَعَّر | شَعْرَاء f. | أَشْعَر

zu praep. c. dat. | فِي | إِلَى | إِي | إِي

- Hause | فِي البَيْت | Wasser u.

- | أَحْيَانًا | سَئِدًا | بَرًا | وَبَحْرًا

- | Genüge | ماشِيًا | رَاجِلًا | -

زَائِدًا (- sehr) - adv. | بِالكِفَايَة

! - | مُغْلَق (geschlossen) - | جِدًّا

هَلَمَّ | هَيَّا هَيَّا ! - | nur interject.,

اللَّوَاحِق | التَّوَابِع s. f. | -behör | جَرًّا

العَلَائِق.

Zuber s. m. خَوَابٍ pl. خَابِيَة.

دِنَان pl. كَن.

zu-bereiten va. etw. ه | جَهَّر ه |

-bereiten (Speisen) ه u | طَبَخ ه |

-bereitung s. f. | تَجْوِيذ | -binden

va. etw. ه | رَبَط ه u | شَد ه |

-bringen va. etw. | جاء | إِي | die

Zeit -bringen | قَضَى | الزَّمَن | i
 die Nacht -bringen a, i | بات |
 jm. ein Glas -bringen a | شَرِبَ |
 بِسْرَةٍ.

Zucht s. f. (von Tieren) | تَرْبِيَةٌ |
 (junge Tiere) | نَتِيجَةٌ | - | الحَيَوَانَاتِ
 (Erziehung) | - | الحَيَوَانَاتِ
 (Züchtigkeit) | - | تَأْدِيبِ
 صِيَانَةٌ | حِشْمَةٌ.

züchten va. Tiere | رَبَّى | الحَيَوَانَاتِ
 Züchter s. m. | مُرَبِّي | الحَيَوَانَاتِ.

Zucht-haus s. n. * | لُومَانَاتِ | pl. لُومَانِ *
 -häusler s. m. * | مَحْبُوسٌ فِي لُومَانِ *
 -hengst s. m. | فُحُولٌ | pl. فُحُلِ
 أَحْصِنَةٌ | pl. حِصَانِ.

züchtig a. | عَفِيفٌ | -en va. | جِن. هـ
 عِفَّةٌ | s. f. - | عَاقِبٌ | هـ | عَدَبٌ هـ
 عَذَابٌ | تَأْدِيبٌ | s. f. - | حِشْمَةٌ
 عُقُوبَةٌ | مُعَاقَبَةٌ.

zucht-los a. | غَيْرٌ مُتَأَدِّبٌ |
 -losigkeit s. f. | عَدَمُ | التَّأْدِيبِ
 سِيَاطٌ | pl. سَوَطٌ | s. f. - | الطَّاعَةِ
 ضَرْبَةٌ | مِنَ | اللّهِ | طَوَاعَةِ.

zucken va. die Achseln | ارْتَعَدَتْ |
 - | فَرَاثِصُهُ | - | vn. (mit den Augen)
 (Herz) | - | اضْطَرَبَ | جَفْنُهُ | | اِخْتَلَجَ

|(Des Körpers) | رَجَفَ | u | اِخْفَقَ | i, u
 Zucken (Des Körpers) | ارْتَجَفَ |
 (der Augen) | اِخْتَلَجَ | | ارْتَجَفَ |
 (Des Herzens) | خَفَقَانَ.

zücken va. Schwert | سَلَّ | i | السَّيْفِ

Zucker s. m. | سُكَّرٌ | | سِكَّرَةٌ - | Stück

-bäcker s. m. | سُكَّرٌ | خام - roher

-brot s. n. | حَلَوَانِيٌّ * | | حَلَوَانِيٌّ

fabrik s. f. | اِعْمَلُ | السُّكَّرِ | - | اِعْمَلُ | غُرَيْبَةٌ *
 -hut s. m. | رُؤُوسٌ | pl. رَأْسِ | سُكَّرِ

-kandi | قَوَالِبٌ | pl. قَالِبِ | سُكَّرِ

pl. قُنُودٌ | قُنْدٌ * | s. m. - | فَاوْتِ

pl. قَنَادِيدِ | قَنَادِيدٌ | s. f. - | مَلُونَةٌ *
 - | اَحْلَى | هـ | va. etw. - | اِحْلَى | هـ

u | رَشٌّ | عَلَيْهِ | سُكَّرًا | | سُكَّرِ

raffinerie s. f. | اِعْمَلُ | السُّكَّرِ

rohr s. n. | قَصَبٌ | قَصَبِ | السُّكَّرِ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

pl. اِمَصٌّ | سَلْجَمِ | السُّكَّرِ | s. f. - | رِيْبَةٌ

Augen -drücken غَمَضَ الْعُيُونُ |
 jm. die Augen -drücken سَاعَدَ &
 ein Auge -drücken عِنْدَ الْمَوْتِ |
 zueignen تَغَافَلَ عَنِ | سامِهٍ فِي
 va. jm. ein Buch كِتَابًا |
 sich etw. -eignen اِسْتَمَلَكَ هـ |
 -eignung s. f. تَقْدِيمِ (كِتَابٍ) |
 -erkennen va. jm. etw. u حَكَمَ
 | -erst adv. أَوَّلًا | لَهُ فِي مُلْكِهِ
 -fächeln va. jm. KÜHLUNG & رَوَّحَ
 | -fahren vn. auf etw. بِالْمَرْوَحِ
 | -fall s. m. صُدْفَةٌ * | اِنْقَضَ عَلَى
 | pl. أَعْرَاضٍ | عَرَضَ | صُدْفٍ |
 | -fall | حَادِثٍ عَرَضِيٍّ | اِتِّفَاقٍ
 | عَوَارِضٍ | عَارِضٍ (Krankheits-) |
 | -fallen vn. jm. (zu Teil
 werden) | وَوَقَعَ لَهُ | حَدِثَ U
 | اُغْلِقَ (sich schließen) | تَيَسَّرَ لَهُ
 | حَادِثٍ | اِتِّفَاقِيٍّ | عَرَضِيٍّ |
 | -fällig a. | -fälligheit s. f. | صُدْفَةٌ |
 | -fließen vn. | اِنْصَبَّ نَحْوَهُ | bld.
 | jm. etw. -fließen | اِزْدَادٍ | كَثُرَ U
 | lassen | اَنْعَمَ & | بٍ |
 | اِسْتِغَاثَةً | اِلْتِجَاءٍ | مَعَاذٍ | عَوْدٍ
 | seine -flucht nehmen zu jm. اِلْتِجَاءٍ
 | اِسْتِغَاثَةٍ & | اِعَاذَ U بِهِ | اِلَيْهِ
 | -fluchtsort s. m., -fluchtsstätte s. f.

-fluß | مَعَاذٍ | مَلَاجِيٍّ pl. مَلْجَأٍ
 s. m. | وَفُورٍ | كَثْرَةٍ |
 jm. | وَشَوْشَ لَهُ | -folge praep. c.
 gen. | بِنَاءٍ عَلَى | -frieden a. mit
 (einver- | مَسْرُورٍ | مَبْسُوطٍ مِنْ
 standen) | رَاضٍ عَلَى |
 -frieden sein | رَضِيَ اَوْ عَنْ |
 | jm. -frieden stellen | سَرَّ بِ
 | jm. -frieden lassen | اَرْضَى &
 | sich -frieden geben | لَمْ يُنْعِبَ &
 | -friedenheit s. f. | سُرُورٍ | رَضِيَ ا
 | -frieren vn. | قِنَاعَةً | رِضَى | مَسْرَّةً
 | i | تَجَمَّدَ الْمَائِعِ بِالْبَرْدِ |
 | jm. | أَضَافَ هـ | -fügen va. etw.
 Schaden -fügen & u | ضَرَّ | jm.
 eine Beleidigung -fügen & | أَهَانَ |
 | -fuhr s. f. | نَقَلَ اَلْمَوْنَ وَالذَّخَائِرَ |
 | -führen va. jm. etw. | آتَى i & بٍ |
 Ḥug s. m. | اِرْتِحَالٍ | مُرُورٍ (Gang) |
 | (Prozession) | تَطَوُّفٍ | دَوْرَانَ |
 | (Luft-) | رِيحٍ | (Pferde) | دَوَابِّ |
 | (Eisenbahn-) | مَقْرُونَةٍ | - |
 | (feld-) | وَاِبُورٍ * | قَطْرَاتٍ u. قَطْرٍ |
 | (feder-) | غَزَوَاتٍ pl. | غَزَاةٍ |
 | آثارًا | تَقَاطِيعِ الْوَجْهِ (Gesichts-) |
 | وَاظْبَ عَلَى | im -e sein | السِّيْمَاءِ |
 | in einem - | اِنْقِطَاعٍ | in den

letzten Zügen liegen أَشْرَفَ عَلَى | نازع * | الموت

Zu-gabe s. f. إِحْطَاقٌ | زِيَادَةٌ | إِضَافَةٌ
-gang s. m. مَدْخَلٌ pl. مَدَاخِلُ
-gänglich a. لَيْسَ | سَهْلٌ | الْمَدْخَلُ
الجانب.

Zugbrücke s. f. قَنْطَرَةٌ | نَقَالَةٌ | تَرْتِفِعُ
وَتَنْحَدِرُ.

zu-geben va. jm. etw. إِضَافَ هِ إِلَى |
(er. | أَحَقَّ هِ بِ | ضَمَّ هِ إِلَى
lauben) | وَافَقَ هِ فِي | أَذِنَ لَهُ بِ |
- gegen حاضر | -gegen sein bei
- gehen | شَاهَدَ هِ | حَضَرَ هِ
(geschehen) u | حَدَّثَ هِ | حَصَلَ هِ
i | بَلَغَ هِ جِمْ. | -gehen jm. s a
s | وَصَلَ هِ | وَصَلَ هِ | وَرَدَ هِ
| كَانُ هِ لَهْ | -gehören vn. jm.
| كَانُ مِنْ حَقِّهِ | كَانُ مِنْ مُلْكِهِ
| خَاصٌّ بِ | تَابِعٌ لِ |
-gehörig a. | مُتَعَلِّقٌ بِ

Zügel s. m. الْجُمَّةُ u. الْجُمُ pl. لِحَامٌ
| عُنُنٌ pl. عِنَانٌ | أَزِمَةٌ pl. زِمَامٌ
jm. die - schießen lassen أَرْخَى
| عَادِمٌ | اللِحَامُ | -los a. | أَطْلَقَ هِ | الزِمَامُ
| أَمْسَكَ هِ | -u va. Pferd | مُطْلَقُ الْعِنَانِ
العَرَسُ بِالْعِنَانِ

zu-gefallen va. jm. jm. | أَشْرَكَ هِ فِي

سِ إِلَى | ضَمَّ هِ | sich jm. -gefallen
| رُخْصَةٌ | -geständnis s. n. | شَارَكَ هِ
| سَمَّاحٌ | jm. ein -geständnis machen
| رَخَّصَ لَهُ فِي | -gestehen va. jm.
| رَخَّصَ لَهُ فِي | -gethan a.
| مُتَعَلِّقٌ بِ | مُحِبٌّ

Zugführer s. m. رَئِيسُ الْقِطَارِ
فِيهِ رِيحٌ | -ig a.

zugleich adv. | جُمْلَةً | مَعًا |
سَوَاءً * | سَوِيَّةً *

Zugluft s. f. | رِيحٌ | -pferd s. n.
pl. كَدَيْشٌ * | بَرَاذِينٌ pl. | بَرْدُونٌ
| حَرَّاقَةٌ | -pflaster s. n. | كُدْشٌ

zu-greifen vn. u | أَمْسَكَ | أَخَذَ
| أَغْلَقَ هِ | -halten va. etw. | قَبَضَ هِ
| حَبِيبٌ | بَنَاتُ الْخَطَا | -hälter s. m.
| سَرَارِيٌّ pl. | سُرِّيَّةٌ | -hälterin s. m.
| أَنْصَتَ إِلَيْهِ | -hören vn. jm.
| مُنْصِتٌ | -hörer s. m. | أَصْغَى إِلَيْهِ
| السَّامِعُونَ | -hörer(schaft) s. f.
-jauchzen vn., -jubeln vn. jm.
| هَنَّا هِ | -knöpfen va.
| بَكَلَ هِ * | زَرَّ هِ | -kommen
vn. jm. s a | بَلَغَ هِ |
| وَرَدَ هِ | jm. etw. -kommen lassen
| أَرْسَلَ هِ | إِلَيْهِ | بَلَغَ هِ
| لَاقَ هِ | -kost jm. (gebühren) | بِهْ

- s. f. | خَضَرَ | خُضَارٌ * | بُقُولٌ | -funft
 s. f. | زَمَانٌ آتٍ | مُسْتَقْبَلٌ | in
 -funft | فِيمَا بَعْدَ | -fünftig a.
 das | قَادِمٌ | آتٍ | مُسْتَقْبَلٌ
 -fünftige Leben | الآخِرَةَ | -lächeln
 vn. jm. | كَاشَرَ | -lage s. f. (zu
 Gehalt) | زِيَادَةٌ (المُرْتَب) | -langen
 vn. i. | تَنَاوَلَ بِنَفْسِهِ أَطْعِمَةً | كَفَى |
 -länglich a. | كَافٍ | -länglich a. | السُّفْرَةَ
 -lichkeit s. f. | كِفَايَةٌ | -lassen va. jm. u. etw. | وَه
 | قَبِلَ | a | وَه | (erlauben) | أَدِنَ | a | ب
 | مُبَاحٌ | جَائِزٌ | مُمَكِّنٌ | قَبُولُهُ
 -lassung s. f. | قَبُولٌ | -lauf s. m. | زَحْمَةٌ
 | اِرْزِدْحَامٌ | -laufen vn. | اِنْصَبَّ نَحْوَهُ
 | أَوْصَلَ إِلَى | اِتَّصَلَ بِ | نَحْوَهُ
 -legen va. sich etw. | اِشْتَرَى | zu-nehmen vn. i. | زَادَ |
 | أَضَافَ | -legen etw. | نَالَ | a | ه | -neigen vn. i. | مَالَ |
 | فِي الْآخِرِ | أَخِيرًا | -lest adv. | أَغْلَقَ الْبَابَ |
 -machen va. | (Rock) | غَمَّضَ الْعُيُونَ | (Augen)
 | طَوَى | i | ه | (Brief, Buch) | زَرَّ | u | ه
 | قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ | -mal adv. | سَدَّ | u | ه | بِحَائِطٍ
 -mauern va. etw. | خُصُوصًا | لا سِيَّمًا | -meist adv.
 | قَدَّرَ | ه | لَهُ | -messen va. jm. etw.
- | أَخَصَّ | ه | -muten va. jm. etw.
 | طَلَبَ | u | ه | مِنْهُ | طَالِبٌ | ه
 -mutung s. f. | كَحَقِّقَ | مَطْلُوبٌ |
 -nächst adv. | أَوَّلًا | -nageln va.
 etw. | سَمَّرَ | ه | -nähen va. etw.
 | خَيَّطَ | ه | | خَاطَ | i | ه
 -nahme s. f. | زِيَادَةٌ | -name s. m. (Familien-
 name) | اِسْمُ الْعَائِلَةِ | (Beiname)
 pl. | لَقَبٌ |
 | أَشْعَلَ | ه | | أَشْعَرَ | ه | zünden va. etw.
 | اِضْطَرَمَّ | | اِشْتَعَلَ | vn. | أَضْرَمَ | ه
 Sünder s. m. | صُوفَانٌ * |
 s. m. | قَيْسٌ * |
 | اِسْتَحَاطَةٌ * | اِكْبَرِيَّتٌ * | Sünderholz s. n.
 pl. | اِسْتَحَاطَاتٌ | -loch s. n. (Der
 Kanone) | ثَقْبٌ اِلْمِدْفَعِ |
 | صُوفَانٌ * | -schwamm s. m. | فَالِيَّةٌ *
 | اِكْتَرَّ | u | | اِزْدَادٌ | زاد | zu-nehmen vn. i.
 -neigen vn. i. | مَالَ | -neigung s. f.
 | حُبٌّ | عَوَاطِفٌ | pl. | عَاطِفَةٌ | مَيْلٌ
 | مَحَبَّةٌ |
 | جَمَاعَةٌ اَصْحَابِ حِرْفَةٍ | Kunst s. f.
 | اَصْنَافٌ | pl. | جُنْفٌ |
 | تَابِعِ لِمَجَاعَةِ اَصْحَابِ حِرْفَةٍ | Kunst-
 | اِلْتِزَامٌ بِدُخُولِ فِي | zwang s. m.
 | جَمَاعَةِ اَصْحَابِ حِرْفَةٍ |
 | اَلْسِنَةٌ | pl. | لِسَانٌ | Zunge s. f.

- | لُغَات pl. لُغَةٌ | لِسَان (Sprache)
 | طَلِيقُ اللِّسَان | habend - lose eine
 | لُسُن pl. لُسْنَاء f. أَلْسَن | eine
 | اللِّسَان | habend - böse, giftige
 | اللِّسَان a دَلَع | die - ausstrecken
 | تَلَسَّن | Zungen-
 | اللِّسَان s. n. عَصَبَةُ | bändchen
 | اللِّسَان s. n. (Der Wage) | Zünglein
 | الميزان).
 | أَعَدَم ه | zu-nichtemachen va. etw.
 | أَثَر ه | nicken vn. jm.
 | بِرَأْسِهِ مُسَلِّمًا عَلَيْهِ |
 | سَلَّ u | zupfen va. Leinwand zc.
 | خَيْطَ الكَتَّان | - jm. bei den Haaren
 | سَفَع a ه | بالناصية
 | وَشَوْش ه لَهُ * | zuraunen va. jm. etw.
 | كَمَا يَنْبَغِي | جَيِّدًا | zurecht adv.
 | اِهْتَدَى بَعْدَ | finden v. sich
 | التَّيْه | - kommen vn. mit etw.
 | نَجَحَ a فِي | حصل u عَلَى | kommen
 | اتَّفَقَ مَعَهُ | legen va. mit jm.
 | -setzen | -machen va. etw.
 | أَعَدَّ ه | جَهَّز ه | sich - machen
 | اسْتَعَدَّ | تَجَهَّز | setzen va. etw.
 | رَتَّبَ ه | أَصْلَحَ ه | jm. den Kopf
 | -weisen va. jm. | وَبَّغَ ه
 | هَدَى i ه | أَرشَدَ ه | (tadeln)
- | وَّبَّغَ ه | -weisung s. f. | اِرْشَاد | لَوْم |
 | تَوْبِيغ |
 | حَتَّ u عَلَى ه | zu-reden vn. jm.
 | حَمَلَ i ه عَلَى | حَرَضَ ه عَلَى |
 | -reichen va. jm. etw. | قَدَّمَ ه لَهُ |
 | -reichend | كَفَى i | vn. (genügen)
 | -reiten va. Pferd u | رَاضَ a. |
 | رَوَّضَ ه | الفَرَس | -richten va. etw.
 | -Speisen | - | أَعَدَّ ه | جَهَّزَ ه |
 | طَبَخَ u الطَّعَام | jm. | -richten |
 | -riegeln va. | ثَمَر | بِسُوءِ |
 | أَغْلَقَ البَابَ المِترَس |
 | حَنَقَ a مِنْهُ | zürnen vn. jm.
 | عَلَيْهِ |
 | إِلَى الخَلْفِ | إِلَى الوَرَاء | zurück adv.
 | - | interject. | - | كان مُتَأَخِّرًا |
 | -beben vn. | إِلَى اليك عَنِّي | اِرْجَعْ |
 | تَقَوَّلَ رَجَعَ i إِلَى الوَرَاء مُرْتَعِدًا |
 | أَبْقَى ه عِنْدَهُ | - behalten va. etw.
 | تَأَخَّرَ | بَقِيَ a | - bleiben vn.
 | رَجَعَ i ب | - bringen va. etw.
 | -denken vn. an | أَعَادَ ه | اِرْجَعْ ه |
 | تَذَكَّرَ ه | ذَكَرَ u ه | -drängen va.
 | بِالرُّجُوعِ إِلَى الوَرَاء | اَجْبَرَ ه | etw.
 | إِلَى الوَرَاء | رَجَعَ i | -fahren vn.
 | إِلَى الوَرَاء | وَقَعَ a | -fallen vn. | فُجَاءَةً |
 | -fordern va. etw. | عاد u | رَجَعَ i

vn. (Wasser) رَجَعَ i إِلَى الْوَرَاءِ |
 | -tragen va. etw. ه | أَعَادَ ه | (الماء)
 | دَفَعَ s a | -treiben va. jn. ه | أَرْجَعُ ه
 | تَقَهَّرَ | von | طَرَدَ u ه |
 | -treten vn. |
 | -treten |
 | -verlangen vn. |
 | رَغِبَ |
 | -weichen vn. |
 | رَجَعَ i إِلَى الْوَرَاءِ |
 | رَفَضَ u ه |
 | -werfen |
 | رَفَضَ |
 | -wirken |
 | رَدَّ u |
 | -zahlen |
 | رَدَّ u مَبْلَغًا |
 | -ziehen va. etw. ه |
 | رَجَعَ i |
 | -gezogen |
 | مُنْفَرِدًا |
 | تَهْلِيلًا * |
 | -ruf wählen |
 | بِالتَّهْلِيلِ |
 | دَعَا u لَهُ |
 | -rüsten va. etw. |
 | نَادَى ه |
 | -rüstung s. f. |
 | إِسْتَعْدَادًا |
 | -fagen s. f. |
 | إِجَابَةَ الْطَّلَبِ |
 | -fagen |
 | وَعَدَّ |
 | -fagen |

vn. jn. | وَعَدَّ ه بِالْحُضُورِ |
 | -fagen jn. (gefallen) |
 | أَعْجَبَ ه |
 | جُمْلَةً |
 | -arbeiten vn. |
 | سَوَاءً * |
 | سَوِيَّةً * |
 | شَارَكَ ه فِي الْعَمَلِ |
 | -brechen vn. |
 | سَقَطَ u |
 | -drängen va. etw. |
 | ضَائِقًا ه |
 | حَصَرَ u ه |
 | حَصَرَ u ه |
 | اِرْتَعَدَ |
 | سَقَطَ u |
 | نَحِيفًا |
 | اِتَّفَقَ مَعًا |
 | أَجْمَلَ ه |
 | اجْتَمَعَ |
 | اِلْتَقَى |
 | غَزَارَةً |
 | جَمَعَ a يَيْنَ |
 | وَصَلَ i ه |
 | جَمَعَ a ه |
 | كَلَّلَ ه * |
 | زَوْجًا ه |
 | اِتَّفَقَ |
 | شَاحِرًا ه |
 | -setzen |
 | اِتَّفَقَ |

etw. ه | أمسك ه | etw. -halten mit
(vergleichen) ه | قابل ه | -halten
vn. ه | التصلق بعضه ببعض
s. m. ه | ارتباط | اقتران | التجماع | ارتباط
-hängen vn., -hängen
vn. ه | ارتبط | التصلق | التجماع
-kommen vn. ه | اتصل
| ملاقات | التقاء s. f. | اجتمع
-laufen vn. ه | اجتمع | مقابلة
| تجبى (Milch) | اجتمع | التقى
-leben vn. ه | عاش معا | -legen
va. etw. ه | طوى (Geld) a
-mengen va., -mischen
va. etw. ه | خلط ه | -nehmen va.
etw. ه | احتوى على | اشتمل على
die Gedanken -nehmen ه | اعنتى
sich -nehmen ه | وسعه | بدل ه |
-passen va. etw. ه | حزم ه | -passen
va. etw. ه | طابق بين
va. etw. ه | i, u | حصر ه |
-pressen va. etw. ه | ضيق
ه | i, u | شد ه | -raffen va.
etw. ه | u | لم ه | -rechnen
va. ه | جمع a | الأعداد |
ه | u | آجل ه | -rollen va. etw. ه
| التفف | sich -rollen ه | i
| اجتمع | -rotten v. | انطوى

اقترب | -rücken vn. | لشورة
| تدانى | -rufen va. | تدارب
| امر ه | بالاجتماع | دعا ه
| -schießen va. etw. ه | i | هدم
دفع ا (Geld) | بإطلاق المدافع
جمع ا ه | -schlagen va. etw. ه
| حصته | طوى ه | i | ه |
| بالضرب | (-legen) ه |
| جمع a | الأراضى | -schlagen
Güter -schlagen vn. über jm. (Wellen)
-schlagen vn. über jm. (Wellen)
-schmelzen va. | أغرقت ه |
| الأمواج | -schmelzen
va. | المعادن | -schmelzen
vn. | بلد. | بالسبك
-schmieden va. | قل ه | i
| صغر ه | u | -schmieden
va. etw. ه | ألم ه | -schumpfen
vn. | تفلص | تشنج | تقبض
-schweißen va. etw. ه | ألم ه
| ألف ه | ركب ه | -setzen
va. etw. ه | ركب ه |
-setzung s. f. | تركيب |
-stecken va. etw. ه | a | جمع
| die Köpfe -stecken
-stecken vn. | توشوش * |
تهامس | ركب ه | -stellen
va. ه | اتحد | اتفق
(vergleichen) ه | قابل ه
-stimmen vn. | اتفق
-stoppeln va. | Buch
| صدم ه | جمع a | نبدا
| صدمة | ein -stoß
pl. | مصادمة |
-stoßen vn. mit jm. u.

etw. ه و ه | تَلَاطَمَ | تَصَادَمَ | صَادَمَ ه و ه
 (angrenzen) | اتَّصَلَ - | -stürzen
 vn. u | سَقَطَ | - | thun v. sich
 اجْتَمَعَ | اتَّحَدَ | -tragen va. etw.
 ه a | جَمَعَ | -treffen vn. (Per-
 sonen) | التَّقَى | اتَّقَى | (Um-
 stände) | اتَّفَقَ مَعًا | -treffen s. n.
 اتَّقَى | التَّقَاءُ | مُلَاقَاةٌ | لِقَاءٌ
 vn. | اجْتَمَعَ | اتَّحَدَ | -wachsen
 vn. | اتَّحَدَ | اتَّحَدَ (نبات) | -werfen va.
 etw. ه u | خَلَطَ | جَمَعَ | ه a
 | خَرَّبَ | -wirken vn. mit jm.
 | -arbeiten | -zählen va. | جَمَعَ | الأَعْدَادُ
 | حَصَرَ | شَدَّ | ه u | حَصَرَ
 | أوْجَرَ | ه | i, u | حَصَرَ
 | جَمَعَ | الجُنُودُ | sich
 | تَقَبَّضَ | -ziehung s. f.
 | تَشَنَّجَ | (von Truppen)
 | جَمَعَ | الجُنُودُ .

zu-samt praep. c. dat. | مَعَ | -|atß
 s. m. | زيادات pl. | زيادة | إضافة
 | | Chancen va. jm. etw. | | إلْحَاقُ
 | | آفَازَ | ب | | أَنَالَ | ه
 | | نظر | einer Sache u | | نظر
 | | تَطَّلَعَ فِي | عَابَنَ | ه | | إِلَى
 | | ناظر | s. m. | | لَاحَظَ | ه و ه

حاضر | شاهد عياني | نُظَارَ | pl.
 | | حَضَارَ | - | schicken va. jm. etw.
 | | أَرْسَلَ | ه | إِلَيْهِ | - | schicken va. jm.
 | | نَسَبَ | ه | إِلَيْهِ | i, u | - | schießen
 va. etw. ه | | أَضَافَ | ه | - | schlagen s. m.
 | | زيادات pl. | زيادات | (bei Ver-
 steigerung) | | القَضَاءُ بِالشَّيْءِ | - | schlagen va.
 | | أَغْلَقَ | البابَ بِقُوَّةِ | Thür
 | | قَضَى | لَهُ فِي مُلْكِهِ | - | schlagen
 etw. | | ضَرَبَ | - | schlagen vn. i
 | | ضَرَبًا شَدِيدًا | - | schließen va. Thür
 | | أَغْلَقَ | البابَ بِالمِفْتَاحِ | - | schnallen
 va. etw. | | ضَبَطَ | ه | بِالْإِزْرِيمِ | i, u
 | | بَكَلَ | ه | * | - | schneiden va. Kleid
 | | فَصَلَ | الثُّوبَ | - | schnitt s. m.
 | | تَقَصَّيْلَ | الثُّوبِ | - | schnüren va.
 etw. | | شَدَّ | ه | بِخَيْطِ قُنْبٍ | jm.
 | | حَنَقَ | ه | u | - | schnüren s. f.
 die Kehle | | ضَبَطَ | ه | i, u | - | schrauben va. etw.
 | | بِالبِرَاقِي | - | schreiben va. jm. etw.
 | | نَسَبَ | ه | إِلَيْهِ | i, u | - | schreien vn.
 | | رَسَالَةً | س. f. | حَنَقَ | لَهُ | ه | jm.
 | | رَسَائِلَ | - | schuß s. m. | زيادة | pl.
 | | كَبَسَ | i | - | schütten va. Brunnen
 | | البِئْرَ | - | schwören va. jm. Freund-
 | | عَاهَدَ | ه | بِحِفْظِ | الوداد | - | sehen

vn. jm. u. einer Sache إلى u نظر |
 | اطلع على | تطلع في | عاين ه
 (recht geben) | بالى ب (warten)
 | ظاهرًا | -sehends adv. | انتظر
 | -senden va. jm. etw. | جهارًا
 | -sendung s. f. | أرسل ه إليه
 | -setzen va. etw. | المرسل | إرسال
 | -setzen vn. | الحق ه | أضاف ه
 | أزعج ه ب | ثقل عليه * | jm. mit
 | وعد ه ب | -sichern va. jm. etw.
 | وعود pl. وعد | -sicherung s. f.
 | حد ه | سنن ه | -spitzen va. etw.
 | احتد | sich | -spitzen
 | قضى | -sprechen va. jm. etw. | قضى
 | نصح | -sprechen jm. a | له في ملكه
 | حث | jm. Mut | حث ه على | له
 | شجع ه | -sprechen | jm. Trost
 | سلى | -sprechen | einer Speise
 | أكل ه | -spruch | u ه بذوق
 | نصيحة | نصيحة | تحريض | s. m.
 | حال pl. | -stand s. m. | زبارة
 | حالات pl. | حالة | الأحوال
 | من له | -ständig a. | شؤون pl.
 | متعلق ب | الحق في القضاء
 | خاص | -ständigkeit s. f. | تابع
 | المحكمة | خاصة المحكمة
 | -statten kommen | حق المحكمة

jm. | -stecken va. jm. | نفع له ا
 | -stehen | أعطى ه ه خفيته | etw.
 | لاقى به | كان من حقه | vn. jm.
 | -stellen va. jm. etw. | سلم ه إليه
 | -stellung s. f. | تسليم | -stimmen
 | وافق ه رأيًا | -stimmung | vn. jm.
 | موافقة الرأي | -stichsan | s. f.
 | رضى | -stopfen va. etw. | قبول
 | سد ه | -stoßen vn. jm. u | حصل ه
 | جرى له | -strömen vn. | -fließen | -stülpen
 | غطى ه | -stutzen va. jm. | va. etw.
 | هدب ه | -stutzen etw. | آدب ه
 | صنع ه | -teilen va. | صور ه
 | أعطى ه حصته | jm. etw. | وزع ه
 | كواك | -that s. f. | قدر ه له
 | مواد pl. | -thulich | مادّة | أو طعام
 | لطيف | -thulichkeit s. f. | أنيس ا
 | لطفه | -thun etw. | أضاف ه | لطافة
 | غمض العين (kluge) | -gethan jm.
 | متعلق به | -thun s. n. | محب
 | عمل | es ist ohne mein | -Mشاركة
 | -thun geschehen | لم تكن يدي في
 | -tragen va. jm. etw. | الأمر
 | -tragen u | -tragen | sich | أخبر ه ب
 | -träger s. m. | حدث | u | جرى
 | -trägerei | نمام | وشارة pl. | واثي

s. f. وَشَى | -truglich a. نَافِع |
-truglichkeit s. f. نَفْع | -trauen
va. jm. etw. طَنَّ u | طَوَّقَ ه |
ثِقَّة | -trauen s. n. قَادِرًا عَلَى |
إِعْتِمَاد | zu jm. -trauen
haben اِعْتَمَدَ عَلَيْهِ | -traulich a.
-traulichkeit s. f. مُوَالِف |
مُوَانِس | -treffen vn. مُوَالَفَةٌ |
مُوَالِفَةٌ | -treten vn. zu etw. u حَصَلَ |
صَحَّ | i حَصَلَ |
-trinken vn. jm. زَبَادَةٌ عَلَى |
دُخُول | -tritt s. m. شَرِبَ |
بِسْرِهِ | -verlássig a. (Person) اَمِين |
-verlássigkeit s. f. اَمِين |
اَمِين | (Sache) اَكِيد |
اَكِيد | -versicht s. f. اِتِّكَال |
اِتِّكَال | -versichtlich a. ثَابِت |
ثَابِت | -viel اِتِّكَال |
اِتِّكَال | -vor adv. مُفْرَط |
مُفْرَط | فَايُض | زَائِد |
أَوَّلًا | -vörderst adv. سَابِقًا |
سَابِقًا | -vorkommen vn. اِتِّكَال |
اِتِّكَال | -vorkommend
jm. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
a. مُبَادِرٍ بِاِلْاِكْرَامِ مَعَ بَشَاشَةٍ |
-vorkommenheit s. f. بَشَاشَةٌ |
بَشَاشَةٌ | -vorthun, es jm. اِتِّكَال |
اِتِّكَال | -vorthun in اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
s. m. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
-wálzen va. jm. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
اِتِّكَال | -wandern vn. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |

اِتِّكَال | -wegeben va. etw. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
-weifen adv. اِحْيَانًا |
اِحْيَانًا |
-weifen va. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
jm. etw. اِعْطَى |
اِعْطَى |
va. jm. etw. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
-werfen va. jm. etw. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
jm. Blicke -werfen اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
die Thür -werfen اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
jm. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
-wider sein ه |
ه |
-widerhandeln vn. dem
Befehl اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
jm. f. a |
a |
-ziehen va. jm. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
zu اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
Vorhang -ziehen اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
sich etw. -ziehen ه |
ه |

قرص u | قرز i ه |
قرص u |
قَسْر | غَضَب | جَبْر |
جَبْر |
jm. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
- anthun f. zwingen.

zwängen va. etw. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
زاحم ه |
زاحم ه |

zwang-los a. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
اِتِّكَال |
a |
a |
a |
a |

zwanzig num. اِتِّكَال |
اِتِّكَال |

الجُزء s. n. | -stel | العِشْرُونَ
العِشْرُونَ.

zwar conjct. | نَعَم | حَقِيقَةً.

zweck s. m. | أَغْرَاض pl. | غَرَض

| مُرَاد (Zielficht) - | أَهْدَاف pl.

| بِلا فائِدَة - ohne | قَصْد | غَايَة

| أَخْطَأَ الغَرَض | verfehlen - den

| نَافِذ | مُنَاسِب a. | -dienlich

| -los a. | غَيْر نَافِع | فاعِل

| -mäßig a. | عَدَم النِّفَع s. f.

| -mäßigkeit s. f. | مُوَافِق

| -widrig a. | مُوَافَقَة | مُنَاسِبَة

| ضَارٌّ | مُضِرٌّ.

zwei num. | اثْنَتَان f. | اثْنَان

| ذُو | -deutig a. | ذُو رِجْلَيْن a.

| -deu- | مُبَيِّن | مُلْتَبِس | مُعْنِيَيْن

| -figkeit s. f. | اِبْتِهَام | اِلْتِبَاس

| -erlei | -fach a., -fältig

a. | مُضَاعَف.

zweifel s. m. | شُكوك pl. | شَك

| شُبُهَة pl. | اِرْتِيَاب | رَيْب

| لا رَيْب | بِلا شَك - ohne | اِسْتِثْبَاح

| اَنْكَر | in - ziehen etw. | فِيهِ

| مَشْكُوك (Sache) | -haft a. | حَقِيقَتُهُ

| حَيْرَان (Person) | مُرْتَاب بِهِ | فِيهِ

| -n | لا شَك فِيهِ | -los a. | مُتَحَيِّر

| اَتَشَكُّك فِي | شَك u | فِي | vn. an etw.

اِرْتِيَاب فِي | -sucht s. f. | اِرْتَاب فِي

| مُتَشَكِّك a. | -füchtig | كَلَّ شَيْء

| فِي كَلَّ شَيْء

zweig s. m. | فُرُوع pl. | فَرْع

| شُعَب pl. | شُعْبَة | أَغْصَان pl.

| auf einen grünen - | شِعَاب

| kommen a. | نَجَح.

zwei-händig a. | ذُو يَدَيْن

| مُبَارَزَة s. m. | -kampf | مِثْنَان num.

| zum -kampf herausfordern

| sich im -kampf | طَلَب u | لِلْمُبَارَزَة

| -köpfig | بارَز | بارَزَ u | schlugen mit jm.

| مَرَّتَان | -mal adv. | ذُو رَأْسَيْن a.

| -malig a. | مُكْرَّر | -master s. m.

| -schläferig | مَرْكَب ذُو صَارِيَيْن

| a., -es Bett | شَخْصِيَيْن | سَرِير لِأَجَل

| -schneidig a. | ذُو حَدَّيْن | قَاح bld.

| -seitig a. | ذُو طَرَفَيْن | فِي شَخْصِيَيْن

| -stimmig a. | -es Lied | قَصِيدَة يُعْنَى

| -stödig a. | -es Haus | بِهَا اِثْنَان

| -tausend num. | اِرْتَاب | اِرْتَابِيَيْن | دار ذات طَبَقَتَيْن

| ثَانِيَة f. | ثَانٍ | -te a. | اَلْغَان

| -tens adv. | ثَانِيًا | -zünftig a. | ذُو

| لِسَانِيَيْن.

zwerchfell s. n. | الحِجَاب الحَاجِز

| jm. | حَاجِز بَيْنَ الصَّدْرِ وَالْبَطْنِ

| das - erschüttern u | أَضْحَكَ.

Zwerg s. m. زَعْنَفَةٌ | رُجَيْلٌ pl.
 | زَعَانِفٌ | قَصِيرُ الْقَدِّ | -palme s. f.
 bot. | شَجَرَةُ الْمَقْلِ | خِضْلَانٌ
 pl. | أَوْقَالٌ.

Zwetsche s. f., Zwetschge s. f. f.
 Pflaume.

Zwickel s. m. قِطْعَةٌ مُلَسَّنَةٌ مِنْ
 الْقَمَاشِ.

zwischen va. ju. u. i | قَرَضَ u. | قَرَزَ i
 | نَوْعٌ مِنَ النَّظَارَةِ | Zwicker s. m.

Zwieback s. m. بَقْسَمَاتٌ.

Zwiebel s. f. | eine - | بَصَلٌ coll.
 | عاملٌ u. | -n va. ju. vulg. | بَصَلَةٌ
 | بِسُوٌّ.

zwei-fach a., -fältig a. f. zweifach |
 -gespräch s. n. | مُحَادَثَةٌ | مُحَاوَرَةٌ
 | -spalt | شَفَقٌ s. n. | -licht s. n. | مُكَالِمَةٌ
 s. m. | -spältig | إِخْتِلَافٌ | شِقَاقٌ s. m.
 a. | -sprache | مُتَنَافِرٌ | مُخْتَلِفٌ
 s. f. f. | -gespräch | -tracht s. f.
 | -trächtig | إِخْتِلَافٌ | شِقَاقٌ
 a. | مُخْتَلِفٌ.

Zwillich s. m. نَسِيحٌ كَتَّانٌ مَشْدُودٌ.

Zwilling s. m. | توَامَةٌ f. | توَامٌ pl.
 | توَامٌ u. | توَامٌ.

zwingen va. ju. zu | أَلَزَمَ u. | zwischern vn. u. غَرَّدَ | غَرَّدَ.

ge- | اضْطَرَّ u. | ب | أَجْبَرَ u. | عَلَى
 zwungen a. | مَقْهُورٌ | مُتَكَلِّفٌ
 adv. | غَضَبًا | Swinger s. m.
 | مَكَانٌ مُحَوَّطٌ | Zwingherrschaft s. f.
 | جَوْرٌ | ظُلْمٌ.

zwinfern vn. (mit den Augen) غَمَّضَ
 الْعُيُونَ.

Zwirn s. m. خَيْطٌ.

zwischen praep. c. dat. u. acc.
 | بُرْهَةٌ s. m. | -aft | ما بَيْنَ | بَيْنَ
 | -deck s. n. | بَيْنَ مَشْهُدَيْنِ
 | طَبَقَةٌ بَيْنَ جِسْرَيْنِ فِي مَرْكَبٍ
 | -fall s. m. | حَادِثٌ عَارِضٌ | -ge-
 richt s. n. | نَقْلٌ فِي وِلِيْمَةٍ pl.
 | عَمِيْلٌ s. m. | -händler | نَقُولٌ
 pl. | -raum s. m. (Zeit) | عَمَلَاءُ
 | مُدَدٌ pl. | بُرْهَةٌ بَيْنَ عَمَلَيْنِ
 | ما بَيْنَ شَيْئَيْنِ | مَسَافَةٌ (Ort)
 | -rede s. f. | أَوْسَاطٌ pl. | الوَسَطُ
 | -regierung s. f. | مُقَاطَعَةُ الْكَلَامِ
 | -träger s. m. | خُلُوُّ الْكُرْسِيِّ الْمَلِكِيِّ
 | بُرْهَةٌ s. f. | -zeit | وَشَاةٌ pl. | وَاشٍ
 | بَيْنَ عَمَلَيْنِ.

Zwist s. m., -igkeit s. f. | شِقَاقٌ |
 | إِخْتِلَافٌ.

Zwitter s. m. خُنْثَى pl. خِنَاث
u. خِنَاثَى.

zwölf num. اِثْنَا عَشَرَ f. اِثْنَتَا
عَشْرَةَ | -te a. ثَانِي عَشَرَ f. ثَانِيَّة
عَشْرَةَ | -tel s. n. الْجُزْءُ الثَّانِي

عَشْر | -tens adv. فِي الْمَحَلِّ
الثَّانِي عَشْر.

Zyklus s. m., Zylinder s. m., Zymbel
s. f., Zypresse s. f. f. Cyklus,
Cylinder, Zymbel, Zypresse.

10
11
12

Stanford University Libraries



3 6105 118 043 087

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.

DATE DUE

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

